



طبقات ابن سعد

جلد اول

مُصَنَّفٌ
مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ
(المتوفى ۲۳۰ھ)

کتابخانه اوراق



نقش اکبر آبادی طبری

طبقات ابن سعد

حصہ اول

اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مفصل تذکرہ، محققانہ اور مورخانہ انداز کا شاہکار
غزوات و سرایا کا تفصیل کے ساتھ جامع بیان

سرور کائنات کا مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کرانے کی تفصیل اور مرض
الموت اور وفات تک کے حالات، آخر میں حضرت ابو بکر صدیق، عبداللہ بن انس،
احسان بن ثابت، کعب بن مالک، اروی بنت عبدالمطلب، عاتکہ بنت زید رضی اللہ عنہم
کے محبت اور درد میں ڈوبے ہوئے مراثی بھی شامل کر دیئے گئے ہیں۔

مُصَنَّف

محمد بن سعد (المتوفی ۲۳۰ھ)

تَرْجُمہ

علامہ عبداللہ العماوی رحمہ

نقیس اکیسی
اُردو بازار، کراچی

طبقات ابن سعد

کے اردو ترجمہ کے دائمی حقوق طباعت و اشاعت

چومہدری طارق اقبال گامہندری

مالک ”نفیس“ اکیڈمی محفوظ ہیں

نام کتاب طبقات ابن سعد (حصہ اول)

مصنف علامہ محمد بن سعد المتوفی ۲۴۰ھ

مترجم علامہ عبداللہ العمدادی مرحوم

اصنافہ عنوانات و حواشی مولانا عبدالمنان صاحب

ناشر نفیس اکیڈمی اردو بازار - کراچی

قیمت /- روپے

طبقات ابن سعد

تکمل آٹھ حصوں میں

حصہ اول	اخبار النبی ﷺ
حصہ دوم	اخبار النبی ﷺ
حصہ سوم	سیرت خلفاء راشدین
حصہ چہارم	مہاجرین و انصار
حصہ پنجم	تابعین و تبع تابعین
حصہ ششم	کوفی کے صحابہ و تابعین
حصہ ہفتم	دور آخر کے صحابہ و تابعین و فقہاء
حصہ ہشتم	صالحات و صحابیات

ہر حصہ الگ الگ بھی دستیاب ہے۔

نفیس اکیڈمی
اردو بازار، کراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عظیم الشان کتاب کا تعارف

از چوہدری محمد اقبال سلیم گاہندری

ابو عبد اللہ محمد بن سعد البصری المتوفی ۲۴۰ھ کی شہرہ آفاق کتاب ”طبقات الکبیر“ یا ”الطبقات الکبریٰ“ جس کا اردو ترجمہ اس وقت آپ کے سامنے پیش ہے۔ تذکرہ رجال کی قدیم ترین چند کتابوں میں سے ایک مہتمم بالشان کتاب ہے۔ نہ صرف اس لئے کہ یہ ایک بہت ہی وسیع تذکرہ ہے اور ایسے جزئی واقعات پر بھی اس کا احاطہ ہے جن کے ذکر سے دوسری کتابیں خالی ہیں۔ بلکہ اس لئے بھی اس کتاب کا بہت ہی عظیم الشان مرتبہ ہے کہ اس کتاب کا مصنف دور ہارون الرشید و مامون الرشید کا عالم ہے اور اس نے تذکرہ نویسی کے قدیم اصولی کے مطابق اپنے ہر بیان کے لئے چشم دید شاہدوں کے بیانات اسناد کے ساتھ بیان کئے ہیں۔ ایک تو مصنف کے زمانے کی عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت اور دوسرے بیان میں ذکر اسناد کی شرط نے اس کتاب کو زمانہ مابعد کے اہل علم و تحقیق کے لئے ایک خزانہ علم بنا دیا۔ اور ہر زمانے کے علماء نے اس کتاب کو آنکھوں سے لگایا۔

یہ کتاب ۲۰۷ھ اور ۲۲۷ھ کے درمیان تقریباً بیس سال کے عرصہ میں لکھی گئی۔ قیاس ہے کہ یہ کتاب مصنف نے اپنے استاذ الوائدی کی وفات کے بعد لکھنی شروع کی ہوگی اور اس وقت ابن سعد کی عمر چالیس سال سے متجاوز ہو گئی ہوگی۔

یہ کتاب بغداد میں لکھی گئی اور ظاہر ہے کہ عربی زبان میں لکھی گئی تھی۔ اور یہی کتاب کیا سب ہی کتابیں عربی زبان میں لکھی جاتی تھیں۔ دنیا میں یہی وہ زبان تھی جو قرآن حکیم کی زبان ہونے کا شرف رکھنے کے ساتھ ساتھ دنیا کی سب سے بڑی علمی و ادبی زبان کا درجہ رکھتی تھی۔ قدیم زبانوں کا دور اقبال مندی ختم ہو چکا تھا اور زمانہ مابعد میں علمی زبان کا مرتبہ حاصل کرنے والی زبانیں ابھی پیدا نہیں ہوئی تھیں۔

مصنف کے زمانے ہی میں اہل ذوق نے اس کی نقلیں حاصل کر لی تھیں اور مصنف کے بعد تو اس کثرت سے اس کی نقلیں علماء اور محققین نے تیار کیں کہ حروب صلیبیہ اور اس کے بعد ہلاکو خاں کے ہاتھوں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ہی بڑے بڑے کتب خانوں کی تباہی کے باوجود اس کتاب کے مکمل و نامکمل نسخے دنیا کے مختلف کتب خانوں میں محفوظ رہ گئے اور آج تک موجود و محفوظ ہیں۔

طباعت کا جب دور آیا تو اس کتاب کی طباعت کا خیال مختلف دماغوں میں پیدا ہوا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اتنی بڑی کتاب کی طباعت و اشاعت کوئی آسان کام نہ تھا۔ اگرچہ ۱۷۹۷ء میں عربی کا مطبع مصر میں قائم ہو چکا تھا۔ اور اس کے بعد عربی زبان کے مطابع سب ہی جگہ قائم ہو گئے تھے۔ لیکن اس بے مثال کتاب کی اولین اشاعت کا فخر شہر آگرہ کو حاصل ہوا۔ اس کتاب کا ایک حصہ ۱۲۰۸ھ بمطابق ۱۸۹۱ء میں آگرہ سے چھپ کر شائع ہوا۔ یہ کام جاری نہ رہ سکا اس کے بعد ۱۳۲۲ھ میں جرمنی کے دو

مستشرقین مسٹر بروکلمان اور مسٹر سخاؤ نے ایک لاکھ روپے کی سرکاری امداد سے اس کتاب کی طباعت اور پروف خوانی کا کام شروع کیا جو برسوں تک ہوتا رہا۔ اور اس کتاب کے آٹھ حصے چھپ کر تیار ہوئے۔ اس کے بعد اور بہت دنوں بعد مکتبہ صادر بیروت نے طبقات ابن سعد بہت خوبصورتی سے شائع کیا۔

اس عظیم الشان ماخذ تاریخ و تذکرہ کو اردو زبان میں ترجمہ کرنے کا خیال بھی انیسویں صدی کے اواخر میں پیدا ہو چکا تھا۔ لیکن کتاب کی ضخامت اور اس کی وسعت کو دیکھتے ہوئے اس کی طباعت و اشاعت کی ہمت کوئی نہ کر سکا۔ بالآخر دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن نے اس کے پانچ عربی حصوں کا اردو ترجمہ مولانا عبداللہ العمازی سے کرا کر شائع کیا (۱۹۴۳ء) اور آخری تین حصوں کا اردو ترجمہ ہم نے مولانا نذیر الحق صاحب میرٹھی سے کرایا ہے۔ اب یہ علمی شاہکار پہلی دفعہ مکمل شائع ہو رہا ہے۔ مجھے اُمید ہے کہ جس طرح ہماری دوسری کتابیں ملکہ بھر میں مقبول ہوئیں اور شائقین علم و ادب نے جس فراغ دلی سے ہماری کتابوں کی اشاعت میں ہمارا ہاتھ بٹایا ہے اسی طرح طبقات ابن سعد کی توسیع اشاعت میں بھی میرے معاون ثابت ہوں گے۔ سچ تو یہ ہے کہ ان معاونین کے تعاون نے ہی مجھے اتنی بڑی بڑی ضخیم کتابوں کی اشاعت کی ہمت دلائی ہے میں اپنے ان سرپرستوں کا دل سے شکر گزار ہوں۔ میرے کرم فرماؤں کے اشتراک عمل سے ہی یہ انمول علمی خزانے زیور اشاعت سے آراستہ ہو سکے۔

ہم نے نفیس اکیڈمی سے تاریخ ابن خلدون اور تاریخ طبری جیسی ضخیم کتابوں کے ترجمے شائع کرنے کی جو ہمت کی تو یہ تقاضا ہوا کہ طبقات ابن سعد کے مکمل اردو ترجمے کی اشاعت کا شرف بھی ہمیں ہی حاصل ہونا چاہئے۔ کتاب بڑی ضخیم اور کام بہت مشکل تھا۔ ترجمہ پر نظر ثانی اور اس کے بعد اچھی کتابت و طباعت سے مزین کر کے کتاب کا شائع کرنا اس دور گرانی میں کس قدر مشکل کام تھا۔ لیکن کوئی مشکل ایسی نہیں جو خدائے بزرگ و برتر کی توفیق و امداد سے سر نہ کر لی جائے۔ خدا کا شکر ہے کہ آج ہم اس ہتم بالشان کتاب کو اردو زبان میں اہل علم و تحقیق کی خدمت میں حسب ذیل آٹھ حصوں میں شائع کرنے کا فخر حاصل کر رہے ہیں۔

طبقات ابن سعد (مکمل آٹھ حصوں میں)

ترجمہ: عبداللہ العمازی

اخبار النبی ﷺ

حصہ دوم

اخبار النبی ﷺ

حصہ اول

مہاجرین و انصار

حصہ چہارم

سیرت خلفائے راشدین

حصہ سوم

اصحاب کوفہ (ترجمہ مولوی نذیر الحق میرٹھی)

حصہ ششم

تابعین و تبع تابعین

حصہ پنجم

صالحات و صحابیات

حصہ ہشتم

دور آخر کے صحابہ تابعین و فقہاء

حصہ ہفتم

(۲۲۱ تک کی خواتین اسلام کے حالات زندگی)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ لَوْفَا

مولانا سید عبدالقدوس ہاشمی

مسلمانوں نے قرآن مجید کے احکام کی صحیح تعمیل کے لئے خود قرآن ہی کے حکم کے بموجب رسول اللہ ﷺ کے ہر قول، ہر فعل اور ہر شان کو یاد رکھے اور اسے آنے والی نسلوں تک پہنچانے کا ایسا عظیم الشان اہتمام کیا کہ اس کی کوئی دوسری مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی اس طرح انھوں نے ہر چھوٹے سے چھوٹے واقعے کو اور معمولی سے معمولی بات کو محفوظ رکھا اور کیوں نہ محفوظ رکھتے جبکہ صحیح معنوں میں مکمل اور ہر پہلو سے مکمل شخصیت اس کرۂ ارض پر صرف محمد رسول اللہ ﷺ ہی ہیں۔ غور سے دیکھئے بڑے سے بڑا آدمی صرف ایک یاد و پہلو سے یا ایک یاد و اعتبار سے ہی بڑا اور عظیم المرتبت آدمی نظر آئے گا۔ اگر اسی عظیم المرتبت آدمی کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو دیکھئے تو نقص اور ایسا نقص نظر آئے گا کہ حیرت ہوگی۔ ایک بہت بڑا روحانی پیشوا عدالت کے لئے اچھا عادل یا جہاد کے لئے اچھا امیر العسا کر کہاں ملتا ہے۔

اس کے برخلاف خداوند تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو ہر اعتبار سے ایک مکمل انسان بنایا تھا اور دنیا کو حکم دیا تھا کہ ان کی اتباع کرو۔ ان ہی کی ذات میں اسوۂ کاملہ ملے گا گویا یوں سمجھئے کہ اسوۂ کاملہ ایک اور صرف ایک ہے باقی صاحب کمال سب کے سب ایک پہلو سے کامل اور دوسرے پہلو سے ناقص ہیں۔

یہ تھا وہ حقیقی سبب جس کی وجہ سے ساری امت اسلامیہ رسول اللہ ﷺ کی سنت کو محفوظ رکھنے پر مائل تھی اور آپ کی ایک بات کو یاد رکھتی تھی۔ استاد اپنے شاگردوں کو اور باپ اپنے بیٹوں کو اس کی تعلیم دیا کرتے تھے حتیٰ کہ دو ڈھائی سو سال تک مسلمانوں میں لفظ علم صرف حدیث کے لئے مخصوص تھا اور دوسرے علوم کو علم نہیں بلکہ فن کہا جاتا تھا۔

علم الرجال ○ ہر حدیث حقیقتاً رسول اللہ ﷺ کے کسی قول فعل یا کسی اجازت و تقریر کی ایک عینی شہادت ہے۔ اور ہر شہادت کی جانچ پڑتال ضروری ہے۔ اس لئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یعنی ان بزرگوں کے بعد جنہوں نے مشکوٰۃ نبوت سے بلا واسطہ براہ راست کسب نور کیا تھا یہ سوال پیدا ہوا کہ شاہدوں کو اچھی طرح دیکھ لیا جائے ان کے ذاتی حالات، حافظہ، سنجیدگی اور صداقت و ثقاہت کی تحقیق کی جائے۔ اس کوشش نے ایک جدید علم کو جنم دیا جسے علم الرجال کہا جاتا ہے۔ علم الرجال میں تقریباً ۲۵ ہزار اشخاص کے ذاتی خصائل و عادات کو محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ اشخاص ہیں جنہوں نے بھی کوئی حدیث بیان کی ہے۔

جب راویان حدیث کی جانچ پڑتال شروع ہوئی تو ان کے عہد اور ان کی معاشرت کی تلاش ہوئی تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کس راوی کی ملاقات کن کن شیوخ سے ہوئی اس طرح علم طبقات الرجال وجود میں آیا اور راویوں کو جانچنے کے لئے یہ تقسیم نہایت ہی اہم تھی ورنہ اس کے بغیر یہ معلوم کرنا ممکن نہ ہوتا کہ حقیقتاً کس راوی کی ملاقات کس شیخ سے ممکن ہے اور اگر ممکن ہے تو راوی کی عمر اور شیخ کی عمر ملاقات کے وقت کیا رہی ہوگی۔ اور اگر راوی کی عمر اتنی کم ہو کہ حدیث کو پوری طرح سمجھ ہی نہ سکے یا کہ شیخ کی عمر اتنی زیادہ ہو کہ بڑھاپے سے حواس مختل ہو چکے ہوں تو ایسی روایت قابل قبول ہی کہاں ہو سکتی ہے۔

اس طرح علم طبقات الرجال پر اہل علم نے توجہ کی اور کتابیں لکھی گئیں۔ ائمہ جرح و تعدیل نے اس پر اپنی عمریں صرف

کیں۔ بڑا کام کیا۔ ایک ایک راوی کی صداقت و ثقاہت پر شہادتیں مہیا کیں اور کتابیں لکھیں۔ بعضوں نے جرح و تعدیل کی شہادتوں کو ثانوی درجہ دیا اور صرف تذکرہ ہی جمع کر دینے کو کافی سمجھا اور اس قسم کے تذکروں کی افادیت بھی کچھ کم نہ تھی۔ اس لئے ایسے تذکرہ نویس اور وقائع نگار حضرات کے کارنامے دنیا کے بہترین علمی سرمائے سمجھے گئے۔

طبقات الرجال پر دو قدیم ترین کتابیں ہم تک پہنچ سکی ہیں۔ ایک محمد بن عمرو واقدی متوفی ۲۰۷ھ کی کتاب طبقات جو طبقات واقدی کے نام سے مشہور ہے اور مختصر سی کتاب ہے اور دوسری محمد بن سعد بن منبج البصری الزہری المتوفی ۲۴۰ھ کی یہ وسیع اور ضخیم کتاب جو طبقات الکبیر یا طبقات ابن سعد یا طبقات الکبریٰ کے نام سے مشہور و معروف ہے ابن سعد واقدی کے شاگرد اور ان کے سیکرٹری تھے۔ اس لئے طبقات الکبیر میں اکثر و بیشتر روایتیں واقدی کی بیان کردہ ملتی ہیں۔

ابن سعد ۱۶۸ھ میں بمقام بصرہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد وہ بغداد آ گئے۔ یہ زمانہ ہارون الرشید کی خلافت کا تھا اور بغداد میں علم و ہنر کا ایک مجمع تھا۔ یہاں اور حجاز میں جا کر ابن سعد نے بڑے بڑے علماء و محدثین سے استفادہ کیا اس کے بعد واپس آ کر محمد بن عمر واقدی کے شاگرد ہوئے اور بالآخر واقدی کے سیکرٹری ہو گئے اور واقدی کی آخری عمر تک ان سے وابستہ رہے۔ اسی لئے یہ ابن سعد کا تب الواقعی کہلاتے ہیں۔ ۲۳۰ھ میں بمقام بغداد وفات ہوئی۔

واقدی ایک اخباری تھا اور اہل علم کے نزدیک قابل اعتبار و ثقہ راوی نہیں سمجھا جاتا ہے اور حق یہ ہے کہ واقدی کسی طرح ثقہ اور قابل اعتبار سمجھا ہی نہیں جاسکتا۔ مغازی واقدی اور واقدی کی دوسری کتاب دیکھنے سے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک قصہ گو اخباری ہے اس سے بلند مقام اسے نہیں دیا جاسکتا۔ لیکن واقدی کا یہ نامی گرامی شاگرد یعنی ابن سعد اپنے استاد کے برخلاف ثقہ اور قابل اعتبار سمجھا جاتا ہے۔ واقدی کی طرح محض قصہ گو نہیں ہے۔

ابن سعد نے علم حدیث حاصل کرنے کے لئے سفیان بن عیینہ، ہشیم، ابن علیہ اور ان کے معاصرین کے سامنے زانوئے تلمذتہ کئے ہیں۔ وہ صرف واقدی کا ہی شاگرد نہیں ہے لیکن یہ فرق ہمیشہ یاد رکھنا چاہئے کہ نیکو کار، سنجیدہ اور صادق اللہجہ راوی حدیث میں اور ایک اخباری وقائع میں فرق ہوتا ہے۔ اخباری اپنے بیان میں اس قدر محتاط نہیں ہوتا جتنا کہ ایک محدث اور راوی حدیث کو ہونا چاہئے۔ یورپ کے محقق مستشرقین بے چارے اس فرق کو نہیں سمجھتے۔ یا مسلمان ہے دشمنی کی وجہ سے سمجھنا نہیں چاہتے۔ ان کا مبلغ علم غریب کتابوں کی لفظی تصحیح اور فہرست سازی سے آگے نہیں بڑھتا۔ انہوں نے یقیناً قابل قدر کام اس سلسلے میں انجام دیئے ہیں۔ مگر مطالعہ کی کمی اور دل کے کھوٹ کی وجہ سے ہمیشہ ٹھوکریں کھائی ہیں۔ اور ابن سعد کی کتاب الطبقات الکبریٰ کے دو فاضل محققین نے علامہ بروکلمان اور علامہ سخا و جنہوں نے ۱۹۰۴ء سے ۱۹۱۱ء تک اس کی تصحیح کی ہے اور مقدمہ لکھا ہے۔ ایک بڑی خدمت کی ہے۔ اس کے باوجود نہ تصحیح پوری کر سکے اور نہ اس کتاب کا مقام متعین کرنے میں وہ پوری طرح کامیاب ہو سکے۔

ابن سعد کی تین کتابوں کا ذکر متاخرین کی کتابوں میں ملتا ہے۔ الطبقات الکبریٰ یا طبقات الکبیر، دوسری طبقات الصغیر اور تیسری اخبار النبی۔ لیکن حقیقت واقعہ یہ ہے کہ یہ سب نام طبقات الکبیر ایک ہی کتاب کے مختلف نام ہیں۔ کتاب حقیقتاً ایک ہی ہے اس کے ابتدائی حصہ کو اخبار النبی کا نام دے دیا گیا کیونکہ اس حصہ میں نبی کریم ﷺ کی سیرت کا بیان ہے آخری کو طبقات الصغیر کے نام سے موسوم کیا گیا اور سب کو ملا کر طبقات الکبیر یا طبقات الکبریٰ کے نام سے یاد کیا گیا۔

طبقات پر مشتمل اسلوب ترتیب ○ طبقات ابن سعد کی ترتیب جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے طبقات پر ہے۔ وہ سب سے پہلے حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی سیرت طیبہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ ایک ایک چیز کے متعلق متعدد روایتیں پیش کرتے ہیں۔ مثلاً رسول اللہ ﷺ کی سواری کے جانوروں کی تفصیل، حضور ﷺ کی مسواک، موزے اور دیگر

ضروریات زندگی کی تفصیلات یا غزوات سے متعلق جزئی و تفصیلی واقعات جس قدر طبقات ابن سعد میں مل جاتے ہیں اُتنے کسی دیگر کتابوں میں نہیں ملتے۔ تاریخ یعقوبی مغازی و قدی وغیرہ جو معاصر تالیفیں ہیں اتنی تفصیلات مہیا کرنے سے قاصر ہیں۔

عہد رسالت کے بعد وہ ایک ایک مقام کی تعیین کے ساتھ وہاں کے رہنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین کے حالات طبقہ بہ طبقہ بیان کرتے ہیں اور ہر بیان کے لئے سلسلہ ستہ پیش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سندیں اس مرتبہ کی نہیں ہیں جس مرتبہ کی سند احادیث احکام کے لئے مطلوب ہوتی ہیں لیکن ایسی بھی نہیں کہ انہیں محض افسانہ قرار دیا جائے۔

ابن سعد سب سے پہلے بدری صحابہ کا ذکر کرتے ہیں اس کے بعد سابقون الاؤلون کا پھر مدینہ منورہ کے دیگر صحابہ کا اس کے بعد مدینہ منورہ کے تابعین کا یہ سارا تذکرہ زمانی طبقات پر مرتب ہوتا ہے اس کے بعد اسی ترتیب کے بموجب بصرہ، کوفہ، یمن اور دیگر مقامات میں رہنے والے صحابہ و تابعین کا طبقات پر مرتب تذکرہ اس کتاب میں ملتا ہے اور آخری حصہ خواتین کے تذکرے پر مشتمل ہے اور مابعد میں لکھی جانے والی کتابوں مثلاً استیعاب اسد الغابہ اور الاصابہ سے زیادہ تفصیل کے ساتھ مل جاتا ہے۔

تذکروں کا طبقات پر مرتب ہونا اس زمانے میں بلکہ اس کے بعد بھی مقبول و معقول طریقہ رہا ہے۔ حتیٰ کہ شعراء و صوفیاء کے تذکرے بھی نہ صرف اس زمانے میں بلکہ اس کے بعد بھی کئی سو سال تک طبقات پر ہی مرتب ہوتے رہے ہیں۔ یہ طریقہ حقیقتاً زیادہ مناسب و مفید طریقہ ہے اس طریقے کی وجہ سے کتاب کے مسلسل پڑھنے والوں کے سامنے ایک ایک زمانہ پوری تفصیلات کے ساتھ آ جاتا ہے جو دوسرے طریقہ ترتیب سے نہیں آ سکتا۔

طبقات ابن سعد کی حیثیت ○ سب سے پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ طبقات الکبیر ایک تاریخی تذکرہ ہے۔ یقیناً یہ سب سے ممتاز اور اپنی عہد تالیف کے اعتبار سے چند اولین تذکروں میں سے ایک تذکرہ ہے۔ لیکن بہر حال اسے حدیث کا کوئی مجموعہ نہیں قرار دیا جاسکتا اس سے کسی کو انکار نہیں کہ ابن سعد نے حدیث کا علم حاصل کیا تھا اور وہ ثقہ رواۃ حدیث میں سے ہیں۔ مگر یہ کتاب انہوں نے بطور مجموعہ حدیث کے نہیں لکھی ہے بلکہ اس زمانے کے اصول تذکرہ نویسی کے بموجب ایک تذکرہ لکھا ہے۔

تاریخی روایات کے پرکھنے کا عام عقلی قاعدہ یہ ہے کہ ہر روایت کو چار تحقیقات سے گزرنے کے بعد ہی قبول کیا جاسکتا ہے جو واقعہ بیان کیا جائے اس کے لئے امکان عقلی اور امکان عادی موجود ہو۔ اگرچہ امکان واقعہ و دلیل واقعہ نہیں مگر دونوں قسم کے امکان کا ہونا ضروری ہے۔

طرف زمان و ظرف مکان کے تقاضے واقعہ کے خلاف نہ ہوں۔

یہ دنیا عالم اسباب ہے اس لئے کوئی سابقہ مسلمہ واقعہ ایسا ضرور مل جانا چاہئے جو اس واقعہ کا سبب قرار پاسکے۔

ہر واقعہ اپنا ایک اثر رکھتا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ واقعہ کے بعد اس کے اثرات پیدا ہوں۔

جب ان چار تحقیقات پر کوئی واقعہ ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس واقعہ تاریخی کاراوی کس درجہ کا آدی ہے۔ صادق، سنجیدہ اور قابل اعتبار راوی ہے یا نہیں اور اس راوی کو اس واقعہ کا علم کس طرح حاصل ہوا ہے۔ خود راوی اور اس کے اساتذہ میں دین داری اور دیانت بیان کس قدر پایا جاتا ہے۔

ان مراحل سے گزرنے ہی کے بعد کسی واقعہ کو واقعہ تاریخی قرار دیا جاسکتا ہے۔ ورنہ رام لیلہ اور راس لیلہ کی کہانیوں سے زیادہ اونچا مقام اس روایت کو نہیں مل سکتا۔

یہی وہ عقلی تنقیح ہے جس سے بے پرواہی کا نتیجہ آپ کو علامہ بروگلمان کی تاریخ اسلام سر ولیم میور کی سیرۃ النبی ﷺ اور مسٹر ٹنگری واٹ کی کتابوں میں دکھائی دیتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ یورپ کے یہ مستشرقین کتاب الاغانی اور الف لیلہ و لیلہ جیسی

کتابوں سے تاریخی واقعات کی تکمیل کرتے ہیں۔ حالانکہ خود ابوالفرج الاصفہانی کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ کسی زمانے میں یورپ کے کوئی بڑے علامہ اس کی کتاب کو محققانہ تاریخی کتاب قرار دیں گے وہ تو اپنے زمانے تک کے شاعروں اور گویوں کا تذکرہ لکھ رہا تھا اور وہ بھی محض یادداشت کے لئے نہ اس نے کبھی کسی روایت کی تنقیح کی ہے اور نہ اسے اس کی ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ اگر آج کوئی شخص پریم بیتی اور لوک پران سے ہندوستان کی تاریخ مرتب کر دے تو اسے کیا کہا جائے گا۔

علامہ ابن سعد کی یہ ضخیم اور کئی اعتبارات سے بے مثال کتاب طبقات الکبیر تاریخی روایات کا ایک مجموعہ ہے اسے اس بنا پر رد نہیں کیا جاسکتا کہ ان کے استاد الواقدی ضعیف اور غیر ثقہ راوی تھے اور نہ صرف اس بنیاد پر اس کتاب کی ہر روایت واجب القبول قرار پا سکتی ہے کہ خود علامہ ابن سعد ایک ثقہ اور معتبر راوی کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس کتاب میں علامہ نے جو روایتیں پیش کی ہیں ان کی حسب قاعدہ تنقیح کے بعد انہیں قبول بھی کیا جاسکتا ہے اور رد بھی کیا جاسکتا ہے۔ لیکن یہ بات کتاب کی اس قدر قیمت کو گھٹا نہیں سکتی کہ یہ قدیم ترین تذکرہ اور بہت ہی تفصیلی تذکرہ ہے اور اس قدر قیمتی تذکرہ روایات ہے کہ اس زمانے کا کوئی دوسرا مجموعہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

یہ صحیح ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب الامام یا امام مالک رحمہ اللہ کی کتاب الموطا کا درجہ اسے حاصل نہیں لیکن بالکلیہ ناقابل اعتبار بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے علامہ ابن سعد کے بعد تاریخ و تذکرہ لکھنے والوں نے ایک بڑا ہی مہتمم بالشان ماخذ قرار دیا اور پوری طرح اس سے استفادہ کیا۔

ان بزرگ مورخین میں جنہوں نے طبقات ابن سعد سے اپنی کتابوں کی تالیف میں فائدہ اٹھایا ہے حسب ذیل مصنفین کے نام خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں:

ابن ابی الدنیا، علامہ بلاذری، ابن عساکر الدمشقی، امام ذہبی، امام ابن حجر العسقلانی، خطیب بغدادی، امام جزیری، ابن العماد الحکری، ابن خلکان اور خلیل بن ایکب الصغدی۔

طبقات الکبیر کے ایک عظیم ماخذ ہونے کے لئے صرف یہی کافی ہے کہ مندرجہ بالا علمائے تاریخ و تذکرہ نے اپنی کتابوں میں ابن سعد سے روایتیں نقل کی ہیں اور بعد تنقیح و تائید ان میں سے اکثر روایتوں کو قابل قبول قرار دیا ہے۔

الغرض علامہ ابن سعد کی طبقات الکبیر کو قدیم ترین ماخذوں میں ایک بلند مقام حاصل رہا ہے اور ہمیشہ یہ مقام حاصل رہے گا۔ اگرچہ اسے صحاح یا سنن کا مرتبہ نہیں دیا جاسکتا۔ مگر ایک معتبر مجموعہ روایات اور ایک قدیم و وسیع تذکرہ کا مرتبہ تو اسے بہر حال حاصل ہے۔

عزیز خاں اقباس اور چوہدری محمد اقبال سلیم گاہندری مالک نفیس اکیڈمی نے اس عظیم المرتبت تاریخی تذکرہ کے اردو ترجمہ کو چھاپ کر جو خدمت علم تاریخ اور زبان کی ادا کی ہے وہ ہر طرح سے قابل ستائش ہے۔ وہ نفیس اکیڈمی جس نے تاریخ طبری، تاریخ ابن خلدون، زاد المعاد اور بلاذری کی فتوح البلدان جیسی اہم کتابوں کے اردو ترجمے شائع کئے ہیں یہ کارنامہ اسی کی ہمت سے انجام پا سکتا تھا اور انجام پایا۔ یقیناً کارکنان نفیس اکیڈمی اس کارنامہ پر ہماری طرف سے اس کے مستحق ہیں کہ ان سے کہا جائے

آفرین باد بریں ہمت مردانہ تو

عبدالقدوس ہاشمی

کراچی۔ یکم رجب ۱۳۸۹ھ

فہرست مضامین

طبقات ابن سعد (حصہ اول)

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۴۷	بنی آدم.....	۳	سیرت النبی ﷺ پر عظیم الشان کتاب کا تعارف
۴۸	حضرت حواء علیہا السلام.....	۵	پیش لفظ.....
//	حضرت ادریس علیہ السلام.....	//	علم الرجال.....
۴۹	حضرت نوح علیہ السلام.....	۶	ابن سعد.....
//	طوفان نوح.....	//	طبقات پر مشتمل اسلوب ترتیب.....
۵۰	طوفان کے بعد کے حالات.....	۷	طبقات ابن سعد کی حیثیت.....
۵۱	اولاد نوح علیہ السلام.....	۲۳	تسمیحات.....
۵۲	سلسلہ انساب.....	۲۵	اسلوب روایت کی اہمیت.....
//	اچانک زبانوں کی تبدیلی.....	//	طبقات ابن سعد کا سلسلہ روایت.....
۵۳	بنی سام.....	۲۷	کتاب اور صاحب کتاب.....
//	بنی حام.....	۳۰	خیر الانساب نسب رسالت مآب ﷺ
//	بنی یافث.....	۳۵	انبیاء کرام سے رسول اللہ ﷺ کا نسب تخلیق
۵۴	اہل عرب.....	//	ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق.....
//	شام کی وجہ تسمیہ.....	۳۸	عہد السنت کا واقعہ.....
۵۵	قوم سبا.....	۴۰	آدم علیہ السلام کی اولاد.....
۵۶	حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام.....	۴۲	حالات زندگی
۵۸	حضرت اسماعیل ذبح اللہ علیہ السلام.....	//	دنیا میں تشریف آوری.....
۶۲	حضرت آدم اور رسول اللہ کے درمیان کا زمانہ	۴۴	قصہ ہابیل وقابیل (قائن)
۶۳	انبیاء علیہم السلام کے نام و نسب.....	۴۵	حضرت شیث علیہ السلام.....
	سلسلہ نسب سید البشر سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ تا ابو البشر	۴۶	عبد الحارث.....
۶۴	حضرت آدم علیہ السلام.....	۴۷	آدم علیہ السلام کے ہاتھوں بیت اللہ کی تعمیر.....
۶۸	آہستہ سیدنا نبی کریم ﷺ.....	//	حضرت آدم علیہ السلام کی وفات.....

۸۷	اولاد عبد مناف	۶۸	والدہ کی طرف سے حضور ﷺ کا سلسلہ نسب
۸۸	ہاشم	۷۰	فواطم و عواتک
۸۹	ہاشم کی وجہ تسمیہ	۷۱	رسول اللہ ﷺ کے سلسلہ مادری کی پاکیزہ فطرت یہاں
۹۰	بہن ہاشم و بنی امیہ میں محاسنت کی ابتداء	۷۲	آسمان آباء النبی ﷺ
۹۱	طلب حکومت	۷۳	آنحضرت ﷺ کے آباؤ اجداد کا سلسلہ مادری
۹۲	مطہین	۷۴	قصی بن کلاب
۹۳	احلاف	۷۵	واپس مکہ مکرمہ میں لوٹ کر آنا
۹۴	مصالحات	۷۶	تولیت بیت اللہ کا شرف
۹۵	دارالندوہ دارالامارہ کی حیثیت میں	۷۷	اخراج بنی بکر و خزاعہ
۹۶	ہاشم کی تولیت	۷۸	قریش کی وجہ تسمیہ اور پس منظر
۹۷	قیصر و نجاشی سے تجارتی معاہدات	۷۹	بت پرستی کا آغاز
۹۸	ہاشم کا عقد نکاح	۸۰	اولاد قصی بن کلاب
۹۹	وفات اور وصیت	۸۱	لڑکے
۱۰۰	اولاد ہاشم	۸۲	لڑکیاں
۱۰۱	ہاشم کے غم میں اشعار	۸۳	دارالندوہ (مجلس شوریٰ قریش)
۱۰۲	شفاء بنت ہاشم کہتی ہیں	۸۴	قصی بن کلاب کے اختیارات
۱۰۳	مطلب بن عبد مناف	۸۵	دارالندوہ کی وجہ تسمیہ
۱۰۴	شیدہ سے عبدالمطلب کیسے بنے؟	۸۶	آبادی مکہ
۱۰۵	عبدالمطلب بحیثیت متولی کعبۃ اللہ	۸۷	مُحْتَمِع (قصی کا خطاب)
۱۰۶	چشمہ زمزم	۸۸	قصی کے لئے لقب قریشی
۱۰۷	تحکیم	۸۹	تحمس (شریعت ابراہیمی میں تبدیلیاں)
۱۰۸	سواری کے قدموں تلے پانی کا چشمہ	۹۰	مزدلفہ میں آگ روشن کرنے کی رسم
۱۰۹	بیٹے کی قربانی کی نذر	۹۱	حاجیوں کی خدمت
۱۱۰	دفن شدہ خزانے کی دریافت	۹۲	عبداللہ ار
۱۱۱	باہمی اتفاق و اتحاد کا معاہدہ	۹۳	قصی کی وفات
۱۱۲	نبوت اور حکومت کی بشارت	۹۴	عبد مناف
۱۱۳	خضاب	۹۵	اقربا، کو تو حید کی دعوت
۱۱۴	عبدالمطلب کے حق میں نفیل کا فیصلہ	۹۶	ابولہب کا انجام

۱۳۰	یہود کا ارادہ قتل	۱۰۵	طائف میں کامیابی
۱۳۱	رضاعی بھائی کے لئے بشارت	۱۰۶	عبدالمطلب کی سنت ”بیٹے کی قربانی“
۱۳۲	نگاہ نبوی ﷺ میں حلیمہ سعدیہ کا احترام	۱۰۷	نبی صادق ﷺ کی بشارت اور قحط سالی کا خاتمہ
۱۳۳	قبیلہ بنو ہوازن	۱۰۸	آنحضرت ﷺ کا اجتماع استقواء میں
۱۳۴	وفات آمنہ ام النبی ﷺ	۱۰۹	باران رحمت کے لئے دُعا
۱۳۵	والدہ کی وفات کے بعد آنحضرت ﷺ کے حالات	۱۱۰	ابرہہ کا قصہ
۱۳۶	رسول اللہ ﷺ عبدالمطلب کی آغوش شفقت میں	۱۱۱	نقلی کعبہ (کعبہ یمن)
۱۳۷	عبدالمطلب کی وصیت و وفات	۱۱۲	نقلی کعبہ کا حشر
۱۳۸	رسول اللہ ﷺ ابو طالب کے گھر میں	۱۱۳	ابرہہ کا حرم پر حملہ
۱۳۹	نبی انور ﷺ کا پہلا سفر شام	۱۱۴	ابرہہ سے عبدالمطلب کی ملاقات
۱۴۰	بجیر اراہب سے ملاقات	۱۱۵	عبدالمطلب کی دُعا
۱۴۱	الْأَمِينُ کا لقب	۱۱۶	اصحاب قبل کا عبرتناک انجام
۱۴۲	ابو طالب کی اولاد	۱۱۷	اولاد عبدالمطلب
۱۴۳	ابو طالب کو دعوت اسلام اور خاتمہ	۱۱۸	عبداللہ کا نکاح آمنہ سے
۱۴۴	فوت شدہ مشرکین کے لئے استغفار کی ممانعت	۱۱۹	آم النبی ﷺ
۱۴۵	تجہیز و تکفین	۱۲۰	قتیلہ بنت نوفل کی طرف سے پیشکش
۱۴۶	ابو طالب کی موت کے بعد حضور ﷺ کا اظہار خیال	۱۲۱	فاطمہ بنت نضر کی تمنا
۱۴۷	ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی وفات	۱۲۲	آنحضرت ﷺ کی شہر میں
۱۴۸	مکہ میں آنحضرت ﷺ کی ابتدائی مصروفیات	۱۲۳	عبداللہ کی وفات
۱۴۹	نبی اکرم ﷺ کا کمربیاں چراتا	۱۲۴	رسول اللہ ﷺ کی ولادت
۱۵۰	حرب النجار کا واقعہ	۱۲۵	تاریخ پیدائش
۱۵۱	احابیش	۱۲۶	ولادت کے وقت منفرد واقعات کا ظہور
۱۵۲	سرداران قریش	۱۲۷	اسم گرامی کا انتخاب
۱۵۳	سرداران قیس	۱۲۸	رسول اللہ ﷺ کی کنیت
۱۵۴	مقابلہ فریقین	۱۲۹	جنہیں رسول اللہ ﷺ کی رضاعت کا شرف حاصل ہوا
۱۵۵	حرب الفجار میں آنحضرت ﷺ کی شرکت	۱۳۰	آنحضرت ﷺ کے شرکائے رضاعت
۱۵۶	آنحضرت ﷺ اور حلف الفضول	۱۳۱	حلیمہ سعدیہ کی خدمت
۱۵۷	چچا کے کہنے پر سفر شام کے لئے روانگی	۱۳۲	شق صدر کا واقعہ

۱۴۹	نسطور راہب سے ملاقات	۱۴۹	آنحضرت ﷺ کو یہود سے بچانا
۱۵۰	بتوں سے فطری بیزاری	۱۵۰	آنحضرت ﷺ کی برکت
۱۵۱	تجارتی قافلے کی واپسی	۱۵۱	شام کے تجارتی سفر کی مزید تفصیل
۱۵۲	خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آنحضرت ﷺ کا نکاح	۱۵۲	چند آثار نبوت
۱۵۳	دوسن گھڑت روایتیں	۱۵۳	حضور ﷺ کو شرکانہ میلے میں لیکر جانے کی کوشش
۱۵۴	آنحضرت ﷺ کی مولا داؤدان کے نام	۱۵۴	”تبع“ شاہ یمن کی مدینہ آمد
۱۵۵	ابراہیم بن النبی ﷺ	۱۵۵	کتب سابقہ میں آپ ﷺ کا ذکر مبارک اور یہود کی
۱۵۶	مار یہ قطیہ رضی اللہ عنہا	۱۵۶	زبانی اس کا تذکرہ
۱۵۷	حضرت ماریہ کے ہاں بیٹے کی پیدائش	۱۵۷	نبوت محمدی ﷺ
۱۵۸	شیر خواری	۱۵۸	رسول اللہ ﷺ سے قبل نام ”محمد“
۱۵۹	آنحضرت ﷺ کا اہل و عیال سے حسن سلوک	۱۵۹	نزول وحی کے بعد چند اہم واقعات و معجزات
۱۶۰	آنحضرت ﷺ کے تحت جگر ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات	۱۶۰	تور اعظم کی زیارت
۱۶۱	ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت سورج گرہن	۱۶۱	تاجدار نبوت کو زہر دینے کی یہودی کوشش
۱۶۲	عقیدے کی اصلاح	۱۶۲	معجزات رسول ﷺ
۱۶۳	بیت اللہ کی تعمیر نو	۱۶۳	پانی سے دودھ بن جانا
۱۶۴	تعمیر کعبہ میں آنحضرت ﷺ کی شرکت	۱۶۴	رسول اللہ ﷺ کی صداقت پر نبھڑیے کی گواہی
۱۶۵	حجر اسود کی تنصیب	۱۶۵	عثمان بن مظعون کے قبول اسلام کا واقعہ
۱۶۶	قرعہ قال بنام حبیب ذوالجلال	۱۶۶	یہود کے سوالات اور حضور ﷺ کے جوابات
۱۶۷	آنحضرت ﷺ کا رشک آفرین فیصلہ	۱۶۷	ست رفتار گدھے کی رفتار میں تیزی
۱۶۸	دلی آرزو کا اظہار	۱۶۸	منافقین کی نشاندہی
۱۶۹	رسول اللہ ﷺ کی نبوت	۱۶۹	دُعائے نبوی سے بارانِ رحمت کا نزول
۱۷۰	نزول وحی سے قبل کے واقعات	۱۷۰	کھانے میں برکت کا معجزہ
۱۷۱	سعادت مندی کی علامات	۱۷۱	انگلیوں سے پانی کا چشمہ
۱۷۲	بنیل نامی کا بن کو دکھانے کا واقعہ	۱۷۲	لعاب و بن کی برکت سے حوض کے پانی میں اضافہ
۱۷۳	آثار عظمت	۱۷۳	نبھڑ کے دودھ میں برکت کا واقعہ
۱۷۴	آثار نبوت	۱۷۴	توشہ سفر میں برکت
۱۷۵	بچپن میں علامات نبوت	۱۷۵	ابوقحادہ رضی اللہ عنہ کے لئے رسول اللہ ﷺ کی دعاء
۱۷۶	بتوں کا واسطہ دینے والے کو جواب	۱۷۶	نماز فجر قضا ہونے کا واقعہ

۱۹۹	مہجور کے درخت سے حضور ﷺ کی پکار کا جواب.....	۲۲۰	رسول اللہ ﷺ اپنے خاندان کے ہمراہ شعب ابی طالب میں.....
۲۰۰	حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کے لئے دودھ میں برکت.....	۲۲۱	طائف کا اذیت ناک سفر.....
۲۰۱	عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام.....	۲۲۲	معراج نبوی ﷺ.....
۲۰۲	حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی آزادی.....	۲۲۳	شب معراج کے واقعات.....
۲۰۳	یہودی مریض کا قبول اسلام.....	۲۲۴	زمانہ حج میں دعوت و تبلیغ.....
۲۰۴	رسول اللہ ﷺ اُمّ معبد کے خیمہ میں.....	۲۲۵	اوس و خزرج کا قبول اسلام.....
۲۰۵	بارگاہ رسالت میں اونٹ کی شکایت.....	۲۲۶	اوس و خزرج کی صلح.....
۲۰۶	سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے کھانے میں برکت.....	۲۲۷	بیعت عقبہ اولیٰ کے شرکائے گرامی.....
۲۰۷	بنو ہاشم کو دعوت اسلام.....	۲۲۸	بیعت عقبہ ثانیہ میں شامل ستر (۷۰) حضرات.....
۲۰۸	آنکھ کا تندرست ہونا.....	۲۲۹	ہجرت سے قبل رسول اللہ ﷺ کی مکی زندگی.....
۲۰۹	چھڑی کا لکوار بننا.....	۲۳۰	اہل ایمان کو ہجرت مدینہ کی اجازت.....
۲۱۰	فراق رسول میں لکڑی کا رونا.....	۲۳۱	آغاز ہجرت.....
۲۱۱	قرعہ اندازی کا غلط ہو جانا.....	۲۳۲	قتل کی سازش.....
۲۱۲	بایزکاٹ کا معاہدہ دیمک نے چاٹ کھایا.....	۲۳۳	کاشانہ نبوی کا محاصرہ.....
۲۱۳	ایک جن کا خبر دینا.....	۲۳۴	نبی و صدیق کا غار ثور میں قیام.....
۲۱۴	زمانہ بعثت و مقصد آمد مصطفیٰ.....	۲۳۵	ابن اریقہ کی ہمراہی.....
۲۱۵	یوم بعثت.....	۲۳۶	نبوت کے قدم اُمّ معبد کے خیمہ میں.....
۲۱۶	وحی سے قبل سچے خواب.....	۲۳۷	مکہ میں غیبی آواز.....
۲۱۷	پہلی وحی کا نزول.....	۲۳۸	سراقہ بن مالک رسول اللہ ﷺ کے تعاقب میں.....
۲۱۸	کیفیت وحی.....	۲۳۹	مقام قبایر تشریف آوری.....
۲۱۹	آغاز تبلیغ.....	۲۴۰	واری یثرب میں نبی رحمت ﷺ کی تشریف آوری.....
۲۲۰	کوہ صفا پر پہلا خطبہ.....	۲۴۱	اہل مدینہ کے لئے خوشی کا دن.....
۲۲۱	دشمن اسلام.....	۲۴۲	بنی نضار کے وفد سے ملاقات.....
۲۲۲	ابوطالب کے ساتھ قریشی وفد کی ملاقات.....	۲۴۳	محلہ بنی عمرو میں قیام.....
۲۲۳	ہجرت حبشہ اولیٰ.....	۲۴۴	بارگاہ رسالت میں انصار کی حاضری.....
۲۲۴	شرکائے ہجرت حبشہ اولیٰ.....	۲۴۵	حضرت ابویوب رضی اللہ عنہ کے لئے شرف میزبانی.....
۲۲۵	حبشہ سے اصحاب کی واپسی کی وجہ.....	۲۴۶	پہلی نماز جمعہ.....
۲۲۶	ہجرت حبشہ ثانی.....		

۲۴۳	اہل مدینہ کا اظہار عقیدت	۲۴۳	اسلامی لشکر کی بدر میں آمد
۲۴۴	رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پہلا ہدیہ	۲۴۴	کفار کی تعداد جاننے کا نبوی انداز
۲۴۵	اہل بیت کی مدینہ تشریف آوری	۲۴۵	حاباب بن المذکر کا مشورہ اور تائید آسانی
۲۴۶	رسول اللہ ﷺ کے غزوات و سرایا	۲۴۶	بدر میں بارش
۲۴۷	غزوات النبی ﷺ	۲۴۷	خیمہ نبوی
۲۴۸	مدینہ تشریف آوری کی صحیح تاریخ	۲۴۸	لشکر اسلام کی صف بندی
۲۴۹	سفید جھنڈا	۲۴۹	فرشتوں کی آمد
۲۵۰	حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قافلہ قریش سے مدد بھیل	۲۵۰	عمیر بن وہب اور حکیم بن حزام کا قریش کو مشورہ
۲۵۱	سریہ عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ	۲۵۱	ابو جہل کا جوش
۲۵۲	سریہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ	۲۵۲	پہلا قتل
۲۵۳	غزوہ الاہواء	۲۵۳	شبہ و عقبہ و ولید کی مبارزت طلحی
۲۵۴	غزوہ بواط	۲۵۴	شہدائے بدر کے اسمائے گرامی
۲۵۵	کرز بن جابر الفہری کی تلاش کے لئے غزوہ	۲۵۵	مقتولین قریش کے نام
۲۵۶	غزوہ ذی العشرہ	۲۵۶	اسیران بدر
۲۵۷	سریہ عبداللہ بن جحش الاسدی رضی اللہ عنہ	۲۵۷	اسیران بدر کا زرفدیہ
۲۵۸	غزوہ بدر	۲۵۸	مال غنیمت کی تقسیم
۲۵۹	تجارتی قافلہ کا تعاقب	۲۵۹	اہل مدینہ کو نوید فتح
۲۶۰	اسلامی لشکر کی روانگی	۲۶۰	حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی تدفین
۲۶۱	اصحاب بدر رضی اللہ عنہم	۲۶۱	مجاہدین بدر کی تعداد
۲۶۲	دشمن کی جاسوسی کا انتظام	۲۶۲	اصحاب بدر کے لیے رسول اللہ ﷺ کی دعا
۲۶۳	مشرکین کے تجارتی قافلہ کی حالت	۲۶۳	یوم بدر کی تاریخ
۲۶۴	ابوسفیان کا اظہار افسوس	۲۶۴	مشرکین کی تعداد
۲۶۵	مقام بدر	۲۶۵	غریب قیدیوں کا زرفدیہ
۲۶۶	فرات بن حیان الجعفی	۲۶۶	فدیہ لینے کا فیصلہ
۲۶۷	بنی زہرہ کی مقام جھ سے واپسی	۲۶۷	ابوالخثری کا قتل
۲۶۸	بنی عدی کا جنگ سے کنارہ کشی کرنا	۲۶۸	سات افراد کے لیے بدعا
۲۶۹	انصار کے قابل رشک جذبات	۲۶۹	حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شجاعت
۲۷۰	پرچم اسلام	۲۷۰	گھوڑوں کی تعداد

۲۷۱	نیابت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ	۲۶۲	مسلمان مخبر
۲۷۲	غزوہ بنی سلیم	۲۶۳	حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات شکاری
۲۷۳	سریرہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ	۲۶۴	عمیر بن الحکم رضی اللہ عنہ کی شہادت
۲۷۴	غزوہ احد	۲۶۵	غزوہ بدر اور ارشادات ربانی
۲۷۵	یہود مدینہ کی افواہیں	۲۶۶	ابو جہل کی تلاش
۲۷۶	کفار کے حالات کی خبر	۲۶۷	حالت سجدہ میں حضور ﷺ کی دعا
۲۷۷	رسول اللہ ﷺ کا خواب	۲۶۸	حضور ﷺ کی تلویح
۲۷۸	مشاورت	۲۶۹	شہدائے بدر کی نماز جنازہ
۲۷۹	پرچم اسلام	۲۷۰	سریرہ عمیر بن عدی
۲۸۰	پیش قدمی	۲۷۱	گستاخ عورت کا قتل
۲۸۱	لشکر کی حفاظت کا اہتمام	۲۷۲	سریرہ سالم بن مسیر رضی اللہ عنہ
۲۸۲	ابن ابی بدمہدی	۲۷۳	ابو عقیق یہودی کا قتل
۲۸۳	صف آرائی	۲۷۴	غزوہ بنی قینقاع
۲۸۴	علمبردار اسلام	۲۷۵	بنی قینقاع کا محاصرہ
۲۸۵	آغاز جنگ	۲۷۶	بنی قینقاع کے حق میں ابن ابی کی سفارش
۲۸۶	شجاعت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ	۲۷۷	مال غنیمت کی تقسیم
۲۸۷	حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی دلیری	۲۷۸	غزوہ سویق
۲۸۸	مشرک علمبرداروں کا خاتمہ	۲۷۹	ابوسفیان اور سلام بن مشکم کی ملاقات
۲۸۹	مشرکین کی پسپائی	۲۸۰	ابوسفیان کا فرار
۲۹۰	تیر اندازوں کی لغزش	۲۸۱	غزوہ الکدر یا قمرہ الکدر
۲۹۱	مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت	۲۸۲	سریرہ قتل کعب بن الاشرف
۲۹۲	رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ ثابت قدم صحابہ رضی اللہ عنہم	۲۸۳	کعب بن الاشرف کے قتل کا حکم
۲۹۳	ابن قمیہ کا رسول اللہ ﷺ پر حملہ	۲۸۴	محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ
۲۹۴	اسماعیل شہداء و مقتولین احد	۲۸۵	منسوبہ قتل
۲۹۵	ابو عہہ کا قتل	۲۸۶	کعب بن الاشرف یہودی کا قتل
۲۹۶	شہدائے احد کی نماز جنازہ	۲۸۷	کعب کے قتل کے متعلق دوسری روایت
۲۹۷	سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی امتیازی خصوصیت	۲۸۸	یہودیوں پر خوف کا غلبہ
۲۹۸		۲۸۹	غزوہ غطفان

۲۹۱	بنی نضیر کی جلا وطنی کا فیصلہ	۲۸۰	حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا سوگ
۲۹۲	بنی نضیر کے اموال و اسلحہ	۲۸۱	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم
۲۹۳	غزوہ بدر الموعود	۲۸۲	حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کی شہادت
۲۹۴	نعم بن مسعود کی مہم پر روانگی	۲۸۳	نوجوان صحابہ رضی اللہ عنہم کا جوش و خروش
۲۹۵	مدینہ سے روانگی	۲۸۴	صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جاں نثاری
۲۹۶	بدر الصفراء پر اجتماع	۲۸۵	تیر انداز دستے کو ہدایات
۲۹۷	مشرکین کا فرار	۲۸۶	ابوسفیان کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نعرہ حق
۲۹۸	غزوہ بدر الصغریٰ	۲۸۷	سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا اعزاز
۲۹۹	غزوہ ذات الرقاع	۲۸۸	مشرکین کی مدد لینے سے انکار
۳۰۰	پہلی بار نماز خوف	۲۸۹	غزوہ حمراء الاسد
۳۰۱	مدینہ واپسی	۲۹۰	سریرہ ابی سلمہ بن عبدالاسد المخزومی رضی اللہ عنہ
۳۰۲	غزوہ دومۃ الجندل	۲۹۱	سریرہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ
۳۰۳	مدینہ میں حضور ﷺ کی نیابت	۲۹۲	سریرہ المنذر بن عمرو
۳۰۴	عیبہ بن حصن سے معاہدہ	۲۹۳	بزم معونہ پر ۷۰ صحابہ رضی اللہ عنہم کی مظلومانہ شہادت
۳۰۵	غزوہ المریض	۲۹۴	عمرو بن امیہ الضمری کی رہائی
۳۰۶	الحارث بن ابی ضرار	۲۹۵	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہدائے بزم معونہ کی اطلاع
۳۰۷	مدینہ میں قائم مقام	۲۹۶	قاتلین کے لیے بددعا
۳۰۸	آغاز جنگ	۲۹۷	شہدائے بزم معونہ کی عظمت و فضیلت
۳۰۹	جویریہ بنت الحارث کے ساتھ حضور ﷺ کا نکاح	۲۹۸	سریرہ مرشد بن ابی مرشد رضی اللہ عنہ
۳۱۰	ابن ابی کے برے خیالات	۲۹۹	حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کے سر کی قدرتی حفاظت
۳۱۱	سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بار اور تیمم کا حکم	۳۰۰	حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ کی شہادت
۳۱۲	غزوہ خندق یا غزوہ احزاب	۳۰۱	حضرت ضعیب اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت
۳۱۳	قریش اور بنی نضیر کا معاہدہ	۳۰۲	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا زید رضی اللہ عنہ کی محبت کا مظاہرہ
۳۱۴	دشمنان اسلام کا اجتماع	۳۰۳	غزوہ بنی النضیر
۳۱۵	کفار کی مجموعی تعداد	۳۰۴	بنی نضیر کو دس دن کی مہلت
۳۱۶	مشاورت سے خندق کھودنے کا فیصلہ	۳۰۵	بنی نضیر کا اعلان جنگ
۳۱۷	عورتوں اور بچوں کی حفاظت کا انتظام	۳۰۶	بنو قریظہ کی علیحدگی
۳۱۸	بنو قریظہ کی غداری	۳۰۷	محاصرہ بنی نضیر

۳۰۸	رئیس دومۃ الجندل کا ہدیہ	۲۹۹	غزوہ خندق میں جھڑپیں
//	سریہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ بجانب قبیلہ قریظہ	//	عمر بن عبدود کا قتل
//	غزوہ بنی لحيان	۳۰۰	جنگ کا آغاز
۳۰۹	بنی لحيان کی روپوشی	//	طفیل بن نعمان کی شہادت
//	مدینہ واپسی	//	نماز عصر کی قضاء
//	غزوہ بنی لحيان کا اجمالی خاکہ	۳۰۱	حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حکمت عملی
//	غزوہ الغابہ	//	آندھی کی صورت میں غیبی امداد
۳۱۰	ابن ابوزر رضی اللہ عنہ کی شہادت	//	ابوسفیان کا فرار
//	مدینے سے روانگی	//	لشکر کفار کی واپسی
//	معرکہ آرائی	//	شہدائے غزوہ خندق
۳۱۱	امیر سریہ سعد بن زید الاشہلی رضی اللہ عنہ	۳۰۲	مہاجرین و انصار کے لیے دعائے نبوی ﷺ
//	سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ کی شاندار کارکردگی	//	لسان نبوت پر اشعار
۳۱۲	اخرم رضی اللہ عنہ اور ابن عیینہ سے مقابلہ	۳۰۳	آیات قرآنی کا نزول
//	معرکہ ذوقرد	//	مراجعت مدینہ
۳۱۳	ابن الاکوع اور ابوقحادہ رضی اللہ عنہ کی تعریف و تحسین	//	نماز وسطیٰ قضاء ہونے پر افسوس
//	دوڑ میں سبقت	۳۰۴	صحابہ کو وظیفہ کی تعلیم
۳۱۴	سریہ عکاشہ بن محسن الاسدی رضی اللہ عنہ بجانب الغمر مرزوق	//	نصرت الہی کے طلبگار
//	سریہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ بجانب ذی القصہ	//	نعیم بن مسعود الاشجعی کی کامیابی
//	سریہ ابوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ بجانب ذی القصہ	//	مشرکین کے لیے رسول اللہ ﷺ کی بددعا
۳۱۵	سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بجانب بنی سلیم بمقام الجحوم	۳۰۵	غزوہ بنی قریظہ
//	سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بجانب العیص	//	ابولبابہ بن عبدالمندرج کی ندامت
//	سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بجانب الطرف	//	مال غنیمت
۳۱۶	سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بجانب حصی	۳۰۶	سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا فیصلہ
//	زید بن رفاعہ الجذامی کی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں	//	بنی قریظہ کا عبرتناک انجام
۳۱۶	حاضری	//	مال غنیمت کی تقسیم
//	سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بجانب وادی القریٰ	//	قلعہ بنی قریظہ پر پیش قدمی
//	سریہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بجانب دومۃ الجندل	۳۰۷	حضرت جبریل کی آمد
//	سریہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بجانب سعد بن مکر بمقام	//	حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات

۳۲۳	صلح نامہ حدیبیہ	۳۱۷	فدک
۳۲۴	حضرت ابو جندل کی واپسی کا واقعہ	۳۱۸	سریہ زید بن حارثہ بجانب ام قرفہ بمقام وادی القرئی
۳۲۵	فتح مین کی خوشخبری	۳۱۹	مسلمانوں کے تجارتی قافلہ پر حملہ
۳۲۶	شرکائے بیعت رضوان کی تعداد	۳۲۰	بنی فزارہ کا عبرتناک انجام
۳۲۷	شجرۃ الرضوان	۳۲۱	سریہ عبداللہ بن عتیک بمقام خیبر
۳۲۸	صلح حدیبیہ کی شرائط	۳۲۲	ابورافع کا قتل
۳۲۹	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی غیرت ایمانی	۳۲۳	سریہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بجانب اسیر بن زارم
۳۳۰	ہتھیار لانے پر پابندی	۳۲۴	یہودی
۳۳۱	وحی کا نزول	۳۲۵	اسیر بن زارم کا قتل
۳۳۲	اونٹوں کی قربانی	۳۲۶	سریہ کرز بن جابر الفہری بجانب العربین
۳۳۳	حلق کروانے والوں کے لیے دعاء	۳۲۷	عربین کی بدعہدی
۳۳۴	آیات فتح کا نزول	۳۲۸	عربین کا انجام
۳۳۵	غزوہ خیبر	۳۲۹	وحی کا نزول
۳۳۶	تیاری کا حکم	۳۳۰	سریہ عمرو بن امیہ الضمری
۳۳۷	مدینہ میں قائم مقام	۳۳۱	حضور ﷺ کو شہید کرنے کی سازش
۳۳۸	اسلامی علم بردار	۳۳۲	قتل کے لئے آنے والے کی گرفتاری و قبول اسلام
۳۳۹	معرکہ آرائی کا آغاز	۳۳۳	ابوسفیان کے قتل کے لئے مہم
۳۴۰	شہدائے خیبر	۳۳۴	غزوہ حدیبیہ
۳۴۱	زینب بنت الحارث یہودیہ کا قتل	۳۳۵	مسلمانوں کی تعداد
۳۴۲	مال غنیمت کی تقسیم	۳۳۶	حضور ﷺ کو روکنے کی کوشش
۳۴۳	ابوہریرہ و اشعری رضی اللہ عنہما کا قبول اسلام	۳۳۷	حدیبیہ میں تشریف آوری
۳۴۴	جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی واپسی	۳۳۸	بدیل بن ورقہ کی حضور ﷺ سے ملاقات
۳۴۵	ام المؤمنین صفیہ بنت حبیب رضی اللہ عنہا سے نکاح	۳۳۹	عروہ بن مسعود انصاری کی حضور ﷺ سے ملاقات
۳۴۶	فتح خیبر پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا اظہار مسرت	۳۴۰	قریش کو اخلیس بن علقمہ کا انتباہ
۳۴۷	خیبر کے یہودی کی بدحواسی	۳۴۱	حضرت خراش بن امیہ رضی اللہ عنہ بحیثیت سفیر نبوی ﷺ
۳۴۸	یہود خیبر کو وارنگ	۳۴۲	قریش سے مذاکرات کے لئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی
۳۴۹	مال و جائیداد کی ضبطی	۳۴۳	روانگی
۳۵۰	حضرت علی رضی اللہ عنہ کی علمبرداری	۳۴۴	بیعت رضوان

۳۳۶	سریہ غالب بن عبد اللہ اللیشی	۳۳۳	عامر اور مرحب کے مابین معرکہ آرائی
۳۳۷	سریہ شجاع بن وہب الاسدی	۳۳۴	عامر کی شہادت
۳۳۸	سریہ کعب بن عیسٰی الغفاری	۳۳۵	عامر کے لئے حضور ﷺ کی دعائے مغفرت
۳۳۹	سریہ موتہ	۳۳۶	حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مرحب کا خاتمہ
۳۴۰	قاصد نبوی حارث بن عیسٰی کی شہادت	۳۳۷	در بار رسالت میں کنانہ اور الربیع کی غلط بیانی
۳۴۱	امراء لشکر کا تقرر	۳۳۸	کنانہ اور الربیع کا قتل
۳۴۲	اسلامی لشکر کی روانگی	۳۳۹	گدھے کے گوشت کی ممانعت
۳۴۳	آغاز جنگ	۳۴۰	خیبر کے مال غنیمت کی تقسیم
۳۴۴	امیر اول حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی شہادت	۳۴۱	زہریلا گوشت
۳۴۵	امیر ثانی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شہادت	۳۴۲	حضرت صفیہ بنت حبیب رضی اللہ عنہا سے عقد نکاح
۳۴۶	امیر ثالث حضرت عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت	۳۴۳	سریہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بجانب تربہ
۳۴۷	حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا کارنامہ	۳۴۴	سریہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بجانب بنی کلاب بمقام نجد
۳۴۸	اہل مدینہ کا اظہار افسوس	۳۴۵	سریہ بشیر بن سعد الانصاری بمقام فدک
۳۴۹	رسول اللہ ﷺ کا سکوت	۳۴۶	سریہ غالب بن عبد اللہ اللیشی بجانب المیقہ
۳۵۰	شہدائے موتہ کا اعزاز	۳۴۷	سریہ بشیر بن سعد الانصاری بجانب یمن وجبار
۳۵۱	سریہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ	۳۴۸	عمرہ قضاء
۳۵۲	سریہ الخیط (برگ درخت) بابارت ابو عبیدہ بن الجراح	۳۴۹	نیابت نبوی کا اعزاز
۳۵۳	سریہ ابو قتادہ بن ربیع الانصاری	۳۵۰	مسلمانوں کی مراظرہ ان میں آمد
۳۵۴	سریہ ابو قتادہ بن ربیع الانصاری	۳۵۱	مکہ میں حضور ﷺ کا داخلہ
۳۵۵	غزوہ فتح مکہ	۳۵۲	طواف بیت اللہ
۳۵۶	بخوزاعہ پر بنو بکر کے افراد کا شب خون	۳۵۳	حضرت عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے اشعار
۳۵۷	بد عہدی پر اہل مکہ کو تشویش	۳۵۴	حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بنت الحارث کے ساتھ نکاح
۳۵۸	تجدید معاہدہ کی درخواست	۳۵۵	حضور ﷺ کی واپسی
۳۵۹	حاطب رضی اللہ عنہ کے قاصد کی گرفتاری	۳۵۶	حضرت عمارہ بنت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما
۳۶۰	حلیف قبائل کی طلبی	۳۵۷	عمرہ قضاء میں رطل کا حکم
۳۶۱	عبد اللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے لئے نیابت کا اعزاز	۳۵۸	سریہ ابن ابی العوجاء السلمی بجانب بنی سلیم
۳۶۲	اسلامی لشکر کی روانگی	۳۵۹	سریہ غالب بن عبد اللہ اللیشی بجانب بنی الملوح بمقام الکدید
۳۶۳	ابوسفیان کا قبول اسلام	۳۶۰	

۳۶۱	ہذیل کے بت خانہ کی بربادی	۳۵۴	اسلامی لشکر کا مکہ میں فاتحانہ داخلہ
۳۶۲	سریہ سعید بن زید الاشہلی	///	حضور ﷺ کے نامزد کردہ افراد کا قتل
///	بت خانہ مناة کا انہدام	///	عکرمہ بن ابوجہل اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا مقابلہ
///	سریہ خالد بن الولید رضی اللہ عنہ	///	شہدائے فتح مکہ
///	بنی جذیمہ کا معاملہ	۳۵۵	خیبر نبوی ﷺ
۳۶۳	مقتولین کے خون بہا کی ادائیگی	///	بیت اللہ سے بتوں کو نکالنا
///	یوم الغصاء	///	خانہ کعبہ میں پہلی اذان
۳۶۴	غزوہ حنین	///	بتوں کی تباہی
///	ہوازن اور ثقیف کا اتحاد	۳۵۶	رسول اکرم ﷺ کا خطبہ فتح یا رحمت کی رم جھم
///	مکہ سے روانگی	///	یوم فتح مکہ
۳۶۵	پرچم اسلام	///	روزہ رکھنے کے بعد افطار کر دینے کا واقعہ
///	مسلمانوں پر اچانک حملہ	۳۵۷	لشکر اسلام کی تعداد
۳۶۶	ثابت قدم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اسمائے گرامی	///	رسول انور ﷺ کا منفرد فاتحانہ انداز
///	مسلمانوں کا شدید جوابی حملہ	۳۵۸	یوم الفتح میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے اشعار
///	قتل عام	///	گستاخ رسول ابن خطل کا انجام
///	کفار کی پسپائی	///	ابن ابی سرح کے لئے معافی
///	ابو عامر رضی اللہ عنہ کی شہادت	۳۵۹	عام معافی کا اعلان
۳۶۷	ابوموسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کے لئے نیابت کا اعزاز	///	بیت اللہ کو بتوں سے پاک کرنے کا حکم
///	شہدائے غزوہ حنین کے اسمائے گرامی	///	لسان نبوت سے سورہ فتح کی تلاوت
///	مالک بن عوف کا فرار	///	درس مساوات
///	اسیران جنگ و مال غنیمت	///	قیام مکہ میں نماز کے متعلق مختلف روایات
///	مال غنیمت کی تقسیم	۳۶۰	ام ہانی کی سفارش پر امان دینے کا واقعہ
۳۶۸	حضور ﷺ کے رضاعی چچا ابو زرقان کی سفارش	///	عالم سعید بن سعید العاص
///	مال غنیمت کی واپسی	۳۶۱	عتاب بن اسید کی بطور عامل مکہ تقرری
///	انصار کی تشویش و اظہار اطمینان	///	سریہ خالد بن الولید رضی اللہ عنہ
///	انصار کے لیے دعائے نبوی ﷺ	///	عزہ کی تباہی
۳۶۹	حضور ﷺ کی استقامت اور ثابت قدمی	///	ایک پر اسرار عورت کا قتل
///	حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بلانے کا حکم	///	سریہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ

۳۷۸	سورہ توبہ کا نزول	۳۶۹	اسیران جنگ کی رہائی
//	جیش عمرہ کی حالت	۳۷۰	میدان جنگ کی حالت
//	حضور ﷺ کا آخری غزوہ	//	بارش کا نزول
۳۷۹	مراجعت مدینہ	//	کفار کو شکست
//	حج بامارت ابوبکر الصديق رضی اللہ عنہ	۳۷۱	سریہ طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ
//	حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شمولیت	//	ذی الکفین کا انہدام
//	سورہ توبہ (براءت) کا اعلان	//	غزوہ طائف
//	یوم النحر	//	بنو ثقیف کی قلعہ بندی
۳۸۰	سریہ خالد بن الولید رضی اللہ عنہ	//	طائف کا محاصرہ
//	سریہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ	۳۷۲	غلامان طائف کی آزادی کا اعلان
//	یحییٰ قباہل کا قبول اسلام	//	رسول اللہ ﷺ کا نوفل بن معاویہ سے مشورہ
//	مال غنیمت کی تقسیم	//	طائف سے واپسی کا حکم
//	حضور ﷺ نے چار عمرے کیے	۳۷۳	محاصل کی وصولی
۳۸۱	جئہ الوداع	//	سریہ عیینہ بن حصن الفزاری
//	جئہ الاسلام	۳۷۴	بنی امصطلق سے محصولات کی وصولی
۳۸۲	مدینے سے روانگی	//	سریہ قطبہ بن عامر بن حدیدہ
	رسول اللہ ﷺ کے عمرہ و حج کی نیت کے بارے میں	۳۷۵	سریہ ضحاک بن سفیان الکلابی
//	روایات	//	سریہ علقمہ بن مجزہ المدلجی
//	بیت اللہ کی عظمت کے لیے دعائے مصطفیٰ ﷺ	//	سریہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بجانب قبیلہ طے
//	مناسک حج کی ادائیگی	۳۷۶	سریہ عکاشہ بن محسن الاسدی رضی اللہ عنہ
۳۸۳	یوم الترویہ	//	غزوہ تبوک
//	مزدلفہ میں تشریف آوری	//	منافقین کا جہاد سے گریز
//	جرمہ عقبہ کی رمی	۳۷۷	نیابت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ
//	وادی مخر سے گزر	//	جیش عمرہ کی تبوک میں آمد
//	خطبہ حج کا دین	//	اکیدر بن عبد الملک کی گرفتاری
//	یوم الصدر الآخر	//	مال غنیمت کی تقسیم
//	حج و عمرہ کا تلبیہ	//	اکیدر سے مصالحت
۳۸۴	رسول اللہ ﷺ کا قربانی فرمانا	۳۷۸	عباد ابن بشر کا حضور ﷺ پر پہرہ

۳۹۱	غلاموں کے متعلق ارشاد نبویؐ	۳۸۴	یوم النحر
۳۹۲	یوم الحج پر خطبہ نبویؐ	۳۸۵	نیت حج کے لیے ہدایت
۳۹۳	ذی الحجہ کی امتیازی عظمت	۳۸۶	رکن یمانی پر رسول ﷺ کی دعاء
۳۹۴	ایام تشریق	۳۸۷	بیت اللہ میں نماز
۳۹۵	﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ﴾ کا نزول	۳۸۸	مناسک حج کا بیان
۳۹۶	رسول اللہ ﷺ نے صرف ایک مرتبہ حج کیا	۳۸۹	سواری پر رسول اللہ ﷺ کی ہم نشینی کا شرف
۳۹۷	سریہ اسامہ بن زید حارثہ رضی اللہ عنہ	۳۹۰	رمی کے بارے میں ہدایت
۳۹۸	اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو نصیحت	۳۹۱	دین میں غلو کی ممانعت
۳۹۹	رسول اللہ ﷺ کی علالت	۳۹۲	مناسک حج سیکھنے کی ترغیب
۴۰۰	امارت اسامہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض	۳۹۳	ازواج مطہرات کی روائگی
۴۰۱	رسول اللہ ﷺ کا اظہار خفگی	۳۹۴	سقیۃ النبیذ
۴۰۲	رسول اللہ ﷺ شدت مرض کی کیفیت میں	۳۹۵	منی میں خطبہ نبویؐ
۴۰۳	دُعائے نبویؐ کے ساتھ لشکر اسامہ کی روائگی	۳۹۶	یوم النحر میں خطبہ نبویؐ
۴۰۴	آنحضرت ﷺ کا وصال	۳۹۷	یوم العقبہ میں خطبہ نبویؐ
۴۰۵	جیش اسامہ رضی اللہ عنہ کی واپسی	۳۹۸	شب عرفہ میں خطبہ نبویؐ
۴۰۶	اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی دوبارہ روائگی	۳۹۹	یوم عرفہ میں خطبہ نبویؐ
۴۰۷	جیش اسامہ رضی اللہ عنہ کی مدینہ میں فاتحانہ واپسی	۴۰۰	مناسک حج کی تعلیم



تلمیحات

اس ترجمے میں قدرے حسب ذیل امور کا التزام ہے جن کی جانب اشارہ ضروری ہے۔
 ہر ایک قوم ہر ایک زمانے اور ہر ایک زبان کی بعض بعض خصوصیتیں ہوتی ہیں جو دوسری قوم دوسرے زمانے اور دوسری زبان میں بمشکل نظر آ سکتی ہیں۔

عرب جاہلیت اور ان کی عربیت اپنی نمایاں خصوصیات کے لئے آج تک ممتاز ہے۔
 عام ترجموں میں تمام خصوصیتیں نظر انداز کر دی جاتی ہیں اور وہی مترجم کامیاب مانا جاتا ہے جو اپنی قوم اپنی زبان اور اپنے زمانے کے مخصوص محاورات میں اُس کتاب کا ترجمہ کرے جو ایک اجنبی قوم نے اپنی خاص زبان میں صدیوں پیشتر تصنیف یا تالیف کی تھی۔

ترجمہ طبقات کو آپ اس حیثیت سے نہایت ناکام پائیں گے۔ کیونکہ اس پر داز یہ ہے کہ عہد جاہلیت میں عربوں کی جو خصوصیتیں تھیں اور ادائے مطالب کے لئے اُن دنوں ان کی زبان خاص خاص حالتوں میں جیسے جیسے محاورات رکھتی تھی اردو ترجمہ میں وہ سب آجائیں اور پھر طرز بیان غریب و ناموس بھی نہ ہو اور جہاں ناگزیر ہو غرابت پیش آئے اس کی علیحدہ تشریح کر دی جائے۔

اردو میں خطاب کے لئے کئی لفظ ہیں: آپ، تم، تو۔ جو بہ اختلاف مدارج استعمال کئے جاتے ہیں۔ عربوں میں یہ تفریق نہ تھی لہذا مجبور رسول اللہ ﷺ کے بقیہ سب کے لئے ترجمہ میں وہی طرز خطاب اختیار کیا گیا جو ان دنوں مستعمل تھا۔

اسی طرح کے اور بھی بہت سے مراتب ہیں جو اردو میں ہیں اور عربی میں نہیں یا ہیں تو کسی دوسرے انداز میں لیکن عربیت کا لزوم بہر حال مد نظر رکھا گیا کہ اہل بصیرت یہ بھی اندازہ کر سکیں کہ عربی زبان اور عربوں کی قوم کیا کیا خاص اطوار رکھتی تھی اور اردو میں کہاں تک اس سے اختلاف یا اختلاف کی صلاحیت تھی۔

زبانیں بیرونی تفریق کے علاوہ ایک اندرونی تفریق بھی رکھتی ہیں۔ مثلاً عربی زبان ہی کو لیجئے مراسلت کی زبان جدا ہے۔

خطابت کی زبان جدا ہے، ادب و انشاء کی زبان جدا ہے، فلسفہ و حکمت کی زبان جدا ہے، تفسیر و حدیث کی زبان جدا ہے، فقہ و اصول کی زبان جدا ہے، تاریخ و جغرافیہ کی زبان جدا ہے۔

کتاب الروضتین فی اخبار الدولتین یا الفتح القدسی فی الفتح القدسی یا قلائد العقیان یا یتیمۃ الدھر یا عجائب المقدور تاریخ کی کتابیں تھیں۔ مگر ان میں زبان جو اختیار کی گئی وہ تاریخ کی زبان نہ تھی لہذا انہیں وہ حسن قبول حاصل نہ ہوا۔ جو انہیں کی زبان اختیار کرنے سے ہمدانی و حریری کی کتابوں کو حاصل ہوا تھا۔ کیونکہ ہمدانی و حریری نے جس فن میں کتابیں لکھیں۔ اسی فن کی زبان بھی اختیار کی اور ان حضرات نے تاریخ تو لکھی مگر زبان ادب و انشاء کی رکھی۔

اس ترجمے میں اُسی زبان کا اتباع کیا گیا ہے جو علم رجال کی خاص زبان ہے ساتھ ہی یہ التزام ہیں کہ عبارت شستہ شکستہ اور سلیس ہو کسی قسم کا اخلاق و تعقید و تضیع و اضطراب نہ آنے پائے اور یہ ترجمہ اصل کتاب کے روشن ترین ادبی امتیاز کا آئینہ دار ہو سکے۔

بہت سے محاورات ایسے ہیں جو اس کتاب میں غریب نظر آئیں گے، مثلاً کانوا یعذرون کے عام معنی یہی سمجھے جائیں گے کہ وہ لوگ عذر کرتے تھے یا معذرت کرتے تھے یا بہانہ کرتے تھے حالانکہ مفہوم ختنہ کرنے کا ہے۔

من شر ما مر علی الجبال جبال کے معنی پہاڑوں کے متبادر ہوں گے۔ حالانکہ اصل میں جبلتیں اور طبعیتیں مراد ہیں۔ کانت تشرب انوفہم قبل شفاهم میں لب سے پہلے ناک کے تر ہونے کا گمان ہوگا۔ حالانکہ خصائص جاہلیت کے جاننے والے جانتے ہیں کہ ایسے محاورات سے قوم الفت ابائے ضہیم عزت نفس اور خودداری کا اظہار مقصود ہوتا تھا۔ الی غیر ذلك مما یحذو و حذوہ اصل سے تطبیق دیتے وقت اگر ترجمہ میں کوئی ایسا اشتباہ محسوس ہو تو اس نکتہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کی تحقیق کرنی چاہئے۔ وما ابوء فی نفسی ان النفس لا مارة بالسوء، الا ما رحم ربی، ان ربی لغفور رحیم۔

مضامین و مطالب کے عنوانات مترجم نے خود قائم کئے ہیں اور شمارہ ترتیبی کا مسئول بھی وہی ہے جس سے محض توضیح مطلوب تھی۔

ہر قوم اپنی فعالیت کے سادہ و بے تکلف عصر عمل بہت سے تعظیمی الفاظ کی خوگر نہیں ہوا کرتی، دل سے تو اپنے بزرگوں کی انتہائی تعظیم کرتی ہے مگر ظاہری ایقاب عظمت سے ان کے نام کو گراں بار نہیں بنایا کرتی، عرب اس ادائے خاص کے لئے آج تک شہرہ آفاق ہیں اور اس خصوصیت سے روشناس کرنے کے لئے ترجمے میں بھی یہی رعایت رکھی گئی ہے۔

آخر میں مترجم اپنی بے بضاعتی کا اعتراف کرتے ہوئے محض جناب الہی سے افادہ عموم و حسن قبول کا طلب گار ہے۔

ربنا تقبل منا انک انت العزیز الحکیم، رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، واجعل لی لسان صدق فی الآخنین، ولا تخلدنی یوم یبعثون، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین



اسلوب روایت کی اہمیت

اسلام کے ابتدائی عہد مدینیت میں کسی واقعے کے موثق ماننے کے جو طریقے تھے ان میں ایک سبیل خاص یہ بھی تھی کہ سلسلہ روایت آخر تک مسلسل ہو فرض کیجئے آج آپ ایک واقعے کا تذکرہ کر رہے ہیں جو آج سے ایک سو برس قبل گزرا تھا۔ اس کی واقعیت کی وادی تحقیق میں آپ کا پہلا قدم راویوں کی جانب بڑھے گا جس سے آپ نے یہ داستان سنی ہے۔ اس نے فلاں سے فلاں سے فلاں نے فلاں سے سنی تھی۔ تا آنکہ آخری راوی وہ شخص تھا جو واقعے میں بذات خود شریک تھا اور اس کے سامنے یہ باتیں پیش آئیں۔

یہ ایک ممتاز خصوصیت تھی جس کا علمبردار دنیا بھر میں اکیلا ایک اسلامی تمدن ہی گزرا ہے اور وہی اپنے سلسلہ رواۃ سے اہل نظر کے لئے ایک وسیع ذخیرہ اعتقاد فراہم کرتا ہے کہ جس واقعہ کی خواہ وہ کسی زمانے کا ہو جب آپ چاہیں تعدیل یا ترجیح کر سکتے ہیں۔ اس کے راوی ثقہ، صحیح العقول، سلیم العقل، قوی الحفظ، مسند الوقت وغیرہ وغیرہ تھے یا نہیں، اور روایت کا تسلسل قابل اطمینان صورت میں آخر تک پہنچتا ہے یا بیچ میں کہیں منقطع تو نہیں ہو جاتا۔

علم حدیث وفن تاریخ ہی اس طغرائے امتیاز سے مزین نہ تھے بلکہ ہر جگہ یہی تعلیم تھی۔ حتیٰ کہ موسیقی کے متعلق جن لوگوں نے کتابیں لکھیں یہ خصوصیت ان کے بھی پیش نظر رہی۔

دائرہ جتنا وسیع ہوتا گیا اسی تناسب سے پہنائیاں بھی بڑھتی گئیں، اس زمانے میں تو ایک بڑی حد تک چھاپے خانوں نے تصنیف و تالیف اور ترجمے کی اشاعت اپنے ذمہ لے رکھی ہے جس نے ہر قلم کش کو ملائے عام دے دی ہے کہ مصنف بنے، مؤلف بنے، مترجم بنے جو چاہے بنے

کہ بیچ کس نشاندہانے را از خاد

قلم کشی یا وراثتی سے وہ زمانہ بھی خالی نہ تھا مگر ان دنوں دستور یہ تھا کہ اہل علم جو کتاب مدون کرتے ایک عام حلقے میں اس کا درس بھی دیتے جہاں اس کے معیار کا اندازہ ہو جاتا کہ ناقص ہے یا کامل ہے یا کیا ہے۔ اس نقد و اختیار میں اگر کتاب کامل المعیار اترتی تو صاحب کتاب سے اور باب کمال اس کی روایت کرتے اور انہیں کی روایت سے وہ مشہور ہوتی۔ ابن سعد کی طبقات کبیر بھی اسی سلسلہ روایت سے شہرہ آفاق ہوئی جس کا تسلسل یوں ہے:

طبقات ابن سعد کا سلسلہ روایت:

ابن سعد کا پورا نام ابو عبد اللہ محمد بن سعد بن منیع تھا۔ طبقات کی روایت ان سے ابو محمد الحارث بن محمد ابی اسامہ التمیمی نے روایت کی، ابو محمد سے ابو الحسن احمد بن معروف بن بشر بن موسیٰ الخشاب نے ابو الحسن سے ابو عمر محمد بن العباس بن محمد بن زکریا بن یحییٰ بن معاذ بن جویہ الخزاز نے ابو عمر سے ابو محمد الحسن بن علی بن محمد بن الحسین بن عبد اللہ الجوزی نے ابو محمد سے قاضی ابوبکر بن محمد بن عبد الباقی بن محمد بن عبد اللہ الانصاری نے قاضی ابوبکر سے ابو محمد بن عبد اللہ بن وہیل بن علی بن کارہ نے ابو محمد سے شمس الدین ابو الحجاج یوسف بن خلیل بن عبد اللہ دمشقی نے جو ملک شام کے مسند الوقت محدث تھے شمس الدین ابو الحجاج سے شرف الدین ابو محمد عبد المؤمن بن خلف بن ابی القیس الدمیاطی نے روایت کی اور انہیں کی روایت سے دنیا بھر میں یہ کتاب پھیلی جو محدث بھی تھے عالم بھی تھے حافظ بھی تھے۔ بہت سے فنون میں دستگاہ رکھتے تھے اور علم انساب و تاریخ کے تو مرد میدان تھے۔

مختلف عنوانات کے ذیل میں مصنف نے جن جن راویوں سے روایتیں کی ہیں ان سب کے سلاسل اسناد بہ امتثال اوامر مجلس معارف ترک کر دینے پڑے تاہم آخری راوی کا نام کہ واقعہ کاراویٰ اوّل وہی ہوتا ہے ہر وقت میں آپ کو نظر آئے گا اور اگر فن رجال پر آپ کو عبور ہے تو صرف اس ایک راوی کی منزلت شناسی بھی روایت کی حقیقت واضح کر دے گی۔

واللہ المستعان و بہ الاعتصام



کتاب اور صاحب کتاب

اس کتاب کے مصنف حافظ علامہ ابو عبد اللہ محمد بن سعد البزوفی ہیں جن کو قبیلہ بنی یربوع سے خاندانی انتساب تھا۔ بصرہ میں یہ خاندان مقیم تھا اور وہیں ابن سعد پیدا ہوئے۔

ان کی ابتدائی زندگی سادات بنی ہاشم کی غلامی میں گزری، بہت دنوں تک محمد بن عمر الواقدی کی کتابت بھی کرتے رہے حتیٰ کہ ”کاتب الواقدی“ ہی کے نام سے مشہور بھی ہوئے۔

اسی زمانے میں مشاہیر ائمہ سے استفادہ کرتے رہے اور جب آزاد ہوئے تو تمام زندگی نشر علم کے لئے وقف کر دی۔ بغداد میں آ کے مقیم ہوئے جو علم و حکمت کا مرکز تھا۔ بڑے بڑے نامور محدثین مثلاً ہشیم، سفیان بن عیینہ، ابن علیہ، ولید بن مسلم سے حدیثیں روایت کیں اور اس طرح اسلام نے اپنے غلام کی وہ تربیت کی کہ آزادگان روزگار اس کے حلقہ گوش ہو گئے۔

اس باب میں اتنا شغف تھا کہ جو بزرگ نیچے طبقے کے تھے مگر جلالت شان میں وہ سابقین پر فوق لے گئے تھے ابن سعد ان سے بھی روایت کرتے ہیں اور یہی باعث ہے کہ شیخ الاسلام فی الحدیث یحییٰ بن معین سے انہوں نے اکثر روایت کی ہے۔

قریب قریب جتنے اساطین علم حدیث گزرے ہیں سب کے سب انہیں ثقہ و مثبت و صدوق و حجت مانتے ہیں۔ چنانچہ علم الرجال کے بزرگ ترین نقاد ابو حاتم نے بھی ان کی توثیق کی ہے نہایت اعلیٰ یہ کہ مشائخ محدثین کو ان کی شاگردی کا فخر ہے ابن ابی الدنیا جیسے یکتائے روزگار ان کے حلقہ درس میں بیٹھے ہیں اور ان کی سند سے حدیثیں روایت کرتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہ علوم منزلت کے شہرہ آفاق ہیں ان کے مجموعہ احادیث کے اجزاء منگامنگا کے استفادہ کیا کرتے تھے۔

ابن سعد مختلف علوم اسلام کے جامع تھے جن کی جامع و مختصر تقسیم یوں ہو سکتی ہے:

❖ حدیث بجمع الاصناف.

❖ غریب القرآن و غریب الحدیث. یہ بھی قسم اول ہی کا ایک شعبہ ہے مگر ابن سعد کے تجر و تفنن نے اس میں ایک مستقل حیثیت پیدا کر لی تھی۔

❖ فقہ

❖ تاریخ

❖ ادب

❖ سیرۃ النبی ﷺ اخبار صحابہ رضی اللہ عنہم

قد مائے مصنفین ان تمام علوم میں ان کو سرآمد زمانہ تسلیم کرتے آئے ہیں۔

تین مبسوط و مستقل کتابیں انہوں نے یادگار چھوڑیں:

① طبقات کبیر

② طبقات صغیر

③ تاریخ اسلام

ان میں دو آخری کتابیں دُنیا سے ناپید ہو چکی ہیں۔ اول الذکر بھی ناپید تھی، مگر مستشرقین المانی کی کوششوں نے اس گمشدہ گوہر شب چراغ کو ڈھونڈ نکالا، اور اعلیٰ حضرت با و شاہ اسلام ظل اللہ فی الارضین، محی الملئد و الحکمۃ والحق والدین، عمدہ ملوک و السلاطین، نظام الملک آصف جاہ سابع تاجدار دکن ایدہ اللہ وابد دولہ و رفع شادہ و شید شوکتہ کی بدیع المثال معارف نوازی و معالم افزازی کے طفیل میں آج اس کا اردو ترجمہ ہدیہ اہل نظر ہے۔

اس فن میں جس قدر معروف مصنفات ہیں یہ کتاب تقریباً ان سب کی ماخذ ہے اور سب ہی نے اسے مستند مانا ہے۔ اس میں ایسے ایسے سبق آموز واقعات ملتے ہیں جو کسی دوسری تاریخ میں مل ہی نہیں سکتے بایں ہمہ دو خاص باتیں نظر انداز نہیں ہو سکتیں۔

① انبیائے سابقین علیہم السلام کے حالات میں کتاب اللہ و احادیث رسول اللہ ﷺ سے جو باتیں زائد مذکور ہیں وہ عموماً عہد جاہلیت یا اس کے قریبی زمانے کے یہودیوں اور عیسائیوں سے ماخذ ہیں۔ جنہیں اہل کتاب کہتے تھے اور جن کے پاس تورات و تلمود و شروح و حواشی اور ایک سو کے قریب مناقص المطالب و مخالف المعانی انجیلوں کا ایک بڑا طومار تھا۔

جو واقعات اہل کتاب روایت کرتے تھے علمائے عرب انہی کی ذمہ داری پر ان کو نقل کر دیتے تھے اور ان کی تحقیق کے متعلق یہ اصل الاصول قرار دے رکھا تھا کہ لا نصدقھا و لا نکذبھا (ہم ان کہانیوں کی نہ تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب)۔

اہل عرب کے شان تحقیق اصل میں وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے تاریخ اسلام کا آغاز ہے اور اسی کی تعمیل و تحقیق ان کی منشاء حقیقی بھی ہے۔

② اس کتاب میں معجزات کی اکثر روایتیں موجود ہیں اور یہی وہ خار ہے جو ہمارے زمانے کی مادی آنکھوں میں کھٹکتا ہے۔ یہ بزرگ سمجھتے ہیں کہ قانون قدرت کے تمام واقعات پر گویا وہ حاوی ہو چکے ہیں اور ان کی رائے میں کسی خارق عادت کا صدور گویا ناموس فطرت کے مناقص ہے۔ یہی باعث ہے کہ اس کتاب سے بھی وہ بدگمان ہو رہے ہیں لیکن اس کو کیا کریں گے کہ اسلام ہی نہیں دُنیا کے ہر ایک مذہب کا بڑا سرمایہ معجزات سے معمور ہے اور خود علم و حکمت بھی اصلاً اس کے منافی نہیں۔

عقل را نیست سر عربدہ این جا بانقل

پنبہ را آشتی این جابہ شرار افتاد است

یہ مقام اس بحث کی توسیع کا نہیں ہے۔ اہل نظر کو خاص اسی مسئلے کی علمی تحقیق کے لئے ایک مستقل کتاب کا انتظار کرنا

چاہئے جو سرمہ دیدہ اولی الابصار ہوگی۔ ان شاء اللہ

وماتوفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب

ایک مبسوط ناقدانہ مقدمے کو بھی اس ترجمے کے ساتھ ضرورت تھی اور خاص خاص روایتوں پر از روئے اصول تخریج و تعدیل مخصوص تعلیق بھی کرنی تھی۔ لیکن افسوس ہے کہ اس کا موقع نہیں ملا۔ تاہم اس ناصر العلوم الدینیہ والحضارۃ العربیہ والمدینۃ الاسلامیہ شہر یار علم پرور معید حکمت و ہنر محقق اللہ بدوام حیات و قوام آیۃ، بالخط الاوفی والقسط الاوضہ ہی کا یکن اقبال ہے کہ جامعہ عثمانیہ میں اتنا بڑا وسیع کام ہوا اور ہو رہا ہے۔

ہر کرا باہر شسر سودا باشد
پائے ازیں دائرہ بیرون نہ نہند تابا شد

ابن سعد کا سنہ ولادت ۱۶۸ھ اور سال وفات ۲۴۰ھ ہے ۶۲ سال کی عمر تھی۔ جب واصل بحق ہوئے اور دارالسلام بغداد میں دفن کئے گئے۔ امام ذہبی کہ سرگروہ محدثین ہیں طبقات ابن سعد کو بڑے فخر سے روایت کرتے ہیں۔ اس تفاخر کی جو سند انہیں حاصل تھی۔ تقریباً اصل کتاب کی سند روایت بھی وہی ہے اور انہی صفحات میں علیحدہ ثبت ہو چکی ہے۔
اللہ اکبر ایک وہ زمانہ تھا کہ اسلام کے غلام اتنے بڑے امام ہوتے تھے ایسے سرکردہ انام ہوتے تھے اور اب ایک یہ وقت ہے کہ جو نام نہاد آزاد ہیں جہالت کے ہاتھوں وہ بھی اسیر اضطہاد ہیں، فہل من مدکر؟

چوں ازو گشتی ہمہ چیز از تو گشت



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

○

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ط وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَافْقَى ضَلَالٍ مُبِينٍ، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

○

رَبَّنَا اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا
الضَّالِّينَ ۝ آمِينَ

خیر الانساب نسب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میں سردارِ فرزندانِ آدم ہوں۔“
واحد بن اسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے فرزندانِ ابراہیمؑ میں اسماعیل علیہ السلام
کو اولادِ اسماعیل میں بنی کنانہ کو بنی کنانہ میں قریش کو قریش میں بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو برگزیدہ فرمایا ہے۔“
علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے زمین کے دو برابر حصے کئے جو
بہترین حصہ تھا مجھے اس میں رکھا۔ اس حصے کی بھی تین تہائیاں کیں۔“
جو بہترین تہائی تھی مجھے اس میں رکھا یہ تخیر کر لی تو اقوامِ انسانی میں سے قومِ عرب کو پسند فرمایا عرب میں قریش کو قریش

میں بنی ہاشم کو بنی ہاشم میں اولاد عبدالمطلب کو اور ان میں سے مجھ کو۔

محمد بن علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے عربوں کو پسند بھر دیا، ان میں سے کنانہ بن نصر بن کنانہ کو ان میں قریش کو، قریشیوں میں بنی ہاشم اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو اپنی پسندیدگی کا شرف بخشا (راوی کو شک ہے کہ نبی کریم ﷺ نے کنانہ کا نام لیا تھا یا نصر بن کنانہ ارشاد ہوا تھا)۔“

عبداللہ بن عبید بن عمیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی عربوں کی جانب معطوف ہوئی، عربوں میں سے بنی کنانہ، کنانیوں میں قریش، قریشیوں میں بنی ہاشم اور ہاشمیوں میں سے میرے ساتھ یہ پسندیدگی مخصوص ہو گئی۔“

حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں سابق العرب ہوں۔“

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے آیت ﴿رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ ”ایک پیغمبر جو تم ہی میں سے ہے“ کی تفسیر میں روایت ہے کہ وہ کہتے تھے: ”اہل عرب! وہ پیغمبر تمہاری ہی اولاد تو ہے۔ یعنی جو سبھی سلسلہ تمہارا ہے وہی اس کا بھی ہے۔“

مجاہد سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کسی سفر میں شب کو بادیہ نورد تھے۔ مصیبت میں ایک شخص بدرتے کا کام دے رہا تھا۔ ناگاہ ایک حدی سرا کی آواز سنائی دی جس کے آگے کچھ اور لوگ بھی تھے۔ آنحضرت ﷺ نے اپنے رفیق سفر سے فرمایا کیا اچھا ہوگا کہ ان لوگوں کے حدی سرا سے ہم بھی جا ملیں۔ یہ اشارہ پاتے ہی ہم نے قدم بڑھائے، نزدیک ہوئے تا آنکہ جا ملے۔ آنحضرت ﷺ نے دریافت کیا: مِمَّنِ الْقَوْمُ؟ (تم لوگ کون ہو؟) انہوں نے جواب دیا: مضری۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں بھی مضری ہوں۔ و فی حادینا فسمعنا حادیکم فاتیناکم (ہمارا حدی خواں کچھ ست ہو گیا ہے۔ ہم نے تمہارے حدی خواں کی آواز سنی تو پاس آ گئے)۔

یحییٰ بن جعدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کچھ لوگوں سے ملے جو سوار تھے۔ پوچھا: مِمَّنِ الْقَوْمُ؟ (تم لوگ کس قبیلے سے ہو؟) انہوں نے جواب دیا: مضری۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: و انا من مضری (میں بھی مضری ہوں)۔ انہوں نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ ہم ایک ایک جانور پر کئی کئی سوار ہیں اور بجز دو سودوں کے ہمارے پاس کوئی شے سفر بھی نہیں۔ آنحضرت ﷺ نے جواب دیا: رَدَا فَمَا لَنَا زَادَ إِلَّا الْأَسْوَدَانِ التَّمَرُ وَالْمَاءُ (ہم بھی اسی حال میں ہیں ہمارے پاس بھی بجز دونوں اسود یعنی چھوڑے اور پانی کے اور کوئی توشہ نہیں)۔

طائس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک سفر میں تھے کہ ایک حدی سرا کی آواز سنائی دی۔ آپ اسی آواز کی سمت ہوئے اور ان لوگوں کے پاس آ گئے۔ قریب پہنچ کر فرمایا: ہمارا حدی سرا ست ہو گیا تھا۔ ہم نے تمہارے حدی سرا کی آواز

① عربی محاورے میں چھوڑے اور پانی کو الاسودان کہتے ہیں۔ یعنی دونوں اسود۔ یہاں اسود کے معنی سیاہ کے نہیں ہیں بلکہ عظیم و طویل کے ہیں کہ حیات انسانی کے لئے اہل عرب آب و خرم کو عظیم اشیاء سمجھتے تھے۔ لطیف پانی کو اسی بناء پر (سُود) بھی کہتے ہیں۔

سنی، یہی سننے کے لئے ہم یہاں آئے ہیں پھر کچھ وقفے کے بعد پوچھا: تم لوگ کون ہو؟ جواب ملا: مضری۔ فرمایا: میں بھی مضری ہوں۔ ان لوگوں نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! پہلے پہل جس نے حدی سرائی کی اس کا واقعہ یوں ہے کہ ایک مرد مسافر نے حالت سفر میں اپنے غلام کے ہاتھ پر اس زور سے ڈنڈا مارا کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ غلام اسی حالت میں اونٹ کو چلا رہا تھا اور کہتا جاتا تھا: وایداہ، وایداہ، ہیا، ہیا، ^① اس کی آواز سے اونٹ چلنے لگے۔

یحییٰ بن جابر رضی اللہ عنہ جنہیں بعض صحابہ رسول اللہ ﷺ کا شرف تابعیت حاصل تھا کہتے ہیں کہ قبیلہ بنی نہر نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ یا حضرت! آپ تو ہم میں سے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: (حضرت) جبریل علیہ السلام مجھے خبر دیتے ہیں کہ میں قبیلہ مضری کا ایک فرد ہوں۔

حذیفہ رضی اللہ عنہ نے باتوں باتوں میں قبیلہ مضری کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا: سردار فرزندان آدم تو تم ہی میں سے ہیں (یعنی رسول اللہ ﷺ)۔

زہری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ قبیلہ کندہ کا ایک وفد رسول اللہ ﷺ کے حضور میں حاضر ہوا جس کے ارکان و اعضاء میں کی منتش چادروں کے بنے ہوئے جبے پہنے تھے اور ان کی جیبوں ^② اور آستینوں کے حاشیے دیا کے تھے۔

آنحضرت ﷺ نے استفادہ فرمایا: کیا تم لوگ مسلمان نہیں؟ وفد نے کہا: بے شک ہم مسلمان ہیں۔ فرمایا: تو پھر اسے (ریشمی حاشیے کو) نکال ڈالو۔ ان لوگوں نے جبے اتار دیئے۔ باتوں باتوں میں عرض کیا: آپ لوگ کہ فرزند عبد مناف ہیں: آکل العرّاد (بادشاہ) کی اولاد میں۔ حضرت ﷺ نے فرمایا: سلسلہ نسب کے متعلق عباس و ابوسفیان رضی اللہ عنہما سے گفتگو کرو۔ انہوں نے کہا: ہم تو بجز آپ کے اور کسی سے یہ باتیں کرنے کے نہیں۔ آنحضرت ﷺ نے جواب دیا: تو ہم فرزندان نصر بن کنانہ بھی اپنی ماں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ کسی غیر کو اپنا باپ بنانے والے ہیں۔

ابن شہاب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ قبیلہ کندہ کا وفد جب مدینے میں حاضر ہوا تو اعضاء وفد اس زعم میں تھے کہ بنی ہاشم انہیں کے سلسلہ نسب میں منسلک ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نہیں! بلکہ ہم فرزندان نصر بن کنانہ اپنی ماں کو ہرگز چھوڑتے نہیں اور کسی غیر کو اپنا باپ بناتے نہیں۔

ابوزبیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی جناب میں عرض کیا گیا کہ یہاں قبیلہ کندہ کے کچھ لوگ ہیں جن کو گمان ہے کہ حضرت ﷺ انہیں کے سلسلہ میں ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: واقعہ یہ ہے کہ عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ اور ابوسفیان رضی اللہ عنہ یمن میں یہ اس لئے کہتے تھے کہ وہاں شر سے محفوظ رہیں اور نہ پناہ بخدا ہم اپنی ماں کو زانیہ قرار دیں یا اپنے باپ کو چھوڑ دیں۔ ہم فرزندان نصر بن کنانہ ہیں۔ جس نے اس کے خلاف کہا وہ جھوٹ بولا۔

① وایداہ، وایداہ کے معنی ہیں ہائے ہائے ہاتھ اور ہیا اونٹ چلانے کے لئے کہتے ہیں یعنی چل چل۔

② لفظی ترجمہ: جیبوں اور آستینوں پر دیا جو ایک قسم کا ریشمی کپڑا ہے لپٹے ہوئے تھے۔

اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ کنذہ کے وفد میں میں بھی جناب نبویؐ میں حاضر ہوا تھا۔ وفد کی یہ رائے تھی کہ میں ان سب میں افضل ہوں (تاہم) رسول اللہ ﷺ سے میں نے عرض کیا یا حضرت! ہم سب کو گمان ہے کہ آپ ہم میں سے ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ہم لوگ نصر بن کنانہ کی اولاد ہیں۔ ہم نہ اپنی ماں کو چھوڑ سکتے ہیں نہ اپنی ماں سے بے تعلق ہو سکتے ہیں۔ اشعث رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر عرض کی اگر کسی کو میں نے سنا کہ قریش بن نصر بن کنانہ کے سلسلہ سے الگ کرتا ہے تو میں اس کو تازیانے لگاؤں گا (حد ماروں گا)۔

عمرو بن عاصی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں محمد بن عبد اللہ ہوں۔ یہ کہہ کر نصر بن کنانہ تک اپنے سلسلہ نسب کی تشریح فرمائی اور پھر ارشاد ہوا: اب جس نے اس کے خلاف کہا وہ جھوٹ بولا۔

قیس بن ابی حازم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے حضور میں آیا اور رو برو کھڑا ہوا تھا کہ لرزے لگا۔ حضرت ﷺ نے فرمایا: ہون عليك "طمینان رکھ گھر نہیں"۔ فانی لست بملك "میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں"۔ انھا انا ابن امرأة من قریش كانت تأكل القديد "میں تو اصل میں ایک ایسی قریشیہ کا بیٹا ہوں جو قندید (سوکھا گھاس کھاتی تھی)"۔

ابو مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قریش بھر میں رسول اللہ ﷺ واسطہ نسب^① تھے (دور نزدیک) سب کے ساتھ یکجہدی ہونے کا رشتہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بطور اتمام حجت فرمایا:

﴿قل لا اسألكم عليه اجراً الا المودة في القربى﴾

یعنی اے پیغمبر! ان سے کہہ کہ جو پیغام الہی میں تمہیں سناتا ہوں اور جس دین کی دعوت دیتا ہوں اس پر کسی اجر و منت کا خواستگار نہیں میں تو صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ (بھی) پاس قربت ملحوظ رکھو اور مجھے محفوظ رہنے دو۔

شعبيؒ کہتے ہیں۔ آیت ﴿قل لا اسألكم عليه اجراً الا المودة في القربى﴾ کی تفسیر میں ہم لوگوں سے بہترے سوالات و اعتراضات کئے گئے آخر تحریراً حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے رجوع کیا گیا جنہوں نے جواب میں لکھا کہ قریش بھر میں رسول اللہ ﷺ واسطہ نسب تھے۔ قریش کا کوئی خالوادہ ایسا نہ تھا جو آنحضرت ﷺ سے یکجہدی کا رشتہ نہ رکھتا ہو اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ کہ تو حید کی جو دعوت دے رہا ہوں اس پر کسی اجر اور صلے کا طلبگار نہیں۔ میں تو اتنی سی بات کا طلبگار ہوں کہ بلحاظ رشتہ داری میرے ساتھ بھی الفت و مودت سے پیش آؤ اور اس بات میں میرا خیال رکھو۔

عمرو بن ابی زائدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ﴿قل لا اسألكم عليه اجراً الا المودة في القربى﴾ کی تفسیر میں عمرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ قریش میں کم کوئی خاندان ہوگا جو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ آبائی و اجدادی رشتہ نہ رکھتا ہو۔ اسی لئے فرمایا کہ جو دین حنیف لے کے میں آیا ہوں اس کا خیال نہیں کرتے تو میری قربت ہی کا خیال کرو۔

① یعنی باعتبار سلسلہ نسبی ہر ایک قبیلہ کے ساتھ کچھ نہ کچھ آپ کا قرابتی تعلق تھا۔

② عرب میں باوصف اس کے کہ رشتہ داریوں کا نہایت پاس اور لحاظ مری تھا رسول اللہ ﷺ کو انتہائی ایذا دیتے تھے۔

سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ﴾ کا یہ مطلب بیان کیا کہ بلحاظ اس قرابت کے جو میرے اور تمہارے درمیان ہے صلہ رحمی کا برتاؤ کرو۔

ابو اسحاق رضی اللہ عنہ براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے غزوہ حنین کے دن رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا:

اَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ

”میں پیغمبر ہوں اس میں کچھ جھوٹ نہیں۔“

اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمَطْلَبِ

”میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔“

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آیت ﴿وَتَقْلِبُكُ فِي السَّاجِدِينَ﴾ ”اے پیغمبر! تجھے سجدہ گزاروں میں پلٹتے رہے“ کی تفسیر میں روایت ہے کہ ایک پیغمبر سے دوسرے پیغمبر اور دوسرے سے تیسرے پیغمبر کی پشت میں خدا تجھ کو منقل کر تا رہا۔ تا آنکہ خود تجھے پیغمبری عطا فرما کر مبعوث کیا۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بنی آدم پر قرناً بعد قرن جو زمانے گزرے ہیں میری بعثت ان سب میں بہترین قرن میں ہوتی رہی تا آنکہ اس قرن میں مبعوث ہوا جس میں ہوں۔

قائدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کوئی پیغمبر مبعوث کرنا چاہتا ہے تو اس قبیلہ میں سے انتخاب کرتا ہے جو بہترین اہل زمین ہو پھر اس میں جو سب سے اچھا شخص ہوتا ہے اسی کو پیغمبر بنا کے بھیجتا ہے۔



انبیائے کرام سے رسول اللہ ﷺ کا نسبی تعلق

ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے۔“

سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ”آدم ایک ایسی زمین سے پیدا ہوئے جسے دُخْنَاء کہتے ہیں“^① ابو حصین سے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے استفسار کیا: ”تم جانتے ہو کہ آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں پڑا؟“ آدم کا نام یوں آدم پڑا کہ وہ ادیم ارض (روئے زمین، سطح زمین) سے پیدا ہوئے تھے۔

ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایک مشت خاک سے پیدا کیا تھا جو تمام روئے زمین سے لی تھی۔ یہی باعث ہے کہ فرزندانِ آدم علیہ السلام میں اسی خاک کا اندازہ قائم رہا کہ ان میں سرخ بھی ہیں، سفید بھی ہیں، سیاہ بھی ہیں، درمیانی رنگ کے بھی ہیں، سہل بھی ہیں، حزن بھی ہیں، خبیث بھی اور طیب بھی۔“

ابو قلابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ”آدم علیہ السلام ہر قسم کے ادیم زمین سے پیدا ہوئے، سیاہ مٹی سے بھی، سرخ سے بھی، سفید سے بھی، حزن سے بھی اور سہل سے بھی۔“

حسن بصری رضی اللہ عنہ کا بھی یہی قول ہے: ”آدم علیہ السلام کا بالائی جُتھ ایک ایسی خاک سے پیدا ہوا تھا جس کی سطح مستوی تھی۔“

سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ”آدم علیہ السلام کا نام آدم اس لئے پڑا کہ وہ ادیم زمین سے پیدا ہوئے تھے اور انسان اس لئے نامزد ہوئے کہ ان پر نسیان عارض ہوا۔“

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھیجا جس نے ادیم زمین کے ہر جزو شیریں و شور سے مٹی لی، اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جس کو زمین شیریں (عمدہ مٹی) سے پیدا کیا ہے، وہ بہشت میں جانے والا ہے

① دُخْنَاء از سر تفع اوچی زمین۔

② حزن وہ زمین جو غلیظ ہو اور سہل جو ایسی نہ ہو۔ اور انسان میں حزن غلیظ الطبع کو اور سہل لطیف المزاج کو کہیں گے۔

چاہے کافر کی اولاد کیوں نہ ہو اور جسے زمین شور (کھاری ریتی) مٹی سے پیدا کیا ہے وہ دوزخ میں جانے والا ہے خواہ وہ پارسا زادہ ہی کیوں نہ ہو۔ اسی باعث ابلیس نے کہا تھا، کیا میں اس کا سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ کیونکہ ابلیس ہی تو یہ مٹی لایا تھا۔ آخر آدم علیہ السلام کا نام آدم اس لئے پڑا کہ وہ ادیم زمین سے پیدا ہوئے تھے۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی صورت گری کی تو جب تک چاہا اس کا لبد کو پڑا رہنے دیا۔ ابلیس اس کے ارد گرد پھرا کرتا تھا۔ جب دیکھا کہ اس کے اندر جوف ہے تو جان لیا کہ یہ مخلوق مستقیم نہ رہے گی۔“

سلمان فارسی یا ابن مسعود رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ چالیس رات یا چالیس دن تک آدم علیہ السلام کی مٹی کا خمیر اٹھاتا رہا۔ پھر اس پر اپنا ہاتھ مارا تو پاک و طیب مٹی داہنے ہاتھ میں آگئی اور ناپاک و خبیث دوسرے ہاتھ میں۔ پھر دونوں کو خلط ملط کر دیا۔ یہی بات ہے زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے۔“

عبداللہ بن الحارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔

وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے جیسا چاہا اور جس سے چاہا بنی آدم کو پیدا کیا۔ اسی کی تخلیق کے مطابق بنی آدم علیہ السلام کی ٹکون ہوئی، وہ کتنا اچھا بابرکت بہترین خالق ہے اس نے مٹی اور پانی سے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اسی سے گوشت، خون، بال، ہڈیاں اور جسم سب کچھ بنا۔ یہی فرزند آدم کی ابتدائی آفرینش ہے جس سے وہ پیدا ہوا۔ بعد اس میں سانس پھونکی جس کی بدولت وہ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ چار پائے جو کچھ جانتے ہیں اور جس سے بچتے ہیں وہ بھی سب کچھ جانتا ہے۔ اور ان سب سے بچتا ہے۔ پھر اس میں جان ڈالی کہ اسی کے باعث حق و باطل و ہدایت و گمراہی میں امتیاز کر سکا۔ اسی کے طفیل میں بچتا ہے، آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے، چھپتا ہے، سیکھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے اور جتنے امور ہیں سب کی تدبیر و تنظیم میں منہمک ہوتا ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا جس سے تمام تنفس کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ انہیں پیدا کرتا رہے گا، کر لے اور نکلے۔ ان میں جو انسان تھے، ہر ایک کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور کی ایک چمک پیدا کر دی، اور پھر ان کو آدم علیہ السلام پر پیش کیا۔

آدم علیہ السلام نے پوچھا: ”یارب! یہ کون لوگ ہیں؟“

جواب ملا: ”یہ تیری اولاد و ذریعات ہیں۔“

ان میں سے ایک شخص کی دونوں آنکھوں کے درمیان جو نور تھا آدم علیہ السلام کو بھلا معلوم ہوا۔ پوچھا: ”یارب! یہ کون ہیں؟“

جواب ملا: ”یہ بھی تیری اولاد ہے۔ آخر میں جو قومیں ہوں گی انہیں میں یہ ہوگا اور اس کو داؤد (علیہ السلام) کہیں گے۔“

آدم علیہ السلام نے پھر پوچھا: ”یارب! اس کی عمر کتنی ہے؟“

فرمایا: ”ساتھ برس“۔

آدم علیہ السلام نے کہا: ”میری عمر میں سے چالیس برس لے کے اس کی عمر بڑھادے۔“

فرمایا: ”اس صورت میں یہ بات لکھ دی جائے گی۔ مہر ہو جائے گی اور پھر اس میں تغیر نہ ہوگا۔“

جب آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہو گئی تو فرشتہ موت روح قبض کرنے آیا۔ آدم علیہ السلام نے تعجب کیا کہ ہائیں! ابھی تو میری

زندگی میں چالیس برس باقی ہیں۔

فرشتہ موت نے کہا: ”کیا یہ عمر آپ نے فرزند داؤد علیہ السلام کو نہیں دے دی تھی؟“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ”آدم علیہ السلام نے انکار کیا تو ان کی اولاد نے بھی انکار کیا۔ آدم علیہ السلام بھولے تو ان کی اولاد

بھی بھولی، آدم علیہ السلام نے غلطی کی تو ان کی اولاد بھی غلط کار ہوئی۔“

ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: ”جب قرض کی آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا کہ پہلے

پہلے آدم علیہ السلام ہی مکرے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیر کے نسل آدم ظاہر فرمائی۔

اور آدم علیہ السلام پر ان سب کو پیش کیا۔ انہیں میں آدم علیہ السلام کو ایک وضی الخلقہ و روشن آدمی نظر پڑا۔ پوچھا: ”یارب میری اولاد

میں یہ کون ہے؟“

فرمایا: ”یہ تیرا بیٹا داؤد (علیہ السلام) ہے۔“

پھر پوچھا: ”اس کی عمر کتنی ہے؟“

فرمایا: ”ساتھ برس“۔

عرض کی: ”یارب! اس کی عمر زیادہ کر۔“

فرمایا: ”نہیں! البتہ اگر تو چاہے تو اپنی عمر میں سے دے کے اس کی زندگی بڑھا سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی زندگی ایک ہزار

سال مقدار تھی۔“

عرض کی: ”یارب! میری ہی مدت حیات میں سے لے کر اس کی زندگی بڑھادے۔“

اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی عمر چالیس سال بڑھادی۔ آدم علیہ السلام پر اتمام حجت کے لئے ایک وثیقہ بھی موثق کر لیا۔ جس

پر فرشتوں سے گواہیاں کرائیں۔ جب آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا۔ نزع روح کے لئے فرشتے پہنچے تو آدم علیہ السلام نے کہا: ”ابھی

تو میری زندگی کے چالیس برس باقی ہیں۔“

فرشتوں نے بتایا کہ تو نے یہ مدت اپنے فرزند داؤد علیہ السلام کو دی تھی۔

آدم علیہ السلام نے جناب الہی میں عرض کی: ”یارب! میں نے ایسا تو نہیں کیا تھا۔“

اس مکر نے پر خدا نے وہ وثیقہ آدم علیہ السلام کے پاس بھیج کر حجت قائم کی مگر خود ہی پھر آدم علیہ السلام کے ہزار برس پورے کر

دیئے اور داؤد علیہ السلام کو بھی پورے سو برس دیئے۔“

عہد الست کا واقعہ:

سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما بحوالہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آیت:

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا﴾ [الاعراف: ۱۷۲]

”وہ واقعہ یاد کرو جب تیرے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسلیں نکالیں اور خود ان پر انہیں کو شاہد ٹھہرایا کہ آیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ سب نے کہا بے شبہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے اور ہم اس کے شاہد ہیں۔“

کا یہ مطلب بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت چھوئی تھی۔ جس سے وہ تمام تنفس برآمد ہوئے تھے کہ تاروز قیامت خدا انہیں پیدا کرتا رہے گا۔ یہ واقعہ اسی مقام نعمان میں پیش آیا تھا جو وہ عرفات کے ادھر ہے۔ خدا نے ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ کہہ کے سب سے عہد و پیمان لئے سب نے جواب میں ﴿بَلَىٰ شَهِدْنَا﴾ کہا۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما دوسری روایت میں کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے اسی مقام نعمان میں آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیر کے وہ تمام تنفس نکالے تھے جنہیں روز قیامت تک پیدا کرتا رہے گا۔ پھر ان سب سے عہد لیا تھا۔ اتنا کہہ کے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ آیت پڑھی:

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ۚ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ﴾ [الاعراف: ۱۷۲، ۱۷۳]

”وہ واقعہ یاد کرو جب تیرے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسلیں نکالیں اور خود انہیں کو ان پر شاہد ٹھہرا کے پوچھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ سب نے جواب دیا بے شبہ تو ہمارا پروردگار ہے ہم اس پر شاہد ہیں۔ یہ اس لئے ہوا کہ قیامت کے دن تم لوگ یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس سے غافل تھے یا یہ کہو کہ پہلے تو ہمارے بزرگ ہی شرک میں مبتلا ہوئے تھے۔“

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے تیسری روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک اونچے چٹے پر پیدا کر کے ان کی پیٹھ چھوئی تو وہ تمام تنفس نکال لئے جنہیں قیامت تک پیدا کرتا رہے گا۔ سب سے خطاب کیا: ”آیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ سب نے عرض کی بے شبہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کے متعلق فرماتا ہے: ”ہم نے یہ بات مشاہدہ کر لی کہ ایسا نہ ہو تم قیامت کے دن یہ کہو کہ ہم تو اس سے غافل تھے۔“ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: ”اہل علم کی رائے یہ ہے کہ بنی آدم سے اسی دن عیثاق لیا گیا تھا۔“

ابولبابہ بن عبد المذہب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے کا دن تمام دنوں کا سردار اور خدا کے نزدیک سب سے بڑا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اسی دن زمین پر اتارا اور اسی دن آدم کو وفات دی۔“

عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جمعے کے آخری وقتوں میں پیدا کیا۔“

سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ”پہلے پہل آدم کا سر پیدا ہوا پھر بڑھ پیدا ہونے لگا جسے پیدا ہوتے آدم علیہ السلام خود دیکھ رہے تھے۔ عصر کے وقت تک دونوں پاؤں باقی رہے تھے۔ یہ دیکھ کر آدم علیہ السلام نے کہا: اے رات کے پروردگار جلدی کر کیونکہ رات آئی جاتی ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ عَجُولًا﴾

”انسان جلد باز پیدا ہوا ہے۔“

قائدہ رضی اللہ عنہ آیت ﴿مِنْ طِينٍ﴾ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام مٹی سے نکالے گئے۔

آیت ﴿إِنشَاءً خَلْقًا آخَرَ﴾ ”ہم نے اس کی دوسری خلقت کر کے نشوونما دی“ کی تفسیر میں قائدہ کہتے ہیں کہ بعض اہل علم تو اس کا مطلب بال اگنا بتاتے ہیں (یعنی سبزہ خط) اور بعض اس سے نفخ روح مراد لیتے ہیں۔

عبدالرحمن بن قتادہ السلمی کہ صحابہ رسول ﷺ میں معدود ہیں کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے مخلوق کو ان کی پشت سے نکالا۔ پھر کہا: یہ بہشت میں جائیں گے اور مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ اور یہ دوزخ میں جائیں گے اور مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ حاضرین میں ایک شخص نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ ﷺ! یہی بات ہے تو پھر ہم عمل کس بنا پر کریں؟“ فرمایا: ”مواقع تقدیر کی بنا پر کرو۔“

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: پہلے پہل آدم علیہ السلام کی آنکھ اور ناک کے نتھنوں میں جان پڑی۔ جب سارے جسم میں روح پھیل گئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد کرنے کی تلقین کی تو آدم علیہ السلام نے خدا کی حمد کی اور جواب میں خدا نے کہا رحمک ربک (تجھ پر تیرے پروردگار کی رحمت)۔ پھر فرمایا: یہ لوگ (ارواح) جو سامنے ہیں۔ انہیں کے پاس جا کے کہہ ”سلام علیکم“ دیکھ تو کیا جواب دیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سلام کر کے جناب باری میں واپس آئے تو باوصف اس کے کہ خدا خوب واقف تھا۔ مگر اس نے پوچھا: ”انہوں نے تجھے کیا جواب دیا؟“ آدم علیہ السلام نے عرض کیا: ”انہوں نے مجھے یہ جواب دیا: وعلیکم السلام ورحمة اللہ۔“ ارشاد ہوا: ”یہ تیرا اور تیری ذریات کا سلام ہے۔“

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی گئی تو انہیں چھینک آئی۔ اسی حالت میں انہوں نے کہا: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا: يَرْحَمُكَ رَبُّكَ (تجھ پر خدا کی رحمت نازل ہوئی)۔ یہ بیان کر کے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: ”خدا کی رحمت اس کے غضب سے بڑھ گئی۔“

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما دوسری روایت میں کہتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا سر آسمان سے چھو رہا تھا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے بالاستقلال ان کو زمین پر ثبات عنایت فرمائی۔ تا آنکہ ان کا قد گھٹ کے ساتھ ہاتھ رہ گیا اور عرض میں سات ہاتھ۔“

ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آدم علیہ السلام اتنے بلند و بالا انسان تھے کہ گویا ایک طویل درخت خرماء ہو۔ سر میں بال بہت تھے۔ جب خطا کی تو وہ چیز دکھائی دی جو چھپانے کے قابل تھی۔ پہلے یہ آدم علیہ السلام کو نظر نہ آتی

تھی۔ یہ واقعہ بہشت کا ہے جہاں اسے دیکھتے ہی آدم علیہ السلام بھاگ چلے تھے کہ ایک درخت نے الجھا لیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا: مجھے چھوڑ دے۔ درخت نے جواب دیا میں تو چھوڑنے کا نہیں۔ پروردگار نے ندا دی آدم علیہ السلام کیا تو مجھ سے بھاگتا ہے؟ عرض کی یا رب! تجھ سے مجھے شرم آئی۔

ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے ایک دوسری غیر مرفوع روایت بھی انہیں معنوں میں ہے۔
ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے ایک تیسری روایت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام دراز قد، گندم گوں، جھنڈ دے بالوں کے تھے۔ جیسے ایک بڑا درخت خرما ہو۔

سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بہشت میں اہل جنت اس حالت میں ہوں گے کہ برہنہ، امر دبے ریش و بروت (گھونگریا لے بالوں والے سرگین چشم، ۳۳ برس کی عمر کے ہوں گے، جیسے آدم علیہ السلام تھے، جسم ساٹھ ہاتھ لانا اور سات ہاتھ چوڑا ہوگا۔“

حسن بصری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ”آدم علیہ السلام تین سو برس تک بہشت کے لئے روتے رہے۔“
ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ”میں نے رسول اللہ ﷺ سے استفسار کیا سب سے پہلے نبی کون تھے؟“ فرمایا: ”آدم علیہ السلام۔“
میں نے کہا: ”کیا وہ نبی تھے؟“ فرمایا: ”ہاں! وہ نبی تھے خدا ان سے کلام کرتا تھا۔“ میں نے پوچھا: ”تو رسول کتنے تھے؟“ فرمایا: ”تین سو پندرہ، ایک بڑی جماعت ہے۔“

آدم علیہ السلام کی اولاد:

سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ بحوالہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آدم علیہ السلام کی چار اولادیں تھیں۔ ایک بطن سے ایک لڑکا ایک لڑکی، دوسرے بطن سے دوسرا لڑکا اور دوسری لڑکی۔ یہ سب تو ام پیدا ہوئے تھے۔ ایک لڑکا کاشت کار تھا اور دوسرے کے پاس بھیڑ بکریاں تھیں۔ کاشتکار کی بہن خوش رو تھی اور چرواہے کی بد شکل تھی۔ کاشتکار کہتا تھا: میری خوب رو بہن میرے ہی لئے شایاں ہے۔ چرواہا کہتا تھا: میں اس کا مستحق ہوں۔ گفتگو بڑھی۔ چرواہے نے کہا: حیف کیا تو اس کی خوب روئی کے باعث اپنے ہی لئے اسے مخصوص کرنا چاہتا ہے؟ اچھا میں اور تو دونوں قربانی کریں (بھینٹ چڑھائیں) تیری قربانی قبول ہو تو اس کا مستحق تو ہے اور میری قبول ہو تو میں۔ چرواہا ایک بڑی آنکھ والا مضبوط سیٹلوں والا مینڈھالا لایا اور کاشتکار کھانے کی چیزیں۔ مینڈھا قبول ہوا اور کاشتکار کی قربانی یوں ہی رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مینڈھے کو چالیس برس تک بہشت میں رکھا اور یہ وہی مینڈھا ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے (اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کے بدلے) ذبح کیا تھا۔ کاشتکار نے بات بنتی نہ دیکھی تو بگڑ کے چرواہے سے کہا: لا قتلک! ”میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔“ چرواہے نے جواب دیا: ﴿لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسٍ بِيَدَيْكَ﴾ ”تو نے اگر مجھے قتل کرنے کے لئے دست درازی کی تو میں تجھے قتل کرنے کے لئے ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔“ یہ آیت کلام اللہ میں موجود ہے اور اس کا آخری مقطع ہے ﴿وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ﴾۔

بہر حال کاشتکار نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ آدم علیہ السلام کی تمام کافر اولاد اسی کافر سے ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے تھے آدم علیہ السلام اپنی اولاد میں اس بطن کے لڑکے کو اس بطن کی لڑکی سے اور اس بطن کے لڑکے کو اس بطن کی لڑکی سے منسوب کرتے تھے (بیابتے تھے)۔

آدم علیہ السلام کی وفات:

ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے احتضار کا وقت آیا تو لڑکوں سے کہا: میرے لئے بہشتی میوہ تلاش کرو، میرا جی چاہتا ہے لڑکے اسی حالت بیماری میں بہشتی میوہ تلاش کرنے نکلے۔ ناگاہ فرشتگان جناب الہی سے آمنا سامنا ہوا۔ جنھوں نے دریافت کیا: ”فرزند ان آدم! کس جستجو میں ہو؟“ جواب دیا: ”بہشتی میوے کو والد کا جی چاہتا ہے۔ ہم اس کی تلاش میں ہیں۔“ فرشتوں نے کہا: ”واپس جاؤ کہ جو ہونا تھا ہو گیا۔“ یہاں پہنچے تو آدم علیہ السلام کی جان نکل چکی تھی۔ فرشتوں نے انہیں لے کر غسل دیا، خوشبو لگائی، کفن پہنایا، قبر کھودی، لحد بنائی، ایک فرشتے نے بڑھ کے امامت کی، نماز جنازہ پڑھائی، باقی فرشتے مقتدی بنے، بنی آدم کی صف ان سب کے پیچھے تھی، قبر میں لاش دفن کر دی، مٹی برابر کی اور کہا اے فرزند ان آدم! یہی تمہاری راہ ہے اور یہی تمہارا طریقہ ہے۔

ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ایک دوسری روایت میں کہتے ہیں! آدم علیہ السلام کے سکرات کا وقت آیا تو اپنے لڑکوں سے کہا: ”جاؤ میرے لئے بہشتی میوے چن لاؤ۔“ لڑکے نکلے تھے کہ فرشتے ملے پوچھا: ”کہاں چلے؟“ لڑکوں نے کہا: ”والد نے بھیجا ہے کہ ہم ان کے لئے بہشتی میوے توڑ لائیں۔“ فرشتوں نے سمجھایا کہ واپس جاؤ کام پورا ہو گیا ہے۔ لڑکے فرشتوں کے ساتھ واپس چلے تا آنکہ آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حوانے جو فرشتوں کو دیکھا تو ڈر گئیں۔ کھسک کے آدم علیہ السلام سے جا لگیں۔ آدم علیہ السلام نے کہا ہٹ جاتیری ہی جانب سے مجھ پر یہ ابتلاء پیش آئی۔ مجھ میں اور میرے پروردگار کے فرشتوں میں جگہ کر دے۔ آخر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کر کے انہیں غسل دیا، تکفین کی، خوشبو لگائی، نماز جنازہ پڑھی، قبر کھودی، دفن کیا اور پھر کہا: ”فرزند ان آدم! مردوں کے متعلق یہی تمہارا طریقہ ہے (یا ہونا چاہیے)۔“

ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے کہ آدم علیہ السلام تین قسم کی مٹی سے پیدا ہوئے۔ ایک قسم کی مٹی تو سیاہ تھی، ایک سفید رنگ اور ایک وہ جسے حضرا کہتے یعنی (ایسی زمین جو زرع و روئیدگی و نشو و نمو و قبول مدینیت کی صلاحیت رکھتی ہو)۔

خالد الخداعہ جن کی کنیت ابو منازل تھی کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نکل کے حلقہ اہل علم میں آیا تو ان لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ آدم علیہ السلام کے متعلق حسنؑ یہ کہتے ہیں۔ میں حسنؑ سے ملا اور مل کے کہا: ”ابوسعید! یہ تو کہنے آدم علیہ السلام آسمان کے لئے پیدا ہوئے تھے یا زمین کے لئے؟“ جواب دیا: ”ابو منازل! یہ کیا سوال ہے؟ ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام زمین کے لئے پیدا ہوئے تھے۔“ میں نے کہا: ”آپ کی رائے میں اگر وہ ضبط کرتے اور درخت کا پھل نہ کھاتے تو؟“ جواب دیا: ”تو بھی پیدا تو زمین کے

① کنیت ابوسعید اور نام حسن بن ابی الحسن البصری۔

لئے ہوئے تھے، کیونکہ نہ کھاتے چارہ کیا تھا۔“

جدہ بن ہبیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ”وہ درخت جس نے آدم علیہ السلام کو بتلائے فتنہ کیا، آزمائش میں ڈالا، انور کا درخت تھا جو بنی آدم کے لئے بھی موجب فتنہ ہے۔“

زیادہ سے جو مصعب رضی اللہ عنہ کے آزاد غلام تھے اور جعفر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا: ”آدم علیہ السلام پیغمبر تھے یا فرشتہ؟“ فرمایا: ”پیغمبر تھے، خدا ان سے کلام کیا کرتا تھا۔“

عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”انسان جتنے ہیں آدم و حوا علیہما السلام کی اولاد ہیں (جیسے تولنے میں ڈنڈی مارنے سے اتنا بچا لینا ممکن نہیں کہ پورے وزن کی توقیر کر سکیں ویسے ہی یہاں بھی نسبی اضافات سے اس مساوات میں فرق نہیں آسکتا جو ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کے باعث تمام نوع انسان پر شام ہے۔ کطف الصاع لن یملوہ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے حسب و نسب کو نہ پوچھے گا۔ خدا کے نزدیک تو سب میں شریف و بزرگ وہی ہے جو تم سب میں زیادہ متقی و پارسا ہو۔“

حالاتِ زندگی

دُنیا میں تشریف آوری:

ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں آدم علیہ السلام نماز ظہر و عصر کے مابین بہشت سے زمین پر اتارے گئے۔ بہشت میں اُن کا زمانہ قیام نصف دن تھا۔ اس دن کا حساب آخرت کے دنوں میں ہے۔ نصف دن کے پانچ سو برس ہوئے۔ ہر دن بارہ گھنٹے کا۔ اہل دُنیا کے حساب سے ایک دن کے ایک ہزار برس ہوتے ہیں۔“

آدم علیہ السلام ہندوستان کے ایک پہاڑ پر اتارے گئے جس کو نوذ کہتے ہیں اور حوا علیہا السلام جدہ میں اُتریں۔ آدم علیہ السلام اُترے تو ان کے ساتھ بہشتی ہوا بھی تھی۔ جس کے ورختوں اور وادیوں میں لگنے سے تمام خوشبو ہی خوشبو بھر گئی۔ یہ آدم علیہ السلام ہی کی ہوا تھی جس سے خوشبو پھیلی اور جس کے باعث ہندوستان خوشبو کا مستقر ہے کہ وہیں سے خوشبو لاتے ہیں۔

کہتے ہیں بہشت سے آدم علیہ السلام کے ساتھ درخت آس بھی اُترا۔ جبرائیل بھی اُترا جو برف سے زیادہ سفید تھا۔ عصائے موسیٰ بھی اُترا جو بہشتی درخت آس کی لکڑی کا تھا۔ یہ دس ہاتھ لمبا تھا۔ جتنے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام لمبے تھے۔ مردلوبان (لبان) بھی بہشت ہی سے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اتارے گئے۔ بعد کو سندان (علاقہ) ہتھوڑا (مطرَق) سنسی (کلجان) یہ سب بھی ان کے پاس بھیجے گئے۔ کوہ نوذ پر جب آدم علیہ السلام کا ہیوط ہوا تو پہاڑ پر لوہے کی ایک شاخ دیکھی۔ دیکھتے ہی کہنے لگے یہ آس کا درخت ہے۔ جو درخت پرانے ہو کر سوکھ گئے تھے ان کی لکڑیاں ہتھوڑے مار مار کر توڑتے تھے۔ لکڑیاں جلا کے لوہے کی سلاخ پگھلائی جس سے چھری بنائی اور یہ پہلی چیز تھی جو لوہے کی بنی۔ آدم علیہ السلام اسے کام میں لاتے۔ پھر تنور بنایا جو نوح علیہ السلام کو درخت میں

ملا۔ یہ وہی تور تھا جس سے ہندوستان میں عذاب الہی نے جوش مارا تھا (یعنی طوفان آ گیا تھا)۔

آدم علیہ السلام نے حج کیا تو حجر اسود کو کوہ ابوقنیس پر نصب کر دیا۔ یہ اندھیری راتوں میں روشن رہتا جیسے چاند روشن رہتا ہے، اہل مکہ اس کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ (جاہلیت پھیلی تو یہ دتیرہ ہو گیا کہ) حائض عورتیں اور نجس زن و مرد پہاڑ پر چڑھ کر اسے چھوتے تھے (چومتے تھے) جس کے باعث یہ سیاہ پڑ گیا۔ اسلام سے چار برس بیشتر کا واقعہ ہے کہ قریش نے اس کو ابوقنیس کی چوٹی سے اتار لیا اور خانہ کعبہ میں نصب کر دیا۔ جہاں اب بھی منصوب ہے۔ آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے مکے تک چالیس حج کئے تھے۔

جب آدم علیہ السلام کا بہوٹ ہوا ہے تو وہ اتنے دراز قامت تھے کہ ان کا سر آسمان کو لگتا تھا۔ یہی باعث ہے کہ ان کی پیشانی کے بال گر گئے۔ اور یہ مرض ان کی اولاد میں بھی بطور وراثت منتقل ہوا۔ روئے زمین کے چار پائے ان کی دراز قامتی سے بھاگ بھاگ گئے۔ اور اسی دن سے انسانوں سے وحشت کرنے لگے۔ آدم علیہ السلام اس پہاڑ پر کھڑے کھڑے فرشتوں کی آوازیں سنا کرتے تھے اور بہشت کی ہوا کھایا کرتے، آخر ان کا قد گھٹ کر ساٹھ گز رہ گیا اور تاجر کی طرح کی طرح رہا۔ آدم علیہ السلام جیسا حسین و خوش روان کی اولاد میں یوسف علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہ ہوا۔

انحطاط قامت کے بعد آدم علیہ السلام نے جناب الہی میں عرض کی: ”یار رب! میں تیرے جوار میں تھا، تیرے دیار میں تھا، مجھ کو تیرے نہ کوئی دوسرا میرا پروردگار تھا، نہ رقیب و مکران تھا۔ میں بہشت میں مزے سے کھاتا پیتا تھا۔ اور جہاں جی چاہتا تھا رہتا تھا۔ آخر تو نے اس مقدس پہاڑ پر مجھے اتارا تو یہاں بھی میں فرشتوں کی آوازیں سنتا تھا فرشتے عرش کے ارد گرد جو گھرے ہوئے ہیں ان کی کیفیت دیکھتا تھا۔ مجھے بہشت کی ہوا ملتی تھی اور میں خوشبو سونگھتا تھا۔ بعد کو تو نے مجھے پہاڑ سے زمین پر اتار دیا اور میرے قد و قامت کو گھٹا کر ساٹھ ہاتھ کر دیا۔ اب وہ آواز بھی مجھ سے منقطع ہو گئی، وہ نظر (خوش گزر) بھی نہ رہی، وہ منظر بھی رخصت ہو گئے وہ ہوائے بہشت بھی جاتی رہے۔“

اللہ تعالیٰ نے جواب دیا: ”آدم (علیہ السلام) میں نے تیرے ساتھ جو کچھ کیا وہ تیری ہی معصیت و نافرمانی کے باعث کیا۔“

اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ بہشت سے بھیڑ بکریوں کے آٹھ جوڑے بھی زمین پر اتارے تھے۔ جب آدم و حوا علیہما السلام کی برہنگی دیکھی تو ان میں سے ایک کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ آدم علیہ السلام نے اس کو ذبح کر کے اون لی حوا علیہا السلام نے اسے کاتا اور دونوں مل کے اسے بننے لگے۔ اپنے لئے تو آدم علیہ السلام نے ایک جبہ تیار کیا اور حوا علیہا السلام کے لئے ایک کرتہ اور ایک اور حسی، یہی کپڑے تھے جو دونوں نے پہنے۔ آدم و حوا علیہما السلام کا اجتماع یوم جمع میں ہوا تھا۔^① اسی لئے اس کا نام جمع پڑا اور عرفات پر دونوں میں تعارف ہوا تھا۔ یہی سبب ہے کہ پہاڑی عرفات کے نام سے موسوم ہوئی۔

① یوم جمع: ایام حج کا وہ خاص دن ہے جس دن کہ مزدلفہ میں اجتماع ہوتا ہے۔ جمع مزدلفہ یا در کھواس معنی میں اس لفظ پر الف و لام نہیں آتا۔

قصہ ہابیل وقابیل (قائن)

آدم و حوا علیہ السلام ثلاثی مافات میں دو سو برس تک روتے رہے چالیس دن تک کھانا نہ کھایا نہ پینا۔ کھانے پینے کی نوبت ایک چلے کے بعد آئی۔ اب تک کوہ نود ہی پر تھے جس پر آدم علیہ السلام کا ہبوط ہوا تھا۔ سو برس تک آدم علیہ السلام سے الگ تھلگ رہے۔ سو برس کے بعد قریب گئے تو استقرار حمل ہونے پر قابیل اور اس کی بہن لہود کہ اسی کی توام (جڑواں) تھی۔ پہلے بطن سے پیدا ہوئی۔ دوسرے بطن سے ہابیل اور اس کی بہن اقلیمہ کہ ہابیل کی توام تھی پیدا ہوئی۔ بالغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بطن اول کی تزویج بطن ثانی سے اور بطن ثانی کی بطن اول سے کی جائے۔ یعنی ہر بطن کے بھائی بہنوں کا آپس میں نکاح نہ ہو۔ دوسرے بطن کے بھائی بہنوں سے ہوقابیل کی بہن حسین اور ہابیل کی بہن بدشکل تھی۔ آدم علیہ السلام کو جو حکم ملا تھا حوا سے بیان کر دیا۔ حوا نے دونوں بیٹوں سے تذکرہ کیا، ہابیل تو راضی ہو گئے مگر قابیل نے ناخوش ہو کر کہا: ”نہیں! واللہ یہ بات نہیں۔ خدا نے یہ حکم کبھی نہیں دیا۔ یہ تو اے آدم (علیہ السلام) خود تیرا حکم ہے۔“

آدم علیہ السلام نے کہا: ”یہی بات ہے تم دونوں قربانی کرو اللہ تعالیٰ آسمان سے آگ نازل کرے گا۔ اس لڑکی کا جو مستحق ہوگا آگ اس کی قربانی کھالے گی۔“

اس فیصلے پر دونوں رضا مند ہو گئے۔ ہابیل کے پاس مویشی تھے وہ اپنی بھیڑ بکریوں میں سے قربانی کے لئے کھانے کے قابل بہترین راس کو لے آئے اور مکھن اور دودھ بھی ساتھ تھے۔ قابیل زراعت پیشہ تھا۔ اس نے اپنی زراعت کی بدترین پیداوار میں سے ایک بوجھ لیا۔ دونوں کوہ نود پر چڑھ گئے ساتھ ساتھ آدم علیہ السلام بھی تھے۔ وہاں قربانی رکھی (چڑھائی) جس کے متعلق آدم علیہ السلام نے جناب الہی کے لئے دعا کی، قابیل نے اپنے جی میں کہا: قربانی قبول ہو یا نہ ہو مجھے پرواہ نہیں، بہر حال میری بہن کے ساتھ ہابیل کبھی نکاح نہیں کر سکتا۔ آگ اتری اور اس نے ہابیل کی قربانی کھالی۔ قابیل کی قربانی سے صاف بچ کر نکل گئی۔ کیونکہ اس کا دل صاف نہ تھا۔

ہابیل اپنی بھیڑ بکریوں میں چلے گئے تو قابیل نے گلے میں آ کر یہ وعید سنائی کہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا۔ ہابیل نے پوچھا: ”کس لئے؟“

جواب دیا: ”اس لئے کہ تیری قربانی قبول ہوئی۔ میری قربانی قبول نہ ہوئی۔ مسرود ہو گئی۔ میری حسین و جمیل بہن تیرے تصرف میں آئی اور مجھے تیری بدرو بہن ملی۔ آج کے بعد لوگ کہیں گے کہ تو مجھ سے بہتر تھا۔ ہابیل نے کہا:

﴿لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِكُمْ يَدَي إِلَيْكَ لَاقْتُلْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝ إِنِّي أُرِيدُ

أَنْ تَتُوبَ إِلَيَّ وَإِنَّكَ فَتَكُونُ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ ۚ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ۝﴾ [المائدہ : ۲۹]

”تو نے اگر مجھے قتل کرنے کے لئے اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں تجھے قتل کرنے کو اپنا ہاتھ بڑھانے والا نہیں کیونکہ میں

خدائے رب العالمین سے ڈرتا ہوں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا گناہ بھی تجھ ہی پر پڑے اور تیرا گناہ بھی تیرے ہی سر ہو کہ تو دوزخیوں میں شمار ہونے لگے اور ظالموں کا یہی کیفر کردار (پاداش) ہے۔“

ہابیل کے اس قول کا کہ ”میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا گناہ بھی تجھ ہی پر پڑے“ ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبْوَأَ بَائِسِي﴾ کہ میرا قتل گناہ ہے میرے قتل سے پہلے تو جتنا گناہ گارتھا مجھے قتل کر کے اس سے بھی زیادہ گناہ گار ہو جائے گا۔ لہذا میری خواہش ہے کہ یہ بوجھ بھی تیرے ہی سر پڑے۔

قابیل نے ہابیل کو قتل تو کر ڈالا مگر پھر نادم بھی ہوا، لاش وہیں چھوڑ دی، دفن نہ کی۔ خدا نے ایک کو ابھجا جو زمین پر مٹی کریدنے لگا۔ کیونکہ قابیل کو دکھانا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیا کرنے کیسے توپ دے ہابیل کو اس نے عشاء کے وقت قتل کیا تھا۔ دوسرے دن دیکھنے آیا تو ایک کوے کو دیکھا جو دوسرے مردے کو توپنے کے لئے مٹی کرید رہا تھا۔ یہ دیکھ کے اس نے کہا: افسوس کیا میں اتنے سے بھی عاجز ہوں کہ اس کوے جیسا ہوسکوں کہ جس طرح یہ کوے کا مردہ چھپا رہا ہے میں بھی اپنے بھائی کی لاش چھپا سکوں۔ آخر ہائے دوائے کرنے لگا اور نادم ہوا۔ اب لاش کی جانب توجہ کی، بھائی کا ہاتھ پکڑا اور کوہ نوذ سے نیچے اتر آیا۔

آدم علیہ السلام نے قابیل سے کہا: جاتو ہمیشہ مرعوب رہے گا۔ جسے دیکھے گا اسی سے خوف کھائے گا۔ اس دُعاے بد کے بعد قابیل کی یہ حالت ہوگئی کہ خود اس کی اولاد میں سے کوئی اس کے پاس گزرتا تو کچھ نہ کچھ اس پر پھینک مارتا۔ ایک مرتبہ قابیل کا ایک اندھا بیٹا اپنے لڑکے کے ساتھ قابیل کے پاس آیا۔ لڑکے نے (کہ قابیل کا پوتا تھا) اپنے اندھے باپ سے کہا یہ سامنے تیرا باپ قابیل ہے۔ اندھے نے قابیل کو پتھر پھینک مارا اور وہ قتل ہو گیا۔ اندھے کے لڑکے نے باپ سے کہا: ”ہائیں! تو نے اپنے باپ کو مار ڈالا۔“ اندھے نے ہاتھ اٹھا کے بیٹے کو ایسا طمانچہ لگایا کہ وہ بھی مر گیا۔ پھر خود ہی افسوس کرنے لگا کہ مجھ پر حیف ہے کہ آپ ہی اپنے باپ کو پتھر سے اور بیٹے کی پتھر سے جان لی۔

حضرت شیث علیہ السلام

حواء علیہا السلام جب پھر حاملہ ہوئیں تو اس طمن سے شیث علیہ السلام اور ان کی بہن عزرا پیدا ہوئیں۔ شیث علیہ السلام کا نام بہتہ اللہ پڑا جو ہابیل کے نام سے نکالا تھا۔ کیونکہ ان کی پیدائش کے وقت جبرائیل علیہ السلام نے حواء علیہا السلام سے کہا تھا کہ ہابیل کے بدلے تیرے لئے بہتہ اللہ (خدا کی دین) ہے۔ شیث علیہ السلام کو عربی میں ”شیث“ سریانی میں ”شیات“ اور عبرانی میں ”شیث“ کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں کو (مرتے وقت) وصیت کی تھی جب وہ پیدا ہوئے ہیں تو آدم علیہ السلام کی عمر اس وقت ایک سو تیس (۱۳۰) برس کی تھی۔

عبدالجارث

آدم علیہ السلام نے پھر مقاربت کی، حوا علیہا السلام پھر حاملہ ہوئیں، حمل کچھ گراں نہ تھا۔ شیطان بھیس بدل کے آیا اور کہنے لگا: ”حوا علیہا السلام! یہ تیرے شکم میں کیا ہے؟“

جواب دیا: ”میں نہیں جانتی۔“

اس نے کہا: ”عجب نہیں! انہیں جانوروں میں سے کوئی جانور ہوگا۔“

جواب دیا: ”میں نہیں جانتی۔“

شیطان منہ پھیر کے چلا گیا تا آنکہ جب گرانی پیدا ہوئی تو پھر آیا اور دریافت کیا: ”حوا! تو اپنے آپ کو کیا پاتی ہے؟“
جواب دیا کہ ”میں ڈرتی ہوں کہ کہیں وہی نہ ہو جس کا تو نے مجھے خوف دلایا تھا۔ میں اٹھنا چاہتی ہوں تو اٹھ نہیں سکتی۔“
شیطان نے کہا: ”تیری کیا رائے ہے کہ میں اگر خدا سے دعا کروں کہ وہ اس جنین کو تجھ سا اور آدم جیسا انسان بنا دے تو کیا تو میرے نام پر اس کا نام رکھے گی؟“
حوا علیہا السلام نے کہا: ”ہاں!“

شیطان تو یہ سن کر چلا گیا۔ مگر اب حوا علیہا السلام نے آدم علیہ السلام کو اطلاع دی کہ ایک شخص نے آ کے مجھے خبر دی ہے کہ تیرے شکم کا جنین انہیں چار پایوں میں سے کوئی چار پایہ ہے۔ میں بھی اس کی گرانی محسوس کر رہی ہوں اور ڈرتی ہوں کہ جو اس نے کہا ہے کہیں وہی نہ ہو۔ اب آدم و حوا علیہما السلام کو بجز اس کے اور کوئی اندیشہ نہ تھا۔ اس فکر میں مبتلا رہتے تھے تا آنکہ لڑکا پیدا ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا:

﴿دَعَا اللّٰهُ رَبِّهٖمَا لَئِنْ اٰتٰیٰنَا صَالِحًا لِّنُكُوْنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ﴾

”دونوں نے خدا سے کہ ان کا پُور دگار ہے دعا کی کہ اگر ہمیں فرزند صالح عنایت کرے تو ہم اس کے شکر گزار ہوں گے۔“

آدم و حوا علیہما السلام نے یہ دعا لڑکا پیدا ہونے سے پہلے کی تھی۔

جب اچھا خاصا، بھلا چنگا لڑکا پیدا ہو گیا تو شیطان نے حوا کے پاس آ کے پھر کہا: ”وعدہ کے مطابق تو نے اس بچے کا نام

کیوں نہ رکھا۔“

حوا علیہا السلام نے پوچھا: ”تیرا نام کیا ہے؟“

شیطان کا نام تو عزریل تھا، مگر یہ نام لیتا تو وہ پہچان لیتیں۔ اس لئے کہا: ”میرا نام حارث ہے۔“

حوا نے اس بچے کا نام عبدالجارث رکھا، مگر وہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے:

﴿فَلَمَّا اٰتٰہُمَا صَالِحًا جَعَلَالہٗ شُرَکَآءَ فِیْمَا اٰتٰہُمَا فَتَعَالٰی اللّٰهُ عَمَّا یُشْرٰکُوْنَ﴾

”جب اللہ نے ان دونوں کو فرزند صالح عطا فرمایا تو اللہ کی اس دین میں انہوں نے دوسروں کو اللہ کا شریک بنایا، یہ

لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ اس سے برتر ہے۔

آدم علیہ السلام کے ہاتھوں بیت اللہ کی تعمیر

اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ میرے عرش کے بالمقابل (روئے زمین پر) ایک حرم ہے۔ جا۔۔۔ وہاں میرے لئے تو ایک گھر بنا کے اس میں عبادت کر جس طرح تو دیکھ چکا کہ میرے فرشتے عرش سے لگے رہتے ہیں تیری اور تیری اولاد میں سے جو فرمانبردار ہوں گے وہاں ان سب کی دعائیں قبول کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی یا رب! یہ مجھ سے کیونکر ہوگا۔ میں اس پر کہاں قادر ہوں؟ اور اس کا پتہ کیسے لگا سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایک فرشتہ متعین کر دیا جس کے ساتھ وہ مکے چلے۔ دوران سفر میں جب آدم علیہ السلام کسی باغ یا کسی جگہ میں گزرتے جو انہیں خوش آتی تو فرشتے سے کہتے یہاں ٹھہر جاؤ۔ وہ کہتا منزل مقصود کو پہنچنا ہے۔ اسی طرح چلتے چلتے مکے پہنچے۔ راستہ میں جن جن مقامات پر ٹھہرے وہ آباد ہوئے اور جہاں جہاں سے گزرتے گئے وہ غیر آباد صحرا اور دشت و بیابان رہے۔

آدم علیہ السلام نے پانچ پہاڑوں کے مصالحوں سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ① طور سینا ② طور زیتون ③ لبنان ④ جودی ⑤ حرا۔ جس سے کعبہ کی بنیادیں استوار کیں۔ جب تعمیر سے فارغ ہوئے تو فرشتہ انہیں کوہ عرفات پر لے چلا اور وہاں وہ تمام مناسک دکھائے (بتائے) جن پر لوگ آج بھی عمل کرتے ہیں۔ اس سے بھی فراغت ہو گئی تو فرشتہ انہیں ساتھ لے کے مکہ آیا جہاں وہ ایک ہفتہ تک بیت اللہ کا طواف کرتے رہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کی وفات

خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی تو آدم علیہ السلام ہندوستان میں واپس آئے اور یہاں آ کے کوہ نودز پر انتقال کر گئے۔ شیث علیہ السلام نے جبریل سے آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھنے کو کہا۔ مگر جبریل نے جواب دیا: تو ہی آگے بڑھ اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھ اور اس نماز کو تین تکبیروں سے ادا کر۔ پانچ تکبیریں تو نمازِ مخمکہ کی اور پچیس تکبیریں بر بنائے فضیلت آدم علیہ السلام۔

بنی آدم

آدم علیہ السلام اس وقت تک زندہ رہے کہ ان کی اولاد اور اولاد کی اولاد کوہ نودز پر چالیس ہزار تک پہنچ گئی۔ آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان میں زنا کاری، شراب خوری اور فتنہ و فساد پھیل گیا ہے۔ وصیت کی کہ اولاد شیث کی مناکحت اولاد قاتیل کے سلسلے میں نہ ہونے پائے۔ اولاد شیث نے آدم علیہ السلام کو ایک غار میں دفن کیا اور ایک پاسبان مقرر کر دیا کہ اولاد قاتیل میں سے کوئی بھی اس کے نزدیک نہ آنے پائے۔ وہاں جو آتے تھے فرزند ان شیث ہی آتے تھے۔ اور وہی آدم علیہ السلام کے لئے استغفار کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام کی عمر نو سو چھتیس (۹۳۶) برس تھی۔

ایک سو فرزند ان شیث نے کہ خوش رو بھی تھے انتقال آدم علیہ السلام کے بعد صلاح کی کہ دیکھیں تو ہمارے عمراد بھائی یعنی اولاد قاتیل کیا کرتے ہیں۔ اس مشورے کے مطابق وہ سو کے سو آدمی پہاڑ سے نیچے اتر کر اولاد قاتیل کی عورتوں کے پاس پہنچے جو بد شکل تھیں۔ عورتوں نے ان سب کو روک لیا۔ آخر خدا نے جب تک چاہا وہیں رہے۔ جب ایک مدت گزر گئی تو دوسرے سو آدمیوں نے مشورہ کیا کہ دیکھنا چاہئے کہ ہمارے بھائیوں نے کیا کیا۔ وہ بھی پہاڑ سے نیچے اتر گئے۔ انہیں بھی عورتوں نے روک لیا۔ یہ واقعہ پیش آچکا تو پھر فرزند ان شیث پہاڑ سے نیچے اترے جس کے باعث ان میں معصیت پھیلی۔ باہمی مناکحت ہونے لگی۔ مختلط ہو گئے۔ اور اپنی قاتیل اتنے بڑھے اتنے بڑھے کہ زمین بھر گئی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں غرق ہوئے تھے۔

حضرت حوا علیہا السلام

آیت ﴿وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ (اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا) کی تفسیر میں مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حوا علیہا السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے قصیری سے پیدا کیا۔ قصیری سب سے چھوٹی پہلی کو کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام اس وقت سو رہے تھے بیدار ہوئے تو دیکھ کے کہا: اٹھا۔ یہ پہلی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی عورت کے ہیں۔

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: حوا علیہا السلام کا نام حوا اس لئے پڑا کہ وہ ہر ایک ذی حیات (انسان کی ماں ہیں)۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک دوسری روایت میں کہتے ہیں: آدم علیہ السلام کا بیوٹ (بہشت سے) ہندوستان میں ہوا۔ اور حوا علیہا السلام کا جدے میں۔ آدم علیہ السلام ان کی تلاش میں چلے تو چلتے چلتے مقام جمع تک پہنچے۔ یہاں حوا علیہا السلام ان سے مزدلفہ ۱ ہوئیں۔ اس لئے اس کا نام مزدلفہ پڑا اور جمع میں دونوں مجتمع ہوئے اس لئے وہ جمع کے نام سے موسوم ہوا۔

حضرت ادریس علیہ السلام

ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: آدم علیہ السلام کے بعد روئے زمین پر پہلے پیغمبر جو مبعوث ہوئے وہ ادریس علیہ السلام تھے کہ وہی خون بن یزد ہیں اور یزد ہیں اور یزدی کا نام الیا ذ ہے۔ ایک ایک دن میں ان کے اتنے اعمال حسنة (جناب الہی میں) صعود کرتے تھے کہ ایک ایک مہینے میں اتنے اعمال بنی آدم کے صعود نہیں کرتے۔ ادریس نے ان پر حسد کیا اور قوم نے بھی ان کی تافروانی کی تو خدا نے جیسا کہ فرمایا بھی ہے انہیں اپنے ہاں ایک برتر جگہ میں اٹھا لیا: ﴿وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا﴾ ادریس علیہ السلام کو خدا نے بہشت میں داخل کیا اور فرمایا کہ میں اس کو یہاں سے نکالنے والا ہی نہیں۔ یہ ادریس علیہ السلام کے ایک بڑے قصہ کا اختصار ہے۔

۱ مزدلفہ: اقرباً نزدیک ہونا۔ جمع: محل اجتماع، حج، مقام حج۔

خنوخ یعنی ادریس علیہ السلام کے متوحش اور دوسرے لڑکے ہوئے مگر وحی متوحش ہی تھی۔ متوحش کے لہک اور دوسرے لڑکے ہوئے مگر وحی لہک ہی تھی۔ لہک سے حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے۔

حضرت نوح علیہ السلام

ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، لہک کے صلب سے جب نوح علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں تو اس وقت لہک کی عمر بیاسی (۸۲) برس تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ انسانوں کو اس وقت برائیوں سے روکنے والا کوئی نہ تھا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا اور ان لوگوں کے پاس پیغمبر بنا کے بھیجا۔ نوح علیہ السلام کی عمر اس وقت چار سو اسی (۴۵۰) برس تھی۔ وہ ایک سو بیس برس تک قوم کو نبوت کی دعوت دیتے رہے (جب اس دعوت الی اللہ پر کسی نے کان نہ دھرا اور راہ راست پر نہ آئے تو) اللہ تعالیٰ نے انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا جو انہوں نے بنالی اور اس پر سوار ہو گئے۔ اس وقت وہ چھ سو (۶۰۰) برس کے تھے۔ جنہیں (اس طوفان میں) غرق ہونا تھا وہ سب غرق ہو گئے۔ واقعہ کشتی (طوفان) کے بعد وہ ساڑھے تین سو سال (۳۵۰) تک زندہ رہے ان کے فرزند سام پیدا ہوئے جن کی اولاد کے رنگ میں سفیدی و گندم گوئی ہے، حام پیدا ہوئے جن کی اولاد میں سیاہی اور کچھ سفیدی ہے، یافث پیدا ہوئے جن کی اولاد میں سرخی مائل سیاہی ہے، کنعان پیدا ہوا جو (طوفان میں) غرق ہو گیا۔ عرب اس کو یام کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ عربوں کا قول ہے: انما ہام عمننا یام۔ ان سب کی ماں ایک ہی تھیں۔

طوفان نوح

نوح علیہ السلام نے کوہ نود پر کشتی گڑھی (بنائی) اور وہیں سے طوفان بھی شروع ہوا۔ نوح علیہ السلام خود کشتی میں سوار ہوئے۔ ساتھ میں ان کے وہی مذکور الاءم بیٹے اور بہویں یعنی بیٹوں کی بیویاں تھیں اور تہتر (۳۷) متنفس اولاد و شیث علیہ السلام میں سے تھے۔ جو ان پر ایمان لائے تھے۔ کشتی میں ان سب کی مجموعی تعداد (۸۰) تھی۔ نوح علیہ السلام نے (حیوانات کے بھی) دودو جوڑے کشتی پر لے لئے تھے۔ یہ کشتی تین سو ہاتھ لمبی، پچاس ہاتھ چوڑی اور تیس ہاتھ اونچی تھی۔ ہاتھ کا پیمانہ نوح علیہ السلام کے پردادا کے ہاتھ کے مطابق تھا۔ پانی سے یہ چھ ہاتھ باہر نکلی ہوئی تھی، بند تھی۔ نوح علیہ السلام نے اس میں تین دروازے بھی نکالے تھے جن میں بعض اوپر اور بعض نیچے تھے۔ اللہ تعالیٰ چالیس شبانہ روز تک مینہ برساتا رہا۔ وحشی جانور چار پائے چڑیاں یہ سب مینہ سے اثر پذیر ہو کر نوح علیہ السلام کے پاس آ گئے اور سب کے سب ان کے مطیع ہو گئے۔ انہوں نے حسب حکم جناب باری تمام حیوانات کے دودو جوڑے کشتی پر لے آئے۔ آدم علیہ السلام کا جثہ بھی ساتھ لے لیا اور اسے اسی طرح رکھا کہ عورتوں اور مردوں کے درمیان حائل و حاجب رہے۔ رجب کی دس شبیں گزری تھیں کہ کشتی پر سوار ہوئے (۱۱ رجب) اور عاشورہ (۱۰ محرم) کو پھر خشکی پر اترے۔ یہی باعث ہے کہ روزہ رکھنے والوں نے عاشورہ کا روزہ رکھا۔

پانی نکلا تو نصف نصف کر کے نکلا۔ یہی طوفان کا نصف باعث تو زمین کا سیلاب تھا اور نصف موجب مینہ کی طغیانی۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے:

﴿ففتحتنا ابواب السماء بماء منهمر و فجرتنا الارض عیوناً فالتقی الماء علی امر قد قدر﴾

”ہم نے لگا تار پانی کی چھڑی سے آسمان کے دروازے کھول دیئے اور زمین کے سوتے چشمے جاری کر دیئے۔ تو پانی ایک حکم پر جس کا اندازہ ہو چکا تھا پہنچ کے مل گیا۔“

آیت میں ﴿ماء منهمر﴾ سے مراد ﴿ماء منصب﴾ بہتا ہوا پانی ہے اور ﴿فجرتنا الارض﴾ کا مطلب ہے ﴿شقنا الارض﴾ ہم نے زمین کو چاک چاک کر ڈالا اور اس میں شکاف کر دیئے۔ ﴿فالتقی الماء علی امر قد قدر﴾ پانی ایک حکم پر جس کا اندازہ ہو چکا تھا پہنچ کے مل گیا کے معنی یہ ہیں کہ پانی کے دو حصے ہو گئے۔ نصف پانی آسمان سے اور نصف زمین کا۔ زمین کے بلند ترین پہاڑ پر بھی پندرہ ہاتھ پانی چڑھ گیا۔

کشتی نے مع اپنے راکبوں کے چھ مہینے میں تمام زمین کا دورہ پورا کر لیا اور کہیں نہ ٹھہری تا آنکہ حرم (کے) تک پہنچی مگر اس کے اندر نہ گئی۔ اور ایک ہفتے تک حرم کے گرد پھرتی رہی (طواف) کرتی رہی وہ گھر (خانہ خدا) جو آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اٹھا لیا گیا۔ غرق نہ ہونے پایا۔ یہی گھر بیت المعمور ہے، حجر اسود بھی اٹھا لیا گیا، غرق نہ ہونے پایا اور وہ کوہ البقیس پر رہا۔

کشتی جب حرم کے گرد پھر چکی تو راکبوں کو لئے ہوئے جودی پر پہنچی جو علاقہ موصل کی ایک پہاڑی ہے کہ دو قلعوں کے پاس واقع ہے۔ چھ ماہ کا سفر ختم کر کے سال پورا کرنے کے لئے جودی پر آ کر ٹھہر گئی تو اسی شمشاہی کے بعد ارشاد ہوا: ﴿بعداً للقوم الظالمین﴾ ”ظالموں کے لئے دور باش۔“

کوہ جودی پر جب کشتی ٹھہر چکی تو حکم ہوا: ﴿یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی﴾ ”اے زمین اپنے پانی کو نگل لے اور اے آسمان رُک جا۔“ آسمان کے رُکنے کا یہ مطلب ہے کہ اے آسمان اپنے پانی کو یعنی بارش کو روک لے۔ ﴿و غیض الماء﴾ ”پانی خشک ہو گیا۔“ زمین نے اسے جذب کر لیا۔ آسمان سے جو بارش ہوئی تھی اسی کی یادگار یہ سمندر اور دریا ہیں جو زمین پر نظر آتے ہیں طوفان کا آخری بقیہ وہ پانی تھا جو زمین حسمی^۱ میں چالیس برس تک رہ کے جاتا رہا۔

طوفان کے بعد کے حالات

طوفان سے نجات ملی تو نوح علیہ السلام (مع اہل کشتی کے) نیچے اترے اور وہاں ہر شخص نے اپنے لئے ایک ایک گھر بنایا۔ اس بستی کا نام اسی لئے سوق العمانین پڑا (یعنی اسی [۸۰] آدمیوں کا بازار)۔ نوح علیہ السلام کے جتنے آباؤ اجداد گزرے تھے تا بہ آدم علیہ السلام سب کا دین اسلام تھا۔ نوح علیہ السلام نے شیر کو بدو عادی کہ اس پر بخار چڑھا رہے کبوتر کے حق میں مانوس ہونے کی وعادی اور کورے کو

① حسمی بادیہ عرب کے ایک علاقے کا نام تھا جس میں اونچی اونچی پہاڑیاں واقع تھیں تا بعد از پانی کے کلام میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔

کہا کہ یہ معاش کی جانب سے تنگی میں مبتلا رہے گا۔

عکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: آدم و نوح علیہ السلام کے درمیان دس نسلیں گزریں جن کا دین اسلام تھا۔

یہ ایک استطرادی روایت تھی، اب آگے پھر وہی روایت چلتی ہے جو عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے اور جس کے جزئیات ابتدائے تذکرہ نوح علیہ السلام سے لے کے حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے قبل تک مذکور ہو چکے ہیں۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: نوح علیہ السلام نے نسل قابیل کی ایک عورت سے نکاح کر لیا۔ اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام یوناطن رکھا۔ یہ لڑکا دیار مشرق کے ایک شہر میں پیدا ہوا تھا معلنور مشن تھا۔

سوق ثمانین کی وسعت آبادی کے لئے جب کافی نہ ہوئی تو لوگ وہاں سے نکل کے اس مقام پر پہنچے جہاں شہر بابل آباد ہوا۔ بابل کی تعمیر انہیں لوگوں نے کی جو دریائے فرات اور مقام صراۃ کے درمیان واقع تھے۔ طول، عرض میں یہ شہر دوازدہ (۱۲) فرسنگ در دوازدہ (۱۲) فرسنگ تھا۔ اس کا دروازہ اس جگہ تھا جہاں آج (مصنف کے زمانے میں) وہ مکانات ہیں کہ آبادی میں سے گزرتو بائیں جانب کوفے کے پل کے اوپر بھی عمارتیں ملتی ہیں۔ بابل کی آبادی بہت بڑھی۔ لوگ بہت ہو گئے۔ تا آنکہ ایک لاکھ تک شمار ہو گیا۔ یہ سب لوگ دین اسلام پر قائم تھے۔ نوح علیہ السلام جب کشتی سے نکلے تو آدم علیہ السلام کا بچہ بیت المقدس میں دفن کر دیا۔ اور ایک زمانے کے بعد خود بھی انتقال کر گئے۔ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم۔

اولادِ نوح علیہ السلام

سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”فرزند ان نوح علیہ السلام میں عربوں کے ابوالآباء سام ہیں۔ حبشیوں کے حام ہیں اور رومیوں (رومانیوں) کے یافث ہیں۔“

سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ”نوح علیہ السلام کے تین لڑکے تھے سام و حام و یافث۔ سام سے تو اقوام عرب فارس و روم پیدا ہوئے کہ ان سب میں خیر و فلاح ہے۔ حام سے اقوام سودان و بربر و قبط پیدا ہوئے اور یافث سے ترک و صقالیہ و یاجوج و ماجوج کی قومیں پیدا ہوئیں۔“

ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اے موسیٰ! تو اور تیری قوم اہل جزیرہ اور اہل العال (یعنی بالائی عراق کے باشندے) سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔“

ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ عرب ایرانی، ہبطی، ہندوستانی، سندھی اور ہندی^۱ بھی سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ محمد بن السائب کہتے ہیں: ”ہندوستان و سندھ (سندھی) و ہندی، یوفر بن یقطن بن عابر بن شالخ بن ارفخشذ بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ہند کے بیٹے کا نام کمران تھا۔“

① ہند بھی اہل سند سے ملتی جلتی ایک قدیم قوم تھی۔

سلسلہ انساب

قوم جرہم: جرہم بن عامر بن سبان یقطن بن عابر بن شالخ بن ارفخند بن سام بن نوح علیہ السلام۔ جرہم کا نام ہذر م تھا۔
 حضرموت: حضرت موت بن یقطن بن عابر بن شالخ بن ارفخند بن سام بن نوح علیہ السلام۔ یہ ان راویوں کا قول ہے
 جو قوم حضرموت کو بنی اسماعیل علیہ السلام میں منسوب نہیں کرتے، یقطن ہی کا نام قحطان بھی تھا۔
 ابن عابر بن شالخ بن ارفخند بن سام بن نوح علیہ السلام۔ یہ قول ان کا ہے جو آل قحطان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد
 نہیں مانتے۔

فارسی (پارسی- ایرانی) فارس بن بیرس بن یاسور بن سام بن نوح علیہ السلام۔

نبطی: نبط بن ماش ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔

اہل جزیرہ و اہل العال: اولاد ماش بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔

عمالقہ: عملیق بن لوز بن سام بن نوح علیہ السلام عملیق ہی کا نام عریب تھا، قوم بن عمالقہ کا ابوالآباء یہی ہے۔ بربری
 عمالقہ ہی کی شاخ ہیں۔ جن کا سلسلہ یوں ہے: بربر بن تمیل بن مازرب بن فاران بن عمرو بن عملیق بن لوز بن سام بن نوح علیہ السلام۔
 باستثنائے قبائل ضہاجہ و کتامہ کہ یہ بھی اگرچہ بربر ہیں۔ مگر عمالقہ کی اولاد نہیں ہیں بلکہ افریقیس بن قیس بن صغی بن سبا بن قحطان بن
 عابر بن شالخ بن ارفخند بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بابل سے نکلتے ہوئے عملیق ہی نے پہلے پہل عربی
 زبان میں باتیں کیں۔ عرب العاربہ انہیں عمالقہ و جرہم کو کہتے ہیں۔

طلسم و امیم: اولاد لوز بن سام بن نوح علیہ السلام۔

شمود و جدیس: اولاد جاث بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔

عاد و عیل: اولاد عوض بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔

روم: اولاد فطی بن یونان بن یافث بن نوح علیہ السلام۔

نمرود (نمرود) ابن کوش بن کنعان بن حام بن نوح علیہ السلام۔ نمرود ہی فرماں روا ہے بابل تھا اور اسی کے ساتھ ابراہیم خلیل
 اللہ علیہ و علی نبینا الصلاۃ والسلام کا واقعہ پیش آیا تھا۔

اچانک زبانوں کی تبدیلی

قوم عاد کو ان کے زمانے میں حاد ارم کہتے تھے۔ جب یہ قوم تباہ ہو گئی تو قوم کو شمود ارم کہنے لگے۔ جب یہ قوم بھی برباد ہو
 گئی تو اولاد ارم ❶ کو ارمان کہنے لگے کہ وہی نبطی ہیں۔ ان سب کا دین اسلام تھا۔ اور بابل ان سب کا مقام تھا۔ تا آنکہ نمرود بن

کوش بن کنعان بن حام بن نوح فرماں روا ہوا۔ انہیں بت پرستی کی دعوت دی اور سب نے مان لی (بت پرست ہو گئے)۔ آخر یہ واقعہ پیش آیا کہ شام اداس حالت میں بسر کی تھی کہ سریانی زبان میں باتیں کرتے تھے۔ اور صبح ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے زبانیں بدل دیں اور ایسی بدل دیں کہ ایک کی ایک نہ سمجھتا تھا۔

اولادِ سام کی اٹھارہ (۱۸) زبانیں ہو گئیں۔

اولادِ حام کی بھی اٹھارہ (۱۸) زبانیں ہو گئیں۔

اولادِ یافث کی چھتیس (۳۶) زبانیں ہو گئیں۔

اللہ تعالیٰ نے ① قوم عاد ② عَمِل ③ خموذ ④ جدیس ⑤ عملیق ⑥ طسم ⑦ امیم ⑧ اور اولادِ یلقطن بن عابر بن

شالخ بن ارفخشذ بن سام بن نوح علیہ السلام کو عربی زبان کی تعلیم دی (یعنی ان قوموں کی زبان عربی ہو گئی)۔ یونانطن بن نوح علیہ السلام نے بابل میں انہیں اقوام کے لئے جھنڈے قائم کئے۔

بنی سام

بابل سے نکل کر اولادِ سام نے زمینِ مجدل میں قیام کیا کہ ناف زمین یہی ہے۔ یہ وہ زمین ہے کہ جو ایک طرف تو علاقہ سائیدما سے سمندر تک اور دوسری جانب یمن سے شام تک پہنچ واقع ہے۔ یہی وہ قوم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیغمبرِ نبوت کتابِ شریعت، حسن و جمال، گندم گونی اور گورارنگ عنایت فرمایا۔

بنی حام

بنی حام اس علاقے میں فروکش ہوئے جہاں با وجنوب اور مغربی ہوائیں چلتی ہیں۔ اس گوشہ زمین کو داروم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں کچھ گندم گونی اور بقدرِ قلیل گورارنگ رکھا ہے۔ ان کے علاقے آباد موسمِ شاداب، طاعون مرفوع و مدفوع، اور ان کی زمین میں اشجارِ اثل^① و اراک و عثر و غاف و نخل پیدا کئے۔ ان کے علاقوں کی فضاء میں آسمانی کتاب آفتاب و مانتاب دونوں رواں ہیں (یعنی روشن) ہیں۔

بنی یافث

اولادِ یافث نے دیارِ صفوان میں اقامت کی جہاں شمالی و مشرقی ہوائیں چلتی ہیں ان میں سرخی مائل سیاہی کا رنگ غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے علاقے الگ کر دیئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں سخت سردی پڑتی ہے ان کی فضاء آسمانی بھی الگ تھلگ رکھی ہے جس کے باعث کواکبِ سبعہ میں سے کسی کے یہ زیرِ حرکت نہیں۔ اور ہوں تو کیسے ہوں؟ یہ لوگ تو نباتِ العُش،

① اثل درختِ طرفا۔ اراک۔ پیلو۔ عثر چنار جیسا کہ ایک عربی درخت جس کی لکڑیاں زیادہ تر چھماق کا کام دیتی ہیں۔ غاف عربوں کے مذاق کا ایک خاص درخت جس کے میوے بہت ہی شیریں ہوتے ہیں۔ نخل کجور درختِ خرما۔

جدی فرقہ دین کے نیچے واقع ہیں (یعنی ان اقوام کے ممالک انہیں کروں یا ستاروں کے بالمقابل ہیں۔ یہ طاعون میں مبتلا ہوا کرتے ہیں۔

اہل عرب

کچھ زمانے کے بعد قوم عاد مقام ثمر میں آ کے مقیم ہو گئی اور اسی مقام پر ایک وادی میں ہلاک و تباہ بھی ہوئی جس کو وادی مغیث کہتے ہیں۔ قوم عاد جب فنا ہو گئی تو ثمر میں اس کی جانشین قوم مہرہ ہوئی۔

قوم عییل وہاں جا رہی جہاں یثرب (مدینہ رسول اللہ ﷺ) آباد ہوا۔

علاقہ صنعاء جا پہنچے لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب صنعا کا نام بھی صنعا نہیں پڑا تھا۔ مَرور زمانے کے بعد ان میں سے کچھ لوگوں نے یثرب جا کے وہاں سے قوم عییل کو نکال دیا اور خود مقام جھہ میں اقامت اختیار کی بعد کو ایک سیلاب آیا جو ان سب کو بہا کر لے گیا۔ جب ہی اس کا نام جھہ پڑا۔^①

قوم ثمود و مقام حجر اور اس کے مضافات میں آباد ہوئی اور وہیں برباد ہوئی۔

اقوام طسم و جدیس نے یمامہ میں رہنا شروع کیا اور وہیں ہلاک ہوئے۔ یمامہ^② انہیں میں سے ایک عورت کا نام تھا۔ جس کے نام پر یہ مقام بھی یمامہ مشہور ہوا۔

قوم امیم سرزمین ابار میں جالسی اور وہیں منقرض بھی ہوئی۔ یہ مقام علاقہ یمامہ و ثمر کے درمیان واقع ہے۔ مگر اب اس زمانے میں وہاں تک کسی کی رسائی نہیں کیونکہ اس پر جن غالب آ چکے ہیں اس علاقہ کا نام ابار بن امیم کے نام پر ابار پڑا تھا۔

یقطن بن عابر کی اولاد دیا ربیعین میں آباد ہوئی۔ اور اسی وجہ سے اس کا نام یمن پڑا۔ کیونکہ اس قوم نے یمنیں تیا من کیا تھا۔ یعنی قبلہ رُخ سے چل کر بجانب یمن (دست راست کے رُخ) آئے تھے۔ اور یہاں آباد ہوئے۔

شام کی وجہ تسمیہ:

کنعان بن حام (بن نوح علیہ السلام) کی اولاد کے کچھ لوگ شام میں آباد ہوئے اور اسی بنا پر اس کا نام شام پڑا کیونکہ ان لوگوں نے تھکاوٹ کیا تھا۔ یعنی قبلہ رُخ سے بائیں جانب مڑ گئے تھے۔ شام کو اولاد کنعان کی سرزمین کہا کرتے تھے۔ آخر بنی اسرائیلوں نے آ کے کنعانیوں کو قتل کر ڈالا اور جو بچے انہیں جلا وطن کر دیا۔ اب شام بنی اسرائیل کا ہو گیا۔ مگر ان پر بھی رومیوں نے

① جھ: لے جانا بہا لے جانا۔ جھہ نکال لینے کے بعد جو پانی حوض میں بچ رہا ہو۔ مقام جھہ: سیلاب آنے سے پیشتر اس مقام کا نام مہرہ تھا۔

② یہ وہی عورت ہے جس کی دور بنی اسی قدر مبالغے سے بیان کی جاتی ہے کہ تین دن کی مسافت کے طویل و عریض فاصلے سے وہ اپنی آبادی میں آنے والے سواروں کو دیکھ لیا کرتی تھی۔

③ یمن ناحیۃ الیمن: وہ علاقہ جو قبلہ رُخ کے داہنے جانب واقع ہے۔

④ شام وہ علاقہ جو قبیلے کے بائیں طرف پڑے۔

حملہ کیا، ان کو قتل کر ڈالا اور جو بچے انہیں عراق میں جلا وطن کر دیا۔ شام میں بہت تھوڑے سے اسرائیلی رہ گئے۔ اس کے بعد عرب آئے اور شام بھی عربوں ہی کے تحت تصرف میں آ گیا۔ اولاد نوح کے درمیان زمین کی تقسیم فالخ^۱ نے کی جن کو فالخ بھی کہتے ہیں۔ فالخ بن عابر بن شالخ بن اخعد بن سام بن نوح علیہ السلام جیسا کہ ہم اس کتاب میں پہلے بیان کر چکے ہیں۔

قوم سبا

فروہ بن میک غطفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی جناب میں حاضر ہو کے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! میری قوم کے جو لوگ سامنے آچکے ہیں، یعنی ایمان لاچکے ہیں کیا میں انہیں لے کر قوم کے ان لوگوں سے نہ لڑوں جو پیچھے جا پڑے ہیں یعنی ہنوز ایمان نہیں لائے ہیں۔

آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”کیوں نہیں؟“

بعد کو مجھے دوسرا خیال آیا، میں نے پھر گزارش کی یا رسول اللہ ﷺ! نہیں! وہ بات نہیں بلکہ اہل سبا سے لڑنا چاہئے کہ یہ لوگ بڑے غلبے والے اور نہایت طاقتور ہیں۔

آنحضرت ﷺ نے مجھ ہی کو اس مہم کا امیر بنایا اور اہل سبا سے لڑنے کی اجازت عطا فرمائی۔ میں حضور ﷺ سے باہر نکلا، ہی تھا، اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کے متعلق جو وحی بھیجی تھی بھیجی۔ نزول وحی کے بعد رسول اللہ ﷺ نے استفسار فرمایا: ”غطفی نے کیا کیا؟“ میرے فرود گاہ پر آ دی بھیجا، میں چل چکا تھا، قاصد نے مجھے وہاں نہ پایا، راستے میں آیا اور واپس لایا۔ رسول اللہ ﷺ کی جناب میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ کو بیٹھا ہوا پایا، ارد گرد اصحاب بیٹھے تھے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ((أدع القوم، فمن اجابك منهم فاقبل و من ابى فلا تعجل عليه حتى تحدث الي))۔

”قوم سبا کو اسلام کی دعوت دے، ان میں سے جو اس دعوت کو مان لے اور مسلمان ہو جائے اس کو قبول کر اور جو انکار کرے اس پر جلدی نہ کر، یعنی فی الفور منکرین اسلام کے خلاف کارروائی شروع نہ کر دے تا آنکہ اس کا تذکرہ مجھ سے کر لے، یعنی انکار کرنے والوں کے متعلق مجھے اطلاع دے کے کچھ کرنا تو کرنا۔“

حاضرین میں ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ ﷺ! سبا کیا ہے؟ یہ کوئی زمین ہے یا کسی عورت کا نام ہے؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: نہ یہ زمین ہے نہ عورت، یہ ایک شخص تھا جس سے عرب کے قبائل پیدا ہوئے۔ چھ تو یمن میں آباد ہوئے اور چار شام میں۔ شام میں تو ① حم ② جذام ③ دقان ④ وعاملہ آباد ہوئے اور یمن والے ① آزو ② وکنده ③ حمیر ④ واشحر ⑤ وانمار ⑥ وندج ہیں۔

ایک شخص نے پھر سوال کیا: ”یا رسول اللہ ﷺ! انمار کیا؟“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”انمار وہی ہیں جن سے قبائل شعم (بحیلہ) نکلے۔“

① قلع: خلق تقسیم جدا جدا کرنا، بانٹنا۔ فالخ یا فالق: قاسم تقسیم کنندہ۔

حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام

ابن السائب الکلی کہتے ہیں: ابراہیم علیہ السلام کا باپ شہر حران (عراق) کا باشندہ تھا۔ ایک سال قحط پڑا تو جنگی معاش میں مبتلا ہو کے ہرمزگرد چلا آیا (یہ شہر ایران میں واقع تھا)۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ماں بھی تھیں جن کا نام نونا تھا، بنت کرینا بن کوٹا، جو ارفخشذ بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں تھے۔

محمد بن عمر الاسلامی نے کئی اہل علم سے روایت کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ماں کا نام ایبونا تھا۔ اور وہ افرام بن ارغوب بن فالغ بن عابر بن ارفخشذ بن سام بن نوح علیہ السلام کے سلسلہ نسب میں تھیں۔

محمد بن السائب کہتے ہیں: نہر کوٹی کو کرینا نے کھودا تھا جو ابراہیم علیہ السلام کا جد مادری تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ بادشاہ نمرود کے بتوں پر مامور و متعین تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ہرمزگرد میں پیدا ہوئے اور یہی ان کا نام تھا۔ بعد کو نقل مکان کر کے کوٹی آ گئے۔ جو بابل کے علاقے میں ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام بالغ ہوئے، قوم کی مخالفت کی، عبادت الہی کی جانب دعوت دی، بادشاہ نمرود تک خبر پہنچی تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو قید کر دیا۔ سات برس تک قید خانے میں رہے۔ آخر کار نمرود نے ایک خطیرہ نماباغ (یا احاطہ) بنوایا۔ بڑی بڑی بھاری خشک لکڑیاں اس میں بھروا کے ان میں آگ لگوا دی اور ابراہیم علیہ السلام کو اسی میں ڈلوادیا۔ اس وقت انہوں نے کہا:

﴿حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾

”مجھے اللہ کافی ہے اور بہترین بھروسہ کے قابل وہی ہے۔“

وہ آگ سے صحیح و سلامت باہر نکل آئے ان پر آج تک نہ آئی۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: آگ سے صحیح و سالم باہر نکلنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کوٹی سے چلے گئے۔ ان کی زبان اس وقت تک سریانی تھی۔ جب حران سے دریائے فرات عبور کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے زبان بدل دی۔ فرات کو عبور کرنے کی حیثیت سے عبران کہے گئے۔ نمرود نے ان کے پیچھے لوگ بھیجے اور حکم دے دیا کہ جو کوئی سریانی زبان میں باتیں کرتا ہو اسے جانے نہ دینا، میرے پاس لانا۔ سراغ لگانے والے مامورین کی ابراہیم علیہ السلام سے مڈبھیڑ ہوئی تو انہوں نے عبرانی میں باتیں کیں۔ مامورین انہیں چھوڑ کے چلے گئے اور نہ جانا کہ یہ کیا زبان بول رہے ہیں۔

محمد بن السائب کہتے ہیں: واقعات مذکورہ کے بعد ابراہیم علیہ السلام ارض بابل سے شام میں ہجرت کر گئے۔ وہاں سارہ آئیں اور انہوں نے اپنے تئیں ابراہیم کو بخش دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور وہ انہیں کے ساتھ نکل کھڑی ہوئیں۔ ان دنوں ابراہیم علیہ السلام کی عمر سینتیس (۳۷) برس تھی۔ حران پہنچ کے کچھ روز تو وہاں رہے پھر کچھ زمانے تک اردن میں اقامت کی۔ پھر مصر جا کے کچھ مدت تک وہاں رہے پھر شام واپس آئے۔ اور یہاں سرزمین سبع میں ٹھہرے جو ایلینا (بیت المقدس یا یروشلم) اور فلسطین کے درمیان واقع ہے۔ یہاں ایک کنواں (بیر سبع) کھودا اور ایک مسجد بنائی۔ بعد کو بعض اہل شہر نے جب اُن کو اذیت دی تو اس مقام کو بھی چھوڑ کے ایک دوسری جگہ فروکش ہوئے جو رملہ اور ایلینا کے مابین واقع تھی۔ وہاں بھی ایک کنواں کھودا اور

رہنے لگے۔ مال و متاع و خدام و حشم میں ان کو وسعت اور فراخی حاصل تھی۔ وہ پہلے مہمان نواز پہلے شہید (ایک قسم کا کھانا جس میں روٹیاں شوربے میں توڑ کے اچھی طرح بھگو کے کھاتے ہیں) کھلانے والے اور پہلے شخص ہیں جنہوں نے پیرانہ سری دیکھی۔

عاصم کہتے ہیں ابو عثمان نے غالباً سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے خیر طلب کی، صبح ہوئی تو سر کے دو ٹکٹ بال سفید تھے۔ عرض کی یہ کیا ہے؟ کہا گیا: یہ دنیا میں عبرت اور آخرت میں نور ہے۔

عکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام کی کنیت ابوالاضیاف تھی (یعنی مہمانوں کے باپ)۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ابراہیم علیہ السلام نے مقام قدوم میں اپنا ختنہ کیا، اس وقت ان کی عمر ایک سو بیس (۱۲۰) برس تھی۔

اس کے بعد وہ اسی برس اور زندہ رہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب اپنا خلیل (دوست) بنایا اور نبوت عطا فرمائی تو اس وقت ان کے تین سو (۳۰۰) غلام تھے۔ ان سب کو آزاد کر دیا۔ اور سب کے سب اسلام لے آئے۔ ان کے پاس عصا اور ڈنڈے ہوتے تھے۔ یہ دشمنان اسلام سے ابراہیم علیہ السلام کی معصیت میں انہیں ڈنڈوں سے لڑتے تھے۔ (لٹھ چلاتے ڈنڈے مارتے) پہلے آزاد غلام وہی ہیں جو اپنے آقا کے شریک ہو کے لڑے ہیں۔

محمد بن السائب کہتے ہیں: ابراہیم علیہ السلام کے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے کہ وہی خلف اکبر تھے۔ ان کی ماں ہاجرہ قطی نسل کی تھیں۔ دوسرے لڑکے اسحاق علیہ السلام سارہ سے پیدا ہوئے۔ یہ بصارت سے معذور تھے۔ سارہ کا سلسلہ نسب یہ ہے: سارہ بنت ثویل بن ناحور بن ساروغ بن ارغوا بن فارخ بن عابر بن شالخ بن ارفخند بن سام بن نوح علیہ السلام بقیہ لڑکے (۳) مدین (۴) و مدین (۵) و یفشان (۶) و زمران (۷) و اشقیق (۸) و شوخ تھے۔ ان سب کی ماں قنطور بنت مفلور عرب غارہ کی نسل سے تھیں۔ یفشان کی اولاد مکے میں جاری، مدین نے سرزمین مدین میں اقامت کی تو انہیں کے نام سے یہ علاقہ موسوم ہوا، بقیہ لڑکے دوسرے شہروں میں چلے گئے۔ (ایک مرتبہ) سب لڑکوں نے ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی: ”اے ہمارے باپ! تو نے اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کو تو اپنے ساتھ رکھا اور ہمیں حکم دیا کہ دیار غربت و وحشت میں منزل گزریں ہوں۔“

ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا: مجھے ایسا ہی حکم ملا ہے۔ پھر انہیں اللہ تعالیٰ کا ایک اسم سکھا دیا جس کی برکت سے وہ مینہ کے لئے دعائیں مانگتے اور نصرت طلب کرتے تو جناب الہی میں یہ دعا قبول ہو جاتی۔ بعض اولاد ابراہیم علیہ السلام نے خراسان میں نزول کیا۔ قوم خزر ان کے پاس آئی اور کہنے لگی جس نے تمہیں ایسے اسم کی تعلیم دی وہ بہترین بادشاہ گان روئے زمین ہونے کے شایان ہے یا زمین کا سب سے اچھا بادشاہ وہی ہو سکتا ہے اسی بنا پر انہوں نے بادشاہ کا نام (لقب) خاقان رکھا۔

محمد بن عمر الاسلمی کہتے ہیں: ابراہیم علیہ السلام نوے (۹۰) برس کے تھے کہ ان کے صلب سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر تیس (۳۰) برس کے بعد اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب کہ ابراہیم علیہ السلام ایک سو بیس (۱۲۰) برس کے تھے۔ سارہ انتقال کر گئیں تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک کنعانی خاتون سے نکاح کر لیا۔ جنہیں قنطور کہتے ہیں۔ ان سے چار لڑکے پیدا ہوئے، ماذی، زمران، سرخ، سبق۔ ایک دوسری خاتون سے بھی نکاح کیا جن کا نام جھونی تھا۔ ان سے سات لڑکے ہوئے، ناس، مدین، کیشان، شروخ، امیم۔

لو طمقشان۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام کے کل تیرہ لڑکے ہوئے۔

محمد بن السائب کہتے ہیں: ابراہیم علیہ السلام تین مرتبہ مکے گئے۔ آخری مرتبہ لوگوں کو حج کی دعوت دی۔ یہ دعوت جس نے اور جس چیز نے بھی سنی مان لی۔ اس سے پہلے ماننے والوں میں قوم جرہم تھی جس نے علاقہ سے بھی قبل دعوت حج بیت اللہ قبول کی پھر یہ قوم مسلمان ہو گئی۔ اور ابراہیم علیہ السلام شہر شام میں واپس آئے۔ جہاں آ کے دو سو (۲۰۰) برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ صلی اللہ علی نبینا وعلیہ وبارک وسلم۔

حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام

محمد بن عمر الاسلمی نے کئی اہل علم سے روایت کی ہے جن کا قول یہ ہے ہاجرہ (حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں) قوم کی قبطیہ تھیں۔ فسطاط مصر (قاہرہ) کے متعل مقام فرامی (فرما) کے آگے ایک گاؤں تھا۔ وہیں کی ایک رہنے والی تھیں۔ قبطیوں کے ایک جبار سرکش فرعون کے پاس وہ تھیں اور یہ وہی فرعون تھا جو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کے ساتھ پیش آیا۔ یعنی ان کے ساتھ گستاخی کی تھی یا کرنی چاہی تھی جس کے نتیجہ میں مصر سے ہوا گیا (یعنی ناکام و ذلیل ہونا پڑا تھا)۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سارہ کا ہاتھ پکڑنے چلا تھا۔ جس کا مال یہ ہوا کہ سینے تک اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ آخر سارہ سے التجا کی کہ وہ خدا سے دعا کرے کہ میری یہ مصیبت جاتی رہے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے پہچان دوں گا (یعنی ناخوش و ناراض نہ کروں گا)۔ سارہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس کا ہاتھ پھیل گیا۔ شکایت جاتی رہی اور افاقہ ہو گیا۔ فرعون نے (بطور شکرگزاری) ہاجرہ کو طلب کیا جو اس کے تمام خدام میں سب سے زیادہ ایماندار تھیں اور سب سے زیادہ ایماندار مانی جاتی تھیں۔ انہیں ایک کسوت و لباس عنایت کیا اور سارہ کو ہیہ کر دیا، بخش دیا۔ یعنی ہاجرہ کو سارہ کی ملکیت میں دے دیا۔ سارہ نے انہیں ابراہیم علیہ السلام کو بخش دیا جنہوں نے مقاربت کی تو اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے کہ ان کے خلف اکبر وہی تھے ان کا نام اشمویل تھا۔ معرب ہو کے اسماعیل علیہ السلام ہو گیا۔

ابن عون کہتے ہیں: محمد بن السائب الکلی کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں کا نام آجر (بہ الف ممدودہ) ہے۔ ہاجر (بہ ہائے مہملہ) نہیں ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ابراہیم علیہ السلام اور سارہ ایک جبار کے پاس سے گزریں اسے اطلاع ملی تو ابراہیم علیہ السلام کو بلا کے پوچھا: ”یہ تیرے ساتھ کون ہے؟“

جواب دیا: ”یہ میری بہن ہے۔“

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے (یہ قصہ کہتے وقت) بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام ہجرت میں مرتبہ کے اور کبھی جھوٹ نہ بولے۔ دوسرے تو اللہ تعالیٰ کے متعلق اور ایک مرتبہ اپنی بیوی کے متعلق جھوٹ بولے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ جھوٹ بولے تھے کہ ایک واقعے میں کہا: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾ (میں بیمار ہوں) دوسرے واقعے میں کہا: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾ (میں نے تو نہیں بلکہ ان کے بڑے نے یہ کام کیا ہے)۔ اور بیوی کے متعلق یہ جھوٹ تھا کہ اس جبار سے کہا: ”یہ تو میری بہن ہے۔“

جبار کے ہاں سے نکل کر ابراہیم علیہ السلام جب سارہ کے پاس آئے تو ان سے کہا: ”اس جبار نے مجھ سے تیری نسبت سوال کیا تھا میں نے اسے بتایا کہ تو میری بہن ہے۔ اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے رشتے سے تو میری بہن ہے۔ تجھ سے بھی اگر وہ پوچھے تو اپنے آپ کو میری بہن بتانا۔“

جبار کے طلب کرنے پر سارہ جب اس کے پاس لائی گئیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس کے شر سے انہیں محفوظ رکھے۔ ایوب (کہ اس روایت کے راوی ہیں) کہتے ہیں کہ سارہ کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ جبار کا ہاتھ (قدرت کاملہ کی دھمیری سے) پکڑ لیا گیا اور بڑی سخت گرفت ہوئی۔ ناچار اس نے سارہ سے عہد کیا کہ یہ گرفت جاتی رہے تو پھر اس کے قریب نہ آئے گا (ہاتھ نہ بڑھائے گا)۔ سارہ نے دعا کی وہ گرفت جاتی رہی۔ اب پھر اس نے قصد کیا تو دوبارہ ایسی گرفت میں آیا جو پہلے سے بھی شدید تھی۔ مکر عہد کیا کہ اس بلا سے رہائی ملی تو قریب تک نہ آئے گا۔ سارہ نے پھر دعا کی اور پھر اسے نجات مل گئی۔ تو تیسری مرتبہ بھی اس نے قصد کیا جس کی پاداش میں پہلی دوبارہ سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ گرفتار ہوا۔ اب کے پھر عہد کیا کہ چھوٹ جائے تو پاس نہ پھٹے گا۔ سارہ نے اب کے بھی دعا کی اور وہ چھوٹ گیا۔ سارہ کو جو لایا تھا اسے (بلا کے) کہا۔

اسے (یعنی سارہ کو) یہاں سے باہر نکال تو یہ میرے پاس انسان کو نہیں لایا۔ شیطان کو لے کے آیا۔

(واپس بھیجے ہوئے) سارہ کی خدمت کے لئے ہاجرہ کو بھی ساتھ کر دیا جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوٹیں تو وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے۔ سارہ نے کہا: ”ابراہیم! تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کافر فاجر کا ہاتھ روک لیا اور ہاجرہ کو اس نے میری خدمت کے لئے دیا۔ اس واقعہ کے بعد ہاجرہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی ہو گئیں۔ اور ان کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ صلوات اللہ و سلامہ علیہ۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ سب بیان کر کے کہا: ”اے آسمانی مینہ کی اولاد! یہ تمہاری ماں کہ اسحاق کی ماں کی ایک لونڈی تھیں۔“ ابن شہاب زہری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم قطیوں پر غالب آؤ اور وہ تمہارے محکوم ہو جائیں تو ان کے ساتھ احسان کرنا کیونکہ وہ عہد و ذمہ رکھتے ہیں ان سے قربت ہے۔ آنحضرت ﷺ کی مراد اسماعیل علیہ السلام کی ماں سے ہے کہ وہ اسی قوم کی تھیں۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: عورتوں نے پہلے بڑے بڑے لائے چوڑے دوپٹے جو اوڑھنے شروع کئے تو وہ اس بناء پر تھے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں نے یہ لباس اختیار کیا تھا۔ (نیچے دوپٹے سے جو چلتے وقت زمین کو جھاڑتا چلے گا)۔ سارہ کو ان کا نشان

① اصل میں ماء السَّماء یعنی اے آسمانی مینہ کی اولاد کیونکہ ماء السَّماء آسمانی مینہ کو کہتے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ ماء السَّماء ایک عربیہ خاتون کا لقب تھا جو عراق کے ایک عرب بادشاہ منذر لُحی کی ماں تھی۔ اس کا رنگ بہت ہی صاف کھرا ہوا تھا۔ اس لئے آسمانی مینہ سے تشبیہ دیتے تھے۔ جو بالکل ہی خالص ہوتا ہے۔ یہ عہد جاہلیت کی بات ہے۔ مگر اسلام میں بھی یہ خاندان بہت ہی شریف اور نہایت ہی نامور مانا جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسی خاندان کے لوگوں کو یہ قصہ سنارہے تھے اور انہیں کا فخر شرافت نبی کریم کرنے کے لئے کہا تھا کہ تم جن کی نسل میں ہو وہ تو خود ایک لونڈی تھیں۔ بات یہ ہے کہ جس خاندان میں تقویٰ ہو وہ بہر حال شریف ہے ورنہ کچھ بھی نہیں۔

اور کھوج نہ ل سکے گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب انہیں اور ان کے فرزند (اسماعیل علیہ السلام) کو لے کے ابراہیم علیہ السلام کے چلے تھے۔
ابو جہم بن حذیفہ بن غانم کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل کر کے حکم دیا کہ بلد الحرام (مکہ مبارکہ) چلے جائیں۔ اقبال امر میں ابراہیم علیہ السلام براق پر سوار ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام دو برس کے تھے اپنے آگے بٹھالیا اور ہاجرہ کو پیچھے۔ ساتھ میں جبریل علیہ السلام تھے۔ جو بیت اللہ کا راستہ بتاتے چل رہے تھے۔ اسی کیفیت سے مکہ پہنچے تو وہاں اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں کو بیت اللہ کے ایک گوشے میں اتارا اور خود شام واپس آ گئے۔

عقبہ بن بشیر نے محمد بن علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا: ”عربی زبان میں پہلے پہل کس نے کلام کیا تھا؟“
جواب دیا: ”اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام نے جب کہ وہ تیرہ برس کے تھے۔“

(محمد بن علی کی کنیت ابو جعفر تھی۔ عقبہ کہتے ہیں) میں نے پوچھا: ”ابو جعفر! اس سے پہلے لوگوں کی زبان کیا تھی؟“
کہا: ”عبرانی۔“

میں نے مکرر سوال کیا: ”اللہ تعالیٰ اس زمانے میں اپنے پیغمبروں اور بندوں پر کس زبان میں اپنا کلام نازل کرتا تھا؟“
جواب دیا: ”عبرانی میں۔“

محمد بن عمر الاسلمی کئی اہل علم سے روایت کرتے ہیں: اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے اسی زمانے میں عربی زبان ان کو الہام ہوئی۔ بخلاف ان کے تمام دوسرے فرزند ان ابراہیم کی وہی زبان تھی جو ان کے باپ کی تھی (عبرانی یا سریانی)۔
محمد بن السائب کہتے ہیں: اسماعیل علیہ السلام نے عربی میں کلام نہیں کیا تھا اور اپنے باپ کی مخالفت جائز نہیں رکھی تھی۔ عربی میں تو ان کی اولاد میں سے پہلے پہل ان لوگوں نے کلام کیا ہے جو یاں کی جانب سے رعلہ بنت شیب بن یعرب بن لوذان بن جرم بن عامر بن سبا بن یقطن بن عابر بن شالح بن ارفخشہ بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد تھے۔
یحییٰ بن عبد اللہ کہتے ہیں یہ روایت مجھ تک پہنچی ہے کہ اسماعیل پیغمبر علی نبینا وعلیہ السلام نے اپنا ختنہ اس وقت کیا جب وہ تیرہ برس کے تھے۔

علی بن رباح نخعی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تمام عرب اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔“
محمد بن اسحاق بن یسار اور محمد بن السائب الکلی دونوں صاحبوں کا بیان ہے۔ اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کے بارہ لڑکے ہوئے۔

نیاؤ، کہ بنت اور نابت بھی انہیں کو کہتے ہیں اور خلف اکبر بھی وہی تھے۔

قیدر

اؤبل

منسی، کہ انہیں کا نام منشی بھی ہے۔

مسح، کہ مستماعہ بھی انہیں کو کہتے ہیں۔

دما، کہ دوما سے بھی وہی موسوم ہیں اور انہیں کے نام سے دومۃ الجندل منسوب ہے۔

❖ ماشی

❖ آذر

❖ طیمہ

❖ فیطور

❖ نیش

❖ قیڑما

ان سب کی ماں رعلہ تھیں جو بروایت محمد بن اسحاق بن یسار، مہاض بن عمرو جزیہی کی اور بروایت محمد بن السائب الکلبی، یثجب بن یعرب کی بیٹی تھیں۔ یثجب کا سلسلہ نسب محمد بن السائب کی پہلی روایت میں آچکا ہے۔ محمد بن السائب یہ بھی کہتے ہیں کہ رعلہ جزیہیہ سے پہلے اسماعیل علیہ السلام نے عمالقمہ میں بھی ایک عورت سے نکاح کیا تھا۔ جس کے باپ کا نام صدی تھا۔ یہ وہی عورت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اس کے پاس آئے تھے تو وہ سخت کلامی سے پیش آئی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا اور اس سے کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی۔

زید بن اسلم کہتے ہیں: اسماعیل علیہ السلام جب بیس (۲۰) برس کے ہوئے تو ان کی ماں ہاجرہ نوے (۹۰) برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے انہیں مقام حجر میں دفن کیا۔

ابوہیم کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ بیت اللہ (خانہ کعبہ) کی تعمیر کریں۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت سو (۱۰۰) برس کے تھے۔ اور اسماعیل علیہ السلام تیس (۳۰) برس کے۔ دونوں پیغمبروں نے مل کر یہ عمارت بنائی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام نے انتقال کیا تو اپنی ماں کے ساتھ کعبے کے متصل حجر کے اندر دفن ہوئے۔ ان کی وفات پر نابت بن اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کے متولی ہوئے۔ قوم جزیہیہ کے لوگ جو ان کے ماموں تھے وہ بھی اس تولیت میں شریک تھے۔ اسحاق بن عبد اللہ بن ابی فروہ کہتے ہیں: بجز تین پیغمبروں کے اور کسی پیغمبر کی قبر معلوم نہیں۔

❖ اسماعیل علیہ السلام کی قبر جو میزاب کے تلے رکن اور خانہ کعبہ کے درمیان ہے۔

❖ ہود علیہ السلام کی قبر جو ریت کے ایک بہت بڑے ترچھی وضع کے ایک ٹیلے کے اندر ہے جو یمن کے ایک پہاڑ کے نیچے واقع ہے۔ اس قبر پر تندی کا درخت بھی ہے اور یہ بہت ہی گرم مقام ہے۔

❖ رسول اللہ ﷺ کی قبر کہ درحقیقت تینوں قبریں انہیں پیغمبروں کی قبریں ہیں۔

صلوات اللہ علیہم اجمعین



مَابَيْنَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ مُحَمَّدٍ ﷺ

حضرت آدم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے درمیان کا زمانہ

عکرمہ بنی النضر کہتے ہیں: آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان دس قرن کا زمانہ حائل ہے۔ یہ تمام نسلیں دین اسلام پر قائم تھیں۔

محمد بن عمرو بن واقد الاسلمی کئی اہل علم سے روایت کرتے ہیں جن کا قول یہ ہے: آدم و نوح علیہ السلام کے درمیان دس قرن گزرے۔ ہر قرن ایک سو (۱۰۰) برس۔ نوح و ابراہیم علیہ السلام کے درمیان دس قرن ہر قرن سو برس۔ ابراہیم و موسیٰ بن عمران علیہ السلام کے درمیان دس قرن ہر قرن سو برس۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: موسیٰ بن عمران و عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے درمیان ایک ہزار نو سو (۱۹۰۰) برس گزرے۔ یہ درمیانی زمانہ عہد فترت^① نہ تھا۔ ان دونوں پیغمبروں کے درمیانی عہد میں بنی اسرائیل میں ایک پیغمبر مبعوث ہوئے اور دوسری قوموں میں جو پیغمبر بھیجے گئے وہ ان کے علاوہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پانچ سو اسی (۵۶۹) برس کا فاصلہ ہے۔ جس کے ابتدائی زمانے میں تین پیغمبر مبعوث ہوئے۔ کلام اللہ میں اسی کے متعلق ہے:

﴿اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ﴾

”وہ واقعہ یاد کرو جب ہم نے ان کے پاس دو شخص بھیجے تو انہوں نے ان کی تکذیب کی آخر ہم نے تیسرے سے انہیں غلبہ دیا۔“

وہ تیسرے پیغمبر شمعون علیہ السلام تھے۔ جن کی بدولت غلبہ حاصل ہوا۔ یہ حواریوں میں سے تھے۔

عہد فترت جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول نہ بھیجا چار سو چونتیس برس رہا۔

① عہد فترت: وہ زمانہ جس میں ایک پیغمبر کے بعد دوسرا پیغمبر مبعوث نہ ہوا ہو۔

② حواری: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انصار رضی اللہ عنہم۔

عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارہ حواری تھے۔ ان کی پیروی تو بہتوں نے کی مگر ان سب میں حواری بارہ ہی تھے۔ حواریوں میں دھوبی اور شکاری (صیاد) بھی تھے۔ یہ سب لوگ پیشہ وردستکار تھے کہ اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے۔ یہی حواری اصفیاء (برگزیدہ) نکلے۔

عیسیٰ علیہ السلام جب اٹھائے گئے ہیں تو بتیس (۳۲) برس چھ (۶) مہینے کے تھے۔ ان کی نبوت (۳۰) مہینے رہی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مع جسم کے اٹھایا۔ وہ اس وقت زندہ ہیں عنقریب دنیا میں واپس آئیں گے دنیا کے بادشاہ ہو جائیں گے پھر اسی طرح وفات پائیں گے جس طرح سب لوگوں کو وفات ہوا کرتی ہے۔

عیسیٰ علیہ السلام کی بستی کا نام ناصرہ تھا۔ ان کے اصحاب کو ناصری کہتے تھے۔ اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناصری کہے جاتے تھے۔ ناصری کا نام اسی لئے ناصری پڑا۔

انبیاء علیہم السلام کے نام و نسب

ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ”میں نے رسول اللہ ﷺ سے استفسار کیا کہ پہلے نبی کون تھے؟“
فرمایا: ”آدم علیہ السلام۔“

میں نے گزارش کی ”کیا وہ نبی تھے؟“

فرمایا: ”ہاں! وہ ایسے نبی تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرتا تھا۔“

عرض کی: ”اچھا تو رسول کتنے تھے؟“

فرمایا: ”تین سو پندرہ (۳۱۵) کی ایک بڑی تعداد۔“

جعفر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ اور زیاد رضی اللہ عنہ (مصبغ رضی اللہ عنہ کے آزاد غلام) کہتے ہیں: ”رسول اللہ ﷺ سے آدم علیہ السلام کے

متعلق سوال کیا گیا کہ آیا وہ نبی تھے؟“ فرمایا: ”کیوں نہیں! وہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرتا تھا۔“

محمد بن السائب الکھمی کہتے ہیں: ”پہلے پہل جو نبی (پیغمبر) مبعوث ہوئے وہ ادریس علیہ السلام تھے۔ خنوخ بن یارؤ بن

مہلاک بن قینان بن انوش بن شیث بن آدم علیہ السلام وہی ہیں۔“

✽ نوح علیہ السلام بن لمک بن متوخ بن خنوخ علیہ السلام، کہ ادریس علیہ السلام وہی تھے۔

✽ ابراہیم علیہ السلام بن تارح بن ناحور بن ساروغ بن ارغوا بن فالخ بن عابر بن شالخ بن ارخشہ بن سام بن نوح علیہ السلام۔

✽ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام فرزند ان ابراہیم علیہ السلام۔

✽ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔

✽ یوسف بن یعقوب بن اسحاق علیہ السلام۔

✽ لوط علیہ السلام بن ہاران بن تارح بن ناحور بن ساروغ، کہ خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام کے چھتے تھے۔

۱۱۱. ہود علیہ السلام بن عبد اللہ بن الحلو و بن عاد بن عوض بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔
۱۱۲. صالح علیہ السلام بن آصف بن کاشع بن اڑوم بن ثمود بن جاث بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔
۱۱۳. شعیب علیہ السلام بن یوب بن عیفا بن مدین بن ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام۔
۱۱۴. موسیٰ و ہارون علیہما السلام فرزندان عمران بن قاہت بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام۔
۱۱۵. الیاس علیہ السلام بن قسین بن العارز بن ہارون علیہ السلام بن عمران بن قاہت بن لاوی بن یعقوب علیہ السلام۔
۱۱۶. یسع علیہ السلام بن عزى بن نشوخ بن افرایم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق علیہم السلام۔
۱۱۷. یونس علیہ السلام بن متی کہ فرزندان یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام کے سلسلہ نسب میں تھے۔
۱۱۸. ایوب علیہ السلام بن زارح بن اموص بن لیفون بن العیص بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام۔
۱۱۹. داؤد علیہ السلام بن ایشا بن عوید بن باعر بن سلمون بن نحشون عمیناذب بن ارم بن حضرون بن فارض بن یہوذ ابن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام۔
۱۲۰. سلیمان بن داؤد علیہ السلام۔
۱۲۱. زکریا بن بشوی کہ یہوذ ابن یعقوب کی نسل میں تھے۔
۱۲۲. یحییٰ بن زکریا علیہ السلام۔
۱۲۳. عیسیٰ بن مریم علیہا السلام بنت عمران بن ماثان کہ یہوذ ابن یعقوب کی اولاد میں تھے۔
۱۲۴. محمد رسول اللہ ﷺ بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔

سلسلہ نسب سید البشر سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ تا ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام

ہشام بن محمد بن السائب بن بشیر الکلمی کہتے ہیں: میں ہوز لڑکا ہی تھا کہ میرے والد نے رسول اللہ ﷺ کے سلسلہ نسب کی یوں تعلیم دی۔

محمد الطیب المبارک (ﷺ) ابن عبد اللہ بن عبد المطلب جن کا نام غیبیہ الحمد تھا۔ ابن ہاشم جن کا نام عمرو تھا۔ ابن عبد مناف جن کا نام مغیرہ تھا، ابن قصی جن کا نام زید تھا۔ ابن کلاب بن مرہ بن کعب بن غالب بن فہر جامعہ قرشیت فہر ہی تک پہنچتا ہے جو فہر سے مافوق گزرے ہیں۔ انہیں قرشی یا قریشی نہیں کہتے۔ کنانی کہتے ہی: فہر کے والد مالک بن النضر تھے۔ نضر کا نام قیس تھا۔ ابن کنانہ بن حزمیہ بن مدرکہ جن کا نام عمرو تھا، ابن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔

کریمہ رضی اللہ عنہا بنت مقداد رضی اللہ عنہ بن الاسود البرانی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا معد کے والد عدنان تھے۔ ابن اؤد بن یری بن اعراق الثری۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب نسب کا تذکرہ فرماتے تو اپنے سلسلہ نسب کو معد بن عدنان بن

اُود سے آگے نہ بڑھاتے بلکہ یہاں تک پہنچ کر رُک جاتے اور ارشاد فرماتے 'سلسلہ نسب ملانے والے جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے:

﴿وَقَرْنَا مِنْ ذَالِكَ كَثِيرًا﴾

”اس سچ میں بہت سی تسلیں گزریں۔“

ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اگر اس کو (یعنی عدنان بن اُود سے آگے کے سلسلہ نسب کو) جاننا چاہتے تو جان لئے ہوتے۔

عمر و بن میمون سے روایت ہے کہ عبد اللہ آیت و عاداً و ثموداً پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ جو لوگ ان کے (یعنی عاد و ثمود) کے بعد گزرے انہیں بجز خدا کے اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ سلسلہ نسب ملانے والے (نسب) جھوٹے ہیں۔

ہشام بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ معید و اسماعیل علی نبینا وعلیہ السلام کے درمیان تیس (۳۰) سے کچھ اوپر پشتیں گزری ہیں۔ وہ یعنی محمد بن السائب ان پشتوں کے نام نہیں لیتے تھے۔ اور نہ ان کے سلسلے ملاتے تھے۔ عجب نہیں یہ اس لئے جھوٹ دیا ہو کہ ابو صالح کی حدیث بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما ان کے گوش گزار ہوئی ہو کہ رسول اللہ ﷺ جب سلسلہ نسب بیان کرنے میں معد بن عدنان تک پہنچتے تھے تو رُک جاتے تھے۔

ہشام کہتے ہیں ایک شخص نے میرے والد سے مجھے یہ روایت سنائی مگر خود میں نے ان سے یہ روایت نہیں سنی تھی۔ وہ روایت یہ ہے کہ میرے والد معد بن عدنان کا سلسلہ نسب یوں بیان کرتے تھے: معد بن عدنان بن اُود بن ہمیسع بن سلامان بن عوص بن یوز بن قموال بن اُبی بن العوام بن ناشد بن حزن بن بلداس بن تلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیسیٰ بن عبقر بن عبید بن الوعا بن حمدان بن سبزن بن یثربی بن لخرن بن لیکن بن ارعوی بن عینی بن ویشان بن عیصر بن اقاد بن ایہام بن مقصی بن ناحث بن زارج بن شعی بن مزی بن عرام بن قیدرن بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام۔

ہشام بن محمد کہتے ہیں تدمر کے ایک شخص نے جس کی کنیت ابو یعقوب تھی اور جو بنی اسرائیل کے مسلمین میں سے تھا۔ اسرائیلیوں (یہودیوں) کی کتاب میں بھی پڑھی تھیں ان کے علوم سے بھی باخبر تھا۔ اس نے بیان کیا کہ یہ نام عبرانی زبان سے ترجمہ ہوئے ہیں بورخ ابن ناریہ نے ارمیا کے کاتب تھے۔ معد بن عدنان کا سلسلہ نسب اپنے ہاں ثبت کیا ہے۔ اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اخبار اہل کتاب و علمائے یہود میں یہ مشہور ہے اور ان کی کتابوں میں مذکور ہے جو نام انہوں نے لکھے ہیں۔ انہیں ناموں کے قریب قریب ہیں جو باہمی اختلاف ہے وہ زبان کی حیثیت سے ہے کیونکہ ہشام بن محمد کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ معد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے عہد میں تھے۔ ان کا سلسلہ نسب یوں ہے:

معد بن عدنان بن اود بن زید بن یقذر بن یقدم بن امین بن منخر بن صابوح ابن ہمیسع بن شجب بن یعرب بن العوام بن سلیمان بن ححل بن قیدرن بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام۔

ہشام کہتے ہیں کہ بعض علماء نے سلسلہ انساب میں عوام کو ہمیسع پر مقدم رکھا ہے (یعنی پہلے ہمیسع کا زمانہ گزرا ہے پھر عوام

ہوئے ہیں) ان راویوں نے عوام کو مسمیٰ کی اولاد میں قرار دیا ہے۔

ہارون بن ابویہ شامی کہتے ہیں محمد بن اسحاق اپنی بعض روایتوں میں معد بن عدنان کا سلسلہ نسب دوسرے طریق پر بیان کرتے تھے وہ یوں کہتے تھے:

معد بن عدنان بن مقوم بن ناحور بن تیرح بن یعرب بن یثجب بن نابت بن اسماعیل علیہ السلام۔

انہیں کی ایک دوسری روایت ہے: معد بن عدنان بن اود بن اتحجب بن ایوب بن قیذر بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام۔

محمد بن اسحاق کہتے ہیں قحطی بن کلاب نے بعض اشعار میں اپنے آپ کو قیذر کے سلسلہ نسب میں ظاہر کیا ہے۔

محمد بن سعد (مصنف کتاب): مجھے ہشام محمد بن السائب الکحفی نے اپنے والد کی روایت سے قحطی کا وہ شعر یوں پڑھ کے

سنایا تھا:

فلست لحاضن ان لوتائل بہا اولاد قیذر والنبت

”یعنی قیذر روغیت کی اولاد نے از روئے شرف قدیم و سلسلہ کہن اگر تربیت دوا یگی سے نسبت نہیں رکھتی ہے تو پھر میں

اس سے بری ہوں“۔

ابو عبد اللہ محمد بن سعد معد کے قیذر بن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہونے کی نسبت مجھے علمائے انساب میں کوئی

اختلاف نظر نہ آیا یہ جو نسبتی اختلاف ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ راویوں کو ان کا سلسلہ نسب یاد نہ رہا تھا۔ بلکہ یہ اہل کتاب سے

ماخوذ ہے کہ انہیں سے عربی میں یہ نام نقل ہوئے اور اسی بنا پر اختلاف بھی پیدا ہوا۔ یہ طریق اگر درست و صحیح ہوتا اور اس سلسلہ

میں کوئی غلطی نہ ہوتی تو سب سے بڑھ کر رسول اللہ ﷺ کو اس کا علم ہونا چاہئے تھا۔ ہمارے نزدیک تو امر حق یہ ہے کہ معد بن

عدنان تک ہم اس سلسلے کا تسلسل متعین مانتے ہیں۔ پھر اس کے اوپر عدنان سے لے کے اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام تک خاموش

رہتے ہیں۔

عروہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے کسی کو ایسا نہ پایا جو معد بن عدنان سے اوپر کے سلسلہ نسب سے آگاہ ہوتا۔

ابو الاسود کہتے ہیں میں نے ابو بکر بن سلیمان بن ابی حشمہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ معد بن عدنان سے اوپر کے سلسلہ نسب

کے متعلق ہم کو نہ تو کسی عالم کے علم میں کوئی ثابت و مستحق بات ملی اور نہ کسی شاعر کے شعر میں۔

عبد اللہ بن خالد سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مضر کو برا نہ کہو (گالیاں نہ دو) وہ تو اسلام لا چکے تھے

(مسلمان ہو گئے تھے)۔

محمد بن السائب کہتے ہیں: بخت نصر نے (بنو کلد نصر) جب یمن کے قلعوں پر حملہ کیا ہے تو معد بھی اس مہم میں بخت نصر ہی

کے ساتھ تھے۔

محمد بن السائب کہتے ہیں: معد بن عدنان کی اولاد حسب ذیل ہے۔

① نزار، کہ نبوت و ثروت و خلافت انہیں کی اولاد میں ہے۔ ② قصص ③ قاصہ ④ اسام ⑤ العرف ⑥ عوف

④ شک ⑧ حیدان ⑨ حیدہ ⑩ عبید الرناح ⑪ جنید ⑫ جنادہ ⑬ اثم ⑭ ایاد۔

ان سب کی ماں مغانہ تھیں، بنت جوشم بن جلبہ بن عمرو بن وڈہ بن جرہم اور قضاہ ان کی ماں کے بھائی (ماموں) تھے۔ مگر بعض بنی قضاہ اور بعض علمائے انساب کہتے ہیں کہ قضاہ معد کے بیٹے تھے اور معد کی کنیت انہیں کے نام پر تھی (یعنی ابو عمرو)۔ واللہ اعلم۔ قضاہ کا نام عمرو تھا۔ وہ قضاہ اس لئے کہے گئے کہ اپنی قوم سے منقطع و منقطع ہو کے دوسرے لوگوں سے جا ملے۔ انقضاء کی جگہ انقضاء کہنا یہ ان لوگوں کی زبان ہے۔

نزار کے علاوہ معد بن عدنان کی اور جس قدر اولاد تھی سب کی سب دوسرے دوسرے قبائل میں پھیل گئی۔ جن میں بعض معد ہی سے منسوب رہے۔ نزار بن معد کے صلب سے مضروایا و پیدا ہوئے جن کی ماں سودہ بنت عکث تھیں۔ نزار کی کنیت ایاد ہی کے نام پر تھی۔ (یعنی ابویاد) تیسرے فرزند ربیعہ تھے کہ ربیعہ الفرس وہی ہیں اور انہیں کو القشعم کہتے ہیں، چوتھے انمار تھے۔ ربیعہ و انمار کی ماں خدالہ بنت وعلان بن جوشم بن جلبہ بن عمرو بن جرہم تھیں۔ مضر کو مضر الحمراء ایاد الشمطاء و ایاد البختار ربیعہ کو ربیعہ الفرس اور انمار الحمراء کہتے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بجیلہ و غم کے والد انمار تھے۔ واللہ اعلم۔

ہشام بن محمد اپنے والد محمد بن السائب وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آذر تھا۔ قرآن میں تو اسی طرح ہے مگر تواریخ میں ابراہیم علیہ السلام کو تارح کا کہا ہے اور بعض یوں کہتے ہیں۔

آذر بن تارح بن ناحور بن ساروغ کہ انہیں شروع بھی کہتے ہیں، ابن ارغوا کہ انہیں ارعوا بھی کہتے ہیں، ابن فالخ کہ انہیں فالخ بھی کہتے ہیں۔ ابن عابر بن شارح کہ ان کو شارح بھی کہتے ہیں۔ ابن ارغند بن سام بن نوح پیغمبر علیہ السلام، ابن ملک بن متوہل کہ انہیں متوہل بھی کہتے ہیں۔ ابن خفوخ کہ وہی ادریس علیہ السلام پیغمبر تھے۔ ابن یزید کہ الیاز بھی وہی ہیں اور انہیں کو الیازر بھی کہتے ہیں۔ ابن عہلا لیل بن قینان بن انوس بن شیت علیہ السلام کہ انہیں کوشت بھی کہتے ہیں اور وہی ہبہ اللہ بھی ہیں۔ ابن آدم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کثیراً۔



امہات سیدنا نبی کریم ﷺ

والدہ کی طرف سے حضور ﷺ کا سلسلہ نسب

محمد بن السائب کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ کی والدہ آمنہ تھیں، بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔
آمنہ کی والدہ برہ تھیں، بنت عبد العزیٰ بن عثمان بن عبد الدار بن قصی بن کلاب بن مرہ کی والدہ اُم حبیب تھیں، بنت اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب۔

اُم حبیب کی والدہ برہ تھیں، بنت عوف بن عبید بن عون بن عدی بن کعب بن لؤی۔
برہ کی والدہ قلابہ تھیں، بنت حارث بن مالک بن حباشہ بن غنم بن لحيان بن عادیہ بن حصصہ بن کعب بن ہند بن طابخہ بن لحيان بن ہذیل بن مدرکہ بن الیاس بن مضر۔

قلا بہ کی والدہ امیمہ تھیں، بنت مالک بن غنم بن لحيان بن عادیہ بن حصصہ۔
امیمہ کی والدہ دُوب تھیں، بنت ثعلبہ بن الحارث بن تميم بن ہذیل بن مدرکہ۔
دُوب کی والدہ عاتکہ تھیں، بنت غاضرہ بن خطیط بن خثعم بن ثقیف کہ انہیں کا نام قسی بھی تھا، بن مُتبہ بن بکر بن ہوازن بن منصور بن عکرمہ بن خَصَفہ بن قیس بن عیلان، کہ ان کا نام الیاس تھا بن مضر۔
عاتکہ کی والدہ لیلیٰ تھیں، بنت عوف بن قسی، کہ انہیں کو ثقیف بھی کہتے ہیں۔

وہب بن عبد مناف بن زہرہ کہ رسول اللہ ﷺ کے دادا تھے، ان کی والدہ قیلہ تھیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہند بنت ابی قیلہ ان کی والدہ تھیں۔ ابوقیلہ کا نام وجز تھا، بن غالب بن الحارث بن عمرو بن ہلکان بن افضی بن حارثہ کہ قبیلہ خزاعہ کے تھے۔
قیلہ یا ہند بنت ابی قیلہ کی والدہ سلمیٰ تھیں، بنت لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن النضر بن کنانہ۔
سلمیٰ کی والدہ مادیہ تھیں، بنت کعب بن القین، جو قبیلہ قضاہ کے تھے۔

وجز (ابوقیلہ) ابن غالب کی والدہ سلافہ تھیں، بنت وہب بن البکیر بن مجددہ بن عمرو کہ ازروئے خاندان بنی عمرو بن عوف اور اہم وئے قبیلہ اوس کے سلسلے میں تھے۔

سلافہ کی والدہ قیس کی بیٹی تھیں اور قیس ربیعہ کے بیٹے اور بنی مازن میں تھے۔ یعنی مازن بن لؤی بن مکنان اقصیٰ جو اسلم بن اقصیٰ کے بھائی تھے۔

ان کی والدہ نخعہ تھیں۔ بنت عبید بن الحارث کہ حارث بن الخزرج کے خاندان میں تھے۔

عبد مناف بن زہرہ کی والدہ حمل تھیں، بنت مالک بن قُضَیہ بن سعد بن لیج بن عمرو کہ قبیلہ خزاعہ کے تھے۔
زہرہ بن کلاب کی والدہ اُم قصی تھیں جن کا نام فاطمہ تھا۔ بنت سعد بن یس، کہ انہیں کا نام خیر بھی ہے، بن جہالہ بن
عوف بن عامر الجادر کہ قبیلہ ازد کے تھے۔

محمد بن السائب کہتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کے سلسلہ مادری میں پانسو (۵۰۰) ماؤں کے نام لکھے مگر ان میں کسی
ایک کے متعلق میں نے زنا (یا ناجائز تعلق) اور کوئی ایسی بات نہ پائی جس کا علاقہ رسوم جاہلیت سے تھا۔

جعفر بن محمد بن محمد اپنے والد محمد بن علی رضی اللہ عنہما بن الحسین رضی اللہ عنہ (بن علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب) سے روایت کرتے ہیں کہ
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: واقعہ یہ ہے کہ میں فقط نکاح سے نکلا ہوں سفاح^۱ سے نہیں نکلا ہوں۔ آدم سے لے کر اب تک (یہی
عفاف و طہارت نسل میں چلی آئی) اہل جاہلیت کے سفاح کا مجھ پر کچھ بھی شائبہ نہ پڑا۔ میں نکلا ہوں تو صرف طہارت سے
نکلا ہوں۔

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک نکاح سے نکلا
ہوں، سفاح سے نہیں نکلا ہوں۔

(اُم المؤمنین) عائشہ رضی اللہ عنہا (صدیقہ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں نکاح سے نکلا ہوں، سفاح سے
نہیں نکلا ہوں (یعنی خود آنحضرت علیہ السلام ہی نہیں بلکہ تمام آبائی حضرت رسالت تا بہ آدم علیہ السلام کی تولید نکاح شرعی سے ہوئی
جس پر ناجائز تعلقات کا کہ عہد جاہلیت میں بہ اصناف متنوعہ معمول و مروج تھے، مطلق پر تو تک نہیں پڑا۔



① سفاح: زنا، ناجائز تعلق۔

فواطم و عواتک

رسول اللہ ﷺ کے سلسلہ مادری کی پاکیزہ فطرت پیمیاں

عاتکہ کلام عرب میں ایسی بی بی کو کہتے ہیں جو پاک و طاہر ہو (از روئے لغت عاتکہ، شریف و کریم و خالص اللسان و صافی مزاج کو کہتے ہیں، خصوصاً وہ پیمیاں جو اس قدر خوشبو میں بسی ہوں کہ اس کی کثرت سے جسم سرخ ہو رہا ہو۔ فاطمہ وہ لڑکی جس کا دودھ چھڑایا گیا ہو یا اپنی ماں سے جدا کر دی گئی ہو۔ عرب میں ان خواتین کی شرافت ضرب المثل تھی۔ اور اسی بنا پر غزوہ حنین میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا: ”میں فواطم و عواتک کی اولاد ہوں“۔

محمد بن السائب الکلبی کہتے ہیں: عبدالعزیٰ بن عثمان بن عبدالدار بن قصی کی ماں جن کے سلسلہ میں رسول اللہ ﷺ پیدا ہوئے۔ ہضیبہ تھیں۔ بنت عمرو بن عتورہ بن عائش بن ظرب بن الحارث بن فہر۔

ہضیبہ کی ماں سلمیٰ تھیں، بنت ہلال بن وہیب بن ضبہ بن الحارث بن فہر۔
سلمیٰ کی ماں سلمیٰ تھیں، بنت محارب بن فہر۔

سلمیٰ کی ماں (۱) عاتکہ تھیں، بنت مخلد بن النضر بن کنانہ۔

عمرو بن عتورہ بن عائش بن ظرب بن الحارث بن فہر کی ماں (۲) عاتکہ تھیں، بنت عمرو بن سعد بن عوف بن قسی۔

عاتکہ کی ماں (الف) فاطمہ تھیں، بنت ہلال بن عمرو بن شمالہ کہ قبیلہ ازد کے تھے۔

اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی کی ماں، جن کے سلسلے میں رسول اللہ ﷺ پیدا ہوئے، حطیا تھیں، ان کا نام ربط تھا، بنت کعب بن

سعد بن تیم بن مرہ۔

اسد بن سعد بن تیم کی ماں نعم تھیں، بنت ثعلبہ بن وائلہ بن عمرو بن شیبان بن محارب بن فہر نعم کی ماں ناہیہ تھیں، بنت

الحارث بن منعقد بن عمرو بن معیص بن عامر بن لوی۔

ناہیہ کی ماں سلمیٰ تھیں، بنت ربیعہ بن وہیب بن ضباب بن جمیر بن عبد بن معیص بن عامر بن لوی۔

سلمیٰ کی ماں خدیجہ تھیں، بنت سعد بن ہم۔

خدیجہ کی ماں (۳) عاتکہ تھیں، بن عبدہ بن ذکوان بن غاضرہ بن معصہ۔

ضباب بن جمیر بن عبد بن معیض کی ماں (ب) فاطمہ تھیں۔ بنت عوف بن الحارث بن عبد مناتہ بن کنانہ۔
عبید بن عتوج بن عدی بن کعب کی ماں جن کے سلسلے میں رسول اللہ ﷺ پیدا ہوئے فقیہ تھیں، بنت عمرو بن سلول بن کعب بن عمرو کہ قبیلہ خزاعہ کے تھے۔

فقیہ کی ماں (۴) عاتکہ تھیں بنت مدح بن مرہ بن عبد مناتہ بن کنانہ۔

یہ تمام بیبیاں رسول اللہ ﷺ کی والدہ کے سلسلہ میں ہیں۔

عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم (یعنی رسول اللہ ﷺ کے والد) کی ماں (ج) فاطمہ تھیں۔ بنت عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم۔ سلسلہ فواطم میں رسول اللہ ﷺ سے قریب ترین فاطمہ یہی ہوتی ہیں۔

فاطمہ کی ماں صحرا تھیں بنت عبد بن عمران بن مخزوم۔

صحرا کی ماں تخمر تھیں بنت عبد بن قصی۔

تخمر کی ماں سلمیٰ تھیں بنت عامر بن عمیرہ بن ودیقہ بن الحارث بن فہر۔

سلمیٰ کی ماں (۵) عاتکہ تھیں بنت عبد اللہ وائلہ بن ظرب بن عیاذہ بن عمرو بن بکوبن بن بکوبن بن الحارث کہ عدوان بن عمرو قیس وہی ہیں اور عبد اللہ بن حرب بن وائلہ بھی انہیں کو کہا جاتا ہے۔

عبد اللہ بن وائلہ بن ظرب کی ماں (۵) فاطمہ تھیں بنت عامر بن ظرب بن عیاذہ۔

عمران بن مخزوم کی ماں سعدی تھیں بنت وہب بن تیم بن غالب۔

سعدی کی ماں (۶) عاتکہ تھیں بنت ہلال بن وہب بن ضبہ۔

ہاشم بن عبد مناف بن قصی کی ماں (۷) عاتکہ تھیں بنت مرہ بن ہلال بن فالح بن ذکوان بن ثعلبہ بن پہشہ بن سلیم بن منصور بن مکرّمہ بن کھفہ بن قیس بن عیلان، سلسلہ عواتک میں رسول اللہ ﷺ سے قریب ترین عاتکہ یہی ہوتی ہیں۔

ہلال بن فالح بن ذکوان کی ماں (۸) فاطمہ تھیں بنت عبید بن رواح بن کلاب بن ربیعہ۔

کلاب بن ربیعہ کی ماں مجدہ تھیں بنت تیم الادرم بن غالب۔

مجدہ کی ماں (۹) فاطمہ تھیں بنت معاویہ بن بکر بن ہوازن۔

مرہ بن ہلال بن فالح کی ماں (۸) عاتکہ تھیں بنت عدی بن بہم کہ اسلم کے سلسلہ میں تھے جو خزاعہ کے بھائی ہوتے ہیں۔

وہب بن ضبہ بن الحارث بن فہر کی ماں (۹) عاتکہ تھیں بنت غالب بن فہر۔

عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم کی ماں (ز) فاطمہ تھیں بنت ربیعہ بن عبد العزیٰ بن زرام بن بجوش بن معاویہ بن بکر

بن ہوازن۔

معاویہ بن بکر بن ہوازن کی ماں (۱۰) عاتکہ تھیں بنت سعد بن ہذیل بن مدرکہ۔

قصی بن کلاب کی ماں (ح) فاطمہ تھیں بنت سعد بن سل کی لطن جدہ کے تھے جو قبیلہ ازد سے تھے۔

عبد مناف بن قصی کی ماں ٹحی تھیں، بنت حلیل بن حبشیہ الخزاعی۔

ٹحی کی ماں (ط) فاطمہ تھیں، بنت نصر بن عوف بن عمرو بن الحکم کہ قبیلہ خزاعہ کے تھے۔

کعب بن لوی کی ماں مادیہ تھیں، بنت کعب بن القین کہ وہی نعمان تھے۔ بن جسر بن شعیب اللہ بن اسد بن ویرہ بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعہ۔ مادیہ کی ماں (۱۱) عاتکہ تھیں، بنت کاهل بن عذرہ۔ لوی بن غالب کی ماں (۱۲) عاتکہ تھیں، بنت یحخد بن نصر بن کنانہ۔

غالب بن فہر بن مالک کی ماں لیلیٰ تھیں۔ بنت سعد بن ہذیل بن مدرکہ بن الیاس بن مضر۔

لیلیٰ کی ماں سلمیٰ تھیں، بنت طابخہ بن الیاس بن مضر۔

سلمیٰ کی ماں (۱۳) عاتکہ تھیں، بنت الاسد بن الغوث۔

ہشام بن محمد بن السائب نے اپنے والد کے علاوہ دوسرے راوی کی اس روایت سے ہمیں خبر دی کہ عاتکہ بنت عامر بن

الظرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ مادری میں تھیں جن کا تسلسل یوں ہے:

برہ بنت عوف بن عبید بن عوج بن عدی بن کعب کی ماں امیمہ تھیں، بنت مالک بن غنم بن سوید بن حبشی بن عاد یہ بن

صعصعہ بن کعب بن طابخہ بن لحيان۔ امیمہ کی ماں قلابہ تھیں، بنت الحارث بن صعصعہ بن کعب بن طابخہ بن لحيان۔ قلابہ کی ماں

دُب تھیں، بنت الحارث بن تمیم بن سعد بن ہذیل دُب کی ماں لبنی تھیں، بنت الحارث بن نمیر بن اسید بن عمرو بن تمیم لبنی کی ماں فاطمہ

تھیں۔ بنت عبد اللہ بن حرب بن وائلہ۔ فاطمہ کی ماں زینب تھیں۔ بنت مالک بن ناضرہ بن غاضرہ بن حطیط بن غنم بن ثقیف

زینب کی ماں عاتکہ تھیں، بنت عامر بن ظرب۔ عاتکہ کی ماں شقیقہ تھیں، بنت محن بن مالک کہ قبیلہ بابلہ کے تھے شقیقہ کی ماں سودہ تھیں،

بنت اسید بن عمرو بن تمیم۔

یہ ہیں عواتک جو تعداد میں (۱۳) تھیں اور فواطم جو دس (۱۰) تھیں۔



امہات آباء النبی ﷺ

آنحضرت ﷺ کے آباؤ اجداد کا سلسلہ ماوری

محمد بن السائب الکلبی کہتے ہیں: عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم کی ماں فاطمہ تھیں، بنت عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم۔

فاطمہ کی ماں صحرہ تھیں، بنت عبد بن عمران بن مخزوم۔

صحرہ کی ماں تخمر تھیں، بنت عبد بن قصی۔

عبد المطلب بن ہاشم کی ماں سلمیٰ تھیں، بنت عمرو بن زید بن لہید بن خدّاش بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار۔ نجار کا نام تیم اللہ تھا، بن ثعلبہ بن عمرو بن الخزرج۔

سلمیٰ کی ماں عمیرہ تھیں۔ بنت صخر بن حبیب بن الحارث بن ثعلبہ بن مازن بن النجار۔

عمیرہ کی ماں سلمیٰ تھیں۔ بنت عبد الاشہل بن حارثہ بن دینار بن النجار۔

سلمیٰ کی ماں اعیلہ تھیں، بنت زعمور بن حزام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار۔

ہاشم بن عبد مناف کی ماں عاتکہ تھیں، بنت مرہ بن ہلال بن قالح بن ذکوان بن ثعلبہ بن یثرب بن سلیم بن منصور۔

عاتکہ کی ماں ماویہ تھیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حقیقہً ان کا نام تھا، بنت حوزہ بن عمرو بن صعصعہ بن معاویہ بن بکر بن ہوازن۔

ماویہ یا بقول بعض حقیقہ کی ماں رقاش تھیں، بنت الاحم بن منبہ بن اسد بن عبد مناة بن عائذ اللہ بن سعد العشیرہ، کہ قبیلہ

ندج کے تھے۔

رقاش کی ماں کبشہ تھیں، بنت الرافقی بن مالک بن الحماس بن ربیعہ بن کعب بن الحارث بن کعب۔

عبد مناف بن قصی کی ماں حنی تھیں، بنت حُلَیل بن جشیہ بن سلول بن کعب بن عمرو بن ربیعہ بن حارثہ بن عمرو بن عامر کہ

قبیلہ خزاعہ کے تھے۔

حنی کی ماں ہند تھیں، بنت عامر بن النضر بن عمرو بن عامر کہ قبیلہ خزاعہ کے تھے۔

ہند کی ماں لیلیٰ تھیں، بنت مازن بن کعب بن عمرو بن عامر کہ قبیلہ خزاعہ کے تھے۔

قصی بن کلاب کی ماں فاطمہ تھیں، بنت سعد بن یسٰل کہ انہیں کو خیر کہتے ہیں بن حمالہ بن عوف بن عامر الجادر، جو قبیلہ آذر

کے تھے۔ خانہ کعبہ کی جداری یعنی دیوار پہلے پہل انہیں نے تعمیر کی اسی لئے ان کا لقب حادری پڑ گیا۔

فاطمہ کی ماں ظریفہ تھیں، بنت قیس بن ذی الراسین، جن کا نام اُمیہ تھا، بن ہشم بن کنانہ بن عمرو بن العقیل بن فہم بن عمرو بن قیس بن عیلان۔

ظریفہ کی ماں صخرہ تھیں، بنت عامر بن کعب بن افرک بن بدیل بن قیس بن عبقرہ بن انمار۔

کلاب بن مرہ کی ماں ہندہ تھیں، بنت سریر بن ثعلبہ بن الحارث بن مالک بن کنانہ بن خزیمہ۔ ہندہ کی ماں اُمامہ تھیں، بنت عبدمنافہ بن کنانہ۔

امامہ کی ماں ہند تھیں، بنت دودان بن اسد بن خزیمہ۔

مرہ بن کعب کی ماں فحشہ تھیں، بنت ثیبان بن محارب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ۔

فحشہ کی ماں وحشہ تھیں، بنت وائل بن قاسط بن ہنب بن اقصی بن وئی بن جدیلہ۔

وحشہ کی ماں ماویہ تھیں، بنت ضبیعہ بن ربیعہ بن نزار۔

کعب بن لوی کی ماں ماویہ تھیں، بن کعب بن العقیل، جن کا نام نعمان تھا۔ بن جسر بن شعیب اللہ بن اسد بن ویرہ بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعہ۔

ماویہ کی ماں عاتکہ تھیں، بنت کابل بن عذرہ۔

لوی بن غالب کی ماں عاتکہ تھیں، بنت یحشد بن انضر بن کنانہ، اسی قول (روایت) پر سب کا اجماع ہے۔ مگر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لوی بن غالب کی ماں سلمیٰ تھیں، بنت کعب بن عمرو بن ربیعہ بن حارثہ بن عمرو بن عامر کہ قبیلہ خزیمہ کے تھے۔

عاتکہ کی ماں انیسہ تھیں، بنت شعبان بن ثعلبہ بن کے بن صعب بن علی بن بکر بن وائل۔

انیسہ کی ماں شامضر تھیں، بنت الحارث بن لعلیہ بن دودان بن اسد بن خزیمہ۔

شامضر کی ماں رہم تھیں، بنت کابل بن اسد بن خزیمہ۔

غالب کے فہر کی ماں لیلیٰ تھیں، بنت الحارث بن تمیم بن سعد بن ہذیل بن مدرکہ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غالب بن فہر کی ماں لیلیٰ بنت الحارث تھیں، لیلیٰ بنت سعد تھیں، بن ہذیل بن مدرکہ بن الیاس بن مضر۔

لیلیٰ کی ماں عاتکہ تھیں، بنت الاسعد بن القوث۔

عاتکہ کی ماں زہنب تھیں۔ بنت ربیعہ بن وائل بن قاسط بن ہنب۔

فہر بن مالک کی ماں جندلہ تھیں، بنت عامر بن الحارث بن مضاض بن زید بن مالک کہ قبیلہ جرہم کے تھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فہر بن مالک کی ماں جندلہ بنت عامر نہ تھیں بلکہ جندلہ بنت الحارث تھیں بن جندلہ بن مضاض بن الحارث، لیکن یہ حارث حارث اکبر نہ تھے بلکہ عوانہ کے بیٹے تھے۔ یعنی عوانہ بن عاق بن یقطن کہ قبیلہ جرہم کے تھے۔

جندلہ کی ماں ہند تھیں، بنت الظہیم بن الحارث کہ قبیلہ جرہم کے تھے۔

مالک بن النضر کی ماں عکرمہ تھیں۔ بنت عدوان کہ انہیں کو حارث کہتے ہیں عمرو بن قیس بن عیلان بن مضر۔

نضر بن کنانہ کی ماں تمرہ تھیں بنت مرہ بن اُذ بن طابخہ برہ کے بھائی تیم بن مرہ تھے۔

کنانہ بن خویمرہ کی ماں عوانہ تھیں کہ انہیں کا نام ہند بھی ہے بنت سعد بن قیس بن عیلان۔

عوانہ کی ماں وعدہ تھیں بنت الیاس بن مضر۔

خزیمہ بن مدرکہ کی ماں سلمیٰ تھیں بنت اسلم بن الحاف بن قضاع۔

مدرکہ بن الیاس کی ماں لیلیٰ تھیں حریف انہیں کا نام ہے بنت علوان بن عمران بن الحاف بن قضاع۔

لیلیٰ کی ماں ضریرہ تھیں۔ بنت ربیعہ بن نزار مکے اور ہناخ کے درمیان مارِ ضریرہ کے نام سے جو تالاب مشہور ہے (بعد

مصنف) وہ انہیں کے نام پر موسوم ہے۔

الیاس بن مضر کی ماں زباب (الزباب) تھیں بنت عیدہ بن مُصَدِّ بن عدنان۔

مضر بن نزار کی ماں سودہ تھیں بنت عکث بن الزبث بن عدنان بن اُؤداس خاندان کے جو افراد اپنے آپ کو قبائل یمن

سے منسوب کرتے ہیں وہ اپنا نسب یوں بیان کرتے ہیں عکث بن عدنان بن عبداللہ بن نضر بن زہران، کہ قبیلہ اسد کے تھے۔

نزار بن مُعَدِّ کی ماں مُعانہ تھیں بنت جوشم بن حلیمہ بن عمرو بن مرہ بن جرہم۔

مُعانہ کی ماں سلمیٰ تھیں بنت الحارث بن مالک بن غنم، کہ قبیلہ لُحْم کے تھے۔

مُعد بن عدنان کی ماں ہندہ تھیں بنت لُحْم بن جَلْحَب بن جدیس بن جاثر بن اَرم۔

قصی بن کلاب

محمد بن عمرو الاسلمی نے بحوالہ متعدد علمائے اہل مدینہ اور ہشام بن محمد نے بحوالہ محمد بن السائب الکلی ہم کو یوں خبر دی

کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک نے فاطمہ کو اپنے حوالہ ازواج میں لے لیا فاطمہ سعد کی بیٹی تھیں ابن

سبل سبل کا اصل نام خیر تھا بن حمالہ بن عوف بن عامر عامری کو جاوہر کہتے ہیں کہ انہیں نے پہلے پہل جدار (دیوار) کعبہ کی تعمیر کی

بن عمرو بن جعصہ بن مُثَنَّر بن صعب بن دُہمان بن نضر بن الازد۔ مارب یعنی (یمن) سے جن دونوں قبائل ازداہر نکل کے آباد

ہوئے انہیں ایام میں جعشمہ بھی نکل آئے۔ اور بنی الدیل میں فروکش ہوئے۔ یعنی دیل بن بکر بن عبدمناتہ بن کنانہ ان سے پیمان

رفاقت (محالفہ) باندھ لیا، باہم رشتہ داریاں ہوئیں ان لوگوں نے جعشمہ کے ہاں ترویج کی اور جعشمہ کو اپنی لڑکی بیابہ دی۔

کلاب بن مرہ کے صلب سے فاطمہ بن سعد کے زہرہ بن کلاب پیدا ہوئے پھر کچھ زمانے بعد قصی کی ولادت ہوئی جن کا

نام زید رکھا گیا۔ کلاب بن مرہ کی وفات پر ربیعہ بن حرام بن ضمنہ بن عبد بن کبیر بن عذرہ بن سعد بن زید، کہ قضاع کے تھے۔

وہاں آئے اور فاطمہ بنت سعد کو اپنی قوم بنی عذرہ کے علاقے میں لے آئے۔ جو ملک شام کے سرغنا تھے اور تابہ دیار سرغ و مادون

سرغ انہیں کا علاقہ تھا۔ زہرہ بن کلاب تو بڑے تھے۔ اپنی قوم ہی میں رہ گئے۔ مگر قصی چھوٹے تھے۔ اور ہنوز ان کا دودھ چھڑایا گیا تھا۔ قاطمہ ان کو اپنے ساتھ لے گئیں اسی بنا پر نام بھی قصی^۱ مشہور ہوا کہ وہ انہیں لے کے اقصائے شام کو چلی گئی تھیں وہاں ربیعہ کے صلب سے بھی ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام رزاق پڑا۔

واپس مکہ مکرمہ میں لوٹ کر آنا

قصی اپنے آپ کو ربیعہ بن حرام سے منسوب کرتے تھے (یعنی ربیعہ کو اپنا والد کہتے تھے) قبیلہ قضاہ کے ایک شخص سے جس کا نام رقیع تھا ان کا منازلہ^۲ ہوا۔ ہشام بن الکھلی کہتے ہیں کہ یہ بنی عذرہ کا ایک فرد تھا۔ قصی اس پر غالب آئے، مفضل کو غصہ آیا، دونوں میں شر بڑھا، تا آنکہ ناگفتنی باتیں شروع ہوئیں، منازعت ہونے لگی، رقیع نے کہا، تو کچھ ہم میں سے تو ہے نہیں پھر اپنے شہر میں کیوں نہیں جاتا۔ اپنی قوم سے کیوں نہیں جاملتا؟ وہاں سے لوٹ کے قصی اپنی ماں کے پاس آئے اور پوچھا میرے والد کون ہیں؟

جواب ملا ربیعہ!

قصی نے کہا: ربیعہ اگر میرے والد ہوتے تو میں نکالنا دیتا۔

قصی کی والدہ بولیں: تو کیا کہہ دیا؟ واللہ حسن جوار کا بھی پاس نہ کیا۔ حفظ حق کے مراتب بھی مرعی نہ رکھے۔ میرے بیٹے خدا کی قسم! تو اپنی ذاتی حیثیت سے اپنے والد کی حیثیت سے اپنے خاندان کی حیثیت سے اس سے کہیں زیادہ شریف ہے اور تیرا گھر گھرانا اس سے بہت اشرف ہے۔ کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ القرشی تیرے باپ تھے، تیری قوم کے میں بیت الحرام کے پاس اور اس کے ارد گرد مقیم ہے۔ قصی نے کہا: یہ بات ہے تو خدا کی قسم میں یہاں کبھی نہ ٹھہروں گا۔

ماں بولی: اچھا تو ابھی ٹھہرنا آ نکد حج کا موسم آ جائے۔ اس وقت نکل کے حجاج عرب کے ساتھ ہو لینا۔ کیونکہ میں ڈرتی ہوں تجھے کوئی ضرر نہ پہنچائے۔

قصی ٹھہر گئے۔ جب وہ وقت آیا تو ماں نے قبیلہ قضاہ کے کچھ لوگوں کے ساتھ انہیں روانہ کر دیا۔ کچھ پہنچے تو زہرہ (ابن کلاب) ان دنوں زندہ تھے۔ اس وقت زہرہ اور قصی دونوں کے دونوں حج کے شعار میں تھے۔ قصی نے ان کے پاس آ کے کہا: میں تیرا بھائی ہوں۔

زہرہ کی بصارت جاتی رہی تھی، بوڑھے ہو چکے تھے۔ جواب دیا: اچھا میرے قریب آؤ۔ قریب پہنچے تو زہرہ نے ان کے

① قصی: دوری جو کچھ دور جا پڑا۔

② منازلہ: تیر اندازی سابقہ۔ مفضل جو اس میں مغلوب رہے۔

جسم پر ہاتھ پھیر کر کہا: خدا کی قسم! میں اس آواز کو جانتا ہوں۔ اس شبابت کو پہچانتا ہوں۔

جب حج سے فراغت ہو چکی تو بنی قضاعہ نے جو قصی کے ساتھ آئے تھے انہیں اپنے ہمراہ لے چلنے کی تدبیر کی کہ دیار قضاعہ میں واپس لے چلیں، مگر قصی نے کہ ایک طاقتور سخت مزاج، ثابت قدم پر جوش اور شباب کی اُمنگوں سے بھرے ہوئے تھے۔ انکار کر دیا اور مکے ہی میں رہ پڑے۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ حلیل بن حبشیہ بن سُلول بن کعب بن عمرو بن ربیعہ کی دختر خنی کے لئے پیام دیا۔ حلیل کہ لُحی الخزاعی انہیں سے مراد ہے اور وہی اس زمانے میں مکہ کی حکومت اور خانہ کعبہ کی حجابت (پردہ داری) کے متولی تھے قصی کے خاندان سے واقف ہو کر ان کی جانب مائل ہو گئے اور لڑکی بیاہ دی۔

تولیت بیت اللہ کا شرف

حلیل کی وفات پر ان کے بیٹے المحترش، جانشین ہوئے کہ ابوعبسان انہیں کی کنیت تھیں۔ ہر سال موسم حج میں اہل عرب ان کو کچھ محصول (مرسوم) دیا کرتے تھے۔ ایک سال اس میں کمی کر دی اور جو دیتے تھے اس میں سے کچھ نہ دیا۔ محترش کو غصہ آیا تو قصی نے ان کی دعوت کی اور خوب پلائی^۱۔ اسی حالت میں کچھ اونٹ دے کر خانہ کعبہ کی تولیت ان سے خرید لی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے ایک مشک بھر شراب دے کر یہ تولیت خریدی تھی۔ محترش راضی ہو گئے اور بیچ کر کے مکے کی جانب مقابل جا رہے۔

خداش بن اُمیہ الکھسی اور فاطمہ خزاعیہ کہ صحابہ رسول اللہ ﷺ کی فیض یافتہ تھیں۔ ان دونوں کا بیان ہے کہ قصی نے جب حلیل بن حبشیہ کی بیٹی خنی کو اپنے عقد ازدواج میں لیا اور ان سے لڑکے پیدا ہوئے تو حلیل نے کہا: قصی کے لڑکے میرے ہی لڑکے ہیں۔ میری ہی لڑکی کے لڑکے ہیں۔

خانہ کعبہ کی تولیت اور مکے کی حکومت کا کام سنبھالنے کی قصی کو وصیت کر کے کہا کہ اس کے لئے تو ہی سزاوار ہے۔

یہ درمیانی حدیث تو ایک ضعیفی روایت تھی اب پھر وہی پہلی روایت شروع ہوتی ہے جو محمد بن عمرو بن واقد الاسلمی اور ہشام بن محمد الکھسی سے مروی ہے یہ حضرات کہتے ہیں کہ۔

اخراج بنی بکر و خزاعہ

کہا جاتا ہے کہ جب حلیل بن حبشیہ انتقال کر چکے، قصی کی اولاد بروہی مال و دولت میں فراوانی ہوئی، ان کی شرافت معظم و مسلم مانی جا چکی، تو قصی کی رائے یہ ہوئی کہ قبائل خزاعہ و بنی بکر کے مقابلہ میں خانہ کعبہ کی تولیت اور مکے کی حکومت کے لیے وہ خود ہی احق و اولیٰ ہیں۔ کیونکہ اسماعیل بن ابراہیم (علیہ السلام) کی شاخ ہے تو قریش ہے اور یہی لوگ ان کی خالص اولاد میں ہیں، قریش و

① صل میں لفظ اذواد ہے جس کے معنی اونٹوں کے ہیں کہ تعداد میں تین سے دس تک یا تین سے پندرہ تک یا تین سے بیس تک یا تین سے تیس تک یا دو سے نو تک ہوں۔

بنی کنانہ کے کچھ لوگوں سے قصی نے اس باب میں گفتگو کی اور یکہ سے قبائل خزاعہ اور بنی بکر کے اخراج کی انہیں دعوت دے کر کہا۔

اس منصب کے لئے ان سے زیادہ شایان و سزاوار ہم لوگ ہیں۔

ان کی بات لوگوں نے مان لی اور اس تجویز میں انہیں کے متبع ہو گئے۔

قصی نے اپنے ماں جائے بھائی رزاح بن ربیعہ بن حرام العذری کو بھی خط لکھ کے استدعا کے لئے دعوت دی رزاح خود بھی مدد کو نکلے اور ان کے بھائی (باپ کی صلیبی اولاد) حن و محمود و جہمہ بھی انہیں کے ساتھ ہوئے۔ اتباع میں قضاہ کے اور لوگ بھی ہمراہ چلے۔ اور مکے پہنچ گئے۔

قبیلہ صرقہ کے لوگ کہ غوث بن مُر کی اولاد میں تھے۔ عرفات سے لوگوں کو ہٹا دیا کرتے تھے۔ جب تک ان میں سے کوئی فرد پہلے رمی جمار نہ کر لیتا لوگ یہ منک ادا نہ کر سکتے۔ پہلے سال تو یہی قاعدہ رہا۔ لیکن جب دوسرے سال قبیلہ صرقہ نے (ایام حج میں) اسی ضابطہ مستمرہ پر عمل کیا تو قصی اپنی قوم قریش و کنانہ و قضاہ کی جمعیت ساتھ لے کے عقبہ کے پاس پہنچے اور قبیلہ صرقہ سے کہا کہ تم سے زیادہ ہم اس کے مستحق ہیں۔ صرقہ نے انکار کیا تو باہم اس قدر جنگ ہوئی کہ مہاجرین صرقہ کو آخر کار ہزیمت اٹھانی پڑی۔ رزاح نے (یہ دیکھ کے کہ مخالفین کا زور ٹوٹ گیا ہے) قصی سے فرمائش کی کہ لوگوں کو رمی جمار کر کے گزر جانے کی اجازت دو۔ قصی نے اجازت دے دی اور جو کچھ مخالفین کے ہاتھ میں تھا سب پر غالب آ گئے (متصرف ہو گئے)۔ اسی زمانہ میں افاضہ^① آج تک (بعہد مؤلف) قصی کی ہی اولاد میں ہے۔

اس ہزیمت سے خزاعہ اور بنی بکر کو ندامت و خجالت دامن گیر ہوئی قصی سے وہ الگ ہو گئے۔ یہ دیکھ کر قصی نے پھر ان کے ساتھ جنگ کی تیاری کی۔ اٹح میں بڑے معرکہ کا زن پڑا فریقین میں بہتیرے قتل ہوئے آخر مصالحت کی جانب مائل ہوئے اور یحمر بن عوف بن کعب بن لیث بن بکر بن عبدمنافہ بن کنانہ کو حکم ٹھہرایا۔ یحمر نے یہ فیصلہ کیا کہ تولیت خانہ کعبہ و حکومت مکہ کے لئے خزاعہ سے قصی بن کلاب اولی ہیں۔

قصی نے خزاعہ دینی بکر کے جو خون کئے ہیں وہ سب میرے قدموں تلے پامال ہیں۔ یعنی ان کا کوئی خون بہا نہیں۔

(۲) خزاعہ دینی بکر نے قریش و بنی کنانہ کے جو خون کئے ہیں ان کا خون بہا دینا ہوگا۔

(۳) قصی کے لئے تولیت خانہ کعبہ و حکومت مکہ خالی کر دی جائے۔

اسی دن سے یحمر کا نام یحمر الشداخ پڑا کہ اپنے فیصلے سے تمام خون شداخ کر دیئے^②۔

① افاضہ سے طواف افاضہ مراد ہے۔

② شداخ اصل میں توڑنے کو کہتے ہیں۔ مراد معنی خون کا کوئی معاوضہ و دیت قرار نہ دینا ہر کر دینا شداخ اسم مبالغہ جس میں یہ صفت نہایت مبالغہ کے ساتھ پائی جاتی ہو۔

قریش کی وجہ تسمیہ اور پس منظر

مقداد بن اسود (بن الاسود) کہتے ہیں: جب قصی کو فراغت حاصل ہوئی اور خزاعہ اور بنی بکر کے سے نکالے جا چکے تو قریش ان کے پاس مجتمع ہوئے اور اسی دن سے اس اجتماعی حالت کی بناء پر یہ لوگ قریش کے نام سے موسوم کئے گئے۔ تَقَرُّش (جس سے لفظ قریش نکلا ہے اس) کے معنی بھی تجمع (اجتماع) ہی کے ہیں۔

قصی کے معاملات مستقر مستقیم ہو لئے تو ان کے ماں جائے بھائی رزاج بن ربیعہ العذری اپنی برادری والوں کے ساتھ کہ تین سو کی تعداد میں تھے اپنے علاقہ میں واپس گئے رزاج اور حُجْن قصی سے ملا کرتے تھے۔ حج کے موسم میں ملے آیا کرتے تھے۔ انہیں کے ساتھ رہتے تھے انہیں کے گھر ٹھہرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ قریش و عرب ان کی کیسی تعظیم کرتے تھے۔ قصی بھی رزاج اور حن کی بزرگداشت مرغی رکھتے تھے اور انہیں صلہ دیا کرتے تھے۔ قریش کے پیش نہاد بھی ان کا اجلال و اکرام تھا۔ کیونکہ جنگ خزاعہ و بکر میں قریش کو ان سے مدد ملی تھی۔ اس آزمائش میں وہ پورے اترے تھے اور حق استقامت ادا کیا تھا۔

ہشام بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ قریش کی وجہ تسمیہ فقط یہ ہے کہ فہر کے تینوں بیٹوں میں دو تو ایک ماں سے تھے اور ایک بیٹا دوسری ماں سے تھا۔ یہ سب جد ابجد ابو کے تہامہ مکہ میں الگ الگ فروکش ہوئے، کچھ زمانے تک تو یہی حال رہا۔ مگر پھر کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ باہم مجتمع ہو گئے۔ مل جل گئے۔ بنی بکر نے اس پر کہا:

لقد تفرش بنو جندلة^①

”جندلہ کی اولاد نے تو پھر تفرش یعنی اجتماع کر لیا۔“

بت پرستی کا آغاز

قبیلہ مضر کا پہلا شخص جو مکے میں فروکش ہوا وہ خزیمہ بن مدرکہ تھا، یہی وہ شخص ہے جس نے پہلے پہل ہبل (بت) اس کی جگہ منصوب کیا تھا۔ اور اسی بنا پر اس بت کو صنم خزیمہ (یعنی خزیمہ کا بت) کہتے تھے۔

خزیمہ کی اولاد مکہ ہی میں رہ پڑی اور اس وقت تک مقیم رہی کہ فہر بن مالک اس کے وارث ہوئے۔ اس زمانے میں بنی اسد و بنی کنانہ کے جو لوگ مکہ میں تھے سب کے سب نکل گئے اور وہاں جا کے آباد ہوئے جہاں آج تک (بعد مصنف) ان کے منازل و مسکن موجود ہیں۔

① جندلہ کی اولاد سے فہر بن مالک ہی کی اولاد مراد ہے کیونکہ انہیں کی بیوی کا نام جندلہ بنت عامر بن الحارث یا جندلہ بنت الحارث تھا۔ اہل عرب میں طریق خطاب یہ بھی تھا کہ محل استقباب میں بجائے نسبت النّسب کے نسبت النّومٹ درمیان میں لاتے تھے۔

اولاد قصی بن کلاب

محمد بن السائب کہتے ہیں کہ قصی کی تمام اولاد ان کی بیوی تخی بن خلیل سے ہے۔

لڑکے:

عبدالدار بن قصی جو ان کے پہلے بیٹے تھے۔

عبد مناف بن قصی جن کا نام مغیرہ تھا۔

عبدالعزیٰ بن قصی۔

عبد بن قصی۔

لڑکیاں:

نخمر بنت قصی۔

برہ بنت قصی۔

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: قصی کہا کرتے تھے کہ میرے چار لڑکے ہیں جن میں دو کے نام تو میں نے اپنے معبود کے نام پر رکھے ہیں ایک کو اپنے گھر کی نسبت سے اور ایک کو خاص اپنے سے موسوم کیا ہے۔ اسی بنا پر عبد بن قصی کو عبد قصی کہتے تھے۔ جن دو لڑکوں کو اپنے معبود سے نامزد کیا تھا وہ عبد مناف و عبدالعزیٰ تھے۔ اور عبدالدار^۱ کا سبب تسمیہ دار یعنی گھر تھا۔

دار الندوہ (مجلس شوری قریش)

محمد عمرو الاسلمی نے دو طریقوں سے روایت کی ہے ایک روایت تو عبداللہ بن جعفر الزہری سے ہے جنہوں نے ابو بکر بن عبد الرحمن بن مسور بن خرمہ کی کتاب سے بحوالہ محمد بن جبیر بن معظم یہ خبر دی ہے۔ دوسری روایت محمد بن السائب سے ہے جو ابوصالح کے واسطے سے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول بیان کرتے ہیں۔ ان دونوں روایتوں میں بالاتفاق کہا گیا ہے کہ کعب بن لوی کے پہلے فرزند قصی بن کلاب ہی ہیں جن کو ملک و مملکت حاصل ہوئی اور قوم نے بھی ان کی اطاعت کی وہ اہل مکہ میں ایسے مانے ہوئے شریف تھے کہ کسی کو ان کی شرافت و عظمت میں مجال نزاع نہ تھی۔ قصی نے دار الندوہ تعمیر کر کے اس کا دروازہ بیت اللہ کی جانب رکھا۔ یہی دار الندوہ ہے جس میں قریش کے تمام معاملات فیصلہ ہوتے تھے نکاح یا جنگ یا امور پیش آمدہ میں مشورہ۔ سب کا محل یہی تھا۔ حتیٰ کہ

① جب لڑکی بالغ ہوتی اور قیص پہننے کے سن کو پہنچتی تو اس کا قیص وہیں چاک کیا جاتا اور پھر وہیں سے اپنے گھر والوں میں

① عربی میں گھر کو دار کہتے ہیں بشرطیکہ وسیع ہو اور اس پر عمارت کا اطلاق ہو سکے ورنہ معمولی مکان کو بیت کہتے ہیں۔

پہنچائی جاتی۔

- ② علم جنگ خواہ اپنے لئے ہو یا کسی دوسری جماعت کے لئے دارالندوہ ہی میں گاڑا جاتا جو قصی کا خاص کام تھا۔
 - ③ لڑکے کا خنہ ہوتا تو دارالندوہ ہی میں ہوتا۔
 - ④ قریش کا کوئی قافلہ نکلتا تو وہیں سے ہو کے نکلتا۔
 - ⑤ قصی کے بزرگداشت، برکت صلاح اخذ کرنے، اور ان کے فضل و شرف کا اعتراف کرنے کے لئے سفر سے واپس آتے تو پہلے دارالندوہ ہی میں اترتے۔
- جس طرح کسی مذہب کی پیروی کی جاتی ہے اہل مکہ اسی طرح قصی کے حکم کی پیروی کرتے۔ زندگی تو زندگی، قصی کے مر جانے کے بعد انہیں کے حکم پر عمل ہوتا۔

قصی بن کلاب کے اختیارات

- ① حجابت (خانہ کعبہ کی پرودہ براری یا دربانی کہ جسے چاہیں اندر جانے دیں اور جسے چاہیں نہ جانے دیں)۔
- ② سقایہ (حاجیوں کو پانی پلانا)۔
- ③ رقادہ (حاجیوں کو کھانا کھلانے کا انتظام)۔
- ④ لواء (علم جنگ بلند کرنا)۔
- ⑤ ندوہ (مجلس شوریٰ یا ایوان حکومت)۔
- ⑥ حکومت مکہ۔ یہ سارے اختیارات قصی کے ہاتھ میں تھے۔
- ④ اہل مکہ کے علاوہ جو لوگ مکہ میں داخل ہوتے قصی ان سب سے عشر (محصول دہ ہک) لیا کرتے۔

دارالندوہ کی وجہ تسمیہ

دارالندوہ کا سبب تسمیہ فقط یہ ہے کہ یہ قریش کا مندی یعنی محل اجتماع تھا۔ نیک و بد خیر و شر کوئی معاملہ ہو سب کے لیے وہیں جمع ہوتے (ندوہ کا ماخذ مندی ہے) اور مندی مجمع قوم کو کہتے ہیں جب وہ مجتمع ہوں تو اسی مناسبت سے ان کے دارالاجتماع کو ندوہ یا دارالندوہ کہیں گے۔

آبادی مکہ

قصی نے مکہ کے مختلف حصہ کر کے اپنی قوم میں تقسیم کر دیئے اور ان منازل و مقامات میں قریش کی جماعتیں آباد کیں جہاں وہ اب (بعہد مصنف) ہیں۔ مکہ میں عضاء اور سلم کے درخت بکثرت تھے حرم کے اندر ان کے کاٹنے سے قریش پر ہیبت

طاری ہوئی تو قصی نے خود ان کے کاٹنے کا حکم دیا۔ اور کہا کہ یہ تو محض اپنے مکانات و محلات اور راستوں کے لئے تم کاٹتے ہو جو خرابی چاہے اس پر خدا کی لعنت۔

یہ کہہ کر اپنے ہاتھ سے درخت کاٹے اور ان کے اعوان و انصار نے بھی کاٹنے شروع کئے تو قریش نے بھی ہاتھ لگایا اور سب کاٹ ڈالے۔

مجمع (قصی کا خطاب)

قریش نے قصی کو مجمع (جمع کرنے والے) کے لقب سے ملقب کیا، کیونکہ انہیں کی بدولت قریش کو جمعیت نصیب ہوئی تھی۔ (اسی بناء پر) ان سے اور ان کے حکم سے برکت حاصل کرتے تھے ان کا اعزاز و اکرام کرتے تھے اور انہیں اپنا مالک و حکمران بنا رکھا تھا۔

قصی نے قریش کی جماعتیں ابط^۱ میں لا بسائیں۔ اسی لئے یہ سب قریش ابطاح کے نام سے موسوم ہوئے۔
قبائل بنی محییص بن عامر بن لوی و بنی تیم الاورم بن غالب بن فہر۔ و بنی محارب بن فہر و بنی حارث بن فہر ظہر مکہ یعنی اس کے بالائی حصے میں مقیم رہے۔ یہی لوگ ظواہر^۲ ہیں۔ کیونکہ قصی کے ساتھ یہ ابط^۳ میں نہیں اترے تھے۔ البتہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن الجراح کا گروہ کہ بن حارث بن فہر سے تھا ابط^۳ میں فروکش ہوا۔ لہذا یہ لوگ مطمین^۴ اہل ابطاح کے ساتھ شمار ہوتے تھے۔
ایک شاعر جس سے مراد ذکوان ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا آزاد غلام تھا اور ضحاک بن قیس الفہری نے اس کو مارا تھا۔ کہتا ہے:

فلو شهدتني من قريش عصابة قريش ابطاح لا قريش الظواهر

”اے کاش قریش کی ایک جماعت میرے سامنے ہوتی مگر یہ جماعت قریش ابطاح کی ہوتی قریش ظواہر کی نہ ہوتی۔“

ابوکم قصی کان يُدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فہر

”تمہارے ہی باپ قصی بن کلاب کہے جاتے تھے انہیں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قبائل فہر مجمع و یکجا کر دیئے۔“

غرض کہ قریش کے جمع کر دینے کے باعث قصی مجمع کہے گئے۔ اور قریش کا نام بھی قصی ہی کی بدولت قریش پڑا۔ ورنہ اس سے پہلے ان کو بنی النضر یا اولاد نضر کہتے تھے۔

① ابط، ابطحاء، ابطاح: وہ فراخ و وسیع وادی جس میں ریت اور نکلریاں ہوں۔

② قریش الظواہر: جو مکے کے بالائی حصوں میں مقیم تھے۔ قریش ابطاح: جو مکے کے اندر فروکش ہوئے۔

③ فرزندان عبد مناف و بنی عبد الدار میں کہ یہ سب قصی کی اولاد تھے، حجاب و رفاہ و لواء سقایہ کے متعلق منازعہ تھا۔ جسے طے کرنے کے لئے ایک جماعت آمادہ ہوئی تھی اور اسی جماعت کا نام مطمین پڑا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے خاندان والے انہیں لوگوں کے پڑوس میں آباد ہوئے تھے۔

قصی کے لئے لقب قریشی

سعید بن محمد بن جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ عبدالملک بن مروان نے محمد بن جبیر سے دریافت کیا کہ ”قریش کا نام قریش کب پڑا“۔

محمد نے جواب دیا: قریش کا نام قریش اس وقت پڑا جب یہ لوگ تفریق و پراگندگی کے بعد مجتمع ہوئے۔ اسی اجتماع کا نام قریش (یعنی قریشیت یا قریشیت) ہے۔ عبدالمطلب نے کہا: میں نے یہ بات تو نہیں سنی البتہ یہ سنی ہے کہ قصی کو قریشی کہتے تھے اور اس سے پہلے قریش کا نام نہیں پڑا تھا۔

ابو سلمہ بن عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: قصی جب حرم میں فروکش ہو کے غالب آچکے تو اچھے اچھے کام کئے۔ لہذا انہیں قریشی کہا گیا۔ اس نام سے پہلے پہل وہی موسوم ہوئے۔

ابو بکر بن عبداللہ بن ابوجہم کہتے ہیں: ”قریش کے نام سے نظر بن کنانہ موسوم ہوئے تھے“۔

تحمس (شریعت ابراہیمی میں تبدیلیاں)

یعقوب بن عتبہ الاغسی کہتے ہیں: قریش و کنانہ و خزاعہ اور بقیہ اہل عرب کے وہ تمام لوگ جو قریش کے سلسلہ اولاد میں داخل تھے۔ یہ سب کے سب خمس یعنی خمس و متعہ دو سخت گیر اور پابندی رسوم کے متعلق اپنے اوپر سخت تشدد کرنے والے تھے۔

یہی روایت محمد بن عمر نے بھی کی ہے۔ مگر سند دوسری ہے۔ جس میں اتنا اضافہ ہے کہ قریش کے سلسلہ اولاد والے یا قریش کے حلیف بھی (یعنی وہ قبائل جو قریشیوں کے ساتھ پیمانہ رفاقت باندھتے تھے) تحمس تھے۔

محمد بن عمر کہتے ہیں: خمس وہ چیزیں تھیں جو ان لوگوں نے دین میں ایجاد کی تھیں۔ ان محدثات پر وہ تحمس یعنی تشدد کرتے تھے۔ کہ سختی سے اپنے آپ کو ان کا پابند بنا رکھا تھا۔

① حج کر لیتے تو حرم سے باہر نہ نکلتے۔ اس بنا پر حق تک پہنچنے سے قاصر رہتے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم (علیہ السلام) کے لئے جو شریعت قرار دی تھی وہ عرفات پر وقوف کی شرط تھی کہ وہ من جملہ حل^① ہے۔

② گھی کو (موسم حج میں) پکا کے صاف نہیں کرتے تھے (اور ایسا کرنا حرام جانتے تھے)۔

③ بالوں کے چتر (چھتر یا چھوٹے شامیانے یا مختصر سائبان) نہیں بنتے تھے (یا نہیں بناتے تھے)۔

④ خود یہ لوگ اویم (کھجوت) کے سرخ رنگ کے چبے (یعنی چھوٹے چھوٹے شامیانے) نصب کر کے (ایام حج میں) رہتے اور مذہباً ایسا کرنا ضروری سمجھتے تھے۔

① حل: مقام بیرون حرم۔

۵) جو حاجی باہر سے آتا تو اس پر لازم تھا کہ کپڑے پہنے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کرے لیکن یہ پابندی اس شرط کے ساتھ تھی کہ ہنوز عرفات میں نہ گیا ہو۔

۶) عرفات سے واپس آتے تو برہنہ ہو کے خانہ کعبہ کا طواف افاضہ کرتے یا پہنتے بھی تو دو احسنی کپڑے پہنتے۔

۷) اگر کوئی اپنے دو کپڑے پہنے ہوئے طواف کرتا تو پھر ان کپڑوں کا پہننا اس کے لئے حلال نہ ہوتا۔

مزدلفہ میں آگ روشن کرنے کی رسم

محمد بن عمر کہتے ہیں: قصی جس وقت مزدلفہ میں ٹھہرے تو وہاں آگ جلانے کی رسم نکالی کہ عرفات سے جو آ رہا ہو وہ اس روشنی کو دیکھے۔ اس رسم کے مطابق ہمیشہ یہ آگ اسی شب میں یعنی شب اجتماع عرفات (حج کی رات) میں روشن رہا کرتی، جاہلیت میں یہی دستور (آخر تک) تھا۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کے عہد میں بھی ہوا کی۔ محمد بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: یہ روشنی اب (یعنی تا بہ عہداری) ہوتی ہے۔

حاجیوں کی خدمت

قصی نے قریش پر سقایہ و رفاہ (یعنی حاجیوں کو پانی پلانا اور کھانا کھلانا لازم قرار دے کے ان سے خطاب کیا): اے جماعت قریش! تم اللہ تعالیٰ کے زیر پناہ ہو، پڑوسی ہو، خانہ خدا والے ہو، اہل حرم ہو، حاجی اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اس کے گھر کے زائر ہیں، اور تمام مہمانوں سے زیادہ مستحق کرامت ہیں۔ لہذا تم بھی ان کے لئے حج کے دنوں میں کھانے پینے کا انتظام کر دو اور یہ انتظام اس وقت تک کے لئے ہو کہ وہ تمہارے ہاں سے رخصت ہو جائیں۔

حاجیوں کی آسائش کے لئے قریش ہر سال اپنے مال دولت میں سے کچھ مقدار نکال کے قصی کے سپرد کر دیا کرتے تھے جو منی کے دنوں میں اور مکے میں لوگوں کو اسی آمدنی سے کھانا کھلاتے اور پانی کے لئے حوض تیار کرواتے جن سے مکے منی و عرفات میں لوگ سیراب ہوتے۔ جاہلیت میں ہمیشہ یہ دستور جاری رہا اور قصی کی قوم اس پر عامل رہی۔ تا آنکہ اسلام آیا اور اسلام میں بھی آج تک (یعنی تا بعد مصنف) یہی طریقہ جاری ہے۔

۱) احسن انہیں لوگوں کو کہتے ہیں۔ بضرورت دو کپڑے پہن کے طواف کرنے کی رسم بھی انہیں نے نکالی تھی۔ لہذا ان کپڑوں کو بھی انہیں سے منسوب کر کے احسنی کپڑے کہتے تھے۔ ان رسوم کے اختیار کرنے کا سبب ان کی رائے میں خانہ کعبہ کا ادب و احترام تھا۔ انہیں رسوم تعظیسی کی شہادت دینے کے لئے عربی زبان میں لفظ احسن بوزن و معنی حرمت یعنی اکرام و احترام آج تک چلا آتا ہے۔

عبدالدار

قصی جب بوڑھے ضعیف ہوئے تو عبدالدار سے کہ ان کے پہلے لڑکے اور اکبر اولاد تھے۔ مگر ضعیف واقع ہوئے تھے حتیٰ کہ ان کے چھوٹے بھائی ان پر بالارہے تھے یہ کہا کہ بیٹا! خدا کی قسم یہ لوگ اگرچہ تجھ پر بالا ہیں مگر میں تجھے ان لوگوں کے ساتھ ملائے دیتا ہوں (برابر کئے دیتا ہوں)۔

① ان میں سے کوئی شخص خانہ کعبہ میں اس وقت تک داخل نہ ہو سکے گا تو دروازہ کھولے اور اسے اندر جانے دے۔

② قریش کوئی علم جنگ بلند نہ کر سکیں گے جب تک کہ تو اپنے ہاتھ سے بلند نہ کرے۔

③ مکے میں جب کوئی پانی پئے گا تیرے پلائے پئے گا۔

④ موسم حج میں جو کوئی کھانا کھائے گا تیرے کھانے میں سے کھائے گا۔

⑤ قریش اپنے جس کام کا فیصلہ کرنا چاہیں گے تیرے ہی گھر میں کریں گے۔

یہ کہہ کے قصی نے عبدالدار کو ۱۰۰ دار الندوہ ۱۰۰ خانہ کعبہ کی حجابت ۱۰۰ لواء ۱۰۰ سقایت ۱۰۰ رفاقت دے دی اور یہ تخصیص اس لئے کی کہ دوسرے بھائیوں کے برابر ہو جائے۔

قصی کی وفات

قصی نے انتقال کیا تو مقام حجون میں دفن ہوئے۔ اس حادثے میں ان کی بیٹی تحرہ اپنے باپ کے مرثیے میں کہتی ہیں

طرق النعیٰ بُعید لوم الہجد فنعی قصینا ذا النلای والسودہ

”سوئے والے شب میں سو رہے تھے کہ کچھ ہی دیر کے بعد موت کی خبر دینے والے نے دروازہ کھٹکھٹایا اور قصی کی خبر مرگ سنائی جو کریم تھے سخی تھے اور سردار اور رہبر قوم تھے۔“

فنعی المہذب من لوی کلہا فانہل دمعی کالجمان العفرد

”اس نے ایسے شخص کی خبر مرگ سنائی جو تمام خاندان لوی میں سب سے زیادہ مہذب تھا یہ سن کے میرے آنسو چلنے لگے جیسے موتی یا موتی کی ایک لڑی بکھر جائے۔“

فارقن من حزن وہم داخل اوق السلیم ۱ لوجده المتفق

”اس اندرونی رنج و غم سے میری نیند اچٹ گئی (جاتی رہی) جیسے بے قراری کے باعث سانپ ڈسے ہوئے کی حالت ہوتی ہے۔“

① سلیم اور مسلولم اس شخص کو کہتے ہیں جسے سانپ نے ڈسایا پچھونے ڈنک مارا ہو۔

عبد مناف

محمد بن السائب کہتے ہیں: قصی کے انتقال کرنے پر عبد مناف بن قصی ان کے قائم مقام ہوئے۔ قریش کے تمام امور انہیں کے ہاتھ میں تھے۔ قصی نے اپنی قوم کے لئے جن محلات کی داغ بیل ڈالی تھی عبد مناف نے ان کے علاوہ دوسرے محلات کی داغ بیل بھی ڈالی یہ عبد مناف ہی کی خصوصیت تھی۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جب آیت ﴿وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ ”اپنے خاندان کے قریب ترین لوگوں کو خدا کے خوف سے ڈراؤ“ نازل فرمائی تو آنحضرت ﷺ نے مخصوص خاندان عبد مناف ہی کو انداز فرمایا یعنی سطوت خداوندی سے ڈرایا۔

ابن عباس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ ﷺ پر یہ آیت ﴿وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ نازل فرمائی تو آنحضرت ﷺ مروہ پر چڑھ گئے اور وہاں سے آواز دی یا آل فہر (اے خاندان فہر کے لوگو! کہاں ہو)۔ آواز دیتے ہی تمام قریش حاضر ہو گئے۔

ابولہب بن عبدالمطلب نے کہا: اولاد فہر یہ تیرے سامنے ہے جو کہنا ہو کہہ۔ آنحضرت (سلام اللہ علیہ وبراہتہ) نے فرمایا: یا آل غالب۔ اس آواز پر حارث و نجارب فرزند ان فہر کی اولاد واپس گئی۔

آنحضرت (علیہ التحیات) نے فرمایا: یا آل لوی بن غالب۔ اس آواز پر تیم الاورم بن غالب کی اولاد واپس گئی۔
آنحضرت (صلوات اللہ علیہ) نے فرمایا: یا آل کعب بن لوی۔ اس آواز پر عامر بن لوی کی اولاد واپس گئی۔
آنحضرت (علیہ السلام) نے فرمایا: یا آل مرۃ بن کعب۔ اس آواز پر عدی بن کعب کی اولاد اور سہم و حُج ابنائے عمرو بن مصعب بن کعب کی اولاد واپس گئی۔

آنحضرت (ﷺ) نے فرمایا: یا آل کلاب بن مرۃ۔ اس آواز پر مخزوم بن یقطب بن مرہ اور تیم بن مرہ کی اولاد واپس گئی۔

آنحضرت (بارک اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا: یا آل قصی۔ اس آواز پر عبدالدار بن قصی کی اولاد اسد بن عبد العزیٰ بن قصی کی اولاد اور عبد بن قصی کی اولاد واپس گئی۔

ان سب کے چلے جانے پر ابولہب نے (آنحضرت ﷺ) سے کہا: یہ فرزند ان عبد مناف تیرے سامنے ہیں اب جو کہنا ہو کہہ۔

اقرباء کو توحید کی دعوت

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَمَرَنِيْ اَنْ اَنْذِرَ عَشِيْرَتِي الْاَقْرَبِيْنَ، وَ اَنْتُمْ الْاَقْرَبُوْنَ مِنْ قُرَيْشٍ، وَ اِنِّيْ لَا اَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللّٰهِ حِظًا وَ لَا مِنَ الْاٰخِرَةِ نَصِيْبًا اِلَّا اَنْ تَقُوْلُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَاشْهَدْ بِيْهَا لَكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ وَ تَدِيْنُ لَكُمْ بِهَا

العرب و تذلل لكم بها العجم.

”یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنے قریب ترین خاندان والوں کو ذراؤں قریش میں قریب ترین تمہیں لوگ ہو میں تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہ کسی حصے کا مالک بنا سکتا ہوں نہ آخرت سے کوئی حصہ دلا سکتا ہوں۔ بجز اس صورت کے کہ تم کہو لا الہ الا اللہ اس صورت میں۔“

ابولہب کا انجام

① میں تمہارے پروردگار کے رو برو تمہارے حق میں شہادت دوں گا۔

② تمام عرب تمہارا ہی دین اختیار کرے گا اور تمہارے ہی طریقہ کی پیروی کرے گا۔

③ اس کے کہنے پر تمام عجم تمہارا تابع و مطیع ہو جائے گا۔

ابولہب نے یہ سن کر کہا:

تبارک فلماذا دعوتنا؟

”تو خسارے میں رہے کیا اسی لئے تو نے ہم لوگوں کو بلایا تھا؟“

اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ﴾ نازل فرمایا۔ کہتا ہے ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ﴾ یعنی خسرت یدایابی لہب (ابولہب کے دونوں ہاتھ خسارے میں رہے)۔ مطلب یہ ہے کہ اے پیغمبر ﷺ! تو خسارے میں نہیں رہا۔ وہ خود ہی خائب و خاسر ہوا۔ کیونکہ انکار تو حید کا آخری نتیجہ خسران ہی ہوا کرتا ہے۔

اولاد عبد مناف

ہشام بن محمد بن السائب الکلبی نے اپنے والد سے روایت کی:

عبد مناف کے چھ لڑکے اور چھ لڑکیاں ہوئیں۔

① مطلب بن عبد مناف۔ یہ سب سے بڑے لڑکے تھے۔ انہیں نے قریش کے لئے نجاشی (حکمران حبشہ) سے تجارتی معاہدہ کیا تھا کہ قریش اس کے ملک میں تجارت کر سکیں۔

② ہاشم بن عبد مناف۔ ان کا نام عمرو تھا انہوں نے ہرقل (فرمانروائے قلمرو شام و روم) سے بیان و عہد لیا تھا کہ قریش امن و حفاظت کے ساتھ ہشام میں سفر تجارت کر سکیں۔

③ عبد شمس بن عبد مناف۔

④ الف: تماضر بنت عبد مناف۔

⑤ ب: حذہ بنت عبد مناف۔

ج: قلابہ بنت عبد مناف۔

د: بڑھ بنت عبد مناف۔

ه: ہالہ بنت عبد مناف۔

ان پانچوں بہنوں اور ان کے تینوں بھائیوں یعنی آٹھ کے آٹھوں کی ماں عاتکہ کبریٰ تھیں؛ بنت مرہ بن ہلال بن فالح بن ثعلبہ بن ذکوان بن ثعلبہ بن بہسہ بن سلیم بن منصور بن عکرمہ بن خصفہ بن قیس بن صعیلان بن مضر۔

۹ نوفل بن عبد مناف۔ کسری (بادشاہ ایران) سے انہیں نے اجازت نامہ حاصل کیا تھا کہ قریش عراق میں سفر تجارت کر سکیں۔

۱۰ ابو عمرو بن عبد مناف۔

۱۱ ابو عبیدہ بن عبد مناف۔ یہ خود بھی انتقال کر گئے۔ اور نسل بھی نہ چلی۔ ان تینوں بھائیوں کی ماں واقدہ تھیں بنت ابو عدی کہ ان کا نام عامر تھا بن عبد لہم بن زید۔

۱۲ و: زیطہ بنت عبد مناف، ہلال بن معیط کہ بنی کنانہ بن خزیمہ سے ان کی اولاد انہیں کے بطن سے تھی (یعنی زیطہ ہلال بن معیط کی منکوحہ تھیں) زیطہ کی ماں ثقفیہ تھیں یعنی ان کا نام بھی یہی تھا۔

ہاشم

ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: ہاشم کا نام عمرو تھا، ایلاف قریش یعنی قریش کا ادب و طریقہ انہیں سے منسوب ہے (اس ایلاف یا ادب قریش کی تشریح ملاحظہ ہو)۔

وہ پہلے شخص ہیں کہ سال میں دو مرتبہ قریش کے لئے (بغرض تجارت) سفر کے طریقے نکالے۔

ایک سفر تو جاڑوں میں کرتے تھے (یعنی رحلۃ الشتاء) جس میں یمن و حبشہ تک جاتے، حبشہ میں اس کے فرمانروا نجاشی کے پاس پہنچتے جو ان کی بزرگداشت کرتا اور انہیں عطیات دیتا۔

دوسرا سفر گرمیوں کا تھا (رحلۃ الصيف) جس میں شام تک جاتے، غزہ تک پہنچتے، کبھی کبھی انقرہ تک (واقع اناطول)۔ روم۔ جسے عوام آج تک انورہ کہتے ہیں) پہنچی جاتے۔ قیصر روم کی پیش گاہ درآتے جو ان کی بزرگداشت کرتا اور انہیں عطیات دیتا۔

ہاشم کی وجہ تسمیہ

ایک مرتبہ قریش پر چند ایسی خشک سالیاں گزریں ایسے ایسے قحط پڑے کہ مال و دولت سب کچھ جاتا رہا۔ انہیں دنوں ہاشم نے شام کا سفر کیا۔ وہاں پہنچ کر بہت سی روٹیاں پکوائیں جب تیار ہو گئیں تو بوریوں اور تھیلیوں میں بھر کے اونٹوں پر بار کرالیں، واپسی میں جب مکے پہنچے تو ان روٹیوں کو ہاشم^۱ یعنی توڑ توڑ کے خرید بنالی (وہ اونٹ جن پر روٹیاں بار تھیں) ذبح کر ڈالے۔

① ہاشم یعنی توڑنا روٹی توڑنا۔ ہاشم توڑنے والا۔

بادرچیوں کو حکم دیا انہوں نے گوشت پکایا۔ جب تیار ہو گیا تو دیکیں صحنوں میں اُلت دیں مکے والوں کو سیر شکم کھانا کھلایا۔ قحط کے بعد جس کی مصیبت میں لوگ مبتلا تھے یہ پہلی بارش (ارزانی و فراخی تھی) اسی باعث ان کا نام ہاشم پڑا۔ عبد اللہ بن الزکریٰ اس باب میں کہتے ہیں:

عَمُرُ و العُلَى هَاشِمَ الثَّرِيدَ لِقَوْمِهِ وَ رِجَالُ مَكَّةَ مُسْتَوْنَ عِجَافٍ

”بلند مرتبہ عمرو نے اپنی قوم کے لئے روٹیاں توڑ کے شریذ تیار کی یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ مکے کے لوگ قحط زدہ لاغر ہو رہے تھے۔“

معروف بن خزیمہ کی سے خاندان عدی بن الحیار بن عدی نوفل بن عبد مناف کے ایک شخص نے اپنے باپ کے حوالے سے روایت کی کہ وہ وہب بن عبد قحی نے بھی اس باب میں اشعار کہے تھے۔

تَحْمِلُ هَاشِمٌ مَا ضَاقَ عَنْهُ وَاعْبَىٰ أَنْ يَقُومَ بِهِ ابْنُ بَيْضٍ

”ہاشم نے وہ بوجھ اٹھالیا جس کے برداشت کرنے اور اسے اٹھا کے کھڑے ہونے سے شریف انسان تنگ آ گئے تھک گئے۔“

اتاهم بالغرائر مضافات من ارض الشام بالبئر النصيص

”لوگوں کے لئے وہ ملک شام سے عمدہ صاف گیارہوں کی بوریاں بھر بھر کے لائے جن کے سب ہی مشتاق ہوئے ہیں۔“

فادمع اهل مكة من هاشم و شاب الخبز باللحم الغريص

”انہوں نے بڑی وسعت و فراخی کے ساتھ روٹیاں توڑ توڑ کے مکہ والوں کو پیش کیں اور فرہ گوشت سے تروتازہ کر دیا۔“

فظل القوم بين مكلاهم بين الشيزاء حائرهما يقيص

”سب لوگوں نے لکڑی کے ان پیالوں پر ہاتھ مارا جو بھرے ہوئے تھے لبریز تھے اور ان کے کنارے چھلک رہے تھے۔“

بنی ہاشم و بنی امیہ میں مخالفت کی ابتداء

امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی کو (بربنائے واقعہ مذکورہ ہاشم پر حسد ہوا وہ مالدار تھے لہذا جو ہاشم نے کیا تھا بخلف وہی خود بھی کرنا چاہا مگر نہ کر سکے اور عاجز آ گئے۔ قریش کے کچھ لوگوں نے اس پر شامت کی تو امیہ کو غصہ آ گیا ہاشم کو برا بھلا

کہنے لگے اور انہیں منافرہ^۱ کی دعوت دی۔

ہاشم نے اپنی عمر و قدر و منزلت کا خیال کر کے منازرہ ناپسند کیا مگر قریش نے نہ چھوڑا۔ اور ان کو محفوظ کر لیا۔ (ناچار) ہاشم نے اُمیہ سے کہا کہ میں تیرے ساتھ اس شرط سے منازرہ کرتا ہوں کہ اگر تو مغلوب ہو تو سیاہ آنکھوں کی پچاس اونٹنیاں بطن مکہ میں تجھے ذبح کرنے کے لئے دینی ہوں گی اور دس برس کے لئے مکہ سے جلا وطن ہونا پڑے گا۔ اُمیہ نے یہ شرط منظور کر لی۔ منازرہ ہوا، بنی خزاعہ کے کاہن کو دونوں نے حکم بنایا۔ جس نے ہاشم کے حق میں فیصلہ کیا۔ ہاشم نے اُمیہ سے وہ مشروط اونٹ لے لئے۔ ذبح کئے اور حاضرین کی ضیافت کی۔ اُمیہ ملک شام میں نکل گئے اور وہاں دس برس تک مقیم رہے۔ یہ پہلی عداوت تھی جو ہاشم و اُمیہ کے قبائل میں واقع ہوئی۔

طلب حکومت

علی بن یزید بن عبداللہ بن وہب بن زمعہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ قصی نے عبدالدار کو جو کچھ دیا تھا، یعنی حجابہ و لواء و رقادہ و سقایہ و ندوہ، فرزند ان عبدمناف یعنی ہاشم و عبدشمس و مطلب و نوفل نے اتفاق کر کے اولاد عبدالدار کے ہاتھوں سے نکال لینا چاہا۔ کیونکہ ان مناصب کے لئے فرزند ان عبدالدار سے کہیں زیادہ وہ اپنے آپ کو مستحق سمجھتے تھے کہ فرزند ان عبدالدار پر ان کو شرف بھی حاصل تھا اور قوم میں بھی ان کی عظمت و بزرگی مسلم تھی۔ اس معاملہ کے مدبر و کارپرداز ہاشم بن عبدمناف تھے۔

بنی عبدالدار نے تفویض اختیار سے انکار کیا اور عامر بن ہاشم بن عبدمناف بن عبدالدار اس معاملہ میں ان کی کارسازی کو اٹھئے۔

قبائل بنی اسد بن عبدالعزی بن قصی بنی زہرہ بن کلاب و بنی تیم بن مرہ و بنی حارث بن فہر نے بنی عبدمناف بن قصی کا ساتھ دیا۔ اور بنی عبدالدار کے ساتھ بنی مخزوم و بہم و نج و بنی عدی بن گعب ہوئے۔ بنی عامر بن لوی و محارب بن فہر علیحدہ رہے اور فریقین میں سے کسی کے ساتھ نہ ہوئے۔

① منافرہ: مغاخرت اور اس کا محاکمہ۔ عربوں میں دستور تھا کہ جب دو فریقین اپنی اپنی عظمت پر زور دیتے تو اعیان قوم کے مجمع عام میں ٹالٹوں کو حکم بنایا جاتا۔ اور وہ کسی ایک کے حق میں فیصلہ کرتے۔ اسی کا نام منافرہ تھا۔ ابتداء میں اس دستور کی حدیں تصفیہ قوت و طاقت سے متوازن تھیں فریقین جب مقابل ہوتے تو پہلا سوال یہ ہوتا کہ ایسا اعزہ نفراً یعنی تنقیح طلب امر یہ تھا کہ ہم میں از روئے تعداد و کثرت یا قلت انفار غالب کون ہے اور مغلوب کون ہے۔ منافرہ اسی سوال کا جواب دینے کے لئے ہوتا یہی اس کی وجہ تسمیہ ہے۔

مطہین

دونوں جماعتوں میں سے ہر ایک نے بجائے خود سخت سے سخت قسمیں کھائیں کہ اپنی جماعت کو مخذول نہ ہونے دیں گے اور اپنے میں سے کسی کو فریق مقابل کے سپرد نہ کریں گے۔ ماء بل بحر صوفہ یعنی عہد و بیان اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک کہ آب دریا بھیڑ اور دُبنے کی اون کو تر کر سکے اس زمانے میں قول و قرار کو موکد کرنے کے لئے یہی محاورہ مستعمل تھا۔ مطلب یہ تھا کہ کبھی اس کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے گی۔

بنی عبد مناف اور ان کے طرفداروں نے ایک شاہ کا سہ نکالا جسے خوشبوؤں سے بھر کے خانہ کعبہ کے سامنے رکھ دیا۔ تمام لوگوں نے اس پر اپنے اپنے ہاتھ ڈالے اور حلف اٹھا کے انہیں ہاتھوں سے کعبہ کا مسح کیا کہ یہ بیان پوری طرح موثق ہو جائے۔ یہی کارروائی تھی جس کے بعد ان لوگوں کا نام مطہین پڑا (یعنی خوشبو میں ہاتھ بھرنے والے)۔

أحلاف

بنی عبد الدار اور ان کے ساتھیوں نے خون سے بھرا ہوا شاہ کا سہ لے کے اس میں ہاتھ ڈالا اور سب نے عہد کیا کہ اپنی جماعت کو مخذول و رسوا نہ ہونے دیں گے۔ ماء بل بحر صوفہ (جب تک آب دریا اون کو تر کر سکے) ان لوگوں کے (دو مختلف) نام پڑے:

① أحلاف (یعنی حلف اٹھانے والے)۔

② لعقة الدّم (یعنی خون چاٹنے والے)۔

مصالحت

جنگ کی تیاریاں ہوئیں۔ دونوں جماعتیں آمادہ ہو گئیں۔ جنگ آوروں کا تعین ہونے لگا۔ ہر ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ میں پیوست ہو گیا یہ سامان ہو ہی رہا تھا لوگ اس آمادگی کے ساتھ تیار ہی تھے کہ مصالحت کی سلسلہ جنابی ہوئی اور اس قرارداد پر صلح و آشتی کی ٹھہری کی۔

① سقایہ ورفادہ بنی عبد مناف بن قصی کو دے دیا جائے۔

② حجابہ و لواء دار الندوہ حسب دستور سابق بنی عبد الدار کے پاس رہے اس قرارداد کے مطابق فیصلہ ہو گیا۔ اور لوگ (جو درپے حرب و قتال تھے) آویزش سے رک گئے۔

دارالندوہ دارالامارہ کی حیثیت میں

فرزدان عبدالدار (ازروئے معاہدہ مذکورہ حجابہ ولواء کے ساتھ) دارالندوہ پر بھی متصرف رہے اور رہتے چلے آئے۔ تا آنکہ عکرمہ بن عامر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبدالدار بن قصی نے (کہ منصب تولیت انہیں کو حاصل تھا تا آنکہ دارالندوہ کو معاویہ رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان کے ہاتھ بیچ ڈالا) (یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب ارض حجاز میں بھی معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت و سلطنت مسلّم ہو چکی تھی) دارالندوہ کو لے کے معاویہ رضی اللہ عنہ نے دارالامارہ بنا لیا اور یہ آج تک (یعنی بعد مصنف) خلفاء ہی کے ہاتھ میں ہے۔

ہاشم کی تولیت

یزید بن عبد الملک بن المغیرۃ التوٹمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں مصالحت کے بعد یہ ٹھہری کہ ہاشم بن عبد مناف بن قصی سقایہ ورفادہ کے متولی قرار پائے ہاشم فراخ دست آدمی تھے حج کا موسم آتا تو قریش کے مجمع میں کھڑے ہو کے تقریر کرتے: اے جماعت قریش! تم لوگ اللہ کے زیر جوار ہو بیت اللہ والے ہو اس موسم میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کے زائر آتے ہیں جو اس کے گھر کی حرمت کے ساتھ تعظیم سے پیش آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اور سب میں بیشتر شایانِ تکریم وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا مہمان ہو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس نعمت سے مخصوص فرمایا ہے۔ خاص یہ کرامت تمہیں کو عطا کی ہے۔ ایک ہمسایہ اپنے دوسرے ہمسائے کا جتنا لحاظ کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ تمہارا پاس و لحاظ کرتا ہے۔ لہذا تم بھی اس کے ذاروں کی بزرگداشت مرعی رکھو جو کھرے ہوئے بال غبار آلود ہر ایک کے شہر سے ایسی ایسی لاغر و نحیف سوار یوں پر آتے ہیں کہ قمار بازی کی حیر کی طرح بے بال و پر بے ساز و سامان ہوتے ہیں چلے ہیں چل کے تھک تھک گئے ہیں۔ جس سے بو آنے لگی ہے کپڑوں میں جو نیں پڑ گئی ہیں تو شوز و ختم ہو چکا ہے۔ تم ان کی ضیافت کرو کھانا کھاؤ اور پانی پلاؤ۔

قریش اسی بنا پر حاجیوں کی آسائش و راحت رسانی کا اس قدر سامان کرتے کہ گھر والے حسب مقدور معمولی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی فراہم کر دیتے ہاشم بن عبد مناف خود بھی ہر سال بہت سامان اسی غرض سے نکالتے اور قریش کے جو لوگ دولت مند تھے وہ بھی اعانت کرتے۔ ہر قل (بادشاہ روم) کے سکے کے سوسو مثقال ہر شخص بھیجتا ہاشم حوضوں کی تیاری کا انتظام کرتے جن کا محل وقوع مقام چاہ زمزم ہوتا۔ ان میں مکے کے کنوؤں سے پانی لاتے اور بھر دیتے حاجی یہاں سے پانی پیتے تھے۔ یوم الترویہ (۸ رذی الحجہ) سے حاجیوں کی ضیافت کا سامان ہوتا۔ اور مکے و منیٰ و مقام اجتماع حجاج (جمع) و عرفات پر ان کو کھانا کھلایا جاتا گوشت روٹی گھی اور چھوڑے اور ستھ کی ٹرید بنا بنا کے دی جاتی سب کے لئے پانی کا اہتمام ہوتا اور باوصف اس کے کہ حوضوں میں پانی کی کمی ہوتی پھر بھی منیٰ میں سب کو پانی پلوایا جاتا مناسک حج سے فارغ ہو کر منیٰ سے جب لوگ واپس آتے تو اس وقت ضیافت ختم ہوتی اور لوگ اپنے اپنے مقام پر چلے جاتے۔

قیصر و نجاشی سے تجارتی معاہدات

عبداللہ بن نوفل بن الحارث کہتے ہیں: ہاشم ایک شریف آدمی تھے، قیصر سے قریش کے لئے انہیں نے یہ عہد لیا تھا کہ امن و امان و حفاظت کے ساتھ سفر کر سکیں۔ سرکوں اور راستوں پر اپنا مال و اسباب لے کے گزریں تو کرایہ و محصول نہ دینا پڑے۔ قیصر نے یہ اجازت نامہ لکھ دیا۔ اور نجاشی (فرمانروائے حبشہ) کو بھی لکھا کہ قریش کو اپنے ملک میں داخل ہونے دیں یہ لوگ تجارت پیشہ تھے (اور اسی لئے ان ممالک میں سفر کرنے کی انہیں ضرورت لاحق تھی)۔

ہاشم کا عقد نکاح

قریش کے ایک قافلہ کے ساتھ کہ تجارتی مال و اسباب سے مملو تھا۔ ہاشم بھی ہوئے راستہ مدینہ پر سے گزرتا تھا، قافلہ مقام سوق النبط فروکش ہوا (سوق النبط) بھٹی قوم کا بازار یہاں ایسے بازار میں پہنچے جو سال میں ایک ہی مرتبہ لگتا اور سب لوگ اس میں مجتمع ہوتے قافلے والوں نے خرید و فروخت کی اور داد و ستد ہوئی۔

ایک مقام پر کہ سر بازار واقع تھا۔ اہل قافلہ کو ایک عورت نظر پڑی۔ ہاشم نے دیکھا کہ اس عورت کو جو چیز خریدنی ہے ان کے متعلق احکام دے رہی ہے۔ یہ عورت دور اندیش مستقل مزاج صاحب جمال نظر آئی۔

ہاشم نے دریافت کیا یہ بیوہ ہے یا شوہر دار؟

معلوم ہوا بیوہ ہے، اُحمہ بن الجلال کے عقد نکاح میں تھی۔ عمرو و معید، دوڑ کے بھی اس کے حلب سے پیدا ہوئے۔ پھر اس نے جدا کر دیا۔ اپنی قوم میں عزیز و شریف ہونے کے باعث یہ عورت اس وقت تک کسی کے نکاح میں نہ آتی جب تک یہ شرط نہ ہو جاتی کہ اس کی عتان اختیار اسی کے ہاتھ میں رہے گی۔ کسی شوہر سے نفرت و کراہت آتی تو اس سے جدا ہو جاتی (یعنی خود اس کو طلاق دے دیتی) اس کا نام سلمیٰ تھا بنت عمرو بن زید بن لبید بن خدش بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار۔

ہاشم نے اس کو پیغام دیا۔ ان کی شرافت و نسب کا جب حال معلوم ہوا تو وہ راضی ہو گئی اور ان کے نکاح میں آ گئی۔ ہاشم اس کے پاس آئے اور دعوت و لیمہ کی تیاری کی قافلے کے لوگ جو وہاں تھے سب کو بلایا تعداد میں یہ چالیس قریشی تھے بنی عبد مناف و بنی مخزوم و بنی اسم کے کچھ لوگ بھی ان میں تھے۔ قبیلہ خزرج (اہل مدینہ) کے بعض افراد کو بھی دعوت دی اور سب کے ساتھ چند روز وہاں مقیم رہے۔

سلمہ حاملہ ہوئیں، عبدالمطلب پیدا ہوئے۔ جن کے سر پر شیبہ تھا (یعنی سر میں کچھ بال سفید تھے) اسی مناسبت سے ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔

وفات اور وصیت

ہاشم مع اپنے ہمراہیوں کے وہاں سے شام کو روانہ ہوئے غزہ میں پہنچے تھے کہ بیماری کی شکایت پیدا ہوئی لوگ ٹھہر گئے اور اس وقت تک ٹھہرے رہے کہ ہاشم نے وفات پائی۔ غزہ ہی میں ان کو دفن کیا گیا۔ اور ان کا ترکہ لے کر ان کے لڑکوں کے پاس واپس آئے۔ کہا جاتا ہے کہ ابورہم بن عبد العزیٰ العامری کہ عامر بن لوی کے خاندان سے تھے۔ اور ان دنوں خود بیس برس کے لڑکے تھے۔ فرزند ان ہاشم کے پاس یہ ترکہ لے کر آئے تھے۔

محمد بن السائب الکلی کہتے ہیں: ہاشم بن عبد مناف نے اپنے بھائی مطلب بن عبد مناف کو اپنا وصی بنایا تھا۔ یہی باعث ہے کہ بنی ہاشم و بنی عبد المطلب آج تک ایک ہیں اور بنی عبد شمس و بنی نوفل فرزند ان عبد مناف (بھی اسی طرح) اب تک (یعنی تابعہ مصنف) یک دست ہیں۔

اولاد ہاشم

ہشام بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں: ہاشم بن عبد مناف کے چار لڑکے اور پانچ لڑکیاں پیدا ہوئیں۔

- ① شیبہ الحمد۔ انہیں کو عبد المطلب کہتے ہیں۔ یہ اپنے مرتے دم تک قریش کے سردار رہے۔
- ② الف: رقیہ بنت ہاشم۔ ہنوز لڑکی ہی تھیں۔ اٹھان بھی نہ ہوا تھا کہ انتقال کر گئیں۔ ان دونوں بہن بھائی کی ماں سلمیٰ تھیں۔ بنت عمرو بن زید بن لبید بن خداش بن عامر بن غنم بن عدی بن التجار ان کی دونوں ماں جائے بھائی عمرو و معید تھے اپنائے احمجہ بن الجلال بن الحزلیش بن حبیبا بن کلفہ بن عوف بن عمر بن عوف بن الاوس۔
- ③ ابوصبی بن ہاشم ان کا نام عمرو تھا یہ سب میں بڑے تھے۔
- ④ صبی بن ہاشم۔ ان دونوں بھائیوں کی ماں ہند تھیں، بنت عمرو بن ثعلبہ بن الحارث بن مالک بن سالم بن غنم بن عوف بن الحزرج۔ ان کے ماں جائے بھائی مخرمہ تھے۔ ابن المطلب بن عبد مناف بن قصی۔
- ⑤ اسد بن ہاشم ان کی ماں قیلہ تھیں۔ ملقب بہ جزور بنت عامر بن مالک بن جذیمہ کہ انہیں کو المصطلق^① بھی کہتے ہیں، وہ قبیلہ خزاعہ کے تھے۔

⑥ نصلہ بن ہاشم۔

⑦ ب: شفاء بنت ہاشم۔

⑧ ج: رقیہ بنت ہاشم۔ ان تینوں کی ماں امیہ تھیں، بنت عدی بن عبد اللہ بن دینار بن مالک بن سلمان بن سعد کہ قبیلہ قضاہ

① المصطلق: خوش آواز اچھا نغمہ سرا جذیمہ بن سعد بن عمرو خزاعی کو یہ لقب ان کے حسن صورت کی بنا پر ملا تھا، قبیلہ خزاعہ کے پہلے معنی وہی ہیں۔

کے تھے۔ ان دونوں کے ماں جائے بھائی فضیل و عمرو تھے، فضیل بن عبد العزیٰ العدوی و عمرو بن ربیعہ بن الحارث بن نجیب بن خزیمہ بن مالک بن جبل بن عامر بن لوی۔

۹) ذ: ضعیفہ بنت ہاشم۔

۱۰) ھ: خالدہ بنت ہاشم۔ ان کی ماں اُم عبد اللہ تھیں جن کا نام واقعہ بنت ابی عدی۔

۱۱) و: حنہ بنت ہاشم ان کی ماں عدی تھیں، بنت حبیب بن الحارث بن مالک بن حطیط بن جشم بن قصی کہ انہیں کوثقیف کہتے ہیں۔

ہاشم کے غم میں اشعار

ہاشم کی کیفیت ابو یزید تھی۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں وہ اپنے بیٹے اسد بن ہاشم کے نام پر کنیت کرتے تھے (یعنی ابواسد)۔ ہاشم کی وفات پر ان کی اولاد نے بہت سے مرثیے کہے جن میں ایک مرثیہ خالدہ بنت ہاشم کا ہے کہ محمد بن عمرو نے اس کی روایت اپنے راویوں کے حوالے سے کی ہے لیکن اس کے اشعار میں کمزوریاں ہیں:

بکر النبی بخیر من وطی الحصی ذی المکرمات و ذی الفعال الفاضل
”پیغام گوئی مرگ نے سویرے ہی ایسے شخص کی موت کی خبر سنائی جو زمین پر چلنے والوں میں سب سے اچھا ذی
مکرمات صاحب افعال بزرگ تھا۔“

بالسید العمر السید ذی النہلی ماضی العزیمۃ غیر نکس داخل
”ایسے شخص کی سنائی جو سردار تھا، وسیع الاخلاق کریم تھا، شریف و نخی شجاع و متواضع تھا، دانشمند تھا، ناقد العزم تھا،
ضعیف الرائے پیر فروت نہ تھا، اور نہ سفلہ و کمینہ پست ہمت آدمی تھا۔“

زین العشیرۃ کلہا و ربیعہا فی الطبقات و فی الزمان الملحل
”متواتر خشک سالی و قحط کے زمانے میں وہ تمام خاندان کی زینت و رونق و بہار کا باعث تھا۔“

ان المہذب من لوی کلہا بالشام بین سفائح و جنادل
”تمام خاندان لوی کا مہذب ترین ملک شام میں اس وقت آنکھ سے سنگ و خاک ہے۔“

فابکی علیہ ما بقیۃ بعونہ فلقد ردت احادی و فواہل
”تو جب تک زندہ ہے اس پر زار زار روتی رہ اس لئے کہ تجھے ایسے بزرگ کی مصیبت اٹھانی پڑی ہے جو
صاحب فیض و بزرگی تھا۔“

و لقد ردت قریع فہر کلہا و رئیسہا فی کل امر شامل
”تجھے ایسے شخص کی مصیبت اٹھانی پڑی ہے جو تمام قبیلہ فہر کا سردار تھا۔ اور ہر امر عام و شامل میں سب کا رئیس
مانا جاتا تھا۔“

شفاء بنت ہاشم کہتی ہیں:

عَيْنِ جُودِي بَعْبُورَةٍ وَ مُنْجُومٍ وَاسْفِجِي الدَّمْعَ لِلْجَوَادِ الْكَرِيمِ
”اے آنکھ اشک بار ہو اور اس فیاض و کریم بزرگ کے لئے آنسو بہا۔“

هَاشِمُ الْخَيْرِ ذِي الْجَلَالَةِ وَالْمَجْدُ ذِي الْبَاعِ وَالنَّدَى وَالصَّمِيمِ
”خیر و خوبی والے ہاشم کے لئے جو صاحب جاہ و جلال و بزرگی تھا، قوت دار حوصلہ مند فیاض اور خالص و مخلص آدمی تھا۔“

عَيْنِ وَاسْتَعْبِرِي وَ سَحَى وَجْهِي لَا يَبْلُكُ الْمَسُودُ الْمَعْلُومُ
”اے آنکھ اپنے باپ کے لئے جو مشہور سردار قوم تھا رو اور خوب رو اور روتی رہ۔“

وَ رَبِيعٍ لِلْمَجْتَلِدِينَ وَ حَزْزٍ وَ لَزَازٍ لِكُلِّ أُمٍّ عَظِيمِ
”جو حاجت مندوں کے حق میں بہار تھا، اور ہر ایک بڑے سے بڑے کام کے لئے تعویذ یا سبب حفظ و امن تھا اور دروازہ مفاسد کو بند رکھنے والا دستہ تھا۔“

شَمْرِي نَمَاهُ لِلْعَزِّ صَقَرٍ شَافِحِ الْبَيْتِ مِنْ سُرَاةِ الْأَدِيمِ
”تجربہ کار ناقد العزم شہباز کہ عزت ہی کے لئے اس کا نشو و نما ہوا تھا اور اشراف روئے زمین کے گھرانوں میں اس کا گھر سب سے پرانا اور شریف تھا۔“

شَيْطَمِي مُهَذَّبٌ ذِي فَضُولٍ أَرِيحِي مِثْلَ الْقَنَاءِ وَ سِيمِ
”تو مند بلند بالا فصیح و بلیغ، شیر مرد، مہذب، صاحب فضائل، سردار قوم جو خوش رو و خوش شکل و خوش منظر بھی تھا۔“

خَالِي سَمِيدٌ أَحْوَذِي بَاسِقِ الْمَجْدِ مَضْرَحِي حَلِيمِ
”سردار غالب الاطوار حاذق و قہار جس کا شجرہ مجد و کرم تناور تھا، اور جو خود ایک فیاض و بردبار سردار گروہ سالار تھا۔“

صَادِقِ النَّاسِ فِي الْمَوَاطِنِ شَهْمِ مَا جَدَّ الْعَجْدِ غَيْرِنَكْسِ ذَمِيمِ
”مہرکوں میں راست باز بہادر و بزرگ آدمی جو سفلہ و ضعیف و پست ہمت بھی نہ تھا، اور نہ خصلتوں کا برا تھا۔“

مطلب بن عبد مناف

محمد بن عمرو بن واقد الاسلمی کہتے ہیں: مطلب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب ہاشم اور عبد شمس دونوں سے بڑے تھے۔ قریش کے لئے نجاشی سے انہیں نے تجارتی عہد نامہ حاصل کیا تھا۔ وہ اپنی قوم میں شریف تھے سردار تھے اور ان کی اطاعت کی جاتی تھی جو دو کرم کے باعث قریش انہیں الفیض کہتے تھے (یعنی فیاض) ہاشم کے بعد سقایہ ورفادہ کے وہی متولی ہوئے وہ اس باب

میں کہتے ہیں:

و اَبْلَعُ لَدَيْكَ بَنِي هَاشِمٍ بِمَا قَدْ فَعَلْنَا وَ لَمْ نَوْمَرْ
”ہم نے جو کچھ کیا ہے اور بغیر کسی حکم کے جو کام ہم سے ہوا ہے بنی ہاشم کو اپنے پاس بلا کے اس کی اطلاع دے دے۔“

اَقَمْنَا لِنَسْقِي حَجَّجَ الْحَرَا مَ اَزْقِرَكَ الْمَجْدُ لَمْ يُوْتَرْ
”ایسی حالت میں کہ مجد و شرف متروک ہو چکا تھا ہم نے حاجیان بیت الحرام کو پلانے کا انتظام کیا۔“
نَسُوقُ الْحَجَّجَ لَا بَيِّنَاتَا كَانَهُمْ بَقَرٌ تُحْشَرُ
”حاجیوں کو ہم اپنے گھروں میں اس طرح کھینچ لاتے ہیں کہ گویا وہ اجتماعی طور پر گائے بیل ہیں جو بے عذر کھینچے چلے آتے ہیں۔“

ثابت بن الحمزہ بن حسان کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ شاعر (جناب نبویؐ) کے والد تھے۔ عمرہ کے لئے (مدینہ مبارکہ سے) مکہ میں آئے یہاں مطلب سے ملے جو ان کے دوست تھے (باتوں باتوں میں) ان سے کہا: اگر تو اپنے بھتیجے شیبہ کو ہمارے قبیلہ میں دیکھتا تو اس کے شکل و شمائل میں تجھے خوبی و خوبروی و ہیبت و شرافت نظر آتی، میں نے دیکھا کہ وہ اپنے ماموں زاد بھائیوں میں تیر اندازی کر رہا ہے کہ نشان آموزی^۱ کے دونوں تیر میرے کف دست جیسے مقدار کے ہدف میں داخل ہو جاتے ہیں جب تیر نشانہ پر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے: انا ابن عمرو العلی (میں بلند مرتبہ عمر کا فرزند ہوں)۔

مطلب نے کہا: میں تو جب تک وہاں نہ جاؤں اور اس کو ساتھ نہ لاؤں اتنی بھی تاخیر نہیں کر سکتا کہ شام ہو جائے (یعنی اتنی عجلت ہے کہ آج کے دن تمام ہونے کا انتظار کرنا بھی ممکن نہیں)۔

ثابت نے کہا: میری رائے میں اسے نہ تو سلمیٰ تیرے سپرد کر دے گی اور نہ اس کے ماموں تجھے لے جانے دیں گے۔ اگر تو اسے وہیں رہنے دے کہ اپنے ننھیال میں اس وقت تک رہے کہ خود بخود (تیرے پاس برضا و رغبت آجائے تو اس میں تیرا کیا حرج ہے؟)

مطلب نے کہا: ابواؤس! میں تو اسے وہاں نہ چھوڑوں گا کہ اپنی قوم کے ماثر و فضائل سے بیگانہ بنا رہے، تجھے یہ تو معلوم ہی ہے کہ اس کا حسب و نسب و مجد و شرف سب کچھ اس کی قوم ہی کے ساتھ ہے۔

مطلب مکے سے نکل کے چلے اور مدینے میں پہنچ کے ایک گوشے میں فروکش ہوئے۔ شیبہ کو دریافت کرتے رہے حتیٰ کہ اپنے ننھیالی لڑکوں میں تیر اندازی کرتے ہوئے وہ مل گئے۔ مطلب نے دیکھا تو باپ کی شابہت ان میں نظر آئی، پہچان لیا۔

① نشانہ آموزی کے تیر اصل میں اس کے لئے لفظ مرماۃ ہے جس سے مراد وہ کزور تیر ہے کہ لڑکے اس سے تیر اندازی سیکھتے تھے ہر ایک لڑکے کے پاس ایسے دو تیر ہوا کرتے، اسی لئے اصل میں بھی لفظ حشید وارد ہے۔

آنکھیں اشکبار ہوئیں گلے سے لگایا حملہ یمانی پہنایا اور کہنے لگے:

عَرَفْتُ شَيْبَةَ وَالنَّجَارَ قَدْ حَفَلْتُ ابْنَاؤَهَا حَوْكُهُ بِالْكَبَلِ تَنْتَضِلُ

”میں نے شیبہ کو پہچان لیا اور ایسی حالت میں پہچانا کہ قبیلہ بنی نجار کے لڑکے اس کے ارد گرد تیر اندازی کے لئے جمع کئے ہوئے تھے۔“

عَرَفْتُ أَجْلَادَهُ مِنَّا وَ شَيْمَتَهُ فَقَاضَ مِنِّي عَلَيْهِ وَابِلٌ سَبَلٌ

”میں نے پہچان لیا کہ اس کا زور بازو و طور و طریق ہم ہی میں سے ہے اور یہ پہچان کر میری آنکھیں اس پر آنسوؤں کے ڈونگرے برسائے لگیں۔“

سہلی نے پیغام بھیج کر مطلب کو اپنے ہاں فروکش ہونے کی دعوت دی جس کے جواب میں مطلب نے کہا: میری حالت اس (تکلف) سے بہت ہی سبک واقع ہوئی ہے، میں جب تک اپنے بھتیجے کو نہ پاؤں گا، اور اسے اس کے شہر قوم میں نہ لے جاؤں گا اس وقت تک گرہ بھی نہیں کھولنا چاہتا۔

سہلی نے کہا: میں تو اس کو تیرے ساتھ بھیجنے کی نہیں۔

سہلی نے اس جواب میں مطلب کے ساتھ درشتی و خشونت ظاہر کی تو انہوں نے کہا ایسا نہ کریں تو بغیر اس کے ساتھ لے واپس جانے والا نہیں۔ میرا بھتیجا سن شعور کو پہنچ چکا ہے اور غیر قوم میں ہے اور اجنبی ہے۔ ہم لوگ اس خاندان کے ہیں کہ ہماری قوم کی شرافت اور اپنے قومی شہر میں قیام کرنا یہاں کی اقامت سے اس لئے بہتر ہے اور وہ جہاں کہیں بھی ہو بہر حال تیرا ہی لڑکا ہے۔

ابْلَغَ بَنِي النَّجَارِ اِنْ جَنَّتَهُمْ اِنِّي مِنْهُمْ وَ اَبْنُهُمْ وَ اَنَحْمِسُنْ

”بنی نجار کے پاس آنا تو ان سے کہہ دینا کہ میں بھی اور ان کا لڑکا بھی یہ جماعت کی جماعت سب انہیں میں سے ہے۔“

رَأَيْتُهُمْ قَوْمًا اِذَا جَنَّتَهُمْ هُوُوا لِقَائِي وَ اَحْبَوُا حَسْبِيْسِي

”میں نے دیکھا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس آئے تو وہ میری ملاقات کے خواہشمند ہوتے ہیں اور میری آہٹ سے بھی الفت رکھتے ہیں۔“

ان دونوں شعروں کی روایت تو ہشام بن محمد نے اپنے والد سے کی ہے۔ اب آگے پھر وہی محمد بن عمرو والی روایت شروع ہوتی ہے۔

شیبہ سے عبدالمطلب کیسے بنے؟

محمد بن عمرو کہتے ہیں: مطلب شیبہ کو لئے ہوئے ظہر کے وقت مکے پہنچے۔

قریش نے یہ دیکھ کے کہا: هذا عبد المطلب (یہ مطلب کا غلام ہے)۔

مطلب نے کہا: ہائیں! افسوس! یہ تو حقیقت میں میرا بھتیجا شیبہ بن عمرو ہے۔

لوگوں نے (بنظر غار) شیبہ کو جب دیکھ لیا تو (پہچان کے) سب نے کہا: ابنہ لعمری (میری جان کی قسم یہ عمرو کا لڑکا

ہے)۔

اس وقت سے عبد المطلب برابر کے ہی میں مقیم رہے تا آنکہ سن بلوغ کو پہنچے اور جوان ہوئے۔

عبد المطلب بحیثیت متولی کعبۃ اللہ

مطلب بن عبد مناف نے تجارت کی غرض سے یمن کا سفر کیا تھا۔ وہاں مقام اومان میں انتقال کر گئے۔ ان کے بعد رفاہ و سقاہ کے عبد المطلب بن ہاشم متولی ہوئے اور یہ مناصب ہمیشہ انہیں کے ہاتھ میں رہے۔ حاجیوں کو کھانا کھلاتے، پانی پلاتے، مکے میں کئی حوض بنوائے تھے کہ انہیں سے حاجیوں کو سیراب کراتے۔ جب زمزم سے پانی پلانے کا آغاز ہوا تو مکے میں حوضوں کے ذریعہ پانی پلانے کا دستور بند ہو گیا اور عبد المطلب نے حجاج کو زمزم ہی سے پانی پلوانا شروع کیا اس کا سر آغاز اس وقت سے ہوا جب زمزم کو از سر نو کھود کے جاری کیا ہے۔ یہی پانی عرفات تک پہنچاتے تھے اور وہاں بھی سب کو پلواتے تھے۔

چشمہ زمزم

زمزم اللہ تعالیٰ کی جانب سے پانی پینے کے لئے تھا۔ خواب میں کئی مرتبہ عبد المطلب کو بشارت ہوئی، کھودنے کا حکم ملا اور وہ جگہ بھی بتا دی گئی (ایک رات بحالت رؤیا) کہا گیا: طیبہ کو کھودو (الو)۔

انہوں نے پوچھا: طیبہ کیا ہے؟

دوسرے دن پھر آ کے کہا: بڑہ کو کھود۔

انہوں نے پوچھا: بڑہ کیا ہے؟

تیسرے دن وہ اپنی خوابگاہ میں استراحت کر رہے تھے کہ خواب میں ایک شخص اُ کے کہتا ہے مَضُونہ کو کھود۔

انہوں نے پوچھا: مَضُونہ کیا ہے؟ بیان کر تو کیا کہتا ہے؟

چوتھی شب میں پھر آ کے کہا: احقر زم زم (زمزم کو کھود)۔

انہوں نے پوچھا: و ما زم زم؟ (زمزم کیا ہے؟)

جواب دیا: لا تنزع ولا تدم، تسقى الحجاج الاعظم وهی بین الفرت والدم عند نقرة الغراب الاعصم

(زمزم وہ ہے کہ نہ اس کا پانی ختم ہوگا نہ اُس کی مذمت کی جاسکے گی، حاجیوں کو خاطر خواہ وہ سیراب کرے گا یہ گندگی اور خون

کے درمیان اس جگہ واقع ہے جہاں غراب اعصم^۱ منقار سے کریدتا رہتا ہے۔

محمد بن عمرو کہتے ہیں کہ ذبیح کی جگہ سے جہاں گندگی اور خون جمع رہتا ہے غراب اعصم وہاں سے ہٹتا ہی نہ تھا۔

وہی شربُ لک و لولدک من بعدک (اسی خواب میں عبدالمطلب کو یہ بھی بشارت ہوئی کہ یہ تیرے پینے کے لئے اور تیرے بعد تیری اولاد کے پینے کے لئے ہے)۔

عبدالمطلب نے زمین کھودنے، مٹی پھینکنے پانی نکالنے کے سامان و آلات لئے اور اپنے بیٹے حارث بن عبدالمطلب کو ساتھ لیا کہ اس وقت تک بجز ان کے اور کوئی دوسرا لڑکا نہ تھا۔ کدال اور پھاوڑے سے زمین کھودتے تھے۔ مٹی کو برتن میں بھر دیتے تھے۔ جسے حارث اٹھا اٹھا کے باہر ڈال دیتے تھے۔ تین دن تک کھودتے رہے جس کے بعد زم زم کا نشان ملا۔ عبدالمطلب نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور کہا: هذا طوی اسماعیل (یہ وہی زمزم ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لئے جاری ہوا تھا اور بعد کو پٹ گیا)۔

تحکیم

اب قریش نے بھی جان لیا تھا کہ عبدالمطلب نے پانی تک دسترس حاصل کر لی لہذا سب نے آکر کہا: ”ہمیں اس میں شریک کرو“۔

عبدالمطلب نے کہا: ”میں تو شریک کرنے والا نہیں، یہ امر میرے ہی ساتھ مخصوص ہے، تمہارا اس میں لگاؤ نہیں، اس معاملہ میں جسے چاہو ثالث مقرر کر لو کہ اس سے محاکمہ کریں اور وہ فیصلہ دے“۔

قریش نے کہا: ہذیم کہ قبیلہ بنی سعد کی کاہنہ ہے یہ کاہنہ مقام معان میں مقیم تھی جو شام کے نواح میں واقع ہے۔

آخر سب لوگ اس کے ہاں چلے۔ عبدالمطلب کی معیت میں اولاد عبدمناف سے بیس آدمی تھے اور قریش نے بھی اپنے قبائل میں سے بیس آدمی لئے تھے۔ شام کے راستہ میں جب یہ لوگ فقیر یا اس کے قریب تک پہنچے تو سب کے ہاں پانی کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا (فقیر ایک سوکھے نالے کے مخزن کا نام تھا جس میں کبھی پانی رہا ہوگا، مگر ان دنوں مدتوں سے خشک پڑا تھا)۔

تنگی کا غلبہ ہوا تو سب نے عبدالمطلب سے کہا: کیا رائے ہے؟ جواب دیا: یہ موت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک شخص اپنے لئے ایک ایک گڑھا (قبر) کھود رکھے، جب کوئی مرے تو ساتھ والے اسے دفن کر دیا کریں۔ حتیٰ کہ آخر میں صرف ایک شخص رہ جائے کہ اسے ضائع ہونے کی موت مرنا پڑے (یعنی مرنے کے بعد پیچھے کوئی اس کو قبر میں دفن کرنے والا نہ ہو)۔ یہ صورت اس سے آسان ہے کہ تم سب کے سب مر جاؤ (اور کوئی کسی کو دفن نہ کر سکے) سب لوگ (اسی رائے کے مطابق) وہیں ٹھہر گئے اور بیٹھ کے موت کا انتظار کرنے لگے۔

① غراب اعصم: وہ کوا جس کے دونوں پاؤں اور چونچ سرخ رنگ کے ہوں اور اس کے پروں میں کچھ سفیدی ہو اس زمانہ میں اسی رنگ کا ایک کوا مقام زمزم پر آکر بیٹھا تھا زمزم تو باقی نہ رہا تھا البتہ اس کی جگہ قریش قربانی کیا کرتے تھے اور اسی باعث سے وہ کوا وہاں سے ہٹا نہ تھا۔

سواری کے قدموں تلے پانی کا چشمہ

عبدال مطلب نے یہ دیکھ کے کہ سب کے سب موت کے منتظر بیٹھے ہیں لوگوں سے خطاب کیا: خدا کی قسم! خود کو اپنے ہاتھوں سے اس طرح تھمکے میں ڈالنا تو بڑی عاجزی و بے بسی کی بات ہے۔ ہم کیوں نہ چلیں پھر اس قدم بڑھائیں (بیٹھے کیوں رہیں؟) شاید اس علاقے میں کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں پانی عطا فرمائے۔ یہ سن کر سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ عبدال مطلب بھی اپنے سامان کے پاس آئے اور سوار ہو کر چلے۔ سواری چلی ہی تھی کہ اس کے سُم کے نیچے سے ایک چشمہ آب شیریں نمودار ہوا۔ عبدال مطلب اور ان کے ہمراہیوں نے کبیر کبی اور سب نے پانی پیا۔ قریش کے بھی افراد نے قبائل کو بلا کے کہا: ہلموا الی الماء الوّاع فقد سقانا اللہ (یہ لو آب زلال و صافی کہ خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیراب فرمایا ہے)۔ سب نے پانی پیا اور پلایا اور کہا: قد قضیٰ لك علينا، الذی سقاك هذا الماء بهذه القلاة هو الذی سقاك زم زم، فوالدر لا نخاصمك فيها ابدا (حقیقت یہ ہے کہ ہمارے خلاف تیرے حق میں فیصلہ ہو چکا جس نے اس دشت میں تجھے یہ پانی عطا فرما کے سیراب کیا ہے اسی نے آب زم زم بھی تجھے عنایت فرمایا ہے۔ خدا کی قسم ہم اس باب میں کبھی تجھ سے خصامت نہ کریں گے)۔

یہ سن کر عبدال مطلب نے مراجعت کی، ساتھ ہی وہ سب لوگ بھی واپس آئے۔ کاہنہ تک کوئی نہ گیا اور زم زم کو عبدال مطلب کے لئے چھوڑ دیا۔

بیٹے کی قربانی کی نذر

معتمر بن سلیمان التیمی کہتے ہیں: میں نے اپنے والد ابو بھلو سے روایت کرتے سنا کہ خواب میں کسی نے عبدال مطلب سے آ کے کہا: کھو۔ عبدال مطلب نے پوچھا: کہاں؟ جواب ملا: وہاں عبدال مطلب نے اس پر عمل نہ کیا تو پھر خواب میں آ کر ان سے کہا گیا: کھو۔ اس جگہ کھو جہاں گندگی ہے، جہاں دیمک ہے، جہاں قبیلہ خزاعہ کی نشست گاہ ہے۔

عبدال مطلب نے کھو تو ایک ہرن ملا، تھیار ملا اور بوسیدہ کپڑے ملے۔

قوم نے جب مال قیمت دیکھا تو ایسا معلوم ہوا کہ گویا عبدال مطلب سے لڑنا چاہتے ہیں۔ اس حالت میں عبدال مطلب نے منت مانی کہ اگر ان کے دس لڑکے ہوئے تو ایک کو قربان کریں گے۔

جب دسویں پیدا ہو چکے اور عبدال مطلب نے عبداللہ کو قربان کرنا چاہا تو قبیلہ بنی زہرہ نے روک دیا اور کہا: عبداللہ کے اور اتنے اونٹوں کے درمیان قرعہ ڈالو قرعہ ڈالو تو سات مرتبہ عبداللہ پر قرعہ پڑا اور ایک مرتبہ اونٹوں پر۔

سلیمان کہتے ہیں: میں نہیں جانتا کہ سات کی تعداد ابو بھلو نے کبھی تھی یا نہیں آخر کو یہ ہوا کہ عبدال مطلب نے عبداللہ کو تو رہنے دیا اور اونٹوں کی قربانی کی۔

یہاں تک تو ابو بھلو کی روایت تھی اب آگے پھر محمد بن عمرو کی روایت شروع ہوتی ہے۔

دُفن شدہ خزانے کی دریافت

محمد بن عمر کہتے ہیں جس وقت قبیلہ جرہم نے محسوس کیا کہ ملنے سے اب ان کو چلا جانا چاہئے تو ہرن سات قلعی تلواریں^① اور پانچ مکمل زر ہیں دُفن کر دیں تھیں جن کو عبدالمطلب نے برآمد کیا۔

عبدالمطلب کا شیوہ خدا پرستی تھا۔ ظلم و ستم و فسق و فجور کو اعظم المنکر ات سمجھتے تھے۔ انہوں نے دونوں غزال کہ سونے کے تھے کعبے کے سامنے چڑھا دیئے۔ تلواریں خانہ کعبہ کے دونوں دروازہس پر لٹکا دیں کہ خزانہ کعبہ محفوظ رہے اور کئی قفل سونے کا بنا کر لگا دیا۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: یہ غزال قبیلہ جرہم کا تھا، عبدالمطلب نے جب زم زم کی کھدائی شروع کی تو غزال (ہرن) اور قلعی تلواریں بھی (کھود کے) نکالیں۔ ان پر قدارح^② ڈالے تو سب کعبے کے لئے نکلیں، یہ سونے کی چیزیں تھیں جو کعبے کے دروازے پر چڑھا دیں مگر قریش کے تین شخصوں نے ایکا کر کے انہیں چرا لیا۔

باہمی اتفاق و اتحاد کا معاہدہ

ہشام بن محمد نے اپنے والد سے، عبدالمجید بن ابی عیس سے اور ابوالمقوم وغیرہم سے روایت کی ہے کہ ان سب نے بیان کیا کہ تمام قریش میں عبدالمطلب سب سے زیادہ خوش رُوسب سے زیادہ بلند وبالا، سب سے زیادہ بردبار (متحمل مزاج) سب سے زیادہ فیاض اور سب سے زیادہ ان مہلکات سے دور رہنے والے شخص تھے جو لوگوں کی حالت و حیثیت بگاڑ دیا کرتے ہیں کبھی ایسا اتفاق نہیں پیش آیا کسی بادشاہ نے انہیں دیکھ کے ان کی تعظیم و تکریم نہ کی ہو اور ان کی سفارش نہ مانی ہو وہ جب تک زندہ رہے قریش کے سردار بنے رہے، قبیلہ خزاعہ کے کچھ لوگوں نے آ کے ان سے کہا: نحن قوم متبادرون فی الدار ھلّم فلھا نعلک (ہم سب لوگ گھر کے اعتبار سے آپس میں ہمسایہ و ہم جوار ہیں یعنی آؤ مخالفہ یعنی باہمی امداد و نصرت کا عہد و پیمان کر لیں)۔

عبدالمطلب نے یہ درخواست قبول کر لی اور سات شخصوں کو لے کے چلے جو اولاد مطلب (ابن عبدمناف) و ارقم بن نعلہ بن ہاشم و ضحاک و عمرو فرزدان ابو صفی بن ہاشم تھے اس میں سے نہ تو فرزند ان عبد شمس میں سے کوئی شریک ہوا اور نہ نوفل کی اولاد میں سے کسی نے شرکت کی۔

عبدالمطلب اپنی جماعت کو لئے ہوئے دارالندوہ میں آئے۔ جہاں دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کی مدد و مواسات کے لئے عہد و پیمان کئے اور ایک عہد نامہ لکھ کے خانہ کعبہ میں لٹکا دیا۔

- ① قلعی تلواریں شیوف قلعیہ مبادیہ عرب میں ایک مقام مرج القلعة تھا جہاں کی تلواریں نہایت عمدہ تھیں، شمشیر قلعی اس مقام سے منسوب ہے۔
- ② قدارح، جمع قدح، قال دیکھنے اور شگون لینے کے لئے تیز جاہلیت عرب میں اس کا عام دستور تھا۔ اور اس طریقہ کو قدارح کہتے تھے۔ میسر جس کی تحریم کلام اللہ نے کی یہ رسم بھی اسی کی ایک قسم تھی۔

عبدالطلب اس باب میں کہتے ہیں:

سَادِمِيْ زَبِيْرَا اِنْ تَوَافَتْ مَنِيْتِيْ
بَامَسَاكٍ مَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ بَنِيْ عَمْرُو
”اگر میری موت آئی تو میں زبیر کو وصیت کر جاؤں گا کہ میرے اور فرزندان عمرو و خزاعی کے درمیان جو معاہدہ تھا وہ اس پر قائم رہے اور ٹوٹنے نہ دے۔“

وَاِنْ يَحْفَظُ الْحَلْفَ الَّذِيْ مَسِيْنُ شَحْنُهُ
وَلَا يَلْحَدُنْ فِيْهِ بِظُلْمٍ وَلَا عَذْرُ
”میں وصیت کر جاؤں گا کہ اس کے بزرگ نے جو عہد کیا ہے اس کی حفاظت کرے اور ایسا نہ ہو کہ کسی طرح کے ظلم و عذر کے باعث اس کی خلاف ورزی ہو۔“

هَمْ حَفَظُوْا لَّآلَ الْقَدِيْمِ وَحَالِفُوْا
اِبَاكَ فَكَانُوْا دُوْنَ قَوْمِكَ مِنْ فَهْرٍ
”اے زبیر! خاندان فہر کہ وہی تیری قوم والے ہیں ان سب میں سے یہی لوگ ہیں کہ انہوں نے پرانی قسم کی حفاظت کی اور تیرے باپ کے حلیف بنے۔“

اسی بنا پر عبدالطلب نے اپنے بیٹے زبیر بن عبدالطلب کو اس عہد و پیمان کی وصیت کی۔ زبیر نے ابوطالب سے اور ابوطالب نے یہی وصیت عباس بن عبدالطلب سے کی تھی۔

نبوت اور حکومت کی بشارت

منور بن حمرہ الزہری کہتے ہیں: عبدالطلب جب کبھی یمن جاتے تو قوم حمیر کے ایک سرگردہ کے ہاں فروکش ہوتے ایک مرتبہ کے نزول میں ایک یمنی سے وہیں ملاقات ہوئی، جو بہت ہی طویل العمر تھا اور اس نے (قدیم) کتابیں پڑھی تھیں۔ اس نے عبدالطلب سے کہا: تَاَذَنْ لِيْ اِنْ افْتَشَّ مَكَانًا مِنْكَ؟ (کیا تو مجھ کو اجازت دیتا ہے کہ تیرے جسم میں سے کوئی جگہ ٹٹولوں)۔ عبدالطلب نے جواب دیا: لَيْسَ كُلُّ مَكَانٍ مِّنِّيْ اِذْنٌ لِّكَ فِیْ تَفْتِشُهُ (میں تجھے ہر جگہ ٹٹولنے کی اجازت تو نہیں دے سکتا)۔

یمنی نے پھر کہا: اَنْتُمْ اَهْوُ مِنْخَرِيْكَ (وہ جگہ جو ٹٹولنی ہے صرف تیرے دونوں نتھنے ہیں)۔ عبدالطلب نے اجازت دی: فَدَوِّمَكَ (یہی بات ہے تو بسم اللہ)۔ یمنی نے عبدالطلب کے یار، یعنی نتھنوں کے بال دیکھے اور کہا: اری نبوة واری ملکاً و اری احدھما فی بنی زھرة (میں نبوت دیکھ رہا ہوں، ملک اور حکومت دیکھ رہا ہوں، مگر ان دونوں میں سے ایک چیز مجھے قبیلہ بنی زہرہ میں نظر آتی ہے)۔

عبدالطلب نے اس سفر سے واپس آ کے خود تو ہالہ بنت وہیب بن عبدمناف بن زہرہ سے نکاح کیا اور اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح آمنہ بنت وہب بن عبدمناف بن زہرہ سے کر دیا جن سے محمد رسول اللہ ﷺ پیدا ہوئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اولاد عبدالطلب کو نبوت و خلافت دونوں عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ (اس خاندان شریعت کے تقدس و عظمت کو) خوب جانتا ہے جہاں

اس سے یہ عطیہ عطا فرمایا ہے۔

خضاب

ہشام بن محمد اپنے والد سے بیان کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ان سے مدینہ کے ایک شخص نے جعفر بن عبد الرحمن بن المصور بن محرمہ سے روایت کی جو اپنے والد (عبد الرحمن بن المصور) سے راوی تھے۔ ان دونوں راویوں کا بیان یہ ہے کہ جس قریشی نے پہلے پہل وسمہ سے خضاب کیا وہ عبد المطلب بن ہاشم تھے (اصل کتاب میں بجائے عبد المطلب کے عبد المطلب بن ہاشم مرقوم ہے جسے خطائے مطبعی سمجھنا چاہئے)۔

واقعہ یہ ہے کہ عبد المطلب جب یمن جاتے تو ایک حمیری سردار کے گھر اترتے، عبد المطلب سے اس نے کہا: اگر تو ان سفید بالوں کا رنگ بدل دے تو پھر جوان نظر آئے۔

عبد المطلب نے اجازت دی تو اس حکم سے پہلے مہندی کا خضاب لگایا گیا۔ پھر اس پر وسمہ چڑھایا گیا۔ عبد المطلب نے کہا: ہمیں اس میں بطور زاد سفر کے تھوڑا خضاب دے دینا۔

میزبان نے بہت سا خضاب ان کے ساتھ کر دیا۔ شب میں وہ مکہ پہنچے اور دن میں باہر نکلے تو ان کے بال ایسے نظر آئے جیسے کوئے کے سیاہ پر ہوں۔ نعلیہ بنت خباب بن کلیب نے کہ عباس بن عبد المطلب کی ماں تھیں۔ یہ دیکھ کے کہا: خبیثہ الحمد! یہ اگر ہمیشہ رہ جائے تو خوبصورتی ہے۔ عبد المطلب نے جواب دیا:

ولو دام لی هذا السواد حمده
فكان بدیلا من شباب قد انصرم
”یہ سیاہی اگر میرے لیے ہمیشہ رہتی تو میں اس کی تعریف کرتا اور اس صورت میں یہ اس جوانی کا بدلہ ہوتی جو ختم ہو چکی ہے۔“

تمتعت منه والحياة قصيرة
ولا بد من موت نائلة اوهم
”میں نے اس سے فائدہ تو اٹھایا مگر زندگی تھوڑی ہے اور اے نعلیہ آخر کار مرنا یا بوڑھا ہونا ضروری ہے۔“

وماذا الذی یجد علی المر حفضه
ونعمة یوما اذا عرشه انهدم
”انسان کو اس کی فراخی و نعمت بھلا کیا نفع پہنچا سکتی ہے جبکہ ایک دن اس کے تخت کو منہدم ہونا ہی ہے۔“

فموت جھیز عاجل لاشوی له
احب الی من مقالهم حکم
”ان حالات میں لوگوں کی دانش آرائی سے زیادہ محبوب میرے نزدیک وہ موت ہے جو آراستہ ہو جلد آئے اور اس میں کسی قسم کی آسانی و سفلگی نہ ہو۔“

یہی واقعہ تھا جس کے بعد اہل مکہ سیاہ خضاب کرنے لگے۔

عبدالمطلب کے حق میں نفیل کا فیصلہ

محمد بن السائب الکھمی کہتے ہیں کہ مجھ سے دو شخصوں نے روایت کی ہے جن میں ایک تو قبیلہ بنی کنانہ کے ایک صاحب تھے جنہیں ابن ابی صالح کہتے تھے اور دوسرے ایک ذی علم تھے جو مقام رقد کے باشندے اور قبیلہ بنی اسد کے آزاد غلام تھے۔ ان دونوں صاحبوں کا بیان یہ ہے کہ عبدالمطلب بن ہاشم و حرب بن امیہ کے درمیان (سفر حبشہ کے دوران میں) منافرے کی ٹھہری اور دونوں نے نجاشی حبشی (بادشاہ حبشہ) کو حکم قرار دیا۔ لیکن اس نے بیچ میں پڑنے اور فیصلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ناچار نفیل بن عبد العزیٰ بن ریح بن عبد اللہ بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب کی جانب رجوع کرنا پڑا اور وہی حکم بنائے گئے لیکن انہوں نے حرب سے یہ کہا: اتنا فر رجلاً هو اطول منك قامه و اعظم منك هامه و اوسم منك وسامه، و اقل منك لامة، و اکثر منك و لدا و اجزل منك صفداً، و اطول منك مذوداً۔ (کیا تو ایسے شخص سے منافرہ کرتا ہے جو تجھ سے زیادہ بلند بالا ہے، تجھ سے زیادہ بڑے سرو والا ہے، تجھ سے زیادہ وجیہ ہے، موجبات ملامت و ہول و خوف میں تجھ سے بہت کم ہے، تجھ سے زیادہ کثیر الاولاد ہے، تجھ سے زیادہ جزیل الطاع و کریم و جواد ہے، تجھ سے زیادہ اس کی زبان لائی ہے؟)

نفیل نے بمقابلہ حرب کے عبدالمطلب کے حق میں فیصلہ کیا۔ اس پر حرب نے کہا: انّ من انتکات الزمان ان جعلناک حگماً (یہ زمانے کا نقص و ابرام ہے، یعنی خراب و فساد و نیرنگی روزگار کی یہ بھی ایک دلیل ہے کہ ہم نے تجھ کو حکم بنایا)۔ محمد بن السائب کہتے ہیں: جب تک منافرہ نہیں ہوا تھا نفیل بن عبد العزیٰ کو کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دادا تھے حکم نہیں بنایا تھا اس وقت تک عبدالمطلب ہی حرب بن امیہ کے ہم نشین و ہمدم تھے۔ جب نفیل نے عبدالمطلب کے حق میں فیصلہ کیا تو حرب و عبدالمطلب دونوں جدا ہو گئے اور حرب عبد اللہ بن جدعان کے ہمراز ہو گئے۔

طائف میں کامیابی

ابو مسکین کہتے ہیں: طائف میں ایک کنواں (یا چشمہ) عبدالمطلب کی ملکیت میں تھا۔ جسے ذوالہرم کہتے تھے یہ ایک زمانہ سے قبیلہ ثقیف کے قبضے میں تھا۔ عبدالمطلب نے مطالبہ کیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ جندب بن الحارث بن حبیب بن الحارث بن مالک بن حطیط بن بکشم بن ثقیف (ان دنوں) قبیلہ ثقیف کے سردار تھے جو منکر ہو گئے اور عبدالمطلب سے لڑنے لگے۔ دونوں کو منافرے کی ضرورت پڑی جس کے لئے کاہن بنی عذرہ منتخب ہوا کہ اس کو غڑی سلمہ کہتے تھے اور وہ شام میں رہتا تھا، منافرہ چند اونٹوں پر قرار پایا جو نامزد کر لئے گئے (یعنی شرط ہوئی کہ جیتنے والے کو اتنے اونٹ دیئے جائیں گے)۔ عبدالمطلب چند قریشیوں کو لے کر نکلے ساتھ میں حارث بن عبدالمطلب تھے کہ ان کے علاوہ عبدالمطلب کے ان دنوں

① اردو میں تو زبان درازی بڑے معنوں میں مستعمل ہے مگر عربوں کے محاورے میں زبان دراز اس شخص کو کہتے ہیں جو نہایت فصیح اللسان ہو۔

کوئی دوسرا اڑکا نہ تھا۔

جندب چلے تو ان کے ہمراہ ثقیف کے کچھ لوگ تھے۔

عبدالمطلب اور ان کے ساتھیوں کے پاس (راستہ میں) پانی ختم ہو گیا ثقیفیوں سے پانی مانگا تو انہوں نے نہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی عبدالمطلب کے اونٹ کے نیچے ان کے لئے ایک چشمہ جاری کر دیا۔ عبدالمطلب نے خدائے عزوجل کی حمد کی اور جان لیا کہ یہ اسی کا احسان و منت ہے۔ سب نے سیر ہو کے پانی پیا اور بقدر ضرورت لے لیا۔ ثقیفیوں کا بھی پانی ختم ہو گیا۔ عبدالمطلب سے التجا کی تو انہوں نے سب کو پانی پلوایا۔

کاہن کے پاس آئے تو انہوں نے عبدالمطلب کے حق میں فیصلہ کیا۔ عبدالمطلب نے شرط کے اونٹ لے کر ذبح کر کے اے ذوالہرم کو اپنے قبضے میں لے لیا اور واپس آئے۔ خدائے عبدالمطلب کو جندب پر اور عبدالمطلب کی قوم کو جندب کی قوم پر فضیلت بخشی۔

عبدالمطلب کی منت ”بیٹے کی قربانی“

ابن عباس رضی اللہ عنہما اور محمد بن ربیعہ الحارث وغیرہما سے روایت ہے کہ زمزم کھودنے میں عبدالمطلب نے جب اپنے مددگاروں کی قلت دیکھی تو تنہا کھودتے تھے اور صرف اپنے بیٹے حارث کو کہ وہی خلف اکبر تھے ان کے شریک حال ہے تو منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں پورے دس بیٹے دیئے حتیٰ کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو ایک کو قربانی چڑھائیں گے۔ جب دس کی تعداد پوری ہوئی تو باپ نے بیٹوں کو جمع کر کے اس منت کی اطلاع دی اور چاہا کہ اس نذر کو اللہ تعالیٰ کے لئے وفا کریں۔ ان بیٹوں کے نام حسب ذیل ہیں:

✽ الحارث بن عبدالمطلب

✽ الزبیر بن عبدالمطلب

✽ ابوطالب

✽ عبداللہ

✽ حمزہ

✽ ابولہب

✽ الخداع

✽ المقوم

✽ ضرار

✽ العباس

ان میں سے کسی نے بھی اختلاف نہ کیا سب نے وفائے نذر اور ان کے حسب خواہش عمل کرنے کی صلاح دی۔

عبدالمطلب نے کہا: اچھا تو تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے نام قدح میں لکھ کر ڈال دے۔

اس پر عمل ہو چکا تو عبدالمطلب نے خانہ کعبہ کے اندر آ کے سادون (پجاری) سے کہا: ان سب کو لے کے نام نکال۔

سادون نے نام نکالا تو سب سے پہلے عبد اللہ ہی کا نام نکلا جن سے عبدالمطلب کو خاص محبت تھیں۔ (بایں ہمہ) ذبح کرنے کی چھری لئے ہوئے عبدالمطلب ان کا ہاتھ پکڑے قربان گاہ کو چلے۔ لڑکیاں (یعنی عبد اللہ کی بہنیں) کہ وہیں کھڑی تھیں رونے لگیں اور ایک نے کہا: اس قربانی کے بدل کی تدبیر کر اور وہ یہ ہے کہ حرم میں جو تیری ساٹھ اونٹیاں ہیں ان پر سے پانے ڈال۔

عبدالمطلب نے سادون سے کہا: عبد اللہ پر اور دس اونٹوں پر پانے ڈال۔ سادون نے نام نکالا تو عبد اللہ کا نام نکلا۔

عبدالمطلب دس دس اونٹ بڑھاتے رہے تا آنکہ سو کی تعداد پوری ہو گئی اور اب نام نکالا تو قربانی کے لئے اونٹ کا نام نکلا۔ عبدالمطلب نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں نے بھی تکبیر کہی۔ عبدالمطلب کی لڑکیاں اپنے بھائی عبد اللہ کو لے گئیں اور اونٹوں کو لے کے عبدالمطلب نے صفا و مروہ کے درمیان قربانی کی۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: عبدالمطلب نے جب ان اونٹوں کی قربانی کی تو ہر ایک کے لئے ان کو چھوڑ دیا (یعنی جو چاہے گوشت کھائے روک نہ رکھی)۔ انسان یا درندہ یا طیور کوئی بھی ہو کسی کی ممانعت نہ کی البتہ نہ خود کھایا نہ ان کی اولاد میں سے کسی نے فائدہ اٹھایا۔

عمرہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں: ان دنوں دس اونٹوں کی دیت (خون بہا) ہوتی تھی (یعنی دستور تھا کہ ایک جانور کے بدلے دس اونٹ دیئے جائیں) عبدالمطلب پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایک جان کا بدلہ سواونٹ قرار دیا۔ جس کے بعد قریش اور عرب میں بھی یہ دستور ہو گیا اور رسول اللہ ﷺ نے بھی اس کو بحال خود برقرار رکھا۔

نبی صادق ﷺ کی بشارت اور قحط سالی کا خاتمہ

عبد الرحمن بن مہب بن رباح الاشعری قبیلہ بنی زہرہ کے حلیف تھے ان کے لڑکے سے ولید بن عبد اللہ بن جمیع الزہری روایت کرتے ہیں یہ لڑکا اپنے والد عبد الرحمن کے حوالے سے راوی ہے کہ مخرمہ بن نوفل الزہری کہتے تھے میں نے اپنی ماں رقیہ بنت ابی صغی بن ہاشم بن عبد مناف سے کہ عبدالمطلب کی لدہ^۱ (یعنی بھولی) تھیں۔ یہ روایت (مندرجہ ذیل) سنی ہے۔ رقیقہ مذکورہ بیان کرتی تھیں۔

قریش پر ایک مرتبہ ایسی خشک سالیاں گزریں جو مال و منال سب (اپنے ساتھ) لے گئیں اور جان پر آبنی میں نے

۱ لدہ بھولی لڑکا یا لڑکی جو کسی کے ہم عمر وہم سن ہو یعنی دونوں ایک ہی دن یا قریب قریب ایک ہی تاریخ میں پیدا ہوئے ہوں۔ اور دونوں کی تربیت و پرورش بھی ایک ہی ساتھ ہوئی ہو اس لفظ کا صیغہ شنیہ الدان اور جمع لدات و لدون ہے اسی کے مرادف لفظ ترب بھی ہے کہ وہ انہیں معنی میں مستعمل ہے۔

انہیں دونوں ایک شخص کو خواب میں کہتے سنا:

یا معشر قریش، اِنَّ هَذَا النَّبِیَّ الْمَبْعُوْثَ مِنْكُمْ وَ هَذَا اِیَّانَ خُرُوْجِهِ وَ بِهِ یَاتِیْکُمُ الْحِیَاءُ وَ الْخَصْبُ، فَانْظُرُوْا رِجَالًا مِنْ اَوْسَطِکُمْ نَسَبًا طَوَالَءَ عَظَامَا اَبِیْضٍ، مَقْرُوْنَ الْحَاجِبِیْنَ، اَهْدَبَ الْاَشْفَارِ، جَعْدًا سَهْلَ الْخَدَّیْنَ، رَفِیْقَ الْعَرْنِیْنَ، فَلِیُخْرِجَ هُوَ وَ جَمِیْعُ وَلَدِهِ وَ لِیُخْرِجَ مِنْکُمْ مِنْ کُلِّ بَطْنٍ رَجُلًا، فَنُطَهِّرُوْا وَ تُطِیْبُوْا، ثُمَّ اسْتَلَمُوْا الرِّکْنَ ثُمَّ اَرْقُوا رَاسَ اَبِی قَبِیْسٍ، ثُمَّ یَتَقَدَّمُ هَذَا الرَّجُلُ فِیَسْتَسْقِیْ وَ تَرْمِثُوْنَ، فَانْکُمُ سَتَسْقُوْنَ.

رہنمہ کو خواب میں جو بشارت ہوئی اس کا مفہوم یہ تھا:

یہ پیغمبر جو مبعوث ہونے والا ہے تم ہی لوگوں میں سے ہوگا۔ اس کے ظہور کا یہی زمانہ ہے اسی کے طفیل تمہیں فراخی و کشائش نصیب ہوگی۔ دیکھو! ایسا شخص تلاش کرو جو تم سب میں اوسط النسب یعنی نہایت شریف خاندان کا ہو، بلند بالا ہو، بڑا ہو، بھاری بھر کم ہو، سفید رنگ گورا چٹا ہو، اس کی بھویں جی ہوں، چلکیں دراز ہوں، گھونگھریا لے پال ہوں، رخسار بہت بھرے ہوئے ناک پتلی ہو (یا ناک کا بانسا پتلا ہو) وہ نکلے، اس کی اولاد نکلے اور تم میں سے ہر ایک گھرانے کا ایک ایک شخص نکلے سب کے سب طہارت کرو، خوشبوئیں لگاؤ، رکن حرم کو بوسہ دو، کوہ قبیس کی چوٹی پر چڑ جاؤ، وہ شخص آگے بڑھے استسقاء کے لئے دُعا کرے اور تم سب آمین کہو، ایسا کرو گے تو سیراب کئے جاؤ گے (یعنی دُعا قبول ہوگی اور بارانِ رحمت نازل ہوگی)۔

آنحضرت ﷺ اجتماع استسقاء میں

رہنمہ نے اس خواب کا واقعہ لوگوں سے بیان کیا سب نے دیکھا تو یہ صفت اور یہ حلیہ جو خواب میں بتایا گیا تھا کہ عبدالمطلب کا حلیہ تھا۔ سب لوگ انہیں کے پاس جمع ہو گئے۔ ہر گھرانے سے ایک ایک شخص نکلا، جو حکم ملا تھا بجالائے۔ پھر جبل ابوقیس پر چڑھ گئے۔ ساتھ میں رسول اللہ ﷺ بھی تھے کہ اس وقت لڑکے ہی تھے۔ عبدالمطلب آگے بڑھے اور دُعا کی:

اللّٰهُمَّ هٰؤُلَاءَ عِبِیْدُكَ وَ بَنُو عِبِیْدِكَ وَ اَمَآءُكَ وَ بَنَاتُ اَمَآئِكَ وَ قَدْ نَزَلَ بِنَا مَا تَرٰی وَ تَتَابَعْتَ عَلَیْنَا هٰذِهِ السَّنُوْنَ فَذَهَبَتْ بِالظَّلْفِ وَ الْخَفِّ وَ اشْفَتْ عَلٰی الْاَنْفُسِ فَادْهَبْ عَنَّا الْجَدْبَ وَ اِثْنَا بِالْحِیَا وَ الْخَصْبِ.

بارانِ رحمت کے لئے دُعا

یا اللہ! یہ تیرے بندے ہیں، یہ تیرے بندہ زادے ہیں، یہ تیری لونڈیاں ہیں، یہ تیری کنیز زادیاں ہیں، تو دیکھ رہا ہے کہ ہم پر کیا مصیبت نازل ہے، یہ خشک سالیاں ایسی پڑیں کہ اُن تمام جانوروں کو ہلاک کر دالا جو بچے اور سم رکھتے تھے اور اب تو جانوں پر آئی ہے۔ یا اللہ! ہم سے اس قحط کو دفع کر، ابر رحمت برسا اور فراخی عطا فرما۔

لوگ ہنوز واپس بھی نہ چلے تھے کہ اس قدر مینہ برسا، اتنی بارش ہوئی کہ وادیاں جاری ہو گئیں، نالے بہنے لگے، سیلاب

آگیا۔ رسول اللہ ﷺ کے طفیل میں ان سب کو سیرابی نصیب ہوئی۔ اسی ذیل میں رقیقہ بنت ابوصہی بن ہاشم بن عبد مناف کہتی ہیں:

بشیۃ الحمد اسقى الله بلدنا وقد فقدنا الحياء و اجلود المطر
”عبدالمطلب کے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے شہر کو سیراب کیا حالانکہ کیفیت یہ تھی ابر باران کو ہم کھوپچے تھے اور میںہ بسرعت روانہ ہو چکا تھا۔“

فجاء بالماء جوتی له سبیل دان فعاشت به الانعام والشجر
”آخر ایسے ابر تاریک نے پانی برسایا جو میںہ سے لبریز تھا اور اس بارش کے باعث حیوانات و نباتات جی اُٹھے۔“

منا من الله بالمیون طائره دُخیر من بُشرت یوما به مضر
”یہ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا اور اس بابرکت اور نیک طالع کے باعث یہ احسان ظہور پذیر ہوا جو ان سب لوگوں سے بہتر ہے جن کی کبھی قوم مضر کو بشارت ہوئی تھی۔“

مبارک الامر یستقی انعام به مافی الانام له عدل ولا خطر
”وہ کہ خود مبارک ہے اس کے امور مبارک ہیں اس کی بدولت باران رحمت نازل ہوتا ہے وہ بے نظیر ہے اور خلائق میں کوئی اس کا عدیل و ہم نہیں۔“

ابر ہہ کا قصہ

عثمان بن ابی سلیمان، عبدالرحمن بن ابیہمانی، عطار بن یسار، ابوزین العقیلی، مجاہد اور ابن عباس رضی اللہ عنہم جن کے بیانات آپس میں مخلوط ہو گئے روایت کرتے ہیں کہ نجاشی (فرماں روائے حبشہ) نے ابوصہم اریا کو چار ہزار فوج دے کے یمن بھیجا تھا۔ اریاط نے ملک تسخیر کر لیا، اہل ملک کو ذلیل کر ڈالا، ان پر غالب آ گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہوں کو محتاج بنا دیا اور اور فقیروں کی خوب تذلیل کی۔

جو حالات اس نتیجے سے مرتب ہوئے ان کی بنا پر حبشہ کا ایک شخص کہ اسے ابویکسوم ابرہہ الاشرم کہتے تھے اُٹھ کھڑا ہوا اور اہل یمن کو اپنی اطاعت کی دعوت دی۔ لوگوں نے یہ دعوت قبول کر لی تو اس نے اریاط کو مار ڈالا اور یمن پر متصرف ہو گیا۔

موسم حج کے دنوں میں ابرہہ نے دیکھا کہ لوگ حج بیت اللہ کا سامان کر رہے ہیں۔ پوچھا: یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟
جواب ملا: حج بیت اللہ کے لئے جکے جاتے ہیں۔

دریافت کیا: وہ (یعنی بیت اللہ) کس چیز سے بنایا گیا ہے؟

جواب ملا: پتھر سے۔

پھر پوچھا: اس کی پوشش کیا ہے؟

کہا: یہاں سے جو دھاری دار کپڑے جاتے ہیں وہی اس کی پوشش کے کام آتے ہیں۔
ابرہہ نے کہا: مسیح کی قسم تمہارے لئے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ آخر یہ عمارت اس نے تعمیر کر لی۔

نقلی کعبہ (کعبہ یمن)

ابرہہ نے اہل یمن کے لئے سفید و سرخ و زرد و سیاہ پتھروں کا ایک گھر بنایا جو سونے چاندی سے محلی اور جواہر سے مرتض تھا۔ اس میں کئی دروازے تھے جن میں سونے کے چتر اور زریں گل میخیں جڑی تھیں اور بیچ بیچ میں جواہر تھے اس مکان میں ایک بڑا سایا قوت احمر لگا ہوا تھا۔ پردے پڑے تھے عود مندلی (یعنی مقام مندلی) کا جو خوشبویات کے لئے مشہور تھا وہاں لوہاں اگر عود سلگاتے رہتے تھے دیواروں پر اس قدر مشک ملا جاتا تھا کہ سیاہ ہو جاتیں حتیٰ کہ جواہر بھی نظر نہ آتے۔
لوگوں کو اس مکان کے حج کرنے کا ابرہہ نے حکم دیا۔ اکثر قبائل عرب کئی سال تک اس کا حج کرتے رہے۔ عبادت و خدا پرستی و زہد پار سائی کے لئے متعدد اشخاص اس میں معتکف بھی تھے اور مناسک یہیں ادا کرتے تھے۔

نقلی کعبہ کا حشر

نفیل النشمی نے نیت کر رکھی تھی کہ اس عبادت خانے سے متعلق کوئی مکروہ حرکت کرے گا۔ اس میں ایک زمانہ گزر گیا، آخر ایک شب میں جب اس نے کسی کو جنبش کرتے نہ دیکھا تو اٹھ کے نجاست و غلاظت اٹھالایا صومعہ کے قبیلے کو اس سے آلودہ کر دیا اور بہت سی گندگی جمع کر کے اس میں ڈال دی۔
ابرہہ کو اس کی خبر ملی تو سخت غضب ناک ہوا اور کہنے لگا: عرب نے فقط اپنے گھر (کعبۃ اللہ) کے لئے غضب میں آ کر یہ کارروائی کی ہے۔ میں اس کو ڈھاؤں گا۔ اور ایک ایک پتھر توڑ ڈالوں گا۔

ابرہہ کا حرم پر حملہ

نجاشی کو ابرہہ نے لکھ کے اس واقعہ کی اطلاع دی اور اس سے درخواست کی کہ اپنا ہاتھی جس کا نام محمود تھا بھیج دے۔ یہ ہاتھی ایسا تھا کہ عظمت و جسامت و قوت کے لحاظ سے روئے زمین پر کسی نے اس کی نظیر نہ دیکھی تھی نجاشی نے اسے ابرہہ کے پاس بھیج دیا۔

جب ہاتھی آ گیا تو ابرہہ لوگوں کو لے کے نکلا (یعنی فوج لے کر مکہ مشرفہ پر چڑھائی کر دی)۔ ساتھ میں خمیر کے بادشاہ اور نفیل بن حبیب النشمی بھی تھے۔ حرم کے قریب پہنچے تو ابرہہ نے فوجوں کو حکم دیا کہ لوگوں کے بھیڑ بکریاں (وغیرہ) لوٹ لیں اس حکم کے مطابق سپاہیوں نے چھاپہ مارا اور عبدالمطلب کے کچھ اونٹ پکڑ لئے۔

ابرہہ سے عبدالمطلب کی ملاقات

نفیل عبدالمطلب کا دوست تھا، اونٹوں کی نسبت عبدالمطلب نے اس سے گفتگو کی تو اس نے ابرہہ سے عرض کیا: اے بادشاہ! تیرے حضور میں ایسا شخص آیا ہے جو تمام عرب کا سردار، فضل و عظمت و شرف میں سب پر فائق ہے۔ لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑوں پر سوار کراتا ہے۔ عطیات دیتا ہے، کھانے کھلاتا ہے اور جب تک ہوا چلتی ہے (یعنی علی الدوام) یہی اس کا وتیرہ و تشبہ ہے۔

نفیل نے اس تقریب کے ساتھ عبدالمطلب کو ابرہہ کے حضور میں پیش کیا اس نے عرض دریافت کی تو کہا: ترد علی ابلی (غرض یہ ہے کہ میرے اونٹ مجھے واپس مل جائیں)۔

ابرہہ نے کہا: مادری ما بلغنی عنک الا الغرور و قد ظننتُ انک تلکمنی فی بینکم هذا الذی صوشر فکم (میری رائے میں تیرے متعلق جو اطلاع مجھے ملی وہ محض دھوکے پر مبنی تھی میں تو اس گمان میں تھا کہ تو مجھ سے اپنے اس گھر کے متعلق گفتگو کرے گا جس کے ساتھ تم سب کی عزت و شرف وابستہ ہے)۔

عبدالمطلب نے جواب دیا: اردد علی ابلی، و دونک و البیت، فان له رباً سیمنعه (تو مجھے میرے اونٹ واپس دے، بیت اللہ کے ساتھ جو چاہے کر کیونکہ واقعہ یہ ہے کہ اس گھر کا ایک پروردگار ہے وہ خود ہی عنقریب اس کی حفاظت کرے گا)۔ ابرہہ نے حکم دیا کہ عبدالمطلب کے اونٹ واپس دے دیئے جائیں۔ جب اونٹ مل گئے تو عبدالمطلب نے ان کے سموں^۱ پر چڑے چڑھا دیئے، ان پر نشان کر دیئے۔ ان کو قربانی کے لئے مخصوص کر کے حرم میں چھوڑ دیا کہ انہیں پکڑیں گے تو پروردگار حرم غضب ناک ہوگا۔

عبدالمطلب کی دُعا

عبدالمطلب حراء پر چڑھ گئے، ساتھ میں عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم مطعم بن عدی اور ابو مسعود ثقفی تھے، عبدالمطلب نے اس موقع پر جناب الہی میں عرض کی:

اللهم ان المرء يمنع رَحْلَهُ فامنع حلالك

”یا اللہ انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے متاع و سامان کعبے کی حفاظت کر۔“

لا یغلبن صلیہم و محالہم غسدوا محالک

”اور ان کی صلیبیں اور ان کے فریب و حیلے تیری قوت پر قدرت پر غالب نہیں آسکتے۔“

① اونٹ کے سموں پر چڑے چڑھانا علامت بنا دینا یہ ان کی تقدیس کی نشانیاں تھیں کہ لوگ سمجھ جائیں یہ قربانی کے اونٹ ہیں اور خدا سے عز و جل سے تعلق رکھتے ہیں۔

إِنْ كُنْتَ تَارِكُهُمْ وَ قَبْلَتَنَا فَاْمُرْ مَا بَدَا لَكَ
 ”اگر تو انہیں چھوڑ دینے والا ہے کہ ہمارے قبیلے کے ساتھ جو چاہیں کریں تو تجھ کو اختیار ہے۔“

اصحابِ فیل کا عبرتناک انجام

سمندر سے چڑیوں کے غول آگے بڑھے ہر ایک چڑیا تین تین مگر یزے لئے ہوئے تھی دو دو دونوں پاؤں میں اور ایک چونچ میں یہ پتھر چڑیوں نے ان پر گرانے شروع کئے جس چیز تک یہ پتھر پہنچتے ان کو توڑ پھوڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے اور اس جگہ دانے نکل آتے یہ پہلی بیماری چچک تھی جو ظہور پذیر ہوئی جتنے تلخ درخت تھے (یا جن کے پھل کڑے تھے) ان پتھروں نے سب کی بچ کئی کر ڈالی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک سیلاب آیا جو ان سب کو بہا کر لے گیا اور سمندر میں ڈال دیا۔
 ابرہہ اور جتنے لوگ اس کے ساتھ باقی رہ گئے تھے سب کے سب بھاگ نکلے ابرہہ کا ایک عضو جسم سے کٹ کٹ کر گرنا جاتا تھا۔

نجاشی کا ہاتھی فیل محمود رک گیا تھا اس نے یہ دلیری و جرأت نہ کی کہ حرم پر حملہ کرتا۔ اس لئے بچ گیا۔ لیکن دوسرے ہاتھی نے یہ گستاخی کی تھی سنگبار ہو گیا یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک دونہیں بلکہ تیرہ ہاتھی تھے۔
 اب حراء سے عبدالمطلب نیچے اتر آئے حبشہ کے دو شخصوں نے حاضر ہو کے ان کے سر کو بوسہ دیا اور عرض کی: انت کنت اعلم (تو خوب جانتا تھا)۔

اولاد عبدالمطلب

محمد بن السائب کہتے ہیں عبدالمطلب کے بارہ لڑکے اور چھ لڑکیاں پیدا ہوئیں:

✽ حارث یہ عبدالمطلب کے سب سے بڑے لڑکے تھے انہیں کے نام سے وہ اپنی کنیت کرتے تھے یعنی ابو الحارث یہ اپنے باپ (عبدالمطلب) کی زندگی ہی میں انتقال کر گئے تھے۔ ان کی والدہ صفیہ تھیں بنت جنید بنت بن حجر بن زباب بن جلیب بن سواۃ بن عامر بن صعصعہ۔

✽ عبد اللہ جو رسول اللہ ﷺ کے والد تھے۔

✽ زبیر جو ایک شریف شاعر تھے عبدالمطلب نے انہیں کو وصیت کی تھی (یعنی اپنا وصی انہیں کو بنایا تھا)۔

✽ ابوطالب جن کا نام عبد مناف اور عبد الکعبہ تھا لا ولد انتقال کر گئے۔

✽ الف: ام حکیم جن کا نام البیضاء تھا۔

① ابوطالب لا ولد نہ تھے ان کی اولاد آج تک باقی ہے چنانچہ اس فصل کے آخر میں خود مصنف نے بھی یہی لکھا ہے غالباً یہ سونپٹی ہوگا۔

ب: عاتکہ

ج: بڑہ

د: امیہ

ه: اروی۔ ان سب کی والدہ فاطمہ تھیں؛ بنت عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم بن یقطہ بن مرہ بن کعب بن لؤی۔

حمزہ رضی اللہ عنہ کہ شیر خدا و شیر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ غزوہ بدر میں شریک تھے اور احد میں شہید ہوئے۔

المقوم۔

حجل جن کا نام مغیرہ تھا۔

صفیہ ان سب کی ماں ہالہ تھیں؛ بنت وہیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب اور ہالہ کی ماں عیلہ تھیں؛ بنت المطلب بن عبد مناف بن قصی۔

عباس رضی اللہ عنہ ایک شریف و دانشمند اور بیت والے و زعب والے بزرگ تھے۔

ضرار کہ از روئے جمال و سخاوت نو جوانان قریش میں ممتاز تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی ہے انہیں دنوں وہ لا ولد انتقال کر گئے۔

قسم بن عبد المطلب، یہ بھی لا ولد تھے؛ ان سب کی ماں عیلہ تھیں؛ بنت جناب بن کلیب بن مالک بن عمرو بن عامر بن زید مناة بن عامر کہ وہی ضحیان تھے ابن سعد بن الخزرج بن تیم اللہ بن المضر بن قاسط بن مہب بن اقصیٰ بن دعی بن جدیلہ بن اسد بن ربیعہ بن نزار بن معد بن عدنان۔

ابولہب بن عبد المطلب جن کا نام عبد العزیٰ تھا اور ابو عتبہ ان کی کنیت تھی، حسن و جمال کے باعث عبد المطلب نے ابولہب ان کی کنیت رکھی تھی؛ فیاض آدمی تھے ان کی ماں لہی تھیں؛ بنت حاجر بن عبد مناف بن ضاطر بن حبشیہ بن سلول بن کعب بن عمرو کہ قبیلہ خزاعہ کے تھے۔ لہی کی ماں ہند تھیں؛ بنت عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ اور ہند کی ماں سوداء تھیں؛ بنت ہرہ بن کلاب۔

الغیداق بن عبد المطلب جن کا نام مصعب تھا؛ ان کی ماں مہنہ تھیں۔ بنت عمرو بن مالک بن مؤل بن سؤید بن اسعد بن مشعو بن عبد بن حمر بن عدی بن سلول بن کعب بن عمرو کہ قبیلہ خزاعہ کے تھے اور انہیں کے ماں جائے بھائی عوف تھے ابن عبد عوف بن عبد بن الحارث ابن نہرہ، یہی عوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے والد تھے۔

کلی کہتے ہیں کہ تمام عرب میں فرزند ان عبد المطلب کی طرح کسی ایک باپ کی اولاد بھی نہ تھی اور نہ کوئی ایسا تھا جو ان سے زیادہ شریف و جسیم و بلند بینی روشن پیشانی ہو۔ فرہ بن حجل بن عبد المطلب انہیں کے متعلق کہتے ہیں:

اعدد ضراراً عددت فہی ندأ واللیث حمزة و اعدد العباسا

”اگر کسی فیاض نو جوان کا شمار کرنا ہے تو ضرار کو شمار کر، شیر مرد حمزہ کو شمار کر اور عباس کو شمار کر۔“

وعد زبيراً والمقوم بعده والصتم حجلاً و الفتى الرأس
”زبير کو اور اس کے بعد مقوم کو حجل کو شمار کر جو نو جوان سردار ہے۔“

والقرم عيدناً وعد حجا حجا سادوا على رغم العدو الناسا
”بہادر غیداق کو شمار کر کہ یہ سب عظمائے قوم ہیں اور برغم دشمن ان کو سب کی سرداری حاصل ہو چکی ہے۔“
والحارث الفياض ولّى ماجدا أيام نازعه الهمام الكاسا
”فياض حارث کو شمار کر جو ایسا بہادر تھا کہ جام مرگ پینے کے دنوں میں اس نے دنیا سے مجد و شرف کے ساتھ منہ موڑا۔“

ما في الانام عُمومة كعمومتي خيراً و لا كاناسنا أناسا
”جیسے بچا میرے ہیں تمام مخلوق میں ویسے اچھے بچا کسی کے نہیں اور نہ جیسے لوگ ہم میں ہیں ویسے کسی خاندان میں ہیں۔“

فرزدان عبدالمطلب میں عباس، ابوطالب، حارث، ابولہب کی اولاد تو چلی اور اگرچہ حمزہ، مقوم، زبير اور حجل کی صلیبی اولاد بھی تھی مگر سب کا خاتمہ ہو گیا اور باقی جتنے تھے سب لا ولد رہے۔
بنی ہاشم میں کثرت تعداد پہلے تو حارث بن عبدالمطلب کی اولاد میں رہی پھر ابوطالب کی اولاد میں منتقل ہو گئی۔ لیکن آخر بنی عباس میں یہ کثرت آ گئی۔



عبداللہ کا نکاح آمنہ سے

اُمّ النبی ﷺ

مسور بن مخرمہ اور ابو جعفر محمد بن علی بن الحسینؑ کہتے ہیں: آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب اپنے بیٹے پچا وہیب بن عبد مناف بن زہرہ کی تربیت میں تھیں۔ عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی اپنے بیٹے عبداللہ (ابو النبی ﷺ) کو لے کے ان کے ہاں گئے اور عبداللہ کے لئے آمنہ بنت وہب کی خواستگاری کی۔ چنانچہ نکاح ہو گیا۔

اسی مجلس میں خود اپنے لئے عبدالمطلب بن ہاشم نے وہیب کی بیٹی ہالد کی خواستگاری کی اور یہ نکاح بھی ہو گیا، یہ دونوں عقد یعنی عبداللہ بن عبدالمطلب اور عبدالمطلب بن ہاشم کے ازدواج ایک ہی مجلس اور ایک ہی نشست میں ہوئے۔ ہالد بنت وہیب کے بطن سے حمزہ پیدا ہوئے جو نسب میں تو رسول اللہ ﷺ کے چچا تھے مگر سن و عمر میں آنحضرت ﷺ کے رضاعی بھائی تھے۔

محمد بن السائب اور ابو الغیاث نخعمی کہتے ہیں: عبداللہ بن عبدالمطلب نے جب آمنہ بنت وہب سے نکاح کیا تو وہیں تین دن بسر کئے، ان لوگوں میں یہ قاعدہ تھا کہ نکاح کے بعد بیوی کے پاس جاتے تو تین دن تک اسی گھر میں رہتے۔

قیلہ بنت نوفل کی طرف سے پیشکش:

اس باب میں جو روایتیں اور خبریں ہم کو ملی ہیں ان میں اختلاف ہے کوئی تو کہتا ہے کہ وہ عورت ورقہ بن نوفل کی بہن قیلہ تھیں، بنت نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی اور کوئی کہتا ہے فاطمہ بنت مزیٰ نعمیہ تھی۔

عروہ و شیخ بن زبیر، محمد بن صفوان و شیخ اور سعید بن جبیر کہتے ہیں: یہ عورت (جس نے اپنے آپ کو رسول اللہ ﷺ کے والد عبداللہ بن عبدالمطلب پر پیش کیا تھا) ورقہ بنت نوفل کی بہن قیلہ بنت نوفل تھی وہ دیکھ کے اپنے لئے بڑ (شوہر) پسند کرتی تھی۔ ❶

عبداللہ بن عبدالمطلب (ایک دن اتفاقاً) قیلہ کے پاس سے گزرے اس نے اپنی ذات سے انہیں تمتع حاصل کرنے کے لئے بلایا اور ان کا کتارہ دامن پکڑ لیا۔ عبداللہ نے انکار کیا کہ مجھے واپس آ جانے دے۔ وہاں سے جلدی نکل کے آمنہ بنت وہب کے پاس آئے اور ان سے ملے چنانچہ حمل ٹھہر گیا۔ رسول اللہ ﷺ کی ذات پاک کا بطن میں استقرار ہوا۔ بعد کو اس عورت

❶ اصل میں ہے کانت حطر و تحاف اعیاف کے لغوی معنی اپنی پسند سے زاد و توشہ حاصل کرنے کے ہیں۔ لیکن محاورے میں اس کا وہی مفہوم ہے جو مذکور

کے پاس لوٹے تو اس کو منتظر پایا۔

پوچھا: تو نے مجھ پر جو پیش کیا تھا آیا اس پر راضی ہے؟

اس نے کہا: نہیں! تو یہاں سے گزرا تھا تو تیرے چہرے میں ایک نور چمک رہا تھا۔ اب واپس آیا ہے تو وہ نور نثار دے۔ بعض لوگ بجائے اس کے یہ روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ نے (عبداللہ سے) کہا: جس طرح گھوڑے کی پیشانی چمکتی ہے اسی طرح جب تو یہاں سے گزرا تھا تو تیری دونوں آنکھوں کے درمیان چمک تھی۔ ایک تابندگی درخشاں تھی اب جو واپس آیا ہے تو چہرے میں وہ بات نہیں۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: جس عورت نے عبداللہ بن عبدالمطلب پر جو بات پیش کی تھی وہ ورقہ بن نوفل کی بہن اور خاندان اسد بن عبد العزیٰ کی ایک عورت تھی۔

فاطمہ بنت مَر کی تمنا:

ابوالغیاض اٹھمی کہتے ہیں: عبداللہ بن عبدالمطلب قبیلہ نضعم کی ایک عورت کے پاس سے گزرے جسے فاطمہ بنت مَر کہتے تھے۔ یہ بہت ہی نوخیز و نوجوان و باعصمت و عقیف و پاکدامن عورت تھی اور اس نے کتابیں بھی پڑھی تھیں۔ نوجوانان قریش میں اس کے چرچے تھے۔ عبداللہ کے چہرے میں اس کو نور نبوت نظر آیا تو پوچھا: تو کون ہے؟ عبداللہ نے حقیقت بیان کی تو کہا: کیا تو مجھ سے متمتع ہونے پر راضی ہے؟ میں تجھے سواونٹ دوں گی۔ عبداللہ نے اس کی طرف دیکھ کے کہا:

اما الحرام فالموت دونے والحِلُّ لاجل فاستبینہ

”دفعل حرام تو ممکن نہیں بجائے اس کے مر جانا قبول ہے اور حلال کی کوئی صورت نہیں کہ اس کی تکمیل نکلے۔“

فکف بالامر الذی تنوینہ

”پھر وہ امر کیونکر ہو جو تیری نیت ہے۔“

عبداللہ اس کے بعد آمنہ بنت وہب کے پاس جا کے رہے۔ پھر جو (فاطمہ) نضعمیہ اور اس کے حسن و جمال کا خیال آیا کہ اس نے ان پر کیا بات پیش کی تھی تو اس کے پاس آئے مگر اب کے مرتبہ اس کی وہ توجہ نہ دیکھی جو پہلی بار دیکھی تھی۔ پوچھا: تو نے جو مجھ سے کہا تھا کیا اس پر اب بھی راضی ہے؟

فاطمہ نے جواب دیا: قد کان ذاک مرة فالیوم لا۔ وہ ایک مرتبہ کی بات تھی اب نہیں۔ یہ مقولہ اس وقت سے ضرب الملش مشہور ہو گیا۔

اس نے یہ بھی پوچھا: میرے بعد تو نے کیا کیا؟

عبداللہ نے کہا: میں اپنی بیوی آمنہ بنت وہب سے ملا۔

اس نے کہا: خدا کی قسم میں ایسی عورت نہیں جس کے چال چلن میں شک و شبہ کی گنجائش ہو۔ بات یہ ہے کہ میں نے تیرے چہرے میں دیکھا کہ نور نبوت چمک رہا ہے چاہا تھا کہ یہ نور مجھ میں آجائے مگر خدا نے نہ چاہا اور اس نے وہیں منتقل کر دیا جہاں ہونا تھا۔

فاطمہ نے عبداللہ پر جو پیش کیا تھا اور عبداللہ نے اس سے انکار کیا تھا۔ نو جوانان قریش کو بھی اس کی خبر ملی انہوں نے اس سے تذکرہ کیا تو اس نے کہا:

الٰہی رایت مخيلة عرضت فتلا لآت بحنائم القطر
”میں نے دیکھا کہ ایک گھٹاسا منے ہے جو تیرہ دتار (یعنی بابرکت ابر باران) سے روشن ہو گئی ہے۔“

فلما نھا نور یضی لہ ماحولہ کاضاء الفجر
”اس کے پانی میں ایک ایسا نور ہے جس سے اس کے ارد گرد اسی طرح روشنی ہو رہی ہے جس طرح صبح صادق کی روشنی ہوتی ہے۔“

و رایتہ شرفاً ابوع بہ ماکل قادح زندہ یوری
”میں نے دیکھا کہ یہ ایک ایسی عزت ہے جو مجھے حاصل کرنی چاہیے لیکن ہر شخص جو چھاق جھاڑتا ہے ضروری نہیں کہ وہ کامیاب ہی ہو۔“

للہ مارہریۃ سلبت ثوبیک ما استلبت وما قدری
”قبیلہ بن زہرہ کی وہ خاتون کیسی خوش نصیب ہے جس نے اے عبداللہ تجھ سے یہ دولت حاصل کر لی اور تجھے خبر تک نہ ہوئی۔“

اسی سلسلہ میں اس نے یہ بھی کہا:

بنی ہاشم قد غادرت من اخیکم امینۃ اذللہا یعنلجان
”اے بنی ہاشم تمہیں خبر بھی ہے تمہارے بھائی کا نور وضوء چھوٹی سی آمنتہ نے اس سے لے لیا۔“

کما غادر المصباح بعد خبوءہ فتائل قد میث لہ بدھان
”اس کی مثال ایسی ہے جس طرح چراغ کے بجھ جانے کے بعد بیتیاں اس کے روغن میں تر رہتی ہیں۔“

وما کل ما یحوی الفتی من تلادہ بخرم ولا فائۃ لسوان
”انسان جو کسی متاع کہن پر حاوی ہو جائے تو یہ ہمیشہ اس کے حزم و دور اندیشی کا نتیجہ نہیں سمجھنا چاہیے اور جو بات اس سے رہ گئی اس کو اس کی سستی و غفلت ہی پر محمول نہ کرنا چاہئے۔“

فاحبل اذا طالب امرًا فانۃ سیکفیکہ جدن ایصطرعان
”جب تو کسی امر کا طلبگار ہو تو اس میں خوبی اور خوش اسلوبی کو ملحوظ رکھ کہ دو باہم آویز نصیبوں کے نتائج تجھے

کفایت کریں گے۔“

سَيَكْفِيكَ اَمَّا يَدُ مَقْصَعَلَهُ وَاَمَّا يَدُ مَبْسُوطَةٍ بَيْنَ
”جو مٹھی بند ہے یا جو ہاتھ کھلے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی تیرے لئے کافی ہوگا اور عنقریب کافی ہوگا۔“

وَلَمَّا قَضَتْ مِنْهُ اَمِيْنَةً مَا قَضَتْ بَنَاتُ بَصْرَى عَنْهُ وَكُلُّ لِسَانِي
”چھوٹی سی آمنہ نے جب فراغت حاصل کر لی تو پھر اس نوجوان کی جانب سے میری بصارت کند اور زبان گونگی ہو گئی، یعنی اس واقعہ کے بعد اس کی طرف مجھ کو رغبت نہیں رہی۔“

ابو یزید مدنی کہتے ہیں: مجھے خبر دی گئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے والد عبد اللہ قبیلہ خثعم کی ایک عورت کے پاس سے گزرے جس نے کہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک ایسا نور تاباں ہے کہ اس کی چمک آسمان تک پہنچی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کے اس نے عبد اللہ سے کہا: هَلْ لَكَ فِي (آیا تو مجھ سے تمنع اٹھانے میں راغب ہے؟) عبد اللہ نے کہا: نعم حتی ارمي الجمرة (ہاں مگر میں پہلے رمی جمرات کر لوں)۔

عبد اللہ نے یہ کہہ کے رمی جمرات کے مناسک ادا کئے، پھر اپنی بیوی آمنہ بنت وہب کے پاس گئے۔ پھر وہ خثعمیہ عورت یاد آئی تو وہاں پہنچے۔ اس نے پوچھا: هل اتيت امرأة بعدى (کیا میرے بعد تو کسی عورت کے پاس گیا ہے؟) عبد اللہ نے کہا: نعم امرأتی آمنہ بنت وہب (ہاں اپنی بیوی آمنہ بنت وہب کے پاس)۔ خثعمیہ نے کہا: فلاحاجة لي فيك انك مروت و بين عينك نور ساطع الى لسماء فلما وقعت عليها وهب، فاخبرها انها حملت خير اهل الارض. (اب مجھے تیری ضرورت نہیں جب تو یہاں سے گزرا تھا تو تیری دونوں آنکھوں کے درمیان ایک نور تاباں تھا۔ جب اس سے ملا تو نور جاتا رہا۔ اس کو اطلاع دیدے کہ وہ بہترین اہل زمین کی حاملہ ہے)۔

آنحضرت ﷺ مآدر میں:

یزید بن عبد اللہ بن وہب بن زعد اپنی پھوپھی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتی تھیں۔ ہم لوگ سنا کرتے تھے کہ آمنہ بنت وہب جب رسول اللہ ﷺ کی حاملہ ہوئیں تو وہ کہتی تھیں: مجھے یہ محسوس ہی نہ ہوا کہ میں حاملہ ہوں نہ ویسی گرانی کا احساس ہوا جیسی عورتوں کو ہوا کرتی ہے۔ البتہ نئی بات ایام کی بندش تھی وہ بھی گاہے بند ہو جاتے گاہے عود کر آتے۔

ایک مرتبہ میں سوتے جاگتے کی درمیانی حالت میں تھی کہ ایک آنے والے نے آ کے مجھ سے کہا: تو نے محسوس بھی کیا کہ تو حاملہ ہے؟ میں نے گویا اس کا جواب دیا: میں کیا جانوں۔ اس نے کہا: تو اس اُمت کے سردار اور پیغمبر کی حاملہ ہے اور یہ واقعہ یعنی استقرار حمل دوشنبہ کو ہوا ہے۔

آمنہ کہتی ہیں کہ یہی بات تھی جس نے مجھ کو حمل کا یقین دلایا۔ پھر ایک زمانہ تک سکوت رہا۔ تا آنکہ ولادت کا وقت قریب آیا تو وہی پھر آیا اور اس نے کہا کہ: اُعِيْذُ بِالْضَمْدِ وَالْوَاحِدِ مِنْ شَرِّ كُلِّ حَاسِدٍ (میں ہر ایک حاسد کے شر سے اس بچے کے لئے خدائے واحد و صمد سے پناہ مانگتی ہوں)۔

آمنہ کہتی ہیں: میں (اس تعلیم کے مطابق) یہی کہا کرتی تھی، عورتوں سے تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا: اپنے دونوں بازوؤں اور گلے میں لوہا لٹکا لے، لوہا لٹکا تو لیا مگر چند ہی روز لٹکار ہا پھر میں نے اس کو کٹا ہوا پایا۔ تو پھر نہ لٹکایا۔
زہری کہتے ہیں: آمنہ کہتی تھیں کہ میں حاملہ ہوئی تو وضع حمل تک کسی قسم کی مشقت نہ پائی۔
اسحاق بن عبد اللہ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ کی والدہ کہتی تھیں کہ بارہا میں حاملہ ہوئی میرے لڑکے ہوتے لیکن اس سے زیادہ بھیڑ بکریوں کا کوئی بچہ بھاری نہ رہا ہوگا۔

محمد بن عمرو الاسلمی کہتے ہیں: یہ قول (یعنی اسحاق بن عبد اللہ کا بیان مذکور الصدر) من جملہ ان باتوں کے ہے جو ہمارے نزدیک مجہول ہیں اور اہل علم اس سے واقف نہیں۔ آمنہ بنت وہب اور عبد اللہ بن عبد المطلب کے بجز رسول اللہ ﷺ کے کوئی دوسرا لڑکا ہی نہیں ہوا۔

ابو جعفر محمد بن علی کہتے ہیں: آمنہ رسول اللہ ﷺ کی حاملہ ہی تھیں کہ انہیں حکم ملا احمد نام رکھنا۔

عبد اللہ کی وفات:

محمد بن کعب اور ایوب بن عبد الرحمن بن ابی صصعہ کہتے ہیں: قریش کے ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ کہ ملک شام میں تجارت کے لئے جا رہا تھا۔ عبد اللہ بن عبد المطلب بھی نکلے اور غزہ تک گئے۔ اہل قافلہ تجارت سے فارغ ہو کے واپس ہوئے تو مدینے سے گزرے۔ عبد اللہ اس وقت بیمار تھے۔ کہا کہ میں اپنے ننھیال بنی عدی بن النجار کے لوگوں میں رہ جاتا ہوں، وہاں وہ ایک مہینے تک ٹھہرے اور لوگ چلے گئے اور مکہ پہنچے۔ عبد المطلب نے عبد اللہ کی نسبت دریافت کیا تو کہا: وہ بیمار تھے، ہم انہیں ان کے ننھیال یعنی خاندان عدی بن النجار میں چھوڑ آئے۔

عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو بھیجا۔ تو عبد اللہ وفات پا چکے تھے۔ اور نابغہ کے گھر میں دفن ہوئے تھے۔ نابغہ عدی بن النجار کے ایک فرد تھے اور ان کا گھر (جس میں عبد اللہ دفن ہوئے) وہ ہے کہ جب تم اس محلہ میں داخل ہو گئے تو تمہارے بائیں جانب ایک چھوٹی سی عمارت پڑے گی ①

ننھیال والوں نے حارث سے عبد اللہ کی بیماری، ان کی تریض و تیمار داری کی کیفیت بیان کی اور کہا کہ ہم انہیں دفن کر چکے۔ حارث یہ سن کر واپس آئے۔ عبد المطلب کو اس واقعہ کی اطلاع دی تو خود ان کی بھائی بہن سب کو سخت صدمہ ہوا۔ رسول اللہ ﷺ اس وقت بطن مادر میں تھے۔ عبد اللہ نے پچیس برس کی عمر میں وفات پائی۔

محمد بن عمرو الوائلی کہتے ہیں: عبد اللہ بن عبد المطلب کی وفات اور ان کی عمر کے متعلق جتنی روایتیں ہیں ان سب میں صحیح ترین قول ہمارے نزدیک یہی ہے۔

زہری کہتے ہیں: عبد المطلب نے عبد اللہ کو مدینے میں سوکھے چھوڑے لئے بھیجا تھا مدینہ ہی میں وہ انتقال کر گئے۔

محمد بن عمرو کہتے ہیں: ثابت ترین روایت پہلی روایت ہے۔

① یہ نشان جو مصنف نے دیا ہے اسی زمانے کا ہے۔ اب تو محلہ بنی عدی تک باقی نہ رہا۔

ابو عبد اللہ محمد بن سعد کہتے ہیں: عبد اللہ کی وفات کی نسبت ہم سے ایک روایت اور بھی کی گئی ہے اور وہ حسب ذیل ہے۔
ہشام نے اپنے والد محمد بن السائب اور عنوانہ بن الحکم دونوں صاحبوں سے روایت کی ہے کہ عبد اللہ بن عبد المطلب نے
اس وقت وفات پائی جب رسول اللہ ﷺ ۲۸، ۲۹ مہینے کے ہو چکے تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سات (۷) مہینے کے ہو چکے تھے۔
محمد بن سعد کہتے ہیں: ثابت ترین روایت پہلی ہے کہ رسول اللہ ﷺ بطن مادر ہی میں تھے کہ عبد اللہ انتقال کر گئے۔
محمد بن عمرو بن واحد الاسلمی کہتے ہیں: عبد اللہ بن عبد المطلب نے ام ایمن کو پانچ اوارک اونٹ کو اور بھیڑ کے ایک مختصر
گلے کو تر کے میں چھوڑا جس کے رسول اللہ ﷺ وارث ہوئے۔ اوارک ان اونٹوں کو کہتے ہیں جن کی خوراک درخت اراک
(پیلو) ہے۔ ام ایمن کو رسول اللہ ﷺ کی وایہ گری نصیب ہوئی ان کا نام برکہ تھا۔
آمنہ بنت وہب اپنے شوہر عبد اللہ بن عبد المطلب کے مرچے میں کہتی ہیں:

حفا جانب البطحاء من ابن هاشم و جاور لحذاً اخارجاً في الغمام

”فرزند ہاشم کی وفات کے باعث بطحا کا نام و نشان تک مٹ گیا، نوحہ و بکا و گریہ و غوغا کے غیر متمیز شور میں باہر نکل
کے وہ ایک لحذا کا مجاور ہو گیا۔“

دعته المنيا دعوة فاجابها وما تركت في الناس مثل ابن هاشم

”موت نے اسے دعوت دی اور اس نے وہ دعوت قبول کر لی انسانوں میں کسی ایک کو بھی موت نے ایسا نہ چھوڑا
جو فرزند ہاشم جیسا ہوتا۔“

عَشِيَّة راحوا يحملون سريرةً تَعَاوَرَةُ اصحابُهُ في التراحم

”شب میں اس کا تابوت اٹھا کے چلے تو اس کے ساتھیوں نے انہو میں تابوت کو دست بدست لیا۔“

فان يك غالته المنا ياؤرببها فقد كان عطاء كثير التراحم

”اگر وہ مر گیا تو کیا ہوا اس کے آثار خیر تو نہیں مرے کیونکہ وہ نہایت درجہ فیاض اور بہت ہی رحم دل تھا۔“

قد استراح اليراع من ترجمة القسم الاول من الجزء الاول من كتاب الطبقات الكبير، صبيحة
ليلة أُسرى بالنبي ﷺ الى المسجد الاقصى الذي بورك حوله من شهور سنة ۱۳۳۷ للهجرة،
وبذلك قد تمت الانباء الخصيصة بما قبل مولده بنعمة الله وبنعمته تتم الصالحات وله الحمد
من قبل ومن بعد وعليه الاتكال وبه التوفيق ربنا تقبل منا انك انت الغفور الرحيم.





﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ إِلَيْنَا شَاهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا وَ دَاعِيًا إِلَى اللَّهِ يَأْتِيهِ وَ سِرَاجًا مُنِيرًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا﴾

﴿رَبَّنَا اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ ۝﴾

رسول اللہ ﷺ کی ولادت

تاریخ پیدائش:

ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: ماہ ربیع الاول کی دس شبیں گزریں تھیں کہ دو شنبہ کے دن رسول اللہ ﷺ پیدا ہوئے۔ اصحاب فیل اس سے پہلے نصف ماہ محرم میں آچکے تھے۔ لہذا رسول اللہ ﷺ کی ولادت اور واقعہ فیل کے درمیان پچپن شبیں گزر چکی تھیں۔

محمد بن عمرو کہتے ہیں کہ ابو معشر نجج المدنی کہا کرتے تھے: ماہ ربیع الاول کی دو شبیں گزری تھیں کہ دو شنبہ کے دن رسول اللہ ﷺ پیدا ہوئے۔

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: تمہارے پیغمبر علیہ السلام دو شنبہ کے دن پیدا ہوئے تھے۔

عبداللہ بن عقیل بن عقیل بن الفخوار عبداللہ بن عباس محمد بن کعب عمران بن متاع سعید بن جبیر بنت ابی تجراہ اور قیس بن مخزوم کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ عام الفیل میں پیدا ہوئے (یعنی جس سال اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا) کہ ابراہمہ نے کعب شریفہ زادہا اللہ شرفاً و تعظیماً پر چڑھائی کی ہے اسی سال آنحضرت صلوٰۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ یوم الفیل میں پیدا ہوئے۔ یوم الفیل سے عام الفیل مراد ہے۔

ولادت کے وقت منفرد واقعات کا ظہور:

زہری محمد بن کعب القرظی المسور ابو وجزہ مجاہد ابن عباس رضی اللہ عنہما جن کی روایتیں باہم مخلوط ہو گئی ہیں کہتے ہیں کہ آمنہ بنت وہب (رسول اللہ ﷺ کی والدہ ماجدہ) نے کہا: کوئی مشقت محسوس نہ کی۔ مجھ سے جدا ہونے پر ایک ایسا نور ان کے ساتھ ہی

نکلا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک اس کی روشنی پھیل گئی۔ بعد کو اپنے دونوں ہاتھوں کے سہارے زمین پر آئے تو ایک مشت خاک لے کے آسمان کی جانب سر اٹھایا۔

بعض کہتے ہیں: زمین پر آئے تو اپنے دونوں زانوؤں پر جھکے ہوئے تھے۔ سر آسمان کی جانب بلند تھا ان کے ساتھ ایک ایسا نور برآمد ہوا کہ شام کے محل و بازار روشن ہو گئے۔ حتیٰ کہ میں نے بصری میں اونٹوں کی گردنیں دیکھ لیں۔

اسحاق بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی والدہ نے کہا: ان کے پیدا ہوتے ہی مجھ سے ایک ایسا نور برآمد ہوا کہ ملک شام کے قصر و ایوان اس سے روشن ہو گئے۔ پیدا ہوئے تو پاک و صاف و طاہر و مطہر پیدا ہوئے جس طرح بھیڑ بکریوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں کہ ان کے کچھ بھی آلائش نہیں ہوتی۔ زمین پر آئے تو فرش خاک پر اپنے ہاتھ کے سہارے بیٹھے ہوئے تھے۔

رسول اللہ ﷺ کی ولادت کے متعلق ابن القبطیہ نے روایت کی کہ آنحضرت ﷺ کی والدہ کہتی ہیں: میں نے دیکھا گویا ایک شہاب مجھ سے نکلا ہے کہ زمین اس سے روشن ہو گئی ہے۔

عکرمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب اپنی والدہ سے پیدا ہوئے تو پتھر^① کے ایک کوٹے کے نیچے انہیں الٹا لٹا دیا گیا۔ مگر کوٹہ اچھوٹ گیا۔ میں نے دیکھا تو وہ آنکھ پھاڑ کے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔

ابوالجنا کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرے پیدا ہوتے وقت میری والدہ نے دیکھا کہ ان سے نور تاباں ہے کہ بصرہ کے قیصر دیوان اس سے روشن ہو گئے ہیں۔

ابویسہ البالی کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری والدہ نے دیکھا کہ گویا ان سے ایسا نور برآمد ہوا ہے جس سے شام کے قیصر و ایوان روشن ہو گئے۔

حسان بن عطیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ پیدا ہوئے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں اور دونوں زانوؤں پر ٹیک لگائے آسمان کی طرف ٹھٹکی باندھے ہوئے تھے۔

عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اپنے والد عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ پیدا ہوئے تو ختنہ شدہ ناف بریدہ تھے۔ عبد المطلب کو اس پر مسرت آمیز تعجب ہوا ان کے نزدیک رسول اللہ ﷺ کی قدر بڑھ گئی اور انہوں نے کہا: میرے اس لڑکے کی ایک خاص شان ہوگی۔ چنانچہ فی الواقع آنحضرت ﷺ کی خاص شان ہوئی۔

یزید بن عبد اللہ بن زمعہ کی بہن کہتی ہیں: آمنہ بنت وہب کے بطن سے رسول اللہ ﷺ پیدا ہوئے تو آمنہ نے عبد المطلب کو خبر کرائی خوش خبری لانے والا ایسے وقت میں ان کے پاس پہنچا کہ وہ حجر^② میں اپنے بیٹوں اور قوم کے کچھ لوگوں کے

① پتھر کا کوٹہ: اصل میں برآمد کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہیں قدر من التجارة (پتھر کی دیگ)۔

② حجر وہ مقام جس پر حطیم شان ہے جو شمالی جانب سے کعبہ کو محیط ہے۔

ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اطلاع دی کہ آمنہ کے لڑکا پیدا ہوا۔ عبدالمطلب خوش ہوئے اور ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب اٹھے۔ آمنہ کے پاس آئے تو جو کچھ انہیں نظر آیا تھا، جو ان سے کہا گیا تھا اور جس کا حکم ملا تھا، عبدالمطلب کو سب کچھ سنا دیا۔ عبدالمطلب آنحضرت ﷺ کو لئے ہوئے کعبہ میں آئے۔ وہاں کھڑے ہو کر خدا سے دعا کی اور خدا نے جو نعمت بخشی اس کا شکر کرتے رہے۔ محمد بن عمرو الاسلمی کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ اس دن عبدالمطلب نے یہ کہا تھا:

الحمد لله الذي اعطاني هذا الغلام الطيب الاردان

”ہر طرح اور ہر قسم کی حمد و ثنا اس خدا کے لئے ہے جس نے مجھے یہ پاکداسن لڑکا عنایت فرمایا۔“

قد ساد في المهدي على الغلمان اعيذه بالله ذي الاركاب

”یہ وہ لڑکا ہے کہ گہوارہ ہی میں تمام لڑکوں پر سردار ہو گیا اس کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں اور اس کے لئے خدا سے پناہ مانگتا ہوں۔“

حق اراه بالغ البيان اعيذه من شر ذي شنان

”میری خواہش ہے کہ اس کو تاجہ بنیادرسیدہ دیکھوں میں اس کی نسبت بغض رکھنے والے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔“

من حاسد مضطرب العنان

”میں اس حاسد سے پناہ مانگتا ہوں جو مضطرب العنان ہو یعنی ایک روش پر اسے قرار نہ رہے۔“

اسم گرامی کا انتخاب:

عشیمہ کے آزاد غلام سہل مرلیں کہ نصرانی تھے اور انجیل پڑھا کرتے تھے ان کا بیان ہے کہ انجیل میں رسول اللہ ﷺ کی صفت موجود ہے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے ہوں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔

ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہنوز بطن مادر ہی میں تھے کہ آمنہ کو حکم ہوا: ان کا نام احمد رکھنا۔

محمد بن علی، یعنی ابن الحنفیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: میرا نام احمد رکھا گیا ہے۔

جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے سنا: میں محمد ہوں، احمد ہوں، حاشر^① ہوں، ماجی ہوں، خاتم

ہوں، عاقب ہوں۔

حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو مدینہ کی ایک گلی میں یہ کہتے ہوئے سنا: میں محمد ہوں، احمد ہوں، حاشر ہوں،

① حاشر: وہ پیغمبر جو قرب قیامت کے زمانے میں مبعوث ہو۔ ماجی: جس کی بدولت گناہ مٹ جائیں۔ خاتم النبین: عاقب۔ جس کی پشت تمام

پیغمبروں کے بعد ہوئی ہو۔

مقفی^۱ ہوں، نبی رحمت ہوں۔

ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ہمیں اپنے نام بتائے جن میں سے بعض نام ہم نے یاد کر لئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا تھا: میں محمد ﷺ ہوں، احمد ہوں، مقفی ہوں، حاشر ہوں، نبی رحمت ہوں، نبی توبہ ہوں، نبی ملحمہ ہوں۔

مجاہد روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں محمد ﷺ ہوں، احمد ہوں، رسول رحمت ہوں، رسول ملحمہ ہوں، مقفی ہوں، حاشر ہوں، جہاد کے لئے مبعوث ہوا ہوں، زراعت کے لئے مبعوث نہیں ہوا ہوں۔

جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میرے پانچ نام ہیں:

① میں محمد ﷺ ہوں۔

② احمد ہوں۔

③ ماجی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے باعث کفر کو مٹاتا ہے۔

④ حاشر ہوں کہ لوگ میرے قدموں پر محسور ہوں گے۔

⑤ اور میں عاقب ہوں۔

جبیر بن مطعم سے دوسری روایت بھی اسی طرح ہے مگر اس میں یہ لفظ زائد ہے: میں عاقب ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔

نافع بن جبیر سے روایت ہے کہ وہ عبدالمطلب بن مروان کے پاس گئے تو عبدالمطلب نے ان سے پوچھا: تجھے رسول اللہ ﷺ کے ان ناموں کا شمار معلوم ہے جن کو جبیر یعنی ابن مطعم گنا کرتے تھے؟ نافع نے کہا: ہاں! وہ چھ نام ہیں:

① محمد ﷺ ② احمد ③ خاتم ④ حاشر ⑤ عاقب ⑥ ماجی۔

حاشر اس لئے کہ آنحضرت ﷺ تم سب کو (خدا کے خوف سے) ڈرانے کے لئے عذاب شدید کے روبرو قیامت کے ساتھ ساتھ مبعوث ہوئے۔

عاقب اس لئے کہ پیغمبروں کے بعد آئے۔

ماجی اس لئے کہ جن لوگوں نے ان کا اتباع کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ آنحضرت ﷺ کے طفیل میں محو کر دیئے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے بندگانِ خدا! دیکھو! ان لوگوں کے دشنام و لعنت کو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے کیونکر پلٹ دیتا ہے۔

ان لوگوں سے آنحضرت ﷺ کی مراد قریش کے لوگ تھے۔ سامعین نے عرض کی: کیف یا رسول اللہ ﷺ (یا رسول اللہ ﷺ وہ کیونکر؟) فرمایا: یَشْتَمُونَ مُذْمَمًا و یَلْعَنُونَ مُذْمَمًا و انا محمد (وہ مذم کو گالیاں دیتے ہیں مذم پر)

① مقفی: جس کا زمانہ تمام پیغمبروں کے بعد آئے۔

② نبی ملحمہ: وہ پیغمبر جو قرب قیامت کے ایام فتنہ و فساد کے کچھ ہی دنوں پیشتر مبعوث ہوں۔

لعنت کرتے ہیں، حالانکہ میں مذمّم نہیں ہوں، میں تو محمد ہوں)۔^①

رسول اللہ ﷺ کی کنیت:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرے نام پر نام رکھو، مگر میری کنیت پر کنیت نہ رکھو۔ کیونکہ میں ہی ابو القاسم ہوں۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ تو دوسری روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرے نام اور کنیت دونوں کو جمع نہ کرو (یعنی ایسا نہ کرو کہ کسی کا نام رکھو تو میرا ہی نام رکھو اور کنیت رکھو تو وہ بھی میری ہی کنیت ہو) ایک تک مضائقہ نہیں، مگر دونوں کا اجتماع نامناسب ہے۔ میں ابو القاسم ہوں اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت میں طحوف^② ابی قاسم کے الفاظ ہیں کہ اس سے آنحضرت ﷺ ہی مراد ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: رسول اللہ ﷺ تہجد میں تھے کہ ایک شخص نے آواز دی ”یا ابا القاسم“ اس آواز پر رسول اللہ ﷺ ماتھت ہوئے۔ تو اس نے کہا: میں نے آپ کو آواز نہیں دی۔ رسول اللہ ﷺ نے اس پر فرمایا: سموا باسمی ولا تکتسوا بکنیتی (میرے نام پر نام رکھو مگر میری کنیت پر کنیت نہ رکھو)۔

جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ایک انصاری کے لڑکا پیدا ہوا جس کا نام اس نے محمد رکھا، انصار اس پر غضبناک ہوئے اور کہا: یہ نام اس وقت رکھا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے ہم اجازت حاصل کر لیں۔ آنحضرت ﷺ سے تذکرہ کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: انصار نے اچھا کیا۔ پھر ارشاد ہوا: میرا نام رکھو میری کنیت نہ رکھو۔ کیونکہ فقط میں ہی ابو القاسم ہوں کہ تمہارے درمیان خدا کی نعمتیں تقسیم کرتا ہوں۔

جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے: ایک انصاری نے اپنی کنیت ابو القاسم رکھی، انصار نے اس پر کہا: جب تک رسول اللہ ﷺ سے اس باب میں ہم دریافت نہ کر لیں، تجھے اس کنیت سے مخاطب نہ کریں گے۔ رسول اللہ ﷺ سے تذکرہ کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: میرا نام رکھو میری کنیت نہ رکھو۔

سعید کہتے ہیں: قتادہ اس امر کو مکروہ سمجھتے تھے کہ کوئی شخص اپنی کنیت ابو القاسم رکھے خواہ اس کا نام محمد نہ ہو۔

عبدالرحمن بن ابی عمرہ الانصاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرا نام اور میری کنیت جمع نہ کرو۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرا نام نہ رکھو میری کنیت رکھو، مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس بات کی ممانعت فرمائی کہ نام اور کنیت دونوں جمع ہوں۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرے نام اور میری کنیت کو جمع نہ کرو۔

مجاہد کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرا نام رکھو میری کنیت نہ رکھو۔

① مذمّم: مذموم وکوہیدہ سیرت۔ محمد: ستودہ خصال۔

② طحوف: حلف گردہ خدا کی قسم۔

جنہیں رسول اللہ ﷺ کی رضاعت کا شرف حاصل ہوا

آنحضرت ﷺ کے شرکائے رضاعت:

بڑہ بنت تجراہ کہتی ہیں: رسول اللہ ﷺ کو پہلے پہل ثویبہ نے اپنے ایک لڑکے کے ساتھ دودھ پلایا جسے مسروح کہتے تھے۔ یہ واقعہ حلیمہ کی آمد سے قبل کا ہے۔ ثویبہ نے اس سے پہلے حمزہ بن عبدالمطلب کو دودھ پلایا تھا، اور اس کے بعد ابوسلمہ بن عبدالاسد المخزومی کو دودھ پلایا۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: ثویبہ نے کہ ابولہب کی لونڈی تھیں، حلیمہ کی آمد سے پیشتر رسول اللہ ﷺ کو چند روز دودھ پلایا تھا۔ اور آپ ہی کے ساتھ ابوسلمہ بن عبدالاسد کو بھی دودھ پلاتی تھیں۔ لہذا ابوسلمہ آپ کے دودھ شریک بھائی تھے۔

عروہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ثویبہ کو ابولہب نے آزاد کر دیا تھا اور اسی وجہ سے اس نے رسول اللہ ﷺ کو دودھ پلایا تھا۔ ابولہب کے مرنے پر بعض لوگوں نے اس کو بدترین حالت میں خواب میں دیکھا تو پوچھا: کہو کیا گزری؟

ابولہب نے کہا: تمہارے بعد ہمیں کوئی آسائش نہ ملی۔ البتہ میں ثویبہ کو آزاد کرنے کے باعث اس میں سیراب ہوا۔ ابولہب نے اس میں کہا تو انگوٹھے اور اس کے بعد انگلیوں کے پوروں کے درمیان اشارہ کیا تھا۔

محمد بن عمرو کئی اہل علم سے روایت کرتے ہیں جو کہتے تھے: رسول اللہ ﷺ مکہ میں ثویبہ کی خبر گیری فرماتے تھے، خدیجہ بھی ثویبہ کی بزرگ داشت کرتیں۔ ثویبہ ان دنوں آزاد نہ تھیں، ان کی آزادی کی غرض سے خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ابولہب سے درخواست کی کہ ان کے ہاتھ فروخت کر دیں کہ آزاد کر دی جائیں۔ مگر ابولہب نے انکار کر دیا۔ رسول اللہ ﷺ نے جب مدینہ میں ہجرت کی تو ابولہب نے ثویبہ کو آزاد کر دیا۔ رسول اللہ ﷺ وہاں سے بھی ثویبہ کو ہدیہ بھجواتے اور کپڑے دیتے تا آنکہ غزوہ خیبر سے واپس آتے وقت تک یہ میں خبر ملی کہ ثویبہ انتقال کر گئیں۔

رسول اللہ ﷺ نے پوچھا: ثویبہ کے بیٹے مسروح نے کیا کیا؟ کہا گیا: وہ تو ثویبہ سے پہلے ہی مر چکے تھے، ان کی قرابت میں بھی کوئی باقی نہیں۔

قاسم بن عباس الاسلمی کہتے ہیں: ہجرت کے بعد رسول اللہ ﷺ ثویبہ کا حال دریافت فرمایا کرتے اور ان کے لئے ہدیے اور کپڑے بھیجا کرتے تھے حتیٰ کہ ان کی وفات کی خبر آئی تو استفسار فرمایا: ان کی قرابت میں کون باقی ہے۔ لوگوں نے کہا: کوئی نہیں۔

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ میرے رضاعی بھائی ہیں۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں: حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے دودھ شریک بھائی تھے۔ آنحضرت ﷺ کو بھی اور انہیں بھی ایک عربیہ نے دودھ پلایا تھا۔ قبیلہ بنی نکر کے لوگوں میں حمزہ کے دودھ پلانے کا انتظام تھا۔ رسول اللہ ﷺ ایک دن اپنی

دودھ پلانے والی ماں حلیمہ کے پاس تھے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی والدہ نے آنحضرت ﷺ کو اپنا دودھ پلایا تھا۔

ام سلمہ رضی اللہ عنہا زوج النبی ﷺ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے عرض کی گئی: یا رسول اللہ ﷺ آپ حمزہ رضی اللہ عنہ کی لڑکی کی جانب سے کہاں (بھولے ہوئے ہیں؟) یا آپ سے یہ کہا گیا حمزہ رضی اللہ عنہ کی لڑکی کو آپ کیوں نہیں پیغام دیتے۔
آنحضرت ﷺ نے فرمایا: رضاعت کی حیثیت سے حمزہ میرے بھائی ہیں۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے لئے رسول اللہ ﷺ سے خواہش کی گئی تو فرمایا: وہ مجھ پر حلال نہیں وہ میرے رضاعی بھائی کی لڑکی ہے جو نسبت سے حرام وہ رضاعت سے بھی حرام ہے۔
علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی لڑکی کی نسبت میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کی اور ان کے حسن و جمال کا بھی تذکرہ کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: از روئے رضاعت وہ میرے بھائی کی لڑکی ہے۔ کیا تجھے علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نسبت سے حرام کیا ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہے۔

محمد بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابوصالح کو علی رضی اللہ عنہ (ابن ابی طالب) سے روایت کرتے سنا کہ وہ کہتے تھے: میں نے رسول اللہ ﷺ سے حمزہ رضی اللہ عنہ کی لڑکی کے لئے تذکرہ کیا تو فرمایا: وہ میرے رضاعی بھائی کی لڑکی ہے۔
عراک بن ماکہ سے روایت ہے کہ زہب بنت ابی سلمہ نے ان کی خبر دی کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا (ام المومنین) نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کی: ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ آپ ذرہ بنت ابی سلمہ سے نکاح کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اعلیٰ ام سلمہ (کیا ام سلمہ پر؟) پھر فرمایا: لو انی لم انکح ام سلمہ ما حللت لى، ان اباهَا اخى من الرضاۃ (میں اگر ام سلمہ سے نکاح نہ بھی کئے ہوتا تو بھی ذرہ ابی سلمہ میرے واسطے حلال نہ ہوتی۔ از روئے رضاعت اس کا باپ تو میرا بھائی ہے)۔

حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا:

یحییٰ بن یزید السعدی کہتے ہیں: بچوں کو دودھ پلانے کی غرض سے قبیلہ بنی سعد بن بکر کی دس عورتیں آئیں تو سب کو تو بچے مل گئیں ایک باقی رہیں تو حلیمہ باقی رہیں۔
حلیمہ بنت عبد اللہ بن الحارث بن شحبہ بن جابر بن ازارم بن ناصرہ بن فصیہ بن نصر بن سعد بن بکر بن ہوازن بن منصور بن مکرّمہ بن خضّہ بن قیس بن عیلان بن مضر۔

حلیمہ کے ساتھ ان کے شوہر حارث بھی تھے ابن عبد العزیٰ بن رفاعہ بن عیلان بن ناصرہ بن فصیہ بن سعد بن بکر بن ہوازن۔
حارث کی کنیت ابو ذؤیب تھی حلیمہ کے لڑکے عبد اللہ انہیں کے صلب سے تھے اور ہنوز شیر خوار تھے۔

حارث کی دو لڑکیاں بھی تھیں۔ امیہ بنت الحارث اور جَدّ امہ بنت الحارث جد امہ کا لقب شیما تھا۔ رسول اللہ ﷺ کو وہی گود میں لئے رجتیں اور اپنی ماں کے ساتھ آنحضرت ﷺ کو کھلایا کرتیں۔

① شیما وہ عورت جس کے جسم پر دھبے ہوں۔

حلیہ پر آنحضرت ﷺ کی رضاعت پیش کی گئی تو کہنے لگیں: یتیم ولا مال له وما عست امہ ان تفعل (یتیم بے مال و منال ان کی ماں کیا کر لیں گی)۔ قبیلہ کی تمام عورتیں حلیہ کو چھوڑ کے چلی گئیں تو حلیہ نے اپنے شوہر سے کہا: تیری کیا رائے ہے؟ میری ساتھ والیاں تو چلی گئیں اور مکہ میں دودھ پلانے کے لئے بجز اس یتیم بچے کے کوئی نہیں، اگر ہم اسے لے لیں تو کیا؟ کیونکہ مجھے یہ بُرا معلوم ہوتا ہے کہ بے کچھ لے گھر واپس جائیں۔

شوہر نے جواب دیا: اس کو لے لے شاید اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے بہتری کرے۔

حلیہ رسول اللہ ﷺ کی والدہ کے پاس آئیں۔ ان سے لے کے آنحضرت ﷺ کو اپنی آغوش میں لے لیا تو دونوں چھاتیاں اس قدر بھر آئیں کہ اب ان سے دودھ ٹپکا کہ تب ٹپکا۔ رسول اللہ ﷺ نے آسودہ ہو کے پیا اور آپ ﷺ کے دودھ شریک نے بھی پیا جس کی پہلے یہ حالت تھی کہ بھوک کے مارے موتا نہ تھا۔

آنحضرت ﷺ کی والدہ نے حلیہ سے کہا: مہربان اور شریف دائی۔ اپنے بچے (یعنی رسول اللہ ﷺ) کی جانب سے خبردار رہنا کیونکہ عنقریب اس کی ایک خاص شان ہوگی۔

آمنہ نے آنحضرت ﷺ کی ولادت کے وقت جو کچھ دیکھا تھا اور اس مولود کی نسبت جو ان سے کہا گیا تھا، حلیہ کو سب کچھ بتا دیا اور یہ بھی کہا: مجھ سے (متواتر) تین شب کہا گیا کہ اپنے بچے کو اولاد قبیلہ بنی سعد بن بکر میں پھر آل ابو ذویب میں دودھ پلوانا۔

حلیہ نے کہا: یہ بچہ جو میری گود میں ہے اسی کا باپ ابو ذویب میرا شوہر ہے۔

غرض کہ حلیہ کی طبیعت خوش ہو گئی اور ان سب کون کے خوشی خوشی آنحضرت ﷺ کو لئے ہوئے اپنی فرد دگاہ پر پہنچی۔ گدھی پر اسباب و کجاوہ رکھا اور حلیہ رسول اللہ ﷺ کو اپنے آگے لئے ہوئے بیٹھ گئیں۔ ان کے آگے حارث بیٹھے۔ چلتے چلتے وادی النسر میں پہنچے ساتھ والیوں سے ملاقات ہوئی جو شاداں و مسرور تھیں اور حلیہ و حارث کو شکر کر رہے تھے کہ ان کے برابر آجائیں۔

حلیہ سے ان عورتوں نے پوچھا: کیا کیا؟ جواب دیا: اخذتُ واللہ خیر مولود رائیۃ قط و اعظمهم برکۃ (خدا کی قسم! جتنے بچے میں نے دیکھے ان سب میں بہترین مولود و بزرگ ترین برکت والے کو میں نے لیا ہے)۔ عورتوں نے کہا: کیا وہ عبد المطلب کا لڑکا؟ حلیہ نے کہا: ہاں۔ حلیہ کہتی ہیں: ہم نے اس منزل سے کوچ بھی نہ کیا تھا کہ دیکھا بعض عورتوں میں حسد نمایاں ہے۔

محمد بن عمرو کہتے ہیں بعض لوگوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ ﷺ کو حلیہ اپنے گھر لے چلیں تو آمنہ بنت وہب نے کہا:

أُعِيذُ بِاللَّهِ ذِي الْجَلَالِ مِنْ شَرِّ مَا مَرَّ عَلَى الْجِبَالِ ①

”جسم پر جو شر گزرتے ہیں جو بدی و خرابی و خستگی لاحق ہوتی ہے جو آفات و امراض پیش آتے ہیں ان سب سے

① اس نظم کے دوسرے مصرعہ میں لفظ جبال بوزن خیال آیا ہے۔ جبال کے معنی جسم کے ہیں۔ محاورہ عرب میں کہتے ہیں: هو عظیم الجبال یعنی وہ شخص بڑے جسم و جتنے، کھلے کھلے کا تار و تومند آدمی ہے۔ آخری مصرعہ میں جوہ وارد ہے جس کے معنی اراذل کے ہیں۔ یعنی کم پایہ انصار۔

میں اس بچے کو خدائے ذوالجلال کی پناہ میں دیتی ہوں اور اس کے لیے خدا سے پناہ مانگتی ہوں۔“

حتیٰ اراء حامل الحلال و يفعل العرف الى الموال
”میں اس وقت تک کے لئے اس کو خدا کی پناہ میں دیتی ہوں کہ اسے امر حلال کا حامل اور علاموں کے ساتھ نیکی کرتے دیکھ لوں۔“

و غیرہم من حشوة الرجال

”اور صرف علاموں ہی کے ساتھ نہیں بلکہ یہ بھی دیکھوں کہ ان کے علاوہ دوسرے ادنیٰ درجے کے لوگوں کے ساتھ بھی وہ نیکیاں کر رہا ہے۔“

شق صدر کا واقعہ:

محمد بن عمرو اپنے اصحاب سے روایت کرتے ہیں: رسول اللہ ﷺ دو برس تک قبیلہ بنی سعد میں رہے، دودھ چھڑایا گیا ہے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آپ چار برس کے ہیں۔ آنحضرت ﷺ کی والدہ سے ملنے کے لئے آپ کو لے چلے۔ حلیمہ نے ان سے آنحضرت ﷺ کے حالات بیان کئے، اور آپ ﷺ کی برکت سے جو دیکھا تھا اس کی کیفیت بنائی۔ آمنہ نے کہا: میرے بچے کو واپس لے جائیں اس کی نسبت مکہ کی وبا سے ڈرتی ہوں، خدا کی قسم اس کی ایک خاص شان ہوگی۔ چنانچہ آنحضرت سلام اللہ علیہ کو واپس لے گئیں۔

آنحضرت ﷺ جب چار برس کے ہوئے تو اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ نکل جاتے تھے۔ یہ جگہ محلے کے قریب ہی تھی اور یہاں چار پائے رہتے تھے۔ اس مقام پر دو فرشتوں نے آ کے آنحضرت ﷺ کا شکم چیر کر ایک سیاہ نقطہ نکال کے اس کو پھینک دیا۔ اور سونے کے ایک طشت میں رکھ کے برفاب سے شکم کو دھویا۔ اُمت کے ایک ہزار آدمیوں کے ہم سنگ کر کے آپ کو تولیادیا۔ تو آپ ہی بھاری ٹھہرے۔ ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا: دَعُ فُلُو وزن بامتنہ کُلھا لوزنہم (جانے دو اگر تمام اُمت کے ساتھ وزن کرو گے تب بھی آپ ہی کا پلہ گراں ہوگا)۔

آنحضرت ﷺ کے بھائی چیتے چلاتے اپنی ماں کے پاس پہنچے کہ اَدْرِکی اخی القُرْشٰی (میرے قریشی بھائی کی خبر لے)۔ حلیمہ مع اپنے شوہر کے دوڑتی ہوئی نکلیں تو رسول اللہ ﷺ کو ایسی حالت میں پایا کہ آپ ﷺ کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ آمنہ کے پاس آنحضرت ﷺ کو لے کے پہنچیں اور کیفیت سنا کے کہا: اَنَا لَا نُرَدُّہُ اِلَّا عَلٰی جِلْعَلِ اَنِفِنَا (ہم اس بچے کو یوں واپس نہیں کرتے اپنی ناک کٹا کے واپس کرنے پر مجبور ہیں)۔

مگر مراجعت کے وقت آنحضرت ﷺ کو پھر لیتی آئیں اور ایک سال یا اسی کے قریب آنحضرت (واقعہ شق صدر کے بعد) حلیمہ ہی کے پاس رہے کہ اب آپ کو وہ کہیں دور نہ جانے دیتی تھیں۔

کچھ دن گزرے تھے کہ حلیمہ نے دیکھا ایک ابراہیم آنحضرت ﷺ پر سایہ گستر ہے، جب آپ ﷺ ٹھہر جاتے ہیں تو وہ بھی ٹھہر جاتا ہے اور چلتے ہیں تو وہ بھی چلتا ہے۔ حلیمہ اس بات سے بھی ڈریں اور آنحضرت ﷺ کو لے کے چلیں کہ آپ کو آپ کی

والدہ کے سپرد کر دیں۔ اس وقت آپ پانچ برس کے تھے۔ وہاں سے لے کے چلیں تو مکے کے قریب پہنچیں تھیں کہ لوگوں کے مجمع میں آپ کو گم کر دیا۔ تلاش کیا اور نہ پایا۔ تو آپ کے عبدالمطلب کو خبر دی۔ عبدالمطلب نے بھی جستجو کی انہیں بھی نہ ملے تو کہے کے پاس آ کے وہ کھڑے ہو گئے۔ اور کہنے لگے:

اللہم اذ راکی محمدًا ﷺ اِذْہُ اِلَی و اصطنع عندی یدا
”یا اللہ! میرے شہوار محمد (ﷺ) کو مجھے دے دے، اے مجھ کو دے دے، میرے پاس بھیج دے اور عنایت کی بدولت مجھ پر اپنا فضل و کرم کر۔“

انت الذی جعلتہ لی عَصْدًا لَا یُعَدُّ الذَّہْرُ بِہِ فلیعدا
”یا اللہ! تو ہی نے اس لڑکے کو میرا بازو بنایا ہے، یا اللہ! ایسا نہ ہو کہ زمانہ اس کو دور کر دے تو پھر یہ دور ہی ہو جائے گا۔“

انت الذی سَمَّیْتَهُ مُحَمَّدًا ﷺ

”تو ہی نے تو اس کا نام محمد ﷺ رکھا ہے اور اس ستودگی اور ستائش سے موسوم کیا ہے۔“

کنذیر بن سعید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے تھے: وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ ایک شخص نظر آیا جو کہہ رہا تھا: رَبِّ (اے میرے پروردگار)!

رُدُّ اِلَی راکی محمدًا ﷺ رُدُّہُ اِلَی واصطنع عندی یدا
”محمد ﷺ کو واپس کر دے، اے میرے پاس واپس کر دے اور اس طرح میرے حق میں عنایت کر۔“

میں نے کہا: یہ کون ہے؟

لوگوں نے جواب دیا: عبدالمطلب بن ہاشم ہیں۔ اپنے اونٹوں کی تلاش میں اپنے ایک فرزند زادے کو بھیجا تھا اور اس لڑکے کی یہ برکت ہے کہ جس کام میں اس کو بھیجا وہ ضرور کامیاب ہو کے واپس آیا۔“

سعید کہتے ہیں ہم لوگ کچھ دیر ٹھہرے تھے کہ رسول اللہ ﷺ آ گئے۔ عبدالمطلب نے آنحضرت ﷺ کو گلے سے لگا لیا اور کہا: اب میں تجھے کسی ضرورت کے لئے نہ بھیجوں گا۔

ابن القبطیہ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ کی رضاعت قبیلہ بنی سعد بن بکر میں ہوئی۔

یہود کا ارادہ قتل:

اسحاق بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو جب آنحضرت ﷺ کی والدہ نے دودھ پلانے کے لئے حلیمہ (حلیمہ) کے سپرد کیا تو یہ بھی کہا کہ میرے بچے کی حفاظت کرتی رہنا۔ اسی کے ساتھ وہ تمام باتیں بھی حلیمہ کو بتا دیں (جو آنحضرت ﷺ کے متعلق انہوں نے دیکھی تھیں)۔

کچھ روز گزرے تھے کہ حلیمہ کے پاس یہودیوں کا گزر ہوا، جس سے حلیمہ نے کہا: میرے اس بچے کی نسبت تم مجھے کچھ

باتیں نہیں بتاتے۔ یہ شکم میں رہا اس طرح رہا پیدا ہوا تو یوں پیدا ہوا اور میں نے یہ یہ کچھ اس کی نسبت دیکھا ہے۔ غرض کہ آنحضرت ﷺ کی والدہ نے جو باتیں بتائی تھیں سب کہہ دیں۔ ایک یہودی نے ان میں سے کہا: اقلوہ (اسے قتل کر ڈالو)۔ دوسرے نے کہا: ایتیم ہو (کیا یہ بچہ یتیم ہے؟) حلیمہ نے کہا: نہیں یہ (اپنے شوہر کی طرف اشارہ کر کے) اس کا باپ ہے اور میں اس کی ماں ہوں۔ سب نے کہا: لو کانت یتیمًا لقتلناہ (اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اس کو قتل کر ڈالتے)۔

جب یہ واقعہ پیش آیا تو حلیمہ آنحضرت ﷺ کو لے کے چلی گئیں اور کہنے لگیں: قریب تھا کہ میں اپنی امانت ہی کو خراب اور ضائع کر چکی تھی۔

رضاعی بھائی کے لئے بشارت:

اسحاق کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ کے ایک دودھ شریک بھائی تھے جو آنحضرت ﷺ سے کہنے لگے: اتری انہ یکون بعث (کیا آپ کی رائے میں پیغمبری و بعثت ہونے والی ہے)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اما و الذی نفسی بیدہ لاخذن بیدک یوم القیامۃ ولا عرفک (قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ قیامت کے دن میں تیرا ہاتھ پکڑ لوں گا اور تجھے پہچان لوں گا)۔

رسول اللہ ﷺ کے انتقال کے بعد جب یہ صاحب ایمان لائے تو بیٹھ کے رویا کرتے تھے۔ اور کہتے تھے: انما ار جوان یاخذ النبی علیہ السلام بیدی یوم القیامۃ فانجو (مجھے تو صرف اتنی اُمید ہے کہ رسول اللہ ﷺ قیامت کے دن میرا ہاتھ پکڑ لیں گے تو میری نجات ہو جائے گی)۔

نگاہ نبوی ﷺ میں حلیمہ سعدیہ کا احترام:

یحییٰ بن یزید السعدی کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم سب میں زیادہ فصیح میں ہوں اس لئے کہ میں قریش سے ہوں اور میری زبان بنی سعد بن بکر کی زبان ہے جو فصحاء عرب مشہور تھے۔

أسامہ بن زید اللہی قبیلۃ بنی سعد کے ایک بزرگ سے روایت کرتے ہیں: حلیمہ بنت عبد اللہ (ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ کے پاس) کے بچپن میں یہ وہ زمانہ تھا کہ رسول اللہ ﷺ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر چکے تھے۔ حلیمہ نے آنحضرت ﷺ سے قحط و گرائی اور موشیوں کے ہلاک ہو جانے کی شکایت کی۔ آنحضرت ﷺ نے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اس باب میں گفتگو کی تو انہوں نے حلیمہ کو چالیس بکریاں دیں اور سواری کے لئے ایک اونٹ عنایت کیا جو سامان و متاع سے لدا ہوا تھا۔ حلیمہ یہ سب لے کے اپنے اہل و عیال میں واپس آ گئیں۔

محمد بن المنکدر کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ کے حضور میں ایک عورت نے کہ آنحضرت ﷺ کو دودھ پلایا تھا آنے کی اجازت طلب کی، جب یہ خاتون حاضر ہوئیں تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا: میری ماں! میری ماں! اپنی چادر لے کے ان کے لئے بچھادی جس پر وہ بیٹھیں۔

عمر بن سعد کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ کی دایہ آنحضرت ﷺ کے پاس آئیں تو آپ ﷺ نے ان کے لئے اپنی چادر بچھا

دی ان کے کپڑوں کے اندر اپنا ہاتھ ڈال کے ان کے سینے پر رکھا اور جو ضرورت ان کی تھی پوری کر دی۔

ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں تو انہوں نے بھی اپنی چادر بچھا دی اور کہا: مجھے اجازت دیجئے کہ باہر سے اپنا ہاتھ آپ کے کپڑوں تک لے جاؤں اس کے بعد ان کی ضرورت پوری کر دی۔ بعد کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں تو انہوں نے بھی یہی کیا۔

قبیلہ بنو ہوازن:

زہری، عبداللہ بن جعفر، اور ابن سبرہ وغیرہم کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ کی پیش گاہ میں قبیلہ ہوازن کا وفد بمقام ہجرانہ پیش ہوا جب کہ آنحضرت ﷺ مال غنیمت تقسیم کر چکے تھے۔ اس وفد میں ابو ثروان بھی تھے کہ رشتہ رضاعت سے رسول اللہ ﷺ کے چچا ہوتے تھے اس موقع پر انہوں نے عرض کی: ان خطیروں میں وہ ہیں جنہوں نے آپ کی کفالت کی تھی۔ آپ کی چچی ہیں، خالائیں ہیں، دائیاں ہیں ہم اپنے آغوش میں آپ کو پالتے رہے ہیں اپنی چھاتیوں سے آپ کو دودھ پلاتے رہے ہیں۔ میں نے آپ کو دودھ پیتے دیکھا ہے، کوئی دودھ پیتا بچہ آپ سے اچھا نہیں دیکھا۔ آپ ﷺ کو دودھ چھوڑتے دیکھا ہے کہ کوئی دودھ چھڑایا ہوا بچہ آپ سے اچھا نہیں دیکھا۔ آپ کو جوان دیکھا کہ کوئی جوان آپ سے اچھا نہیں دیکھا۔ نیک خصلتیں آپ میں درجہ کمال تک پہنچ چکی ہیں بایں ہمہ آپ کی جڑ بنیاد ہم ہیں آپ کے خاندان کے لوگ ہم ہیں ہم پر احسان کیجئے۔ اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم لوگوں نے اتنی سستی و تاخیر کی کہ میں نے گمان کیا اب تم لوگ نہ آؤ گے۔

حالت یہ تھی کہ رسول اللہ ﷺ بردے (جوڑائی کے لوٹنی غلام بنائے گئے) تقسیم کر چکے تھے اور ان کے حصے بھی لگ

چکے تھے۔

ہوازن کے چودہ آدمی مسلمان ہو کے آئے تھے۔ اور جو لوگ رہ گئے ان کے اسلام کی خبر لائے تھے۔ ان لوگوں کے سردار اور خطیب ابو مروہ بن ہیر بن صروتھے جنہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! ہمیں آپ کے بیٹے اور آپ ﷺ کے خاندان ہیں، جس مصیبت میں ہم مبتلا ہیں وہ آپ پر مخفی نہیں، انہیں خطیروں میں آپ کی پھوپھیاں ہیں خالائیں اور دائیاں ہیں، کھلائیاں ہیں جو آپ کی کفالت کر چکی ہیں۔ اگر ہم حارث بن ابی شمر (بادشاہ غسان) یا نعمان بن منذر (بادشاہ حیرہ) سے یہی سلوک کئے ہوتے اور جو منزلت آپ کی ہے ہم میں یہی محل و مقام ان کو حاصل ہوا ہوتا تو ہم ان کی عاطفت و افادہ کے بھی امیدوار ہوتے اور آپ تو بہترین کفیل ہیں۔

دوسری روایت یہ ہے کہ اس دن ابوصرہ نے حسب ذیل تقریر کی۔

یا رسول اللہ ﷺ! یہی خطیرے ہیں جن میں آپ کی بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، چچیری اور خالہ زاد بہنیں ہیں اور ان میں جو دور کے رشتے کے بھی ہیں وہ بھی آپ سے قریبی تعلق رکھتی ہیں میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، انہیں نے اپنے کنارو آغوش میں آپ کو لیا ہے۔ اپنی چھاتیوں کا دودھ آپ کو پلایا ہے، اور اپنے زانوؤں پر آپ کو کھلایا ہے اور اب آپ ہی بہترین کفیل ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سب سے اچھی بات وہی ہے جو راستی میں سب سے اچھی ہو۔ مسلمانوں میں جو میرے پاس ہیں انہیں تم دیکھ رہے۔ اب بتاؤ تمہیں اپنے زن و فرزند زیادہ محبوب ہیں یا مال و منال۔ وفد نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! حسب و مال دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لینے کی آپ نے ہمیں اجازت دی ہے۔ ہم تو حسب کے برابر کسی چیز کو نہیں سمجھتے۔ آپ ہمارے بال بچوں کو واپس کر دیجئے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو میرے لئے اور اولاد عبدالمطلب کے لئے ہے وہ تمہارے لئے ہے۔ مسلمانوں سے میں بھی تمہارے لئے مسالت کروں گا۔ لوگوں کے ساتھ ظہر کی نماز جب میں پڑھ چکوں تم کہنا: نستشفع برسول اللہ الی المسلمین و بالمسلمین الی رسول اللہ (مسلمانوں سے رسول اللہ ﷺ کے طفیل میں اور رسول اللہ ﷺ سے مسلمانوں کی بدولت ہم طلبگار شفاعت ہیں)۔ اس پر میں تم سے کہوں گا کہ میرے اور بنی عبدالمطلب کے حصے میں جو ہیں وہ تمہارے ہیں مع ہذا میں تمہارے لئے لوگوں سے بھی طلبگاری کروں گا۔

رسول اللہ ﷺ جب ظہر کی نماز پڑھ چکے تو ان لوگوں نے اٹھ کے جو باتیں آنحضرت ﷺ نے فرمائی تھیں عرض کیں۔ آنحضرت ﷺ نے اپنے اور بنی عبدالمطلب کے حصے کے بردے (لوٹنی غلام) ان کو واپس کر دیئے اور مہاجرین اور انصار نے بھی اپنے اپنے حصے واپس کر دیئے اور قبائل عرب سے بھی آنحضرت ﷺ ان کے لئے خواہش ظاہر فرمائی۔ سب نے اسی ایک بات پر اتفاق کر لیا کہ تسلیم و رضا پر آمادہ ہیں۔ جتنے بردے قبضہ میں ہیں سب واپس کر دیں گے۔ البتہ کچھ لوگوں نے بردوں کے دینے سے ہاتھ روک لئے تو رسول اللہ ﷺ نے انہیں معاوضہ میں اونٹ دے دیئے۔

وفات آمنہ ام النبی ﷺ:

زہری، عاصم بن عمرو بن قتادہ، عبد الرحمن بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے جن کے بیان خلط ملط ہو گئے ہیں: رسول اللہ ﷺ اپنی والدہ آمنہ بنت وہب کے پاس تھے چھ برس کے ہوئے تو آنحضرت ﷺ کو مدینے آپ کے نخیال بنی عدی بن النجار میں لے کے چلیں کہ ان سے مل لیں ساتھ میں ام ایمن تھیں جو آپ کی کھلائی تھیں۔ دو اونٹ سواری میں تھے۔ نابغہ کے گھر آنحضرت ﷺ کو لے کے اتریں اور ایک مہینے تک انہیں لوگوں میں رہیں وہاں کی اقامت میں جو باتیں پیش آئی تھیں رسول اللہ ﷺ ان کو یاد کر کے بیان کیا کرتے تھے۔ بنی عدی بن النجار کا اطم^۱ دیکھا تو پہچان لیا اور فرمایا: میں اس اطم پر انصار کی ایک لڑکی انسہ کے ساتھ کھیلا کرتا تھا اور اپنے نخیالی لڑکوں کے ساتھ ہم ایک چڑیا کو اڑایا کرتے تھے جو اس اطم پر آ کے بیٹھا کرتی تھی۔

گھر کو دیکھ کر فرمایا: میری ماں مجھے لے کر یہیں اتری تھیں اور اسی گھر میں میرے والد عبد اللہ بن عبدالمطلب کی قبر ہے بنی عدی بن النجار کے حوض میں میں نے اچھی طرح سے تیرا کی سیکھ لی تھی۔

کچھ یہودی بھی وہاں آ کر آنحضرت ﷺ کو دیکھا کرتے تھے۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ میں نے ان میں سے ایک کو کہتے سنا کہ یہ (یعنی آنحضرت ﷺ) اس امت کے پیغمبر ہیں اور یہی ان کا دارالجمہر ہے۔ میں نے (یعنی ام ایمن نے) اس کی

۱ اطم، قصر، وہ گھر جو مربع و مستطیل ہو۔

باتوں میں سب کو ذہن نشین کر لیا۔

آنحضرت ﷺ کی والدہ آپ کو لے کے واپس چلیں، مقام ابواء میں پہنچ کے انتقال کر گئیں، وہیں ان کی قبر ہے۔ اُمّ ایمن نے آنحضرت ﷺ کو لے کے مراجعت کی سواری میں وہی دونوں اونٹ تھے جنہیں مدینے جاتے وقت لائے تھے۔ آنحضرت ﷺ کی والدہ زندہ تھیں تب بھی اور بعد کو بھی اُمّ ایمن ہی آنحضرت ﷺ کو پالتی پوتی تھیں۔ عمرہ حدیبیہ میں جب رسول اللہ ﷺ مقام ابواء میں پہنچے تو فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دی ہے۔

قبر کے پاس آنحضرت ﷺ آئے اس کو درست کیا، صفائی ستھرائی کی اور روئے۔ مسلمان بھی آپ ﷺ کے رونے پر گریاں ہوئے۔ جب اس باب میں رسول اللہ ﷺ سے عرض کی گئی تو فرمایا: مجھ پر ان کی رحمت و محبت چھا گئی تو میں رویا۔ قاسم کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کے لئے (اللہ تعالیٰ سے) اجازت چاہی تو مل گئی مگر ان کے لئے مغفرت کی درخواست کی تو قبول نہ ہوئی۔

بریدہ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے جب مکہ فتح کر لیا تو ایک مقام پر آ کے ایک بن قبر پر بیٹھ گئے اور لوگ بھی آپ ﷺ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ آپ ﷺ نے اپنی ہیئت ایسی بنائی تھی جیسے کوئی کسی سے خطاب کرتا ہو۔ کچھ دیر یوں ہی گزری تھی کہ روئے ہوئے اٹھ گئے۔ عمر بنی سعد نے کہ جناب رسالت میں سب سے زیادہ جرأت رکھتے تھے۔ آنحضرت ﷺ کے روبرو آ کے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، باعث گریہ کیا ہے؟ فرمایا: یہ میری والدہ کی قبر ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے زیارت کے لئے درخواست کی تو اجازت دے دی، مغفرت کے لئے درخواست کی تو قبول نہ کی۔ مجھے وہ یاد آئیں تو رقت آ گئی اور میں رو دیا۔

ابن سعد کہتے ہیں: یہ غلط ہے اس لئے کہ آئندہ کی قبر کے میں نہیں ہے ابواء میں ہے۔

والدہ کی وفات کے بعد آنحضرت ﷺ کے حالات

رسول اللہ ﷺ عبدالمطلب کی آغوش شفقت میں:

زہری، عبد الواحد بن حمزہ بن عبد اللہ منذر بن جهم، مجاہد ابوالحویث اور نافع بن جبیر، جن کے بیانات باہم خلط ملط ہو گئے ہیں، کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ اپنی والدہ آمنہ بنت وہب کے ساتھ ہوتے تھے (یعنی انہیں کے ساتھ رہتے تھے)۔ جب وہ انتقال کر گئیں تو آنحضرت ﷺ کے دادا عبدالمطلب نے آپ کو لے لیا اور اپنی صلیبی اولاد سے بھی زیادہ آپ کے ساتھ رقت و شفقت سے پیش آئے۔ کمال تقرب کا برتاؤ کرتے، اپنے نزدیک ہی رکھتے، عبدالمطلب جب تنہا ہوتے، جب سوتے رہتے (کہ ایسے وقتوں میں کوئی اندر نہ آتا) آنحضرت ﷺ اس وقت بھی اور ان کے پاس جاتے اور ان کے بستر پر بیٹھ جاتے (حالانکہ کسی دوسرے کی اتنی مجال نہ تھی)۔ یہ دیکھ کے عبدالمطلب کہتے: دَعُوا ابْنِي، اِنَّهٗ لِيُونُسُ مَلِكًا (میرے بیٹے کو رہنے دو، وہ ملک و

سلطنت سے مانوس نظر آتا ہے۔

قبیلہ مدیج کے کچھ لوگوں نے ایک مرتبہ عبدالمطلب سے کہا: احتفظ بہ فاننا لم نرقداً اشبه بالقوم التي في المقام منه (اس لڑکے کی حفاظت کر کیونکہ مقام ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جوشان قدم ہے اس کے ساتھ اس لڑکے کے قدموں سے زیادہ مشابہ ہم نے کسی کا قدم نہیں دیکھا)۔

عبدالمطلب نے ابوطالب سے کہا: سن یہ لوگ کیا کہتے ہیں۔

اسی بنا پر ابوطالب آنحضرت ﷺ کی حفاظت کیا کرتے تھے۔

اُمّ ایمن سے کہ رسول اللہ ﷺ کی دایہ گیری کرتی تھیں ایک مرتبہ عبدالمطلب نے کہا: یا بركة لا تغفلي عن ابني فاني وجدته مع غلمان قريياً من السدوة و ان اهل الكتاب يزعمون ان ابني هذا نبى هذه الامة (اے برکت میرے بیٹے سے غافل نہ رہ میں نے اسے چند لڑکوں کے پاس پیری کے درخت کے پاس پایا ہے حالانکہ اہل کتاب یہی یہود و نصاریٰ یہ گمان کرتے ہیں کہ میرا بیٹا اس امت کا پیغمبر ہے)۔

عبدالمطلب جب کھانا کھانے بیٹھے تو کہتے: علی یا بنی (میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ)۔ جب تک آپ ﷺ نہ آتے کھانا نہ کھاتے آجاتے تو کھاتے اور کھلاتے۔

عبدالمطلب کی وصیت و وفات:

عبدالمطلب جب مشرف بموت ہوئے وقت رحلت قریب آیا تو رسول اللہ ﷺ کی حفاظت و احتیاط کے لئے ابوطالب کو وصیت کی۔ مرنے لگے تو اپنی لڑکیوں سے فرمائش کی: ابھینسی و انا اسمع (مجھے روؤ کہ میں بھی سنوں)۔

سب لڑکیوں نے منظوم مرثیے کہے اور ان کا ماتم کرتی رہیں۔ اُمیہ کی نوبت آئی تو عبدالمطلب کی زبان بند ہو چکی تھی۔ بول نہ سکتے تھے۔ ان کا مرثیہ سن کے سر ہلانے لگے۔ مطلب یہ تھا کہ تو نے سچ کہا۔ میری جو صفت کی میں حقیقتاً ایسا ہی تھا۔ اُمیہ بنت عبدالمطلب کے وہ اشعار یہ ہیں:

أَعْيَنِي جُودُ اَبَدٍ مَعَ ذَرِّ عَلِيٍّ طَيْبِ اَنْحِيمٍ وَالْمَعْتَصِرُ

”اے میری دونوں آنکھوں! آنسو بہاؤ، اشکبار ہو، ایسے شخص پر جو طبیعت و عادت کا پاک و طیب اور عطیات دینے میں کریم و فیاض تھا۔“

عَلِيٍّ مَاجِدِ الْجَدِّ وَ اَرَى الزَّوَادِ حَبِيلَ لَنْجَا عَظِيمِ الْخَطَرِ

”اس پر جو صاحب مجد و عظمت تھا، نصیب و رتھا، اہل حاجت کا معین و مددگار تھا، خوب و رتھا، عالی رتبہ و عظیم القدر تھا۔“

عَلِيٍّ شَيْبَةِ الْحَمْدِ ذِي الْمَكْرَمَاتِ وَ ذِي الْمَجْدِ وَالْعِزِّ وَالْمُفْتَحِ

”آنسو بہاؤ، ہیبت الہیہ الحمد پر آنسو بہاؤ، اور اس کمر مت و بزرگی و عزت و فخر والے شخص کو روؤ۔“

① برکت کسی خاتون سے خطاب کرتے اور نام نہ لینا چاہتے تو عرب اس کو ”برکتہ“ کے لفظ سے مخاطب کرتے یعنی برکت والی بی بی جیسے ہندوستان میں عورتیں ”توا“ کہتی ہیں۔ اور مصر و شام میں آج کل ”حرمتہ“ کا اطلاق کرتے ہیں۔

و ذی الحلم والفضل فی النابتات کثیر المکارم جمر الفخر
”وہ کہ حوادث و مصائب کے وقت تحمل و بردباری و فضیلت اس سے ظاہر ہوا کرتی بہت سی مکر میں اس کی ذات میں تھیں، بہت سے فخر اس میں موجود تھے۔“

لہ فضل مَجِدٍ علی قومہ مبین یلوح کسوء القمر
”وہ اپنی قوم پر ایسی فضیلت و برتری رکھتا تھا جو ضیائے مہتاب کی طرح کھلی ہوئی واضح و روشن تھی۔“

اتنہ المنايا فلم تُشَوِّہ بصرف اللبالی و رب القدر
”یہ سارے فضائل اس میں جمع تھے مگر موت آئی تو گردشِ ایام و حادثہ تقدیر سے کوئی چیز اس کو نہ بچا سکی۔“

عبدالطلب انتقال کے بعد مقامِ حجون میں دفن کئے گئے۔ وہ اس وقت بیاسی ۸۲ برس کے تھے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک سو دس (۱۱۰) برس کی عمر تھی۔

رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا: کیا آپ کو عبدالطلب کی موت یاد ہے۔

فرمایا: ہاں! میں ان دنوں آٹھ برس کا تھا۔

اُمّ ایمن کہتی ہیں: میں نے اس دن دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ عبدالطلب کے تابوت کے پیچھے پیچھے رو رہے تھے۔

ہشام بن محمد بن السائب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں: عبدالطلب بن ہاشم نے یوم الفجار سے پیشتر وفات پائی ان کی عمر ایک سو بیس (۱۲۰) برس تھی۔

رسول اللہ ﷺ ابوطالب کے گھر میں:

مجاہد، ابن عباس رضی اللہ عنہما، محمد بن صالح، عبداللہ بن جعفر، ابراہیم بن اسماعیل بن ابی حنیہ جن کی روایتیں باہم خلط ملط ہو گئی ہیں، کہتے ہیں: عبدالطلب جب انتقال کر گئے تو ابوطالب نے رسول اللہ ﷺ کو اپنے پاس رکھا اور آنحضرت ﷺ انہیں کے ساتھ رہنے لگے۔ ابوطالب مال و دولت والے نہ تھے مگر آنحضرت ﷺ کو بہت ہی چاہتے تھے۔ حتیٰ کہ اپنی اولاد کے ساتھ بھی اتنی محبت نہ تھی۔ سوتے تو آنحضرت ﷺ بھی انہیں کے پہلو میں سوتے۔ باہر نکلتے تو آنحضرت ﷺ بھی ساتھ ہوتے۔ یہ گرویدگی اتنی بڑھی اس حد تک پہنچی کہ کسی شے کے ابوطالب اتنے گرویدہ نہ ہوئے تھے۔

آپ ﷺ کو خاص طور پر اپنے ساتھ کھانا کھلاتے، حالت یہ تھی کہ ابوطالب کے عیال و اطفال خود ایک ساتھ یا الگ الگ، کسی طرح بھی کھانا کھاتے مگر سیر و آسودہ نہ ہوتے لیکن جب رسول اللہ ﷺ کھانے میں شریک ہوتے تو سب کے سب آسودہ ہو جاتے۔

لڑکوں کو کھانا کھانا چاہتے تو ابوطالب کہتے: کما انتم حتیٰ یحضر ابنی (تم لوگ تو جیسے ہو، ظہر و میرا بیٹا آ جائے)۔ رسول اللہ ﷺ آتے اور ساتھ کھاتے تو کھانا بچ جاتا، اور اگر آپ ﷺ ساتھ میں نہ ہوتے تو لڑکوں کو سیری نصیب نہ ہوتی، اسی بنا پر ابوطالب آنحضرت ﷺ سے کہا کرتے کہ انک لمبارک (تو حقیقت میں بابرکت ہے)۔

صبح کو سب لڑکے اٹھتے تو آنکھوں میں چیپڑ بھرے ہوتے، بال بکھرے ہوتے، مگر رسول اللہ ﷺ کے بالوں میں تیل اور آنکھوں میں سرمہ لگا ہوتا۔

ابن القبطیہ کہتے ہیں: ابوطالب کے لئے بطحاء میں ایک دوہرا وسادہ رکھ دیا جاتا تھا۔ جس پر وہ نکیہ لگا کے بیٹھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے آ کے اسے بچھا دیا۔ اور اسی پر لیٹ رہے۔ ابوطالب آئے اور نکیہ لگانا چاہا (تو وسادہ نہ ملا)۔ پوچھا: وسادہ کیا ہوا؟ لوگوں نے جواب دیا: وہ تو تیرے بھتیجے نے لے لیا۔ ابوطالب نے کہا: جل بطحاء کی قسم! حقیقت ہے یہ میرا بھتیجا نعمت کی قدر کرتا ہے۔

عمر بن سعد کہتے ہیں: ابوطالب کے لئے ایک وسادہ ڈال دیا جاتا۔ جس پر وہ بیٹھا کرتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کہہ نہوز لڑکے تھے۔ آ کے اس پر بیٹھ گئے۔ ابوطالب نے یہ دیکھ کر کہا: قبیلہ ربیعہ کے معبود کی قسم ہے کہ یہ میرا بھتیجا فی الواقع نعمت کی قدر کرتا ہے۔

نبی انور ﷺ کا پہلا سفر شام:

خالد بن خدّاش بحوالہ معتمر بن سلیمان روایت کرتے ہیں کہ معتمر کہتے تھے: میں نے اپنے والد سلیمان کو ابو جحز سے یہ روایت کرتے سنا ہے کہ عبد المطلب یا ابوطالب نے اس روایت میں خالد کو شبہ تھا کہ عبد المطلب کا نام تھا یا ابوطالب کا عبد اللہ کے انتقال کر جانے کے بعد رسول اللہ ﷺ کی جانب توجہ کی، جب کبھی سفر میں جاتے تو ساتھ میں آنحضرت ﷺ کو بھی لے جاتے۔ ایک مرتبہ شام کا رخ کیا، منزل پر پہنچ کر اتر پڑے وہاں ایک راہب کے پاس آ کے کہنے لگا:

”تم میں کوئی صالح آدمی ہے؟“

جواب دیا:

”ہم میں ایسے لوگ ہیں جو مہمان کی میزبانی کرتے ہیں، قیدی کو رہا کرتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں۔ یہ یا اسی قبیل کا جواب دیا تھا۔“

راہب نے کہا:

”تم میں ایک صالح آدمی ہے، کچھ دیر ٹھہر کے پوچھا: اس لڑکے یعنی رسول اللہ ﷺ کے باپ کہاں ہیں؟“

مخاطب نے جواب دیا:

”یہ اس کے ولی و مربی موجود ہیں۔“

یہ جواب دیا گیا کہ

”یہ اس کے ولی ہیں۔“

راہب نے کہا:

احتفظ بهذا الغلام، ولا تذهب به الى الشام، ان اليهود حسدوا نبي اخشاهم عليه

”اس لڑکے کی حفاظت کرو اور اسے لے کے شام نہ جا یہودی حسد کرنے والے ہیں اور مجھے اس لڑکے کی نسبت ان سے خوف ہے۔“

انہوں نے کہا:

”یہ تو نہیں کہتا یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔“

راہب نے اس کا جواب دیا اور کہا:

”یا اللہ! میں محمد (ﷺ) کو تیرے سپرد کرتا ہوں“ یہ کہا اور پھر مر گیا۔

بجیرا راہب سے ملاقات:

داؤد بن الحصین کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ جب بارہ برس کے ہوئے تو شام میں تجارت کرنے کے لئے ایک قافلہ روانہ ہو رہا تھا۔ ابوطالب بھی آنحضرت ﷺ کو لے کر نکلے اور قافلہ کے ساتھ ہو گئے۔ اہل قافلہ بجیرا راہب کے پاس جا کے اترے۔ رسول اللہ ﷺ کے متعلق بجیرا نے ابوطالب سے جو کہنا تھا کہا اور انہیں حکم دیا کہ آنحضرت ﷺ کی حفاظت کریں اسی بنا پر آنحضرت ﷺ کو لے کے ابوطالب مکہ واپس آئے۔

الْأَمِينُ كَالْقَب:

رسول اللہ ﷺ ابوطالب کے ساتھ ہی رہے اور جوان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ ﷺ پر اپنا فضل و کرم کرنا تھا، اس لئے خود ہی آپ ﷺ کی حراست و حفاظت کرتا تھا۔ اور جاہلیت کے اُمور و معائب سے آپ کو بچاتا تھا۔

یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ ﷺ اپنی قوم ہی کے طریقے پر تھے اور انہیں کا مسلک رکھتے تھے۔ تا آنکہ ایسے جوان ہوئے کہ مرورت و جواں مردی میں تمام قوم سے افضل، خلق میں سب سے زیادہ اچھے، اختلاط و معاشرت میں سب سے شریف تر، باتیں کرنے میں سب سے بہتر، حلم و امانت میں سب سے بڑے، تکلم میں سب سے سچے، فحش و اذیت میں سب سے دور و نفور تھے نہ کبھی گالی گلوچ یا بدگمانی کرتے دیکھے گئے نہ کسی سے لڑتے جھگڑتے یا کسی پر شبہ کرتے پائے گئے۔

ایسی اچھی اچھی خیر و صلاح کی غاوتیں اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی ذات میں جمع کر دی تھیں کہ قوم نے آپ ﷺ کا نام ہی ”الامین“ رکھ دیا۔ مکے میں بیشتر آپ ﷺ کا یہی لقب رہا۔ ابوطالب مرتے وقت تک آپ ﷺ کی حفاظت و احتیاط و حمایت و نصرت میں سرگرم رہے۔

ابوطالب کی اولاد:

محمد بن السائب کہتے ہیں: ابوطالب کا نام عبد مناف تھا (ابوطالب کنیت تھی)۔ ان کی اولاد میں:

طالب بن ابی طالب:- سب سے بڑے تھے۔ مشرکین جبرائیل اور تمام بنی ہاشم کو نکال کے غزوہ بدر کے مقام میں لے گئے تھے۔ طالب نکل کے کہنے لگے:

اللهم اما يغزون طالب في مقنب من هذه المقائب

”یا اللہ! ان ضرر رساں بھیڑیوں کے ایک غول میں ہو کر طالب لڑتا رہا ہے لڑنے میں ان گروں کا ساتھ تو دیتا ہے۔“

فلیکن المغلوب غیر الغالب ولیکن المسلوب غیر السالب

”مگر یا اللہ! جو غالب ہے وہ مغلوب ہو جائے اور جو چھین رہا ہے اس سے چھین جائے۔“

مشرکین قریش کو جب ہزیمت ہوئی تو وہ (طالب) نہ قیدیوں میں پائے گئے۔ نہ مقتولوں میں ملے نہ مکے میں واپس آئے اور نہ ان کا حال معلوم ہوا۔ ان کی اولاد بھی نہیں۔

عقیل بن ابی طالب :- ان کی کنیت ابو یزید تھی۔ طالب میں اور ان میں دس برس کی چھوٹائی بڑائی تھی۔ یعنی طالب دس سال بڑے تھے۔ انساب قریش کے یہ عالم تھے۔

جعفر بن ابی طالب :- یہ عقیل سے دس برس چھوٹے تھے قدیم الاسلام مہاجرین حبشہ میں ہیں۔ غزوہ موتہ میں شہید ہوئے ذوالجناحین (دو پروں والے) وہی ہیں کہ ان پروں کے ذریعے بہشت میں وہ جہاں چاہتے ہیں پرواز کرتے ہیں۔

علی بن ابی طالب :- یہ جعفر سے دس برس چھوٹے تھے۔

الف - ام ہانی بنت ابی طالب :- ان کا نام برہہ تھا۔

ب - جمانہ بنت ابی طالب -

ج - ریٹہ بنت ابی طالب :- بعض لوگ اسماء بنت ابی طالب بھی کہتے ہیں ان سب کی ماں فاطمہ تھیں بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی۔

طریق بن ابی طالب :- ان کی ماں علہ تھیں اور ان کے ماں جائے بھائی خوریت تھے۔ ابن ابی ذباب بن عبد اللہ بن عامر بن الحارث بن حارثہ بن سعد بن تیم بن مرہ۔

ابو طالب کو دعوت اسلام اور خاتمہ:

سعید بن المسیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ابو طالب کے احتضار کا جب وقت آیا تو رسول اللہ ﷺ ان کے پاس آئے۔ دیکھا تو وہاں عبد اللہ بن امیہ اور ابو جہل بن ہشام ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((یا عم قل لا الہ الا اللہ، کلمۃ اشہد لک بها عند اللہ))۔

”چچا! لا الہ الا اللہ کہہ اس کلمے کے کہنے سے اللہ تعالیٰ کے پاس میں تیرے حق میں گواہی دوں گا۔“

اس پر ابو جہل اور عبد اللہ بن امیہ نے کہا: ”اے ابو طالب! کیا تو عبد المطلب کی ملت سے بیزار و نفور ہے؟“

رسول اللہ ﷺ برابر کلمہ توحید ان پر پیش کرتے رہے اور کہتے رہے کہ اے چچا! لا الہ الا اللہ کہہ اس کلمے کے باعث اللہ تعالیٰ کے پاس میں تیرے حق میں گواہی دوں گا۔

یہ تو رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے اور وہ دونوں کہتے تھے کہ اے ابو طالب! کیا تو عبد المطلب کی ملت سے پھرا جاتا ہے؟

یہ مکالمہ (عرض و رد) یوں ہی ہوتا رہا تا آنکہ آخری بات جو ابوطالب نے کہی وہ یہ تھی کہ میں عبدالمطلب کی مکت پر ہوں یہ کہا اور پھر انتقال کر گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لا ستغفرن لك ما لو انه))۔

”اے ابوطالب! اے چچا! مجھے جب تک روکا نہ جائے میں تیرے لئے مغفرت طلب کرتا رہوں گا۔“

ابوطالب کے مرنے پر رسول اللہ ﷺ ان کے لئے استغفار کرتے رہے تا آنکہ یہ آیت نازل ہوئی:

﴿ وما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انه اصحاب الجحيم ﴾

”پیغمبر اور مومنین پر جب یہ بات واضح ہو چکی کہ مشرکین جہنمی ہیں تو چاہے یہ مشرکین قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں ان کے لئے استغفار مناسب نہیں۔“

عبداللہ بن ثعلبہ بن صعیر العذری کہتے ہیں ابوطالب نے (رسول اللہ ﷺ سے) کہا:

”اے میرے بھتیجے! خدا کی قسم اگر قریش کے اس کہنے کا خوف نہ ہوتا کہ میں ڈر گیا ہوں، کیونکہ ایسی بات کہی گئی تو یہ تجھ پر اور تیرے باپ کی اولاد پر گالی ہوگی تو میں وہی کرتا جو تو کہتا ہے اور اس سے تیری آنکھ کو ٹھنڈک پہنچاتا اس لئے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری باتیں میرے ساتھ قابل شکر ہیں، محسوس کر رہا ہوں کہ تجھے کیا کچھ شغف و شفقت مجھ سے ہے مشاہدہ کرتا ہوں کہ تو میرے حق میں کیسی نصیحت و خیر خواہی مرعی رکھتا ہے۔“

ابوطالب نے اس کے بعد فرزند ان عبدالمطلب کو طلب کر کے کہا:

((لن ترالوا بخیر ما سمعتم من محمد ﷺ و ما اتبعتم امره فاتبعوه و اعينوه ترشدوا))۔

”محمد ﷺ کی باتیں جب تک سننے سے رہو گے اور حکم ماننے سے رہو گے اس وقت تک برابر خیر و فلاح میں رہو گے ان کی پیروی کرو انہیں مدد دو کہ خود تم کو ہدایت نصیب ہو۔“

رسول اللہ ﷺ نے یہ سن کے فرمایا:

((اتحكم هم بها و تدعها لنفسك))

”تو انہیں تو اس کا حکم دیتا ہے، مگر خود اپنے لئے پیور دیتا ہے؟“

ابوطالب نے کہا:

((اما انك لو سألتني الكلمة و انا صحيح لتابعتك على الذي نقول و لكن اكره ان اجزع عند الموت))

”فتری قریش انی احدثها جزعاً و غاور ددتها فی صحتی))۔

”جب تندرست تھا اس وقت اگر تو مجھ سے اس کلمہ کا سوال کرتا جو کہہ رہا ہے میں اس کی پیروی کرتا، لیکن موت کے وقت یہ برا جانتا ہوں کہ جزع و فزع میں ڈالا جاؤں اور خوفزدہ مشہور ہوں، کیونکہ اس صورت میں قریش کی رائے یہ ہوگی

کہ میں نے اپنی تندرستی کی حالت میں تو اس کے ماننے سے انکار کر دیا تھا مگر سکرانے کے وقت ڈر کے قبول کر لیا۔
عمر بن دینارؓ ابوسعید یا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آیت:

﴿اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ﴾

”تو جس سے محبت کرتا ہے اس کو ہدایت یافتہ نہیں بنا سکتا۔“

ابوطالب کے حق میں نازل ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما آیت:

﴿وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَوْنَ عَنْهُ﴾

”وہ لوگ مشرکین و کفار کو تو پیغمبر کی اذیت رسانی سے باز رکھتے ہیں، مگر خود اس کا اتباع و امتثال نہیں کرتے۔“

کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت ابوطالب کے حق میں نازل ہوئی جو لوگوں کو روکتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کو اذیت نہ پہنچے اور آپ دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے بچتے تھے اور اس میں سستی کرتے تھے۔

فوت شدہ مشرکین کے لئے استغفار کی ممانعت:

علی رضی اللہ عنہ (ابن ابی طالب) کہتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو ابوطالب کے انتقال کی خبر دی تو آپ ﷺ رونے لگے اور پھر فرمایا:

((اذهب فاغسله و كفه و وارده غفر الله له و رحمه))

”جا کے اسے غسل دے اور کفن پہنا اور توپ دے یعنی دفن کر دے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے (اور رحم کرے)۔“

چنانچہ میں نے یہی کیا۔ رسول اللہ ﷺ کئی دن تک ابوطالب کے لئے استغفار کرتے رہے اور گھر سے نہ نکلے۔ تا آنکہ جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے:

﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ان يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ﴾

”پیغمبر کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے مناسب نہ تھا کہ مشرکوں کے لئے استغفار کرتے۔“

علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے حسب حکم میں نے بھی غسل کیا (یعنی ابوطالب کی میت کو غسل دینے کے بعد بموجب ارشاد و ہدایت نبویؐ خود بھی غسل کر ڈالا تھا)۔

عمر دیکھتے ہیں کہ ابوطالب نے جب انتقال کیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے اور تجھے بخش دے جب تک جناب الہی سے ممانعت نہ ہوگی میں تیرے لئے استغفار کرتا رہوں گا۔“

اس ارشاد سے مسلمان بھی اپنے مردوں کے لئے دُعائے مغفرت کرنے لگے جو شرک کی حالت میں مرے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ان يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا اُولٰٓئِ قَرٰبٰی﴾

”پیغمبر کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں مناسب نہ تھا کہ مشرکوں کے لئے استغفار کریں چاہے وہ قرابت دار ہی

کیوں نہ ہوں۔“

تجہیز و تکفین:

علی بن ابی طالب کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ ﷺ کی جناب میں حاضر ہو کے عرض کی:

((ان عملك الشيخ الضال قد مات))

”یا حضرت! آپ کا بوڑھا گمراہ چچا مر گیا۔“

بوڑھے گمراہ چچا سے علی رضی اللہ عنہ کی مراد خود ان کے والد تھے (یعنی ابوطالب)۔ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((اذهب فواره ولا تحدثن شيئا حتى تاتيني))

”جا کے ابے دُن کر دے اور جب تک میرے پاس نہ آنا اس وقت تک کوئی بات بیان نہ کرنا یا اس وقت تک کچھ نہ کرنا۔“

میں نے تدفین کے بعد حاضر ہو کر کہا (کیفیت) بیان کی تو مجھے حکم دیا اور اس کے مطابق میں نے غسل کیا، تو آنحضرت (سلام اللہ علیہ) نے میرے لئے ایسی دُعائیں کیں کہ خواہ کوئی کیسی ہی چیز پیش کی جائے مگر جتنی مسرت مجھے ان دُعائوں سے ہوئی اتنی کسی چیز سے نہ ہوگی۔

ابوطالب کی موت کے بعد حضور ﷺ کا اظہار خیال:

عباس رضی اللہ عنہ بن عبدالمطلب کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کی:

((هل نفعت ابا طالب بشيء؟ فانه قد كان يحوطك و يغضب لك))

”کیا آپ نے ابوطالب کو بھی کچھ نفع پہنچایا جو آپ کو گھیرے رہا کرتے تھے حفاظت کیا کرتے تھے اور اگر کوئی ایذا دینا چاہتا تو اس سے آپ کے لئے بگڑ بیٹھا کرتے تھے۔“

((نعم! وهو في ضحضاح من النار، ولولا ذلك لكان في الدرك الاسفل من النار))

”ہاں! وہ خفیف اور ہلکی سی آگ میں ہے اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو دوزخ کے طبقہ اسفل میں ہوتا۔“

ابن شہاب سے روایت ہے کہ انہیں علی بن الحسین رضی اللہ عنہما (ابن ابی طالب) نے خبر دی کہ رسول اللہ ﷺ کے عہد میں ابوطالب نے وفات پائی۔ تو جعفر رضی اللہ عنہ (بن ابی طالب کو ان کا یعنی ابوطالب کا) ورثہ و ترکہ نہ ملا بلکہ طالب و عقیل (فرزندان ابوطالب) ان کے وارث ہوئے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ نہ مسلمان کا فرکا وارث ہو سکتا ہے اور نہ کافر مسلمان کا۔

عروہ کہتے ہیں جب تک ابوطالب نے وفات نہ پائی اس وقت تک آپ سے رُکے رہے۔ عروہ کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ابوطالب جیتے رہے رسول اللہ ﷺ کی ایذا رسانی سے قریب رُکے رہے۔

اسحاق بن عبد اللہ بن الحارث کہتے ہیں، عباس رضی اللہ عنہ (ابن عبدالمطلب) نے عرض کی:

((يا رسول الله ﷺ اترجو لابي طالب))

”یا رسول اللہ ﷺ! کیا آپ ابوطالب کے لئے بھی اُمید رکھتے ہیں، یعنی آیا ان کے لئے بھی کچھ اُمید مغفرت ہے؟“

فرمایا: ((کل الخیر ارجو من ربی))۔

”میں اپنے پروردگار سے ہر طرح کی خیر و خوبی اور نیکی کی اُمید رکھتا ہوں۔“

ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات:

محمد بن عمرو الاسلمی کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ کی نبوت کے دسویں سال ماہ شوال کا نصف تھا کہ ابوطالب نے انتقال کیا۔ اس وقت وہ کچھ اوپر اسی (۸۰) برس کے تھے۔ ان کی وفات کے ایک مہینے پانچ دن کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا مینہٹھ (۶۵) برس کی عمر میں انتقال کر گئیں اس سے رسول اللہ ﷺ پر دو ہری مصیبتیں جمع ہو گئیں۔ خدیجہ بنت خویلد کی موت (جو آپ ﷺ کی بیوی تھیں) اور ابوطالب کی موت جو آپ کے چچا تھے۔

مکہ میں آنحضرت ﷺ کی ابتدائی مصروفیات

نبی اکرم ﷺ کا بکریاں چرانا:

عبید بن عمیر کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((ما من نبی الا وقد رعى الغنم))۔

”کوئی پیغمبر ایسا نہیں جس نے بھیڑ بکریاں نہ چرائی ہوں۔“

لوگوں نے عرض کی:

((و انت یا رسول اللہ))۔

”یا رسول اللہ اور آپ؟ یعنی آپ نے بھی چرائی ہیں؟“

فرمایا: ((و انا)) ”اور میں نے بھی۔“

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ نے اسی کو پیغمبر مبعوث فرمایا جو بھیڑ بکریاں چراچکا ہو۔“

لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ اور آپ؟ فرمایا:

((و انا رعيتها لاهل مكة بالقرارىط))۔

”اور میں نے بھی اہل مکہ کے لئے جب ترمہندی یعنی اہلی کے بدلے چرائی ہیں۔“

ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اراک (یعنی درخت مسواک، پیلو) کے پھل کے لئے کچھ لوگ رسول اللہ ﷺ کے حضور سے گزرے تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

”ان پھلوں میں جو سیاہ ہو گیا ہوا سے لڑ بھیڑ بکریاں چراتا تھا تو میں بھی ان کو چنا کرتا تھا۔“

لوگوں نے عرض کی ”یا رسول اللہ ﷺ! آپ نے بھی بھیڑ بکریاں چرائی ہیں؟“

فرمایا: ”ہاں! اور ایسا کوئی پیغمبر نہیں جس نے نہ چرائی ہوں۔“

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ کی معیت میں ہم لوگ کباث (اراک کے پکے پکے پھل) چنا کرتا تھے۔ آنحضرت (صلوٰۃ اللہ علیہ) نے فرمایا:

”جو سیاہ ہو گیا ہو وہ لو کہ سب میں اچھے وہی ہوتے ہیں، میں جب بھیڑ بکریاں چراتا تھا تو میں بھی اسے چتا تھا۔“

ہم نے عرض کی:

”یا رسول اللہ ﷺ! کیا آپ بھی بھیڑ بکریاں چراتے تھے؟“

فرمایا: ”ہاں! اور کوئی ایسا پیغمبر نہیں جس نے نہ چرائی ہوں۔“

ابو اسحاق کہتے ہیں: بھیڑ بکریاں چرانے والوں اور اونٹ چرانے والوں میں تنازعہ اور جھگڑا تھا جس میں اونٹ والوں نے ان پر زیادتی کی اور بڑھ چلے ہم کو اطلاع ملی اور حقیقت حال خدا کو معلوم ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے اور بھیڑ بکریوں کے چرواہے تھے داؤد علیہ السلام مبعوث ہوئے اور وہ بھیڑ بکریوں کے

چرواہے تھے میں مبعوث ہوا تو میں آجیاؤ^۱ میں اپنے لوگوں کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا۔“

حرب الفجار کا واقعہ:

ابراہیم بن عبد الرحمن بن عبد اللہ بن ابی ربیعہ، محمد بن ابراہیم التیمی یعقوب بن عتبہ الانسی سے روایت ہے: اور ان کے علاوہ دوسروں نے بھی اس واقعہ کے بعض حصے بیان کئے ہیں ان سب کا یہ قول ہے۔

جنگ فجار کا باعث یہ ہوا کہ نعمان بن منذر (فرماں رواے حیرہ) نے تجارت کے لئے بازار عکاظ میں کچھ لطیمہ^۲ بھیجا تھا۔ اس کو عمرو بن عتبہ بن جابر بن کلاب الرحال^۳ نے اپنی پناہ^۴ میں لے لیا تھا۔

جو لوگ وہ لطیمہ لے کر آئے تھے ایک تالاب پر فروش ہوئے جسے اُدارہ کہتے تھے۔ قبیلہ بنی بکر بن عبد مناة بن کنانہ کا ایک شخص براؤض بن قیس، شاطر آدمی تھا۔ جس نے عروہ پر حملہ کر کے اسے قتل کر ڈالا۔ اور بھاگ کے خیبر میں چھپ رہا۔ بشر بن ابی خارم

① آجیاؤ: مکہ مبارکہ کی ایک سرزمین یا پہاڑی کا نام ہے جو چراگاہ کا کام دیتی تھی۔

② لطیمہ: مشک، خوشبو یا ت۔

③ الرحال: وہ شخص جو اونٹوں کے کجاوے کے فن میں ماہر ہو، عروہ بن عتبہ کا یہ خاص لقب تھا اور اسی مہارت کے باعث وہ ”رحال“ مشہور تھے۔

④ پناہ میں لینا: جس طرح اس زمانے میں مال و متاع کا بیمہ کرتے ہیں اسی طرح عرب میں دستور تھا کہ مال کو کہیں بھیجتے تو کسی کی پناہ میں دے دیتے جو اس کی حفاظت وغیرہ کا ذمہ دار ہوتا۔

عکاظ: عرب کا مشہور ترین بازار جہاں ہر سال ایک بڑا میلہ ہوتا تھا۔ عرب کی پیداوار دستکاری و دل و دماغ کی نمائش کی جاتی تھی اور علم و ادب کا سب سے بڑا دنگل ہوتا تھا۔ سال میں ایک مرتبہ بازار لگتا تھا اور ماہ ذیقعدہ کی پہلی سے بیسویں تاریخ تک کھلا رہتا۔ اس کا صدر مقام وہ میدان تھا جو نخلہ اور طائف کے درمیان واقع ہے۔

الاسدی سے کہ شاعر تھا ملاقات ہوئی تو یہ واقعہ بیان کر کے کہہ دیا کہ عبداللہ بن جدعان، ہشام بن المغیرہ، حرب بن ابی امیہ نوفل بن معاویہ الدیلی اور بلعا بن قیس کو اس کی اطلاع کر دے۔

ان لوگوں کو خبر ہوئی تو جان بچا کے حرم (بیت اللہ) سے التجاء کی۔

اسی دن جب کہ دن آخر ہو چلا تھا، قبیلہ قیس کو یہ خبر ملی تو ابواء نے کہا: ”ہم تو قریش کی طرف سے دھوکے ہی میں تھے۔“

آخر ان کے پناہ گیروں کے پیچھے پیچھے چلے مگر انہیں اس وقت پایا جب کہ حرم کے اندر وہ جا چکے تھے۔^①

قبیلہ بنی عامر کے ایک شخص نے جسے اورم بن شعیب کہتے تھے اپنی پوری آواز میں پناہ گیروں کو پکار کے کہا:

((ان میعاد ما بیننا و بینکم هذه اللیالی من قابل و انا لانا قلی فی جمیع))

”آئندہ سے ہمارے تمہارے درمیان انہیں راتوں کا وعدہ ہے اور ہم مزدلفہ میں کمی اور سستی نہ کریں گے۔“

یہ کہہ کے اورم نے یہ شعر بھی کہے:

لقد وعدنا قریضاً وہی کارہۃً بآن تجی الی ضرب رعابیل

احابیش:

اس سال عکاظ کا بازار نہ لگا۔ قریش قبیلہ کنانہ اسد بن حویمہ اور احابیش کے سب لوگ جوان میں شامل تھے۔ سال بھر

تک ٹھہرے رہے اور اس جنگ کے لئے (جو ٹھن چکی تھی) تیاریاں کیا کئے۔

احابیش^② میں یہ قبائل تھے:

✽ الحارث بن عبدالمناة بن کنانہ

✽ عضل

✽ القارہ

✽ دیش

✽ المصطلق۔ یہ لوگ قبیلہ خزاعہ کے تھے اور ان کی شرکت کا باعث یہ تھا کہ قبیلہ بھارث بن عبدمناة کے ساتھ ان کا مخالفہ

(باہمی عہد و پیمان) تھا۔

① عرب میں دستور تھا کہ سخت سے سخت مجرم بھی جب تک حرم کعبہ میں پناہ گیر رہتا اس سے تعرض نہ کرتے۔

② احابیش: مکہ مبارکہ کے پائیں میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جسے حبشی کہتے ہیں۔ اسی پہاڑی کے دامن میں سب لوگوں نے آپ کے مناصرت و

معاونت پر قسمیں کھائی تھیں۔ قسم کے الفاظ یہ تھے: نحن لیڈ علی غیرنا ما مسجالیل و وضع نہار و مارسا حبشی یعنی جب تک رات کی شان

یہ ہے کہ رات اندھیری ہو جب تک دن کا منظر یہ ہے کہ روشن رہے گا جب تک کہ حبشی اپنی جگہ پر قائم و استوار رہے گا اس وقت تک ہم لوگ غیروں کے

مقابلہ میں یکدمست رہیں گے۔ اسی مناسبت سے یہ مخالفین احابیش قریش کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ حبشی (پہاڑ) معرف بالآدم

نہیں۔ بھارث اصل میں ابوالحارث تھا۔ قبیلہ مذکورہ اسی ابوالحارث کے نام سے منسوب ہے جسے عرف عام میں بھارث ہی کہتے ہیں۔

سرداران قریش:

قبیلہ قیس عیلان کے لوگوں نے بھی جنگ کی تیاری کر لی اور آئندہ سال کے لئے موجود ہو گئے۔ سرداران قریش یہ لوگ تھے:

✽ عبداللہ بن جدعان

✽ ہشام بن المغیرہ

✽ حرب بن امیہ

✽ ابواسیمہ سعید بن العاص

✽ عقبہ بن ربیعہ

✽ العاص بن داکل

✽ معمر بن حبیب الحنفی

✽ عکرمہ بن عامر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبدالدار۔

لشکر جو نکلا تو جدا جدا جھنڈیوں کے تحت نکلا سب کی ٹولیاں اور جماعتیں الگ الگ تھیں کسی ایک سر لشکر کے تحت نہ تھا،

اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن جدعان کے یہ سب ماتحت تھے ❶۔

سرداران قیس:

قبیلہ قیس میں یہ لوگ تھے:

✽ ابوالبراء عامر بن مالک بن جعفر

✽ سیح بن ربیعہ بن معاویہ النصری

✽ زید بن الضمہ

✽ مسعود بن معتب النخعی

✽ ابو عروہ بن مسعود

✽ عوف بن ابی حارث المری

✽ عباس بن رعل السلمی

یہ سب لوگ سردار و سپہ سالار تھے (یعنی غنیم کی طرح ان سرداروں میں سے بھی ہر ایک کی فوج اپنی اپنی جگہ مستقل و خود

مختار تھی اور کوئی ایک سر لشکر نہ تھا جس کے سب ماتحت و فرمان پذیر ہوتے) لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے ابوالبراء ان سب کے ادلی الامر

تھے جھنڈا انہیں کے ہاتھ میں تھا اور صفیں انہیں نے برابر کیں۔ (مصنف نے یہ دوسرا قول بصیغہ تضعیف بیان کیا ہے۔ واللہ اعلم)

❶ روایت کا خاص لفظ ہے: حَوْجُوا مُتَسَانِدِينَ۔ متساندین کے متبادر معنی تو ایک دوسرے پر ٹیک لگانے والے سہارا لینے والے کے ہیں مگر عہد جاہلیت

کے محاورہ میں اس کا وہی مفہوم تھا جو ترجمہ میں لکھا گیا۔ يقال هم متساندون، ای تحت رايات تشتی لاتجمعهم رایۃ امیر واحد۔

مقابلہ فریقین:

فریقین کا مقابلہ ہوا تو دون کے ابتدائی حصہ میں قریش پر کنانہ پر اور ان کے متعلقین پر قیس کے لئے شکست ہوئی مگر پچھلے پہروں میں قریش و کنانہ کے لئے قیس پر ہزیمت آئی۔^①

فاتحوں نے اپنے حریفوں کے قتل کرنے میں ایسی مرگامرگی پھیلائی (یعنی اس کثرت سے لوگوں کو قتل کیا کہ عتبہ بن ربیعہ نے جو اس وقت جوان تھے اور ہنوز ان کی عمر پورے تیس برس کی نہ ہوئی تھی، صلح کے لئے آوازدی اور اس شرط پر مصالحت ہو گئی کہ مقتولوں کا شمار کیا گیا اور قریش نے اپنے مقتولین کے علاوہ غنیم کے جن لوگوں کو قتل کیا تھا قیس کو ان سب کے خون بہادیئے۔ جنگ نے اپنے بوجھ رکھ دیئے (یعنی لڑائی ختم ہو گئی اور قریش و قیس دونوں اپنے مقام پر واپس آ گئے)۔

حرب الفجار میں آنحضرت ﷺ کی شرکت:

حرب الفجار کا تذکرہ کرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں اپنے چچاؤں کے ساتھ اس جنگ میں موجود تھا“ میں نے اس میں شرکت کی تھی، تیر چلائے تھے اور میں یہ نہیں چاہتا کہ ایسا میں کاش نہ کئے ہوتا (یعنی یہ شرکت جنگ و تیر اندازی موجب پشیمانی نہیں)۔“

رسول اللہ ﷺ جب اس میں شریک ہوئے ہیں اس وقت میں برس کے تھے اور یہ جنگ فجار واقعہ اصحاب فیل سے بیس برس بعد ہوئی تھی۔

حکیم بن حزام کہتے ہیں: ”میں نے دیکھا رسول اللہ ﷺ حرب الفجار میں موجود تھے۔“

محمد بن عمرو کہتے ہیں: ”عربوں نے فجار کے متعلق بہت سے اشعار کہے ہیں۔“

آنحضرت ﷺ اور حلف الفضول:

عروہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں نے حکیم بن حزام کو کہتے ہوئے سنا کہ قریش جب جنگ فجار سے واپس آ رہے تھے اس وقت حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا رسول اللہ ﷺ ان دنوں میں برس کے تھے۔

محمد بن عمرو کہتے ہیں: ضحاک کے علاوہ دوسرے راوی نے مجھ سے روایت کی کہ جنگ فجار شوال میں ہوئی تھی اور اس حلف کی نوبت ذی قعدہ میں آئی۔^②

① یعنی پہلے پہل میں قیس کو فتح، قریش کو شکست اور پچھلے میں قیس کو شکست قریش کو فتح ہوئی۔ ترجمہ میں عرب کا خاص انداز بیان دکھایا گیا ہے۔ اس مفہوم کو شکر ادا کرتے تھے۔

② پہلی روایت بحوالہ عروہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ کے راوی محمد بن عمرو الواقدی ہی ہیں جو انہوں نے ضحاک بن عثمان سے روایت کی ہے۔ ضحاک نے عبد اللہ بن عروہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ سے اور عبد اللہ نے اپنے والد عروہ رضی اللہ عنہ سے یہ دوسری روایت کسی دوسرے راوی سے ہے جس میں روایت ضحاک کی بظاہر تصحیح اور وہ حقیقت میں توضیح کی گئی ہے۔

جتنے عہد و بیان ہو چکے تھے حلف الفضول کا معاہدہ ان سب میں معزز تھا۔ سب سے پہلے زبیر بن عبدالمطلب نے اس کی دعوت دی بنی ہاشم و بنی زہرہ و بنی تیم یہ سب لوگ عبد اللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے زبیر نے ان کے لئے کھانے کا انتظام کیا۔ سب نے اللہ تعالیٰ کو بیچ میں ڈال کے ان لفظوں میں عہد کیا: ”جب تک دریا میں صوف کے بھگونے کی شان باقی ہے، ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے تا آنکہ اس کا حق ادا کیا جائے اور معاش میں ہم (اس کی) خبر گیری و مواسات بھی کریں گے۔“

قریش نے اسی بنا پر اس حلف (عہد) کا نام حلف الفضول رکھا۔

جبیر بن مطعم کہتے ہیں: میں ابن جدعان کے گھر میں جس حلف میں شریک ہوا تھا، مجھے یہ پسند نہیں کہ سرخ رنگ کے اونٹ ملیں تو میں اس کو توڑ دوں۔ ہاشم و زہرہ و تیم نے قسمیں کھائی تھیں کہ کوئی دریا جب تک کسی صوف کو بھگو سکتا ہے وہ مظلوم کا ساتھ دیں گے اور اگر مجھ کو (اب بھی) اس میں بلایا جائے تو میں قبول کر لوں گا۔ حلف الفضول یہی ہے۔

محمد بن عمرو کہتے ہیں: ہم کو معلوم نہیں کہ اس حلف میں بنی ہاشم سے کوئی سبقت لے گیا ہو (یعنی جہاں تک علم کی رسائی ہے) سب سے پہلے بنی ہاشم ہی نے اس کا خیر کی طرح ڈالی اور ایسے بابرکت عہد و بیان کے آثار استوار کئے۔

چچا کے کہنے پر سفر شام کے لئے روانگی:

نفسہ بنت منیہ کہ یعلیٰ بن منیہ کی بہن تھیں کہتی ہیں: رسول اللہ ﷺ جب پچیس برس کے ہو گئے تو ابوطالب نے کہا کہ میں ایسا شخص ہوں کہ میرے پاس مال کہاں، زمانہ ہم پر سخت گزر رہا ہے اور یہ تمہاری قوم کے قافلے ہیں جن کے سفر شام کا وقت آ گیا ہے۔ خدیجہ بنت خویلد اپنے تجارتی قافلوں میں تمہاری قوم کے کچھ لوگوں کو بھیجا کرتی ہیں اگر وہاں جا کے تم اپنے آپ کو ان پر پیش کرو تو وہ فوراً تمہیں منظور کر لیں گے۔

یہ گفتگو جو آنحضرت ﷺ اور آپ کے چچا کے درمیان ہوئی تھیں۔ خدیجہ بنت خویلد کو اس کی خبر پہنچی تو انہوں نے اس باب میں پیغام بھیجا۔ اور آنحضرت ﷺ کو کہلایا کہ آپ کی قوم کے کسی شخص کو میں جتنا (اجورہ) دیتی ہوں (آپ اس تجارتی سفر کے لئے رضامند ہو جائیں تو) آپ کی خدمت میں اس کا دو گنا پیش کروں گی۔

عبد اللہ بن عقیل کہتے ہیں ابوطالب نے کہا: اے میرے بھتیجے! مجھے یہ خبر ملی ہے کہ خدیجہ نے فلاں شخص کو دو بکروں کے عوض اپنا اجر مقرر کیا ہے۔ جو معاوضہ خدیجہ نے اس کو دیا ہے ہم اس معاوضہ پر تیرے لئے تو راضی نہیں مگر کیا تو اس سے گفتگو کرنے پر آمادہ ہے؟

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ما احببت (تو جیسا چاہے)۔

ابوطالب نے یہ سنا تو خدیجہ بنت خویلد کے پاس گئے اور ان سے کہا: ”اے خدیجہ! کیا تو محمد (ﷺ) کو اجرت پر کام دینے کے لئے راضی ہے؟ ہم کو خبر ملی ہے کہ تو نے فلاں شخص کو دو بکروں کے معاوضہ پر اپنا اجر مقرر کیا ہے۔ لیکن محمد (ﷺ) کے لئے تو چار

۱۔ بکرہ اردو میں تو بکرہ گو سفند زید کو کہتے ہیں مگر عربی میں جو ان اونٹوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اور یہاں مراد بھی یہی ہے۔

مکروں سے کم پر راضی نہ ہوں گے۔“

خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا: ”اگر کسی دور کے مبغوض آدمی کے لئے بھی تو یہ سوال کرتا تو ہم ایسا ہی کرتے، چہ جائے کہ تو نے ایک قریبی دوست کے لئے یہ خواہش کی ہے۔“

نسطور راہب سے ملاقات:

نفسیہ بنت مدیہ کہتی ہیں: ابو طالب نے رسول اللہ ﷺ سے کہا: ”یہ وہ رزق ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے تیری جانب اُسے بھیج کے بھیجا ہے۔ آخر رسول اللہ ﷺ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اور آپ کے جتنے چچا تھے سب نے اہل قافلہ کو آپ کے متعلق وصیت کی۔ چلتے چلتے آنحضرت ﷺ اور میسرہ ملک شام کے شہر بصری میں پہنچے اور وہاں ایک درخت کے سائے میں فروکش ہوئے۔“

نسطور راہب نے یہ دیکھ کے کہا: ”اس درخت کے نیچے بجز پیغمبر کے اور کوئی نہیں اُترا۔“

میسرہ نے پوچھا: ”کیا اس شخص (یعنی رسول اللہ ﷺ) کی آنکھوں میں سرخی ہے؟“

میسرہ نے کہا: ”ہاں! اور یہ سرخی کبھی اس سے جدا نہیں ہوتی۔“

نسطور نے کہا: ”وہ پیغمبر ہے اور سب میں پھلا پیغمبر ہے۔“

بتوں سے فطری بیزاری:

رسول اللہ ﷺ نے تجارتی مال و اسباب کو فروخت کر لیا تو ایک شخص اس سے مناقشہ ہوا۔ جس نے آنحضرت ﷺ سے لات و عڑی کے حلف اٹھانے کو کہا۔

آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”میں نے کبھی ان دونوں کی قسم نہیں کھائی اور میں تو گزرتے وقت ان سے منہ موڑ لیا کرتا ہوں۔“

اس شخص نے کہا: ”بات وہی ہے جو آپ نے فرمائی۔“

اور پھر میسرہ سے کہا:

((هذا والله نبيّ تجده احبارنا في كتبهم))

”خدا کی قسم! یہ تو وہی پیغمبر ہے جس کی صفت ہمارے علماء کتابوں میں مذکور پاتے ہیں۔“

میسرہ کا یہ حال تھا کہ جب دو پہر ہوتی اور گرمی بڑھتی تو وہ دیکھتا کہ دو فرشتے رسول اللہ ﷺ پر دھوپ سے سایہ کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اس کے دل نشین ہو گیا اور خدا نے اس کے دل میں آنحضرت ﷺ کی ایسی محبت ڈال دی کہ گویا وہ آنحضرت ﷺ کا غلام بن گیا۔

تجارتی قافلے کی واپسی:

قافلے نے اپنا تجارتی مال و اسباب فروخت کر کے فراغت کر لی۔ جس میں معمول سے دو چند نفع اُٹھایا، واپس چلے تو مقام مزالظہر ان میں پہنچ کے میسرہ نے عرض کی: ”یا محمد! آپ خدیجہ کے پاس چل دیجئے اور آپ کے باعث اللہ تعالیٰ نے خدیجہ کو

جوفع پہنچایا ہے اس کی اطلاع دیجئے۔ خدیجہ آپ کا یہ حق یاد رکھیں گی۔“

رسول اللہ ﷺ اس رائے کے مطابق پہلے روانہ ہو گئے تا آنکہ ظہر کے وقت مکہ پہنچے۔ خدیجہ اس وقت اپنے ایک بالا خانے میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ اپنے اونٹ پر سوار تشریف لاتے ہیں اور دو فرشتے ادھر ادھر سے سایہ کئے آتے ہیں۔ خدیجہ نے اپنے ہاں کی عورتوں کو یہ نظارہ دکھایا تو ان کو تعجب ہوا۔

رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور منافع کا حال بیان کیا تو خدیجہ رضی اللہ عنہا خوش ہوئیں اور جو کچھ دیکھا تھا بعد کو میسرہ کے آنے پر جب بیان کیا تو میسرہ نے کہا: ”میں تو جب سے ملک شام سے واپس آیا ہوں یہی دیکھتا آیا ہوں۔“

میسرہ نے وہ باتیں بھی کہہ دیں جو سطور راہب نے کہی تھیں اور اس شخص کی گفتگو بھی بیان کر دی جس نے مال کے بیچنے میں آنحضرت ﷺ سے مخالفت کی تھی۔“

رسول اللہ ﷺ کے قدم پہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تجارت ایسی کامیاب نکلی کہ جتنا پہلے منافع ہوا کرتا تھا اس سے دوچند نفع ہوا۔ آنحضرت ﷺ کے لئے خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو معاوضہ نامزد کیا تھا اس کو بھی دوچند کر دیا (یعنی بجائے چار کے آٹھ اونٹ کر دیئے)۔

خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آنحضرت ﷺ کا نکاح:

نفیسہ بنت منیہ کہتی ہیں: خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی اس بزرگی اور برتری کے ہوتے بھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چاہی تھی۔ حقیقتاً ایک عاقبت اندیش مستقل^① مزاج اور شریف بیوی تھیں۔

اور اس وقت تمام قریش میں باعتبار خاندان کے سب سے زیادہ شریف، باعتبار عزت کے سب سے بڑی اور باعتبار مال و دولت کے سب سے بڑھ کے تھیں۔ اگر ہو سکتا تو قوم کے جتنے لوگ تھے سب ان کے ساتھ نکاح کرنے کے خواہشمند تھے۔ یہ سب درخواست کر چکے تھے اور سب نے مال و زر بھی پیش کئے تھے۔

خدیجہ رضی اللہ عنہا کے تجارتی قافلے میں محمد (ﷺ) جب شام سے واپس آئے تو چپکے سے خدیجہ رضی اللہ عنہا نے مجھے ان کے پاس بھیجا اور میں نے کہا: ”اے محمد (ﷺ)! آپ کو نکاح کرنے سے کیا امر مانع ہے؟“

فرمایا: ”میرے ہاتھ میں وہ سامان نہیں جس سے نکاح کر سکوں۔“

میں نے عرض کی: ”اگر سامان ہو جائے اور آپ کو حسن و جمال و زر و مال و شرف کفایت کی جانب دعوت دی جائے تو کیا آپ قبول فرمائیں گے؟“

اچھا تو کون ہے؟

① مستقل مزاج: اصل میں جدہ ہے۔ جس کے معنی شدت و قوت والی عورت کے ہیں۔ استقلال طبیعت کے یہی اوصاف ہیں اور محاورے میں بھی مراد یہی ہے۔

میں نے عرض کی: ”خدیجہ رضی اللہ عنہا“۔

فرمایا: ”وہ میرے لئے کیونکر؟ (یعنی میرے ساتھ ان کی تزویج کی کیا سبیل ہے)۔“

میں نے عرض کی: ”یہ میرا ذمہ“۔

فرمایا: ”تو میں کروں گا“۔

میں نے جا کر خدیجہ رضی اللہ عنہا کو خبر دی تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ فلاں وقت آئیں اور اپنے چچا عمرو بن اسد کو بلایا کہ وہ آ کر نکاح کر دیں چنانچہ وہ حاضر ہو گئے۔

رسول اللہ ﷺ اپنے چچاؤں کے ساتھ تشریف لائے جن میں سے ایک نے رسم نکاح ادا کی۔

عمرو بن اسد نے اس موقع پر کہا: هذا البقع لا يقرع انفه (یہ وہ نکاح ہے کہ اس کی ناک نہیں ٹکرائی جاسکتی، یعنی اس پر کسی قسم کی نکتہ چینی و حرف گیری ممکن نہیں)۔

رسول اللہ ﷺ نے جب یہ نکاح کیا ہے تو آپ ﷺ اس وقت پچیس برس کے تھے اور خدیجہ رضی اللہ عنہا ان دنوں چالیس برس کی تھیں۔ واقعہ اصحاب قبل سے وہ پندرہ برس پہلے پیدا ہو چکی تھیں۔

محمد بن جبیر بن مطعم عائشہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا عمرو بن اسد نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کیا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد حرب بن ہاشم سے پہلے مر چکے تھے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: عمرو بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی نے خدیجہ رضی اللہ عنہا بنت خویلد کو رسول اللہ ﷺ کے عقد نکاح میں دیا، عمرو اس وقت بہت بوڑھے تھے، اسد کے صلب سے اس وقت بجز عمرو کے اور کوئی اولاد باقی نہیں رہی تھی، اور عمر بن اسد کے تو کوئی پیدا ہی نہ ہوا۔

دوسرے گھڑت روایتیں:

(۱) معمر بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ ابو جحز نے روایت کی کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی بہن سے کہا: (محمد ﷺ) کے پاس جا کے ان سے میرا تذکرہ کر۔ یہی الفاظ تھے یا اسی قسم کے الفاظ کہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن آنحضرت (ﷺ) کے پاس آئیں اور جو خدا نے چاہا آنحضرت ﷺ نے ان کو جواب دیا۔

ان لوگوں نے (یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف کے لوگوں نے) اتفاق کر لیا کہ رسول اللہ ﷺ ہی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کریں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد کو اتنی شراب پلائی گئی کہ وہ مست ہو گئے۔ پھر محمد ﷺ کو بلایا اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کو آپ کے نکاح میں دے دیا۔ بوڑھے کو ایک لباس پہنا دیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو پوچھا: یہ خلع کیا؟

لوگوں نے جواب دیا: یہ تجھے تیرے داماد محمد (ﷺ) نے پہنایا ہے۔

بوڑھا بگڑ گیا اور ہتھیار اٹھالیا۔ بنی ہاشم نے بھی ہتھیار سنبھالے اور کہا: کچھ اس قدر ہم تمہارے خواہشمند نہ تھے۔

اس کشاکشی کے بعد آخر کار مصالحت ہو گئی۔

(۲) محمد بن عمر اس سند کے علاوہ دوسری سند سے روایت کرتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے والد کو اس قدر شراب پلائی کہ وہ مست ہو گیا۔ گائے ذبح کی، والد کے جسم میں خوشبو لگائی اور ایک محکط (دھاری دار) خلع پہنایا۔ جب اسے ہوش آیا تو پوچھا: ما هذا العقیبر، و ما هذا العبیر، و ما هذا العجبر؟ (یہ ذبیحہ کیسا؟ یہ خوشبو کیسی؟ اور یہ دھاری دار لباس کیسا؟)۔

خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا: تو نے مجھے محمد (ﷺ) کے عقد نکاح میں دے دیا ہے (یہ سب کچھ اسی ذیل میں ہے)۔ اس نے کہا: میں نے یہ کام نہیں کیا۔ بھلا میں ایسا کام کیوں کروں گا۔ بزرگان قریش نے تجھے پیغام دیا تب تو میں نے کیا ہی نہیں؟ محمد بن عمرو کہتے ہیں: ہمارے نزدیک یہ سب سہو و نسیان اور وہم ہے۔ جو بات ہمارے نزدیک ثابت ہے اور اہل علم سے محفوظ چلی آتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے باپ خویلد بن اسد کا جنگ فجار سے بیشتر انتقال ہو چکا تھا۔ اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ان کے چچا عمرو بن اسد نے رسول اللہ ﷺ کے عقد نکاح میں دیا تھا۔

آنحضرت ﷺ کی اولاد اور ان کے نام

ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ کے پہلے فرزند قاسم تھے جو نبوت سے پہلے مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ رسول اللہ ﷺ انہیں کے نام پر کنیت بھی کرتے تھے (یعنی ابوالقاسم کنیت اسی بناء پر تھی کہ قاسم آپ کے فرزند کا نام نامی تھا)۔ بعد کو آپ کے صلب سے نہنب رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں۔

✽ پھر رقیہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں۔

✽ پھر فاطمہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں۔

✽ پھر اُمّ کلثوم رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں۔

✽ عبدالسلام میں (یعنی بعثت کے بعد آپ کے صلب سے عبداللہ پیدا ہوئے جن کا طیب و طاہر لقب پڑا)۔

ان تمام نبی زادوں اور نبی زادیوں کی والدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزی بن قصی اور خدیجہ

رضی اللہ عنہا کی ماں فاطمہ تھیں، بنت زائدہ ابن الاعم بن مریم بن رواحہ بن خُزیمہ بن معیض بن عامر بن لؤی۔

ان سب میں پہلے قاسم نے انتقال فرمایا۔ پھر عبداللہ نے وفات پائی اور یہ دونوں حادثے مکہ میں ہوئے۔ عاص بن وائل السہمی نے اس موقع پر کہا کہ:

قد انقطع ولدہ فھر ابتر۔

”آپ کی اولاد منقطع ہو گئی لہذا ابتر ہیں۔“

① وہم و سہو: اصل میں لفظ اوہل ہے جس کے معنی ضعف و نسیان، وہم اور غلطی کے ہیں۔ توہل کا استعمال یہیں سے نکلا ہے۔ جس کے معنی معرض غلطی میں آنے یا لانے کے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اس پر آیت نازل فرمائی:

﴿إِنْ شَأْنُكَ هُوَ الْآبَتُ﴾

”حقیقت میں ابتروہ ہے جو تیری عیب جوئی کرتا ہے یا تجھ پر عیب لگاتا ہے۔“

محمد بن جبیر بن مطعم کہتے ہیں:

قاسم دو برس کے تھے کہ انتقال کیا۔^①

سلمیٰ صفیہ بنت عبدالمطلب کی آزاد لونڈی، خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زوجگی میں دائیگی کا کام کیا کرتی تھیں (یعنی وہی قابلہ ہوتی تھیں)۔ لڑکا ہوتا تو خدیجہ رضی اللہ عنہا دو بکریاں لڑکی ہوتی تو ایک بکری کا عقیقہ کرتیں۔ دودھ لڑکوں کے درمیان ایک ایک کا فاصلہ تھا۔ لڑکوں کے لئے دودھ پلانے والیاں مقرر کیا کرتیں اور ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ انتظام کر لیتیں۔

ابراہیم بن النبی ﷺ:

عبدالجبار بن جعفر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب ہجرت کے چھٹے سال ماہ ذیقعدہ میں حدیبیہ سے واپس آئے تو آپ نے حاطب بن ابی بلتعہ کو مقوقس قطبی والی اسکندریہ کے پاس بھیجا اور انہیں ایک خط بھی دیا جس میں مقوقس کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ مقوقس نے جب یہ پڑھا تو حاطب سے اچھی باتیں کیں۔ خط سر بہر تھا۔ مقوقس نے اس کو ہاتھی دانت کی ایک ڈبیہ میں رکھ کے اس پر مہر لگا کے ایک لونڈی کے سپرد کر دیا اور رسول اللہ ﷺ کے خط کا جواب لکھا مگر اسلام نہ لایا۔

مقوقس نے رسول اللہ ﷺ کی جناب میں:

❁ ماریہ کو۔

❁ ان کی بہن سیرین کو۔

❁ اپنے گدھے کو جس کا نام یعقور تھا۔

❁ اپنے خچر کو جس کا نام دلدل تھا، تحفہ بھیجا۔ یہ خچر سفید رنگ کا تھا اور ان دنوں عرب میں بھی ایسا خچر نہ تھا۔

ابوسعید کہ اہل علم میں سے تھے، کہتے ہیں: ماریہ رضی اللہ عنہا علاقہ انصنا (مصر) کے مقام ہن کی تھیں۔

عبدالرحمن بن عبدالرحمن بن ابی حصہ کہتے ہیں: ماریہ رضی اللہ عنہا قطبیہ سے رسول اللہ ﷺ خوش ہوتے تھے۔ وہ گورے رنگ گھونگھریا لے بال کی حسین و جمیل بیوی تھیں۔

① اس روایت کا سلسلہ اسناد یوں ہے:

((اخیر نا محمد بن عمر قال حدثنی عمر و بن سلمة الہذلی بن سعد بن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیہ قال ((الخ))

اس میں سلمہ الہذلی اور سعد کے درمیان لفظ ”بن“ غلط ہے اور بجائے اس کے عن ہونا چاہئے کیونکہ سعید بن محمد کے سلسلہ اولاد میں عمرو بن سلمہ نہ تھے۔ واللہ اعلم

ماریہ قبطیہ بنی اسرائیل:

رسول اللہ ﷺ نے ان کو اور ان کی بہن کو ام سلیم بنت ملحان کے ہاں ٹھہرایا اور پھر ان کے پاس آ کر دونوں بیبیوں پر اسلام پیش کیا اور دونوں مسلمان ہو گئیں۔

رسول اللہ ﷺ نے ماریہ قبطیہ کو ملک یمن کی حیثیت سے اپنے پاس رکھا۔ بنی مضر کے اموال و اسباب میں آنحضرت ﷺ کا کچھ مال مقام عالیہ میں تھا۔ ماریہ رضی اللہ عنہا کو بھی وہیں بھیج دیا جہاں وہ گرمیوں میں رہیں اور خزانہ النخل میں بھی رہتی تھیں۔ رسول اللہ ﷺ وہیں ان کے پاس آیا کرتے تھے وہ اچھی دیندار تھیں۔

رسول اللہ ﷺ نے ماریہ رضی اللہ عنہا کی بہن سیرین رضی اللہ عنہا حسان بن ثابت شاعر کو بخش دی جن کے بطن سے حسان کے بیٹے عبدالرحمن پیدا ہوئے۔

حضرت ماریہ کے ہاں بیٹے کی پیدائش:

رسول اللہ ﷺ کے صلب سے ماریہ رضی اللہ عنہا کے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام آنحضرت ﷺ نے ابراہیم رضی اللہ عنہ رکھا۔ ساتویں دن آنحضرت ﷺ نے ان کا عقیقہ کیا، ایک بکری ذبح کی، ابراہیم کے سر کے بال اتروائے اور اس کے ہم وزن چاندی مسکینوں کو خیرات کی۔ بالوں کو فرمایا تو زمین میں دفن کر دیئے گئے اور لڑکے کا نام ابراہیم رکھا گیا۔ ابراہیم رضی اللہ عنہ کی دانی رسول اللہ ﷺ کی آزاد لونڈی سلمیٰ تھیں۔ سلمیٰ نکل کے اپنے شوہر ابو رافع کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ میں نے ایک لڑکے کی دایگی کی ہے۔ ابو رافع رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور آنحضرت ﷺ کو مبارکباد دی۔ آنحضرت ﷺ نے انہیں ایک غلام انعام دیا۔

بھول اللہ ﷺ کی بیویاں رشک کھانے لگیں اور جس وقت ماریہ رضی اللہ عنہا کے لڑکا ہوا تو ان پر یہ بات گراں گزری۔ ابو جعفر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ (کچھ دنوں ماریہ رضی اللہ عنہا کے پاس نہ گئے کیونکہ آپ کی بیویوں پر وہ گراں گزرتی تھیں) بیویاں ان پر رشک کھاتی تھیں مگر نہ اس قدر جتنا عائشہ رضی اللہ عنہا کو رشک تھا۔

محمد بن عمرو کہتے ہیں: ابراہیم رضی اللہ عنہ ہجرت کے آٹھویں سال ماہ ذی الحجہ میں ماریہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ابراہیم رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ ﷺ کے پاس آ کے کہا: السلام علیک یا ابا ابراہیم (اے ابراہیم کے والد! السلام علیکم)۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: صبح کے وقت رسول اللہ ﷺ (حرم) سے باہر نکل کے ہمارے پاس آئے اور فرمایا کہ آج شب کو میرے ایک لڑکا پیدا ہوا ہے اور میں نے اپنے باپ کے نام پر اس کا نام ابراہیم رکھا ہے۔

حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کل رات میرے ایک لڑکا پیدا ہوا ہے اور میں نے اپنے باپ کے نام پر اس کا نام ابراہیم رضی اللہ عنہ رکھا ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ابراہیم رضی اللہ عنہ کی والدہ سے جب ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ابراہیم کی ماں کو جو (ملک یمن تھیں) ان کے لڑکے (ابراہیم) نے آزاد کر دیا۔

شیر خواری:

عبداللہ بن عبدالرحمن کہتے ہیں: ابراہیم رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے تو زنانہ انصار نے باہم رغبت کی کہ کون انہیں دودھ پلائے (یعنی سب چاہتی تھیں کہ ابراہیم کو ہم ہی دودھ پلائیں کوئی دوسری مرضہ نہ ہو)۔

رسول اللہ ﷺ نے ابراہیم رضی اللہ عنہ کو ام بردہ رضی اللہ عنہا کے سپرد کر دیا، بنت المنذر بن زید بن لبید بن خواش بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار۔

ام بردہ کے شوہر براء رضی اللہ عنہ تھے۔ ابن اوس بن خالد بن النجور بن عوف بن منذول بن عمرو بن غنم بن عدی بن النجار۔ ابراہیم رضی اللہ عنہ کو ام بردہ رضی اللہ عنہا دودھ پلاتی تھیں۔ اور وہ اپنے انہیں رضاعی باپ ماں کے پاس محلہ بنی النجار میں رہتے تھے۔

رسول اللہ ﷺ بھی ام بردہ کے گھر آتے تھے اور دوپہر کے وقت وہیں قیلولہ فرماتے تھے۔ اور اس وقت ابراہیم رضی اللہ عنہ آحضرت ﷺ کے پاس لائے جاتے تھے۔

آحضرت ﷺ کا اہل و عیال سے حسن سلوک:

انس رضی اللہ عنہ بن مالک کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ آج رات میرے ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جس کا نام میں نے اپنے باپ کے نام پر رکھا ہے۔

آحضرت (صلوات اللہ علیہ والسلام) نے ابراہیم علیہ السلام کو ام سیف کے حوالے کر دیا جو مدینے کے ایک لوہار کی بیوی تھیں۔ اس لوہار کا نام ابوسیف تھا۔

رسول اللہ ﷺ تشریف لے چلے اور میں آپ کے پیچھے ہولیا۔ تا آنکہ ہم ابو یوسف کے پاس پہنچے جو اس وقت اپنی دھوکنی دھونک رہے تھے اور تمام گھر دھوئیں سے بھر گیا تھا۔ میں آحضرت علیہ السلام سے آگے بڑھنے میں جلدی کر کے ابو یوسف کے یہاں پہنچ گیا اور ان سے کہا: ابوسیف روک دے رسول اللہ ﷺ آگئے۔

ابوسیف روک گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے لڑکے کو بلوایا، سینے سے لگایا اور جو خدا نے چاہا فرمایا۔

انس بن مالک کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ سے زیادہ میں نے کسی کو عیال و اطفال پر مہربان نہ پایا۔ ابراہیم رضی اللہ عنہ کے دودھ پینے اور رہنے کا انتظام عوالی مدینہ (بالائی حصہ شہر) میں تھا۔ آحضرت ﷺ وہیں تشریف لے جاتے تھے اور ساتھ ہم بھی آتے تھے۔

گھر میں دھواں بھرا ہوتا۔ آپ اندر جاتے، کیونکہ ابراہیم رضی اللہ عنہ کے مرضہ کے شوہر لوہار تھے۔ ابراہیم رضی اللہ عنہ کو آحضرت ﷺ (اپنی گود میں) لے لیتے اور بوسہ دیتے تھے۔

عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: ابراہیم رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے تو رسول اللہ ﷺ ان کو لئے ہوئے میرے پاس آئے اور فرمایا: میرے ساتھ اس کی شہادت دیکھ۔

میں نے کہا: میں تو کوئی شباہت نہیں دیکھی۔

فرمایا: کیا تو اس کے گورے رنگ اور گوشت کو نہیں دیکھتی۔

میں نے کہا: جو صرف دانی (یا اونٹنی) کے دودھ سے پالا جاتا ہے وہ گورا اور موٹا فربہ ہوا کرتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی دوسری روایت عمرو نے کی ہے اور اس کا بھی یہی مضمون ہے۔ البتہ اس میں یہ فقرہ

ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: جسے بھیڑ کا دودھ پلایا جائے وہ فربہ اور گورا ہوتا ہے۔

محمد بن عمرو کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ کی چند راس بھیڑ بکریاں ابراہیم رضی اللہ عنہ کے واسطے مخصوص تھیں اور ایک اونٹنی کا دودھ

بھی انہیں کے لئے خاص تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا اور ان کی والدہ ماریہ رضی اللہ عنہا کا جسم اچھا تھا۔

آنحضرت ﷺ کے لخت جگر ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات

مکحول کہتے ہیں: ابراہیم رضی اللہ عنہ کے نزع روح کا عالم تھا کہ رسول اللہ ﷺ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سہارے اندر

تشریف لائے۔ ابراہیم رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے، تو آنحضرت ﷺ آبدیدہ ہو گئے۔

عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ کے کہا: یا رسول اللہ (ﷺ) یہی بات تو ہے جس سے آپ ﷺ لوگوں کو منع فرمایا کرتے۔

مسلمان جب آپ کو روتے دیکھیں گے تو سب رونے لگیں گے۔

آنحضرت ﷺ کے جب آنسو تھے تو فرمایا: فقط رحم کی بات ہے اور جو خود رحم نہیں کرتا اس پر رحم کیا بھی نہیں جاتا۔ ہم

تو لوگوں کو صرف نوحہ کرنے سے روکتے ہیں اور اس امر سے کہ کسی شخص کا ماتم یوں کیا جائے کہ جو باتیں اس میں نہ ہوں ان کا

بیان ہو۔

پھر فرمایا: اگر یہ جامع راستہ نہ ہوتا (یعنی اگر سبیل موت جامع جمع عالم نہ ہوتی) اگر یہ ایسی راہ نہ ہوتی جس پر سب

ہی کو چلنا ہے اور جو ہم میں پیچھے ہیں وہ ہمارے اگلوں سے مل جانے والے ہیں تو اس غم کے علاوہ ہم ابراہیم رضی اللہ عنہ پر کچھ اور ہی

غم کئے ہوتے۔ اور ہم (اس حالت میں بھی) اس کی وفات پر رنجیدہ ہیں۔ آنکھیں اشک بار ہیں، دل رنجیدہ ہے، مگر ہم ایسی

بات نہیں کرتے جو پروردگار کو ناخوش کر دے۔ ابراہیم رضی اللہ عنہ کی رضاعت (شیر خوارگی) کا جو زمانہ باقی رہ گیا وہ تو بہشت

میں پورا ہوگا۔

عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ میرا ہاتھ پکڑ کے اس نخلستان کو لے چلے جہاں ابراہیم رضی اللہ عنہ تھے۔

ان کا دم نکل ہی رہا تھا کہ آپ نے میری آغوش میں دے دیا۔ آنحضرت ﷺ یہ دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے۔ تو میں نے عرض کیا: یا

رسول اللہ ﷺ آپ گریاں ہیں؟ کیا آپ نے گریہ و بکا سے منع نہیں کیا تھا؟

میں نے نوے کی ممانعت کی تھی، دو احمقانہ فاجرانہ آوازوں کی ممانعت کی تھی، ایک آواز وہ کہ عیش و نعمت کے وقت بلند ہو

جو بولع و مزہ میرے شیطان ہے اور دوسری وہ آواز کہ مصیبت کے وقت نکلے۔ جو چروں کا خراشنا، جیب و دامن پھاڑنا، اور شیطان کی

جھنکار ہے۔

حدیبیہ میں عبداللہ بن نمیر نے (اسی) ذیل میں آنحضرت ﷺ کا یہ فقرہ بھی بیان کیا کہ یہ تو فقط رحم کی بات ہے اور جو خود رحم نہیں کرتا اس پر رحم کیا بھی نہیں جاتا۔^①

اے ابراہیم رضی اللہ عنہ! اگر یہ (موت کا معاملہ) امر حق نہ ہوتا، اگر یہ وعدہ صادق نہ ہوتا، اگر یہ ایسا راستہ نہ ہوتا جس پر سب ہی کو چلنا ہے اور ہم میں جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ بھی اگلوں کے ساتھ عنقریب شامل ہو جانے والے ہیں تو ہم تجھ پر اس سے کہیں زیادہ سخت رنج کئے ہوتے۔

اور حقیقت میں ہم تیرے واسطے رنجیدہ ہیں، آنکھ میں آنسو بھرے ہیں، دل رنج سے لبریز ہے۔ اس پر بھی ہم ایسی بات نہیں کہتے جو پروردگار عزوجل کو ناخوش کر دے۔

مکحول سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے فرزند ابراہیم رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، جو سکرات اور چل چلاؤ کے عالم میں تھے اور آنحضرت (سلام اللہ علیہ) آبدیدہ ہو گئے۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔ عرض کی: آپ گریہ کرتے ہیں، حالانکہ آپ نے گریے سے روکا ہے۔

فرمایا: میں نے فقط نوحہ کرنے سے روکا ہے اور اس بات کی ممانعت کی ہے کہ مرنے والے میں جو وصف نہ ہو اس کا بین کیا جائے۔ گریہ بے اختیار تو حقیقت میں رحمت ہے۔

عطا کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے فرزند ابراہیم رضی اللہ عنہ نے جب انتقال کیا تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا: دل عنقریب رنجیدہ ہوا چاہتا ہے، آنکھ عنقریب اشک بار ہونے کو ہے، بایں ہمہ ایسی بات ہرگز ہم نہ کہیں گے جو پروردگار کو ناخوش کر دے۔ اگر یہ سچا وعدہ اور جامع دن نہ ہوتا تو ہمارا غم تجھ پر بہت سخت بڑھ جاتا، اور اے ابراہیم رضی اللہ عنہ ہم تیرے لئے رنجیدہ ہیں۔

بکیر رضی اللہ عنہ بن عبد اللہ بن الاشج سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے فرزند پر گریہ فرمایا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے چیخ کے نالہ کیا۔ آنحضرت ﷺ نے انہیں روک دیا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی: میں نے تو آپ ﷺ کو روتے دیکھا۔ فرمایا: رونا رحمت ہے اور چیخنا شیطان سے ہے۔

حکم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ابراہیم رضی اللہ عنہ نے جب انتقال کیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر یہ معدود اجل نہ ہوتی، اگر یہ معلوم وقت نہ ہوتا، تو جتنا رنج ہم نے کیا ہے اس سے زیادہ سخت رنج کرتے۔ آنکھ آبدیدہ ہے، دل رنجیدہ ہے، مگر اللہ نے چاہا تو ہم وہی باتیں کہیں گے جو پروردگار کو راضی رکھیں۔ اور اے ابراہیم رضی اللہ عنہ! تیری وفات پر ہم رنجیدہ ہیں۔

قتادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے فرزند ابراہیم رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آنکھ آبدیدہ ہے، دل رنجیدہ ہے، مگر اللہ نے چاہا تو ہم اچھی ہی بات کہیں گے اور اے ابراہیم رضی اللہ عنہ! ہم تجھ پر غمگین ہیں۔

① یہ ایک جملہ معترضہ تھا اب پھر روایت سابقہ شروع ہوتی ہے۔ آنحضرت ﷺ کے بقیہ ارشادات۔

اسی روایت میں آنحضرت ﷺ نے یہ بھی فرمایا: ابراہیم رضی اللہ عنہ کی بقیہ شیر خوارگی بہشت میں پوری ہوگی۔

عمر بن سعید کہتے ہیں: ابراہیم نے جب وفات پائی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ابراہیم میرا فرزند ہے، وہ دودھ پیتے مرا ہے، بہشت میں اس کے لئے دو دایاں (اقائیں) ہیں جو اس کی شیر خوارگی کی تکمیل کر رہی ہیں۔

شعبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بہشت میں ابراہیم رضی اللہ عنہ کو ایک دودھ پلانے والی دائی ہے جو اس کی شیر خوارگی کا بقیہ پورا کر رہی ہے۔

براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ کے فرزند ابراہیم رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس کی ایک دودھ پلانے والی بہشت میں ہے۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں نے ابراہیم رضی اللہ عنہ کو دیکھا جو رسول اللہ ﷺ کے روبرو دم توڑ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ ﷺ کی دونوں آنکھیں بھر آئیں اور فرمایا کہ آنکھ آبدیدہ ہے دل رنجیدہ ہے اور ہم بجز اس بات کے جس سے ہمارا پروردگار راضی رہے کچھ اور نہیں کہتے۔ اے ابراہیم! واللہ ہم تیرے لئے غمگین ہیں۔

قائد سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے فرزند کی نماز جنازہ پڑھی اور فرمایا کہ اس کی شیر خوارگی بہشت میں پوری ہوگی۔

براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے فرزند ابراہیم رضی اللہ عنہ پر نماز پڑھی جو (ماریہ رضی اللہ عنہا) قطیفہ کے بطن سے تھے۔ ابراہیم رضی اللہ عنہ جب مرے ہیں تو سولہ مہینے کے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس کے لئے ایک اقا ہے جو بہشت میں اس کی شیر خوارگی پوری کر رہی ہے اور وہ صدیق ہے۔

عابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے فرزند ابراہیم رضی اللہ عنہ پر نماز پڑھی۔ اور وہ سولہ (۱۶) مہینے کے تھے۔ براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ابراہیم رضی اللہ عنہ کی ایک دودھ پلانے والی بہشت میں ہے جو اس کی شیر خوارگی کا بقیہ پورا کر رہی ہے۔ اور وہ صدیق اور شہید ہے۔

اسماعیل السدی کہتے ہیں: میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آیا رسول اللہ ﷺ نے اپنے فرزند ابراہیم رضی اللہ عنہ پر نماز پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا: مجھے معلوم نہیں۔ اللہ ابراہیم رضی اللہ عنہ پر رحم کرے، وہ اگر جیتے تو صدیق و نبی ہوتے۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے اپنے فرزند ابراہیم رضی اللہ عنہ پر (جنازے کی نماز میں) چار تکبیریں کہیں۔ جعفر بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے فرزند ابراہیم رضی اللہ عنہ نے انتقال کیا تو آنحضرت ﷺ نے ان پر نماز پڑھی۔

① وہ دودھ پیتے مرا ہے۔ اصل میں ہے: انہ مات فی الصدی۔ عربوں میں ان دنوں محاورہ تھا کہ جو بچہ عالم شیر خوارگی میں انتقال کرتے تو ان کے لئے کہتے وہ چھاتی (پستان) میں مرا ہے شفاء وہی ہے جو تر ہے میں ہے۔

مسعر بحوالہ عدی بن ثابت روایت کرتے ہیں کہ عدی نے براء رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ بہشت میں رسول اللہ ﷺ کے فرزند متوفی کی دودھ پلانے والی یادائی ہے۔

حدیث میں دودھ پلانے والی کا لفظ تھا یادائی کا؟ مسعر کو اس میں شک ہے۔

براء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ کے فرزند ابراہیم رضی اللہ عنہ نے (۱۶) مہینے کی عمر میں وفات پائی۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اسے بقیع میں دفن کرو اس لئے کہ اس کی ایک دودھ پلانے والی بہشت میں ہے۔ ابراہیم رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ کی ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے۔

محمد بن عمر بن علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کہتے ہیں: بقیع میں پہلے پہل عثمان رضی اللہ عنہ بن مظعون دفن ہوئے۔ پھر ابراہیم رضی اللہ عنہ فرزند رسول اللہ ﷺ کی نوبت آئی۔

محمد بن موسیٰ (راوی حدیث) کہتے ہیں کہ محمد بن عمر بن علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب نے مجھے خبر دینے کے لئے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا۔

بقیع کی حد پر پہنچ کے اس مڑبلے کے نیچے سے گزرتے ہوئے جو مکان کے پیچھے ہے بائیں جانب سے ہو کر مکان کی منہا سے آگے بڑھے تو وہیں ابراہیم رضی اللہ عنہ کی قبر ہے۔

ابراہیم بن نوفل بن المغیرہ بن سعید الباشمی نے خاندان علی رضی اللہ عنہ (ابن ابی طالب) کے ایک شخص سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے جب ابراہیم رضی اللہ عنہ کو دفن کیا تو فرمایا: کیا کوئی ہے جو ایک منک لائے؟

ایک انصاری یہ سن کے ایک منک پانی لایا تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اسے ابراہیم رضی اللہ عنہ کی قبر پر چھڑک دے۔

ابراہیم رضی اللہ عنہ کی قبر راستے کے قریب ہے اسی کے ساتھ راوی نے اشارہ کیا کہ یہ قبر عقیل کے مکان کے قریب ہے۔

عطا کہتے ہیں: ابراہیم رضی اللہ عنہ کی قبر جب برابر ہو چکی تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دیکھا کہ جیسے پتھر قبر کے کنارے پڑا ہوا آنحضرت ﷺ اپنی انگلی سے برابر کرنے لگے اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب کوئی کام کرے تو اسے درست طور پر کرنا چاہئے کہ مصیبت زدہ کی طبیعت کو اس سے تسلی ہوتی ہے۔

مکمل کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے اپنے بیٹے کی قبر کے کنارے دیکھا تو لحد میں ایک شگاف نظر آیا، گور کن کو خشک مٹی کا ایک ٹکڑا ① (بڑا ڈھیلا) دے کر فرمایا:

((انہا لا تضر ولا تنفع ولكنها تقر عين الحي))

”یہ نہ مضر ہے نہ مفید لیکن زندہ آدمی کی آنکھ میں اس سے ٹھنڈک آتی ہے یعنی مرنے والے کو قبر کی درستی و نادرستی سے کوئی سروکار نہ اس سے مضرت نہ اس سے نفع تاہم دیکھنے والا جب قبر کو درست دیکھتا ہے تو ایک گونہ تسلی ہوتی ہے۔“

① خشک مٹی کا ٹکڑا یا ڈھیلا اصل میں لفظ مذکر ہے جس کے یہی معنی ہیں۔

ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت سورج گرہن:

سائب بن مالک کہتے ہیں: آفتاب میں کسوف (گرہن) آ گیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ کے فرزند ابراہیم رضی اللہ عنہ نے اسی دن وفات پائی۔

مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: جس دن ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی سورج میں گرہن لگ گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: خدا کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں آفتاب و ماہتاب بھی ہیں۔ کسی کی موت سے ان میں گہن نہیں لگتا۔ جب تم دونوں کو گہن کی حالت میں دیکھو تو دعا کرو تا آنکہ کھل جائیں۔

حمود بن لبید کہتے ہیں: جس دن ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی آفتاب میں گہن لگ گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے جب یہ سنا تو باہر نکل آئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا: عقیدے کی اصلاح:

اما بعد! ایہا الناس ان الشمس والقمر ایتان من آیات اللہ لا ینکسفان لموت احدہ ولا لحیاء احدہ فاذا رایتم ذلک فافزعوا الی المساجد۔

”اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اے لوگو! واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں آفتاب و ماہتاب بھی ہیں۔ نہ کسی کی موت سے گہنا تے ہیں نہ کسی کی حیات سے۔ لہذا جب تک تم یہ کیفیت دیکھو تو (زوالِ نعمت کے نمونے سے) سہمے ہوئے مسجدوں کی جانب رجوع کرو۔ یعنی جناب الہی میں دست بدعا ہو کہ اپنے فضل سے جو نور و نعمت ہمیں عنایت فرمائی ہے وہ برقرار رہے ایسا نہ ہو کہ انہیں کی طرح ان میں بھی زوال آئے۔“

یہ کہتے ہوئے رسول اللہ ﷺ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔

لوگوں نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! آپ ﷺ تو خدا کے پیغمبر ہیں پھر آپ روتے ہیں؟

فرمایا: میں فقط ایک انسان ہی تو ہوں آنکھ میں آنسو بھرے ہیں دل میں خشوع ہے بایں ہمہ ایسی بات نہیں کہتا جو پروردگار کو ناراض کر دے۔ خدا کی قسم اے ابراہیم! حقیقت میں ہم تیرے لئے رنجیدہ ہیں۔

ابراہیم رضی اللہ عنہ نے جب انتقال کیا تو اٹھارہ مہینے کے تھے اور رسول اللہ ﷺ نے اس موقع پر فرمایا کہ ابراہیم رضی اللہ عنہ کی ایک دودھ پلانے والی بہشت میں ہے۔

عامر کہتے ہیں: ابراہیم رضی اللہ عنہ اٹھارہ مہینے کے تھے کہ وفات پائی۔

اسماء بنت یزید کہتی ہیں: ابراہیم رضی اللہ عنہ نے جب وفات پائی تو رسول اللہ ﷺ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔

تقریرت کرنے والے نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! خدا کا حق جاننے پہچاننے کے سب سے زیادہ شایان آپ ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آنکھ میں آنسو بھرے ہیں دل رنجیدہ ہے مگر ہم ایسی بات نہیں کہتے جو پروردگار کو ناراض کر دے۔

اگر یہ (وعدہ موت) سچا اور جامع وعدہ نہ ہوتا اگرچھلے اگلوں کے ساتھ جا ملنے والے نہ ہوتے تو اے ابراہیم! تجھ پر ہم اس سے زیادہ غم کرتے اور ہم واقع میں تیرے واسطے رنجیدہ ہیں۔

عبدالرحمن بن حسان رضی اللہ عنہ بن ثابت اپنی والدہ سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: ابراہیم رضی اللہ عنہ کے حادثے میں میں موجود تھی۔ میں نے دیکھا کہ جب میں اور میری بہن جینتی تھیں تو رسول اللہ ﷺ اس وقت روکتے نہ تھے۔ ابراہیم رضی اللہ عنہ جب انتقال کر گئے تو آپ ﷺ نے مالہ و فریاد سے منع فرمایا۔

فضل بن عباس رضی اللہ عنہ نے غسل دیا، رسول اللہ ﷺ اور عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اس کے بعد جنازہ اٹھایا گیا تو میں نے دیکھا رسول اللہ ﷺ قبر کے کنارے تھے اور عباس رضی اللہ عنہ آپ کے پہلو میں بیٹھے تھے۔ قبر میں فضل بن عباس رضی اللہ عنہ و اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اترے۔ میں قبر کے پاس آ رہی تھی مگر کوئی منع نہ کرتا تھا۔

اس دن آفتاب گہنا گیا تو لوگوں نے کہا: یہ ابراہیم رضی اللہ عنہ کی موت کے باعث ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آفتاب کسی موت و حیات سے نہیں گہناتا۔

اینٹ میں شگاف دیکھ کے رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ اسے بند کر دیا جائے۔

اس کے متعلق رسول اللہ ﷺ سے گزارش کی گئی تو فرمایا: اس سے نہ ضرر پہنچتا ہے نہ نفع ہوتا ہے، لیکن زندہ آدمی کی آنکھ

اس سے خشک ہوتی ہے۔ بندہ جب کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسے درست اور ٹھیک طرح سے کرے۔

ابراہیم رضی اللہ عنہ نے سہ شنبہ کے دن وفات پائی۔ رجب الاول کی دس شبیں گزر چکی تھیں اور دسواں سال تھا (یعنی ۱۱ رجب

الاول ۱۱ھ)۔

عبداللہ بن عبدالرحمن بن ابی صعصعہ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ کے فرزند ابراہیم نے بنی مازن بن اُم بردہ رضی اللہ عنہ کے پاس

وفات پائی۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: فی الواقع بہشت میں ایک مرضہ اس کی شیر خوارگی کے دن پورے کر رہی ہے۔

اُم بردہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے ایک چھوٹی سی چوکی پر جنازہ اٹھایا گیا اور بیعت میں رسول اللہ ﷺ نے ان پر نماز پڑھائی۔

استفسار کیا گیا: یا رسول اللہ ﷺ! ہم انہیں کہاں دفن کریں؟

فرمایا: ہمارے سلف عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے پاس۔

رسول اللہ ﷺ نے اُم بردہ رضی اللہ عنہا کو ایک قطعہ نخلستان عنایت فرمایا جسے منتقل کر کے انہوں نے بدلے میں عبداللہ بن

زمعہ ابن الاسود الاسدی کا مال حاصل کیا۔

عمر بن الحم بن ثوبان کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا تو ایک پتھر ان کی (ابراہیم کی قبر پر رکھ دیا) اور قبر پر پانی چھڑکاؤ ہوا۔

محمد بن عبداللہ بن مسلم کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ بن محمد بن عمرو بن حزم کو میں نے اپنے چچا یعنی زہری سے

روایت کرتے سنا کہ وہ کہتے تھے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ابراہیم رضی اللہ عنہ اگر زندہ رہتے تو میں ہر ایک قبلی سے جزیہ ساقط کر دیتا۔

ابن جابر نے مکحول رضی اللہ عنہ کو روایت کرتے سنا کہ ابراہیم رضی اللہ عنہ نے جب وفات پائی تو رسول اللہ ﷺ نے ان کے حق

میں فرمایا: وہ (یعنی ابراہیم رضی اللہ عنہ) اگر زندہ ہوتا تو اس کا کوئی ماموں غلام نہ ہوتا (یعنی قبیلی لوگوں کے تمام لوگ ابراہیم رضی اللہ عنہ کے

طفیل آزاد ہو جاتے)۔

بیت اللہ کی تعمیر نو

تعمیر کعبہ میں آنحضرت ﷺ کی شرکت:

عمر و الہدیٰ ابن عباس رضی اللہ عنہما، محمد بن جبیر بن مطعم، جن کی روایتیں آپس میں مل جل گئی ہیں یہ سب کہتے ہیں: پانی کی روکے پر واقع تھی۔ سیلاب اس کے اوپر سے آتا تھا۔ تا آنکہ خانہ کعبہ تک پہنچ جاتا تھا۔ جس کے باعث دروازے اور شکاف بھی اس میں آ گیا تھا۔ قریش ڈرے کہ منہدم نہ ہو جائے۔ کچھ زیور اور سونے کا ایک ہرن کہ موتی اور جواہرات سے مرصع زمین پر نصب تھا۔ بیت اللہ سے چوری ہو گئے۔

انہیں دنوں سمندر میں ایک جہاز آ رہا تھا۔ جس میں رومی (عیسائی) سوار تھے۔ اور باقوم نام ایک شخص ان کا سرگروہ تھا۔ یہ شخص معمار بھی تھا۔ ہوانے جہاز کو درہم درہم کر کے مقام شیعہ پہنچا دیا کہ جدہ سے پہلے جہازوں کی بندرگاہ یہی مقام تھا۔ یہاں آ کے جہاز ٹوٹ گیا۔

ولید بن مغیرہ کچھ قریشیوں کے ساتھ جہاز تک پہنچے۔ اس کی لکڑیاں مول لیں۔ باقوم رومی سے بات چیت کی جو ان کے ساتھ ہولیا اور لوگوں نے کہا (لو بنینا بیت رہنا) اگر ہم اپنے پروردگار کا گھر بنائیں۔ فصیح محاورہ جاہلیت اسی قدر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے پروردگار کا گھر بنائیں، یعنی خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر کریں تو اچھی بات ہے۔

قریش نے یہاں نظام کیا کہ پتھر جمع کر کے کنارے صاف اور درست کر لئے جائیں۔ رسول اللہ ﷺ بھی انہیں لوگوں کے ساتھ پتھر اٹھا اٹھا کے لے جا رہے تھے۔ آپ ﷺ اس وقت پینتیس (۳۵) برس کے تھے۔

حالت یہ تھی کہ لوگ اپنی اپنی تہ بند کے دامنوں کو اٹھا کے گردنوں پر ڈال لیتے تھے اور پتھر اٹھاتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے بھی یہی کیا مگر دامن پھنس جانے کے باعث پھسل جانے کی نوبت آ چلی تھی کہ پکار ہوئی: عود نک اپنا پردہ یعنی اپنی ستر عورت کا خیال رکھو! اور دیکھو کہ بے پردگی نہ ہونے پائے۔ یہ پہلی پکار تھی۔

ابوطالب نے کہا: اے میرے بھتیجے اپنے تہ بند کا دامن سر پر ڈال لے۔

آنحضرت ﷺ نے فرمایا: یہ جو کچھ مجھے پیش آیا اپنی تعذی کے باعث پیش آیا۔

اس کے بعد کبھی رسول اللہ ﷺ کا پردہ کشوف نظر نہ آیا۔

جب خانہ کعبہ (کی قریب الانہدام عمارت) کے ڈھانے پر سب نے اتفاق کر لیا تو کسی نے کہا: اس عمارت میں صرف پاک کمائی داخل کرو! اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ کوئی قطع رحم نہ ہونے پائے اور نہ اس میں کسی پر زور و ظلم ہو۔

انہدام کی ابتداء ولید بن مغیرہ نے کی۔ پھاوڑالے کے کھڑا ہو گیا اور پتھر گرانے لگا۔ کہتا جاتا تھا: یا اللہ! تجھے ناراض کرنا

مقصود نہیں ہم لوگ تو فقط بہتری چاہتے ہیں۔

ولید خود بھی انہدام میں لگا رہا اور قریش نے بھی ساتھ دیا۔ جب ڈھا چکے تو عمارت شروع کی۔ بیت اللہ کا امتیاز و اندازہ کر کے تعمیر کے لئے قرعے ڈالے۔

رکن اسود سے رکن حجر تک کعبے کے پیش خانے کی تعمیر بنی عبد مناف اور بنی زہرہ کے حصے میں آئی۔

رکن حجر سے دوسرے رکن حجر تک بنی اسد بن عبد العزیٰ و بنی عبد الدار بن قصی کے حصے میں آیا۔

بنی تیم و بنی مخزوم کے حصے میں مابین رکن حجر تک رکن یمانی۔

بنی سہم و بنی حح و بنی عدی و بنی عامر بن لوی مابین رکن یمانی تا رکن اسود اسی تقسیم کے مطابق سب نے تعمیر کا آغاز کیا۔

حجر اسود کی تنصیب

قرعہ قال بنام حبیب ذوالجلال:

عمارت اس حد تک پہنچی جہاں خانہ کعبہ میں رکن^۱ نصب کرنے کا موقع تھا تو ہر قبیلے نے اس کے لئے اپنے اپنے استحقاق پر زور دیا۔ اور اس قدر مخالفت ہوئی کہ جنگ کا اندیشہ ہونے لگا۔ آخر یہ رائے قرار پائی کہ باب بنی شیبہ سے پہلے پہل جو داخل ہو وہی حجر اسود کو اٹھا کے اپنی جگہ پر رکھ دے۔

سب نے اس پر رضامندی ظاہر کی اور اس رائے کو تسلیم کر لیا۔

باب بنی شیبہ سے پہلے پہل جو اندر آئے وہ رسول اللہ ﷺ تھے۔ لوگوں نے جب آپ ﷺ کو دیکھا تو بول اُٹھے: ”یہ

امین ہیں ہمارے معاملے میں جو فیصلہ یہ کریں گے ہم اس پر راضی ہیں۔“

آنحضرت ﷺ کا رشک آفرین فیصلہ:

قریش نے رسول اللہ ﷺ کو اپنی قرارداد سے اطلاع دی۔ رسول اللہ ﷺ نے زمین پر اپنی چادر بچھا دی اور رکن (حجر اسود) اس میں رکھ کے فرمایا: قریش کے ہر ایک ربيع سے ایک ایک شخص آئے (یعنی تمام قریش جو چار بڑی جماعتوں میں منقسم ہیں ان میں سے ہر ایک جماعت اپنا اپنا ایک ایک قائم مقام منتخب کرے)۔

ربیع اول بنی عبد مناف میں عقبہ بن ربیعہ (منتخب ہوئے)۔

ربیع ثانی میں ابو زمعہ۔

ربیع ثالث میں ابو حذیفہ بن المغیرہ۔

اور ربیع رابع میں قیس بن عدی۔

اب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے ہر فرد اس کپڑے کا ایک ایک گوشہ پکڑ لے اور سب مل کے اسے اٹھاؤ۔ سب نے اسی طرح اٹھایا اور پھر رسول اللہ ﷺ نے حجر اسود کو اسی جگہ (جہاں وہ ہے) اپنے ہاتھ سے اٹھائے رکھ دیا۔

نجد کے ایک شخص نے بڑھ کر رسول اللہ ﷺ کو ایک پتھر دینا چاہا، جس سے آنحضرت ﷺ رکن کو مضبوط رکھ سکیں۔ عباس بن عبدالمطلب نے کہا: نہیں! اور اس شخص کو ہٹا کے خود رسول اللہ ﷺ کو ایک پتھر دیا۔ جس سے آپ نے رکن کو مضبوط فرمایا۔ نجدی اس ہٹائے جانے پر غضب ناک ہوا۔ تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا: بیت اللہ میں ہمارے ساتھ وہی شخص عمارت کا کام کر سکتا ہے جو ہم میں سے ہو۔

نجدی نے کہا: تعجب ہے ایسے لوگ جو اہل شرف ہیں، عقلمند ہیں، مسن ہیں، صاحب مال ہیں، اپنے وسیلہ کرم و بزرگی و حفاظت میں ایسے شخص کو اپنا سرگروہ قرار دیتے ہیں جو عمر میں سب سے چھوٹا اور سب سے کم مال و دولت رکھتا ہے۔ گویا سب لوگ اس کے خدمت گار ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، خدا کی قسم یہ شخص سب سے بڑھ جائے گا۔ سب کو اپنے پیچھے چھوڑ جائے گا اور خوش بختی اور سعادت ان سب سے بانٹ لے گا۔

کہا جاتا ہے کہ یہ کہنے والا ابلیس تھا۔

ابوطالب نے اس موقع پر کہا:

اِنَّ لَنَا اَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ فِی الْحُكْمِ وَالْعَدْلِ الَّذِی لَا نُنْكَرُهُ

”اس کی ابتداء بھی حقیقت میں ہمارے ہی لئے اور انتہاء بھی۔ حکم میں بھی اور عدل میں بھی جس میں مجال انکار نہیں۔“

وَقَدْ جَهَدْنَا جَهْدَهُ لِنُعْمَرَهُ وَقَدْ عَمِرَ تَاخِیْرَهُ وَاَكْبَرَهُ

”ہم نے اس کی تعمیر اور اس کے آباد کرنے کے لئے کوشش کی۔ اور ہم نے اس کی خیر و بزرگی کو آباد بھی کر لیا یہ کہ ہم نے اس کے بہترین و بزرگ ترین حصہ کو بنا بھی لیا۔“

فَاِنْ یَكُنْ حَقًّا فَفِیْنَا اَوْفَرَهُ

”اب اگر کوئی حق ہے تو بدرجہ وافر و کثیر ہم ہی لوگوں میں ہے۔“

پھر تعمیر ہونے لگی تا آنکہ لکڑی کی جگہ آئی (یعنی چھت بنانے کی نوبت آئی جس میں لکڑیوں کی ضرورت پڑتی ہے)۔ پندرہ شہتیر^۱ تھے جن پر چھت قائم کی گئی۔ سات ستونوں پر بنیادیں رکھیں اور حجر کو بیت اللہ کے باہر کر دیا۔

دلی آرزو کا اظہار:

عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (اے عائشہ رضی اللہ عنہا) تیری قوم نے کعبے کی عمارت میں کمی کر دی۔ اگر

① شہتیر اصل میں لفظ جائز ہے جس کے معنی یہی ہیں۔ حججہ: وہ مقام ہے جس پر عظیم حاوی اور خانہ کعبہ زاد با اللہ شرفاً و تعظیماً کو شمالی جانب سے محیط ہے۔

وہ شرک کو چھوڑ کے ابھی نئے نئے مسلمان نہ ہوتے تو جو کچھ اس تعمیر میں انہوں نے چھوڑ دیا ہے میں اس کو پھر سے بنا دیتا۔ میرے بعد اگر تیری قوم اسے بنانا چاہے تو آ انہوں نے جو چھوڑا ہے میں اسے تجھ کو دکھا دوں۔

اس کے بعد آپ نے حجر میں سات گز کے قریب قریب عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا (جسے خالی چھوڑ دیا گیا تھا)۔
عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے بیان میں یہ (بھی) فرمایا تھا کہ زمین میں اس کے دو مشرقی و مغربی دروازے بھی میں بتاتا۔ کیا تو جانتی ہے کہ تیری قوم نے کس لئے دروازہ اونچا کر دیا؟
میں نے عرض کی میں تو نہیں جانتی۔

فرمایا: تعزز کے لئے کہ جسے وہ چاہیں وہی اندر آ سکے اور کوئی دوسرا داخل نہ ہو۔ جب یہ لوگ کسی کے اندر آنے کو مکروہ خیال کریں تو اسے چھوڑ دیئے حتیٰ کہ وہ داخل ہونے لگتا تو اسے دھکیلتے یہاں تک کہ وہ گر پڑتا۔

سعید بن عمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے تھے میں نے قریش کو دیکھا کہ دو شنبہ و پنجشنبہ کے دن خانہ کعبہ کو کھولتے تھے جس کے دروازے پر دربان بیٹھے ہوتے تھے۔ وہ شخص (جسے زیارت کرنی ہوتی) چڑھ کے اوپر آتا اور پھر دروازے میں سے ہو کے اندر جاتا۔ اگر مراد یہ ہوتی کہ وہ اندر آئے تو وہ دھکیل دیا جاتا جس سے وہ گر پڑتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ چوٹ بھی لگتی۔ کعبے کے اندر جو تپنے داخل نہ ہوتے اس کو بڑی (بری) بات جانتے تھے۔ زینے کے نیچے اپنی جوتیاں رکھ دیا کرتے تھے۔ ابن مرسا کہ قریش کے آزاد غلام تھے۔ کہتے تھے کہ میں نے عباس رضی اللہ عنہ بن عبدالمطلب کو کہتے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے حج کے موقع پر دھاری دار غلاف چڑھایا۔

رسول اللہ ﷺ کی نبوت

عبداللہ بن شقین کہتے ہیں: ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ۔ آپ کب سے پیغمبر ہوئے؟ لوگوں نے کہا ہائیں ہائیں۔ آنحضرت (ﷺ) نے فرمایا: اسے کہنے دو۔ آدم ہنوز روح و جسم کی درمیانی حالت میں تھے کہ میں پیغمبر تھا۔
ابن ابی الجعداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! آپ کب سے پیغمبر ہوئے؟
فرمایا: جب آدم علیہ السلام ہنوز روح اور جسم کے درمیان تھے۔

مطرف بن عبداللہ بن الشخیر کہتے ہیں: ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ آپ کب سے پیغمبر ہیں؟
فرمایا: آدم علیہ السلام کی روح و خاک کے درمیان (یعنی روح و خاک سے آدم علیہ السلام کا جسم ابھی مرکب بھی نہ ہوا تھا کہ مجھے شرف نبوت حاصل ہو چکا تھا۔ مطلب یہ کہ میری نبوت ازلی ہے موقت نہیں ہے۔

عامر کہتے ہیں: ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کی آپ کب سے پیغمبر ہوئے؟ فرمایا مجھ سے جب یناق لیا گیا ہے تو آدم علیہ السلام اس وقت روح و جسم کی درمیانی حالت میں تھے۔

عرباض رضی اللہ عنہ بن ساریہ کہ رسول اللہ ﷺ کے صحابہ ہیں کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: آدم

ہنوز اپنی خاک ہی میں رلے ملے تھے کہ میں خدا کا بندہ اور خاتم النبیین ہو چکا تھا۔ میں ابھی ابھی تم لوگوں کو اس کی خبر دیتا ہوں۔ میرے والد ابراہیم (خلیل اللہ علیہ السلام) کی دُعا میرے لئے عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور میری ماں کا خواب جو انہوں نے دیکھا تھا (یہ تمام باتیں ولادت سے پیشتر ہی ظہور کی خبر دے چکی تھیں)۔

پیغمبروں کی مائیں یوں ہی رویا دیکھتی ہیں اور اسی طرح انہیں خواب دکھایا جاتا ہے۔ وضع حمل کے وقت رسول اللہ ﷺ کی والدہ نے ایک نور دیکھا تھا کہ ان کے لئے شام کے ایوان تک اس سے روشن ہو گئے تھے۔

ضحاک سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دُعا ہوں۔ خانہ کعبہ کے قاعدے بلند کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا:

((ربنا وابعث فیہم رسولاً منہم))۔

”اے ہمارے پروردگار! ان لوگوں میں ایک پیغمبر بھیج جو انہیں میں سے ہو۔“

اس کو پڑھ کے آنحضرت ﷺ نے آخر تک یہ آیت تلاوت فرمائی۔

عبداللہ بن عبدالرحمن بن معمر کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دُعا ہوں اور میرے لئے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے بشارت دی تھی۔

ابو امامہ بابلی کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ سے گزارش کی گئی کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ اپنے ابتدائے امر سے آگاہ فرمائیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میرے والد ابراہیم علیہ السلام کی دُعا میرے لئے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے بشارت دی۔

قتادہ کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں آفرینش و خلقت میں سب سے پہلے اور بعثت میں سب سے پچھلا شخص ہوں۔

نزول وحی سے قبل کے واقعات:

خالد بن معدان کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ سے گزارش کی گئی کہ آپ اپنی نسبت ہمیں مطلع فرمائیے۔

ارشاد ہوا: ہاں میں دُعاے ابراہیم ہوں، میری بشارت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے دی۔ میری ماں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان سے ایک ایسا نور نکلا کہ شام کے قصر و ایوان (تک) اس سے روشن ہو گئے۔ میری رضاعت قبیلہ بنی سعد بن بکر میں ہوئی۔ ایک مرتبہ میں اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ تھا، ہم اپنے مکانات کے پیچھے جانوروں کو چرا رہے تھے کہ دوسفید پوش آدمی سونے کا ایک طشت لئے جو برف سے لبریز تھا میرے پاس آئے۔ دونوں نے پکڑ کے میرا سینہ چاک کیا۔ میرا دل نکلا اور چاک کر کے ایک سیاہ نقطہ نکال کر پھینک دیا۔

میرے سینے اور دل کو اسی برف سے دھویا اور پھر (ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا): انہیں ان کی اُمت کے سو آدمیوں کے برابر تول ان کے ساتھ مجھے تولا تو بھاری ٹھہرا۔ آخر اس نے کہا: انہیں ان کی اُمت کے ہزار آدمیوں کے برابر وزن

کر وزن ہوا تو پھر میں بھاری ٹھہرا۔ آخر اس نے کہا: انہیں چھوڑ دے کہ اگر ان کی تمام اُمت کے ساتھ ان کا وزن ہو تب بھی انہیں کا پلہ بھاری رہے گا۔

سعادت مندی کی علامات:

موسیٰ بن عبیدہ رضی اللہ عنہ اپنے بھائی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: رسول اللہ ﷺ جب پیدا ہوئے اور زمین پر آئے دونوں ہاتھوں کے بل تھے۔ سر آسمان کی جانب اٹھا ہوا تھا اور ہاتھ میں ایک مشت خاک تھی۔ خاندان لہب کے ایک شخص کو یہ خبر پہنچی تو اس نے اپنے ایک ساتھی سے کہا: اسے بچا فال اگر سچ لگی تو واقعہ یہ بچہ اہل زمین پر غالب آئے گا۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ اسی حالت میں ایک آنے والا آیا جس نے پکڑ کر آپ ﷺ کا حکم چاک کر ڈالا۔ اور اس میں سے ایک نقطہ نکال کے پھینک دیا۔ اور کہا: ہذہ نصیب الشیطان منک (تجھ میں سے یعنی تیرے جسم میں سے یہ شیطان کا حصہ تھا)۔ پھر سونے کے ایک طشت میں اسے رکھ کے آب زم زم سے دھویا اور جوڑ دیا۔ بچے آنحضرت ﷺ کی دایہ کے پاس (یہ کہتے ہوئے) دوڑے کہ محمد (ﷺ) قتل ہو گئے۔ محمد (ﷺ) قتل ہو گئے۔ وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچیں تو دیکھا آپ کا رنگ متغیر تھا۔

انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: فی الواقع ہم دیکھا کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کے سینے میں سوئی (نجیہ) کا نشان موجود ہے۔ زید بن اسلم کہتے ہیں: حلیمہ جب (مکہ میں) آئیں تو ساتھ ان کے شوہر بھی تھے۔ اور ایک چھوٹا بچہ تھا۔ جسے دودھ پلاتی تھیں۔ اس بچے کا نام عبد اللہ تھا۔ سفید رنگ کی ایک گدھی اور ایک بوڑھی سن دراز اونٹنی بھی تھی۔ جس کا بچہ بھوک کے مارے مر چکا تھا۔ اور اس کی ماں (یعنی اونٹنی) کے تھن میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ ان لوگوں نے آپس میں گفتگو کی: کوئی بچہ مل گیا تو اسے دودھ پلائیں گے۔

حلیمہ کے ساتھ قبیلہ سعد کی (دوسری) عورتیں بھی تھیں۔ سب نے آ کے چند روز قیام کیا بچے لئے، مگر حلیمہ نے کوئی نہ لیا۔ رسول اللہ ﷺ ان پر پیش کئے جاتے تھے مگر وہ کہتی تھیں یتیم لا اب له (یہ بچہ یتیم ہے اس کا تو باپ مر چکا ہے یعنی اُجرت رضاءت کی یہاں کیا اُمید ہے)۔ حتیٰ کہ آخر میں جب چل چلاؤ کا وقت آیا تو حلیمہ نے آنحضرت ﷺ کو لے لیا۔ ساتھ والیاں ایک دن پہلے ہی جا چکی تھیں۔

آمنہ نے چلتے وقت کہا: اے حلیمہ! تو نے ایک ایسے بچے کو لیا ہے جس کی ایک خاص شان ہے خدا کی قسم میں حاملہ تھی مگر حمل سے جو اذیت عورتیں پاتی ہیں مجھے کچھ نہ ہوئی۔ یہ واقعہ ہے کہ میں سامنے لائی گئی اور مجھ سے کہا گیا تو ایک بچہ جنے گی اس کا نام احمد رکھنا وہ تمام جہان کا سردار ہوگا۔ یہ بچہ جب پیدا ہوا تو اپنے دونوں ہاتھوں پر ٹیک لگائے زمین پر آیا اور آسمان کی جانب سر اٹھائے ہوئے تھا۔

حلیمہ نے خاص اپنے شوہر کو خبر دی خوش ہو گئے۔ آخر گدھی پر سوار ہو کے واپس چلے جو تیز رفتار ہو گئی تھی اور اونٹنی کا تھن دودھ سے بھر گیا تھا شام و سحر دونوں وقت اسے دوہتے تھے۔ جاتے جاتے حلیمہ اپنے ساتھ والیوں سے جاملیں۔ انہوں نے دیکھا

تو پوچھا: من اخذت (کس کو لیا؟)

جواب میں واقعے کی اطلاع دی گئی تو کہنے لگیں: واللہ انا لنرجوان بكون مبارکاً (خدا کی قسم ہم اُمید کرتے ہیں کہ یہ بچہ مبارک ہوگا)۔

حلیمہ نے کہا: ہم نے تو اس کی برکت دیکھ لی، میری چھاتیوں میں اتنا دودھ بھی نہ تھا کہ اپنے بیٹے عبداللہ کو سیر کر سکتی، بھوک کے مارے وہ ہمیں سونے نہیں دیتا تھا، اب کیفیت یہ ہے کہ وہ اور اس کا بھائی آنحضرت ﷺ دونوں جتنا چاہتے ہیں پیتے ہیں، پی کے آسودہ ہو جاتے ہیں اور سو رہتے ہیں اگر ان کے ساتھ تیسرا بچہ ہو تو وہ بھی سیر ہو جائے۔ اس کی ماں نے مجھے حکم دیا کہ (کسی کا ہن سے) اس کے متعلق دریافت کروں۔

ہذیل نامی کا ہن کو دکھانے کا واقعہ:

اپنے دیار میں پہنچ کے حلیمہ رہنے سہنے لگیں۔

تا آنکہ عکاظ کا بازار لگا۔ رسول اللہ ﷺ کو لئے ہوئے قبیلہ ہذیل کے ایک عراف (قسم شناس، کاہن) کے پاس چلیں جسے لوگ اپنے بچے دکھاتے تھے۔ عراف نے آنحضرت ﷺ کو دیکھا تو چلایا:

یا معشر ہذیل، یا معشر العرب.

”ہذیل کے لوگو گھر دوڑو، عرب کے لوگو دوڑو۔“

میلے والے اس کے پاس جمع ہو گئے تو اس نے کہا:

اقتلوا هذا الصبی.

”اس بچے کو مار ڈالو۔“

اتنے میں آنحضرت ﷺ کو لے کر حلیمہ چل دیں۔ لوگ پوچھنے لگے:

”کون سا بچہ؟“

وہ کہتا:

”یہی۔“

لیکن کوئی بھی کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس لئے کہ آنحضرت ﷺ کو تو وہ لے جا چکی تھیں۔

عراف سے کہتے:

”وہ کیا بات ہے؟“

آخر اس نے کہا:

رایت غلاماً والہتہ لیقتلن اہل دینکم و لیکسرن الہتکم و لیظہرن امرہ علیکم.

”میں نے ایک لڑکا دیکھا، اس کے معبودوں کی قسم ہے وہ تمہارے دین والوں کو قتل کر ڈالے گا، تمہارے دیوتاؤں کو

توڑ پھوڑ ڈالے گا، اور اس کا حکم تم سب پر غالب آئے گا۔“

سوق عکاظ میں جستجو ہونے لگی۔ مگر نہ ملے۔ کیوں کہ حلیمہ آپ کو لے کے اپنے گھر واپس جا چکی تھی۔ اس واقعہ کے بعد آنحضرت ﷺ کو نہ کبھی کسی عراف^۱ کے روبرو پیش کرتیں اور نہ کسی کو دکھاتی تھیں۔

عسیٰ بن عبد اللہ بن مالک کہتے ہیں: قبیلہ ہذیل کا یہ بوڑھا عراف چلایا کہ یالہذیل والہتہ (ہذیل اور اس کے دیوتاؤں کی ہے)۔ ان هذا لينتظر امرا من السماء (یہ بچہ آسمان سے کسی حکم کا انتظار کر رہا ہے)۔

رسول اللہ ﷺ کی نسبت لوگوں کو بھڑکا تا رہا اس حالت میں کچھ ہی روز گزرے تھے کہ دیوانہ^۲ ہو گیا، عقل جاتی رہی حتیٰ کہ کافر ہی مرا۔
آثار عظمت:

ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: حلیمہ رسول اللہ ﷺ کی تلاش میں نکلیں، یہ وہ وقت تھا کہ دو پہر کی دھوپ سے چار پائے ستانے لگے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کو اپنی ہمشیرہ (یعنی دودھ شریک بہن دختر حلیمہ) کے ساتھ پایا تو کہنے لگیں: فی هذا الحر (ہائیں اس گرمی میں)۔

آنحضرت ﷺ کی ہمشیرہ بولیں: یا اُمّہ (اے میری ماں!) میرے بھائی کو گرمی لگی ہی نہیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک ابر ان پر سایہ کئے ہوئے ہے۔ جب ٹھہرتے ہیں وہ بھی ٹھہر جاتا ہے اور جب چلتے ہیں وہ بھی ساتھ چلتا ہے۔ تا آنکہ آپ اس جگہ پہنچے۔

ابومعشر^۳ کہتے ہیں: کعبے کے سائے میں عبدالمطلب کے لئے ایک بچھونا بچھا دیا جاتا تھا، جس کے ارد گرد ان کے بیٹے بیٹھ کر عبدالمطلب کا انتظار کرتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ اس وقت بالکل ہی کمسن^۴ تھے۔ دودھ چھوٹ چکا تھا اور کچھ کھانے لگے تھے اور جسم میں گوشت بھر چلا تھا، آتے اور آ کے بچھونے پر چڑھ جاتے اور بیٹھ رہتے۔ چچا کہتے: مہلا یا محمد عن فراش

۱ عراف: علم العرافہ کا ماہر عرب جاہلیت میں اس علم کا رواج تھا۔ مشکل سے مشکل پیچیدگیوں میں عراف سے رجوع کرتے۔ خصوصاً میں تضایا میں امراض میں، رؤیا و خواب میں غرض کہ اپنے نزدیک جس بات کو اہم سمجھتے سب میں عراف کی رائے لیتے اور اسے اشارہ نہیں سمجھتے۔ گویا اس فن کو علم و فلسفہ و تقاضا و طب و دین مذہب سب سے تعلق تھا اور اس کا ماہر ان سب کے متعلق پیش گوئی کر سکتا تھا۔

۲ دیوانہ ہو گیا، اصل میں ہے ”دلہ“ اہل عرب زوال عقل و خود فراموشی کو ”دلہ“ کہتے ہیں جو لازماً دیوانگی ہے۔

۳ ابومعشر^۳ صحیح السندی، علم حدیث کے ایک مشہور راوی، فن تاریخ کے نہایت ممتاز ماہر اور سیرۃ النبی ﷺ کے ایک نامور مصنف گزرے ہیں اور صدر اول کے اساتذہ اخبار و سیر و معاذی میں شمار کئے جاتے ہیں۔ ان کا خاندان سندھ سے نکل کر عرب پہنچا تھا اور وہاں پہنچنے کے مدینیت عرب کا رکن رکن بنا تھا۔ ہندوستان کو یہ فخر حاصل ہے کہ آنحضرت ﷺ کا ممتاز ترین سیرت نویس اسی ملک کا تھا۔

۴ کم سن: اصل میں ہے ”غلام جفّو“ جو ایسے چھوٹے بچے کو کہتے ہیں کہ اس کی ہڈیوں پر گوشت چڑھنے لگا ہو، جسم بھرنے لگا ہو اور دودھ چھوڑنے کے کچھ کھانے پینے کی عادت پڑی ہو۔

ایک (اے محمد! اپنے باپ کے بچھونے سے ہٹ کر بیٹھو)۔

عبدالطلب جب یہ دیکھتے تو کہتے: ”میرے بیٹے سے بوئے حکومت و مملکت آتی ہے۔“

یہ کہتے: ”وہ اپنے جی میں حکومت کی باتیں کر رہا ہے۔“

عمر بن سعید سے روایت ہے کہ ابوطالب نے بیان کیا: ”مقام ذی الحجاز میں تھا اور میرے ساتھ میرا بھتیجا یعنی رسول اللہ ﷺ بھی تھے۔ مجھے پیاس لگی تو آپ نے شکایت کی اور کہا اے میرے بھتیجے! مجھے پیاس لگی ہے۔ میں نے یہ اس وقت کہا جب کہ میں دیکھ رہا تھا کہ خود ان پر بھی کچھ تشنگی غالب ہے۔ البتہ انہیں بے قرار و اضطراب نہیں ہے۔“

آنحضرت ﷺ نے یہ سن کر پاؤں موڑ لئے اور اتر کے فرمایا: اے میرے چچا! کیا پیاس لگی ہے؟

میں نے کہا: ہاں!

آپ نے زمین پر ایڑی دبا لی۔ یکا یک دیکھتے ہیں تو پانی موجود ہے۔ فرمایا: اے میرے چچا! پیو۔

ابوطالب کہتے ہیں کہ میں نے پانی پیا۔

آثار نبوت:

عبداللہ بن محمد بن عقیل کہتے ہیں ابوطالب نے شام کا سفر کرنا چاہا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے میرے چچا! تو مجھے یہاں کس کے پاس چھوڑے جاتا ہے۔ میرے تو کوئی ماں بھی نہیں جو کفالت کرے اور نہ کوئی دوسرا ہے جو پناہ دے سکے۔ ابوطالب کو رقت آئی۔ آنحضرت ﷺ کو پیچھے بٹھالیا اور لے کے چلے۔ اثنائے سفر میں ایک دیر کے راہب کے ہاں فروکش ہوئے جس نے پوچھا: ”یہ لڑکا تیرا کون ہے؟“

ابوطالب نے کہا: ”میرا بیٹا ہے۔“

راہب نے کہا: ”وہ تیرا بیٹا نہیں اور نہ اس کا باپ زندہ ہے۔“

ابوطالب نے پوچھا: ”یہ کیوں؟“

اس نے جواب دیا: ”اس لئے کہ اس کا منہ پیغمبر کا منہ ہے اس کی آنکھ پیغمبر کی آنکھ ہے۔“

ابوطالب نے دریافت کیا: ”پیغمبر کیا چیز ہے؟“

راہب نے کہا: ”پیغمبر وہ ہے کہ آسمان سے اس کے پاس وحی آتی ہے اور وہ زمین والوں کو اس کی خبر دیتا ہے۔“

ابوطالب نے کہا: ”تو جو کہتا ہے اللہ اس سے کہیں برتر ہے۔“

راہب نے کہا: ”یہودیوں سے اس کو بچائے رکھنا۔“

وہاں سے چلے تو پھر ایک دوسرے دیر کے راہب کے ہاں فروکش ہوئے اس نے بھی پوچھا: ”یہ لڑکا تیرا کون ہے؟“

ابوطالب نے کہا: ”یہ میرا بیٹا ہے۔“

راہب نے کہا: ”یہ تیرا بیٹا نہیں ہے اس کا باپ زندہ ہو ہی نہیں سکتا۔“

ابوطالب نے کہا: ”یہ کس لئے.....؟“

راہب نے کہا: ”اس لئے کہ اس کا منہ پیغمبر کا منہ ہے اس کی آنکھ پیغمبر کی آنکھ ہے۔“

ابوطالب نے کہا: ”سبحان اللہ! تو جو کہہ رہا ہے اللہ اس سے کہیں برتر ہے۔“

رسول اللہ ﷺ سے ابوطالب کہنے لگے: ”اے میرے بھتیجے تو کیا نہیں سنتا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟“

آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”اے میرے چچا! اللہ کی کسی قدرت کا انکار نہ کر۔“

بچپن میں علامات نبوت:

محمد بن صالح بن دینار عبد اللہ بن جعفر الزہری اور داؤد بن الحصین کہتے ہیں: ابوطالب جب ملک شام کو چلے تو رسول اللہ ﷺ ساتھ تھے۔ یہ پہلی مرتبہ کا واقعہ ہے۔ آنحضرت سلام اللہ علیہ اس وقت بارہ برس کے تھے۔ شام کے شہر بصری میں جب اترے تو وہاں ایک راہب تھا جسے بحیرا کہتے تھے وہ اپنے ایک صومعہ (عبادت خانہ میں) رہتا تھا۔ جس میں علمائے نصاریٰ رہا کرتے اور موروثی طور پر رہتے آئے تھے۔ یہاں ایک کتاب کا درس بھی دیتے تھے۔

قافلے والے بحیرا کے پاس اترے۔ بحیرا کی یہ حالت تھی کہ اکثر قافلے گزرا کرتے تھے مگر وہ ان سے ہم کلام بھی نہ ہوتا تھا۔ اس سال نوبت آئی۔ تو حسب معمول اس کے صومعے کے قریب ہی اترے کہ پہلے جب بھی ادھر سے گزرتے یہیں اُترا کرتے تھے۔ بحیرا نے (اب کی مرتبہ) ان کے لیے کھانا پکوا دیا اور سب کو دعوت دی۔ دعوت دینے کا سبب یہ ہوا کہ قافلہ پہنچا تو بحیرا نے دیکھا کہ ایک بادل ہے جو تمام لوگوں کو چھوڑ کر اکیلے ایک رسول اللہ ﷺ پر سایہ کئے ہے۔ لوگ درخت کے نیچے اترے تو بحیرا نے دیکھا کہ وہی بادل درخت پر سایہ کئے ہے۔ رسول اللہ ﷺ اس کے سائے میں آئے تو شاخیں سرسبز ہو گئیں۔

بحیرا نے یہ کیفیت دیکھی تو کھانا منگوایا اور پیغام بھیجا۔

اے جماعت قریش! میں نے تم لوگوں کے لئے کھانا تیار کر لیا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم سب اس میں شریک ہو چھوٹے بڑے آزاد غلام کوئی بھی نہ رہ جائے۔ اس سے میری عزت ہوگی۔

ایک شخص نے کہا: بحیرا! تیری یہ خاص بات ہے تو ہمارے لئے ایسا نہیں کیا کرتا تھا۔ آج کیا ہے؟

بحیرا نے کہا: میں تمہاری بزرگداشت کرنا چاہتا ہوں اور تم اس کے مستحق ہو۔

سب لوگ آئے مگر کم سن کے باعث رسول اللہ ﷺ گئے۔ کیونکہ سب میں آپ ﷺ ہی چھوٹے تھے۔

قافلے کا سامان درخت کے نیچے تھا آپ بھی وہیں بیٹھ رہے۔

بحیرا نے ان لوگوں کو دیکھا تو جس کیفیت کو وہ جانتا پہچانتا تھا کسی میں نہ پانی اور کہیں نظر نہ آئی۔ وہ بادل سر پر دکھائی نہ

دیا بلکہ دیکھا تو وہیں رسول اللہ ﷺ کے سر پر رہ گیا ہے۔ بحیرا نے دیکھ کے کہا: تم میں سے کوئی ایسا نہ ہو کہ میرے ہاں کھانا کھانے سے رہ جائے۔

لوگوں نے کہا: بجز ایک لڑکے کے سب میں کم سن وہی ہے اور اسباب کے پاس دوسرا کوئی باقی نہیں رہا۔

بھیرانے کہا: اسے بھی بلاؤ کہ میرے کھانے میں شریک ہو۔ یہ کتنی بری بات ہے کہ تم سب آؤ اور ایک شخص رہ جائے۔
باوصف اس کے کہ میں دیکھتا ہوں وہ بھی تمہیں لوگوں میں سے ہے۔

لوگوں نے کہا: خدا کی قسم وہ ہم سب میں شریف النسب ہے۔ وہ شخص یعنی ابوطالب کا بھتیجا ہے اور عبدالمطلب کی اولاد میں ہے۔

حارث بن عبدالمطلب بن عبدمناف نے کہا: خدا کی قسم! ہمارے لئے یہ قابل ملامت امر تھا کہ عبدالمطلب کا لڑکا ہم میں نہ ہو اور پیچھے رہ جائے۔

حارث یہ کہہ کے اٹھے، آنحضرت ﷺ کو آغوش میں لیا اور لا کے کھانے پر بٹھا دیا۔ ابراس وقت بھی آپ ﷺ کے سر پر بیات افروز حسن و جمال تھا۔ بھیرا سخت نظر تامل سے آپ کو دیکھنے لگا۔ جسم کی چیزیں دیکھنی شروع کیں، جن کی علامتیں آنحضرت ﷺ کے اوصاف کی نسبت اس کے پاس (لکھی ہوئی) موجود تھیں۔

بتوں کا واسطہ دینے والے کو جواب:

رسول اللہ ﷺ کے پاس آ کے اس راہب نے کہا: اے لڑکے! تجھے لات وعزى کا واسطہ دلاتا ہوں کہ جو کچھ تجھ سے پوچھوں اس کا جواب دے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لات وعزى کا واسطہ دلا کے مجھ سے نہ پوچھ کہ خدا کی قسم! جتنا میں ان دونوں سے بغض رکھتا ہوں اس قدر کسی چیز سے متفرق نہیں۔

راہب نے کہا: میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ جو کچھ میں تجھ سے پوچھوں اس کا جواب دے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو تیرے جی میں آیا ہے پوچھ لے۔

آنحضرت ﷺ کے حالات کی نسبت راہب نے سوالات شروع کئے حتیٰ کہ آپ کے سونے کی کیفیت بھی دریافت کی۔ رسول اللہ ﷺ جواب دیتے جاتے تھے جو خود اس کی معلومات کے مطابق اتر رہے تھے۔ راہب نے پھر آنحضرت ﷺ کی آنکھوں کے درمیان نظر کی پھر آپ کی پیٹھ کھول کے مہرنبوت دیکھی اور دونوں مونڈھوں کے درمیان اسی طرح نمایاں جس طرح صفت و کیفیت راہب کے پاس مرقوم تھی یہ سب دیکھ کے مہرنبوت جہاں تھی اس کو چوم لیا۔

قریش کی جماعت میں چرچے ہوئے کہ اس راہب کے نزدیک محمد (ﷺ) کی خاص قدر و عزت ہے۔
آنحضرت ﷺ کو یہود سے پہچانا:

راہب کا یہ برتاؤ دیکھ دیکھ کے ابوطالب اپنے بھتیجے (آنحضرت ﷺ) کی نسبت خوف کھا رہے تھے۔ ابوطالب سے اس نے پوچھا: ”یہ لڑکا تیرا کون ہے؟“

ابوطالب نے کہا: ”میرا بیٹا ہے۔“

راہب نے کہا: ”وہ تیرا بیٹا نہیں ہے اور نہ یہ امر اس لڑکے کے شانِ شان ہے کہ اس کا باپ زندہ ہو۔“

ابوطالب نے کہا: ”تو میرا بھیجا ہے۔“

راہب نے کہا: ”اس کا باپ کیا ہوا؟“

ابوطالب نے جواب دیا: ”وہ اپنی ماں کے شکم میں تھا کہ باپ مر گیا۔“

راہب نے پوچھا: ”اس کی ماں کیا ہوئی؟“

ابوطالب بولے: ”تھوڑا ہی زمانہ گزرا کہ انتقال کر گئیں۔“

راہب نے کہا: تو نے سچ کہا۔ اپنے بھتیجے کو لے کے اس کے شہر و دیار میں واپس پہنچا دے یہودیوں سے بچائے رکھنا کہ خدا کی قسم اگر اسے دیکھ لیا اور جو کچھ میں اس کی نسبت جانتا ہوں وہ بھی جان گئے تو اسے اذیت پہنچانا چاہیں گے۔ تیرے اس بھتیجے کی بڑی شان ہونے والی ہے جو ہماری کتابوں میں (لکھی ہوئی ہے) موجود ہے اور ہم اپنے آباؤ اجداد سے اس کی روایت کرتے چلے آئے ہیں یہ بھی جان لے کہ میں نے تیری خیر خواہی کی ہے اور نصیحت کا فرض ادا کیا ہے۔

اہل قافلہ جب تجارت سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ کو لے کے ابوطالب فوراً چل دیئے۔

کچھ یہودیوں نے آنحضرت ﷺ کو دیکھ لیا اور آپ کے اوصاف بھی جان لئے تھے۔ ان لوگوں نے دھوکا دے کے یکا یک ہلاک کرنا چاہا۔ بحیرا کے پاس جا کے اس امر میں مذاکرہ کیا تو اس نے سخت ممانعت کی۔

اور پوچھا: اتجدون صفته (تم لوگ نبی موعود کی صفت اس لڑکے میں پاتے ہو؟)

یہودیوں نے کہا: ہاں!

بحیرا نے کہا: فما لکم الیہ سبیل (جب یہ بات ہے تو اس کی اذیت رسانی کی سبیل ہی ممکن نہیں)۔

یہودیوں نے یہ بات مان لی اور باز آئے۔

ابوطالب نے آنحضرت ﷺ کی معیت میں مراجعت کی تو ازراہ شفقت پھر کبھی آپ کو لے کر سفر کو لگے۔

سعید بن عبدالرحمن بن ابزی سے روایت ہے کہ ابوطالب سے اس راہب نے کہا: یہاں کے علاقے میں اپنے بھتیجے کو لے کے نہ نکلتا، اس لئے کہ یہودی عداوت پیشہ ہیں اور یہ اس امت کا پیغمبر ہے، وہ عرب ہے۔ یہودی حسد کریں گے، وہ چاہتے ہیں کہ نبی موعود بنی اسرائیل کی قوم کا ہو۔ لہذا اپنے بھتیجے کو بچائے رکھنا۔

آنحضرت ﷺ کی برکت:

نفیسہ بنت عبد مناف بنت مدیہ کہ یعلیٰ بن مدیہ کی بہن تھیں۔ کہتی ہیں: رسول اللہ ﷺ جب پچیس برس کے ہوئے، مکہ میں اس وقت تک آپ ”امین“ کے نام سے موسوم تھے۔ اور یہ نام اس لئے مشہور تھا کہ نیک خصلتیں آپ کی ذات میں حد کمال کو پہنچی ہوئی تھیں۔

شام کے تجارتی سفر کی مزید تفصیل:

آپ اسی عمر میں تھے کہ ابوطالب نے گزارش کی: اے میرے بھتیجے! میں ایک ایسا شخص ہوں کہ میرے پاس مال دزر

نہیں۔ زمانہ ہم پر شدت و سخت گیری کر رہا ہے، پے در پے کئی مہنگے سے گزرتے چلے آئے ہیں اور حالت یہ ہے کہ نہ ہمارے پاس مایہ و بضاعت ہے نہ سامان تجارت ہے یہ تیری قوم کا قافلہ ہے کہ ملک شام میں اس کے سفر کا وقت آ گیا ہے اور خدیجہ بنت خویلد تیری قوم کے لوگوں کو اپنے اسباب کے ساتھ بھیجتی ہے اگر تو بھی اپنے آپ کو پیش کرے (تو بہتر ہے)۔

خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یہ خبر ملی تو آنحضرت ﷺ کو پیغام بھیجا اور جو اجرت دوسروں کو دیتی تھیں آپ ﷺ کے لئے اس کا دونا معاوضہ قرار دیا۔ آنحضرت ﷺ اس قرار داد کے مطابق خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ کے ساتھ چلے تا آنکہ شام کے شہر بصریٰ میں پہنچے اور یہاں کے بازار میں ایک درخت کے نیچے فروکش ہوئے۔ ایک راہب جس کا نام نسطور تھا۔ یہ مقام اس کی عبادت گاہ کے قریب ہی واقع تھا۔ میسرہ کو یہ راہب پہلے سے جانتا تھا اس کے پاس آ کے پوچھا: اے میسرہ اس درخت کے نیچے کون اُتر ہے؟

میسرہ نے کہا: ایک قریشی جو حرم کعبہ والوں میں ہے۔

راہب نے کہا: اس درخت کے نیچے بجز پیغمبر کے اور کوئی دوسرا ہرگز نہیں اُترے۔

یہ کہہ کے میسرہ سے دریافت کیا: کیا اس کی دونوں آنکھوں میں سرنخی ہے؟

میسرہ نے جواب دیا: ہاں! اور یہ سرنخی کبھی اُس سے جدا نہیں ہوتی۔

راہب نے کہا: وہی وہی، آخری پیغمبر اے کاش میں وہ زمانہ پاتا جب اس کے اخراج کا وقت آتا۔

رسول اللہ ﷺ جو مال لے کے چلے تھے بصریٰ کے بازار میں اس کو بیچ ڈالا اور دوسرا سامان مول لیا۔ ایک شخص

ساتھ کسی چیز میں اختلاف کیا۔

اس نے کہا: لات وعزی کا حلف اٹھاؤ۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں نے کبھی ان دونوں کی قسم نہیں کھائی۔ میں تو پاس سے گزرتا ہوں تو اُن کی جانب سے منہ

پھیر لیتا ہوں۔

اس شخص نے تصدیق کی کہ بات وہی ہے جو تو نے کہی۔

میسرہ سے راہب نے تہائی میں کہا: خدا کی قسم یہ پیغمبر ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اُسی کی قسم کہ یہ وہی

ہے جس کی صفت ہمارے علماء اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔

میسرہ نے ذہن نشین کر لی اور آخر کار تمام قافلے والے واپس چلے۔

میسرہ کی نگاہ (اٹھائے سفر میں) رسول اللہ ﷺ پر پڑی۔ جب دوپہر ہوتی اور گرمی پڑتی تو دیکھتا کہ آنحضرت ﷺ اونٹ

پر سوار ہیں اور دو فرشتے دھوپ سے آپ ﷺ پر سایہ کئے ہوئے ہیں۔

راویوں کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میسرہ کے دل میں آنحضرت ﷺ کی ایسی محبت ڈالی دی کہ رسول اللہ ﷺ کا وہ گوشت

غلام بن گیا۔ واپسی میں جب مقام مزلظہر ان پہنچے تو آنحضرت ﷺ سے عرض کی: یا محمد (ﷺ)! آپ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس

جائے اور مجھ سے پہلے پہنچ جائے آپ کے باعث مال میں اللہ تعالیٰ نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جو نفع پہنچایا ہے اس سے مطلع فرمائیے۔ آپ کے لئے وہ اس کا خیال رکھیں گی۔

رسول اللہ ﷺ آگے بڑھے تا آنکہ ظہر کے وقت مکے پہنچے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے ایک بالا خانے میں چند عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھیں جن میں ایک نفیسہ بنت معیہ بھی تھیں۔ رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ اپنے اونٹ پر سوار ہیں اور دو فرشتے سایہ کر رہے ہیں۔ ان عورتوں کو یہ کیفیت دکھائی تو سب متعجب ہوئیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آنحضرت ﷺ تشریف لائے اور مال میں جو نفع ہوا تھا اس کا حال بیان کیا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا اس سے خوش ہوئیں۔ میسرہ کے آنے پر اپنا مشاہدہ اس سے بیان کیا تو میسرہ نے کہا: جب سے ملک شام سے ہم واپس چلے ہیں یہ اسی وقت سے دیکھتا آیا ہوں۔

میسرہ نے دستور راہب کی بات بھی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سنادی اور اس شخص کی گفتگو بھی بتادی جس نے بیع کے معاملے میں آنحضرت ﷺ سے مخالفت کی تھی۔

پہلے جتنا فائدہ ہوتا اس مرتبہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس سے دونا فائدہ اٹھایا۔ آنحضرت ﷺ کے لئے جو معاوضہ نامزد کیا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس کی مقدار بھی دوئی کر دی۔

چند آثار نبوت:

ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: من جملہ آثار نبوت پہلے پہل جو چیز رسول اللہ ﷺ نے مشاہدہ فرمائی وہ یہ تھی کہ آپ ہنوز لڑکے ہی تھے کہ حکم ہوا: استسرو (ستر عورت کر، جن اعضاء کو ڈھانک چھپا کے رکھنا چاہیے انہیں کھلا نہ رہنے دے)۔ اسی دن سے پھر آپ کے اعضائے نہشتی نظر نہ آئے۔

عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ (کے جسم) میں اسے نہ دیکھا۔

برہ بنت ابی تجرۃ کہتی ہیں: اللہ تعالیٰ کو جب رسول اللہ ﷺ کا اکرام اور نبوت کی ابتداء منظور ہوئی تو یہ کیفیت پیش آنے لگی کہ آنحضرت ﷺ جب قضائے حاجت کے لئے نکلتے تو اتنی دور نکل جاتے کہ کوئی گھر نظر نہ آتا۔ غاروں اور درروں اور یو یواریوں میں چلے جاتے مگر وہاں جس پتھر اور جس درخت کے پاس سے گزرتے وہ کہتا: السلام علیک یا رسول اللہ ﷺ (اے خدا کے پیغمبر! آپ سلامت رہیں)۔ داسنے بائیں اور پیچھے دیکھتے تو کوئی نظر نہ آتا۔

ربیع یعنی ابن خثم کہتے ہیں: عہد جاہلیت میں اسلام سے بیشتر رسول اللہ ﷺ کو حکم بنایا جاتا تھا۔ مقدمات پیش ہوتے تھے۔ اور آپ سے فیصلہ کرایا جاتا تھا۔ اسلام میں تو پھر آپ کی یہ خصوصیت ہو ہی گئی۔

ربیع نے ایک بات کہی ہے اور وہ کون سی بات ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ جس نے رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، آپ کو امین بنادیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کا امین آنحضرت ﷺ کو مقرر فرمایا تھا۔

مجاہد سے روایت ہے کہ قبیلہ بنی غفار کے لوگوں نے ایک گوسالے کی قربانی کرنی چاہے کہ اسے ذبح کر کے بعض دیوتاؤں پر چڑھائیں۔ گوسالے کو (قربانی کے لئے) جب باندھا تو وہ چلایا:

یال ذریع امر لنجح، صالح یصبح بمكة یشهد ان لا اله الا الله.

”جماعت کی دہائی ایک معاملہ کامیاب ہو چکا ہے ایک چلانے والا بزبان فصیح کے میں اس بات کی شہادت دیتے ہوئے چلا رہا ہے کہ بجز اللہ کے اور کوئی مغبوط نہیں۔“

لوگوں نے دیکھا اور کچھ روز کے بعد اس تاریخ کا حساب لگایا تو معلوم ہوا رسول اللہ ﷺ مبعوث ہو چکے تھے۔^① حضور ﷺ کو مشرکانہ میلے میں لیکر جانے کی کوشش:

ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں مجھ سے اُمّ ایمن نے بیان کیا کہ بوانہ ایک بت تھا۔ جس کے حضور میں قریش حاضر ہو کے اس کی تعظیم کرتے تھے قربانی کرتے تھے وہیں اپنے سر منڈاتے تھے۔ ایک رات دن اسی کے پاس معکف رہتے تھے اور یہ تمام رسمیں سال میں ایک دن ہوا کرتی تھیں۔

ابوطالب اپنے لوگوں کے ساتھ اس تقریب میں شریک ہوتے رہتے اور رسول اللہ ﷺ سے کہا کرتے کہ لوگوں کی معیت میں آپ بھی اس تہوار میں شرکت فرمائیں۔ مگر رسول اللہ ﷺ انکار ہی کرتے رہے۔ حتیٰ کہ میں نے دیکھا ابوطالب آپ سے ناخوش ہو گئے اور آپ کی پھوپھیاں سخت غضب ناک ہو کر کہنے لگیں۔

تو جو ہمارے دیوتاؤں سے پرہیز و اجتناب کر رہا ہے تو اس کو قوت سے ہمیں خود تجھ پر خوف ہے۔

یہ بھی کہنے لگیں: اے محمد (ﷺ)! کیا ارادہ ہے کہ تم اپنی قوم کے کسی میلے میں نہ شریک ہوتے اور نہ ان کی جمعیت

بڑھاتے؟

اُمّ ایمن کہتی ہیں کہ سب لوگ رسول اللہ ﷺ کے درپے رہے، ناچار آپ کو جانا پڑا، گئے تو جب تک خدا نے چاہا ان کی نظروں سے غائب رہے واپس آئے تو مرعوب و دہشت زدہ تھے۔

پھوپھویوں نے پوچھا:

((ما دهاك))

”تجھے کیا ہو گیا ہے؟“

((انی اخشی ان یکون بی لم))

”میں ڈرتا ہوں کہ مجھے جنون نہ ہو۔“

ان سب نے کہا:

((ما کان اللہ لیلک بالشیطان و فیک من خصال الخیر ما فیک))

”تجھ میں جو جو نیک خصلتیں ہیں ان کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ شیطان کے ابتلاء میں تجھے نہ پھنسائے گا۔“

① ذریع، بوزن، امیر، بمعنی جماعت۔

((فما الذي رأيت ؟))

”آخرتو نے کیا دیکھا؟“

فرمایا:

((انی كلما ذنوب من صنم تمثل لی رجل ابيض طویل یصبح بی وراءک یا محمد ﷺ لا تمسه))۔

”ان بتوں میں سے جس بات کے پاس جاتا ایک سفید رنگ بلند و بالا آدمی دکھائی دیتا جو لگا رتا اے محمد (ﷺ) پیچھے

ہٹ جا اے نہ چھو“۔

ام ایمن کہتی ہیں اس واقعہ کے بعد قریش کے کسی میلے میں آنحضرت نے شرکت نہ کی حتیٰ کہ نبوت سے فائر ہوئے۔

”تبع“ شاہ یمن کی مدینہ آمد:

ابی بن کعب کہتے ہیں تبع (بادشاہ یمن) جب مدینے میں آیا اور ایک نالی کے کنارے فروکش ہوا تو علمائے یہود کو بلا کے کہا: اس شہر کو ویران کیا چاہتا ہوں تاکہ یہودیوں کا مذہب یہاں استقامت نہ پاسکے عربوں کا مذہب مرجع قرار پائے۔

سامول یہودی نے کہ سب سے بڑا عالم تھا اس کا جواب دیا:-

کتب سابقہ میں آپ ﷺ کا ذکر مبارک اور یہود کی زبانی اس کا تذکرہ:

اے بادشاہ! یہ وہ شہر ہے کہ اولاد اسماعیل (علیہ السلام) کے ایک پیغمبر کا یہ مقام ہجرت ہوگا۔ اس کی ولادت گاہ مکہ نام احمد اور یہ (شہر مدینہ) اس کا دارالہجرت ہوگا۔ اسی جگہ جہاں تو اس وقت کھڑا ہے، بہتیرے مقتول و مجروح ہوں گے اس کے اصحاب بھی اور اس کے دشمن بھی۔

تبع نے پوچھا: تمہارے گمان کے مطابق وہ تو پیغمبر ہوگا۔ پھر ان دنوں اس سے لڑے گا کون؟

سامول نے کہا: اُسی کی قوم اس پر چڑھائی کرے گی اور یہی آپس میں لڑیں گے۔

تبع نے کہا: اس کی قبر کہاں ہوگی؟

سامول نے کہا: اسی شہر میں۔

تبع نے دریافت کیا: جب اُس کے ساتھ لڑیں گے تو شکست کس کو ہوگی؟

سامول نے کہا: کبھی اُسے اور کبھی اُنہیں۔ جس جگہ اس وقت تو ہے یہیں اُس کو ہزیمت ہوگی اور یہاں اُس کے اتنے

اصحاب کام آئیں گے کہ جتنے کسی دوسری جگہ قتل نہ ہوئے ہوں گے۔ مگر انجام کار اسی کو فتح ہوگی۔ وہی غالب آئے گا اور ایسا غالب

آئے گا کہ اس امر (نبوت) میں کوئی اس کا منازع (یعنی طرف مقابل) نہ رہ جائے گا۔

تبع نے پوچھا: اس کا حلیہ کیا ہوگا؟

سامول نے کہا: وہ نہ پست قامت ہوگا نہ دراز قد۔ دونوں آنکھوں میں سرخی ہوگی، اونٹ پر سوار ہوا کرے گا۔ شملہ^۱ پہنے گا۔ گردن پر تلوار رہے گی جو اس کے مقابل آئے گا خواہ بھائی ہو یا بھتیجا یا چچا کسی کی پرواہ نہ کرے گا۔ تا آنکہ غالب آئے۔ تنج نے کہا: اس شہر پر قبضہ کرنے کی کوئی سبیل نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ میرے ہاتھ پر ویران ہونا چار تنج یمن چلا گیا۔ عبد الحمید بن جعفر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ زبیر بن باطا جو یہودیوں میں سب سے بڑا عالم تھا۔ کہتا تھا کہ میں نے ایک کتاب پائی ہے جس کا ختم میرا باپ مجھے سنایا کرتا تھا۔ اس کتاب میں احمد کا تذکرہ ہے کہ وہ ایک پیغمبر ہوں گے۔ اور سر زمین قرظ^۲ میں ظہور فرمائیں گے۔ ان کا حلیہ ایسا اور ایسا ہوگا۔ اپنے باپ کے مرنے پر زبیر نے لوگوں سے اس کا تذکرہ کیا۔ رسول اللہ ﷺ اس وقت مبعوث نہیں ہوئے تھے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اُس نے سنار رسول اللہ ﷺ نے مکہ میں ظہور فرمایا ہے وہ کتاب لی، اور وہ تشریح مٹادی۔ رسول اللہ ﷺ کی شان جو اس کتاب میں مذکور تھی چھپا ڈالی اور کہہ دیا اس میں نہیں ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے مبعوث ہونے سے قبل ہی قریظ و نصیر و خیبر و فدک کے یہودیوں کے ہاں آنحضرت علیہ السلام کے صفات و شمائل اور حلیہ موجود تھا۔ یہ بھی جانتے تھے کہ آپ کا دارالہجرت مدینہ ہوگا۔ آنحضرت صلوٰۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو علمائے یہود نے کہا کہ آج شب کو احمد (ﷺ) پیدا ہو گئے۔ یہ ستارہ نکل آیا جب آپ نبی ہوئے تو انہیں لوگوں نے کہا: احمد ﷺ نبی ہو گئے۔ وہی ستارہ طلوع ہو گیا جو کسی نبی کی نبوت کے وقت طلوع ہوا کرتا ہے۔ وہ لوگ اس کو پہچانتے تھے۔ آپ کا ذکر پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ کی صفت بیان کیا کرتے تھے۔ مگر حسد و سرکشی کی وجہ سے انکار کر بیٹھے۔

نحله بن ابی نملہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ یہودی قریظ رسول اللہ ﷺ کا ذکر اپنی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے اور اپنے بچوں کو آپ کی صفت اور نام اور ہمارے پاس ہجرت کر کے آنے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ پھر جب رسول اللہ ﷺ ظاہر ہو گئے تو ان لوگوں نے حسد کیا اور بغاوت کی اور کہا کہ یہ وہ نہیں ہیں۔

ابوسفیان مولائے ابن ابی احمد سے مروی ہے کہ ثعلبہ بن سعید و اسید بن سعید و اسد بن عبیدہ (جو ان لوگوں کے چچا کے بیٹے تھے) اسلام محض ابوعمیرہ بن الہیمان کی حدیث کی وجہ سے ہوا۔

ابن الہیمان یہودی جو یہود شام میں سے تھا۔ اسلام سے چند سال پہلے آیا۔

لوگوں نے کہا کہ ہم نے کسی شخص کو جو پانچ وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو (یعنی مسلمان نہ ہو) اس سے بہتر نہیں دیکھا۔ اور جب ہم سے بارش روک لی جاتی تھی تو ہم اس کے محتاج ہوتے تھے۔ اس سے کہتے کہ اے ابن الہیمان نکلو اور ہمارے لئے بارش کی

① شَمْلَہ: بالکسر، حیۃ اشتمال، کپڑے کو اس طرح پہننا کہ تمام بدن چھپا رہے۔ علامہ کا شَمْلَہ عربی زبان کا لفظ ہے۔

② قرظ: بزرگ درخت سَلَم یا درخت سَط کا پھل یہ دونوں قسم کے درخت صحرائے عرب میں مشہور تھے۔ اہل عرب ان کے پتے اور پھل کی بڑی قدر کرتے تھے اور اسی کا نام قرظ تھا۔ قرظ کو نچوڑ کر ایک دوا بناتے تھے جسے آقا قیام کہتے تھے۔ ملک میں اس کی تجارت بھی تھی۔ سعد القرظ رسول اللہ ﷺ کا اصل نام فقط ”سعد“ تھا۔ اسی کی تجارت کے باعث ”سعد القرظ“ مشہور ہوئے۔ خود ملک عرب کو بھی اس زمانے میں اسی وجہ سے ”سرزمین قرظ“ کہتے تھے۔

دُعا کرو۔ وہ کہتا تھا: نہیں! تا وقتیکہ تم لوگ اپنے (نماز استقاء کے لئے) نکلنے سے پہلے صدقہ نہ دو (میں دُعاء نہ کروں گا)۔ ہم کہتے تھے کیا چیز پہلے کریں۔

وہ جواب دیتا کہ ایک صاع کھجور یا دو مد جو ہر شخص کے بدلے صدقہ دو۔

ہم یہی صدقہ کرتے تھے پھر وہ ہمیں وادی کے وسط میں لے جاتا تھا۔ واللہ ہم لوگ (مقام دُعاء سے) نہ ہٹتے تھے تا وقتیکہ ابر نہ گزرتا تھا اور ہم پر بارش نہ کر دیتا تھا۔

اس نے بہت مرتبہ ہمارے ساتھ یہی کیا اور ہر مرتبہ ہمیں بارش دی گئی۔ وہ ہمارے درمیان ہی تھا کہ اس کی وفات کا وقت آ گیا۔

اس نے کہا کہ اے گروہ یہو د تمہارے خیال میں مجھے کس چیز نے شراب و خمیر (کی روٹی) کے ملک سے تکلیف اور بھوک کے ملک کی طرف نکالا۔

لوگوں نے کہا: اے ابو عیمر! تم ہی زیادہ جانتے ہو۔

اس نے جواب دیا: میں اس زمین پر محض اس لئے آیا کہ ایک نبی کے خروج کا انتظار کروں جن کا زمانہ تم پر آ گیا ہے۔ یہی شہر ان کی ہجرت گاہ ہے اور مجھے اُمید ہے کہ میں ان کو پاؤں گا۔ میں ان کی پیروی کروں گا۔ تم لوگ اگر ان کو سننا تو ہرگز کوئی شخص تم پر ان کے پاس سبقت نہ کرنے پائے کیونکہ وہ خونریزی بھی کریں گے اور بچوں اور عورتوں کو قید بھی کریں گے یہ چیز ہرگز ہرگز تمہیں ان سے روکنے نہ پائے۔

وہ مر گیا۔ جب وہ رات آئی کہ اس کی صبح کو بنی قریظہ پر فتح حاصل ہوئی تو ثعلبہ اور اسید فرزدان سعید و اسید بن عبید نے جو جوان تھے ان لوگوں سے کہا کہ اے گروہ یہو د واللہ یہ تو وہی شخص ہے جن کا وصف ہم سے ابو عیمر ابن الہییمان نے بیان کیا تھا۔ لہذا اللہ سے ڈرو اور ان کی پیروی کرو۔

انہوں نے کہا کہ یہ وہ نہیں ہیں۔

ان جوانوں نے کہا: واللہ بالضرور یہ وہی ہیں۔

یہ لوگ اُتر آئے اور اسلام لائے۔ ان کی قوم نے اسلام لانے سے انکار کیا۔

محمد بن جبیر بن مطعم نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ کی بعثت سے ایک ماہ قبل ہم لوگ صنم بوانہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اونٹوں کی قربانی کی تھی۔ اتفاق سے ایک بت کے پیٹ سے ایک شور کرنے والا شور کر رہا تھا کہ ایک عجیب بات سنو۔ وحی کا چرانا بند ہو گیا اور ہمیں شہاب (انگارے) مارے جاتے ہیں۔ ایک نبی کی وجہ سے جو کچھ میں ہوں گے اور ان کا نام احمد ہوگا اور ان کی ہجرت گاہ یثرب ہوگی۔

ہم لوگ رک گئے اور متعجب ہوئے۔ رسول اللہ ﷺ ظاہر ہو گئے۔

الضر بن سفیان الہذلی نے اپنے والد سے روایت کی کہ ہم لوگ اپنے ایک قافلے کے ہمراہ ملک شام روانہ ہوئے۔

جب زرقاء و معاون کے درمیان پہنچے تو سستانے کے لئے رات کو مقیم ہو گئے۔ اتفاق سے ایک سوار کہہ رہا تھا اے سونے والو! بیدار ہو جاؤ کیونکہ یہ وقت سونے کا نہیں۔ احمد (ﷺ) ظاہر ہو گئے ہیں اور جن پورے طور پر کھڑے دیئے گئے ہیں۔

ہم لوگ پریشان ہو گئے۔ حالانکہ ہمارے رفیق بہت تھے جنہوں نے اس کو سنا ہم اپنے اعزہ کے پاس آئے تو انہیں مکے میں اس اختلاف کا ذکر کرتے سنا جو قریش میں ایک نبی کے متعلق تھا۔ جو بنی عبدالمطلب میں سے ظاہر ہوئے تھے۔ اور نام احمد (ﷺ) تھا۔

عامر بن ربیعہ سے مروی ہے کہ میں نے زید بن عمرو بن نفیل کو کہتے سنا کہ ہم اولاد اسماعیل (ﷺ) کی شاخ بنی عبدالمطلب میں سے ایک نبی کے منتظر ہیں۔ میں خیال نہیں کرتا کہ انہیں پاؤں گا میں ان پر ایمان لاتا ہوں اور ان کی تصدیق کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ وہ نبی ہیں۔ (اے مخاطب!) اگر تمہاری مدت دراز ہو اور تم انہیں دیکھو تو ان سے میرا سلام کہہ دینا اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ ان کی صفت کیا ہے۔ یہاں تک کہ وہ تم پر مخفی نہ رہیں گے۔

میں نے کہا: بیان کرو۔

انہوں نے کہا: وہ ایسے شخص ہوں گے جو نہ بلند قامت ہوں گے نہ پست قد اور نہ بہت بال والے ہوں گے نہ کم بال والے۔ ان کی آنکھوں سے سرخی کبھی جدا نہ ہوگی۔ دونوں شانوں کے درمیان (پشت پر) مہر نبوت ہوگی۔ نام احمد ہوگا۔

یہ شہر (مکہ) ان کا مقام ولادت و بعثت ہوگا۔ پھر اُس (کے) سے قوم انہیں نکال دے گی اور جو کچھ تعلیمات الہی وہ لائیں گے ناپسند کرے گی۔ یہاں تک کہ وہ یثرب کی طرف ہجرت کریں گے اور ان کے امر کو غلبہ ہو جائے گا۔

بس خبردار رہنا کہ تمہیں ان سے بہکانہ دیا جائے۔ میں تمام شہروں میں دین ابراہیم کی طلب و تلاش میں گھوما ہوں۔ جس یہودی نصرانی یا مجوسی سے دریافت کرتا تھا وہ کہتے تھے کہ یہ دین تمہارے بعد آئے گا۔ اور آنحضرت ﷺ کی صفات اسی طرح بیان کرتے تھے جس طرح میں نے تم سے بیان کی ہیں اور کہتے تھے کہ ان کے سوا اب کوئی نبی باقی نہیں۔

عامر بن ربیعہ نے کہا: جب میں اسلام لایا تو رسول اللہ ﷺ کو زید بن عمرو کے قول کی خبر دی اور ان کی طرف سے آپ کو سلام کہہ دیا۔ آپ ﷺ نے سلام کا جواب دیا۔ ان کے لئے دعائے رحمت کی اور فرمایا کہ میں نے انہیں جنت میں ناز سے ٹہلنے دیکھا ہے۔

عبدالرحمن بن زید بن الخطاب سے مروی ہے کہ زید بن عمرو بن نفیل نے کہا: میں نے نصرانیت و یہودیت کی خوشبو لی مگر ان دونوں کو ناپسند کیا۔ شام اور اس کے مضافات میں پھرا یہاں تک کہ صومعہ میں ایک راہب کے پاس گیا، اس سے اپنی قوم سے جدائی و بت پرستی و یہودیت و نصرانیت سے کراہت بیان کی تو اس نے کہا: میں خیال کرتا ہوں کہ تم دین ابراہیم چاہتے ہو۔ اے اہل مکہ کے برادر! تم وہ دین تلاش کرتے ہو جس پر آج عمل نہیں کیا جاتا۔ وہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے جو حنیف (موحد) تھے۔ نہ یہودی تھے نہ نصرانی۔ وہ اسی بیت اللہ کی طرف نماز پڑھتے اور سجدہ کرتے تھے۔ جو تمہارے شہر (مکہ) میں ہے۔ لہذا تم اپنے شہر میں چلے جاؤ۔ کیونکہ تمہاری قوم میں سے تمہارے ہی شہر میں ایک نبی مبعوث ہوں گے جو دین حنیف ابراہیم علیہ السلام

کولائیں گے اور وہ خدا کے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ بزرگ ہوں گے۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے: مکے میں ایک یہودی رہتا تھا جو وہیں تجارت کرتا تھا۔ جب وہ شب ہوئی جس میں رسول اللہ ﷺ کی ولادت ہوئی تو اس نے قریش کی ایک مجلس میں کہا: کیا آج کی شب تم لوگوں میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔

اس نے کہا: میں نے غلطی کی واللہ! جہاں میں ناپسند کرتا تھا (وہیں ولادت ہوئی)۔ اے گروہ قریش دیکھو! جو میں تم سے کہتا ہوں اس کی جانچ کرو۔ آج کی شب کو اس اُمت کے نبی احمد ﷺ جو سب سے آخر میں پیدا ہوئے ہیں اگر میں غلطی کرتا ہوں تو وہ فلسطین میں (پیدا ہوئے) ہیں ان کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سیاہ وزر و مستاہے جس میں برابر برابر بال ہیں۔ ساری قوم اپنی نشست گاہ سے منتشر ہو گئی اور وہ لوگ اس کی بات سے تعجب کر رہے تھے۔

جب یہ لوگ اپنے مکان گئے تو انہوں نے اپنے اپنے متعلقین سے ذکر کیا ان میں سے بعض سے کہا گیا کہ آج شب کو عبد اللہ بن عبد المطلب کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے اس کا نام انہوں نے محمد ﷺ رکھا ہے۔ اس روز کے بعد یہ سب لوگ ملے اور اس یہودی کے پاس گئے اس سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے خبر دینے کے بعد ہوا ہے یا اس سے پہلے۔ لوگوں نے کہا کہ اس سے پہلے اور اس کا نام احمد ہے۔

اس نے کہا: ہمیں اس کے پاس لے چلو۔

یہ لوگ اس کے ہمراہ نکلے یہاں تک کہ بچے کی والدہ کے پاس گئے۔ انہوں نے اس بچے کو ان کے پاس باہر بھیج دیا۔ اس یہودی نے وہ مستاہے بچے کی پیٹھ پر دیکھا تو غش آ گیا۔ افاقہ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ تیری بربادی ہو تجھے کیا ہوا۔ جواب دیا: بنی اسرائیل سے نبوت چلی اور ان کے ہاتھوں سے کتاب الہی نکل گئی۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کو قتل کرے گا اور ان کے احبار پر غالب آ جائے گا۔ عرب نبوت پر فائز ہوئے۔ اے گروہ قریش کیا تم خوش ہوئے۔ خبردار! واللہ وہ تم کو ایسا غلبہ دے گا۔ جس کی خبر مشرق سے مغرب تک جائے گی۔

یعقوب بن عتبہ بن المغیرہ بن الاضخس سے مروی ہے کہ ستارہ گرنے سے عرب میں سب سے پہلے قبیلہ ثقیف پریشان ہوا۔ وہ لوگ عمرو بن اُمیہ کے پاس آئے کہ تم دیکھتے نہیں کہ کیا بات پیدا ہوئی۔

اس نے کہا کہ ہاں میں دیکھتا ہوں۔ تم لوگ غور کرو۔ اگر یہ راہ بتانے والے ستارے وہی ہیں جن سے راستے کا اندازہ کیا جاتا ہے اور جاڑے گرمی اور بارش کے اوقات معلوم ہوتے ہیں اگر وہی ستارے بکھر گئے ہیں تو دنیا کا فیصلہ ہے اور اس مخلوق کی روانگی ہے جو اس دنیا میں ہے۔ اور اگر یہ کوئی دوسرے ستارے ہیں تو کوئی اور امر ہے جس کا اس مخلوق کے ساتھ اللہ نے ارادہ کیا ہے۔ اور کوئی نبی عرب میں مبعوث ہوگا۔ اس بات کا چرچا ہو گیا۔

محمد بن کعب القرظی سے مروی ہے کہ اللہ نے یعقوب کو وحی بھیجی کہ میں تمہاری ذریت میں سے بادشاہ اور انبیاء مبعوث

کروں گا۔ یہاں تک کہ میں اس نبی حرم کو مبعوث کروں گا جس کی امت ہیکل بیت المقدس تعمیر کرے گی۔ وہ خاتم الانبیاء ہوگا اور اس کا نام احمد (ﷺ) ہوگا۔

شععی سے مروی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دفتر میں ہے کہ تمہاری اولاد میں چند شاخیں اور چند شاخیں ہوں گی (یعنی اولاد اسماعیل و اولاد اسحاق) یہاں تک کہ وہ نبی اُتی آئیں گے جو خاتم الانبیاء ہوں گے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ہاجرہ (والدہ اسماعیل) کو نکالنے کا حکم ہوا تو انہیں براق پر سوار کیا گیا۔ وہ جس شیریں اور نرم (قابل زراعت) زمین پر گزرتے تھے تو کہتے تھے کہ اے جبرئیل ہمیں اتار دو۔ جواب ملتا نہیں یہاں تک کہ مکہ آئے۔ جبرئیل علیہ السلام نے کہا: اے ابراہیم اتر۔ انہوں نے کہا: یہاں نہ دودھ کے جانور نہ زراعت۔ جبرئیل نے کہا: ہاں! ہمیں تمہارے بیٹے کی اولاد سے وہ نبی نکلیں گے جن سے کلمہ علیا تکمیل کو پہنچے گا۔

محمد بن کعب القرظی سے مروی ہے کہ جب ہاجرہ اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو لے کے نکلیں تو وہاں انہیں ایک ملنے والا ملا اور کہا اے ہاجرہ تمہارا بیٹا متعدد قبائل کا باپ ہوگا اور اسی قبیلے سے نبی اُتی پیدا ہوں گے جو ساکن حرم ہوں گے۔

عاصم بن عمرو وغیرہ سے مروی ہے کہ جب ہاجرہ اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو لے کے نکلیں تو وہاں انہیں ایک ملنے والا ملا اور کہا: اے ہاجرہ! تمہارا بیٹا متعدد قبائل کا باپ ہوگا اور اسی قبیلے سے نبی اُتی پیدا ہوں گے جو ساکن حرم ہوں گے۔

عاصم بن عمرو وغیرہ سے مروی ہے کہ جس وقت نبی ﷺ بنی قریظہ کے قلعہ میں اترے تو کعب بن اسد نے بنی قریظہ سے کہا: اے گروہ یہود! اس شخص کی پیروی کرو کیونکہ واللہ وہ نبی ہیں۔ تمہیں بھی خوب واضح ہو گیا ہے کہ وہ نبی مرسل ہیں یہ وہی ہیں جن کو تم اپنی کتاب میں (لکھا ہوا) پاتے ہو۔ یہ وہی ہیں جن کے متعلق عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے۔ تم لوگ خوب ان کی صفت پہچانتے ہو۔

ان لوگوں نے جواب دیا: بیشک یہ وہی ہیں۔ مگر ہم لوگ توریت کے حکم سے جدا نہ ہوں گے (توریت کو ترک کر کے قرآن پر عمل نہیں کریں گے)۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ مدینہ منورہ میں آئے اور فرمایا تم میں جو سب سے بڑا ہوا ہے میرے پاس بھیجو۔

انہوں نے کہا وہ عبد اللہ بن صوریہ ہے۔ رسول اللہ ﷺ اس سے تنہائی میں ملے۔ اس سے آپ نے اس کے دین کی اور اس انعام کی جو اللہ نے ان لوگوں پر کیا تھا اور اس من و سلویٰ کی جو انہیں عطا کیا تھا۔ اور اس ابر کی جس کے ذریعے سے ان پر سایہ ڈالا تھا قسم دی کہ کیا تو جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔

اس نے کہا کہ بارالہا! ہاں جو میں جانتا ہوں اسے ساری قوم جانتی ہے۔ بیشک آپ کی حالت و صفت توریت میں واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ ان لوگوں نے آپ سے حسد کیا۔

آپ ﷺ نے فرمایا: اچھا خود تمہیں کون سا امر مانع ہے۔

عرض کی: میں اپنی قوم کی مخالفت پسند نہیں کرتا۔ عنقریب یہ لوگ آپ کی پیروی کریں گے اور اسلام لائیں گے، تو میں بھی اسلام لاؤں گا۔

محمد بن عمارہ بن عزیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس وفد نجران آیا ان میں ابوالحارث بن علقمہ بن ربیعہ بھی تھا جو ان لوگوں کے دین کا عالم بھی تھا اور رئیس بھی تھا۔ وہ ان کا اسقف (پادری) اور انام اور توریت کا معلم بھی تھا۔ ان لوگوں میں اس کی قدر بھی تھی اس کے خچر نے ٹھوکر کھا کے اسے گرا دیا۔ بھائی نے کہا کہ دور ماندہ ہلاک ہو گیا۔ جو رسول اللہ ﷺ کا ارادہ کرتا ہے۔

ابوالحارث نے کہا تم خود ہلاک و برباد ہوئے۔ کیا تم اس شخص کو برا کہتے ہو جو مرسلین میں سے ہے۔ بیشک یہ وہی ہیں جن کی عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے اور بے شک توریت میں انہیں کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے کہا: پھر تجھے ان کا دین قبول کرنے سے کون سا امر مانع ہے۔

اس نے کہا: اس قوم نے ہمیں شریف بنایا ہے، ہمارا اکرام کیا، ہمیں مال دیا، ان لوگوں کو آپ کی مخالفت کے سوا اور کوئی بات منظور نہیں۔

بھائی نے قسم کھائی کہ وہ اس کی وجہ سے کسی طرف مائل نہ ہوں گے تا وقتیکہ مدینہ آ کر آنحضرت ﷺ پر ایمان نہ لائیں۔ اس نے کہا: اے برا اور اجانے دو کیونکہ میں تو محض مزاح کر رہا تھا۔ جواب دیا: اگرچہ مزاح ہو۔ وہ اپنی سواری مارنے لگے اور یہ شعر پڑھنے لگے۔

اليك يذوي قلقلنا و ضنينها معترضا في بطنها جنينها

مخالفا دين النصارى دينها

ابوالحارث کے بھائی آئے اور اسلام لائے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ قریش نے انصاری بن الحارث بن علقمہ اور عقبہ بن ابی معیط وغیرہ کو یہود بیثرب کے پاس بھیجا اور ان لوگوں سے کہا کہ تم ان سے محمد (ﷺ) کو دریافت کرو۔

یہ لوگ مدینہ آئے اور کہا ہم لوگ تمہارے پاس ایک ایسے امر کے لئے آئے ہیں جو ہم میں پیدا ہو گیا ہے ہمارا ایک یتیم حقیر لڑکا بہت بڑی بات کہتا ہے۔ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ رحمن کا سوال ہے ہم سوائے رحمن یمامہ کے اور کسی کو رحمان نہیں پہچانتے۔

ان لوگوں نے کہا کہ ہم سے اس کی صفت بیان کرو۔

صفت بیان کی تو پوچھا: تم میں سے کس نے اس کی پیروی کی۔

انہوں نے کہا کہ ہمارے ادنیٰ ترین لوگوں نے۔ ان میں سے ایک عالم ہنسا اور کہا: یہی وہ نبی ہیں جن کی نعت و صفت ہم

(اپنی کتاب میں) پاتے ہیں اور ان کی قوم کو ان کا سخت دشمن پاتے ہیں۔

حرام بن عثمان الانصاری سے مروی ہے کہ اسد بن زرارہ اپنی قوم کے چالیس آدمیوں کے ہمراہ ملک شام سے تجارت کے لئے آئے۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ کوئی آنے والا ان کے پاس آیا اور کہا کہ اے ابو امامہ ایک نبی مکے میں ظاہر ہوں گے۔ تم ان کی پیروی کرنا۔ اس کی یہ علامت ہے کہ تم لوگ ایک منزل میں اترو گے، تمہارے ساتھیوں پر ایک مصیبت آئے گی، تم بچ جاؤ گے اور فلاں شخص کی آنکھ میں طاعون ہو جائے گا۔

لوگ ایک منزل میں اترے اور رات کے وقت ان سب کو طاعون نے آدبا یا۔ سوائے ابو امامہ کے اور ان کے ایک ساتھی کے جس کی آنکھ میں طاعون ہوا سب پر مصیبت آگئی۔

صالح بن کیسان سے مروی ہے کہ خالد بن سعید نے کہا: میں نے نبی ﷺ کی بعثت سے پہلے خواب میں ایک تاریکی دیکھی جس نے مکے کو چھپا لیا۔ یہاں تک کہ میں نہ پہاڑ کو دیکھتا تھا نہ زمین کو۔ پھر میں نے ایک نور دیکھا جو زمزم سے نکلا مثل چراغ کی روشنی کے۔ وہ جب بلند ہوتا بڑا ہو جاتا اور پھیل جاتا وہ بلند ہوا اور سب سے پہلے میرے لئے بیت اللہ روشن ہو گیا۔ روشنی بڑی ہو گئی، کوئی پہاڑ اور زمین ایسی باقی نہ رہی جس کو میں نہ دیکھتا۔ وہ بلند ہو کر پھیل گیا۔ پھر وہ اتر آیا یہاں تک کہ میرے لئے میثرب کے کھجور کے باغ جن میں گدرائی کھجوریں تھیں روشن ہو گئے۔ میں نے اسی روشنی میں کسی کہنے والے کو سنا کہ وہ کہتا ہے: سبحانہ سبحانہ ابن مارداذرح اور الامکہ کے درمیان ہضبہ الحصىٰ میں ہلاک ہو گیا۔ یہ امت سعادت مند ہوئی۔ امیین کا نبی آ گیا۔ مکتوب الہی اپنی مدت کو پہنچ گیا۔ اس بستی (مکہ) نے جھٹلایا اس پر دو مرتبہ عذاب ہوگا۔ تیسری بار وہ توبہ کرے گی۔ تین میں دو مشرق میں باقی رہیں اور ایک مغرب میں۔

خالد بن سعید نے یہ خواب اپنے بھائی عمرو بن سعید سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ تم نے عجب واقعہ دیکھا۔ میرا گمان ہے کہ یہ امر عبدالمطلب کے خاندان میں ہوگا۔ کیونکہ تم نے نور کو زمزم سے نکلنے دیکھا۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ نے بعض انبیائے بنی اسرائیل کو وحی بھیجی کہ تم پر میرا بہت سخت غضب ہے اس لئے کہ تم نے میرا حکم ضائع کر دیا۔ میں نے قسم کھائی ہے کہ تمہارے پاس روح القدس نہیں آئیں گے۔ تا وقتیکہ میں ملک عرب سے اس نبی امی کو مبعوث نہ کر دوں جس کے پاس روح القدس آئیں گے۔

ابو حازم سے مروی ہے کہ ایک کاہن مکے میں ایسے وقت آیا کہ رسول اللہ ﷺ پانچ برس کے تھے اور آپ ﷺ کی دایہ آپ کو عبدالمطلب کے پاس لائی تھیں اور وہ ہر سال آپ کو ان کے پاس لایا کرتی تھیں۔ اس کاہن نے جو آپ کو عبدالمطلب کے ساتھ دیکھا تو کہا: اے گروہ قریش! اس بچے کو قتل کر دو۔ کیونکہ یہ تم کو قتل کر دے گا اور تمہیں خدا کر دے گا۔

عبدالمطلب آپ کو لے کے بھاگے اور قریش کو جیسا کہ کاہن نے ڈرایا تھا وہ لوگ آپ کے حال سے برابر ڈرتے رہے۔ علی بن حسین سے مروی ہے کہ بنی النجار میں ایک عورت تھی جس کا نام فاطمہ بنت النعمان تھا ایک جن اس کے تابع تھا۔ وہ اس کے پاس آیا کرتا تھا۔ جب رسول اللہ ﷺ نے ہجرت کی تو وہ اس کے پاس آیا اور دیوار پر اتر گیا۔ فاطمہ نے کہا: تجھے کیا ہوا کہ جس طرح آیا کرتا تھا نہیں آتا۔ اس نے کہا کہ وہ نبی آگئے ہیں جو شراب و زنا کو حرام بتاتے ہیں۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب نبی ﷺ مبعوث ہوئے تو جن کھڑی دیئے گئے۔ اور انہیں ستارے مارے گئے۔ حالانکہ آپ کی بعثت کے قبل وہ لوگ (آسمان کی خبریں) سنا کرتے تھے (آسمان پر) جنوں کے ہر قبیلہ کا ایک ٹھکانا تھا۔ جہاں بیٹھ کے وہ لوگ خبریں سنا کرتے تھے اور اس واقعہ سے سب سے پہلے جو لوگ خوفزدہ ہوئے وہ اہل طائف تھے جن کے پاس اونٹ یا بکری تھی۔ وہ روزانہ اپنے معبودوں کے لئے ذبح کرنے لگے۔ یہاں تک کہ ان کا مال ختم کر کے قریب پہنچ گیا۔ پھر وہ باز آ گئے۔

ان میں سے بعض نے بعض سے کہا کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمان کے راہ بتانے والے ستارے اس طرح ہیں کہ گویا ان میں سے کچھ نہیں گیا۔ اہلیس نے کہا کہ زمین پر کوئی نئی بات ہوئی ہے۔ تم لوگ میرے پاس ہر زمین کی مٹی لاؤ۔ مٹی اس کے پاس لائی جاتی تھی اور وہ اسے سوگھ کر ڈال دیتا تھا۔ یہاں تک کہ اس کے پاس تھامہ کی مٹی لائی گئی۔ اسے اس نے سوگھا اور کہا وہ نئی بات نہیں ہے۔

زہری سے مروی ہے کہ (بعثت سے پہلے) وحی سنی جاتی تھی بنی اسد کی ایک عورت کے کوئی جن تابع تھا۔ ایک روز وہ اس کے پاس آیا اور چلانے لگا کہ وہ امرا آ گیا جس کی طاقت نہیں۔ احمد (رضی اللہ عنہ) نے زنا حرام کر دیا۔ پھر جب اللہ اسلام کو لے آیا تو (جنوں کو وحی) سننے سے روک دیا۔

سعید بن عمرو الہذلی نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں اپنی قوم کے چند آدمیوں کے ہمراہ اپنے بت سواع کے پاس حاضر ہوا۔ ہم لوگ اس کے پاس قربانیاں لے گئے تھے۔ میں سب سے پہلا شخص تھا جس نے اس پر ایک فریبہ گائے چڑھائی۔ اسے اس بت پر ذبح کیا۔ پھر ہم نے اس کے پیٹ سے یہ آواز سنی کہ تعجب، تعجب بالکل تعجب۔ متفرق قسم کے لوگوں میں ایسے نبی کے ظہور کا وقت ہے جو زنا کو حرام بنائیں گے، بتوں کے لئے ذبح کرنے کو حرام کہیں گے۔ آسمانوں پر پہرہ کر دے گا۔ اور ہم (جنوں) کو شہاب (ٹوٹنے والے ستارے) مارے گئے۔

(یہ آواز سن کر) ہم لوگ منتشر ہو گئے۔ مکے آئے اور دریافت کیا، مگر ہمیں کوئی ایسا شخص نہ ملا جو محمد (ﷺ) کے خروج کی خبر دیتا۔ یہاں تک کہ ہم ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملے۔ ہم نے ان سے کہا: اے ابو بکر! کیا کوئی ایسے شخص کے میں ظاہر ہوئے ہیں جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور ان کا نام احمد (رضی اللہ عنہ) ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: کیوں کیا بات ہے؟ میں نے انہیں یہ واقعہ (بت کے پیٹ کی آواز کا) بتایا۔ انہوں نے کہا: ہاں! یہ رسول اللہ ﷺ ہیں۔ انہوں نے ہمیں اسلام کی دعوت دی۔ ہم نے کہا: تا وقتیکہ ہم یہ نہ دیکھ لیں کہ قوم کیا کرتی ہے (ہم اسلام نہیں لائیں گے)۔ کاش! ہم لوگ اسی روز اسلام لے آتے پھر اس کے بعد ہم لوگ اسلام لائے۔

عبد اللہ سعد الہذلی نے اپنے والد سے روایت کی کہ ہم لوگ اپنے بت سواع کے پاس تھے۔ میں اپنی دو سو بھینٹوں کا ایک گلہ جن کو خارش کی شکایت تھی اس (بت) کے پاس لے گیا تھا۔ میں انہیں اس کے قریب کر کے برکت کا طالب ہوا۔ پھر میں نے بت کے شکم سے ایک منادی کی آواز سنی جو یہ ندا دیتا ہے کہ جنوں کا مکر گیا۔ ہمیں ایک نبی کی وجہ سے جن کا نام احمد (رضی اللہ عنہ) ہے

شہاب مارے گئے۔

میں نے کہا کہ مجھے واللہ عبرت دلائی گئی ہے۔

میں اپنی بکریاں واپس لے کے اپنے متعلقین کے پاس چلا گیا۔ پھر ایک شخص سے ملا جس نے مجھے رسول اللہ ﷺ کے ظہور کی خبر دی۔

محمد بن عمر الشامی نے اپنے مشائخ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ ابوطالب کی پرورش میں تھے اور ابوطالب زیادہ مال دار نہ تھے۔ ان کا اونٹوں کا ایک گلہ تھا ان کے پاس اس کا دودھ لایا جاتا تھا۔ جب ابوطالب کے اہل و عیال سب مل کر یا تنہا کھاتے تو شکم سیر نہ ہوتے تھے۔ اور جب ان کے ساتھ نبی ﷺ بھی نوش فرماتے تھے تو سب شکم سیر ہو جاتے تھے۔ ابوطالب جب ان لوگوں کو کھانا کھانا چاہتے تو کہتے کہ میرے بیٹے کے آنے تک ٹھہر جاؤ۔ آپ ﷺ آتے تھے اور ان لوگوں کے ساتھ نوش فرماتے تھے۔ تو ان سب کے کھانے سے بچ جاتا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ سب سے پہلے آپ ﷺ نوش فرماتے پھر انہیں دیتے تو وہ سب پیتے تھے۔ اور وہ سب سیر ہو جاتے تھے۔ ابوطالب کہتے تھے کہ بیشک آپ مبارک ہیں اور بچے صبح کو پراگندہ بال اور آنکھوں میں چیڑ بھرے ہوئے اٹھتے تھے۔ نبی ﷺ تیل اور سرمہ لگائے اٹھتے تھے۔

اُم ایمن نے کہا کہ میں نے نبی ﷺ کو بچپن اور بڑے پن میں کبھی بھوک پیاس کی شکایت کرتے نہیں دیکھا۔ آپ ﷺ صبح کو جاتے تھے اور زم زم نوش فرماتے تھے۔ پھر ناشتہ پیش کیا جاتا تھا تو فرماتے تھے کہ میں اسے نہیں چاہتا میں شکم سیر ہوں۔



نبوت محمدی ﷺ

رسول اللہ ﷺ سے قبل نام ”محمد“:

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ عرب کا ہنوں اور اہل کتاب سے بنا کرتے تھے کہ ایک نبی مبعوث ہوگا۔ جس کا نام محمد (ﷺ) ہوگا۔ جس عرب کو یہ معلوم ہوا۔ اس نے نبوت کی طمع میں اپنے لڑکے کا نام محمد (ﷺ) رکھا۔ محمد بن اسحاق سے مروی ہے کہ بنی سلیم میں بنی ذکوان کے محمد بن خزاعی بن خزاعہ کا نام (محمد) نبوت کی طمع میں رکھا گیا۔ وہ یمن میں ابرہہ کے پاس چلا گیا اور مرنے تک اس کے ساتھ اُس کے دین پر رہا۔ جب وہ صاحب وجاہت ہو گیا تو اس کے بھائی قیس بن خزاعی نے حسب ذیل شعر کہا۔

فذلکم ذوالتاج منا محمد و رایتہ فی حرمتہ الموت تخفق

”ہمارا صاحب تاج محمد یہ ہے جس کا جھنڈا ہجوم موت میں لہراتا ہے۔“

قنادہ بن الکن العرنی سے مروی ہے کہ بنی قسیم بن محمد سفیان بن مجاشع اُسقف (یعنی پوپ یا بہت بڑا پادری) تھا۔ اس کے باپ سے کہا گیا کہ عرب کے لئے ایک نبی ہوگا۔ جس کا نام محمد ہوگا۔ تو اس نے اس کا نام محمد رکھا اور بنی سواہ میں محمد الجشعی کا اور محمد الاسیدی کا اور محمد لقیبی کا نام (محمد) بھی طمع نبوت میں لوگوں نے رکھا۔

نزول وحی کے بعد چند اہم واقعات و معجزات:

ابوزید سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ حجون میں تھے اور آپ رنجیدہ و غمگین تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے اللہ! مجھے آج کوئی ایسی نشانی دکھا دے جس کے بعد میں اپنی قوم کے تکذیب کرنے والوں کی پرواہ نہ کروں۔

یہ ایک مدینے کے پہاڑی راستے کی طرف کچھ نظر آیا۔ آپ نے اُسے پکارا وہ زمین کو چاک کرتا ہوا آیا یہاں تک کہ آپ کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے آپ ﷺ کو سلام کیا۔ آپ نے اُسے واپسی کا حکم دیا تو وہ واپس چلا گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اب مجھے اپنی قوم کے تکذیب کرنے والوں کی پرواہ نہیں۔

عطاء سے مروی ہے مجھے معلوم ہوا کہ نبی ﷺ مسافر تھے۔ آپ استنجایا قضائے حاجت کے ارادے سے تشریف لے گئے۔ مگر کوئی ایسی چیز نہ ملی جس سے آپ لوگوں سے آڑ کریں۔ دودرختوں کو دیکھا جو دور دور تھے۔ آپ نے ابن مسعود سے فرمایا

جاؤ۔ اور ان دونوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے کہو کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تم دونوں اکٹھا ہو جاؤ تاکہ میں تمہاری آڑ میں قضائے حاجت کر لوں۔

ابن مسعود گئے اور ان دونوں سے کہا تو ایک ان میں دوسرے کے پاس آ گیا اور آپ نے ان کی آڑ میں قضائے حاجت کر لی۔

یعنی بن مرہ سے مروی ہے کہ میں ایک سفر میں نبی ﷺ کے ہمراہ تھا لوگ ایک منزل میں اترے آپ نے مجھ سے فرمایا کہ ان دونوں درختوں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ رسول اللہ ﷺ تمہیں اکٹھا ہو جانے کا حکم دیتے ہیں۔ ان دونوں کے پاس گیا اور ان سے یہی کہا۔ ایک نے دوسرے کی طرف جنبش کی اور دونوں جمع ہو گئے۔ نبی ﷺ روانہ ہوئے۔ آپ آڑ میں ہو گئے اور قضائے حاجت کی۔ اس کے بعد ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے ٹھکانے کی طرف جنبش کی۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ! آپ بیت الخلاء تشریف لے جاتے ہیں مگر آپ کا کسی قسم کا فضلہ نظر نہیں آتا۔

فرمایا: اے عائشہ رضی اللہ عنہا! کیا تمہیں معلوم نہیں کہ انبیاء کے بدن سے جو خارج ہوتا ہے زمین اسے نگل لیتی ہے اس لئے اس میں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔

نور اعظم کی زیارت:

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک روز جس وقت میں بیٹھا ہوا تھا جبریل آئے انہوں نے میری پیٹھ پر ہاتھ مارا تو میں اٹھ کر ایک درخت کے پاس گیا جس میں پرندے کے آشیانے کی طرح دو چیزیں تھیں۔ ایک میں وہ بیٹھ گئے اور دوسری میں میں بیٹھ گیا۔ وہ اونچی ہوئی اتنا بلند ہو گئی کہ مشرق و مغرب کو روک لیا۔ اگر میں آسمان کو چھونا چاہتا تو ضرور چھو لیتا۔ میں اپنی نگاہ پھیر رہا تھا اور جبریل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ ایسے معلوم ہوتے تھے گویا ایک فرش ہے جو ملا ہوا ہے۔ میں نے اللہ کے متعلق ان کی فضیلت علمی کو پہچانا۔ انہوں نے میرے لئے آسمان کا دروازہ کھولا۔ میں نے اس نور اعظم کو دیکھا اس طرف پردہ پڑا تھا۔ اور جہاں رموتی اور یاقوت کی تھی۔ پھر اللہ نے مجھے جو وحی کرنا چاہی کی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کے یہاں پہرہ دیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی:

﴿وَاللّٰهُ يَعْصَمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾

”لوگوں سے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔“

آپ نے خیمے سے اپنے سر باہر نکالا اور فرمایا: اے لوگو! واپس جاؤ۔ کیونکہ لوگوں سے اللہ نے میری حفاظت کی ہے۔

عطاء سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ہم گروہ انبیاء ہیں ہماری آنکھیں سوتی ہیں اور ہمارے دل نہیں سوتے۔

حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا۔

جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس برآمد ہوئے اور فرمایا: میں نے خواب میں دیکھا کہ

جبریل علیہ السلام میرے سر ہانے اور میکائیل میرے پانکٹی ہیں۔ ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہتا ہے: آنحضرت ﷺ کی کوئی مثال پیش کرو۔ انہوں نے (آنحضرت ﷺ سے) کہا کہ سنئے۔ (آپ ﷺ کے کان سنتے رہیں) اور سمجھئے (آپ ﷺ کا قلب سمجھتا رہے) آپ کی اور آپ کی اُمت کی مثال اس بادشاہ کی ہے جس نے ایک مکان بنایا اس میں ایک کوٹھری بنائی اور دسترخوان بچھایا۔ پھر ایک قاصد کو بھیجا کہ وہ لوگوں کو کھانے کی دعوت دے۔ بعض نے قاصد کی دعوت قبول کر لی اور بعض نے اسے چھوڑ دیا۔

بادشاہ تو اللہ ہے اور مکان اسلام ہے اور کوٹھری جنت ہے۔ اور اے محمد (ﷺ) آپ قاصد ہیں۔ اے محمد (ﷺ)! جس نے آپ کی دعوت قبول کر لی وہ اسلام میں داخل ہو گیا اور جو اسلام میں داخل ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جو جنت میں داخل ہو گیا وہ وہ نعمتیں کھائے گا جو اس میں ہیں۔
تاجدار نبوت کو زہر دینے کی یہودی کوشش:

ابوسلمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ صدقہ نہیں کھاتے تھے اور ہدیہ نوش فرماتے تھے۔ ایک یہودیہ نے آپ ﷺ کو ایک بھونی ہوئی بکری بھیجی۔ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب نے اس میں سے نوش فرمایا۔ اس بکری نے کہا: میں زہر آلودہ ہوں۔ آپ ﷺ نے اصحاب سے فرمایا کہ ہاتھ اٹھا لو۔ اس نے مجھے خبر دی ہے کہ وہ زہر آلود ہے۔ سب نے ہاتھ اٹھالیا۔ مگر بشیر بن البراء شہید ہو گئے۔

رسول اللہ ﷺ نے اس یہودیہ کو بلایا اور فرمایا کہ تجھے اس حرکت پر کس نے آمادہ کیا؟

اس نے جواب دیا: مجھے معلوم تھا کہ اگر آپ نبی ہوں گے تو آپ کو نقصان نہ کرے گا۔ اور اگر آپ بادشاہ ہوں گے تو میں لوگوں کو آپ سے فرصت دلا دوں گی۔ کہ آپ ﷺ نے اس کے قتل کا حکم دیا اور وہ قتل کر دی گئی۔
یہ واقعہ غزوہ خیبر کا ہے جہاں زینب بنت الحارث یہودیہ نے آپ کو زہر آلود بھنا ہوا گوشت ہدیہ بھیجا اور آپ کو بطور اعجاز اس کا زہر آلود ہونا معلوم ہو گیا۔ مگر اس سے حضرت بشیر شہید ہو گئے اس لئے قصاصاً اس یہودیہ کی بھی گردن مار دی گئی۔ اگر وہ اپنے مزعومہ امتحان نبوت میں آپ کی کامیابی کے بعد بھی ایمان لے آتی تو اس سزا سے بچ جاتی۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر مسلم کے گھر کا پکا ہوا کھانا بالکل حلال ہے۔ ورنہ آنحضرت ﷺ اس یہودیہ کے گھر کا پکا ہوا گوشت ہرگز نوش نہ فرماتے۔ قرآن مجید میں بھی ہے:

﴿فَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ﴾



معجزات رسول ﷺ

پانی سے دودھ بن جانا:

سالم بن ابی الجعد سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دو شخصوں کو کسی کام سے بھیجا۔ ان دونوں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس کو ہم توشہ بنائیں۔ فرمایا: مجھے ایک مشک لاؤ وہ دونوں آپ ﷺ کے پاس مشک لائے تو آپ نے ہمیں اس کے بھرنے کا حکم دیا۔ ہم نے اسے پانی سے بھر دیا۔ آپ ﷺ نے اس میں ڈاٹ لگا دی اور فرمایا تم دونوں جاؤ یہاں تک کہ فلاں فلاں مقام تک پہنچو۔ اللہ تم دونوں کو رزق دے گا۔

وہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ اس مقام پر آئے جس کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے انہیں حکم دیا تھا۔ ان کی مشک کھل گئی، بکری کا دودھ اور مکھن نکل آیا، دونوں نے کھایا اور پیا یہاں تک کہ شکم سیر ہو گئے۔

رسول اللہ ﷺ کی صداقت پر بھیڑیے کی گواہی:

ابوسعید الخضریٰ سے مروی ہے کہ قبیلہ اسلم کا ایک شخص اپنی بکریوں کے ساتھ تھا جن کو وہ ذوالحلیفہ کے میدان میں چرا رہا تھا۔ اس پر ایک بھیڑیا ٹوٹ پڑا اور ایک بکری چھین لی۔ وہ شخص چلایا اور پتھر مار کے اپنی بکری چھڑالی۔

بھیڑیا سامنے آیا اور دم کورانوں کے نیچے دبا کر سرین کے بل اس شخص کے روبرو بیٹھ گیا۔ اور کہا کہ کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے کہ مجھ سے وہ بکری چھینے ہو جو خدا نے مجھے بطور رزق دی ہے۔

اس شخص نے کہا بخدا میں نے کبھی ایسی بات نہیں سنی۔ بھیڑیے نے کہا تم کس بات سے تعجب کرتے ہو۔ اس نے کہا: میں بھیڑیے کو اپنے ساتھ باتیں کرنے سے تعجب کرتا ہوں۔

بھیڑیے نے کہا: تم نے اس سے زیادہ عجیب بات کو چھوڑ دیا ہے۔ دیکھو! وہ رسول اللہ ﷺ ہیں جو دو پتھر لی زمینوں کے درمیان کھجوروں کے باغ میں لوگوں سے گزری ہوئی باتیں بیان کرتے ہیں اور جو آنے والی باتیں ہیں وہ بھی ان سے بیان کرتے ہیں اور تم یہاں اپنی بکری کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔

جب اس شخص نے بھیڑیے کا کلام سنا تو اپنی بکریوں کو جمع کیا اور انصار کے گاؤں قباء میں لایا۔ رسول اللہ ﷺ کو دریافت کیا تو ابوبکر صدیق کے مکان میں پایا۔ اس نے بھیڑیے کا واقعہ سنایا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سچ کہا۔ عشاء کے وقت آنا اور جب دیکھنا کہ لوگ جمع ہو گئے تو انہیں اس واقعے کی خبر دینا۔

اس نے یہی کیا۔ جب نماز پڑھ لی اور لوگ جمع ہوئے تو اس اسلمی نے انہیں بھیڑیے کے واقعے کی خبر دی۔ رسول اللہ ﷺ نے تین مرتبہ فرمایا: سچ کہا، سچ کہا، سچ کہا۔ ایسے عجائب قیامت سے پہلے ہوں گے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد (ﷺ) کی جان ہے۔ قریب ہے قریب ہے کہ تم میں سے ایک شخص شام یا صبح کو اپنے متعلقین سے غائب ہوگا۔ پھر اس کا کوڑا یا اس کی چھڑی یا اس کا جوتا اسے واقعہ کی خبر دے گا۔ جو اس کے متعلقین نے اس کے بعد کیا ہوگا۔

عثمان بن مظعون کے قبول اسلام کا واقعہ:

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ مکہ میں رسول اللہ ﷺ جس وقت اپنے مکان کے آگے میدان میں بیٹھے ہوئے تھے تو عثمان بن مظعون آپ ﷺ کے پاس سے گزرے وہ رسول اللہ ﷺ کی طرف سے کترائے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم بیٹھتے نہیں۔ عرض کی: ہاں (بیٹھتا ہوں)۔ رسول اللہ ﷺ ان کے رو برو بیٹھے پھر جس وقت وہ آپ سے باتیں کر رہے تھے تو رسول اللہ ﷺ نے نظر اٹھائی۔ اور تھوڑی دیر تک آسمان کی طرف دیکھتے رہے۔ پھر اپنی طرف نظر ڈالنے لگے یہاں تک کہ آپ ﷺ نے اُسے زمین پر داہنی جانب ڈالا۔ رسول اللہ ﷺ اپنے ہم نشین عثمان رضی اللہ عنہ سے سرک کر اسی مقام پر بیٹھ گئے۔ جہاں نظر ڈالی تھی۔ اپنے سر کو اس طرح حرکت دینے لگے گویا آپ وہ بات سمجھنا چاہتے ہیں جو آپ سے کہی جا رہی ہے۔ ابن مظعون بھی دیکھ رہے تھے۔

رسول اللہ ﷺ نے جب اپنی ضرورت پوری کر لی اور وہ بات سمجھ لی جو آپ سے کہی جا رہی تھی تو نظر آسمان کی طرف اٹھائی جیسا کہ پہلی بار کیا تھا۔ آپ کی نظر اس کے پیچھے تھی یہاں تک کہ وہ آسمان میں چھپ گیا۔ پھر آپ اپنی پہلی ہی نشست پر عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا: یا محمد (ﷺ)! میں جن اوقات میں آپ کے پاس بیٹھا کرتا تھا، اور آپ کے پاس آیا کرتا تھا ان میں میں نے آپ کو آج صبح کی طرح کرتے نہیں دیکھا۔ فرمایا: تم نے مجھے کیا کرتے دیکھا؟

انہوں نے کہا: آپ کو دیکھا کہ آپ اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ پھر آپ نے اسے اپنی داہنی طرف ڈالا۔ اس کے پاس سرک گئے۔ مجھے چھوڑ دیا۔ اور اپنے سر کو اس طرح حرکت دینے لگے گویا آپ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں جو آپ سے کہی جا رہی ہے۔

فرمایا: کیا تم اسے سمجھ گئے؟

عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا: جی ہاں۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ابھی تم بیٹھے تھے تو میرے پاس اللہ کا قاصد آیا۔

عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا: اللہ کا قاصد؟

آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں۔

عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا: پھر اس نے آپ سے کیا کہا؟

آپ ﷺ نے فرمایا:

((ان الله يامر بالعدل والاحسان و ابتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون))

”اللہ عدل و احسان کا اور قرابت دار کو دینے کا حکم دیتا ہے، بدکاری، بے حیائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے، تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ اللہ کو یاد کرو۔“

عثمان بن عفانؓ نے کہا: بس یہی بات تھی کہ میرے دل میں ایمان نے جگہ کر لی اور مجھے آپ (ﷺ) سے محبت پیدا ہو گئی۔ یہود کے سوالات اور حضور ﷺ کے جوابات:

ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ ایک روز یہود کی ایک جماعت رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوئی۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ابو القاسم ہم سے وہ چند خصلتیں بیان کیجئے جو ہم آپ سے دریافت کریں جن کو سوائے نبی کے کوئی نہیں جانتا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم جو چاہو دریافت کرو لیکن میرے لئے اللہ کو ذمہ دار کر دو اور جو عہد یعقوبؑ نے اپنے بیٹوں سے لیا تھا۔ وہ مجھ سے کرو کہ اگر میں تم سے کچھ بیان کروں اور تم اسے سمجھ لو تو تم بالضرور اسلام پر میری پیروی کرو گے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ بات آپ ﷺ کے لئے (منظور) ہے۔

فرمایا: تو پھر جو چاہو پوچھو۔

انہوں نے کہا: وہ چار باتیں ہمیں بتائیے جو ہم آپ سے پوچھتے ہیں۔

ہمیں بتائیے کہ وہ کون سا کھانا تھا جو اسرائیل (یعقوب علیہ السلام) نے توریت نازل ہونے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا؟ عورت کی منی کی مرد کی منی سے کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اور اس سے لڑکا کیسے پیدا ہوتا ہے اور لڑکی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ سونے میں ان نبی اُمی کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور کون فرشتہ ان کا دوست ہوتا ہے؟

آپ ﷺ نے فرمایا: تم پر اللہ کا عہد لازم ہے اگر میں تمہیں بتا دوں گا تو تم ضرور میری پیروی کرو گے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے جو عہد و پیمان چاہا انہوں نے کر لیا۔

پھر آپ ﷺ نے فرمایا: میں تمہیں اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کی۔ کیا تم جانتے ہو کہ اسرائیل (یعنی یعقوب علیہ السلام) سخت بیمار ہو گئے اور ان کی علالت طول پکڑ گئی تو انہوں نے اللہ کے واسطے نذرمانی کہ اگر اللہ انہیں شفا دے گا تو وہ اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ پینے کی چیز اور سب سے زیادہ پسندیدہ کھانے کی چیز (اپنے اوپر) حرام کر لیں گے۔ ان کی سب سے زیادہ پسندیدہ کھانے کی چیز (اونٹ کا گوشت) اور سب سے زیادہ پسندیدہ پینے کی چیز اونٹ کا دودھ تھا۔ ان لوگوں نے کہا: اے اللہ ہاں۔

آپ ﷺ نے فرمایا: اے اللہ تو ان لوگوں پر گواہ رہنا۔

آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں تمہیں اسی اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل

فرمائی۔

کیا تم جانتے ہو کہ مرد کی منی سفید اور گاڑھی ہوتی اور عورت کی منی زرد اور پتلی ہوتی ہے پھر ان میں سے جو غالب ہوتی ہے اللہ کے حکم سے بچہ اور شہادت اس کی ہوتی ہے اگر مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آجائے تو اللہ کے حکم سے لڑکا ہوتا ہے اور اگر عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آجائے تو اللہ کے حکم سے لڑکی ہوتی ہے۔

ان لوگوں نے کہا: اے اللہ ہاں۔

آپ ﷺ نے فرمایا: اے اللہ! ان لوگوں پر گواہ رہنا۔

آپ ﷺ نے فرمایا: میں تمہیں اسی اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی۔ کیا تم جانتے ہو کہ ان نبی امی کی آنکھیں سوتی ہیں اور ان کا قلب نہیں سوتا۔

ان لوگوں نے کہا: اے اللہ ہاں۔

آپ ﷺ نے فرمایا: اے اللہ! ان پر گواہ رہنا۔

ان لوگوں نے کہا: اب آپ ﷺ ہم سے یہ بیان کر دیجئے کہ کون سا فرشتہ آپ کا دوست ہے بس اسی وقت ہم آپ ﷺ کے ساتھ ہو جائیں گے یا آپ کو چھوڑ دیں گے۔

آپ ﷺ نے فرمایا کہ میرے دوست جبریل علیہ السلام ہیں۔ اور کبھی کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا جس کے وہ دوست نہ ہوں۔

انہوں نے کہا: اس حالت میں تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ اگر آپ ﷺ کا دوست جبرائیل کے سوا اور کوئی فرشتہ ہوتا تو ضرور آپ ﷺ کی پیروی کرتے اور آپ ﷺ کی تصدیق کرتے۔

آپ ﷺ نے فرمایا: اب تمہیں میری تصدیق کرنے سے کونسا امر مانع ہے؟

ان لوگوں نے کہا: جبرائیل ہمارے دشمن ہیں۔

اسی بات پر اللہ جل شانہ نے فرمایا:

﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجَبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ... اَلِیْ قَوْلِهِ... كَانْتُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ﴾

”آپ کہہ دیجئے کہ جو شخص جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہو (تو ہوا کرے) کیونکہ انہوں نے قرآن کو آپ کے قلب پر خدا

کے حکم سے نازل کیا ہے..... الخ..... اسی بات پر ان لوگوں نے (اپنے اوپر) غضب پر غضب نازل کرایا۔“

ست رفتار گدھے کی رفتار میں تیزی:

اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سعد کو دیکھنے تشریف لے گئے۔ انہیں کے پاس قیلوہ فرمایا۔

جب ٹھنڈا وقت ہو گیا تو وہ لوگ اپنا ایک دیہاتی ست رفتار گدھا لائے۔ اور اس پر رسول اللہ ﷺ کے لئے ایک چادر کسى۔ رسول

اللہ ﷺ سوار ہوئے۔ سعد نے چاہا کہ اپنے بیٹے کو رسول اللہ ﷺ کے پیچھے بٹھادیں تاکہ وہ گدھے کو واپس لے آئیں۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم ان کو میرے ساتھ بھیجے ہی وائے ہو تو انہیں میرے آگے سوار کرو۔

سعد نے کہا: نہیں یا رسول اللہ ﷺ! آپ کے پیچھے ہی بٹھاؤں گا۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سواری کے مالک ہی اس کے آگے کے حصے کے زیادہ مستحق ہیں۔

سعد نے کہا کہ میں انہیں آپ ﷺ کے ہمراہ نہ بھیجوں گا، لیکن آپ خود گدھے کو لوٹا دیجئے گا۔

چنانچہ آپ ﷺ نے خود اسے لوٹا دیا۔ اس کی رفتار کی یہ کیفیت تھی کہ خوش رفتار اور اتنا تیز رو ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ

کوئی (جانور) نہ چل سکتا تھا۔

منافقین کی نشاندہی:

ثابت البنانی سے مروی ہے کہ منافقین جمع ہوئے اور انہوں نے آپس میں گفتگو کی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے یہ کہا اور یہ کہا۔ لہذا تم لوگ کھڑے ہو اور اللہ سے توبہ کرو۔ اور میں بھی تمہارے لئے استغفار کرتا ہوں۔ وہ لوگ کھڑے نہ ہوئے۔

آپ ﷺ نے تین مرتبہ فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کھڑے ہو اور اللہ سے توبہ کرو اور میں بھی تمہارے لئے استغفار کروں گا۔ جب اس پر بھی نہ کھڑے ہوئے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ضرور بالضرور کھڑے ہو ورنہ میں تمہیں نام بنام بتا دوں گا۔ (اس پر بھی نہ اٹھے) تو آپ ﷺ نے فرمایا: اے فلاں شخص! اٹھ۔ چنانچہ وہ لوگ شرمندہ ہو کر چہرہ چھپائے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔

دُعائے نبوی سے بارانِ رحمت کا نزول:

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جمعے کے روز میں منبر کے پاس کھڑا تھا اور رسول اللہ ﷺ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ بعض اہل مسجد نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! بارش روک لی گئی ہے اور مویشی ہلاک ہو گئے۔ لہذا آپ اللہ سے دُعا کیجئے کہ وہ ہمیں پانی دے۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیئے۔

ہم لوگ آسمان پر ذرا سا بھی ابر نہیں دیکھتے تھے مگر اللہ نے ابر کو جمع کر دیا اور اس نے ہم پر خوب پانی برسایا۔ میں نے مضبوط سے مضبوط آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنے دل میں پریشان تھا کہ وہ کیونکر اپنے متعلقین کے پاس جائے گا۔ سات دن تک اس طرح بارش ہوتی رہی کہ وہ تھمتی نہ تھی۔

دوسرے جمعہ کو جب رسول اللہ ﷺ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو حاضرین میں سے کسی نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! مکانات گر گئے اور مسافر رُک گئے۔ اللہ سے دُعا کیجئے کہ وہ اس کو ہم سے اٹھالے۔

رسول اللہ ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے فرمایا:

((اللهم حوالینا ولا علينا)).

”اے اللہ! ہمارے اطراف برے اور ہم پر نہ برے۔“

ابر ہمارے سروں پر تھا۔ وہ اس طرح پھٹ گیا گویا ہم ایسی جگہ ہیں کہ ہمارے گرد اگر د بارش ہوتی ہے اور ہم پر نہیں برستا۔

کھانے میں برکت کا معجزہ:

ثابت سے مروی ہے کہ انصار کی ایک خاتون نے اپنا تھوڑا سا کھانا تیار کیا۔ شوہر سے کہا کہ تم رسول اللہ ﷺ کے پاس جاؤ آپ کو دعوت دو اور رسول اللہ ﷺ سے یہ بات خفیہ طور پر کہو۔

وہ آئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! فلاں خاتون نے تھوڑا سا کھانا تیار کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ ﷺ ہمارے یہاں تشریف لائیں۔

رسول اللہ ﷺ نے سب لوگوں سے فرمایا کہ فلاں کے والد کی دعوت قبول کرو۔

انہوں نے کہا میں آیا اور میری یہ کیفیت تھی کہ اپنے متعلقین کے پاس جو کچھ چھوڑا تھا اس کی وجہ سے میرے قدم میرا ساتھ نہ دیتے تھے اور رسول اللہ ﷺ لوگوں کو لے آئے ہیں۔

میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہماری تو فحشیت ہو گئی رسول اللہ ﷺ سب لوگوں کو اپنے ہمراہ لے آئے۔ بیوی نے کہا کہ میں نے تمہیں یہ مشورہ نہیں دیا تھا کہ خفیہ طور پر آنحضرت ﷺ سے کہنا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو یہی کیا۔ بیوی نے کہا کہ تب تو رسول اللہ ﷺ خود زیادہ جانتے ہیں۔

سب لوگ آگئے یہاں تک کہ گھر بھر گیا۔ حجرہ بھی بھر گیا اور وہ لوگ گھر کے احاطے میں بھی تھے۔ (کھانے کی کوئی چیز) مٹھی بھر لائی گئی اور رکھ دی گئی۔ رسول اللہ ﷺ اسے برتن میں پھیلانے لگے اور فرمانے لگے کہ ماشاء اللہ۔ (پھر لوگوں سے) فرمایا کہ قریب آؤ اور کھاؤ۔ جب ایک کا پیٹ بھر جائے تو وہ اپنے ساتھی کے لئے جگہ خالی کر دے۔

ایک آدمی (کھا کر) اٹھنے لگا اور دوسرا (اس کے مقام پر) بیٹھنے لگا۔ یہاں تک کہ گھر والوں میں سے کوئی نہ رہا جو شکم سیر نہ ہو گیا ہو۔

آپ ﷺ نے فرمایا اہل حجرہ کو بلاؤ۔ بیٹھنے والا بیٹھنے لگا اور کھڑا ہونے والا کھڑا ہونے لگا۔ یہاں تک کہ یہ لوگ بھی شکم سیر ہو گئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: احاطہ والوں کو بلاؤ۔ ان لوگوں نے بھی اسی طرح کیا۔ کھانا برتن میں اسی طرح باقی رہا جس طرح کہ تھا۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے (اہل خانہ سے) کہا کہ کھاؤ اور اپنے پڑوسیوں کو کھاؤ۔

انگلیوں سے پانی کا چشمہ:

ثابت سے مروی ہے کہ میں نے ان سے کہا: اے ابو حمزہ! اُن عجائب (معجزات) میں سے جن میں آپ خود موجود ہوں اور جن کو آپ کسی روایت سے نہ بیان کریں ہم سے کچھ بیان کیجئے۔

انہوں نے کہا: ایک روز رسول اللہ ﷺ نے نمازِ ظہر پڑھی اور روانہ ہوئے یہاں تک کہ آپ نشست گا ہوں پر بیٹھ گئے۔ جن پر جبرائیل آیا کرتے تھے۔ بلال آئے اور عصر کی اذان کہی۔ ہر وہ شخص اُٹھ کھڑا ہوا جس کے متعلقین مدینے میں تھے تاکہ قضائے حاجت کرے اور وضو کا پانی حاصل کرے۔

مہاجرین کے چند لوگ رہ گئے جن کے متعلقین مدینے میں نہ تھے۔ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک کشادہ پیالہ لایا گیا جس

میں پانی تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنی ہتھیلی برتن میں رکھی، مگر رسول اللہ ﷺ کی پوری ہتھیلی برتن میں نہ سمائی تو آپ ﷺ نے ان چاروں انگلیوں کو برتن میں گھسا کر فرمایا کہ قریب آؤ اور وضوء کرو۔ آپ کا ہاتھ برتن ہی میں تھا۔ لوگوں نے وضوء کیا یہاں تک کہ ان میں سے کوئی ایسا شخص نہ رہا جس نے وضوء نہ کر لیا ہو۔

ثابت نے کہا کہ میں نے (انس سے) پوچھا اے ابو حمزہ! آپ کے خیال میں وہ لوگ کتنے تھے (جنہوں نے اس ایک برتن سے وضوء کیا)۔ انہوں نے کہا کہ ستر اسی کے درمیان تھے۔

انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے پانی مانگا اور آپ کے پاس ایک کشادہ پیالے میں لایا گیا۔ آپ نے اپنا ہاتھ اس میں رکھ دیا تو پانی آپ کی انگلیوں سے اس طرح اُٹنے لگا گویا وہ چشمے ہیں۔ ہم سب نے پیا (اور بروایت خالد) ساری جماعت وضوء کرنے لگی۔

انس رضی اللہ عنہ نے کہا: میں نے اس جماعت کا اندازہ کیا تو ستر سے اسی تک رہے ہوں گے۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نماز کا وقت آ گیا تو مسجد کے پڑوسی اُٹھ کر وضوء کرنے لگے اور ستر سے اسی کے درمیان تک لوگ رہ گئے۔ جن کے مکانات دور تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے ایک طشت منگایا جس میں پانی تھا۔ لیکن بھرا ہوا نہ تھا۔ آپ نے اپنی انگلیاں اس میں ڈال دیں اور آپ (اس برتن کو) اُن لوگوں کے پاس پہنچانے لگے اور فرمانے لگے کہ وضوء کرو سب نے وضوء کر لیا۔ اور برتن میں جتنا پانی تھا اتنا ہی باقی رہا۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ اپنی کسی ضرورت سے تشریف لے چلے۔ ہمراہ اصحاب میں سے بھی کچھ لوگ تھے یہ لوگ چلتے رہے نماز کا وقت آ گیا تو اس جماعت کو کوئی چیز نہ ملی جس سے وضوء کریں۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی جس سے وضوء کریں۔ لوگوں کے چہروں سے اس کی ناگواری نظر آتی تھی۔ ایک شخص گیا اور ایک پیالہ لایا جس میں بہت پانی تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے اسے لیا اور وضوء کیا۔ آپ ﷺ نے چاروں انگلیاں اس پیالے میں پھیلا کر فرمایا تم لوگ آؤ۔ ساری قوم نے وضوء کیا۔ انس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ یہ لوگ کتنے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ستر یا اسی کے قریب۔

لعاب دہن کی برکت سے حوض کے پانی میں اضافہ:

ایاس بن سلمہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ کاب حدیبیہ آئے۔ تعداد میں ہم چودہ سو آدمی تھے۔ حوض پر پچاس بکریاں بھی تھیں جن کو وہ حوض سیراب نہ کر سکتا تھا۔ تو پھر چودہ سو آدمیوں کو اس کا پانی کیا کافی ہو سکتا تھا۔ رسول اللہ ﷺ حوض پر بیٹھ گئے۔ آپ نے اس میں لعاب دہن ڈالا یا دُعاء کی (راوی کو یاد نہیں رہا) تو وہ جوش مارنے لگا۔ چنانچہ ہم نے پیا اور پلایا اور بھر لیا۔

بھیڑ کے دودھ میں برکت کا واقعہ:

نافع سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ ایک سفر میں چار سو کی تعداد میں آدمی تھے۔ آپ ﷺ نے ہمیں ایسی

منزل میں اتارا جہاں پانی نہ تھا۔ مسلمانوں کو سخت تکلیف تھی۔ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ نے قیام فرمادیا۔ تو سب نے بھی قیام کر دیا۔ یکا یک ایک تیز دھار کے سینگوں والی بھیڑ سامنے آئی جو چل رہی تھی۔ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کا دودھ دوا۔ آپ نے سارے لشکر کو شکم سیر کر دیا اور خود بھی سیراب ہو گئے۔ فرمایا کہ اے نافع اسے روک لینا۔ مگر میرا خیال تو یہی ہے کہ تم اسے روک نہ سکو گے۔ نافع نے کہا کہ جب رسول اکرم ﷺ نے مجھ سے یہ فرمایا کہ میرا خیال تو یہی ہے کہ تم اسے روک نہ سکو گے تو میں نے ایک لکڑی لی اور زمین میں گاڑ دی۔ ایک رسی لی اور اس بھیڑ کو باندھ دیا۔ رسول اللہ ﷺ اور سب لوگ سو گئے۔ میں بھی سو گیا۔ جب بیدار ہوا تو اتفاق سے رسی کھلی ہوئی تھی اور بھیڑ نہ تھی۔ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس گیا اور آپ کو خبر دی۔ میں نے کہا کہ بھیڑ چلی گئی۔ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا اے نافع کیا میں نے تمہیں آگاہ نہیں کر دیا تھا کہ تم اسے روک نہ سکو گے؟ جو اسے لایا تھا وہی اسے لے بھی گیا۔

تو ششہ سفر میں برکت:

عبدالرحمن بن ابی عمرہ الانصاری نے اپنے والد سے روایت کی کہ ہم لوگ کسی غزوہ میں رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ تھے لوگوں پر فاقہ کی مصیبت آ گئی تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے اپنی بعض سوار یوں کو ذبح کرنے کی اجازت چاہی اور عرض کیا کہ اس ذریعہ سے اللہ ہمیں (منزل تک) پہنچا دے گا۔

عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں ان کی سوار یوں کے ذبح کرنے کی اجازت دینے کا قصد کیا ہے تو عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! اگر سواریاں ذبح کر دی جائیں گی تو ہماری کیا کیفیت ہوگی۔ کل صبح کو ہم بھوکے اور پیادہ دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ آپ کی رائے ہو تو لوگوں سے ان کا بقیہ تو شہ منگائیے اور اسے جمع کیجئے اور اللہ سے برکت کی دعا کیجئے۔ بیشک ہمیں اللہ آپ کی دعا سے پہنچا دے گا۔ آپ کی دعا میں ہمیں برکت دے گا۔

رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کا بقیہ تو شہ منگایا تو لوگ ایک مٹھی اور اس سے زیادہ غلہ لانے لگے۔ سب سے بڑی مقدار جو لایا وہ ایک صاع (ساڑھے تین سیر) کھجور تھی۔

رسول اللہ ﷺ نے اس کو جمع کرایا، کھڑے ہوئے جو دعا اللہ کو منظور تھی مانگی، لشکر کو مع ان کے برتنوں کے بلایا اور حکم دیا کہ وہ چنگل سے بھریں۔ سارے لشکر میں کوئی برتن ایسا نہ بچا جس کو انہوں نے بھرنہ لیا۔ اس پر بھی بچ رہا تو رسول اللہ ﷺ اتنا مسکرائے کہ آپ کی کچلیاں کھل گئیں۔ فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بیشک میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو بندہ مومن ان دونوں کلمات کے (عقیدے کے) ساتھ قیامت میں اللہ سے ملے گا تو اس سے دوزخ روک دی جائے گی۔

ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے لئے رسول اللہ ﷺ کی دعا:

ابو قتادہ سے مروی ہے کہ ایک شب کو رسول اللہ ﷺ نے ہمیں وعظ سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اسی شب کو رات بھر چلو گے اور صبح کو ان شاء اللہ پانی (منزل) پر پہنچو گے۔ لوگ اس کیفیت سے روانہ ہوئے کہ کوئی کسی کی طرف رخ نہ کرتا تھا۔ میں بھی رسول اللہ ﷺ کے پہلو میں چل رہا تھا۔

آدھی رات گزر گئی تو یکایک نبی ﷺ کو نیند آ گئی۔ آپ اپنی سواری پر جھک گئے۔ بغیر اس کے کہ میں آپ کو بیدار کرتا ہوں آپ کے سہارا لگا دیا۔ آپ اپنی سواری پر درست ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر ہم روانہ ہوئے۔

رات آخر ہو گئی۔ تو رسول اللہ ﷺ کو پھر نیند آ گئی۔ اور دوبارہ اپنی سواری پر جھک گئے۔ میں نے بغیر اس کے کہ آپ کو بیدار کروں آپ کے سہارا لگا دیا آپ اپنی سواری پر درست ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر ہم روانہ ہوئے۔

جب پچھلی شب کا آخری حصہ ہوا تو آپ اس قدر جھک گئے جو پہلی دونوں مرتبہ سے بہت زیادہ تھا۔ جب قریب تھا کہ آپ ڈھلک جائیں گے میں نے پھر آپ ﷺ کو سہارا دے دیا۔ آپ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا کہ یہ کون ہے۔ میں نے کہا: ابو قتادہ۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تمہارا اس طرح میرے ہمراہ چلنا کب سے ہے۔ میں نے کہا کہ میرا اس طرح آپ کے ہمراہ چلنا برابر رات ہی سے ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تمہاری اس طرح حفاظت کرے گا جس طرح تم نے اس کے نبی کی کی ہے۔ نماز فجر قضا ہونے کا واقعہ:

پھر فرمایا کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم لوگ حریفوں سے مخفی رہیں گے۔ کیا تم کسی کے متعلق یہ خیال کرتے ہو کہ وہ منزل میں آرام کر کے سفر کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا کہ ایک شتر سوار یہ ہیں۔ پھر میں نے کہا ایک شتر سوار یہ ہیں پھر ہم جمع ہو گئے۔ اور ہم سب سات شتر سوار تھے۔ نبی ﷺ راستہ سے ہٹ گئے۔ اپنا سر (آرام کے لئے) رکھ دیا اور فرمایا کہ ہماری نماز کا خیال رکھنا کہ کہیں سونے میں قصانہ ہو جائے۔ سب سے پہلے جو شخص بیدار ہوا وہ سورج نکلنے کی وجہ سے بیدار ہوا۔ ہم سب لوگ گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ سب لوگ سوار ہو جاؤ۔ ہم لوگ روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب آفتاب بلند ہو گیا تو آپ اترے وضو کا برتن مانگا جو میرے پاس تھا اور اس میں پانی تھا۔

ہم لوگوں نے وضو سے کم وضو کیا۔ اور اس (برتن) میں کچھ پانی بچ گیا۔ نبی ﷺ نے فرمایا کہ اے ابو قتادہ ہمارا وضو کا یہ برتن اچھی طرح رکھنا کیونکہ اس کے لئے ایک عظیم الشان خبر ہوگی نماز کی اذان کہی گئی تو نبی ﷺ نے دو رکعتیں فجر سے پہلے پڑھیں آپ نے اسی طرح فجر کی نماز پڑھی جس طرح آپ روزانہ پڑھا کرتے تھے۔

آپ نے فرمایا کہ سوار ہو جاؤ۔ ہم سب لوگ سوار ہو گئے۔ بعض لوگ سرگوشی کرنے لگے تو نبی ﷺ نے فرمایا: یہ کیا بات ہے کہ تم لوگ مجھے چھوڑ کر سرگوشی کر رہے ہو۔ ہم لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ ﷺ ہم اپنی نماز میں اپنی کوتاہی کے بارے میں سرگوشی کر رہے ہیں (جس کا وقت گزر گیا ہے اور ہم سوتے رہے)۔

فرمایا: کیا میرے اندر تمہارے لئے نمونہ نہیں ہے (یعنی جس طرح تم سے وقت فوت ہو گیا اسی طرح مجھ سے بھی فوت ہو گیا) بے شک سو جانے میں (اپنی طرف سے کوتاہی نہیں ہے) بلکہ یہ تو مغذوری ہے کہ آنکھ ہی نہ کھلی (لیکن کوتاہی اس شخص کی ہے جو اس نماز کو ادا نہ کرے یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے۔ جو ایسا کرے) (کہ وقت پر نہ پڑھ سکے) تو اسے چاہیے اس وقت کی نماز جب بیدار ہو پڑھ لے۔ جب دوسرا دن ہو تو وقت پر پڑھے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے خیال میں لوگوں نے کیا کیا۔ پھر فرمایا کہ لوگوں کی یہ کیفیت ہوگی کہ وہ اپنے نبی کو نہ پائیں گے۔

ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما نے لوگوں کو تسلی کے لئے کہا کہ رسول اللہ ﷺ تم کو دھمکاتے ہیں۔ آپ ایسے نہیں ہیں کہ تمہیں چھوڑ جائیں۔ لوگوں نے کہا کہ نبی ﷺ تمہارے سامنے ہیں۔ اگر تم ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کی پیروی کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔

جس وقت ہر چیز گرم ہو گئی یا جس وقت دن بلند ہو گیا، ہم لوگوں کے پاس پہنچے اور وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ ﷺ ہم پیاس کے مارے مر گئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم پر ہلاکت نہ آئے گی۔ آپ نے قیام فرمایا اور فرمایا کہ میرے لئے میرا چھوٹا پیالہ چھوڑ دو آپ نے وضو کا برتن مانگا۔ نبی ﷺ (چھوٹے پیالے میں پانی اُٹھیلنے لگے اور میں لوگوں کو پلانے لگا)۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ پانی کم ہے تو ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ نبی ﷺ نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو تم میں ہر شخص سیراب ہو جائے گا۔ نبی ﷺ اُٹھیلنے اور میں لوگوں کو پلانے لگا۔ یہاں تک کہ میرے اور آنحضرت ﷺ کے سوا کوئی باقی نہ بچا۔ آپ نے پانی اُٹھایا اور مجھ سے فرمایا کہ بیو۔ عرض کی یا رسول اللہ ﷺ تا وقتیکہ آپ نہ نوش فرمائیں گے میں نہیں بیوں گا۔ تو نبی ﷺ نے فرمایا کہ قوم کا ساقی قوم کے آخر میں پیتا ہے۔ چنانچہ میں نے بھی پیا اور نبی ﷺ نے بھی نوش فرمایا۔ چنانچہ لوگ پانی کے پاس بکثرت سیراب ہو کر آئے۔

عبداللہ بن ربیع نے کہا کہ میں تمہاری اس جامع مسجد میں یہ حدیث بیان کرتا ہوں۔ مجھ سے عمران بن حصین نے کہا کہ دیکھو اے نوجوان کہ تم کیونکر حدیث بیان کرتے ہو کیونکہ اس شب میں میں بھی ایک سوار تھا۔ راوی نے کہا: اے ابونجید کیا آپ زیادہ جانتے ہیں۔ پوچھا: آپ کن لوگوں میں سے ہیں۔ میں نے کہا کہ انصار میں سے۔ انہوں نے کہا کہ تب تو آپ لوگ اپنی حدیث کو زیادہ جانتے ہیں آپ قوم سے حدیث بیان کیجئے۔

میں نے قوم سے حدیث بیان کی تو عمران نے کہا کہ میں بھی اس شب موجود تھا اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے اس حدیث کو اس طرح یاد کیا ہو جس طرح آپ نے یاد کیا ہے۔

کھجور کے درخت سے حضور ﷺ کی پکار کا جواب:

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور آپ سے کہا: آپ کس سبب سے نبی ہیں۔ فرمایا: اگر میں کھجور کے درخت کی کسی چیز کو دعوت کروں اور وہ میری دعوت قبول کرے تو کیا تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے۔ اس نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ نے اس کو دعوت کی اور اس نے آپ کی دعوت قبول کی تو وہ شخص آپ ﷺ پر ایمان لایا اور مسلمان ہو گیا۔

جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ ہمیں حدیبیہ میں پیاس کی شدت پیش آئی تو ہم لوگ گھبرائے ہوئے رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے۔ آپ کے سامنے ایک مٹی کی ہانڈی تھی جس میں پانی تھا۔ اس میں آپ ﷺ نے اس طرح اپنی انگلیاں پھرائیں اور فرمایا کہ بسم اللہ لو۔ پھر پانی آپ کی انگلیوں سے اس طرح نکلنے لگا کہ گویا وہ جشے ہیں۔ وہ ہم سب کو کافی ہو گیا اور سب کو پہنچ گیا۔ ہم نے پیا اور وضو کیا۔

حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کے لئے دودھ میں برکت:

المقداد سے مروی ہے کہ میں اور میرے دو ہمراہی اس کیفیت سے آئے کہ مشقت کی وجہ سے ہماری سماعت و بصارت جا چکی تھی۔ ہم لوگ اپنے کو اصحاب رسول اللہ ﷺ کے سامنے پیش کرتے تھے اور کوئی شخص ہمیں قبول نہ کرتا تھا۔ رسول اللہ ﷺ کے پاس گئے تو آپ ﷺ ہمیں اپنے متعلقین کے پاس لے گئے۔ وہاں تین بکریاں تھیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہمارے درمیان یہی دودھ دوہ لو۔ ہم لوگ دودھ دوہا کرتے تھے اور ہر شخص اپنا حصہ پی لیتا تھا۔ رسول اللہ ﷺ کا حصہ آپ کے لئے اٹھا رکھتے۔ آپ ﷺ رات کو تشریف لاتے تھے اور اس طرح سلام کرتے تھے کہ سونے والے بیدار نہ ہوتے اور جاگنے والے سن لیتے۔ مسجد میں نماز پڑھ کر شربت دودھ کا حصہ نوش فرماتے۔

مقداد نے کہا: ایک شب میرے پاس شیطان آیا اور کہا کہ محمد (ﷺ) انصار کے پاس تشریف لے جاتے ہیں تو وہ لوگ آپ کو تھکے دیتے ہیں اور ان لوگوں کے پاس آپ (ضروریات) پا جاتے ہیں۔ آپ کو اس گھونٹ بھر دودھ کی حاجت نہیں ہے۔ لہذا تم اس کو پی جاؤ۔

وہ مجھے سبز باغ دکھاتا رہا یہاں تک کہ میں نے اسے پی لیا۔ جب وہ میرے پیٹ میں پہنچ گیا اور وہ سمجھ گیا کہ اب اس دودھ پر کوئی قابو نہیں تو اس نے مجھے شرمندہ کیا اور کہا کہ تم پر افسوس ہے کیا حرکت کی کہ محمد (ﷺ) کا دودھ پی گئے۔ آپ تشریف لائیں گے اور اس شربت یا دودھ کو نہ دیکھیں گے تو تمہارے لئے بددعا کریں گے اور تم ہلاک ہو جاؤ گے تمہاری دنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی جائے گی۔

مقداد نے کہا: میرے بدن پر ایک کبیل تھا کہ جب سر پر اوڑھا جاتا تھا تو قدم باہر ہو جاتے تھے اور جب قدموں پر ڈالا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا۔ مجھے نیند نہ آتی تھی۔ میرے دونوں ہمراہی سو گئے تھے۔ رسول اللہ ﷺ تشریف لائے۔ آپ ﷺ نے اسی طرح سلام کیا جس طرح آہستہ آواز سے کیا کرتے تھے۔ مسجد میں آئے اور نماز پڑھی۔ پھر شربت کے پاس آئے (برتن کو) کھولا تو اس میں کچھ نہ پایا۔ آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ آپ میرے لئے بددعا کریں گے اور میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ مگر آپ ﷺ نے فرمایا: اے اللہ! اسے کھلا جو مجھے کھلائے اور اسے پلا جو مجھے پلائے۔ میں نے اپنے کبیل کی طرف رخ کیا اور اسے اپنے اوپر کس لیا۔ چھری لی اور بکریوں کے پاس جا کر تلاش کرنے لگا کہ ان میں کون زیادہ موٹی ہے تاکہ رسول اللہ ﷺ کے لئے ذبح کروں۔ اتفاق سے وہ سب کی سب دودھ سے بھری ہوئی تھیں۔

میں نے آنحضرت ﷺ کے متعلقین کے لئے ایسے برتن کی طرف رخ کیا جس میں ان لوگوں کی دودھ دوہنے کی خواہش نہ تھی اس میں میں نے اتنا دودھ دوہا کہ بھین برتن کے اوپر آ گیا۔ رسول اللہ ﷺ کے پاس لایا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اے مقداد کیا تم نے آج شب کو اپنے حصے کا شربت (دودھ) نہیں پیا۔ جو اس قدر لے آئے۔ عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! نوش فرمائیے۔ آپ ﷺ نے نوش فرمایا۔ مجھے دیا تو میں نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! آپ نوش فرمائیے۔ آپ نے نوش فرمایا۔ پھر مجھے دیا۔ جو بچا تھا وہ میں نے پی لیا۔ جب میں سمجھ گیا کہ رسول اللہ ﷺ سیراب ہو گئے اور آپ ﷺ کی دعا کی برکت مجھے پہنچ گئی تو میں اتنا ہنسا کہ

زمین پر لوٹ گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اے عقدا یہ بھی تمہاری ایک برائی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ ﷺ میرا یہ معاملہ ہوا اور میں نے یہ کیا (یعنی شیطان کا واقعہ بیان کر دیا)۔

آنحضرت ﷺ نے فرمایا: یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہی تھی۔ کیا تم میرے قریب نہیں لائے تھے تاکہ اپنے ان دونوں ہمراہیوں کو بیدار کرو اور وہ بھی اس (دودھ) میں سے کچھ پا جائیں۔ میں نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا کہ جب آپ اسے (دودھ کو) پا گئے اور میں بھی آپ کے ساتھ پا گیا تو مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ لوگوں میں سے کس نے اسے پایا۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام:

قاسم سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میں کسی کو نہیں پہچانتا جو مجھ سے پہلے اس طرح اسلام لایا ہو۔ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ میرے پاس تشریف لائے میں اپنے متعلقین کی بکریاں (جگل میں) چرا رہا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تمہاری بکریوں میں دودھ ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں۔ آپ ﷺ نے ایک بکری پکڑ لی اور اس کے تھن کو چھوا تو دودھ اُتر آیا۔ چنانچہ میں کسی کو نہیں پہچانتا جو مجھ سے پہلے اس طرح اسلام لایا ہو۔

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی آزادی:

سلمان سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ کسی صحابی کے جنازے میں تھے۔ جب مجھے آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ میرے پیچھے گھوم جاؤ۔ آپ نے اپنی چادر اتار دی۔ میں نے مہر نبوت دیکھی اور اسے بوسہ دیا۔ پھر میں گھوم کر آپ کے پاس آ گیا اور سامنے بیٹھ گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ (اپنے آقا سے) مکاتیب کر لو یعنی بعد ادا کئے زرخشن اپنی آزادی کی دستاویز دکھا دو۔

میں نے تین سو پھل دینے والی کھجور کی قلموں اور چالیس اوقیہ (ڈیڑھ سیر سے زائد) سونے پر مکاتیب کر لی۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو۔ لوگ ایک ایک دودھ تو تین قلمیں لاتے تھے یہاں تک کہ تین سو قلمیں جمع ہو گئیں۔

عرض کی مجھے ان کے پھل لانے پر کیونکر قدرت ہوگی۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم جاؤ اور ان کے بونے کے لئے اپنے ہاتھ سے گڑھے کھودو۔ میں نے گڑھے کھودے۔ آپ ﷺ کے پاس آیا تو آپ میرے ہمراہ تشریف لائے اور انہیں اپنے ہاتھ سے رکھ دیا۔ ان میں سے ایک درخت بھی پھل دینے سے نہ بچا اور سونا (ادا کرنا) رہ گیا۔

میں جس وقت آنحضرت ﷺ کے پاس تھا تو کبوتر کے انڈے کے برابر زکوٰۃ کا سونا لایا گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ فارسی مکاتب غلام (یعنی سلمان) کہاں ہیں۔ میں اُٹھ کھڑا ہوا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ لو اس میں سے ادا کر دو۔ عرض کی یہ مجھے کیونکر کافی ہوگا۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنی زبان سے اسے چھوا۔ میں نے اس میں چالیس اوقیہ (اپنے آقا کو) تول دیا اور جتنا لوگوں کو دیا تھا اتنا ہی میرے پاس بچ گیا۔

یہودی مریض کا قبول اسلام:

ابو صحر العقیلی سے مروی ہے کہ میں نکل کر مدینہ گیا تو رسول اللہ ﷺ نے جوابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے آگے چل رہے تھے آپ ایک یہودی پر گزرے جس کے پاس ایک دفتر تھا۔ اس میں توریت تھی۔ وہ اپنے ایک مریض بھتیجے کو پڑھ کر سنارہا تھا جو اس کے سامنے تھا۔

نبی ﷺ نے فرمایا اے یہودی میں تجھے اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کی اور بنی اسرائیل کے لئے سمندر میں راستہ کر دیا۔ کیا تو اپنی توریت میں میری صفت و ذکر اور میرے ظہور کا مقام پاتا ہے؟ اس نے اپنے سر کے اشارہ سے کہا: نہیں۔

اس کے بھتیجے نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کی اور بنی اسرائیل کے لئے سمندر میں راستہ کر دیا کہ بے شک یہ شخص اپنی کتاب میں آپ کی نعت اور آپ کا زمانہ اور آپ کی صفت اور آپ کے ظہور کا مقام (لکھا ہوا) پاتا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی ﷺ نے فرمایا کہ اس یہودی کو اپنے ساتھی کے پاس سے اٹھا دو۔ اس نوجوان کی روح قبض کر لی گئی تو نبی ﷺ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اسے دفن کیا۔

رسول اللہ ﷺ اُمّ معبد کے خیمہ میں:

بنی حح کے ایک شیخ سے مروی ہے کہ جب نبی ﷺ (دوران ہجرت میں) اُمّ معبد کے پاس آئے تو دریافت فرمایا کہ ضیافت کی کوئی چیز ہے؟ اُمّ معبد نے کہا: نہیں۔

آپ ﷺ اور ابو بکر رضی اللہ عنہما وہاں سے علیحدہ ہٹ گئے۔ شام کو ان کے بیٹے بکریوں کو (جنگل میں سے چرا کر) لائے۔ تو انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ یہ مجمع کیسا ہے جو مجھے دور بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک قوم ہے جنہوں نے ہم سے مہمانی (ضیافت) طلب کی تو میں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی چیز ضیافت کی نہیں ہے۔

ان کے بیٹے ان حضرات کے پاس آئے اور عذر کیا کہ وہ ایک ضعیف عورت ہیں اور جس چیز کی آپ کو ضرورت ہو وہ ہمارے پاس ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جاؤ اور اپنی بکریوں میں سے ایک بکری میرے پاس لے آؤ۔ وہ گئے اور ایک بکری پکڑی جو بچہ تھی۔ ان کی والدہ نے کہا کہ تم کہاں جاتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ان دونوں (آنحضرت ﷺ و ابو بکر رضی اللہ عنہما) نے مجھ سے بکری مانگی ہے۔ اُمّ معبد نے کہا کہ یہ لوگ اسے کیا کریں گے۔ بیٹے نے کہا جو چاہیں گے۔

نبی ﷺ نے اس کے تھن پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کے دودھ اُتر آیا۔ آپ ﷺ نے دوا۔ یہاں تک کہ ایک بڑا پیالہ بھر گیا اور آپ ﷺ نے اسے اسی طرح دودھ سے بھرا ہوا چھوڑا جس طرح تھی۔ فرمایا کہ اسے اپنی والدہ کے پاس لے جاؤ اور بکریوں میں سے میرے پاس دوسری بکری لے آؤ۔ وہ اپنی والدہ کے پاس دودھ کا پیالہ لائے تو پوچھا: یہ تمہیں کہاں سے مل گیا۔ انہوں نے کہا

کہ فلاں بکری کا دودھ ہے۔

اُمّ معبد نے کہا یہ کیونکر ہو سکتا ہے اس کے تو کبھی بچہ بھی نہیں ہوا۔ لات کی قسم میں اس شخص کو یہ گمان کرتی ہوں کہ وہ نئے دین والے ہیں جو مکے میں تھے۔ اُمّ معبد نے دودھ پیا، ان کے بیٹے آپ ﷺ کے پاس ایک دوسری بکری لائے جو بچہ تھی۔ آپ ﷺ نے اس کا بھی دودھ دوہا یہاں تک کہ وہ بڑا پیالہ بھر گیا اور اسے اسی طرح دودھ بھرا ہوا چھوڑا جیسی کہ وہ تھی۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم بھی پوچھو انہوں نے بھی پیا۔

فرمایا میرے پاس کوئی اور بکری لاؤ۔ وہ اسے آپ ﷺ کے پاس لائے تو آپ ﷺ نے دوہا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پلایا۔ پھر فرمایا کہ میرے پاس کوئی اور بکری لاؤ۔ وہ اسے آپ ﷺ کے پاس لائے۔ آپ ﷺ نے دوہا اور نوش فرمایا اور ان سب بکریوں کو اسی طرح دودھ بھرا چھوڑا جیسی کہ وہ ہو گئی تھیں۔

بارگاہ رسالت میں اونٹ کی شکایت:

حسن سے مروی ہے کہ جس وقت نبی ﷺ اپنی مسجد میں تھے ایک بھڑکنے والا اونٹ آیا۔ اس نے اپنا سر نبی ﷺ کے آغوش میں رکھ دیا اور بلبلانے لگا۔ نبی ﷺ نے فرمایا یہ اونٹ کہتا ہے کہ ایک شخص کا ہے جو اس کو اپنے والد کی جانب سے کھانے میں ذبح کرنا چاہتا یہ فریاد کرنے آیا ہے۔

ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ ﷺ فلاں شخص کا اونٹ ہے اور اس نے اس کے متعلق یہی ارادہ کیا ہے۔ نبی ﷺ نے اس شخص کو بلایا اور دریافت کیا تو اس نے بتایا اس کا ارادہ اس اونٹ کے متعلق یہی ہے۔ نبی ﷺ نے اس سے سفارش فرمائی کہ وہ اسے ذبح کرے جو اس نے منظور کر لیا۔

سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے کھانے میں برکت:

جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا ایک رات کو ہم لوگ بغیر شب کھانا کھائے ہوئے سو گئے۔ صبح کو اٹھ کر باہر گیا۔ واپس آیا تو دیکھا فاطمہ رضی اللہ عنہا رنجیدہ تھیں۔ میں نے کہا آپ کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا: آج نہ تو ہم نے رات کا کھانا کھایا اور نہ دن کا کھانا کھایا اور نہ ہمارے پاس رات کا کھانا ہے۔

میں نکلا اور تلاش کیا تو کچھ مل گیا جس سے میں نے غلہ اور ایک درہم کا گوشت خریدا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس لایا تو انہوں نے روٹی اور سالن پکایا۔ جب وہ ہانڈی پکانے سے فارغ ہوئیں تو کھانا کاش آپ میرے والد کے پاس جا کر انہیں بلاتے۔

میں رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوا جو مسجد میں کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے کہ اے اللہ! میں بھوک سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ! میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں ہمارے پاس کھانا ہے لہذا تشریف لائیے۔ آپ ﷺ نے میرے اوپر سہارا لگایا یہاں تک کہ اندر تشریف لائے اور ہانڈی اُبل رہی تھی۔

آپ ﷺ نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ عاتشہ رضی اللہ عنہا کے لئے سالن نکالو۔ انہوں نے ایک پیالے میں نکالا۔ فرمایا کہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے لئے سالن نکالو۔ انہوں نے ایک پیالے میں سالن نکالا۔ یہاں تک کہ انہوں نے آپ ﷺ

کی فویہ یوں کے لئے سالن نکالا۔

فرمایا کہ اپنے بیٹے کے لئے اور شوہر کے لئے سالن نکالو۔ اس کی بھی تعمیل کی۔

فرمایا کہ تم نکالو اور کھاؤ۔ انہوں نے سالن نکالا ہانڈی چڑھادی گئی اور وہ بھری ہوئی تھی۔ چنانچہ جتنا اللہ نے چاہا ہم نے اس میں سے کھایا۔

علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب آپ کے میں تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو حکم دیا کہ آپ کے لئے کھانا تیار کریں۔ علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اولاد عبدالمطلب کو بلاؤ۔ انہوں نے چالیس آدمیوں کو بلایا۔ آپ ﷺ نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اپنا کھانا کھاؤ۔

علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ان لوگوں کے پاس شریڈ لایا جو صرف اتنا تھا کہ ایک آدمی کھا لیتا مگر ان سب نے اس میں سے کھایا۔ یہاں تک کہ سیر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو پانی پلاؤ۔ میں نے انہیں ایک ایسے برتن میں سے پانی پلایا جو ایک آدمی بھر کی سیرابی کا تھا۔ مگر اس میں سے سب نے پیا اور یہاں تک کہ باز آ گئے۔ بنو ہاشم کو دعوت اسلام:

ابولہب نے کہا کہ محمد (ﷺ) تم نے سب پر جادو کر دیا ہے۔ سب چلے گئے۔ آپ ﷺ نے کہا: ان لوگوں کو نہیں بلایا۔ چند روز کے بعد ان لوگوں کے لئے اسی طرح کھانا تیار کرایا۔ مجھے حکم دیا تو میں نے ان سب کو جمع کیا۔ انہوں نے کھایا۔ آپ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ میں جس کام پر ہوں اس میں کون میری مدد کرے گا۔ اور میری دعوت قبول کرے گا۔ اس شرط پر کہ وہ میرا بھائی ہو اور اس کے لئے جنت ہو۔

علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ! میں (مدد کروں گا اور دعوت قبول کروں گا)۔ حالانکہ میں ان سب میں کم سن اور ان سب میں کمزور اور پتلی پنڈلیوں والا ہوں۔ ساری قوم خاموش رہی۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ابوطالب! تم اپنے بیٹے (علی) کو نہیں دیکھتے۔ ابوطالب نے کہا کہ انہیں چھوڑ دو کیونکہ وہ اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ خیر کرنے میں ہرگز کوتاہی نہ کریں گے۔ آنکھ کا تندرست ہونا:

زید بن اسلم وغیرہ سے مروی ہے کہ (غزوہ اُحد میں) قتادہ بن نعمان کی آنکھ میں چوٹ آ گئی اور وہ ان کے زُخار پر بہہ آئی۔ رسول اللہ ﷺ نے اسے اپنے ہاتھ سے (آنکھ کے حلقے) میں لوٹا دیا۔ وہ سب سے اچھی اور سب سے زیادہ درست ہو گئی۔

چھڑی کا تلوار بننا:

زید بن اسلم وغیرہ سے مروی ہے کہ غزوہ بدر میں عکاشہ بن محسن کی تلوار ٹوٹ گئی تو رسول اللہ ﷺ نے انہیں درخت کی ایک چھڑی دے دی جو ان کے ہاتھ میں تیز چمکدار اور مضبوط تلوار بن گئی۔

فراق رسول میں لکڑی کا رونا:

عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک لکڑی سے جو مسجد میں تھی تکیہ لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ جب منبر بنایا گیا تو رسول اللہ ﷺ اس پر چڑھے۔ وہ لکڑی رونے لگی۔ رسول اللہ ﷺ نے اسے گلے لگایا تو خاموش ہو گئی۔
قرعہ اندازی کا غلط ہو جانا:

زید بن اسلم وغیرہ سے مروی ہے کہ (بحالت شرک) سراقہ بن مالک نے تیروں سے اس امر کے متعلق قرعہ ڈالا کہ آنحضرت ﷺ (کے سے بچ کر) نکل جائیں گے یا نہیں۔ ہر مرتبہ یہی نکلا کہ آپ ﷺ (کے سے بچ کر) نہیں جائیں گے۔ وہ نبی ﷺ کی تلاش میں سوار ہوئے اور آنحضرت ﷺ کو پا گئے۔ نبی ﷺ نے دُعا کی کہ ان کے گھوڑے کے پیر ہنس جائیں۔ پیر ہنس گئے۔ سراقہ نے عرض کیا کہ اے محمد (ﷺ) آپ اللہ سے دُعا کیجئے کہ وہ میرے گھوڑے کو چھوڑ دے تو میں آپ سے باز آ جاؤں گا۔ نبی ﷺ نے فرمایا کہ اے اللہ! اگر یہ سچے ہوں تو ان کے گھوڑے کو رہا کر دے۔ چنانچہ گھوڑے کے پیر نکل آئے۔
بایکاٹ کا معاہدہ دیمک نے چاٹ کھایا:

قریش کے ایک شیخ سے مروی ہے کہ جب ہاشم نے رسول اللہ ﷺ کو قریش کے حوالے کرنے سے انکار کیا تو قریش نے باہم ایک عہد نامہ لکھا کہ وہ نبی ہاشم کو نہ بیٹی دیں گے نہ ان کی بیٹی لیں گی۔ نہ ان سے کچھ خریدیں گے اور نہ ان کے ہاتھ فروخت کریں گے۔ نہ کسی امر میں ان سے میل جول کریں گے اور نہ ان سے بولیں گے۔
قریش نے باہم یہ عہد لکھا تو نبی ہاشم تین سال تک اپنے شعب میں (جو مکے کے قریب ایک مقام ہے) محصور رہے۔ سوائے ابولہب کے کہ وہ تو ان لوگوں کے ہمراہ شعب میں نہیں گیا باقی عبدالمطلب بن عبدمناف کا خاندان شعب میں چلا گیا۔
جب (اس معاہدے کو) تین برس گزر گئے تو اللہ نے اپنے نبی کو عہد نامے کے مضمون پر اور اس امر پر مطلع کر دیا کہ اس میں جو ظلم و جور کا مضمون تھا اسے دیمک کھا گئی باقی صرف اللہ کا ذکر رہ گیا۔
رسول اللہ ﷺ نے ابوطالب سے بیان کیا تو ابوطالب نے کہا: اے میرے بھتیجے! جو تم مجھے خبر دے رہے ہو کیا یہ سچ ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: بخدا ہاں۔

ابوطالب نے اس کو اپنے بھائیوں سے بیان کیا۔ تو ان لوگوں نے ابوطالب سے کہا کہ آنحضرت ﷺ کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ ابوطالب نے کہا بخدا آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ (اے میرے بھتیجے!) تمہاری کیا رائے ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میری یہ رائے ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے سے اچھے کپڑے دستیاب ہوں وہ پہنیے پھر سب مل کر قریش کے پاس جائیے تاکہ اس واقعہ کی خبر انہیں پہنچنے سے پہلے ہم ان سے بیان کر دیں۔

لوگ روانہ ہوئے یہاں تک کہ مسجد حرام میں پہنچے۔ انہوں نے حطیم کا قصد کیا۔ حطیم میں صرف قریش کے سن رسیدہ اور صاحب عقل و فہم لوگ بیٹھا کرتے تھے۔

اہل مجلس ان کی طرف متوجہ ہو کر دیکھنے لگے کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ ابوطالب نے کہا کہ ہم ایک کام سے آئے ہیں لہذا

تم لوگ بھی ایک ایسے سبب سے اُسے مان لو جو تم کو بتایا جائے گا۔

ان لوگوں نے مرحبا و اہلا کے نعرے لگائے۔ اور کہا کہ ہمارے یہاں وہ بات ہوگی جس سے تم خوش ہو گے۔ اچھا تم کیا چاہتے ہو۔

ابوطالب نے کہا کہ میرے بھتیجے نے مجھے خبر دی ہے اور انہوں نے کبھی مجھ سے غلط بات نہیں کہی کہ تمہاری اس کتاب پر جو تم نے لکھی ہے اللہ نے دیکھ مسلط کر دی اس میں ظلم و جور و قطع رحم کے متعلق جو مضمون تھا اسے وہ چاٹ گئی صرف وہ مضمون باقی رہ گیا ہے جس میں اللہ کا ذکر ہے۔ اگر میرے بھتیجے سچے ہیں تو تم لوگ اپنی بری رائے سے ہٹ جاؤ۔ اور اگر وہ جھوٹے ہیں تو میں انہیں تمہارے حوالے کر دوں گا۔ پھر چاہے تو تم لوگ انہیں قتل کر دینا خواہ زندہ رکھنا۔

ان لوگوں نے کہا کہ تم نے ہمارے ساتھ انصاف کیا ہے۔ انہوں نے اس کتاب کو منگوا بھیجا۔ جب وہ لائی گئی تو ابوطالب نے کہا کہ اس کو پڑھو۔ لوگوں نے اسے کھولا تو اتفاق سے وہ اسی طرح تھی جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ سوائے اس حصہ کے جس میں اللہ کا ذکر تھا سب کا سب دیکھ کھا گئی تھی۔

سب لوگ حیران ہوئے اور شرمندگی سے سرنگوں ہو گئے۔ ابوطالب نے کہا: کیا تمہیں واضح ہو گیا ہے کہ تمہیں لوگ ظلم و قطع رحم و بدی کے قریب تر ہو؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔

قریش نے بنی ہاشم کے ساتھ جو برتاؤ کیا تھا اس پر چند آدمیوں نے ایک دوسرے کو ملامت کی، پھر یہ لوگ بہت تھوڑے رہ گئے۔

ابوطالب یہ کہتے ہوئے شعب واپس آئے کہ اے گروہ قریش! ہم لوگ کس بنا پر محصور و مقید ہیں۔ حالانکہ حقیقت امر واضح ہو گئی ہے۔

ابوطالب اور ان کے ساتھی کعبے کے پردوں میں داخل ہوئے۔ اور کہا اے اللہ! جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیا، ہم سے قطع رحم کیا اور ہماری اس چیز کو حلال سمجھ لیا جو اس پر حرام ہے اس سے ہماری مدد کر۔ یہ کہا اور واپس ہو گئے۔ ایک جن کا خبر دینا:

جابر و غیرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے متعلق سب سے پہلے جو خبر مدینے میں آئی یہ تھی کہ اہل مدینہ میں سے ایک عورت کے ایک جن تابع تھا وہ ایک پرندے کی شکل میں آیا مکان کی دیوار پر اترتا تو اس عورت نے کہا کہ نیچے اتر، تو ہم سے بات کر ہم تجھ سے بات کریں تو ہمیں خبر دے اور ہم تجھے خبر دیں اس نے کہا کہ میں ایک نبی مبعوث ہوئے ہیں جنہوں نے زنا کو ہم پر حرام کر دیا، اور ہمارا قرار (چلین) چھین لیا ہے۔

زمانہ بعثت و مقصد آمد مصطفیٰ:

سفیان ثوری سے مروی ہے کہ میں نے السدی کو آیت ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾ (یعنی اللہ نے آپ کو ناداقتف پایا) پھر اس نے ہدایت کر دی) کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ آپ چالیس برس تک اپنی قوم کے حال پر رہے۔

انس رضی اللہ عنہ بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی ولادت سے چالیس برس بعد مبعوث کئے گئے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ چالیس (برس) کے بعد مبعوث ہوئے تھے۔ جب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، اے ابو حمزہ! رسول اللہ ﷺ جب مبعوث ہوئے تو آپ کس شخص کی عمر کے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ چالیس برس کے تھے۔ العلأ نے پوچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا۔ انس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، آپ ﷺ دس سال کے میں رہے اور دس سال مدینے میں رہے۔

ابن سعد نے کہا: انس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ آپ مکے میں دس برس رہے اور ان کے سوا کوئی اس کو نہیں کہتا (سب تیرہ برس کہتے ہیں)۔

عمر سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ پر نبوت نازل ہوئی تو آپ ﷺ چالیس برس کے تھے۔ تین سال اسرائیل آپ کے ساتھ رہے۔ پھر انہیں آپ سے جدا کر لیا گیا اور جبریل علیہ السلام کو دس برس مکے میں اور دس برس مدینے میں آپ ﷺ کی ہجرت کے زمانہ میں ساتھ رکھا گیا۔ تریسٹھ سال کی عمر میں رسول اللہ ﷺ کی وفات ہو گئی۔

محمد بن سعد نے کہا: میں نے یہ حدیث محمد بن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کی تو فرمایا، ہمارے شہر کے اہل علم بالکل نہیں جانتے کہ اسرائیل علیہ السلام نبی ﷺ کے ساتھ رکھے گئے ان کے علماء اور ان میں سے علمائے سیرت کہتے ہیں کہ آپ ﷺ پر جب سے وحی نازل ہوئی۔ اس وقت سے آپ کی وفات تک سوائے جبریل کے کوئی فرشتہ آپ کے ساتھ نہیں رکھا گیا۔

زرارہ بن ابی اوفی سے مروی ہے کہ قرن ایک سو بیس برس کا ہوتا ہے جس سال رسول اللہ ﷺ مبعوث ہوئے۔ وہ وہی سال تھا۔ جس میں یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔

ابو جعفر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں احمر (سرخ) واسود (سیاہ) کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔ عبد الملک نے کہا کہ احمر انسان اور اسود جن ہیں۔

حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں ان سب کا رسول ہوں جن کو میں زندہ پاؤں اور جو میرے بعد پیدا ہوں۔

خالد بن سعدان سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں تم لوگوں کی طرف مبعوث ہوا ہوں، اگر مجھ کو نہ مانیں تو عرب کی طرف وہ بھی مجھے نہ مانیں تو قریش کی طرف وہ بھی نہ مانیں تو بنی ہاشم کی طرف اور اگر وہ بھی نہ مانیں تو میں صرف اپنی ہی طرف (تبلیغ کروں گا)۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: مجھے تمام لوگوں کی طرف سے رسول بنایا گیا ہے اور مجھی پر انبیاء ختم کر دیئے گئے ہیں۔

جابر سے مروی ہے کہ میں نے نبی ﷺ کو فرماتے سنا: میں ایک ہزار نبی یا اس سے زیادہ کا ختم کرنے والا ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: میں ایک ہزار نبی یا اس سے زیادہ کا ختم کرنے والا ہوں۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں آٹھ ہزار انبیاء کے بعد بھیجا گیا ہوں جن میں چار ہزار نبی بنی اسرائیل کے ہیں۔

حبیب بن ابی ثابت سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں ملت حنفیہ سہلہ کے ساتھ مبعوث ہوا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں صرف اس لئے مبعوث ہوا ہوں کہ اخلاق حسنہ کو مکمل کر دوں۔ معبد بن خالد سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے لوگو میں تو محض وہ رحمت ہوں جو بطور ہدیہ بھیجی گئی ہے میں ایک قوم کی ترقی اور دوسروں کی تنزیل کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔

ابوصالح سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے لوگو! میں تو محض وہ رحمت ہوں جو بطور ہدیہ بھیجی گئی ہے۔ مالک بن انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں صرف اس لئے مبعوث ہوا ہوں کہ اخلاق کا حسن مکمل کر دوں۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں لوگوں سے اس وقت تک جہاد کرنے کے لئے مامور ہوا ہوں کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں۔ جولا الہ الا اللہ کہے گا اس کی جان اور مال مجھ سے محفوظ ہو جائے گا۔ سوائے اس کے کہ جو اس (جان و مال کے لینے کا) حق ہوگا (تو لیا بھی جائے گا)۔ اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے (کہ وہ واقعی مسلمان ہوا یا نہیں) اس نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے اور اس قوم کا ذکر کیا ہے جس نے تکبر کیا۔ فرماتا ہے کہ:

﴿انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون﴾

”وہ لوگ جو ایسے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے۔“

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: میں لوگوں سے اس وقت تک جہاد کرنے پر مامور ہوں کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں۔ جب وہ اس کو کہیں گے تو اپنے جان و مال کو مجھ سے بچالیں گے سوائے اس کے کہ جو اس کا حق ہو اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔

یوم بعثت:

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ تمہارے نبی ﷺ دو شنبہ کو نبی بنائے گئے۔

انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ دو شنبہ کو نبی بنائے گئے۔

ابو جعفر سے مروی ہے کہ ۷ ابر رمضان یوم دو شنبہ کو حراء میں رسول اللہ ﷺ پر فرشتہ نازل ہوا۔ اس زمانے میں رسول اللہ ﷺ چالیس برس کے تھے جو فرشتہ آپ پر وحی لے کر نازل ہوا تھا وہ جبرئیل علیہ السلام تھے۔

وحی سے قبل سچے خواب:

قائدہ رضی اللہ عنہ سے آیت ﴿وایدنناہ بروح القدس﴾ (اور ہم نے روح القدس سے آپ کی مدد کی) کی تفسیر میں مروی

ہے کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جس وحی کی ابتداء ہوئی وہ سچے خواب تھے۔ آپ ﷺ کوئی خواب نہ دیکھتے تھے جو سفیدی صبح کی طرح پیش نہ آتا ہو۔ جب تک اللہ کو منظور ہوا اسی حالت پر رہے۔ خلوت و گوشہ نشین رہتے تھے۔ جس میں قبل اس کے کہ اپنے اعزہ و متعلقین کے پاس واپس آئیں متعدد راتیں تنہائی و عبادت میں گزارتے تھے۔ پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس آتے تھے۔ اسی طرح راتوں کے لئے توشہ لے لیتے تھے یہاں تک کہ یکا یک آپ ﷺ کے پاس امرحق آ گیا حالانکہ آپ ﷺ ہمارا حراء میں ہی تھے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جس وقت رسول اللہ ﷺ اسی حالت (مذکورہ) میں تھے تو اجیاء میں قیام تھا۔ آپ نے افق آسمان پر ایک فرشتے کو اس کیفیت سے دیکھا کہ وہ اپنا ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھے ہوئے پکار رہا ہے یا محمد (ﷺ)! میں جبریل (علیہ السلام) ہوں۔ یا محمد! میں جبریل ہوں۔

رسول اللہ ﷺ ڈر گئے۔ جب اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاتے تھے تو برابر ان کو دیکھتے تھے۔ آپ ﷺ بہت تیزی کے ساتھ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے۔ انہیں اس واقعے سے آگاہ کیا اور فرمایا: اے خدیجہ! واللہ مجھے ان بتوں اور کانونوں کا سا بغض کبھی کسی چیز سے نہیں ہوا۔ میں اندیشہ کرتا ہوں کہ کہیں کا بن نہ ہو جاؤں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا ہرگز نہیں۔ اے میرے چچا کے فرزند یہ نہ کہیے۔ اللہ آپ کے ساتھ ایسا کبھی نہ کرے گا۔ آپ صلہ رحم کرتے ہیں۔ بات سچ کہتے ہیں اور امانت دار ہیں۔ آپ کے اخلاق کریم ہیں۔ پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور یہ گویا سب سے پہلی مرتبہ ان کے پاس گئیں۔ انہیں اس واقعے سے خبردار کیا جو رسول اللہ ﷺ نے بتایا تھا۔

ورقہ نے کہا: بخدا تمہارے چچا کے فرزند بیشک سچے ہیں۔ یہ نبوت کی ابتداء ہے بیشک ان کے پاس ناموس اکبر (جبریل علیہ السلام) آئیں گے۔ تم ان سے کہو کہ وہ اپنے دل میں سوائے نیکی کے اور کوئی بات نہ لائیں۔

عروہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے خدیجہ رضی اللہ عنہا! میں ایک نور دیکھتا ہوں اور ایک آواز سنتا ہوں! اندیشہ ہے کہ میں کا بن نہ ہو جاؤں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا اے فرزند عبد اللہ! اللہ آپ کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں کرے گا آپ سچ بات کہتے ہیں امانت ادا کرتے ہیں اور صلہ رحمی کرتے ہیں۔

عالمبا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: اے خدیجہ رضی اللہ عنہا! میں ایک آواز سنتا ہوں اور ایک نور دیکھتا ہوں۔ ڈرتا ہوں کہ مجھے جنون نہ ہو جائے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا: اے فرزند عبد اللہ! اللہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا کرے۔ وہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور ان سے یہ واقعہ بیان کیا تو انہوں نے کہا: اگر وہ سچے ہیں تو یہ ناموس موسیٰ علیہ السلام کی طرح ناموش (فرشتہ) ہے جس کی آواز روشنی ہے۔ وہ میری زندگی میں مبعوث ہو گئے تو میں ان کی حمایت کروں گا مدد کروں گا۔ اور ان پر ایمان لاؤں گا۔

پہلی وحی کا نزول:

محمد بن عبادہ بن جعفر سے مروی ہے کہ بعض علماء کو کہتے سنا کہ سب سے پہلے جو وحی نبی ﷺ پر نازل ہوئی وہ یہ تھی:

﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق ○ خلق الانسان من علق ○ اقرأ و ربك الاكرم ○ الذي علم بالقلم ○ علم الانسان ما لم يعلم ○﴾

جو وحی حراء کے مقام پر نبی ﷺ پر نازل ہوئی یہ اس کا ابتدائی حصہ ہے۔ اس کے بعد مشیت الہی کے مطابق اس کا آخری حصہ بھی نازل ہوا۔

عبید بن عمیر سے روایت ہے کہ سب سے پہلے جو سورت نبی ﷺ پر نازل کی گئی وہ ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق﴾ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب حراء میں رسول اللہ ﷺ پر وحی نازل ہوئی تو کچھ دن تک یہ کیفیت رہی کہ جبریل علیہ السلام نظر نہ آئے۔ آپ کو شدید غم ہوا۔ کبھی کوہِ شیبہ جاتے تھے کبھی حراء اور یہ ارادہ کرتے تھے کہ اپنے آپ کو اس پر سے گرا دیں۔ رسول اللہ ﷺ انہیں پہاڑوں میں سے کسی کا ارادہ فرما رہے تھے کہ آسمان سے ایک آواز سنی رسول اللہ ﷺ آواز کی گرج سے رُک گئے۔ سر اٹھایا تو آسمان وزمین کے درمیان جبریل علیہ السلام ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے نظر آئے جو کہہ رہے تھے کہ اے محمد (ﷺ) آپ واقعی رسول ہیں اور میں جبریل ہوں۔ رسول اللہ ﷺ اس طرح واپس ہوئے کہ اللہ نے آپ کی آنکھیں کھلادی کر دی تھیں اور دل مضبوط کر دیا تھا۔ اس کے بعد وحی کا تانا باندھ گیا۔

ابوبکر بن عبد اللہ بن ابی مریم سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھ سے کہا گیا کہ اے محمد ﷺ! آپ کی آنکھ کو سونا چاہئے۔ کان کو سننا چاہئے اور قلب کو یاد الہی کرنا چاہئے۔ چنانچہ میری آنکھ سوتی ہے، قلب یاد کرتا ہے اور کان سنتا ہے۔

کیفیت وحی:

عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ ﷺ کو تکلیف ہوتی تھی۔ چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ پر وحی نازل کی جاتی تھی تو آپ ﷺ اس کی وجہ سے مدہوشی کی طرح پڑمردہ ہو جاتے تھے۔

ابو راوی الدوسی سے مروی ہے کہ میں نے نبی ﷺ پر اس وقت وحی نازل ہوتے دیکھا جب آپ اپنی سواری پر تھے۔ وہ چلاتی تھی اور اپنے ہاتھ پیر سکیڑتی تھی۔ مجھے گمان ہوا کہ اس کی بائیں ٹوٹ جائیں گی۔ اکثر وہ ہڑکتی تھی اپنے ہاتھ گڑو کے کھڑی ہو جاتی تھی یہاں تک کہ آنحضرت ﷺ کو ثقل وحی سے افاقہ ہو جاتا اور آپ اس سے مثل موتی کی لڑی کے اتر جاتے تھے۔

عبد العزیز بن عبد اللہ بن ابی سلمہ نے اپنے چچا سے روایت کی کہ انہیں یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے میرے پاس وحی دو طریقے سے آیا کرتی ہے۔

(۱) اسے جبریل علیہ السلام لاتے ہیں اور مجھے تعلیم کرتے ہیں۔ جس طرح ایک آدمی دوسرے آدمی کو تعلیم کرتا ہے۔ یہ طریقہ

جس میں مجھ سے چین چھوٹ جاتا ہے۔

(۲) میرے پاس جس کی آواز کی طرح آتی ہے۔ یہاں تک کہ میرے قلب میں رچ جاتی ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جس سے چین نہیں چھوٹتا۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حارث بن ہشام نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کبھی تو وہ میرے پاس جس کی جھکار کی سی آواز میں آتی ہے اور وہ مجھ پر سب وحی سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ پھر وہ مجھ سے منقطع ہو جاتی ہے اور مجھے یاد ہو جاتا ہے۔ کبھی فرشتہ میرے لئے شکل بدل لیتا ہے مجھ سے کلام کرتا ہے وہ جو کچھ کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔

عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے شدید سردی کے زمانے میں آپ ﷺ پر وحی نازل ہوتے دیکھا ہے۔ اختتام پر آپ ﷺ کی پیشانی سے پسینہ ٹپکتا ہوتا تھا۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب نبی ﷺ پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ اس کی شدت محسوس کرتے تھے۔ اسے یاد کرتے تھے اور اپنے لب ہلاتے تھے تاکہ بھول نہ جائیں۔

پھر اللہ نے آپ ﷺ پر یہ آیت نازل کی ﴿لَا تَحْرُكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ (آپ زبان کو حرکت نہ دیجئے کہ اس کے ساتھ عجلت کریں)۔ اس کے ساتھ عجلت کریں کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سیکھے میں عجلت کریں۔ ﴿ان علینا جمعه و قرآنہ﴾ (بے شک اس کا جمع کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے) یعنی آپ اسے بھول نہیں سکتے۔ یعنی یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اسے آپ کے سینے میں جمع کر دیں۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ قرآنہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے پڑھیں گے۔ ﴿فاتبع قرآنہ﴾ (لہذا آپ ان کے پڑھنے کی پیروی کیجئے) یعنی آپ خاموش رہیے (اور جبریل علیہ السلام کا پڑھنا سنیے)۔ ﴿ان علینا بیانہ﴾ یعنی ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اسے آپ کی زبان سے بیان کر دیں گے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ مطمئن ہو گئے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت: ﴿لَا تَحْرُكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ کی تفسیر میں مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نزول وحی سے شدت محسوس کرتے تھے جس کی وجہ سے آپ اپنے لبوں کو حرکت دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ ﴿لَا تَحْرُكْ بِهِ لِسَانَكَ... الْآیۃ﴾ آپ اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے آپ کے سینے میں اس کا جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے (جب جمع ہو جائے گا تو) پھر آپ اسے پڑھیں گے۔ ﴿فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ﴾ یعنی اسے سنیے اور خاموش رہیے۔ ﴿ثم ان علینا بیانہ﴾ یہ ہمارے ذمہ ہے کہ آپ اسے پڑھیں گے۔ اس کے بعد جب رسول اللہ ﷺ کے پاس جبریل علیہ السلام آتے تھے تو آپ ﷺ ان کا کلام سنتے تھے۔ جب جبریل علیہ السلام چلے جاتے تھے تو آپ اسے اسی طرح پڑھتے تھے جس طرح آپ کو پڑھایا جاتا تھا۔

آغاز تبلیغ:

عبدالرحمن بن القاسم نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ کو حکم دیا گیا۔ آپ کے پاس جو وحی اللہ کی جانب سے آتی ہے اس کی اچھی طرح تبلیغ کریں لوگوں کو احکام الہی سے ندادیں اور انہیں اللہ کی طرف بلائیں۔ آپ ابتداءً نبوت سے تین سال تک خفیہ طور پر دعوت دیتے تھے یہاں تک کہ آپ کو کھلم کھلا دعوت دینے کا حکم ہو گیا۔

محمد سے آیت ﴿وَمِنْ أَحْسَنِ قَوْلِهِمْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (اس شخص سے زیادہ اچھے کلام والا کون ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے عمل صالح کرے اور کہے کہ میں بھی مسلمان ہوں) کی تفسیر میں مروی ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ ہیں۔

زہری سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خفیہ و اعلانیہ اسلام کی طرف دعوت دی، نوجوان اور کمزوروں میں سے جس کو خدا نے چاہا اللہ کو مانا، یہاں تک کہ آپ پر ایمان لانے والوں کی کثرت ہو گئی آپ جو کچھ فرماتے تھے کفار قریش بھی اس کے منکر نہ تھے کہ خاندان عبدالمطلب کا یہ لڑکا آسمان کی باتیں کرتا ہے۔ یہی طریقہ رہا یہاں تک کہ اللہ نے ان کے معبودوں کی جھوکی جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کیا کرتے تھے۔ ان کے ان بزرگوں کی ہلاکت کا ذکر کیا جو کفر پر مر گئے تھے۔ وہ لوگ رسول اللہ ﷺ سے چوکنا ہو گئے اور آپ کے دشمن ہو گئے۔

کوہ صفا پر پہلا خطبہ:

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب آیت ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (اور اپنے سب سے زیادہ قریب کے رشتہ داروں کو ڈرائیے) نازل کی گئی تو رسول اللہ ﷺ کوہ صفا پر چڑھ گئے اور فرمایا اے گروہ قریش۔

قریش نے کہا محمد (ﷺ) کوہ صفا پر چڑھ کر پکارتے ہیں۔ سب لوگ آئے جمع ہو گئے اور کہا کہ اے محمد (ﷺ)! آپ کو کیا ہوا ہے؟

فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ ایک لشکر اس پہاڑ کی جڑ میں ہے تو کیا تم لوگ میری تصدیق کرو گے۔ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ آپ ہمارے نزدیک غیر متہم ہیں (آپ پر کبھی کوئی تہمت کذب کی بھی نہیں لگائی گئی)۔ اور ہم نے کبھی آپ کے کذب کا تجربہ نہیں کیا۔

آپ نے کہا: میں ایک عذاب شدید سے تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ اے بنی عبدالمطلب اے بنی عبدمناف اے بنی زہرہ (یہاں تک کہ آپ ﷺ نے قبیلہ قریش کی تمام شاخوں کو گن ڈالا) اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے سب سے زیادہ قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤں اور میں نہ تو دنیا کی تمہاری کسی منفعت پر قادر ہوں اور نہ آخرت کے کسی حصہ پر سوائے اس کے تم لا الہ الا اللہ کہو۔

ابولہب کہنے لگا: تبا لك سائر اليوم هذا جمعتنا (دن بھر آپ کی بربادی ہو، کیا اسی لئے آپ نے ہمیں جمع کیا تھا)۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورت ﴿تَبَّتْ يُدَا أَيْبَىٰ لَهْب﴾ نازل فرمائی۔ (ابولہب ہی کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے)۔

یعقوب بن عتبہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب نے مکہ میں اسلام کو ظاہر کیا، آپ کا کام پھیل گیا، بعض نے بعض کو دعوت دی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ ایک کنارے خفیہ طور پر دعوت دیتے تھے، سعید بن زید بھی اسی طرح کرتے تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ علانیہ دعوت دیتے تھے۔ حمزہ بن عبدالمطلب و ابو عبیدہ بن الجراح بھی۔ قریش اس سے سخت غصہ ہوئے۔ رسول اللہ ﷺ کے لئے حسد و بغاوت کا ظہور ہوا۔ بعض لوگ آپ کی بدگوئی کرتے تھے، وہ کھلم کھلا آپ سے عداوت کرتے تھے۔ دوسرے لوگ پوشیدہ رہتے تھے حالانکہ وہ بھی اسی (عداوت و حسد کی) رائے پر تھے مگر وہ لوگ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ عداوت کرنے اور اس کا بیڑا اٹھانے سے اپنی براءت کرتے تھے۔ دشمن اسلام:

رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب سے عداوت و دشمنی رکھنے والے جھگڑے اور فساد کے خواہاں یہ لوگ تھے:

✽ ابو جہل بن ہشام

✽ ابولہب بن عبدالمطلب

✽ اسود بن عبد یغوث

✽ حارث بن قیس جس کی ماں کا نام غیطلہ تھا۔

✽ ولید بن المغیرہ

✽ امیہ

✽ ابی فرزدان خلف

✽ ابوقیس بن الفا کہ بن المغیرہ

✽ نصر بن الحارث

✽ منبہ بن الحجاج

✽ عاص بن وائل

✽ زہیر بن ابی امیہ

✽ سائب بن صفی بن عابد

✽ اسود بن عبدالاسد

✽ عاص بن سعید بن العاص

✽ عاص بن ہاشم

✽ عقبہ بن ابی معیط

✽ ابن الاصدی الہذلی جس کو اروی (بنت عبدالمطلب) نے نکال دیا تھا۔

✿ حکم بن ابی العاص

✿ عدی بن الحمراء

یہ اس لیے کہ یہ سب قریش کے ہمسایہ تھے۔

رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جن کی عداوت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی وہ ابو جہل و ابولہب و عتبہ بن ابی معیط تھے۔ عتبہ و شبہ فرزدان ربیعہ و ابوسفیان بن حرب بھی اہل عداوت تھے مگر یہ لوگ رسول اللہ ﷺ کی بدگوئی نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ عداوت میں مثل قریش تھے۔

سوائے ابوسفیان اور حکم کے ان میں سے کوئی اسلام نہیں لایا۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں دو پڑوسیوں کے شر کے درمیان تھا۔ ابولہب و عتبہ بن ابی معیط۔ دونوں پاخانہ لاتے تھے اور میرے دروازے پر ڈالتے تھے۔ بعض مرتبہ ایسی ناپاک چیزیں ہوتی تھیں جو لوگ پھینک دیتے تھے۔ میرے دروازے پر ڈال جاتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ ہا ہر تشریف لاتے اور فرماتے: اے نبی عبد مناف یہ کون سا حق ہمسائیگی ہے۔ پھر اسے راستے میں ڈال دیتے تھے۔

ابوطالب کے ساتھ قریشی وفد کی ملاقات:

عبداللہ بن ثعلبہ بن صعیر العذری وغیرہ سے مروی ہے کہ جب قریش نے اسلام کا نظہور اور مسلمانوں کا کعبہ کے گرد بیٹھنا دیکھا تو وہ حیران ہو گئے۔ ابوطالب کے پاس آئے اور کہا: آپ ہمارے بزرگ اور ہم لوگوں میں افضل ہیں۔ ان بے وقوفوں نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ ہو کر جو کچھ کیا ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہے۔ (مثلاً) ہمارے معبودوں کو ترک کر دینا اور ان کا ہم پر طعنہ زنی کرنا اور ہمارے نوجوانوں کو احمق کہنا (وغیرہ)۔

یہ (قریش کے) لوگ عمارہ بن الولید بن المغیرہ کو بھی اپنے ہمراہ لائے تھے۔ ان لوگوں نے کہا: ہم آپ کے پاس ایسے شخص کو لائے ہیں جو نسب و جمال و بہادری اور شعر گوئی میں جو ان قریش ہے اسے آپ کے حوالے کرتے ہیں تاکہ اس کی مدد و میراث آپ کے لئے ہو۔ آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم اسے قتل کر دیں۔ یہ طریقہ خاندان کو ملانے والا اور انجام کار کے اعتبار سے بہترین ہوگا۔

ابوطالب نے کہا: واللہ تم لوگوں نے میرے ساتھ انصاف کیا نہیں۔ تم مجھے اپنا بیٹا دیتے ہو تاکہ میں تمہارے لئے اسے پرورش کروں اور تمہیں اپنا بھتیجا دے دوں۔ تاکہ تم اسے قتل کرو۔ یہ تو انصاف نہ ہوا۔ تم لوگ مجھ سے غریب و ذلیل کا سا سودا کرتے ہو۔

ان لوگوں نے کہا: آنحضرت ﷺ کو بلا بھیجئے تاکہ ہم فیصلہ و انصاف انہیں کے سپرد کر دیں۔ ابوطالب نے آپ ﷺ کو بلا بھیجا۔ رسول اللہ ﷺ تشریف لائے۔ ابوطالب نے کہا: اے میرے بھتیجے! یہ لوگ آپ کے چچا اور آپ کی قوم کے شرفاء ہیں اور آپ سے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم لوگ کہو میں سنوں گا۔ ان لوگوں نے کہا: آپ ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیجئے اور ہم لوگ آپ کو اور آپ کے معبود کو چھوڑ دیں گے۔ ابوطالب نے کہا: قوم نے آپ کے ساتھ انصاف کیا لہذا آپ ان کے فیصلے کو قبول کیجئے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا تم لوگوں کی رائے ہے کہ میں تمہیں یہ قول دے دوں تو تم بھی ایک ایسے کلمے کا قول دو گے کہ اس کی وجہ سے تم سارے عرب کے مالک بن جاؤ گے اور عجم بھی تمہارے لئے اسی کو دین بنائے گا۔

ابوجہل نے کہا: یہ کلمہ تو بہت ہی نفع مند ہے آپ کے والد کی قسم ہم اسے اور اس کے سے دس کلموں کو ضرور ضرور کہیں گے۔ آپ نے فرمایا: لا الہ الا اللہ کہو۔

وہ لوگ سخت ناخوش ہوئے اور کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے کہ اپنے معبودوں پر سختی سے جیسے رہو یہی چیز مقصود و مراد ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کہنے والا (بجائے ابوجہل کے) عقبہ بن ابی معیط تھا۔

ان لوگوں نے کہا کہ ہم ان کے پاس دوبارہ کبھی نہ جائیں گے اس سے بہتر کوئی بات نہیں کہ محمد (ﷺ) کو دھوکے سے قتل کر دیا جائے۔

جب یہ شب گزری اور دوسرے دن کی شام ہوئی تو رسول اللہ ﷺ گم ہو گئے۔ ابوطالب آپ ﷺ کے چچا قیام گاہ پر آئے مگر آپ کو نہ پایا (اندیشہ ہوا کہ خدا خواستہ قریش نے آپ کو قتل تو نہیں کر دیا)۔

ابوطالب نے بنی ہاشم و بنی مطلب کے نوجوانوں کو جمع کیا اور کہا تم میں سے ہر شخص کو ایک ایک تیز تلوار لے کر میری پیروی کرنا چاہئے۔ جب میں مسجد حرام میں داخل ہوں تو تم میں ہر نوجوان کو چاہئے کہ وہ کسی بڑے سردار کے پاس بیٹھے جن میں ابوجہل بھی ہو کیونکہ اگر محمد (ﷺ) قتل کر دیئے گئے ہیں تو (وہ ابوجہل) شر سے جدا نہیں ہے (یعنی وہ بھی اس میں ضرور شریک ہوگا)۔

نوجوانوں نے کہا ہم کریں گے۔

زید بن حارثہ آئے تو انہوں نے ابوطالب کو اسی حال پر پایا۔ ابوطالب نے کہا اے زید تم نے میرے بھتیجے کا پتہ بھی پایا۔ انہوں نے کہا جی ہاں میں تو ابھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ ابوطالب نے کہا تا وقتیکہ میں انہیں دیکھ نہ لوں اپنے گھر نہ جاؤں گا۔

زید تیزی کے ساتھ روانہ ہوئے یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے۔ آپ ﷺ کو وہ صفا پر ایک مکان میں تھے اور ساتھ اصحاب بھی تھے جو باہم باتیں کر رہے تھے۔ زید نے آپ ﷺ کو یہ واقعہ بتایا۔ رسول اللہ ﷺ ابوطالب کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا: اے میرے بھتیجے! کہاں تھے؟ اچھی طرح تو تھے؟ فرمایا: جی ہاں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے گھر جائیے۔

رسول اللہ ﷺ اندر تشریف لے گئے۔ صبح ہوئی تو ابوطالب نبی ﷺ کے پاس گئے اور آپ ﷺ کا ہاتھ پکڑ کر مجالس قریش پر کھڑا کر دیا۔ ابوطالب کے ساتھ ہاشمی و مطلبی نوجوان بھی تھے۔

ابوطالب نے کہا: اے گروہ قریش! تمہیں معلوم ہے کہ میں نے کس بات کا قصد کیا تھا۔ ان لوگوں نے کہا نہیں۔ ابوطالب نے انہیں واقعہ بتایا اور نوجوان سے کہا کہ جو کچھ تمہارے ہاتھوں میں ہے اسے کھول دو۔ ان لوگوں نے کھولا تو ہر شخص کے

پاس تلوار تھی۔

ابوطالب نے کہا: واللہ اگر تم لوگ آنحضرت ﷺ کو قتل کر دیتے تو میں تم میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑتا۔ یہاں تک کہ ہم تم دونوں آپس میں فنا ہو جاتے۔ ساری قوم بھاگی اور ان میں سے تیز بھاگنے والا ابو جہل تھا۔

ہجرت حبشہ اولیٰ:

زہری سے مروی ہے کہ جب مسلمانوں کی کثرت ہو گئی، ایمان ظاہر ہو گیا اور اس کا چرچا ہونے لگا تو کفار قریش کے بہت سے لوگوں نے اپنے قبیلے کے مومنین پر حملہ کر دیا۔ ان پر عذاب کیا۔ قید کر دیا اور انہیں دین سے برگشتہ کرنا چاہا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم روئے زمین پر منتشر ہو جاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ ﷺ کہاں جائیں؟ فرمایا: یہاں۔ آپ ﷺ نے حبشہ (افریقہ) کی طرف اشارہ فرمایا۔ وہ آپ ﷺ کا سب سے زیادہ پسندیدہ ملک تھا جس کی جانب ہجرت کی جاتی۔ مسلمانوں کی کافی تعداد نے ہجرت کی۔ ان میں بعض وہ تھے جو اپنے ہمراہ اپنے متعلقین کو بھی لے گئے۔ اور بعض وہ تھے جو خود ہی گئے یہاں تک کہ ملک حبشہ میں در آئے۔

حارث بن الفضیل سے مروی ہے کہ مسلمان خفیہ طور پر روانہ ہوئے۔ وہ گیارہ مرد اور چار عورتیں تھیں۔ یہ لوگ شعبیہ پہنچے ان میں سوار بھی تھے پیادہ بھی تھے۔ جس وقت مسلمان (ساحل تک) آئے تو اللہ نے تجارت کی دو کشتیوں کو ساتھ ساتھ پہنچا دیا۔ انہوں نے ان مہاجرین کو نصف دینار کے عوض میں حبشہ تک کے لئے سوار کر لیا۔

ان لوگوں کی روانگی رسول اللہ ﷺ کی نبوت کے پانچویں سال ماہ رجب میں ہوئی تھی۔ قریش بھی ان لوگوں کے پیچھے پیچھے چلے۔ جب سمندر کے اس مقام پر آئے جہاں سے مہاجرین سوار ہوئے تھے تو ان میں سے کسی کو بھی نہ پایا۔ مہاجرین نے کہا: ہم لوگ ملک حبشہ میں آ گئے۔ وہاں ہم بہترین ہمسائے کے پڑوس میں رہے۔ ہمیں اپنے دین پر امان مل گیا۔ ہم نے اس طرح اللہ کی عبادت کی کہ نہ ہمیں ایذا دی گئی اور نہ ہم نے کوئی ایسی بات سنی جو ناگوار ہو۔

شرکائے ہجرت حبشہ اولیٰ:

محمد بن یحییٰ بن حبان سے مروی ہے کہ اس جماعت مہاجرین کے مردوں اور عورتوں کے نام یہ ہیں:

- ① عثمان بن عفان جن کے ہمراہ ان کی بیوی
- ② رقیہ بنت رسول اللہ ﷺ بھی تھیں۔
- ③ ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ جن کے ہمراہ ان کی بیوی
- ④ سہلہ بنت سہیل بن عمرو بھی تھیں۔
- ⑤ زبیر بن العوام بن بن خویلد بن اسد۔
- ⑥ مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار۔
- ⑦ عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث بن زہرہ۔

- ۸) ابوسلمہ بن عبدالاسد بن ہلال بن عبداللہ بن مخزوم جن کے ہمراہ ان کی بیوی
 - ۹) اُم سلمہ بنت ابی امیہ بن المغیرہ بھی تھیں۔
 - ۱۰) عثمان بن مظعون انھی۔
 - ۱۱) عامر بن ربیعہ العزری جو بنی عدی بن کعب کے حلیف تھے اور ان کے ہمراہ ان کی بیوی
 - ۱۲) لیلیٰ بنت ابی حمزہ بھی تھیں۔
 - ۱۳) ابوسبرہ بن ابی رحم بن عبدالعزری العامری۔
 - ۱۴) وحاطب بن عمرو بن عبد شمس۔
 - ۱۵) وسہیل بن بیضاء جو بنی الحارث بن فہر میں سے تھے۔
 - ۱۶) عبداللہ بن مسعود جو حلیف بنی زہرہ تھے۔
- حبشہ سے اصحاب کی واپسی کی وجہ:

المطلب بن عبداللہ بن خطب سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب قوم کا بازار ہٹا دیکھا تو آپ تنہا بیٹھے اور تمنا ظاہر فرمائی کہ کاش مجھ پر کوئی ایسی وحی نازل نہ ہوتی جو کفار کو مجھ سے بیزار کرتی۔ رسول اللہ ﷺ اپنی قوم میں مقرب اور ان کے نزدیک ہو گئے وہ لوگ آپ کے نزدیک ہو گئے۔

ایک روز کعبہ کے گرد انہیں مجالس میں سے کسی میں بیٹھے اور آپ نے ان لوگوں کو یہ پڑھ کر سنایا: ﴿وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ﴾ ہے۔ ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ الْعِزَّىٰ وَ مَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْآخِرَىٰ﴾ تک۔ شیطان نے آپ کی زبان پر یہ دو کلمات بھی ڈال دیئے: ﴿تِلْكَ الْغَرَابِيقُ الْعُلَىٰ وَ اِنْ شَفَاعَتُهُمْ لَعَرَّتْجَبَىٰ﴾ یہ تصاویر (بت) بلند مرتبہ ہیں اور بیشک ان کی شفاعت کی توقع کی جاتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے یہ کلمات ادا فرمائے۔ آپ آگے بڑھے پوری سورۃ پڑھی اور سجدہ کیا۔ ساری قوم مشرکین نے بھی سجدہ کیا۔ ولید بن مغیرہ نے مٹی اپنی پیشانی تک اٹھائی اور اس پر سجدہ کیا۔ وہ بہت بوڑھا تھا سجدہ کرنے پر قادر نہ تھا۔

کہا جاتا ہے کہ جس نے مٹی لی اور سجدہ کیا اور پیشانی تک اٹھایا۔ وہ ابواجمہ بن سعید بن العاص تھا وہ بہت بوڑھا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ مٹی جس نے اٹھائی وہ ولید تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابواجمہ تھا دوسرے کہتے ہیں کہ ان دونوں نے یہی کیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے جو کلمہ ارشاد فرمایا اس سے سب لوگ خوش ہو گئے اور کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ وہی پیدا کرتا ہے اور رزق دیتا ہے۔ لیکن ہمارے یہ معبود اس کے یہاں ہماری سفارش کرتے ہیں جب آپ نے بھی ان (معبودوں) کا ایک حصہ مقرر کر دیا ہے (کہ انہیں غافل نہ مانا صرف شفیع مانا) تو ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔

رسول اللہ ﷺ کو ان لوگوں کا یہ کہنا بہت ہی گراں معلوم ہوا۔ کیونکہ دراصل آپ نے یہ کلمات ہی نہ فرمائے تھے۔ یہ محض راوی کا سہو ہے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ شیطان نے آپ کی آواز ملا کر یہ کلمات کہہ دیئے ہوں۔ اسی سورت کے شروع میں ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ موجود ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے وحی کے ساتھ غیر وحی نکل ہی نہیں سکتی پھر

یہ کیونکر ممکن ہے کہ شیطان کی زبان کو آپ کی زبان پر قابو مل جائے۔ خدا نخواستہ ایسا ہوتا پھر آپ کی تمام وحی میں شیطانی کلمات کی آمیزش کا شبہ ہو سکتا ہے۔ حاشا وکلا۔

آپ بیت اللہ میں بیٹھ گئے۔ شام ہوئی تو جبریل علیہ السلام آئے۔ آپ نے ان سے اس سورت کا دور کیا۔ جبریل نے کہا کہ کیا میں آپ کے پاس یہ دونوں کلمات بھی لایا تھا۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں نے اللہ پر وہ بات کہہ دی جو اس نے نہیں کہی تھی (یہ بھی محض وہم راوی ہے)۔ قرآن میں صاف صاف مذکور ہے کہ آنحضرت ﷺ اللہ کی طرف سے کوئی بات بغیر اس کے کہے نہیں کہہ سکتے ﴿ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين﴾۔

پھر اللہ نے آپ کو یہ وحی بھیجی (جس میں یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ آنحضرت ﷺ تو اپنی طرف سے ہرگز وحی بنا ہی نہیں سکتے۔ کوئی اور شخص بھی اس کا وہم و دوسرہ نہ کرے)۔ ﴿وان كانوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفترى علينا غيره و اذا لاتخذوك خليلا لى قوله ثم لا تجدك علينا نصيرا﴾ (اگرچہ قریب ہے کہ یہ لوگ جو وحی ہم نے آپ کو بھیجی ہے اس سے آپ کو باز رکھیں تاکہ آپ اسی وحی کے خلاف ہم پر بہتان باندھیں اور اس وقت یہ لوگ آپ کو دوست بنالیں، وغیرہ وغیرہ۔ پھر آپ (ایسا واقعہ ہونے پر) ہمارے خلاف اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے)۔

یہ آیت خود بتاتی ہے کہ ایسا واقعہ ہوا نہیں بلکہ مشرکین کی خواہش تھی کہ ایسا ہو جائے مگر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ آیت نازل کر کے ان کی اُمید باطل پر پانی پھیر دیا۔

ابوبکر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام سے مروی ہے کہ اس سجدہ کی خبر لوگوں میں اتنی شائع ہوئی کہ ملک حبشہ تک پہنچ گئی۔

رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کو معلوم ہوا کہ اہل مکہ نے سجدہ کیا اور اسلام لائے۔ ولید بن مغیرہ اور ابواجمہ نے بھی نبی ﷺ کے پیچھے سجدہ کیا۔ اس جماعت مہاجرین نے کہا کہ جب یہی لوگ اسلام لے آئے تو اب مکے میں اور کون رہ گیا۔ ہمیں اپنے قبائل، اہل حبشہ سے زیادہ محبوب ہیں۔

یہ لوگ واپسی کے ارادے سے روانہ ہوئے جب مکے کے اسی طرف دن کے ایک گھنٹے راہ پر تھے تو ان کی ملاقات بنی کنانہ کے چند شترسواروں سے ہوئی۔ قریش اور ان کا حال دریافت کیا تو شترسواروں نے کہا محمد (ﷺ) نے ان کے معبودوں کا خیر کے ساتھ ذکر کیا یہ گروہ ان کا پیروکار ہو گیا۔ پھر آنحضرت ﷺ ان (معبودوں) سے برگشتہ ہو گئے تو وہ لوگ بھی ان کے ساتھ شکر کرنے لگے۔ ہم نے ان لوگوں کو اسی حالت میں چھوڑا ہے۔ اس جماعت نے ملک حبشہ کی واپسی کے بارے میں باہم مشورہ کیا۔ قرار پایا کہ اب تو پہنچ گئے۔ دیکھیں تو قریش کس حال میں ہیں جو شخص اپنے اعزہ سے تجدید ملاقات کرنا چاہے تو کر لے پھر واپس آئے۔

ابوبکر بن عبد الرحمن سے مروی ہے کہ سوائے ابن مسعود کے جو تھوڑی دیر (بیرون مکہ ٹھہر کر) ملک حبشہ واپس ہو گئے۔ اور

سب لوگ مکے میں داخل ہوئے اور جو شخص داخل ہوا اپنے پڑوسی کے ساتھ داخل ہوا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ یہ لوگ رجب ۵۰ نبوی میں مکے سے نکلے تھے۔ شعبان و رمضان میں (ملک حبشہ میں) مقیم رہے اور جدے کا واقعہ رمضان میں ہوا تھا اور یہ لوگ شوال ۵۰ نبوی میں آئے تھے۔

ہجرت حبشہ ثانی:

عبدالرحمن بن سابط وغیرہ سے مروی ہے کہ جب اصحاب نبی ﷺ پہلی ہجرت سے مکے میں گئے تو ان کی قوم نے سختی کی اور ان کے خاندان نے ان پر حملہ کیا ان کو سخت اذیت کا سامنا ہوا۔

رسول اللہ ﷺ نے دوبارہ ملک حبشہ کی روانگی کی اجازت مرحمت فرمائی اس بار روانگی پہلے سے بہت زیادہ دشوار تھی۔ قریش کی طرف سے انتہائی سختی سے دو چار ہونا پڑا اور (سخت اذیت پہنچی) قریش کو جب نجاشی کا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا معلوم ہوا تو سخت ناگوار گزر را۔

عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! نجاشی کے پاس ہماری پہلی ہجرت اور یہ دوسری اس طرح ہوئی کہ آپ ہمارے ہمراہ نہیں تھے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم لوگ اللہ کی طرف اور میری طرف ہجرت کرنے والے ہو تمہیں ان دونوں ہجرتوں کا ثواب ہوگا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! بس اتنا ہی کافی ہے۔

ہجرت کرنے والے مردوں کی تعداد تراسی تھی اور عورتیں گیارہ، قریشی سات بیرونی تھیں ان مہاجرین نے ملک حبشہ میں نجاشی کے یہاں اچھے برتاؤ میں قیام کیا۔

جب ان لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کی ہجرت فرمانے کی خبر سنی تو تینتیس مرد اور آٹھ عورتیں واپس آ گئیں، دو مرد تو مکے ہی میں وفات پا گئے اور ساتھ آدمی قید کر لیے گئے اور چوبیس بدر میں حاضر ہوئے۔

۵۰ نبوی میں ربیع الاول کا مہینہ آیا تو رسول اللہ ﷺ نے نجاشی کو ایک فرمان تحریر فرمایا جس میں اسلام کی دعوت دی۔ عمرو بن أمیہ الضمیری کے ہمراہ روانہ کیا۔

فرمان سن کر نجاشی اسلام لایا اور کہا: اگر میں حاضر خدمت ہونے پر قادر ہوتا تو ضرور حاضر ہوتا۔

رسول اللہ ﷺ نے تحریر فرمایا کہ وہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان بن حرب کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیں جو اپنے شوہر عبید اللہ بن جحش کے ہمراہ ان لوگوں میں تھیں جنہوں نے ملک حبشہ میں ہجرت کی تھی۔ عبید اللہ وہاں نصرانی ہو گیا اور مر گیا۔

نجاشی نے ان کا نکاح آنحضرت ﷺ کے ساتھ کر دیا اور آپ کی طرف سے چار سو دینار مہر کے دیئے جو شخص ام حبیبہ کے ولی نکاح ہوئے وہ خالد بن سعید العاص تھے۔

رسول اللہ ﷺ نے نجاشی کو تحریر فرمایا کہ آپ کے اصحاب میں سے جو لوگ ان کے پاس باقی ہیں انہیں آپ کے پاس بھیجیں اور سوار کرا دیں۔

بہ تعمیل ارشاد نبویؐ نجاشی نے مہاجرین کو عمرو بن امیہ الضمری کے ساتھ دو کشتیوں میں سوار کر دیا۔ یہ لوگ ساحل بولا پر جس کا نام الجار بھی ہے ننگر انداز ہوئے۔ سواریاں کرائے پر لیں، مدینہ مبارکہ آئے۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ خیبر میں تشریف فرما ہیں، آپ کے پاس روانہ ہو گئے۔ بارگاہ رسالت میں پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں سے گفتگو فرمائی کہ ان لوگوں کو بھی اپنے (مال غنیمت کے) حصوں میں شریک کر لیں، اس حکم کی سب نے تعمیل کی۔

رسول اللہ ﷺ اپنے خاندان کے ہمراہ شعب ابی طالب میں:

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب قریش کو جعفر اور ان کے ہمراہیوں کے ساتھ نجاشی کا اکرام والطف معلوم ہوا تو بہت گراں گزرا۔ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب پر سخت غصہ ہوئے۔ آپ کے قتل پر اتفاق کیا اور بنی ہاشم کے خلاف ایک عہد نامہ لکھا کہ نہ تو ان سے شادی بیاہ خرید و فروخت کریں گے نہ میل جول رکھیں گے۔

جس نے یہ عہد نامہ لکھا وہ منصور بن عکرمہ العبدری تھا کہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ انہوں نے اس عہد نامے کو کعبہ کے بیچ میں لٹکا دیا۔

بعض اہل علم کی رائے میں وہ عہد نامہ ام الجلاس بنت مخرمۃ الحظلیہ کے پاس رہا جو کہ ابو جہل کی خالہ تھی۔

محرم کے نبوی کی چاند رات کو شعب ابی طالب میں بنی ہاشم کا محاصرہ کر لیا گیا۔ بنی المطلب بن عبد مناف بھی شعب ابی طالب میں بھاگ آئے۔ ابولہب نکل کر قریش سے جا ملا، اس نے بنی ہاشم و بنی المطلب کے خلاف قریش کو قوت پہنچائی۔

قریش نے ان لوگوں کا غلہ اور ضروری اشیاء بند کر دیں (بنی ہاشم) موسم حج کے سوانہ نکلتے تھے۔ ان پر سخت مصیبت آگئی شعب سے بچوں کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، بعض قریش تو اس سے خوش ہوتے تھے اور بعض کو ناگوار ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ منصور بن عکرمہ (عہد نامہ نویس) پر جو مصیبت آئی اسے دیکھو۔

تین سال تک یہ لوگ شعب میں مقیم رہے، اللہ نے ان کے عہد نامے کی حالت پر اپنے رسول ﷺ کو مطلع کیا کہ دیمک نے ظلم و جور والے مضمون کو کھالیا، جو اللہ کا ذکر تھا وہ رہ گیا۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ قریش نے اپنے اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان ایک عہد نامہ لکھا تھا۔ اور اس پر تین مہریں لگائی تھیں۔ اللہ عزوجل نے اس مضمون پر دیمک کو مسلط کر دیا جو سوائے اللہ عزوجل کے نام کے سب کھا گئی۔

محمد بن عکرمہ سے مروی ہے کہ سوائے ﴿باسمک اللہم﴾ کے عہد نامہ کی ہر چیز کھا گئی۔

قریش کے ایک شیخ سے مروی ہے کہ وہ عہد نامہ ان کے دادا کے پاس تھا۔ ہر چیز جو عدم تعاون کے متعلق تھی کھالی گئی سوائے ﴿باسمک اللہم﴾ کے۔

رسول اللہ ﷺ نے ابوطالب سے اس کا ذکر کیا، ابوطالب نے اپنے بھائیوں سے بیان کیا اور سب لوگ مسجد حرام کو گئے۔

ابوطالب نے کفار قریش سے کہا، میرے بھتیجے نے خبر دی ہے اور انہوں نے ہرگز مجھ سے غلط نہیں کہا ہے کہ اللہ نے تمہارے عہد نامے پر دیمک کو مسلط کر دیا ہے جو مضمون ظلم و جور یا قطع رحم کا تھا۔ اس نے کھالیا، وہی مضمون باقی رہ گیا ہے جس میں اللہ کا ذکر ہے، اگر میرے بھتیجے سچے ہیں تو تم لوگ اپنی برائی سے باز آ جاؤ اور اگر وہ غلط کہتے ہیں تو میں انہیں تمہارے حوالے کر دوں گا۔ تم انہیں قتل کرنا یا زندہ رکھنا۔

لوگوں نے جواب دیا کہ تم نے ہم سے انصاف کیا۔ عہد نامہ منگا بھیجا۔ کھولا تو اتفاق سے وہ اسی طرح تھا۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا۔ لوگ حیران ہو کر سرنگوں ہو گئے۔

ابوطالب نے کہا ہم لوگ کب تک مقید و محصور رہیں گے۔ حالانکہ معاملے کی حقیقت ظاہر ہو گئی۔ یہ کہا اور ہمراہیوں کے ساتھ کعبہ کے اندر گئے۔ وہاں ابوطالب نے کہا کہ اے اللہ! ہماری مدد کر اس شخص سے جو ہم پر ظلم کرے ہم سے قطع رحم کرے اور ہماری جو چیز اس پر حرام ہے اسے حلال سمجھے، لوگ شعب کو واپس آ گئے۔

قریش نے جو برتاؤ بنی ہاشم کے ساتھ کیا تھا اس پر ان کے کچھ لوگ باہم ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، یہ مطعم بن عدی اور عدی بن قیس وزمعه بن الاسود و ابو البختری بن ہاشم وزہیر بن ابی امیہ تھے۔ ان لوگوں نے ہتھیار پہنے۔ بنی ہاشم و بنی المطلب کے پاس گئے اور کہا کہ اپنے اپنے مکانات کو روانہ ہو جائیں۔ ان لوگوں نے یہی کیا۔

قریش نے یہ دیکھا تو حیران ہو گئے اور سمجھ گئے کہ ہرگز ان لوگوں کو بے یار و مددگار نہ کر سکیں گے۔ شعب سے ان لوگوں کی روانگی ۱۰۰ نبوی میں ہوئی تھی۔

محمد بن علی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اعزہ شعب میں دو سال رہے حکم نے کہا کم از کم تین سال رہے۔ طائف کا اذیت ناک سفر:

عبداللہ بن ثعلبہ بن صعیر وغیرہ سے روایت ہے کہ جب ابوطالب و خدیجہ رضی اللہ عنہما بہت خویلد کی وفات ہو گئی اور ان دونوں کی وفات کے درمیان ایک مہینہ پانچ دن کا فصل تھا تو رسول اللہ ﷺ پر دو مصیبتیں جمع ہو گئیں۔

آپ گھر ہی میں رہنے لگے اور باہر نکلنا کم کر دیا۔ قریش کو وہ کامیابی حاصل ہو گئی جواب تک حاصل نہ ہوئی تھی اور نہ انہیں توقع تھی۔

ابولہب کو معلوم ہوا تو وہ آپ کے پاس آیا اور کہا اے محمد (ﷺ) آپ جہاں چاہتے ہیں جائیے، جو کام آپ ابوطالب کی زندگی میں کرتے تھے کیجئے، لات کی قسم جب تک میں زندہ ہوں کسی کی آپ تک رسائی نہ ہوگی۔

ابن الغیطلہ نے نبی ﷺ کو برا بھلا کہا تھا۔ ابولہب اس کے پاس آیا اور اسے برا بھلا کہا۔ تو وہ چلاتا ہوا بھاگا کہ اے گروہ قریش ابو عتبہ (ابولہب) بے دین ہو گیا۔

قریش آ گئے اور ابولہب کے پاس کھڑے ہو گئے، ابولہب نے کہا: میں نے دین عبدالمطلب کو ترک نہیں کیا۔ مگر میں ظلم سے اپنے بھتیجے کی حفاظت کرتا ہوں یہاں تک کہ یہ جس کام کا ارادہ کرتے ہیں اس کے لئے چلے جائیں۔

قریش نے کہا: تم نے اچھا کیا، خوب کیا اور صلہ رحم کیا۔

رسول اللہ ﷺ چند روز اسی حالت پر رہے۔ آپ جاتے تھے آتے تھے قریش میں سے کوئی شخص آپ کی روک ٹوک نہ کرتا تھا۔ یہ لوگ ابولہب سے ڈر گئے تھے۔

ایک روز عقبہ بن ابی معیط اور ابو جہل بن ہشام ابولہب کے پاس آئے اور کہا کہ تمہارے بھتیجے نے تمہیں یہ بھی بتایا کہ (خدا کے یہاں) تمہارے والد کا ٹھکانا کہاں ہے۔

ابولہب نے آپ سے پوچھا کہ اے محمد (ﷺ)! عبدالمطلب کا ٹھکانا کہاں ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اپنی قوم کے ساتھ۔ ابولہب نکل کر ان دونوں کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: اپنی قوم کے ساتھ۔

ان دونوں نے کہا: آنحضرت ﷺ کا گمان یہ ہے کہ وہ دوزخ میں ہیں۔

ابولہب نے کہا: اے محمد (ﷺ)! کیا عبدالمطلب دوزخ میں جائیں گے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہاں۔ اور وہ بھی جو اس دین پر مرے جس پر عبدالمطلب مرے۔

ابولہب نے کہا: واللہ میں ہمیشہ آپ کا دشمن رہوں گا۔ آپ کا یہ گمان ہے کہ عبدالمطلب دوزخ میں ہیں۔ اس نے اور تمام قریش مکہ نے آپ پر سختی شروع کی۔

محمد بن جبیر بن مطعم سے مروی ہے کہ ابوطالب کی وفات ہو گئی تو قریش نے رسول اللہ ﷺ پر دست درازی شروع کر دی وہ آپ پر جری و گستاخ ہو گئے آپ طائف چلے گئے ہمراہ زید بن حارثہ بھی تھے۔ یہ روانگی شوال کے کچھ دن باقی تھے کہ ۱۰ نبوی میں ہوئی۔

محمد بن عمرو نے ایک دوسری سند میں سے بیان کیا ہے کہ آپ دس دن تک طائف میں رہے اشراف میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس کے پاس آپ نہ جاتے اور گفتگو نہ کرتے۔ مگر ان لوگوں نے آپ کی دعوت قبول نہ کی۔ انہیں اپنے نوجوان پر (قبول دعوت کا) اندیشہ ہوا تو کہا: اے محمد (ﷺ)! آپ ہمارے شہر سے چلے جائیے اور وہاں رہیے جہاں آپ کی دعوت قبول کر لی گئی ہو۔

احمقوں کو آپ کے خلاف بھڑکا دیا، وہ آپ کو پتھر مارنے لگے۔ رسول اللہ ﷺ کے دونوں قدموں سے خون بہنے لگا۔ زید بن حارثہ آنحضرت ﷺ کو بچا کر اپنے اوپر روکتے تھے مگر بے سودان کے سر میں بھی متعدد دھم آئے۔

رسول اللہ ﷺ طائف سے واپس ہوئے۔ آپ رنجیدہ تھے کہ نہ تو کسی مرد نے آپ کی دعوت قبول کی اور نہ کسی عورت نے۔ جب آپ مقام نخلہ میں اترے تو رات کی نماز پڑھنے کو کھڑے ہوئے۔ جنوں کا ایک گروہ آپ کی طرف پھیر دیا گیا جن میں سات شخص اہل نصیبین میں سے تھے انہوں نے آپ کی قراءت سنی آپ ﷺ سورہ جن پڑھ رہے تھے رسول اللہ ﷺ کو ان لوگوں کی خبر نہ ہوئی یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی:

﴿واذ صرفنا اليك نفرًا من الجن يستمعون القرآن﴾

”اور جب ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو آپ کی طرف پھیر دیا تھا جو قرآن سنتے تھے۔“

چنانچہ یہ وہی لوگ تھے جو نخلہ میں آپ کی طرف پھیر دیئے گئے تھے۔ آپ نے نخلہ میں چند روز قیام کیا۔ زید بن حارثہ نے عرض کیا کہ آپ کیونکر قریش میں جائیے گا۔ انہوں نے تو آپ کو نکال دیا ہے۔

فرمایا اے زید، تم جو کچھ دیکھتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو کشائش اور راہ بنانے والا ہے۔ بیشک اللہ اپنے دین کا مددگار ہے اور اپنے نبی کو غالب کرنے والا ہے۔

آپ حرا تک پہنچے قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص سے مطعم بن عدی کے پاس کہلا بھیجا کہ میں تمہارے پڑوس میں داخل ہو سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ فوراً اپنے لڑکے کو بلایا اور کہا کہ ہتھیار پہن کر بیت اللہ کی دیواروں کے پاس رہو۔ میں نے محمد (ﷺ) کو پناہ دی ہے۔

رسول اللہ ﷺ داخل ہوئے آپ کے ہمراہ زید بن حارثہ بھی تھے یہاں تک کہ آپ مسجد حرام میں پہنچ گئے۔

مطعم بن عدی اپنی سواری پر کھڑے ہوئے اور ندا دی کہ اے گروہ قریش میں نے محمد (ﷺ) کو پناہ دی ہے۔ لہذا تم میں سے کوئی شخص ان پر حملہ نہ کرے۔

رسول اللہ ﷺ حجر اسود تک گئے۔ اسے بوسہ دیا اور دو رکعت نماز پڑھ کر اپنے مکان واپس آئے۔ مطعم بن عدی اور ان کے لڑکے آپ کے گرد حلقہ کئے ہوئے تھے۔

معراج نبوی ﷺ:

ابوبکر بن عبد اللہ بن ابی بھرہ وغیرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے رب سے درخواست کیا کرتے تھے کہ وہ آپ کو جنت و دوزخ دکھائے۔ ہجرت سے اٹھارہ مہینے قبل جب ۱۷ رمضان یوم شنبہ کی شب ہوئی اور رسول اللہ ﷺ اپنے مکان میں تھا سو رہے تھے تو جبریل و مکائیل علیہ السلام آپ ﷺ کے پاس آئے اور کہا کہ وہاں چلے جس کی آپ نے اللہ سے درخواست کی تھی۔ دونوں آپ کو مقام ابراہیم اور زم زم کے درمیان لے گئے۔

پھر معراج (سیڑھی) لائی گئے۔ وہ دیکھنے میں بڑی خوبصورت تھی۔ دونوں آپ ﷺ کو ایک ایک کر کے تمام آسمانوں پر چڑھالے گئے۔ ان (آسمانوں) میں آپ انبیاء سے ملے۔ اور آپ سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچ گئے۔ آپ کو جنت و دوزخ دکھائی گئی۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب میں ساتویں آسمان تک پہنچا تو سوائے قلموں کی آواز کے اور کچھ نہ سنتا تھا۔ آپ پر پانچ نمازیں فرض کی گئیں۔ جبریل علیہ السلام اترے اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ نمازیں ان کے اوقات میں پڑھائیں۔

شب معراج کے واقعات:

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ہجرت سے ایک سال قبل ۱۷ ربیع الاول کی شب کو شعب سے بیت المقدس تک رسول اللہ ﷺ کو لے جایا گیا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ مجھے ایک چوپایہ پر سوار کیا گیا جو قد میں گدھے اور نچر کے درمیان تھا۔

اس کے دونوں رانوں پر پر تھے جن سے وہ اپنے دونوں پروں کو ٹھیکتا تھا۔

جب میں اس کے نزدیک گیا کہ سوار ہوں تو وہ بھڑکنے لگا۔ جبریل علیہ السلام نے اچانک اس کے سر پر رکھا اور کہا اے براق تجھے شرم نہیں آتی، واللہ محمد (ﷺ) سے پہلے اللہ کا کوئی بندہ تجھ پر سوار نہیں ہوا۔ جو اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ بزرگ ہو۔ وہ شرم سے پسینہ پسینہ ہو گیا اور رک گیا کہ میں اس پر سوار ہوں۔ پھر اس نے اپنے کان ہلائے اور زمین سمیٹ دی گئی۔ یہاں تک کہ اس کا کنارہ براق کے قدم پڑنے کی آخری جگہ تھی۔ اس کی پشت اور کان دراز تھے۔

جبریل علیہ السلام میرے ساتھ اس طرح روانہ ہوئے کہ وہ مجھے چھوڑتے تھے اور نہ میں انہیں چھوڑتا تھا۔ یہاں تک کہ انہوں نے مجھے بیت المقدس پہنچا دیا۔ براق اپنے مقام پر پہنچ گیا۔ جہاں وہ کھڑا ہوتا تھا۔ جبریل علیہ السلام نے اسے باندھ دیا۔ اس جگہ رسول اللہ ﷺ سے پہلے تمام انبیاء کی سواری باندھی جاتی تھی۔

آپ نے فرمایا: میں نے تمام انبیاء کو دیکھا جو میرے لئے جمع کر دیئے گئے تھے۔ میں نے ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام کو دیکھا۔ خیال ہوا ضرور ان کا کوئی امام بھی ہوگا۔ جبریل علیہ السلام نے مجھے آگے کر دیا میں نے سب کے آگے نماز پڑھی دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم سب تو حید کے ساتھ بھیجے گئے۔

بعض اہل علم نے کہا: اس شب کو نبی ﷺ گم ہو گئے۔ عبدالمطلب کے لڑکے آپ کی تلاش و جستجو میں ادھر ادھر نکلے، عباس بن عبدالمطلب بھی نکلے و طویٰ تک پہنچے تو پکارنے لگے یا محمد (ﷺ)! یا محمد (ﷺ)! رسول اللہ ﷺ نے جواب دیا: لبیک (میرے حاضر ہوں)۔ انہوں نے کہا: اے میرے بھتیجے رات سے قوم کو پریشانی میں ڈال دیا۔ کہاں تھے؟ فرمایا: میں بیت المقدس سے آ رہوں۔ پوچھا: اسی شب میں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو سوائے خیر کے کوئی اور بات تو پیش نہیں آئی۔ فرمایا: مجھے خیر کے سوا اور کوئی بات پیش نہیں آئی۔

ام ہانی بنت ابی طالب نے کہا: آپ ہمارے ہی گھر سے شب کو لے جائے گئے۔ اس شب کو آپ نے عشاء کی نماز پڑھی اور سو گئے۔ جب فجر ہونے لگی تو ہم نے صبح (کی نماز) کے لئے آپ کو بیدار کر دیا۔ آپ اٹھے نماز پڑھ لی تو فرمایا اے ام ہانی جیسا کہ تم نے دیکھا میں نے اسی وادی میں تم لوگوں کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی صبح کی نماز میں نے تم لوگوں کے ساتھ پڑھی۔ آپ اٹھے کہ باہر جائیں میں نے کہا یہ بات لوگوں سے نہ بیان کیجئے گا، وہ آپ کی تکذیب کریں گے اور ایذا دیر گے۔ فرمایا کہ میں ضرور ضرور ان سے بیان کروں گا۔ آپ نے لوگوں کو خبر دی وہ متعجب ہوئے اور کہا کہ ہم نے اس طرح کی بات کبھی نہیں سنی۔

رسول اللہ ﷺ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا: میری قوم میری تصدیق نہ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کی تصدیق کریں گے۔ وہی صدیق ہیں۔

بہت سے آدمی جو نماز پڑھتے تھے اور اسلام لائے تھے فتنے میں پڑ گئے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میں حطیم میں کھڑا ہو گیا، بیت المقدس کو میرے خیال میں ڈال دیا گیا۔ میں لوگوں کو اس آ

نشانوں کی خبر دینے لگا اور میں اسے دیکھتا جاتا تھا۔

بعض لوگوں نے کہا کہ مسجد بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں، میں نے اس کے دروازے شمار نہ کئے تھے، مگر میں ان کی طرف دیکھتا تھا اور ایک ایک دروازہ شمار کرتا تھا۔ اس طرح لوگوں کو بتا دیتا تھا۔ میں نے ان لوگوں کے قافلوں کو جو راستے میں تھے اور ان کی علامات کو بھی بتایا۔ اس کو بھی ان لوگوں نے اسی طرح پایا جس طرح میں نے انہیں بتایا تھا۔

اللہ عزوجل نے آپ پر یہ آیت نازل کی:

﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ الْآفِتْنَةَ لِلنَّاسِ﴾

”اور ہم نے جو سیر آپ کو دکھائی وہ محض لوگوں کی آزمائش کے لئے تھی۔“

یہ رویائے عین تھا جس کو آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں نے اپنے آپ کو حطیم میں اس حالت میں دیکھا کہ قریش مجھ سے رات کے چلنے کے راستے کو دریافت کرتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کی چند اشیاء دریافت کیں جن کو میں نے اچھی طرح یاد نہیں رکھا۔ مجھے ایسی سخت بے چینی ہوئی کہ اس سے پہلے میں کبھی ایسا بے چین نہیں ہوا تھا۔ اللہ نے بیت المقدس کو میری طرف بلند کر دیا کہ میں اسے دیکھ لوں، وہ مجھ سے جو کچھ دریافت کرتے تھے اس کی خبر دیتا تھا۔

میں نے اپنے آپ کو انبیاء کی جماعت میں دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نظر آئے جو کھڑے نماز پڑھ رہے تھے وہ مستقل مزاج یا نڈر اور سخت یا بے مروت آدمی تھے غصہ ور لوگوں میں سے معلوم ہوتے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نظر آئے جو کھڑے نماز پڑھ رہے تھے ان کے نسب سے زیادہ مشابہ عروہ بن مسعود اشقی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نظر آئے جو کھڑے نماز پڑھ رہے تھے جن کے سب سے زیادہ مشابہ تمہارے ساتھی یعنی خود (آنحضرت ﷺ) ہیں۔ پھر نماز کا وقت آ گیا تو میں نے ان سب کی امامت کی جب نماز سے فارغ ہوا تو مجھ سے کسی کہنے والے نے کہا: اے محمد (ﷺ)! یہ مالک ہیں جو دوزخ کے منتظم ہیں۔ آپ انہیں سلام کیجئے میں ان کی طرف مڑا تو پہلے انہوں نے سلام کیا۔

زمانہ حج میں دعوت و تبلیغ:

یزید بن رومان وغیرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ابندائے نبوت سے تین سال تک مکہ میں پوشیدہ طور پر رہے۔ چوتھے سال آپ ﷺ نے اعلان کیا، دس سال تک لوگوں کو اس طرح اسلام کی دعوت دی کہ آپ موسم حج میں ہر سال آتے تھے حجاج کو ان کی منازل عکاظ و محنہ و ذی الحجاز میں تلاش کرتے تھے اور دعوت دیتے تھے یہاں تک کہ لوگوں نے آپ کو رد کیا۔ آپ اپنے رب کی رسالت (پیغام) پہنچاتے تھے اور ان کے لئے جنت کا وعدہ کرتے تھے کوئی شخص نہ تو آپ کی مدد کرتا اور نہ آپ کی بات مانتا تھا۔

آپ قبائل میں سے ایک ایک قبیلہ کو اور ان کی منزلوں کو دریافت فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے لوگو! لا الہ الا اللہ کہو تو فلاح پاؤ گے۔ اس کی بدولت عرب کے مالک بن جاؤ گے اور عجمی تمہارے فرماں بردار ہو جائیں گے اور جب تم ایمان لاؤ گے تو

جنت میں بادشاہ ہو جاؤ گے۔

ابولہب آپ کے پیچھے پیچھے کہتا تھا کہ آپ کی اطاعت نہ کرنا کیونکہ یہ صابی (دین سے پھر جانے والے) اور کاذب ہیں۔ وہ لوگ بہت بری طرح رسول اللہ ﷺ کو جواب دیتے تھے اور آپ کو ایذا پہنچاتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کے اہل و عیال اور کنبہ والے آپ سے زیادہ واقف ہیں کیونکہ انہوں نے آپ کی پیروی نہیں کی اور آپ سے گفتگو کرتے تھے آپ انہیں اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ اگر چاہتا ہے تو یہ لوگ اس طرح (مخالف) نہ ہوتے۔

(راوی کہتے ہیں کہ) ہم سے ان قبائل کا نام بتایا گیا ہے جن کے پاس رسول اللہ ﷺ تشریف لے گئے دعوت دی اور اپنے آپ کو پیش کیا۔

بنی عامر بن صعصعہ، محارب بن خصفہ، فزارہ، غنٹان، مرہ حنیفہ، سلیم، عیس بن نضر بن البکا، کندہ کلب، حارث بن کعب، عذرہ حضارمہ (حضرموت کے رہنے والے) مکران میں سے کسی نے بھی دعوت قبول نہ کی۔
اوس و خزرج کا قبول اسلام:

مخوذ بن لبید وغیرہم سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ مکہ میں جب تک مقیم رہے آپ کا قیام اسی طرح رہا کہ ہر سال قبائل عرب کو دعوت دیتے۔ آپ ﷺ اپنے کو منی و عکاظ و جندہ میں ان کے آگے پیش کرتے کہ وہ آپ کو ٹھکانا دیں اس طرح آپ اپنے رب کا پیغام پہنچاتے اور ان کے لئے جنت کا وعدہ کرتے تھے۔

عرب کا کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا جو آپ کو قبول کرتا، آپ کو ایذا دی جاتی تھی اور برا بھلا کہا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ اللہ نے اپنے دین کو غالب کرنے، اپنے نبی کی مدد اور اپنے وعدہ کو پورا کرنے کا ارادہ کر لیا۔

وہ آپ کو انصار کے اس قبیلہ کے پاس لے گیا جن کے ساتھ اللہ کو فضل و کرم منظور تھا۔

آپ ان کے ایک گروہ کے پاس پہنچے جو سرمنڈارہے تھے۔ آنحضرت ﷺ ان کے پاس بیٹھ گئے۔ انہیں اللہ کی طرف دعوت دی اور قرآن سنایا۔

انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت قبول کر لی اور بہت عجلت کے ساتھ وہ لوگ ایمان لائے۔ آنحضرت ﷺ کی تصدیق کی، آپ کو ٹھکانا دیا، مدد اور ہمدردی کی واللہ وہ لوگ سب سے زیادہ زبان دراز (فصیح) اور سب سے زیادہ تیز تلوار والے تھے۔

اس امر میں اختلاف ہے کہ انصار میں سب سے زیادہ پہلے کون اسلام لایا اور دعوت قبول کی۔ اہل علم نے ایک معین شخص کو بھی بیان کیا ہے اور دو شخصوں کو بھی بیان کیا ہے۔ یہ بھی بیان کیا ہے کہ چھ شخصوں سے پہلے کوئی نہیں تھا اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ آٹھ آدمی تھے۔ ہم نے ان میں سے ہر ایک کو لکھ دیا ہے۔

ایک روایت کے مطابق کہ انصار میں سب سے پہلے جو شخص ایمان لائے وہ اسد بن زرارہ و ذکوان بن عبد قیس تھے جو کہ روانہ ہوئے تاکہ عتبہ بن ربیعہ کے پاس جائیں۔ اس نے ان دونوں سے کہا کہ ہمیں اس نمازی (یعنی آنحضرت ﷺ نے) ہر کام

سے روک دیا ہے۔ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہے اسد بن زرارہ و ابو الہیثم بن التیہان یثرب میں توحید کے متعلق گفتگو کیا کرتے تھے جب ذکوان بن عبد قیس نے عتبہ کا کلام سنا تو اسد بن زرارہ سے کہا کہ قبول کر لو یہ تمہارا ہی دین ہے۔ دونوں اٹھ کر رسول اللہ ﷺ کے پاس گئے آپ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا دونوں اسلام لائے اور مدینہ واپس آ گئے۔ اسد ابو الہیثم بن التیہان سے ملے انہیں اسلام کی خبر دی۔ ارشاد نبوی و دعوت حق کا ذکر کیا تو اسد ابو الہیثم نے کہا: میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دیتا ہوں کیونکہ بیشک وہ رسول ہیں وہ بھی مشرف بہ اسلام ہوئے۔

کہا جاتا ہے کہ رافع بن مالک الرزقی و معاذ بن عفرہ عمرہ کے لئے مکہ روانہ ہوئے۔ ان دونوں سے رسول اللہ ﷺ کے معاملہ کا ذکر کیا گیا تو خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ ﷺ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا۔ دونوں اسلام لے آئے۔ یہی دونوں سب سے پہلے مسلمان تھے۔ یہ دونوں مدینہ آ گئے۔ مدینہ کی سب سے پہلی مسجد جس میں قرآن پڑھا گیا مسجد بنی زریق تھی۔

اوس و خزرج کی صلح:

کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے سے نکلے اہل یثرب کے ایک گروہ پر گزر رہا جو منیٰ میں اتر تھا، کل آٹھ آدمی تھے۔ بنی النجار میں سے معاذ بن عفرہ و اسد بن زرارہ بنی زریق میں سے رافع بن مالک و ذکوان بن عبد قیس بنی سالم میں سے عبادہ بن الصامت و ابو عبد الرحمن یزید بن ثعلبہ بنی عبد الاشہل میں سے ابو الہیثم بن التیہان جو قبیلہ بلی کے حلیف تھے اور بنی عمرو بن عوف میں سے عویم بن ساعدہ۔

رسول اللہ ﷺ نے ان لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا، یہ لوگ مسلمان ہوئے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: تم میری پشت پناہی کرو کہ میں اپنے رب کی رسالت کو (پیغام) پہنچا دوں۔

ان لوگوں نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! ہم اللہ اور اس کے رسول کے لئے انتہائی کوشش کرنے والے ہیں۔ خوب سمجھ لیجئے کہ ہم آپس میں بغض رکھنے والے دشمن تھے۔ پہلے سال کی جنگ بعاث ہماری ہی جنگوں میں سے ایک جنگ تھی جس میں ہم نے آپس میں خونریزی کی تھی۔ اگر آپ ہمارے یہاں مدینے میں تشریف لائے اور ہم لوگ اسی باہمی عداوت کی حالت پر ہوئے تو ہمارا آپ پر اتفاق نہ ہوگا۔ ہمیں مہلت دیجئے کہ اپنے قبائل کے پاس واپس جائیں شاید اللہ ہم میں صلح کرادے۔ آپ سے ملاقات سال آئندہ موسم حج میں ہوگی۔

کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ اس موسم حج میں نکلے جس میں انصار کے چھ اشخاص سے آپ ﷺ کی ملاقات ہوئی۔ آپ ان کے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا: کیا تم لوگ یہود کے حلیف ہو؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ پھر آپ ﷺ نے انہیں اللہ کی طرف دعوت دی۔ اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ سب اسلام لے آئے۔ وہ لوگ یہ تھے:

بنی النجار میں سے اسد بن زرارہ و عوف بن الحارث بن عفرہ۔

بنی زریق میں سے رافع بن مالک۔

بنی سلمہ میں سے قطبہ بن عامر بن حدیدہ۔

بن حرام بن کعب میں سے عتبہ بن عامر بن نابی۔

بنی عبید عدی بن سلمہ میں سے جابر بن عبد اللہ رباب تھے اور ان سے پہلے کوئی اسلام نہ لایا تھا۔

محمد بن عمرو نے کہا: ہم نے ان لوگوں کے بارے میں جو کچھ سنا اس میں ہمارے نزدیک یہی سب سے زیادہ درست ہے

اور یہی متفق علیہ ہے۔

زکریا بن زید نے اپنے والد سے روایت کی کہ یہی شخص تھے جن میں ابوالہیثم بن التیہان تھے اس کے بعد حدیث اول

ہی کا مضمون ہے۔ یہ لوگ مدینہ آئے اور اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی جو لوگ اسلام لائے لائے مدینہ میں انصار کا کوئی گھر نہ بچا

جس میں رسول اللہ ﷺ کا ذکر نہ تھا۔

بیعت عقبہ اولی کے شرکائے گرامی:

جن میں ہمارے نزدیک کوئی اختلاف نہیں۔

عبادہ بن الصامت وغیرہ سے مروی ہے کہ جب آئندہ سال ہوا تو آپ ﷺ سے بارہ آدمی ملے یہی عقبہ اولی

(کہلاتا) ہے۔

ان بارہ آدمیوں میں بنی البغار میں سے اسعد بن زرارہ، عوف و معاذ تھے۔ دونوں مؤخر الذکر حارث کے فرزند تھے ان

کی والدہ عضرہ تھیں۔

بنی زریق میں سے ذکوان بن قیس و رافع بن مالک تھے۔

بنی عوف بن الخزرج میں سے عبادہ بن الصامت و یزید بن ثعلبہ ابو عبد الرحمن تھے۔

بنی عامر بن عوف میں سے عباس بن عبادہ بن فضلہ تھے۔

بنی سلمہ میں سے عقبہ بن عامر بن نابی تھے۔

بنی سواد میں سے قطبہ بن عامر بن حدیدہ تھے۔

یہ دس آدمی تو قبیلہ خزرج کے تھے قبیلہ اوس میں سے دو شخص تھے۔

ابوالہیثم بن التیہان قبیلہ بلی حلیف بن عبد الاشہل میں سے تھے۔

بنی عمرو بن عوف میں سے عویم بن ساعدہ تھے۔

یہ لوگ ایمان لائے اور بیعت خواتین کی کہ اللہ کے ساتھ کوئی چیز شریک نہ کریں گے۔ چوری زنا اور قتل اولاد نہ کریں

گے۔ کوئی بہتان جو دیدہ و دانستہ بنایا ہو نہ باندھیں گے۔ کسی نیک کام میں نافرمانی نہ کریں گے۔

آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اگر تم وفا کرو گے تو تمہارے لئے جنت ہے جس نے ذرا کوتاہی کی تو وہ اس کا معاملہ اللہ کے

سپردے خواہ وہ اس پر عذاب کرے خواہ معاف کر دے۔

اس زمانے میں جہاد فرض نہیں کیا گیا تھا۔ یہ لوگ مدینہ واپس گئے، اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا، اسعد بن زرارہ مدینہ میں مسلمانوں کو جمعہ کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔

اوس و خزرج نے رسول اللہ ﷺ کو لکھا کہ ہمارے یہاں کسی کو بھیج دیجئے جو ہمیں قرآن پڑھائے۔ آنحضرت ﷺ نے ان لوگوں کے پاس مصعب بن عمیر العبدری کو بھیج دیا وہ اسعد بن زرارہ کے پاس اترے، لوگوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ بعض اہل علم نے روایت کی کہ مصعب ان لوگوں کو جمعہ پڑھایا کرتے تھے، پھر مصعب ستر انصار کے ساتھ روانہ ہوئے۔ یہاں تک کہ موسم حج میں رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچ گئے۔

بیعت عقبہ ثانیہ میں شامل ستر (۷۰) حضرات:

زید بن رومان سے مروی ہے کہ جب حج کا وقت آ گیا تو رسول اللہ ﷺ کے اسلام لانے والے اصحاب ایک دوسرے کے پاس گئے تاکہ حج کو جانے اور رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچنے کا ایک دوسرے سے وعدہ لیں۔ اس زمانہ میں اسلام مدینہ میں پھیل چکا تھا۔

یہ لوگ جو ستر آدمی یا ایک دو زائد تھے اوس و خزرج کے پانچ سو آدمی کی جماعت کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ رسول اللہ ﷺ کے پاس مکہ میں آئے۔ آنحضرت ﷺ کو سلام کیا۔ آپ نے ان لوگوں سے منیٰ میں وسط ایام تشریق (از ۹ تا ۱۳ رذی الحجہ) میں نفر اذل (یعنی ۱۲ رذی الحجہ) کی شب کو (ملنے کا) وعدہ کیا کہ ہجوم کو سکون ہو جائے۔ (یعنی بھیڑ کم ہو جائے) تو یہ لوگ آپ ﷺ کے پاس شعب امین میں پہنچ جائیں۔ جو منیٰ سے اترتے وقت عقبہ سے نیچے ہے اور جہاں اس زمانہ (مصنف طبقات) میں مسجد ہے۔

آپ نے انہیں حکم دیا کہ نہ تو وہ کسی سونے والے کو بیدار کریں اور نہ کسی غیر حاضر کا انتظار کریں۔

سکون کے بعد یہ جماعت خفیہ طور پر ایک ایک دودو کر کے روانہ ہوئی۔ رسول اللہ ﷺ ان لوگوں سے پہلے ہی اس مقام پر پہنچ چکے تھے۔ ہمراہ عباس بن عبدالمطلب بھی تھے۔ ان کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ جو سب سے پہلے رسول اللہ ﷺ کو نظر آئے وہ رافع بن مالک الزرقی تھے پھر اور ستر لوگ پہنچ گئے ہمراہ دو عورتیں بھی تھیں۔

اسعد بن زرارہ نے کہا: سب سے پہلے عباس بن عبدالمطلب نے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا: اے گروہ خزرج! محمد (ﷺ) کو تم لوگوں نے جہاں بلایا ہے۔ محمد (ﷺ) اپنے خاندان میں سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ ہم میں سے جو ان کے قول پر ہے ان کی حمایت کرتا ہے۔ جو ان کے قول پر نہیں ہے وہ بھی باعتبار حسب و شرف آنحضرت ﷺ کی حفاظت کرتا ہے۔ محمد ﷺ نے سوائے تمہارے اور سب کے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اگر تم لوگ صاحب قوت و شوکت ہو، جنگ میں ماہر اور سارے عرب کی عداوت میں جو تم پر ایک ہی کمان سے تیر اندازی کریں گے، مستقل ہو تو اپنی رائے پر غور کرو۔ آپس میں مشورہ کرو (کیونکہ آنحضرت ﷺ کو مدینہ میں لے جانے میں عرب سے تمہیں جنگ کرنا پڑے گی) باہم اختلاف نہ کرو جو کچھ کرو اتحاد و اتفاق سے کرو۔ سب سے بہتر بات وہی ہے جو سب سے زیادہ سچی ہو۔

البراء بن معرور نے جواب دیا۔ آپ ﷺ نے جو کچھ کہا ہم نے سنا۔ واللہ! ہمارے دلوں میں اس کے سوا ہوتا جو آپ کہتے ہیں تو ہم اسے ضرور کہہ دیتے۔ ہم تو وفا و صدق اور رسول اللہ ﷺ پر اپنی جانیں نثار کرنا چاہتے ہیں۔
رسول اللہ ﷺ نے ان کے سامنے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ اللہ کی طرف دعوت دی، اسلام کی ترغیب دی اور اس مقصد کو بیان کیا جس کے لئے یہ لوگ جمع ہوئے تھے۔

البراء بن معرور نے آپ کو ایمان اور تصدیق کی صورت میں جواب دیا۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہمیں بیعت کر لیجئے کیونکہ ہم لوگ اہل حلقہ ہیں جن کے ہم بزرگوں سے وارث چلے آتے ہیں۔
کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جس نے گفتگو کی اور رسول اللہ ﷺ کی دعوت کو قبول کیا اور آپ کی تصدیق کی وہ ابوالہیثم بن العتیبان تھے۔

سب نے کہا ہم اس کو اموال کی مصیبت اور اشراف کے قتل پر کیسے قبول کر لیں (یعنی اسلام قبول کرنے سے ہمارے جان و مال پر مصیبت آجائے گی اس لئے ہم اسے کیونکر قبول کریں)۔
جب بک بک کرنے لگے تو عباس بن عبدالمطلب نے جو رسول اللہ ﷺ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے کہا: اپنی آواز کو پست کرو، ہم پر جاسوس لگے ہوئے ہیں۔ اپنے سن رسیدہ لوگوں کو آگے کرو تا کہ تم میں سے وہی لوگ ہمارے کلام کے ذمہ دار ہوں۔
ہمیں تمہاری قوم سے بھی تمہارے خلاف اندیشہ ہے، جب تم لوگ بیعت کر چکو تو اپنے اپنے مقامات پر چلے جاؤ۔
البراء بن معرور نے تقریر کی اور عباس بن عبدالمطلب کو جواب دیا۔ انہوں نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ اپنا ہاتھ پھیلائیے (تا کہ میں بیعت کروں)۔

سب سے پہلے شخص جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کی البراء بن معرور تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جس نے بیعت کی وہ ابوالہیثم بن العتیبان یا اسعد بن زرارہ تھے پھر کل ستر آدمیوں نے بیعت کر لی۔
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: موسیٰ نے بنی اسرائیل میں سے بارہ نقیب لئے تھے۔ تم میں سے کوئی شخص اپنے دل میں یہ خیال نہ کرے کہ اس کے سوا اور کو انتخاب کر لیا گیا۔ میرے لئے (نقیبوں کا) جبریل ہی انتخاب کریں گے۔
انتخاب کے بعد نقیبوں سے فرمایا: تم لوگ دوسروں کے ذمہ دار ہوں، جیسا کہ حواریین عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ذمہ دار تھے یا میں اپنی قوم کا ذمہ دار ہوں۔ ان لوگوں نے کہا: جی ہاں۔

قوم نے بیعت کر لی اور کامل ہو گئے، تو شیطان عقبہ پر سے ایسی بلند آواز سے چلایا جو سنی گئی کہ اے اہل اخاشب کیا تمہیں محمد (ﷺ) اور ان کے ساتھ والے دین سے پھرنے والوں میں کوئی فائدہ ہے۔ جنہوں نے تمہاری جنگ پر اتفاق کر لیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اپنے کجاوؤں میں جلدی چلے جاؤ۔

عباس بن عبادہ بن نضلہ نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، اگر آپ چاہیں تو ہم اہل منیٰ پر اپنی تلواریں لے کے ٹوٹ پڑیں۔ حالانکہ اس شب کو سوائے (عباس بن عبادہ) کے اور کسی کے پاس تلوار نہ تھی۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ لہذا تم جلدی اپنے کجاوؤں میں چلے جاؤ۔ لوگ اپنے کجاوؤں میں منتشر ہو گئے۔

صبح ہوئی تو ان لوگوں کے پاس قریش کی ایک جماعت اشراف گئی۔ یہ لوگ شعب الانصار میں داخل ہوئے اور کہا اے گروہ خزرج ہمیں معلوم ہوا کہ تم لوگ کل شب کو ہمارے ساتھی (آنحضرت ﷺ) سے ملے۔ تم نے ان سے ہمارے ساتھ جنگ پر بیعت کی ہے۔ عرب میں جتنے قبیلے جدا ہیں کسی کے ساتھ ہم لڑنا اس قدر برا نہیں جانتے جس قدر تم سے جنگ کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ قبیلہ خزرج کے مشرکین میں سے جو لوگ وہاں تھے بڑی تیزی سے اللہ کی قسم کھانے لگے کہ ایسا نہیں ہوا۔ اور ہمیں تو اس کا علم بھی نہیں۔ ابن ابی کہنے لگے یہ محض باطل ہے نہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے نہ میری قوم بغیر میرے حکم ایسا کرے گی۔ میں یثرب میں ہوتا تو مجھ سے ضرور مشورہ کرتے (پھر یہاں کون سا امر مانع تھا)۔

قریش ان لوگوں کے پاس سے واپس چلے گئے۔ البراء بن معرور نے کوچ کیا وہ مقام بطن یا حج میں آئے اور اپنے مسلمان ساتھیوں سے مل گئے۔

قریش ان لوگوں کو ہر طرف تلاش کرنے لگے مگر مدینے کے راستوں سے آگے نہ بڑھے (یعنی صرف انہیں راستوں پر تلاش کرتے رہے)۔ (جب تو کے لئے) گروہ مقرر کر دیئے اتفاق سے سعد بن عبادہ کو پا گئے کجاوہ کی رسی سے ان کا ہاتھ گردن میں باندھ دیا، انہیں مارنے لگے بال (پٹے) جو کان کی لو تک دراز تھے۔ گھٹنے لگے اس طرح کے میں لائے۔

سجد کے پاس مطعم بن عدی اور حارث بن امیہ بن عبد شمس آئے دونوں نے مل کر ان لوگوں کے ہاتھ سے چھڑایا۔ انصار نے سعد بن عبادہ کو نہ پایا تو ان کے پاس واپس جانے کا مشورہ کیا۔ اتفاق سے سعد انہیں نظر آ گئے ساری جماعت نے مدینے کی طرف کوچ کیا۔

ہجرت سے قبل رسول اللہ ﷺ کی مکی زندگی:

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ پر قرآن نازل ہوا تو آپ تینتالیس برس کے تھے اور آپ دس برس مکہ میں رہے۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے میں دس برس رہے۔

عائشہ و ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے میں دس برس اس طرح رہے کہ آپ پر قرآن نازل ہوتا رہا اور مدینے میں دس برس رہے۔

یزید بن ابی حبیب سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کے میں دس برس رہے وہاں سے صفر میں نکلے اور ربیع الاول میں مدینہ آئے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ مکہ میں پندرہ برس رہے سات برس تک آپ روشنی و نور دیکھتے اور

آواز سنتے رہے۔ آٹھ برس تک آپ پر وحی نازل ہوتی رہی اور مدینے میں آپ دس برس رہے۔

سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ ایک شخص ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور کہا کہ رسول اللہ ﷺ پر دس برس مکہ میں اور دس برس مدینے میں وحی نازل کی گئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: یہ کون کہتا ہے؟ کئے میں آپ پر پندرہ سال تک یا اس سے زیادہ وحی نازل کی گئی۔

ابورجاء سے مروی ہے کہ میں نے حسن سے سنا کہ انہوں نے یہ آیت پڑھی: ﴿وَقَرَأْنَا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكَّةَ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا﴾ اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر دیا ہے تاکہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو سنائیں اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے۔ حسن رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ وہاں (مکہ میں) قرآن کے بعض حصے کو بعض سے پہلے نازل کرتا تھا اس لئے کہ اسے معلوم تھا کہ یہ لوگوں میں قائم رہے گا۔

حسن رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ قرآن کے اول و آخر کے درمیان اٹھارہ سال کا فاصلہ تھا۔ آٹھ سال تک آپ پر مکے میں قبل اس کے کہ ہجرت فرمائیں نازل ہوتا رہا اور دس برس تک مدینے میں۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ مبعوث ہونے کے بعد رسول اللہ ﷺ مکہ میں تیرہ برس تک مقیم رہے کہ آپ پر وحی نازل ہوتی رہی پھر آپ کو ہجرت کا حکم دیا گیا۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ مکے میں تیرہ برس رہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ مکے میں تیرہ برس تک اس طرح رہے کہ آپ پر وحی نازل ہوتی رہی۔

اہل ایمان کو ہجرت مدینہ کی اجازت:

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب ستر انصار رسول اللہ ﷺ کے پاس سے واپس گئے۔ تو آپ کا دل خوش ہو گیا، اللہ نے آپ کے لئے حامی بنادیئے۔ ایک جنگجو بہادر اور ذی استعداد قوم تیار کر دی۔

مشرکین کی جانب سے مسلمانوں پر سخت مصیبت نازل ہونے لگی۔ کیونکہ انہیں ان کی روانگی کا علم ہو گیا تھا۔ قریش نے آپ کے اصحاب کو ضیق میں کر دیا۔ ان کی توہین و تذلیل کرنے لگے گالیاں دیتے اور طرح طرح سے ایذا رسانی کے درپے ہوتے جس کی مثال پہلے نہ تھی۔

اصحاب نے شکایت کی اور آپ سے ہجرت کی اجازت مانگی۔ فرمایا: مجھے تمہارا دار ہجرت خواب میں دکھایا گیا ہے۔ مجھے دو پتھریلی زمینوں کے درمیان ایک شورہ والی کھجور کے باغ کی زمین دکھائی گئی ہے اگر (مقام) سراۃ شورہ اور کھجور والا ہوتا تو میں کہتا کہ یہی وہ ہے (جو مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے)۔

آپ چند روز تک ٹھہرے رہے۔ پھر خوش خوش اپنے اصحاب کے پاس آ گئے اور فرمایا مجھے تمہارے دار ہجرت کی خبر دی گئی ہے وہ میرا ہے جو جانا چاہیے وہیں جائے۔

یہ جماعت باہم موافقت و ہمدردی کے ساتھ مصروف بہ تیاری ہوئی اپنی روانگی کو پوشیدہ رکھا۔

رسول اللہ ﷺ کے اصحاب میں سب سے پہلے جو مدینہ آئے وہ ابوسلمہ بن عبد اللہ تھے ان کے بعد عامر بن ربیعہ آئے۔

ہمراہ ان کی بیوی لیلیٰ بنت ابی حمزہ بھی تھیں جو سب سے پہلی شترسوار خاتون تھیں کہ مدینہ میں آئیں۔ اصحاب گروہ گروہ آنے لگے۔ انصار کے یہاں ان کے مکانات میں اترتے۔

انصار نے ان کو ٹھکانہ دیا، ان کی مدد کی اور ان سے ہمدردی کی اور رسول اللہ ﷺ کے تشریف لانے سے پہلے سالم مولائے ابی حذیفہ قبائیں مہاجرین کی امامت کرتے تھے۔

جب مسلمان مدینہ روانہ ہو گئے تو قریش کو ان پر حرص آئی اور سخت غصہ ہوئے ان نوجوانوں پر جو چلے گئے تھے بہت طیش آیا۔

انصار کے ایک گروہ نے عقبہ آ خرہ میں رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی تھی۔ وہ مدینہ واپس آ گئے تھے۔ جب مہاجرین اؤلین قباء آ گئے تو یہ انصار رسول اللہ ﷺ کے پاس کے گئے اور آپ کے اصحاب کے ساتھ ہجرت کر کے آئے یہی وہ لوگ ہیں جو مہاجرین انصار کہلائے۔

ان کے نام یہ ہیں: ذکوان بن عبد قیس وعقبہ بن وہب بن کلدہ وعباس بن عبادہ بن نضلہ وزیاد بن لبید۔ تمام مسلمان مدینہ چلے گئے۔ کوئی بھی مکہ میں رواں گئی سے نہ بچا، سوائے رسول اللہ ﷺ و ابو بکر علیہ السلام کے یا جو فتنہ میں ڈال دیا گیا تھا اور قید کر دیا گیا تھا یا مر یض یا ضعیف تھا۔



آغازِ ہجرت

قتل کی سازش:

سراقہ بن جشم وغیرہ سے روایت ہے کہ مشرکوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں نے اپنی عورتیں اور بچے قبائل اوس و خزرج کے ہاں (مدینہ شریفہ) میں بھیج دیئے تو سمجھ گئے کہ یہ صاحب اثر لوگ ہیں، اب رسول اللہ ﷺ بھی وہیں چلے جائیں گے۔ سب کے سب دارالندوہ میں جمع ہوئے، جتنے دانش مند اور صاحب الرائے تھے سب نے شرکت کی کہ آنحضرت ﷺ کے معاملہ میں باہم مشورہ کریں۔

نجد کے ایک ایک بڑے بوزھے کی شکل میں ایک شخص یہاں آیا تلوار لٹک رہی تھی موٹے بھونٹے کپڑے پہنے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کے متعلق بحث چھڑی، ہر شخص نے اپنی رائے کے مطابق مشورہ دیا، ہر ایک کی رائے کو ابلیس رد کرتا تھا، کسی کی رائے کو پسند نہ کیا۔

ابوجہل نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم قریش کے ہر ہر قبیلے کا ایک ایک شخص لے لیں جو بہادر اور دلیر ہو۔ پھر اسے ایک تیز تلوار دے دیں تاکہ یہ سب مل کر مثل ایک شخص کے آنحضرت ﷺ کو ماریں تاکہ آپ کا خون تمام قبائل میں تقسیم ہو جائے اور بنی عبد مناف کی بھی سمجھ میں نہ آئے گا کہ اس کے بعد کیا کریں۔ وہ نجدی (ابلیس) کہنے لگا اس نوجوان (ابوجہل) کی خوبی اللہ ہی کے لئے ہے واللہ رائے تو یہی صائب ہے ورنہ پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔

اس بات پر اتفاق کر کے سب لوگ منتشر ہو گئے۔ جبریل رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے آپ کو اس خبر سے آگاہ کیا اور مشورہ دیا کہ اس شب کو آپ اپنی خوابگاہ میں نہ سوئیں رسول اللہ ﷺ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے روانگی کی اجازت دے دی ہے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ (میری) ہمراہی؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔

ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میری ان دو سواروں میں سے ایک آپ لے لیجئے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بہ قیمت لوں گا۔

ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں سواروں کو بنی قشیر کے مویشی میں سے آٹھ سو درہم میں خریدا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے ان میں سے ایک لے لی جس کا نام قصواء تھا۔

آپ ﷺ نے علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اس شب کو وہ آپ کی خوابگاہ میں سوئیں۔ علی رضی اللہ عنہ سوئے۔ انہوں نے ایک سرخ حضری چادر جس میں رسول اللہ ﷺ سویا کرتے تھے اوڑھ لی۔

کا شانہ نبوی کا محاصرہ:

قریش کا یہ گروہ جمع ہو گیا جو دروازہ کی درزوں سے جھانک رہے تھے۔ آپ ﷺ کی گھات میں تھے اور آپ کو پکڑنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ باہم مشورہ کر رہے تھے کہ بستر پر لیٹنے والے پر کون حملہ کرے۔

اسی اثناء میں رسول اللہ ﷺ برآمد ہوئے۔ وہ سب اگرچہ دروازہ پر بیٹھے ہوئے تھے آپ نے دو لب بھر سنگ ریزے اٹھائے ان لوگوں کے سروں پر چھڑکا اور یہ پڑھنے لگے: ﴿يَسِينَ وَالْقُرْآنَ الْحَكِيمَ﴾ سے ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ تک پہنچے۔ رسول اللہ ﷺ گزر گئے۔

کسی کہنے والے نے ان سے کہا کس کا انتظار کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ محمد (ﷺ) کا۔ اس نے کہا کہ تم ناکامیاب ہوئے اور نقصان میں رہے۔ واللہ وہ تو تمہارے پاس سے گزر گئے اور تمہارے سروں میں پر سے چھڑک گئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ واللہ ہم نے انہیں دیکھا اور وہ لوگ اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔

یہ لوگ (۱) ابو جہل و (۲) حکم بن ابی العاص و (۳) عقبہ بن ابی معیط و (۴) نصر بن الحارث و (۵) امیہ بن خلف و (۶) ابن الغیطہ و (۷) زمعہ بن الاسود و (۸) طعیمہ بن عدی و (۹) ابولہب و (۱۰) ابی بن خلف و (۱۱) نید و (۱۲) منبہ پسران حجاج تھے۔

جب صبح ہوئی تو علی بستر سے اٹھے ان لوگوں نے ان سے رسول اللہ ﷺ کو دریافت کیا تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے آپ کے متعلق علم نہیں۔

نبی و صدیق کا غار ثور میں قیام:

رسول اللہ ﷺ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مکان چلے گئے۔ رات تک اسی میں رہے۔ پھر آپ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نکلے اور غار ثور کو روانہ ہو گئے اس کے اندر داخل ہوئے مکڑی نے اس کے راستے پر جالا تان دیا جس کا بعض حصہ بعض پر تھا۔

قریش نے رسول اللہ ﷺ کی انتہائی جستجو کی یہاں تک کہ غار کے راستے تک پہنچ گئے ان میں سے بعض نے کہا کہ اس پر تو محمد (ﷺ) کی ولادت سے بھی پہلے کی مکڑی ہے وہ سب واپس ہو گئے۔

ابو مصعب المکی سے مروی ہے کہ میں نے زید بن ارقم و انس بن مالک و مغیرہ بن شعبہ کا زمانہ پایا ہے میں نے ان کو بیان کرتے سنا کہ شب کو غار میں اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کو حکم دیا تو وہ نبی ﷺ کے قریب آگ آیا۔ اس نے آپ کی آڑ کر لی اللہ نے مکڑی کو حکم دیا تو اس نے آپ کے روبرو جالا لگا دیا اور آڑ کر لی اللہ نے دو جنگلی کبوتروں کو حکم دیا جو غار کے منہ پر بیٹھ گئے۔

قریش کے نوجوان جن میں ہر خاندان کا ایک ایک آدمی تھا۔ اپنی اپنی تلواریں لاٹھیاں اور لٹھ لئے ہوئے آئے یہاں تک کہ جب وہ آپ ﷺ سے چالیس ہاتھ کے فاصلے پر تھے تو ان کے آگے والے شخص نے نظر ڈالی ان دونوں کبوتروں کو دیکھ کر واپس ہو گیا اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تجھے کیا ہوا کہ غار میں نہیں دیکھتا اس نے کہا کہ غار کے منہ پر دو وحشی کبوتر ہیں میں سمجھا کہ اس میں کوئی نہیں ہے۔

نبی ﷺ نے بھی اس کی بات سنی۔ سمجھ گئے کہ ان دونوں (کبوتروں) کے ذریعے اللہ نے آپ سے (دشمنوں کو) دفع کیا ہے۔

نبی ﷺ نے انہیں دُعا دی اور ان کی جزاء مقرر کر دی وہ حرم الہی میں منتقل ہو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خاص معاہدہ پر چرائی والی بکریاں تھیں جن کو عامر بن فہیرہ چرایا کرتے تھے۔

رات کے وقت ان بکریوں کو ان حضرات کے پاس لاتے تھے اور وہ دودھ دودھ لیتے تھے۔ جب صبح ہو جاتی تھی تو لوگوں کے ساتھ چلے جاتے تھے۔

عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا ہم نے دونوں حضرات کے لئے پسندیدہ تر سامان سفر تیار کیا ایک توشہ دان میں توشہ تیار کیا۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے اپنی اوڑھنی کا ایک ٹکڑا کاٹا اور اس سے انہوں نے توشہ دان کا منہ بند کیا دوسرا ٹکڑا کاٹا اور اس سے مشکیزے کے منہ کی روک بنایا اسی وجہ سے ان کا نام ذات الطاقین (دواوڑھنی والی) رکھ دیا گیا۔

ابن اریقط کی ہمراہی:

رسول اللہ ﷺ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ عار میں تین شب رہے ان دونوں کے پاس عبد اللہ بن ابی بکر سوتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بنی الدیل کے ایک شخص کو جن کا نام عبد اللہ بن اریقط تھا ہادی اور خفیہ راستوں کی رہبر کی حیثیت سے اُجرت پر رکھ لیا۔ حالانکہ وہ دین کفر پر تھا۔ مگر ان سے اطمینان تھا۔ ان دونوں حضرات کے ساتھ عامر بن فہیرہ بھی تھے۔ ابن اریقط دونوں حضرات کے ساتھ رجز خوانی کرتے رہے۔ قریش کو پتہ بھی نہ لگا کہ رسول اللہ ﷺ کہاں تشریف لے گئے یہاں تک کہ انہوں نے اسفل مکہ سے ایک جن کی آواز سنی جو نظر نہ آتا تھا۔

جزی اللہ رب الناس خیر جزائہ رفیقین حلا خیمۃ ام معبد
”اللہ جو تمام لوگوں کا پالنے والا ہے ان دونوں رفیقوں کو اپنی بہترین جزا دے جنہوں نے اُمّ معبد کے خیمے میں
دوپہر کو آرام فرمایا۔“

ہما نزلا بالبر و اعتدایاہ فقد فاز من امسی رفیق محمد
”یہ دونوں خشکی میں اُترے اور وہاں سے گزر گئے وہ شخص کامیاب رہا جو محمد ﷺ کا رفیق ہو گیا (یعنی حضرت
صدیق رضی اللہ عنہ)۔“

نبوت کے قدم اُمّ معبد کے خیمے میں:

ابی معبد الخزاعی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو آپ اور ابو بکر اور مولائے ابو بکر عامر بن فہیرہ تھے۔ ان حضرات کے رہبر عبد اللہ بن اریقط اللیشی تھے۔ یہ حضرات اُمّ معبد خزاعیہ کے خیمہ پر گزرے تو قوی و دلیر تھے۔ وہ اپنے خیمے کے آگے میدان میں چادر اوڑھ کر بیٹھی رہتی تھیں اور کھلاتی پلاتی تھیں۔ چنانچہ ان حضرات نے ان سے کھجور یا گوشت کو دریافت کیا کہ خریدیں مگر ان میں سے کوئی چیز بھی ان کے پاس نہ پائی۔

اتفاق سے زاوراہ ختم ہو چکا تھا۔ اور یہ سب قحط کی حالت میں تھے۔ اُمّ معبد نے کہا کہ واللہ اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا تو مہانداری ہی آپ کو کسی چیز کا محتاج نہ کرتی۔

رسول اللہ ﷺ کی ایک بکری پر نظر پڑی جو خیمے کے ایک حصہ سے بندھی تھی آپ نے فرمایا کہ اے ام معبد یہ بکری کیسی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ بکری ہے جس کو تھکن نے بکریوں سے پیچھے کر دیا ہے (جس کی وجہ سے اور بکریاں چرنے لگیں اور یہ رہ گئی)۔ فرمایا اس کے کچھ دودھ بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ (اس بکری کے لئے دودھ دینا) اس سے (یعنی جنگل جانے سے) بھی زیادہ دشوار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں اس کا دودھ دوں۔ انہوں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں ہاں اگر آپ اس کے دودھ دیکھیں (تو دودھ لیجئے)۔

آپ نے بسم اللہ کہہ کر تھن پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ اے اللہ ام معبد کو ان کی بکری میں برکت دے اس بکری نے نانگیں پھیلا دیں کثرت سے دودھ دیا اور فرمانبرداری ہو گئی۔

آپ نے ان کا وہ برتن مانگا جو ساری قوم کو سیراب کر دے اس میں آپ نے دودھ کو سیلاب کی طرح دوپایاں تک کہ کف اس کے اوپر آ گیا۔ آپ نے اسے پلایا ام معبد نے پیا یہاں تک کہ وہ بھی سیراب ہو گئیں اور آپ نے اپنے اصحاب کو پلایا۔ وہ بھی سیراب ہو گئے۔ سب سے آخر میں آنحضرت ﷺ نے بھی نوش فرمایا اور فرمایا کہ قوم کے ساتی کو سب سے آخر میں پینا چاہئے۔

سب نے ایک بار پینے کے بعد دوبارہ پیا اور خوب سیر ہو گئے۔ پھر آپ نے اسی برتن میں ابتدائی طریقہ پر دوبارہ دواہا اور اس کو اُمّ معبد کے پاس چھوڑ دیا۔

کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اُمّ معبد کے شوہر ابو معبد اپنی بکریاں ہنکاتے ہوئے آ گئے جو ایسی پیلا (یعنی گاہن نہ ہونے والی) اور بلی بلی تیلی تھیں کہ اچھی طرح چل نہ سکتی تھیں ان کا مغز بہت کم تھا ان میں ذرا سی بھی چربی نہ تھی۔ ابو معبد نے دودھ دیکھا تو تعجب کیا اور کہا کہ تم لوگوں کو کہاں سے مل گیا۔ حالانکہ بکریاں دور چرنے لگی ہوئی تھیں اور گھر میں کوئی دودھ والی بکری نہ تھی۔

اُمّ معبد نے کہا واللہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوا کہ ہمارے پاس ایک بابرکت بزرگ گزرے جن کی یہ باتیں تھیں۔ ابو معبد نے کہا کہ میں انہیں قریش کا وہی ساتھی خیال کرتا ہوں جن کی تلاش کی جا رہی ہے۔ اے ام معبد مجھ سے ان کی صفت تو بیان کرو۔

ام معبد نے کہا کہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جن کی صفائی و پاکیزگی بہت صاف اور کھلی ہوئی ہے۔ چہرہ نہایت نورانی ہے اخلاق اچھے ہیں ان میں پیٹ بڑا ہونے کا عیب نہیں ہے نہ ان میں کوتاہ گردن اور چھوٹا سر ہونے کی خرابی ہے۔ وہ حسین و جمیل ہیں آنکھوں میں کافی سیاہی ہے پلک کے بال خوب گھنے ہیں آنکھوں میں بلندی آنکھ میں سیاہی کی جگہ سیاہی خوب تیز ہے اور سفیدی کی جگہ سفیدی بہت تیز ہے۔ بروئیں باریک ہیں اور آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ بالوں کی سیاہی بھی بہت خوب تیز ہے گردن میں بلندی اور داڑھی میں گھٹاپن ہے۔

جب خاموش ہوتے ہیں تو ان پر دقار چھا جاتا ہے اور جب ہنستے ہیں تو حسن کا غلبہ ہوتا ہے۔ گھنگو ایسی گینگنوں کی لڑی

ہوتی ہے جو گر رہے ہوں وہ شیریں گفتار ہیں۔ قول فیصل کہنے والے ہیں ایسے کم گو نہیں جس سے مقصد ادا نہ ہونے فضول گو ہیں دور سے دیکھو تو سب سے زیادہ با رعب و حسین ہیں قریب سے سب سے زیادہ شیریں گفتار و جمیل ہیں۔ ایسے متوسط اندام ہیں تم درازی قد کا عیب نہ لگاؤ گے اور نہ کوئی آنکھ کوتاہی قد ہونے کی وجہ سے انہیں حقیر جانے گی۔ وہ دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ تھے (یعنی دور رفیق ان کے ساتھ اور بھی تھے)۔ دیکھنے میں وہ تینوں میں سب سے زیادہ بارونق اور مقدار میں حسین۔ ان کے رفقاء ایسے تھے جو کہ انہیں گھرے رہتے تھے جب وہ کچھ فرماتے تھے تو لوگ اچھی طرح آپ کا کلام سنتے تھے۔ اگر کوئی حکم دیتے تھے تو سب کے سب ان کے حکم کی طرف دوڑتے تھے وہ مخدوم تھے اور ایسے تھے کہ جن کے پاس خدمت کے لئے لوگ دوڑتے تھے وہ نہ ترش رو تھے نہ زیادہ گوتے۔

ابو معبد نے کہا واللہ یہ تو قریش کے وہی ساتھی تھے جن کا ہم سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ اے اُمّ معبد اگر میں ان کے وقت میں آجاتا تو ضرور درخواست کرتا کہ میں آپ کی صحبت میں رہوں۔ اگر تم اس کا موقع پانا تو ضرور ایسا کرنا۔
مکہ میں شبی آواز:

صبح کے وقت مکہ میں آسمان وزمین کے درمیان ایک آواز ظاہر ہوئی جس کو لوگ سنتے تھے اور آواز والے کو نہیں دیکھتے۔ وہ کہتا تھا:

جزی اللہ رب الناس خیر جزائہ رفیقین حلا خیمۃ ام معبد
”اللہ جو پروردگار ہے تمام لوگوں کی اپنی بہترین جزا دے ان دونوں رفیقوں کو جو ام معبد کے خیموں میں اترے۔“

ہما نولا بالرد ارتحلابہ فافلح من امسی رفیق محمد
”وہ دونوں اس خشکی میں اترے اور وہاں سے چلے بھی گئے جو محمد (ﷺ) کے رفیق وہ کامیاب ہو گئے (یعنی حضرت صدیق (رضی اللہ عنہ)۔“

فیال قصی مازوی اللہ عنکم بہ من فعال لا مجازی و سودہ
”اے قبیلہ قصی تم کو کیا ہو گیا ہے اللہ نے تمہیں ایسے کام اور ایسی سرداری کی توفیق نہیں دی جس کی جزا مل سکے۔“

سلوا اختکم من شاقھا و اناھا فانکم ان تسلوا الشاة تشہد
”اپنی بہن سے ان کی بکری اور برتن میں دودھ بھر جانے کا حال پوچھو اگر تم بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دے گی۔“

دعالھا بشاة حائل فتخلبت لہ بصریح ضرة الشاة زبد
”ایسی بکری تھی جو بالکل دہلی اور بے دودھ کے تھی مگر وہی بکری خالص دودھ دینے لگی جس میں روغن اور کف

بھرا ہوا تھا۔“

فغادرہ رہنا لديها لحالب تدرلینہا فی مصدر ثم مودد

”حضرت نے یہ بکری وہیں چھوڑ دی کہ آنے جانے والے اس کے دودھ سے سیر ہوں۔“

یہ قوم صبح کو اپنے نبی کی تلاش کر رہی تھی، ام مہدی کے خیمے کو گھیر لیا۔ یہاں تک کہ یہ لوگ نبی ﷺ سے جا ملے۔ حسان بن

ثابت بھی حضرت نے اس غیبی آواز کے جواب میں یہ اشعار ذیل کہے تھے

لقد خاب قوم زال عنهم بینہم و قدس من یسری الیہم و یغندی

”وہ قوم نقصان میں رہی جس سے ان کے نبی چلے گئے، اور وہ قوم مقدس ہے جس کی طرف وہ (نبی) صبح و شام چلتے ہیں۔“

ترحل من قوم فزال عقلہم وحل علی قوم بنور مجدد

”ایک قوم سے انہوں نے کوچ کیا تو ان لوگوں کی عقلیں جاتی رہیں، اور ایک دوسری قوم کے پاس تازہ بتا رہے نور کے ساتھ اترے۔“

وہل یستوی ضلال قوم تسلعوا عماً و ہدایا یہتدون بمہتد

”اور کیا وہ گمراہ قوم جنہوں نے وجہ ناپیدائی انکار کیا اور وہ ہدایت پائے والے جو ہدایت یافتہ سے ہدایت پاتے ہیں برابر ہیں؟“

نبی یری ما لا یری الناس حولہ و یتلو کتاب اللہ فی کل مشہد

”وہ ایسے نبی ہیں جو اپنے گرد وہ دیکھتے ہیں جو اور لوگ نہیں دیکھتے اور مشہد میں کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں۔“

فان قال فی یوم مقالة غائب فتصدقہا فی ضحوة الیوم او غد

”اگر وہ دن میں کوئی بات غائب کی سی کہتے ہیں (یعنی پیشگوئی) تو اس کی تصدیق اسی روز دن چڑھے یا دوسرے دن ہو جاتی ہے۔“

لنہن ابابکر سعادة جدہ بصحة من یسعد اللہ یسعد

”ابوبکر کو اپنے نصیب کی سعادت جو بوجہ صحبت آنحضرت ﷺ انہیں حاصل ہوئی مبارک ہو جس کو اللہ سعادت دیتا ہے وہی سعید ہوتا ہے۔“

و یہن بنی کعب مکان فتناتہم و مقعدہا للمسلمین بمرصد

”اور بنی کعب کو بھی اپنی خاتون کا مرتبہ مبارک ہو جن کی نشست گاہ مسلمانوں کی جائے پناہ ہے۔“

عبدالملک نے کہا میں معلوم ہوا کہ ام مہدی نے بھی نبی ﷺ کے پاس ہجرت کی اور اسلام لائیں۔

سراقہ بن مالک رسول اللہ ﷺ کے تعاقب میں:

رسول اللہ ﷺ کی غار سے روانگی شبِ دو شنبہ ۴ ربیع الاول کو ہوئی۔ سہ شنبہ کو قدید میں آپ نے قیلو فرمایا جب وہاں سے روانہ ہوئے تو سراقہ بن مالک بن جحشم نے جو اپنے گھوڑے پر سوار تھے ان لوگوں کو روکا۔ رسول اللہ ﷺ نے انہیں بدو عادی جس سے ان کے گھوڑے کے پاؤں دھنس گئے۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد ﷺ اللہ سے دُعا کیجئے کہ وہ میرے گھوڑے کو رہا کر دے میں آپ کے پاس سے پلٹ جاؤں گا۔ جو لوگ میرے پیچھے (آپ کی تلاش میں) ہیں انہیں بھی واپس کر دوں گا۔ آپ نے دُعا کی اور وہ رہا ہو گیا وہ واپس گئے انہوں نے لوگوں کو رسول اللہ ﷺ کی تلاش میں پایا تو کہا کہ لوٹ چلو میں تمہاری براءت چاہ لوں گا کہ یہاں کوئی نہیں ہے تم لوگ نقش قدم میں میری مہارت کو جانتے ہو وہ سب لوٹ گئے۔

عمیر بن اسحاق سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ روانہ ہوئے اور آپ کے ہمراہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان دونوں حضرات کو سراقہ بن مالک بن جحشم نے روکا تو ان کا گھوڑا دھنس گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ دونوں میرے لئے اللہ سے دُعا کیجئے۔ میں آپ کے لئے یہ کروں گا کہ اب نہ پیچھا کروں گا دونوں نے اللہ سے دُعا کی مگر وہ دوبارہ پلٹے تو ان کا گھوڑا دھنس گیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ سے دُعا کیجئے اور میں آپ کے لئے یہ کروں گا کہ پھر نہ پلٹوں گا دونوں نے اللہ سے دُعا کی انہوں نے دونوں حضرات کے سامنے توشہ اور سواری پیش کی دونوں نے فرمایا کہ ہم کو تمہیں کافی ہو تو انہوں نے کہا میں اس کا بھی آپ کے لئے ذمہ لیتا ہوں۔

(عمود بسوئے حدیث اول)

مقام قبائرشریف آوری:

اور رسول اللہ ﷺ خزار کے درمیان چلے آپ ہدیہ المرہ سے آگے بڑھے ثقف سے چل کر مدینہ لطف سے گزر گئے۔ مدینہ حجاج کے اندر سے گزرے مرجع حجاج میں پہنچے بطن مرجع میں گئے بطن ذات کشد میں پہنچے حد اند کو طے کیا اذخر اور بعد بطن ربیع سے گزر فرمایا وہیں نماز مغرب پڑھی پھر ذی سلم پھر مدینہ کو چھوڑ دیا پھر العنابہ چلے پھر بطن القاحہ سے گزر گئے۔ پھر عررا میں اترے پھر جدادات میں پھر غابر میں رکوبہ کی داہنی طرف سے چلے پھر بطن العقیق میں اترے یہاں تک کہ البجیہ پہنچ گئے فرمایا کہ ہمیں بنی عمرو بن عوف تک جانے کا راستہ کون بتائے گا آپ مدینہ کے قریب نہ تھے پھر آپ انطی کے راستے پر چلے یہاں تک کہ العصبہ پر نکلے۔

مہاجرین رسول اللہ ﷺ کے اپنے پاس تشریف لانے کے منتظر تھے۔ وہ لوگ ظہر حرہ العصبہ تک انصار کے ہمراہ صبح جایا کرتے تھے ون چڑھے تک آپ کی تشریف آوری کے منتظر تھے جب سورج انہیں جلا دیتا تھا تو اپنے اپنے مکانات واپس چلے جاتے تھے جب وہ دن آیا کہ رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور وہ ۲ ربیع الاول روز دو شنبہ تھا اور کہا جاتا ہے کہ بارہویہ ربیع الاول تھی تو لوگ جس طرح انتظار میں بیٹھا کرتے تھے بیٹھ گئے جب سورج کی پیش و تمازت بڑھی تو وہ اپنے اپنے مکانات کو چلے گئے۔

اتفاق سے ایک یہودی اپنے قلعہ پر بلند آواز سے چلا رہا تھا کہ اے بنی قیلہ یہ تمہارے ساتھی (دوست) آگئے۔ سر

لوگ نکلے تو اتفاق سے رسول اللہ ﷺ اور آپ کے بیٹوں اصحاب تھے۔ بنی عمرو بن عوف میں ایک شور اور تکبیر کی آواز سنی گئی، مسلمان ہتھیار باندھنے لگے۔

رسول اللہ ﷺ قبا پہنچ گئے تو آنحضرت ﷺ بیٹھ گئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر لوگوں کو نصیحت کرنے لگے، مسلمان آ کر رسول اللہ ﷺ کو سلام کرنے لگے۔

رسول اللہ ﷺ مکتوم بن الہدم کے پاس اترے اور ہمارے نزدیک یہی درست ہے آپ سعد بن خنمہ کے مکان میں اپنے اصحاب سے باتیں کرتے تھے اس مکان کا نام منزل العراب تھا۔ اسی لئے کہہ دیا گیا کہ رسول اللہ ﷺ سعد بن خنمہ کے پاس اترے۔

انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی ﷺ کے ردیف (اونٹ پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے) تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ملک شام کی آمد و رفت رہا کرتی تھی اس لئے وہ پہچانے جاتے تھے نبی ﷺ کو کوئی نہیں پہچانتا تھا (راستے کے) لوگ کہتے تھے کہ اے ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ لڑکا جو تمہارے آگے (اونٹ پر) ہے کون ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے تھے یہ مجھے راستہ بتاتے ہیں۔

جب یہ دونوں حضرات مدینہ کے قریب آ گئے تو حرہ میں اترے۔ آپ نے انصار کو بلا بھیجا۔ وہ لوگ آئے اور کہا کہ آپ دونوں حضرات امن و اطمینان سے اٹھیے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس روز سے آپ مدینہ میں داخل ہوئے ہیں میں آپ کے پاس حاضر رہا۔ میں نے کبھی کوئی دن اس روز سے جس روز آپ ہمارے پاس تشریف لائے زیادہ نورانی و حسین نہیں دیکھا۔ جس روز آپ کی وفات ہوئی میں آپ کے پاس حاضر تھا اس روز سے زیادہ میں نے کوئی دن برا اور تاریک نہیں دیکھا۔ واری یشرب میں نبی رحمت ﷺ کی تشریف آوری:

ابو وہب مولائے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ (سفر ہجرت) میں اس طرح سوار ہوئے کہ اپنی اونٹنی پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے تھے جب کوئی آدمی انہیں (ابو بکر کو) ملتا تھا تو کہتا تھا کہ آپ کون ہیں؟ وہ کہتے تھے کہ میں طالب ہوں طلب کرتا ہوں۔ وہ کہتا تھا کہ آپ کے پیچھے کون ہیں تو وہ کہتے تھے کہ راستہ بتانے والے ہیں جو مجھے راستہ بتاتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب وہ دن آیا رسول اللہ ﷺ مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینہ میں ہر شے منور و روشن ہو گئی۔

البراء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہجرت کے سفر میں نبی ﷺ مدینہ میں تشریف لائے۔ میں نے اہل مدینہ کو نبی ﷺ سے زیادہ کسی چیز سے خوش ہوتے نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ میں نے عورتوں اور بچوں کو کہتے ہوئے سنا کہ یہ رسول اللہ ﷺ ہیں جو تشریف لے آئے ہیں۔ اہل مدینہ کے لئے خوشی کا دن:

البراء سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے اصحاب میں سے سب پہلے ہمارے پاس مصعب بن عمیر و ابن ام مکتوم آئے

یہ دونوں لوگوں کو قرآن پڑھانے لگے پھر عمار و بلال و سعد آئے اس کے بعد میں اصحاب کے ساتھ عمر بن الخطاب آئے تب رسول اللہ ﷺ تشریف لائے۔

میں نے لوگوں کو کبھی کسی چیز سے اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا جتنا وہ آپ سے خوش ہوئے حتیٰ کہ میں نے غلاموں اور بچوں کو کہتے سنا کہ یہ رسول اللہ ﷺ ہیں جو تشریف لے آئے ہیں حتیٰ کہ میں نے سبوح اسم ربك الاعلیٰ اور مفصل میں سے چند سورتیں پڑھیں (مفصل وہ حصہ قرآن ہے جن کا نماز میں پڑھنا مسنون ہے وہ سورہ حجرات سے آخر تک ہے اس میں بھی تین حصے ہیں طول، اوساط، قصار)۔

بنی نجار کے وفد سے ملاقات:

زرارہ بن ابی اوفی سے مروی ہے عبد اللہ بن سلام نے کہا: جب رسول اللہ ﷺ مدینہ تشریف لائے تو لوگ آپ کی طرف دوڑے کہا جانے لگا کہ رسول اللہ ﷺ تشریف لے آئے ہیں میں بھی لوگوں کے ساتھ گیا تاکہ آپ ﷺ کو دیکھوں۔ جب میں نے رسول اللہ ﷺ کا چہرہ مبارک دیکھا تو ایسا نظر آیا جو کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا سب سے پہلے جو کلام میں نے آپ سے سنا یہ تھا کہ اے لوگو! اسلام کی اشاعت کرو کھانا کھاؤ، قربات داروں کے ساتھ احسان کرو اس وقت نماز پڑھا کرو جب سب لوگ سوتے ہیں اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔

محلہ بنی عمرو میں قیام:

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ تشریف لائے تو مدینے کے بلند حصے کے ایک محلے جو بنی عمرو بن عوف کہلاتا تھا اترے۔ آپ چودہ شب مقیم رہے پھر آپ نے بنی النجار کے ایک گروہ کو بلا بھیجا۔ وہ لوگ اپنی تلواریں لٹکائے ہوئے آئے۔ وہ منظر میری آنکھوں میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے ہم نشین تھے اور بنی النجار کا گروہ آپ کے گرد تھا یہاں تک کہ ابو ایوب کا بیرونی میدان آپ کے دل میں ڈالا گیا۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ اس طرح مدینہ میں تشریف لائے کہ آپ اپنی اونٹنی پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پیچھے بٹھائے ہوئے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بوڑھے اور ان سے جان پہچان تھی رسول اللہ ﷺ جو ان تھے آپ کو کوئی بیچا نہ تھا لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملتے تھے اور کہتے تھے کہ اے ابو بکر یہ کون شخص ہیں جو آپ کے آگے ہیں۔ وہ کہتے یہ مجھے راستہ بتاتے ہیں۔

گمان کرنے والا یہ گمان کرتا تھا کہ آنحضرت ﷺ ان کو زمین کی راہ بتاتے ہیں حالانکہ ان کی مراد صرف راہ کی خیر تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ مزے تو اتفاق سے انہیں ایک سوار نظر آیا جو ان حضرات سے آ ملا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ! یہ سوار ہے جو ہم سے آ ملا ہے۔ نبی ﷺ مزے اور فرمایا کہ اے اللہ اس کو پچھاڑ دے۔ اس کے گھوڑے نے اسے پچھاڑ دیا پھر کھڑا ہو کر جنہاں لگا۔ اس نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! آپ جو چاہیں مجھے حکم دیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنی جگہ رک جاؤ اور ہرگز کسی کو ہم سے نہ ملے دو۔

وہ (سوار) شروع دو پہر میں تو رسول اللہ ﷺ کے خلاف کوشاں تھے اور دو پہر کے آخر میں آپ کے لئے مسلح تھے (کہ

کسی کو آنے نہ دیتے)۔

بارگاہ رسالت میں انصار کی حاضری:

نبی ﷺ الحمرہ کے ایک جانب اترے اور انصار کو بلا بھیجا۔ وہ لوگ نبی ﷺ کے پاس آئے آپ کو اور ابو بکر کو سلام کیا اور کہا کہ آپ دونوں حضرات امن اطمینان سے مخدوم و مطاع بن کر سوار ہو جائیے نبی ﷺ سوار ہوئے انصار نے دونوں حضرات کو ہتھیار سے گھیر لیا۔ مدینہ میں کہا جانے لگا کہ رسول اللہ ﷺ آگئے لوگ نظریں پھاڑ پھاڑ کر رسول اللہ ﷺ کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ رسول اللہ ﷺ آگئے آپ چلتے رہے یہاں تک کہ ابویوب رضی اللہ عنہ کے مکان کے پہلو میں اترے۔

جب عبد اللہ بن سلام نے آپ کی خبر سنی تو آپ اپنے متعلقین سے باتیں کر رہے تھے۔ عبد اللہ بن سلام اپنے متعلقین کے کھجور کے باغ میں ان کے لئے کھجوریں چن رہے تھے وہ جس چیز میں چن رہے تھے انہوں نے اس کے رکھنے میں جلدی کی اور اس (نو کری) کو اپنے ہمراہ لئے ہوئے آئے۔ نبی ﷺ کی بات سنی پھر اپنے متعلقین کے پاس واپس آگئے۔

حضرت ابویوب رضی اللہ عنہ کے لئے شرف میز بانی:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہمارے متعلقین کا کون سا مکان زیادہ قریب ہے۔ ابویوب رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ﷺ یہ مکان میرا ہے اور یہ دروازہ میرا ہے۔ آپ نے کہا کہ جاؤ ہمارے لئے قیلو لے کی جگہ درست کرو وہ گئے اور انہوں نے دونوں حضرات کے لئے قیلو لے کی جگہ ٹھیک کی پھر آئے اور کہا یا رسول اللہ ﷺ! میں نے آپ دونوں حضرات کے لئے قیلو لے کی جگہ ٹھیک کر دی اللہ کی برکت پر اٹھیے اور آرام فرمائیے (عود بسوئے مضمون حدیث اول)۔

اہل علم نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ بنی عمرو بن عوف میں دو شنبہ و سہ شنبہ و چہار شنبہ و پنج شنبہ تک رہے۔ جمعہ کے دن نکلے اور بنی سالم میں آپ نے نماز جمعہ پڑھائی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ بنی عمرو بن عوف میں چودہ شب تک مقیم رہے جمعہ کو آفتاب بلند ہوا تو آپ نے اپنی سواری منگائی مسلمان بھی جمع ہوئے اور ہتھیار پہنے۔

پہلی نماز جمعہ:

رسول اللہ ﷺ اپنی اونٹنی قصواء پر سوار ہوئے۔ لوگ اپنے اور بائیں آپ کے ہمراہ تھے۔ انصار نے آپ کو اس طرح روکا کہ آپ کے گھر پر نہ گزرتے تھے جو یہ نہ کہتے ہوں کہ یا رسول اللہ ﷺ! ادھر قوت و ثروت و حفاظت کے سامان ہیں! تشریف لائیے۔ آپ ان سے کلمہ خیر فرماتے تھے اور ان کے لئے دُعا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس اونٹنی کو منجانب اللہ حکم دیا گیا ہے سب نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ جب آپ مسجد بنی سالم میں آئے تو مسلمانوں کو جو آپ کے ہمراہ تھے نماز جمعہ پڑھائی اور وہ سوئے۔

اہل مدینہ کا اظہار عقیدت:

شرجیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے قبا سے مدینہ منتقل ہونے کا ارادہ کیا تو آپ کو بنی سالم نے روکا آپ کی اونٹنی کی ٹکیل پکڑ لی اور کہا: یا رسول اللہ ﷺ! ادھر کافی تعداد و تیاری اور ہتھیار اور حفاظت میں تشریف لائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا راستہ چھوڑ دو کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔

پھر بنی الحارث بن الخزرج نے آپ کو روکا اور آپ سے اسی طرح کہا۔ آپ نے انہیں اسی طرح جواب دیا۔
بنی عدی نے روکا اور آپ سے اسی طرح کہا۔ آپ نے بھی اسی طرح انہیں جواب دیا یہاں تک کہ وہ وہیں رک گئی
جہاں اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔

(عود بوسے مضمون حدیث اول) رسول اللہ ﷺ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے آپ نے راستے کا داہنا رخ اختیار کیا یہاں
تک کہ آپ بنی الحبلی میں آئے۔ آپ روانہ ہوئے مسجد کو پہنچ گئے (اونٹنی) مسجد رسول اللہ ﷺ کے پاس رک گئی۔ لوگ اپنے اپنے
یہاں اترنے کے بارے میں رسول اللہ ﷺ سے عرض کرنے لگے۔

ابوایوب خالد بن زید بن کلیب آئے انہوں نے آپ کا کجاوہ اتارا اور آپ کو اپنے مکان میں لے گئے رسول اللہ ﷺ
فرمانے لگے کہ آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے۔

اسعد بن زرارہ آئے انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی اونٹنی کی ٹکیل پکڑ لی۔ وہ ان کے یہاں رہی اور یہی درست ہے۔
رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پہلا ہدیہ:

زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر وہ سب سے پہلا ہدیہ جو رسول اللہ ﷺ کے پاس ابوایوب رضی اللہ عنہ کے مکان پر گیا وہ تھا
جو میں نے پہنچایا، ایک بہت بڑا پیالہ شید کا تھا، جس میں روٹی گھی اور دودھ تھا۔

میں نے کہا کہ یہ پیالہ میری والدہ نے بھیجا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں برکت دے۔

آپ ﷺ نے اصحاب کو بلایا، سب نے کھایا، میں دروازے سے بیٹے بھی نہ پایا تھا کہ سعد بن عبادہ کا پیالہ شید اور
گوشت کا آیا، کوئی شب ایسی نہ تھی جس میں رسول اللہ ﷺ کے دروازے پر تین چار آدمی کھانا نہ لاتے ہوں۔ جس کی انہوں نے
باری مقرر کر لی تھی حتیٰ کہ رسول اللہ ﷺ ابوایوب رضی اللہ عنہ کے مکان سے منتقل ہو گئے۔

وہاں آپ کا قیام سات مہینے رہا۔

اہل بیت کی مدینہ تشریف آوری:

رسول اللہ ﷺ نے ابوایوب ہی کے مکان سے زید بن حارثہ و ابورافع کو مکے بھیجا۔ ان دونوں کو دو اونٹ اور پانسو درہم
دیئے۔ یہ دونوں آپ کے پاس فاطمہ بنت رسول اللہ ﷺ ام کلثوم بنت رسول اللہ ﷺ آپ کی زوجہ سودہ رضی اللہ عنہا بنت زمعہ اور
اسامہ بن زید کو آپ کے پاس لائے۔ رقیہ رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ ﷺ کو اس سے قبل ان کے شوہر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ (ملک
حبشہ) ہجرت کرا چکے تھے۔ ابو العاص بن الربیع نے اپنی بیوی زینب رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ ﷺ کو قید کر لیا، زید بن حارثہ نے اپنی
بیوی ام ایمن کو صبح ان کے فرزند اسامہ بن زید کے سوار کر لیا۔ عبد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ بھی ابو بکر کے عیال کو لے کر انہیں لوگوں کے
ہمراہ روانہ ہوئے۔ ان میں عائشہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ چنانچہ یہ سب لوگ مدینے آئے تو آپ ﷺ نے ان سب کو حارثہ بن النعمان
کے مکان پر اتارا۔

مَشَتْ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

رَبِّ انْعَمْتَ عَلَيَّ فَرْدٍ

رسول اللہ ﷺ کے غزوات و سرایا

غزوات النبی ﷺ:

موسیٰ بن عقبہ سے روایت ہے کہ ستائیس غزوات میں رسول اللہ ﷺ نے خود جہاد فرمایا، سینتالیس سرایا بھیجے اور نو غزوات میں اپنے ہاتھ سے قتال فرمایا۔

(۱) بدر (۲) احد (۳) مریسہ (۴) خندق (۵) قرظہ (۶) خیبر (۷) فتح مکہ (۸) حنین (۹) طائف۔ اس تعداد پر اجماع ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے بنی نضیر کے غزوے میں بھی قتال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے آپ کے لئے خصوصیت کے ساتھ نفل قرار دیا تھا۔ خیبر سے واپس آتے ہوئے وادی القریٰ میں بھی قتال فرمایا اور آپ کے بعض اصحاب مقتول ہوئے۔ غابہ میں بھی قتال فرمایا۔

مدینہ تشریف آوری کی صحیح تاریخ:

راویوں کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مکہ سے ہجرت فرمائی ہے تو شنبہ ۱۲ ربیع الاول کو مدینہ تشریف لائے اسی پر اجماع ہے اور بروایت بعض آپ ۲ ربیع الاول کو تشریف لائے۔

سفید جھنڈا:

ماہ رمضان میں ہجرت کے ساتویں مہینے وہ سب سے پہلا علم جو آنحضرت ﷺ نے حمزہ بن عبدالمطلب بن ہشام کو عنایت فرمایا اس کا رنگ سفید تھا ابو محمد کناز بن الحصین الغنوی نے اسے اٹھایا جو حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے حلیف تھے رسول اللہ ﷺ نے تیس مہاجرین کے ساتھ انہیں روانہ فرمایا، بعض کا قول ہے کہ نصف مہاجرین تھے نصف انصار لیکن اجماع اسی پر ہے کہ سب مہاجرین تھے بدر میں انصار کو ساتھ لے کے جب تک آپ نے غزوہ نہیں فرمایا اس وقت تک کسی انصار کو کسی میدان میں نہیں بھیجا۔

انصار نے شرط کر لی تھی کہ اپنے شہر (مدینے) ہی میں کی حفاظت کریں گے۔ ہمارے نزدیک یہی ثابت ہے۔
حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قافلہ قریش سے ٹڈ بھڑ:

حمزہ قافلہ قریش کے روکنے کے لیے روانہ ہوئے یہ قافلہ شام سے آیا تھا اس میں تین سو آدمی تھے، ابو جہل بن ہشام ہمراہ تھا۔

یہ لوگ (یعنی مہاجرین) عیس کی جانب سے سمندر کے ساحل تک پہنچ گئے۔ فریقین کی ٹڈ بھڑ ہوئی یہاں تک کہ سب لڑنے مرنے کے لیے صفیں باندھ لیں۔

مجذی بن عمرو الجہنی جو فریقین کا حلیف تھا۔ کبھی ان لوگوں کی طرف جائے لگا اور کبھی ان لوگوں کی طرف جانے لگا یہاں تک کہ وہ ان کے درمیان حائل ہو گیا۔ حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مدینے واپس ہوئے۔
سریرہ بن الحارث رضی اللہ عنہ:

رسول اللہ ﷺ کی ہجرت کے آٹھویں مہینے شروع شوال میں عبیدہ بن الحارث بن عبدالمطلب بن عبد مناف کا رابع کی جانب وہ سریرہ ہے جس میں لوائے ابیض (علم سفید) ان کے لیے نامزد کیا گیا تھا۔ اس کو مطح بن اثاثہ بن عبدالمطلب بن عبد مناف لیے ہوئے تھے جنہیں رسول اللہ ﷺ نے ساتھ مہاجرین کے ہمراہ بھیجا تھا ان میں کوئی انصاری نہ تھا۔

وہ ابوسفیان بن حرب سے ملے اس کے ہمراہ دو سوال قریش تھے وہ ایک پانی کے مقام پر تھا، جس کا نام احیاء تھا جو جھہ سے دس میل پر رابع کا حصہ ہے (یہ فاصلہ اس صورت میں ہے کہ بائیں ہاتھ کے راستے سے قدید کا ارادہ کیا جائے وہ لوگ صرف اس لیے سیدھے راستے سے پھرے کہ اپنے سواری کے اونٹوں کو چرائیں۔

ان میں تیر اندازی ہوئی انہوں نے تلواریں کھینچیں اور نہ قتال کے لیے صف بستہ ہوئے ان لوگوں کے درمیان تیر اندازی صرف اس لیے ہوئی کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اس روز ایک تیر پھینکا تھا وہ سب سے پہلا تیر تھا جو اسلام میں پھینکا گیا تھا دونوں فریق اپنی اپنی جائے پناہ میں واپس آئے۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ اس جماعت کا سردار عکرمہ بن ابی جہل تھا۔
سریرہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ:

ذی القعدہ میں رسول اللہ ﷺ کے ہجرت کے نویں ماہ کے شروع میں انحرار کی طرف سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا سریرہ

ہوا جس میں لوائے ابیض (علم سفید) ان کے لیے نامزد کیا گیا تھا جسے المقداد بن عمرو البہرانی اٹھائے ہوئے تھے انہیں آپ نے بیس مہاجرین کے ہمراہ بھیجا تھا کہ قافلہ قریش کو روکیں جو ان کی طرف سے گزرے ان سے یہ عہد لے لیا تھا کہ وہ الخرار سے آگے نہ بڑھیں۔ الخرار ان چند کنوؤں کا نام ہے جو الجحفہ سے مکے کی طرف جانے میں الجحفہ کی بائیں جانب خم کے قریب ملتے ہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پیادہ روانہ ہوئے دن کو مکین گاہ میں پوشیدہ ہو جاتے تھے اور رات کو چلتے تھے یہاں تک کہ جب ہمیں پانچویں صبح ہوئی تو قافلے کے متعلق علم ہوا وہ شب ہی کو گزر گیا۔ ہم مدینہ لوٹ آئے۔

غزوہ الالبواء:

آغاز سفر میں ہجرت کے گیا رہویں مہینے رسول اللہ ﷺ کا غزوہ الالبواء ہے آپ کا علم حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے اٹھایا اور وہ سفید تھا۔ آپ نے مدینہ پر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا اور صرف مہاجرین کے ہمراہ روانہ ہوئے جن میں کوئی انصاری نہ تھا۔ آپ قافلہ قریش کو روکنے کے لیے الالبواء پہنچے مگر جنگ کی نوبت نہ آئی، یہی غزوہ وان ہے اور آپ دونوں مقام الالبواء وان پر وارد ہوئے ان دونوں میں چھ میل کا فاصلہ ہے یہ سب سے پہلا غزوہ ہے جسے بہ نفس نفیس آپ نے کیا۔

اسی غزوہ میں آپ نے خشعی بن عمرو الضمری سے جو آپ کے زمانے میں بنی ضمہ کا سردار تھا ان شرائط پر مصالحت فرمائی کہ نہ آپ بنی ضمہ سے جنگ کریں گے اور نہ وہ آپ سے لڑیں گے نہ آپ کے خلاف لشکر جمع کریں گے اور نہ دشمن کو مدد دیں گے آپ کے اور ان کے درمیان ایک عہد نامہ تحریر کیا گیا (اور ضمہ بنی کنانہ میں سے ہیں) پھر رسول اللہ ﷺ مدینے کی جانب مراجعت فرما ہوئے اس طرح آپ پندرہ روز سفر میں رہے۔

کثیر بن عبد اللہ الحمزنی اپنے باپ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ الالبواء کے سب سے پہلے غزوہ میں جہاد کیا۔

غزوہ بواط:

ہجرت کے تیرھویں مہینے شروع ربیع الاول میں رسول اللہ ﷺ کا غزوہ بواط ہے آپ کا جھنڈا سفید تھا۔ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ لیے ہوئے تھے آنحضرت ﷺ نے مدینے میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا اور دو اصحاب کے ہمراہ اس قافلہ قریش کو روکنے کے لیے نکلے جس میں امیہ بن خلف الجحفی کے ساتھ سو آدمی قریش کے اور ڈھائی ہزار اونٹ تھے۔

آپ بواط پہنچے یہ جگہ جہینہ کے پہاڑی سلسلہ میں علاقہ رضوی اور شام کے راستے کے متصل ذی خب کے قریب ہے بواط اور مدینے کے درمیان تقریباً چار برد (اڑتالیس میل) کا فاصلہ تھا۔ رسول اللہ ﷺ کو جنگ کی نوبت نہ آئی اور آپ مدینے مراجعت فرما ہوئے۔

کرز بن جابر الفہری کی تلاش کے لئے غزوہ

اسی ماہ ربیع الاول کے شروع میں رسول اللہ ﷺ کا کرز بن جابر الفہری کی تلاش میں غزوہ ہے۔ آپ کا جھنڈا سفید تھا جو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اٹھایا تھا مدینے میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا۔

کرز بن جابر نے مدینے کی چراگاہ کو لوٹا تھا اور جانوروں کو ہنکالے گیا تھا، وہ اپنے جانور الجماء میں چراتا تھا، مدینے کی چراگاہ ایک جگہ تھی جہاں لوگ اپنے جانور چراتے تھے، الجماء ایک پہاڑ ہے جو العقیق کے علاقے سے الجرف تک پھیلا ہے اس کے اور مدینے کے درمیان تین میل کا فاصلہ ہے۔

رسول اللہ ﷺ اسے تلاش کرتے ہوئے اس وادی میں پہنچے جس کا نام سفوان تھا جو بدر کے نواح میں ہے، کرز بن جابر اس وادی سے چلا گیا تھا آپ اس سے نہ ملے اور مدینے میں تشریف لائے۔

غزوہ ذی العشرہ:

جمادی الآخر میں ہجرت کے سواہویں مہینے رسول اللہ ﷺ کا غزوہ ذی العشرہ ہوا، علم نبوی جو سفید تھا حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے اٹھایا آپ نے مدینے میں ابوسلمہ بن عبد الاسد المخزومی کو اپنا جانشین بنایا اور ڈیڑھ سو یا بروایت دیگر دو سو مہاجرین کے ساتھ روانہ ہوئے آپ نے ہمراہ چلنے کے لیے کسی پر جبر نہیں کیا، کل تیس اونٹ تھے جن پر لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔

قافلہ قریش نے جب سفر شام شروع کیا تو آپ اسے روکنے کے لیے نکلے آپ کے پاس مکہ سے قافلہ روانہ ہونے کی خبر آئی تھی کہ اس میں قریش کا مال لدا تھا۔ آپ ذی العشرہ پہنچے جو یثرب کے علاقے میں بنی مدج اور یثرب اور مدینے کے درمیان نو برد (۱۰۸ میل) کا فاصلہ ہے اس قافلہ کے متعلق جس کے لیے آپ نکلے تھے معلوم ہوا کہ چند روز قبل جاچکا تھا یہ وہی قافلہ تھا کہ جب شام سے لوٹا تو آپ اس کے ارادہ سے نکلے مگر وہ سمندر کے کنارہ سے نکل گیا، قریش کو اس کی خبر پہنچی تو وہ اس کی حفاظت کے لیے روانہ ہوئے۔ رسول اللہ ﷺ سے بدر میں ملے آپ نے ان پر حملہ کیا اور جسے قتل ہونا تھا وہ قتل ہوئے۔

ذی العشرہ میں رسول اللہ ﷺ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی کثیت ابوتراب مقرر فرمائی یہ اس لیے کہ آپ نے انہیں اس طور پر سوتا ہوا دیکھا کہ وہ غبار آلود ہیں آپ نے فرمایا کہ اے ابوتراب بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ گئے اسی غزوہ میں آپ نے بنی مدج اور ان کے ان خلفاء سے جو بنی ضمرہ میں تھے صلح فرمائی تھی پھر آپ مدینے کی طرف واپس ہوئے اور جنگ کی نوبت نہیں آئی۔

سریہ عبد اللہ بن جحش الاسدی رضی اللہ عنہ:

ماہ رجب میں رسول اللہ ﷺ کے ہجرت کے سترھویں مہینے کے شروع میں نخلہ کی جانب عبد اللہ بن جحش الاسدی رضی اللہ عنہ کا سریہ ہوا۔ انہیں آپ نے بارہ مہاجرین کے ہمراہ بطن نخلہ کو روانہ کیا جن میں سے ہردو کے قبضے میں ایک اونٹ تھا نخلہ ابن عامر کا

وہ باغ ہے جو کے کے قریب ہے انہیں حکم دیا کہ وہ قافلہ قریش کی گھات میں رہیں وہ قافلہ ان کے پاس اترا اہل قافلہ کو ان سے ہیبت معلوم ہوئی اور ان کی حالت انوکھی نظر آئی۔

عکاشہ بن محسن الاسدی نے سرمنڈایا جس کو عامر بن ربیعہ نے موٹا اتا کہ قوم مطمئن ہو جائے وہ مطمئن ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ لوگ ہمیں کے رہنے والے ہیں ان سے کوئی خوف نہیں انہوں نے اپنی سواری کے جانور (چرانے کے لیے) چھوڑ دیئے اور کھانا تیار کیا اس روز کے متعلق انہوں نے یہ شک کیا کہ آیا ماہ حرام میں سے ہے یا نہیں پھر انہوں نے جرأت کی اور ان سے قتال کیا۔

واقہ بن عبد اللہ التیمی مسلمانوں کے پاس آنے کے لیے نکلے تو اسے عمرو بن الحضرمی نے تیر مارا اور قتل کر دیا مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا عثمان بن عبد اللہ بن المغیرہ اور الحکم بن کیسان تو گرفتار ہوئے نوفل بن عبد اللہ بن المغیرہ ان سے فوج کے نکل گیا اور قافلے کو لے کر بھاگا اس میں شراب اور چمڑے اور کشمش تھی جسے وہ طائف سے لائے تھے۔

وہ لوگ ان سب چیزوں کو رسول اللہ ﷺ کے سامنے لائے تو آپ نے اسے رکھوا دیا اور دونوں قیدیوں کو قید کر دیا جس شخص نے الحکم بن کیسان کو قید کیا وہ المقداد بن عمرو تھے رسول اللہ ﷺ نے اسے (الحکم کو) اسلام کی دعوت دی وہ اسلام لائے اور بیر معونہ میں شہادت پائی۔

اس سریہ میں سعد بن ابی وقاص، عتبہ بن غزوہ ان جی، اہل غزوہ کے اونٹ پران کے ہم نشین تھے اونٹ راستہ بھول کر بحر ان چلا گیا جو معدن بنی سلیم کے علاقے میں ہے وہ دونوں دوروز تک اس کی تلاش میں اس مقام پر ٹھہرے رہے اور ان کے ساتھی محلہ چلے گئے سعد و عتبہ جی، اہل غزوہ اس وقت حاضر خدمت نہ ہوئے اور چند روز بعد آ گئے۔

کہا جاتا ہے کہ عبد اللہ بن جحش جی، اہل غزوہ جب نخلہ سے لوٹے تو آپ نے مال غنیمت کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا تمام مال غنیمت کو اصحاب میں تقسیم کر دیا یہ پہلا خیمہ (پانچواں حصہ) تھا جو اسلام میں معین کیا گیا۔

کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نخلہ کے مال غنیمت کو دو کا یہاں تک کہ آپ بدر سے واپس آئے پھر آپ نے اسے بدر کے مال غنیمت کے ساتھ تقسیم کر دیا اور ہر جماعت کو اس کا حق دے دیا۔ اسی سریہ میں عبد اللہ بن جحش جی، اہل غزوہ کا نام امیر المومنین رکھا گیا۔

غزوہ بدر:

اب رسول اللہ ﷺ کا غزوہ بدر القتال ہے اسے بدر کبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔

تجارتی قافلہ کا تعاقب:

راویوں کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ خفیہ طور پر اس قافلہ کی واپسی کے منتظر تھے جو ملک شام گیا تھا۔ پہلے بھی آپ نے اس کا ارادہ فرمایا تھا یہاں تک کہ آپ ذی العشرہ پہنچے تھے آپ نے طلحہ بن عبید اللہ التیمی اور سعید بن زید بن عمرو بن نفیل کو قافلہ کی خبر دریافت کرنے کے لیے بھیجا وہ دونوں التجار پہنچے جو الحوراء کے علاقے سے ہے اور کشد الجہنی کے پاس اترے اس

نے ان دونوں کو پناہ دی اور ان کی مہمانداری کی (قافلے کا حال ان سے پوشیدہ رکھا، یہاں تک کہ قافلہ گزر گیا، طلحہ وسعید دونوں روانہ ہوئے، ہمراہ کشف بھی محافظ بن کر چلا۔ جب یہ لوگ ذوالہرہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ قافلہ سمندر کے کنارے کنارے تیزی سے نکل گیا۔

طلحہ وسعید مدینے آئے کہ رسول اللہ ﷺ کو قافلہ کی خبر دیں مگر انہیں معلوم ہوا کہ آپ روانہ ہو گئے آپ نے مسلمانوں کو اپنے ہمراہ روانہ ہونے کی دعوت دی اور فرمایا۔ یہ قریش کا وہ قافلہ ہے جس میں ان کا مال و اسباب ہے شاید اللہ تعالیٰ اسے تم کو غنیمت میں دے دے جو جلدی کر سکا اس نے اس کی طرف جلدی کی اور بہت سے آدمیوں نے اس سے دیر کر دی۔ جو لوگ پیچھے رہ گئے انہیں بھی ملامت نہ کی گئی کیونکہ وہ قتال کے لیے نہیں روانہ ہوئے تھے بلکہ قافلہ کے لیے روانہ ہوئے تھے۔

اسلامی لشکر کی روانگی:

رسول اللہ ﷺ ہجرت کے انیسویں ماہ کے شروع ۱۲ رمضان یوم شنبہ کو مدینے سے روانہ ہوئے یہ روانگی طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید کے روانہ کرنے کے دس دن بعد ہوئی مہاجرین میں سے تو آپ کے ہمراہ جو روانہ ہوئے انصار بھی اس غزوہ میں ہمراہ تھے حالانکہ اس سے قبل ان میں سے کسی نے جہاد نہ کیا تھا۔

اصحاب بدر رضوان اللہ علیہم اجمعین:

رسول اللہ ﷺ نے اپنا لشکر بیرابی عبہ پر قائم کیا جو مدینے سے ایک میل کے فاصلے پر ہے آپ نے اپنے اصحاب کو ملاحظہ فرمایا اور اسے واپس کر دیا جسے آپ نے چھوٹا سمجھا آپ تین سو پانچ آدمیوں کے ہمراہ روانہ ہوئے جن میں ۷۲ مہاجرین تھے اور بقیہ ۲۰۱ انصار۔

آٹھ آدمی وہ تھے جو کسی سبب سے پیچھے رہ گئے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کا حصہ و اجر مقرر فرمایا۔ وہ تین مہاجرین میں سے تھے:

۱۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ ﷺ نے ان کی بیوی رقیہ بنت رسول اللہ ﷺ کی تیمارداری کے لیے چھوڑ دیا کہ وہ بیمار تھیں وہ ان کے پاس مقیم رہے یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی۔

۲۔ طلحہ بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ اور

۳۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ جنہیں رسول اللہ ﷺ نے قافلہ کی خبر دریافت کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ پانچ انصار میں سے تھے:

۱۔ ابولبابہ بن المنذر رضی اللہ عنہ جن کو آپ نے مدینے میں اپنا خلیفہ بنایا۔

۲۔ عاصم بن عدی العجلانی رضی اللہ عنہ جن کو آپ نے اہل عالیہ پر خلیفہ بنایا۔

۳۔ الحارث بن حاطب العمری رضی اللہ عنہ جن کو آپ نے بنی عمرو بن عوف کے پاس کسی بات کی وجہ سے جو ان کی طرف سے ہوئی

الروحاء سے واپس کر دیا۔

۴۔ الحارث بن حاطب رضی اللہ عنہ جو الروحاء میں تھک گئے تھے۔ اور

۵۔ خوات بن جیبہ رضی اللہ عنہ یہ بھی تھک گئے تھے۔

یہ آٹھ آدمی ہیں جن کے بارے میں ہمارے نزدیک کوئی اختلاف نہیں ہے اور سب کے سب مستحق اجر ہیں۔

اونٹوں میں ستر اونٹ تھے جن پر باری باری سفر ہوتا تھا، گھوڑے صرف دو تھے ایک مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ کا اور ایک مرثد

بن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ کا۔

دُشمن کی جاسوسی کا انتظام:

رسول اللہ ﷺ نے اپنے آگے دو جاسوسوں کو مشرکین کی طرف روانہ کر دیا تھا کہ آپ کے پاس دشمن کی خبر لائیں
وسیس بن عمرو اور عدی بن ابی الرغباء تھے جو جہینہ میں سے تھے اور انصار کے حلیف تھے دونوں چاہہ بدر تک پہنچے خبر معلوم کی اور
رسول اللہ ﷺ کے پاس لوٹ گئے۔

مشرکین کے تجارتی قافلہ کی حالت:

مشرکین کو شام میں یہ خبر پہنچی تھی کہ رسول اللہ ﷺ ان کی واپسی کی گھات میں ہیں وہ لوگ جب شام سے روانہ ہوئے تو
ضمضم بن عمرو کو قریش مکہ کے پاس روانہ کر کے انہیں اس بات کی خبر دی اور حکم دیا کہ وہ نکل کر قافلہ کی حفاظت کریں۔
مشرکین مکہ سے تیزی کے ساتھ روانہ ہوئے ان کے ساتھ غلام اور دف تھے ابوسفیان بن حرب قافلہ کو لایا۔ جب وہ
مدینہ کے قریب پہنچا تو وہ لوگ خوف زدہ تھے اور ضمضم اپنی قوم (قریش) کی تاخیر کو محسوس کر رہے تھے۔

خوف و ہراس کے اسی عالم میں قافلہ بدر پہنچا اور وہاں منزل کی ابوسفیان نے مجدی بن عمرو سے پوچھا۔ محمدؐ کے جاسوس تو
کہیں نظر نہیں پڑے؟ کیونکہ مکہ کا کوئی قریشی مرد و عورت ایسا نہیں ہے جس کے پاس نصف اوقیا یا زیادہ مال رہا ہو اور اس نے
ہمارے ساتھ روانہ نہ کر دیا ہو۔

مجدی نے کہا کہ بخدا میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا جسے میں اجنبی سمجھتا سوائے ان دو سواروں کے جو اس مکان تک آئے
تھے اس نے عدی ووسیس کے اونٹ کی نشست کی طرف اشارہ کیا ابوسفیان آیا دونوں اونٹوں کی چند میٹگنیاں لے کر توڑیں، کھجور کی
گٹھلی نکلی تو کہا کہ یہ مدینہ کا چارہ ہے یہ محمدؐ کے جاسوس تھے۔

اس نے قافلہ کے سربراہ آردہ لوگوں کو غیرت دلائی اور سمندر کے کنارے سے لے کے چلا بدر کو بانیں جانب چھوڑ کر
تیزی کے ساتھ بھاگ گیا، قریش مکہ سے آگئے تو ابوسفیان بن حرب نے ان کے پاس قیس بن امری القیس کو بھیج کر خبر دی کہ
قافلہ بچ گیا، لوگ واپس چلے جائیں گے، مگر قریش نے واپس ہونے سے انکار کیا اور غلاموں کو جھگڑے سے واپس کر دیا۔

ابوسفیان کا اظہار افسوس:

قاصد ابوسفیان سے الہدہ میں ملا جو مکہ سے بانیں جانب کے راستے پر عسکان سے سات میل پر ہے۔ جہاں بنو ضمرہ اور

کچھ خزانہ کے لوگ ہیں اس (قاصد) نے اسے (ابوسفیان کو) قریش کے گزرنے کی خبر دی (تو نہایت افسوس کے ساتھ کہا) کہ ہائے قوم یہ عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل کا فعل ہے اور کہا کہ بخدا ہم اس وقت تک نہ جائیں گے جب تک بدر میں نہ اتر لیں۔
مقام بدر:

بدر زمانہ جاہلیت کے تماشا گاہوں میں سے ایک تماشا گاہ تھا جہاں عرب جمع ہوتے تھے۔ یہاں ایک بازار تھا بدر اور مدینے کے درمیان اٹھانوے میل کا فاصلہ تھا وہ راستہ جس پر رسول اللہ ﷺ بدر کی طرف روانہ ہوئے الروحاء کا تھا مدینہ اور الروحاء کے درمیان چار روز کا راستہ تھا پھر وہاں سے المنصرف تک بارہ میل کا ذات اجڈال تک بارہ میل کا پھر المعلات تک جو السلم کا سیلابی میدان ہے بارہ میل کا۔ وہاں سے الاشیل تک بارہ میل پھر بدر تک دو میل کا فاصلہ تھا۔
فرات بن حیان العجلی:

قریش نے فرات بن حیان العجلی کو جو اس وقت مکے میں مقیم تھا جب قریش نے مکہ چھوڑا۔ ابوسفیان کے پاس بھیجا تا کہ وہ اسے روانہ ہونے اور مکہ چھوڑنے کی خبر دے مگر اس نے ابوسفیان کے خلاف راستہ اختیار کیا وہ جھم میں مشرکین کے پاس پہنچ گیا اور ان کے ہمراہ روانہ ہو گیا۔ بدر کے دن اسے متعدد زخم لگے اور وہ پچھلے پاؤں بھاگ گیا۔
بنی زہرہ کی مقام جھم سے واپسی:

بنی زہرہ جھم سے پلٹ گئے اس کا مشورہ انہیں الاضہ بن شریف النقی نے دیا جو ان کا حلیف تھا اور ان میں اس کی بات مانی جاتی تھی اس کا نام ابی تھا مگر جب اس نے بنی زہرہ کو لوٹا دیا تو کہا گیا ضہ بنم (اس نے انہیں پیچھے کر دیا) اسی وجہ سے اس کا نام الاضہ ہو گیا اس روز بنی زہرہ سو آدمی تھے، بعض نے کہا بلکہ تین سو آدمی تھے۔
بنی عدی کا جنگ سے کنارہ کشی کرنا:

بنی عدی بن کعب جنگی جماعت کے ساتھ تھے مگر جب وہ غنیہ لغت پہنچے تو صبح کے وقت مکہ کا رخ کر کے کنارہ سمندر کی طرف پھر گئے۔ اتفاقاً ابوسفیان بن حرب ان سے ملا اور کہا کہ اے بنی عدی تم کیسے پلٹ آئے نہ تو قافلے میں نہ جنگی جماعت میں؟ انہوں نے جواب دیا کہ تو نے قریش کو کہلا بھیجا تھا کہ وہ پلٹ جائیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ (ابوسفیان) ان سے مرالظہر ان میں ملا۔

بنی زہرہ اور بنی عدی کے مشرکین میں سے کوئی شخص بدر میں حاضر نہیں ہوا۔

انصار کے قابل رشک جذبات:

رسول اللہ ﷺ روانہ ہوئے جب بدر کے قریب پہنچے تو قریش کی روانگی کی خبر آئی۔ رسول اللہ ﷺ نے اصحاب کو اس سے آگاہ کیا اور ان سے مشورہ لیا، المقداد بن عمرو البہرانی نے عرض کیا کہ تم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا اگر آپ ہمیں برک الغماد (مقام) تک لے جائیں گے تو ہم ضرور آپ کے ساتھ چلیں گے یہاں تک کہ وہاں پہنچ جائیں۔
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے مشورہ دو آپ کی مراد صرف انصار سے تھی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض

کیا میں انصار کی طرف سے جواب دیتا ہوں یا رسول اللہ شاید آپ کی مراد ہم سے ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، عرض کیا: اے اللہ کے نبی آپ نے جو کچھ قصد فرمایا ہے اسے جاری رکھیے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا اگر آپ اس سمندر میں پیش قدمی کرنا چاہیں گے اور اس میں داخل ہوں گے تو ہم بھی ضرور اس طرح آپ کے ساتھ داخل ہوں گے کہ ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ کی برکت کے ساتھ چلو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے: بخدا میں قوم کے بچھڑنے کے مقامات دیکھ رہا ہوں۔

پرچم اسلام:

اس روز رسول اللہ ﷺ نے متعدد جھنڈے تازہ فرمائے۔ رسول اللہ ﷺ کا جھنڈا سب سے بڑا تھا مہاجرین کا جھنڈا مصعب بن عمیر کے ساتھ تھا قبیلہ خزرج کا جھنڈا الحباب بن المندر کے ساتھ اور قبیلہ اوس کا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے مہاجرین کا شمار (نشان شناخت) ”یا نبی عبد الرحمن“ خزرج کا ”یا نبی عبد اللہ“ اور اوس کا ”یا نبی عبد اللہ“ مقرر فرمایا کہا جاتا ہے کہ تمام مسلمانوں کا اس روز یا منصور امت تھا۔ مشرکین کے ہمراہ بھی تین جھنڈے تھے ایک جھنڈا ابو عزیز بن عمیر کے ساتھ ایک النضر بن الحارث کے ساتھ اور ایک طلحہ بن ابی طلحہ کے ساتھ تھا۔ یہ سب بنی عبدالدار میں سے تھے۔

اسلامی لشکر کی بدر میں آمد:

رسول اللہ ﷺ شب جمعہ ۷ ارمضان کو بدر کے قریب اترے، مشرکین کی خبر دریافت کرنے کے لیے علی اور زبیر اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم کو چاہہ بدر پر بھیجا، ان لوگوں کو قریش کی پانی بھرنے والی جماعت ملی جن میں ان کے پانی پلانے والے بھی تھے ان لوگوں نے اس جماعت کو گرفتار کر لیا۔ کفار کی تعداد جاننے کا نبوی انداز:

قریش کو جب اس کی خبر پہنچی تو لشکر گھبرا گیا، ان پانی پلانے والوں کو رسول اللہ ﷺ کے پاس لایا گیا تو آپ نے دریافت فرمایا کہ قریش کہاں ہیں انہوں نے جواب دیا کہ اس ٹیلے کے پیچھے جسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کتنے ہیں انہوں نے کہا بہت ہیں آپ نے فرمایا وہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک دن نو اور ایک دن دس آپ نے فرمایا کہ وہ ہزار اور نو سو کے درمیان ہیں اور نو سو پچاس آدمی تھے اور ان کے گھوڑے سو تھے۔

حباب بن المندر کا مشورہ اور تائید آسمانی:

حباب بن المندر نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ یہ مقام جہاں آپ ہیں منزل نہیں ہے آپ ہمارے ساتھ ایسے مقام پر تشریف لے چلے جہاں پانی قوم کے قریب ہو۔ مجھے اس جگہ کا اور وہاں کے کنوؤں کا علم ہے اس میں ایک کنواں ہے جس کے پانی کی شیرینی میں جانتا ہوں جو لوٹتا نہیں، ہم اس پر حوض بنالیں گے، خود سیراب ہوں گے قتال کریں گے اور اس کے سوا باقی

کنوؤں کو پاٹ دیں گے۔

بدر میں بارش:

رسول اللہ ﷺ کے پاس جبریل آئے اور عرض کیا رائے یہی ہے جس کا حباب نے مشورہ دیا ہے رسول اللہ ﷺ اٹھ کھڑے ہوئے اور یہی کیا مگر وہ وادی (میدان کی زمین) پولی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابر کو بھیجا جس نے اسے ترک کر دیا۔ مسلمان چلنے سے نہ زکے مشرکین کے یہاں اس قدر بارش ہوئی کہ وہ چلنے کے قابل نہ رہے حالانکہ ان کے درمیان صرف ایک ریت کا ٹیلہ تھا اس شب کو مسلمانوں پر غنودگی طاری ہو گئی۔

خیمرہ نبویؐ:

رسول اللہ ﷺ کے لیے کھجور کی لکڑی کا سا تہان بنا دیا گیا نبی ﷺ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما اس میں داخل ہو گئے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اس سا تہان کے دروازے پر تلواریں لٹکا کر کھڑے ہو گئے۔

لشکر اسلام کی صف بندی:

صبح ہوئی تو قبل اس کے کہ قریش نازل ہوں آپؐ نے اصحاب کو صف بستہ کر دیا۔ رسول اللہ ﷺ اپنے اصحاب کو صف بستہ اور برابر کر رہے تھے کہ قریش نکل آئے آپؐ انہیں تیر کی طرح سیدھا کر رہے تھے۔ اس روز آپؐ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس سے آپؐ ایک طرف اشارہ کرتے تھے کہ آگے بڑھ اور دوسری طرف اشارہ کرتے تھے کہ پیچھے ہٹ یہاں تک کہ وہ سب برابر ہو گئے۔

فرشتوں کی آمد:

ایک ایسی تیز ہوا آئی جس کی سی شدت ان لوگوں نے نہ دیکھی تھی وہ چلی گئی۔ اور ایک دوسری ہوا آئی وہ بھی چلی گئی۔ اور ایک ہوا آئی پہلی ہوا میں جبریل علیہ السلام ایک ہزار لشکر ملائکہ کے ہمراہ رسول اللہ ﷺ کی ہمراہی کے لیے تھے دوسری طرف ہوا میں میکائیل علیہ السلام ایک ہزار ملائکہ کے ہمراہ رسول اللہ ﷺ کے مہینہ (لشکر کے وہی بازو) کے لیے تھے۔

ملائکہ کی علامت وہ عمامے تھے جن کے سرے وہ اپنے دونوں شانوں کے درمیان لٹکائے ہوئے تھے اور ہنر و سرخ و زرد سرخ نور کے تھے۔ ان کے گھوڑوں کی پیشانیوں میں بال تھے رسول اللہ ﷺ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ ملائکہ نے نشان جنگ لگالیا۔ لہذا تم بھی نشان جنگ لگالو۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنی زرہ و خود میں نشان لگایا۔ بدر کے دن ملائکہ اہل گھوڑوں پر سوار تھے۔ عمیر بن وہب اور حکیم بن حزام کا قریش کو مشورہ:

راوی نے کہا کہ جب (مسلمانوں کی جماعت مطمئن ہو گئی تو مشرکین نے عمیر بن وہبؓ کو بھیجا جو تیر والا تھا اس سے کہا کہ محمدؐ اور ان کے اصحاب کا اندازہ کرو وہ وادی (میدان) میں گیا پھر لوٹا اور کہا۔

نہ تو ان کے لیے مدد (امدادی فوج) ہے اور نہ کمین (پوشیدہ لشکر) پوری قوم تین سو ہیں اگر زیادہ ہوں گے تو بہت کم زیادہ ہوں گے ان کے ہمراہ سزاؤں اور دو گھوڑے ہیں اے گروہ قریش مصائبِ حاصلِ موت ہیں (یعنی مسلمانوں کی کم تعدادی

ان کے لیے باعث ہلاکت نہ ہوگی) یثرب کے سیراب کرنے والے اونٹ قاتل موت کے حامل ہیں وہ ایک سی جماعت ہے کہ سوائے ان کی تلواروں کے نہ کوئی محافظ ہے اور نہ کوئی جائے پناہ ہے کیا تم انہیں دیکھتے نہیں کہ وہ لوگ اس طرح خاموش ہیں کہ کلام نہیں کرتے جو یہ پھن والے سانپوں کی طرح زبانیں نکالتے ہیں خدا کی قسم میں تو نہیں سمجھتا کہ تم ان کا کوئی آدمی قتل کرو بغیر اس کے کہ ہمارا کوئی آدمی قتل کر دیا جائے۔ جب وہ تم سے اپنے شمار کے مطابق پہنچ جائیں گے تو اس کے بعد جینے کا مزہ نہیں۔ لہذا اپنے معاملہ میں غور کرو۔

اس نے حکیم بن حزام سے گفتگو کی، لوگوں کے پاس گیا اور شبیبہ اور عتبہ کے پاس آیا۔ جو ان کی جماعت میں بڑے محتاط اور رعب والے تھے انہوں نے لوگوں کو واپس ہونے کا مشورہ دیا۔

ابو جہل کا جوش:

عتبہ نے کہا کہ میری نصیحت کو رد نہ کرو اور نہ میری رائے کو نادانی پر محمول کرو۔ مگر ابو جہل نے جب اس کا کلام سنا تو اس پر حسد کیا اور اس کی رائے کو غلط قرار دیا۔ اس نے لوگوں کے درمیان اختلاف کر دیا اور عامر بن الحضرمی کو اس نے یہ حکم دیا کہ اپنے بھائی عمر کے نام سے واویلا کرے جو نخلہ میں قتل کر دیا گیا تھا عامر سامنے آیا اور اس نے اپنے حصہ زمیں پر خاک ڈالی اور وائے عمر ”دائے عمر“ چیخنے لگا۔ اس سے اس کا مقصد عتبہ کو رسوا کرنا تھا کیونکہ قریش میں وہی اس کا حلیف تھا۔

عمیر بن وہب آیا، اس نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، مگر مسلمان اپنی صفوں میں ثابت قدم رہے اور اپنی جگہ سے ہٹے نہیں اس پر عامر بن الحضرمی نے بھی حملہ کر دیا اور جنگ چھڑ گئی۔

پہلا قتل:

مسلمانوں میں جو سب سے پہلے نکلا وہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام مجمع تھے۔ انہیں عامر بن الحضرمی نے قتل کر دیا، انصار میں جو سب سے پہلے قتل کیا گیا وہ حارث بن سراقہ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں حبان بن العرقہ نے قتل کیا کہا گیا کہ ان کو عمیر بن الحما م نے قتل کیا جسے خالد بن العلم العقلی نے مار ڈالا۔

شبیبہ و عتبہ کی مبارزت طلبی:

ربیعہ کے دونوں بیٹے شبیبہ و عتبہ اور الولید بن عتبہ نکلے انہوں نے مقابلہ کی دعوت دی تو قبیلہ بنی الحارث کے تین انصاری معاذ اور معوذ اور عوف جو عفراء کے فرزند تھے ان کی طرف نکلے، مگر رسول اللہ ﷺ نے یہ ناپسند فرمایا کہ سب سے پہلا قتال جس میں مسلمان مشرکین سے مقابلہ کریں انصار میں ہو آپ نے یہ پسند فرمایا آپ کے چچا اور آپ کے قوم کے ذریعے سے شوکت ظاہر ہو آپ نے انہیں حکم دیا تو وہ لوگ اپنی صفوں میں واپس آ گئے اور آپ نے ان کے لیے کلمہ خیر فرمایا۔

مشرکین نے پکار کر کہا اے محمدؐ ان مقابلہ کرنے والوں کو ہماری طرف روانہ کرو جو ہماری قوم میں سے ہوں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے بنی ہاشم کھڑے ہو اور اس حق کے ساتھ قتال کرو جس کے ساتھ اللہ نے تمہارے نبی کو مبعوث کیا کیونکہ وہ اپنے باطل کو لائے ہیں تاکہ اللہ کے نور کو گل کر دیں۔

حزہ بن عبد المطلب، علی بن ابی طالب اور عبیدہ بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف رضی اللہ عنہم کھڑے ہوئے۔ اور عتبہ کی طرف بڑھے تو عتبہ نے کہا کچھ بات کرو تا کہ ہم تمہیں پہچان لیں وہ خود پہنے تھے (اس لیے پہچانے نہ جاسکے)۔

حزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں حمزہ ہوں جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا شیر ہے تو عتبہ نے کہا اچھا مقابل ہے، علی بن ابی طالب اور عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہما نے کہا اور میں ان دونوں (شیبہ ولید) کے حلیفوں کا شیر ہوں جو تیرے ساتھ ہیں اس نے کہا دونوں اچھے مقابل ہیں۔

اس نے اپنے بیٹے ولید سے کہا کہ اے ولید اٹھ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس کے سامنے آئے اور دونوں میں تلوار چلنے لگی، علی رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ عتبہ کھڑا ہوا اور اس کی طرف حمزہ رضی اللہ عنہ بڑھے دونوں نے تلوار چلائی، حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کر دیا، شیبہ اٹھا اور اس کے مقابلہ میں عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے جو اس روز رسول اللہ ﷺ کے اصحاب میں سب سے زیادہ سن رسیدہ تھے، شیبہ نے عبیدہ کے پاؤں پر تلوار کا کنارہ مارا جو ان کی پنڈلی کی مچھلی میں لگا۔ اور اسے کاٹ دیا۔

حمزہ رضی اللہ عنہ نے شیبہ پر حملہ کیا اور اسے ان دونوں نے قتل کر دیا انہیں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی:

﴿هَذَا نَصْرُ اللَّهِ وَاللَّهُ مَكْرُمٌ﴾ (یہ دونوں فریق ہیں (یعنی مسلمین و مشرکین) جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑا کیا) اور انہیں کے بارے میں سورہ انفال یا اس کا اکثر حصہ ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى﴾ (یعنی یوم بدر) جس روز ہم سخت پکڑ کریں گے، جس روز سے مراد بدر کا دن ہے ﴿وَعَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ﴾ (سخت دن کا عذاب) ﴿وَسَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُولُونُ الدِّيرَ﴾ نازل ہوا۔

راوی نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کو ان کے پیچھے اس طرح دیکھا گیا کہ تلوار میان سے باہر نکالے ہوئے اس آیت (سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ) کی تلاوت فرما رہے ہیں (یعنی عنقریب اس جماعت کو شکست ہوگی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے) ان کے زخمیوں کو آپؐ نے اٹھوایا۔ اور بھاگنے والوں کی تلاش فرمائی۔

شہدائے بدر کے اسمائے گرامی:

اس روز مسلمانوں میں چودہ آدمی شہید ہوئے چھ مہاجرین میں سے اور آٹھ انصار میں سے:

۱۔ عبیدہ بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف رضی اللہ عنہ۔

۲۔ عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔

۳۔ عاقل بن ابی البکر رضی اللہ عنہ۔

۴۔ عمیر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام جمع۔

۵۔ صفوان بن بیضاء رضی اللہ عنہ۔

۶۔ سعد بن خیشمہ رضی اللہ عنہ۔

۷۔ مبشر بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ۔

عبیدہ سے مروی ہے کہ اہل بدر تین سو تیرہ تھے یا چودہ تھے دوستر انصار میں سے تھے اور بقیہ دوسرے لوگوں میں سے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اہل بدر تین سو تیرہ تھے جن میں مہاجرین میں چھتر تھے اور ۱۱ رمضان یوم جمعہ کو اہل بدر کو ہزیمت ہوئی۔

اصحاب بدر کے لیے رسول اللہ ﷺ کی دعا:

عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ بدر کے دن تین سو پندرہ مجاہدین کے ہمراہ روانہ ہوئے جیسا کہ طاہوت روانہ ہوئے تھے جس وقت وہ لوگ روانہ ہوئے۔ تو رسول اللہ ﷺ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔

اے اللہ یہ لوگ برہنہ پا ہیں لہذا انہیں سواری دے اے اللہ یہ لوگ برہنہ ہیں انہیں لباس دے اے اللہ یہ لوگ بھوکے ہیں لہذا انہیں سیر کر اے اللہ نے بدر کے دن فتح دی وہ لوگ جس وقت لوٹے تو اس حالت میں لوٹے کہ ان میں سے کوئی شخص ایسا نہ تھا جو ایک یا دوسری سواری کے بغیر ہوا انہوں نے کپڑے بھی پائے اور سیر بھی ہوئے۔

مطر سے مروی ہے کہ بدر کے دن آزاد کردہ غلام میں سے دس سے زائد حاضر تھے مطر نے بیان کیا کہ ان لوگوں کا بھی مناسب حصہ لگایا گیا۔

یوم بدر کی تاریخ:

عامر بن ربیعہ الیدری سے مروی ہے کہ بدر کا دن ۱۱ رمضان المبارک دو شنبے کو تھا۔

الزہری سے مروی ہے کہ میں نے ابوبکر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام سے شب بدر کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ شب جمعہ ۱۱ رمضان کو ہوئی۔

جعفر بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جنگ بدر ۱۱ رمضان یوم جمعہ کو ہوئی۔

محمد بن سعد (مؤلف کتاب ہذا) کہتے ہیں کہ یہی ثابت ہے کہ وہ جمعے کو ہوئی اور دو شنبہ کی حدیث شاذ ہے۔

ابن ابی حنیبلہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ابن المسیب سے سفر کے روزے کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ رمضان میں دو غزوے کیے غزوہ بدر غزوہ فتح مکہ ہم لوگوں نے دونوں میں روزہ نہیں رکھا۔

عبداللہ بن عبیدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے رمضان میں غزوہ بدر کیا جب تک آپ اپنے اہل کے پاس واپس نہ ہوئے آپ نے کسی دن روزہ نہ رکھا۔

ابن طلحہ کہتے ہیں کہ ابویوب سے یوم بدر کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یا رمضان کے سترہ دن گزرے تھے اور تیرہ دن باقی تھے یا گیارہ دن باقی تھے اور ۱۹ دن گزرے تھے۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ بدر کے دن تین آدمی ایک اونٹ پر تھے اور ابولبابہ علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے ہم نشین تھے۔ ایسا ہوتا تھا کہ جب نبی ﷺ کی (پیادہ چلنے کی) نوبت ہوتی تھی تو وہ دونوں عرض کرتے تھے کہ آپ سوار ہو

جائیے تاکہ ہم دونوں آپ کی جانب سے پیادہ چلیں، آپ فرماتے تھے کہ نہ تو تم دونوں پیادہ روی میں مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ میں ثواب میں تم لوگوں سے زیادہ بے نیاز ہوں (یعنی مجھے ثواب کی ویسی ہی حاجت ہے جیسی تمہیں پھر میں پیادہ روی کا اجر کیوں چھوڑوں)۔

مشرکین کی تعداد:

ابوعبیدہ بن عبد اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب ہم نے بدر کے دن جماعت مشرکین کو گرفتار کیا تو ہم نے ان سے پوچھا تم لوگ کتنے تھے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ایک ہزار تھے۔

ابوعبیدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے بدر کے دن مشرکین کے ایک آدمی کو گرفتار کر لیا، اس سے ان کی تعداد دریافت کی تو اس نے کہا ہم لوگ ایک ہزار تھے۔

الغصی سے مروی ہے کہ بدر کے قیدیوں کا فدیہ چار ہزار سے کم تھا۔ جس کے پاس کچھ نہ تھا اسے یہ حکم دیا گیا کہ وہ انصار کے بچوں کو لکھنا سکھا دے۔

غریب قیدیوں کا زرفدیہ:

عامر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بدر کے دن ستر قیدیوں کو گرفتار کیا آپ بقدر ان کے مال کے ان سے فدیہ لے رہے تھے۔ اہل مکہ لکھنا جانتے تھے اور اہل مدینہ لکھنا نہیں جانتے تھے جس کے پاس فدیہ نہ تھا دس بچے مدینے کے بچوں میں سے اس کے سپرد کیے گئے۔ اس نے انہیں سکھایا، جب وہ ماہر ہو گئے تو وہی اس کا فدیہ ہو گیا۔

عامر سے مروی ہے کہ اہل بدر کا فدیہ چالیس چالیس اوقیہ تھا جس کے پاس نہ تھا اس نے دس مسلمانوں کو لکھنا سکھایا زید بن ثابت بھی انہیں میں سے ہیں جنہیں لکھنا سکھایا گیا۔

فدیہ لینے کا فیصلہ:

عبیدہ سے مروی ہے کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں جبریل علیہ السلام رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوئے اور عرض کی اگر آپ چاہیں تو انہیں قتل کر دیں اور اگر چاہیں تو ان سے فدیہ لے لیں اس صورت میں فدیہ لینے والے ستر شہید ہوں گے۔

رسول اللہ ﷺ نے اصحاب کو آواز دی لوگ آئے یا ان میں سے لوگ آئے آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام ہیں جو ان دونوں باتوں میں تمہیں اختیار دیتے ہیں یا تو قیدیوں کو سامنے لا کے سب کو قتل کر دیا اس طرح ان سے فدیہ لے لو جو تم میں اس کو قبول کریں وہ بقدر ان کی تعداد کے شہید کیے جائیں گے، ان لوگوں نے عرض کی کہ ہم فدیہ لیں گے اس سے ان لوگوں کے خلاف قوت حاصل کریں گے۔ اور ہم میں سے ستر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ آخر ان سے فدیہ لے لیا۔

سہاک بن حرب سے مروی ہے کہ میں نے عمرؓ کو یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ ﷺ جب اہل بدر سے فارغ ہوئے تو آپ سے کہا گیا کہ آپ قافلے کو ضرور لے لیجئے کیونکہ اب اس کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں، عباس نے آپ سے پکار کر کہا کہ یہ آپ کے لیے مناسب نہیں، آپ نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کیا ہے جو

اپنے وعدے کے مطابق آپ کو دے دی۔

ابو البختری کا قتل:

الغیر اور بھی حریت سے مروی ہے کہ بدر کے دن رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا تو ندادی گئی آگاہ ہو کہ اس قوم (مشرکین) میں سے سوائے ابو البختری کے میرے نزدیک کسی کا کوئی احسان نہیں ہے لہذا جس نے اسے گرفتار کیا ہو رہا کر دے رسول اللہ ﷺ نے اسے امن دے دیا مگر معلوم ہوا کہ وہ قتل کیا جا چکا ہے۔

سات افراد کے لیے بدعاء:

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قبلہ رو ہو کر قریش کے سات افراد کے لیے بدعاء فرمائی جن میں ابو جہل و امیہ بن خلف و عتبہ بن ربیعہ و شیبہ بن ربیعہ و عقبہ بن ابی معیط بھی تھے آپ نے خدا کی قسم کے ساتھ فرمایا کہ ضرور تم لوگ ان کو اس حالت بدر میں پھنساؤ کہ آفتاب نے ان کو جلا دیا ہو گا وہ دن بھی سخت گرم تھا۔

علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب یوم بدر ہوا اور جنگ شروع ہو گئی تو ہم نے رسول اللہ ﷺ کی پناہ لی (یعنی آپ کو آگے کیا) اس روز آپ سب سے زیادہ مشغول جنگ تھے کوئی شخص آپ سے زیادہ مشرکین سے قریب نہ تھا۔

حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شجاعت:

انہی سے مروی ہے کہ یوم بدر ہوا تو ربیعہ کے بیٹے عتبہ و شیبہ اور ولید بن عتبہ نکلے ان کے مقابلہ کو حمزہ بن عبدالمطلب و علی بن ابی طالب و عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہم نکلے شیبہ حمزہ رضی اللہ عنہ کے مقابلہ پر آئے اور ان سے کہا 'تو کون ہے' انہوں نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں تو اس نے کہا اچھا مقابل ہے؟ پھر دونوں میں تلوار چلنے لگی اور حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کر دیا' الولید علی رضی اللہ عنہ کے سامنے آیا اور کہا 'تو کون ہے؟' انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں؟ اور اس کے رسول ﷺ کا بھائی ہوں' علی رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کر دیا' عتبہ عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ کے مقابلہ پر آیا اور پوچھا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا میں وہ شخص ہوں جو معاہدہ حلف میں ہے اس نے کہا اچھا مقابل ہے۔ دونوں میں تلوار چلنے لگی' عتبہ نے حریف کو کمزور کر دیا۔ حمزہ و علی رضی اللہ عنہما عتبہ پر ٹوٹ پڑے۔

ابو عبد اللہ بن محمد سعد (مؤلف کتاب) کہتے ہیں کہ پہلی حدیث کی بناء پر ثابت یہی ہے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ نے عتبہ کو قتل کیا۔

علی رضی اللہ عنہ نے الولید کو اور عبیدہ نے شیبہ سے قتال کیا (جس کو علی و حمزہ رضی اللہ عنہما نے مل کر بعد کو قتل کر دیا)۔

گھوڑوں کی تعداد:

یزید بن رومان سے مروی ہے کہ بدر کے دن رسول اللہ ﷺ کے ساتھ صرف دو گھوڑے تھے ایک گھوڑے پر رسول اللہ ﷺ کے ماموں بنی الاسود کے حلیف مقداد بن عمرو سوار تھے دوسرا حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے حلیف مرثد بن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ کے لیے تھا اس روز مشرکین کے ہمراہ سو گھوڑے تھے۔

قتیبہ نے اپنی حدیث میں بیان کیا کہ (رسول اللہ ﷺ) کے ہمراہ تین گھوڑے تھے (دو گھوڑوں پر تو وہی تھے جن کا ذکر

ہوا اور) ایک گھوڑے پر زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ سوار تھے۔

مسلمان مخبر:

عمرہ سے مروی ہے بدر کے دن رسول اللہ ﷺ نے عدی بن ابی الرعباء اور بسیس بن عمرو کو مخبر بنا کے بھیجا، دونوں (بدر کے) کنوؤں پر آئے ابوسفیان کو دریافت کیا تو انہیں اس کے مقام کی اطلاع دی گئی، دونوں رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور اطلاع دی کہ یا رسول اللہ ﷺ وہ فلاں دن فلاں کنویں پر اترے گا اور ہم لوگ فلاں فلاں کنوؤں پر اتریں گے وہ فلاں دن فلاں کنویں پر اترے گا اور فلاں دن فلاں کنویں پر اتریں گے۔ یہاں تک کہ ہم لوگ اس سے مل جائیں گے جبکہ وہ (بدر کے) کنویں پر ہوگا۔ ابوسفیان آیا اور اسی کنویں پر اترنا قوم سے (جو وہاں تھی) دریافت کیا کہ آیا تم نے کسی کو دیکھا ہے انہوں نے کہا سوائے دو آدمیوں کے کسی کو نہیں دیکھا اس نے کہا مجھے ان دونوں کے اونٹوں کی نشست گاہ دکھاؤ، انہوں نے اسے نشست گاہ دکھائی اس نے مینگی لی اور اسے مسل کے چوراچورا کر دیا تو کھجور کی گٹھلی نظر آئی اس نے کہا بخدا ایڑب کی آبپاشی کے اونٹ ہیں پھر ساحل سمندر کا راستہ اختیار کیا اور اہل مکہ کو لکھ کر نبی ﷺ کی روانگی کی خبر دی۔

حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی وفا شعار:

عمرہ سے مروی ہے کہ اس روز (بدر کے دن) رسول اللہ ﷺ نے لوگوں سے مشورہ طلب فرمایا سعد بن عبادہ یا سعد بن معاذ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ آپ جب چاہیں چلیں اور جہاں قیام فرمائیں جس سے چاہے جنگ کیجئے اور جس سے چاہے صلح کیجئے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا اگر آپ اتنا چلیں کہ برک الغماؤ تک جو یمن کا علاقہ ہے پہنچ جائیں تو ہم لوگ اس طرح آپ کی پیروی کریں گے کوئی شخص پیچھے نہ رہے گا۔ عتبہ بن ربیعہ نے ان مشرکین سے کہا کہ اپنے انہیں چہروں کے بل واپس چلو جو گویا چراغ ہیں ان لوگوں کے مقابلہ سے جن لوگوں کے چہرے گویا سانپ ہیں بخدا تم انہیں قتل نہ کرو گے تا وقتیکہ وہ تم میں سے اپنے برابر قتل نہ کریں پھر اس کے بعد تمہاری خیر نہیں۔ اس روز مسلمان کھجوریں کھا رہے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس جنت کی طرف سبقت کرو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔

عمیر بن الحمام رضی اللہ عنہ کی شہادت:

عمیر بن الحمام ایک طرف تھے ہاتھ میں کھجوریں تھیں جن کو وہ کھا رہے تھے انہوں نے کہا واہ واہ (بخ) نبی ﷺ نے ان سے فرمایا بس کرو انہوں نے کہا یہ کھجوریں ہرگز مجھ پر غالب نہ آئیں گی، پھر کہا میں تم پر ہرگز زیادہ نہ کروں گا یہاں تک کہ میں اللہ سے مل جاؤں (یعنی اب میں زندگی میں سوائے کھجور کے کوئی کھجور نہ کھاؤں گا وہ) (ہاتھ کی کھجوریں) کھانے لگے پھر کہا دور ہو تمہیں نے مجھے روک لیا جو ہاتھ میں تھیں وہ پھینک دیں اپنی تلوار کی طرف اٹھے جو چھیڑوں میں لپیٹی ہوئی لٹکی تھی اسے لے لیا اور آگے بڑھ کے لڑے یہاں تک کہ شہید ہو گئے اور اس روز انہیں غنودگی آرہی تھی۔

مسلمان اڑتی ہوئی بالو پر اترے بارش ہوئی جس سے وہ مثل کوہ صفا کے ہو گئی لوگ اس پر آسانی سے دوڑنے لگے۔

غزوہ بدر اور ارشاداتِ ربانی:

اللہ جل ثناءہ نے یہ آیت نازل فرمائی:

﴿اذ يغشيكُم النعاسُ امنةٌ منه وينزل عليكُم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام﴾

”اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے تمہارے سکون کے لیے تم پر غنودگی طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے بارش نازل فرما رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے شیطان کا خوف دور کر دے دلوں کو مضبوط کر دے اور ثابت قدم کر دے۔“

جب یہ آیت سیہزم الجمع ویولون الدبر نازل ہوئی (یعنی عنقریب اس جماعت کو شکست ہوگی اور وہ پشت پھیر کر بھاگیں گے) تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا کس جماعت کو شکست ہوگی اور کون غالب ہوگی؟ جب یوم بدر ہوا تو میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپؐ زہرہ پہن کر حملہ کرتے ہیں اور سیہزم الجمع ویولون الدبر کہتے جاتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو عنقریب شکست دے گا۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ آیت ﴿واذکروا اذ انتم قليل مستضعفون فی الارض﴾ اس وقت کو یاد کرو جب تم لوگ قلیل اور روئے زمین پر کمزور سمجھے جاتے تھے (یوم بدر کے متعلق نازل ہوئی) یہ آیت ﴿اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الا دباد﴾ (جب تم لوگ کفار کا مقابلہ کرنا تو پشت نہ پھیرنا) بھی یوم بدر کے بارے میں نازل ہوئی اور یہ آیت ﴿یسئلونک عن الانفال﴾ آپؐ سے لوگ مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں یوم بدر کے بارے میں نازل ہوئی۔

ایوب ویزید بن حازم سے مروی ہے کہ عکرمہ کو یہ پڑھتے سنا ﴿ففتبوا الذین آمنوا﴾ یعنی اے ملائکہ تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھنا، اتنا مضمون تو ایوب ویزید کا متفق علیہ ہے۔

حماد نے کہا کہ (روایت میں) ایوب نے اتنا اور بڑھایا کہ عکرمہ نے کہا: ﴿فاضربوا فوق الاعناق﴾ (اے ملائکہ تم کفار کی گردنیں مار دو)۔

اس روز آدمی کا سر جدا ہو جاتا تھا اور یہ نہ معلوم ہوتا تھا کہ کس نے علیحدہ کیا۔

ابو جہل کی تلاش:

عکرمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس روز فرمایا ابو جہل کو تلاش کرو لوگوں نے تلاش کیا وہ نہ ملا آپؐ نے دوبارہ فرمایا کہ اسے تلاش کرو کیونکہ اس کے ساتھ میرا یہ وعدہ ہے کہ اس کا گھٹنہ گزر گا ہوگا جب تلاش کیا تو اس طرح پایا کہ اس کا گھٹنہ گزر گا تھا۔

اس روز اہل بدر کے فدیہ کی مقدار چار ہزار اور اس سے کم تک پہنچ گئی اگر کوئی آدمی اچھا لکھنا جانتا تھا تو اس سے یہی فدیہ ٹھہرا لیا گیا کہ وہ لکھنا سکھادے۔

حالت سجدہ میں حضور ﷺ کی دُعا:

علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب یوم بدر ہوا تو میں نے کسی قدر جنگ کی پھر جلدی سے نبی ﷺ کے پاس آیا کہ دیکھو آپ نے کیا کیا آپ سجدے میں فرما رہے تھے یا جی یا قیوم یا جی یا قیوم اس پر کچھ بڑھاتے نہ تھے میدان جنگ کو لوٹا واپس آیا تو آپ حالت سجدہ میں یہی فرما رہے تھے میں عرصہ جنگ کو واپس ہوا تو آپ حالت سجدہ میں یہی فرما رہے تھے اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمائی۔

حضور ﷺ کی تلوار:

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے اپنے حصہ میں بدر کے دن ایک تلوار ذوالفقار مخصوص فرمائی۔ عبادہ بن حمزہ بن الزبیر سے مروی ہے کہ بدر کے دن جو تلوار نازل ہوئے ان کے عمامے زرد تھے۔ زبیر کے پاس بدر کے دن زرد رومال تھا جس کا وہ عمامہ باندھتے تھے۔

عطیہ بن قیس سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ بدر کی جنگ سے فارغ ہوئے تو جبریل علیہ السلام سرخ گھوڑے پر سوار ہو کر آپ کے پاس آئے ان کی پیشانی پر بل پڑے تھے زہرہ پہنے ہوئے تھے اور ہاتھ میں نیزہ تھا جس کی بازو غبار آلود تھی انہوں نے عرض کی یا محمد (ﷺ) اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ آپ کے راضی ہونے تک آپ سے جدا نہ ہوں آیا آپ راضی ہیں فرمایا ہاں راضی ہوں تو واپس ہوئے۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ ﴿إِنَّكُمْ بِالْعُدُوِّ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوِّ الْقُصُوفِ﴾ (یہ وقت تھا کہ جب تم میدان کے اس کنارے پر تھے اور وہ لوگ اس کنارے پر) وہ لوگ وادی کے ایک کنارے پر اور یہ لوگ دوسرے کنارے پر اسی طرح اسے عقیان نے بھی ”بالعدو“ پڑھا ہے۔

شہدائے بدر کی نماز جنازہ:

عامر سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ بدر روانہ ہوئے تو آپ ﷺ نے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو مدینے میں اپنا خلیفہ بنایا۔

عطاء بن ابی رباح سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے شہدائے بدر کی نماز جنازہ پڑھی۔

زکریا بن ابی زاہدہ عامر سے روایت کرتے ہیں کہ بدر اسی شخص کا تھا جس کا نام بدر تھا یعنی میر تھا۔

محمد بن سعد (مؤلف کتاب ہذا) کہتے ہیں کہ محمد بن عمر نے بیان کیا کہ ہمارے مدنی دوست اور سیرت کے راوی سب یہی کہتے ہیں کہ مقام کا نام بدر ہے (نہ کہ کسی شخص کا نام)۔

سریہ عمیر بن عدی:

رسول اللہ ﷺ کی ہجرت کے انیسویں مہینے کے شروع میں ۲۵ رمضان کو عمیر بن عدی خرشہ لفظی کا عصماء بنت مروان کی طرف سریہ ہے جو بنی امیہ بن زید سے تھی۔

گستاخ عورت کا قتل:

عصماء یزید بن زید بن حصن لخطمی کے پاس تھی، اسلام کی جو کرتی نبی ﷺ کو ایذا پہنچاتی آپ کی مخالفت پر برا بھینٹہ کرتی اور شعر کہتی تھی۔

عمیر بن عدی اس کے پاس آئے مکان میں داخل ہوئے، عصماء کے ارد گرد اس کے بچوں کی ایک جماعت سو رہی تھی گود میں ایک بچہ تھا جسے وہ دودھ پلاتی تھی، عمیر نابینا تھے ہاتھ سے ٹٹول کر بچے کو ماں سے علیحدہ کیا تلوار اس کے سینے پر رکھ دی جو جسم کے پار ہو گئی۔

عمیر نے صبح کی نماز مہینے میں نبی ﷺ کے ساتھ پڑھی رسول اللہ ﷺ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے دختر مروان کو قتل کر دیا؟ انہوں نے عرض کی ہاں، کیا اس بارے میں میرے ذمہ کچھ اور ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کے بارے میں دو بھیڑیں لڑیں گی۔

یہ کہ وہ تھا جو سب سے پہلے رسول اللہ ﷺ سے سنا گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کا نام عمیر بصیر (بینا) رکھا۔
سریہ سالم بن عمیر رضی اللہ عنہ

شروع شوال میں رسول اللہ ﷺ کی ہجرت کے بیسویں مہینے ابو عصفک یہودی کی جانب سالم بن عمیر العمیری کا سریہ ہے ابو عصفک بنی عمرو بن عوف کا بہت بڑا بوڑھا جو ایک سو برس کا تھا، یہودی تھا، لوگوں کو رسول اللہ ﷺ کی مخالفت پر برا بھینٹہ کرتا اور شعر کہتا تھا۔

ابو عصفک یہودی کا قتل:

سالم بن عمیر رضی اللہ عنہ نے جو بکثرت رونے والوں میں سے تھے اور بدر میں حاضر ہوئے تھے۔ کہا کہ مجھ پر یہ نذر ہے کہ یا تو میں ابو عصفک کو قتل کروں گا یا اس کے لیے مرجاؤں گا۔ وہ ٹھہرے ہوئے اس کی غفلت کے انتظار میں تھے گرمی کی ایک رات کو ابو عصفک میدان میں سویا، سالم بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اس کا علم ہو گیا وہ سامنے آئے اور تلوار اس کے جگر پر رکھ دی ہے اسے دبا کر کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ وہ اس کے بستر میں گھس گئی، اللہ کا دشمن چلایا تو اس کے ماننے والے دوڑے آئے، لاش اس کے گھر لے گئے اور دفن کر دی۔

غزوہ بنی قریظہ:

نصف شوال شنبے کے روز ہجرت کے بیسویں مہینے رسول اللہ ﷺ نے بنی قریظہ سے جنگ کی، بنی قریظہ یہودی تھے اور عبد اللہ بن ابی بن سلول کے حلیف یہودی ہیں ان سے زیادہ کوئی بہادر اور ہمت والا نہ تھا، یہ لوگ سنا رہے تھے۔

نبی ﷺ سے انہوں نے صلح کر لی تھی، جنگ بدر ہوئی تو ان لوگوں نے نافرمانی اور حسد کا اظہار کیا اور عہد و میثاق کو توڑ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ پر یہ آیت نازل فرمائی: ﴿وَمَا تَخَافُنَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٍ فَاِذْ يُلَاقِيهِمْ عَلٰی سَوَاءٍ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِيْنَ﴾ (اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت (یعنی عہد شکنی) کا اندیشہ ہو تو آپ ان کے عہد کو مساوی طور پر واپس کر

دیتے بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے بنی قنیقاع سے اندیشہ ہے آپ اس آیت کی وجہ سے ان کی جانب روانہ ہو گئے اس روز آپ کا جھنڈا حمزہ بن عبدالمطلب لیے ہوئے تھے یہ جھنڈا سفید تھا دوسرے چھوٹے جھنڈے نہ تھے۔ بنی قنیقاع کا محاصرہ:

آنحضرت ﷺ نے ابولبابہ بن عبدالمذراہ العمری کو مدینے میں اپنا خلیفہ بنایا اور یہودی کی طرف روانہ ہوئے ذی القعدہ کے چاند تک پندرہ روز بنی قنیقاع کا محاصرہ رکھا وہ سب سے پہلے یہودی تھے جنہوں نے بدعہدی اور جنگ کی اور قلعہ میں محفوظ ہو گئے۔

آپ نے ان کا نہایت سختی سے محاصرہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور وہ رسول اللہ ﷺ کے اس فیصلہ پر راضی ہو گئے کہ ان کا مال رسول اللہ ﷺ کے لیے عورتیں اور بچے ان کے لیے۔ آپ نے حکم دیا تو ان کی مشکلیں کس دی گئیں۔

بنی قنیقاع کے حق میں ابن ابی کی سفارش:

رسول اللہ ﷺ نے مشکلیں کسنے پر المذراہ السطی کو مامور فرمایا جو قبیلہ سعد بن خیشم نے بنی السلم میں سے تھے عبد اللہ بن ابی نے رسول اللہ ﷺ سے جان بخشی کی درخواست کی بہت اصرار کیا تو آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو خدا ان پر لعنت کرے ان کے ساتھ اس (عبد اللہ بن ابی سلول) پر بھی لعنت کرے۔

آنحضرت ﷺ نے ان کی جان بخش دی اور حکم دیا کہ مدینے سے باہر نکال دیئے جائیں اس کام پر عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ مامور ہوئے یہود اذرعات چلے گئے مگر وہاں بھی زیادہ نہ رہ سکے۔

مال غنیمت کی تقسیم:

رسول اللہ ﷺ نے ان ہتھیاروں میں سے تین کمائیں لیں جن میں ایک کمان کا نام الکوم تھا جو غزوہ احد میں ٹوٹ گئی ایک کمان کا نام الروحاء تھا اور ایک کا البھضاء آپ نے ان کے سامان جنگ میں سے دو زہیں الصقد یہ اور فضہ تین تلواریں لیں ایک سیف قلعی دوسری بتار اور ایک اور تلوار تھی تین نیزے لیے مسلمانوں نے ان کے قلعہ میں بہت سے ہتھیار اور سوناری کے اوزار پائے۔

رسول اللہ ﷺ نے اپنا مخصوص حصہ اور خمس (پانچواں حصہ) لے لیا باقی چار حصے اصحاب پر تقسیم فرمادیئے۔ یہ بدر کے بعد پہلا خمس تھا جو لیا گیا۔ جو شخص ان لوگوں کے مالوں پر قبضہ کرنے لیے مقرر کیا گیا وہ محمد بن مسلمہ تھے۔ غزوہ سونق:

رسول اللہ ﷺ پانچ ذی الحجہ یوم یکشنبہ ہجرت کے بائیسویں مہینے غزوہ سونق کے لیے روانہ ہوئے مدینے میں ابولبابہ المذراہ العمری کو خلیفہ بنایا۔

شرکین جب بدر سے واپس ہوئے تو ابوسفیان بن حرب نے تیل کو حرام کر دیا تا وقتیکہ محمد (ﷺ) اور ان کے اصحاب سے انتقام نہ لے لیا جائے، حدیث زہری کی بناء پر وہ دو سواروں کے ہمراہ روانہ ہوا، اور حدیث ابن کعب کی بناء پر چالیس سواروں کے ساتھ۔

ابوسفیان اور سلام بن مشکم کی ملاقات:

ابوسفیان انجہ یہ پہنچے رات کے وقت بنی النضیر کے پاس گئے یحییٰ بن اخطب کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب کے حالات دریافت کریں مگر اس نے دروازہ کھولنے سے انکار کیا، سلام بن مشکم کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے کھول دیا، ان کی ضیافت کی شراب پلائی، اور رسول اللہ ﷺ کے حالات بھی بتائے۔ جب بڑکا ہوا تو ابوسفیان بن حرب نکلا، العریض تک گیا مدینے اور العریض کے درمیان تقریباً تین میل کا فاصلہ ہے وہاں اس نے انصار کے ایک آدمی کو قتل کر دیا جو اس کا جیر (مزدور) تھا، چند مکانات اور گھاس جلادی اس نے یہ خیال کیا کہ قسم پوری ہو گئی اور پشت پھیر کر بھاگا۔

ابوسفیان کا فرار:

یہ خبر رسول اللہ ﷺ کو پہنچی تو آپ نے اصحاب کو ندادی مہاجرین و انصار کے دو سو آدمیوں کے ہمراہ ان لوگوں کے نشان قدم پر روانہ ہوئے ابوسفیان اور اس کے ساتھی تیز بھاگنے لگے ستو کی تھیلیاں گراتے جاتے تھے جو عام طور پر ان کا زادراہ تھا مسلمان انہیں لے لیتے تھے اسی سے اس کا نام غزوہ سوتیق ہو گیا (سوتیق بمعنی ستو)۔ مسلمان ان سے نہ مل سکے رسول اللہ ﷺ مدینے واپس ہوئے آپ پانچ روز مدینے سے باہر رہے۔

غزوہ الکدر یا قراۃ الکدر:

پھر نصف محرم کو رسول اللہ ﷺ ہجرت کے تیسویں مہینے غزوہ الکدر یا قراۃ الکدر کے لیے روانہ ہوئے، یہ مقام معدن بنی سلیم کے قریب ہے جو سد معونہ کے اس طرف الارضیہ کے علاقے میں ہے مدینے اور معدن کے درمیان آٹھ برد (۹۶ میل) کا فاصلہ ہے۔

آنحضرت ﷺ کا جھنڈا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اٹھایا، آپ نے مدینے پر عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ خبر پہنچی کہ اس مقام پر سلیم و غطفان کا ایک گروہ ہے آپ ان کی جانب گئے مگر وہاں کسی کو نہ پایا، اصحاب کی ایک جماعت کو وادی کے بلند حصے کی طرف بھیجا اور خود ان لوگوں کی طرف متوجہ رہے چند چرواہے ملے جن میں ایک غلام بیمار تھا، اس سے لوگوں کو دریافت فرمایا، تو اس نے کہا مجھے کوئی علم نہیں ہے میں پانچویں دن پانی کے لیے جاتا ہوں اور آج چوتھا روز ہے لوگ کنویں اور پانی کی طرف جا چکے ہیں اور ہم لوگ چوپایوں کے لیے گھروں سے دور ہیں۔

رسول اللہ ﷺ اس طرح واپس ہوئے کہ چوپایوں پر قابض ہو چکے تھے۔ انہیں آپ نے مدینے کی طرف روانہ فرمایا، لوگوں نے مال غنیمت مدینے سے تین میل کے فاصلے پر صرار میں تقسیم کر لیا۔ چوپائے پانچ سواٹ تھے آپ نے خمس (پانچواں

حصہ) نکال لیا اور چار شخص مسلمانوں پر تقسیم کر دیئے۔ ہر شخص کو دو اونٹ ملے، وہ لوگ دوسو آدمی تھے، یسار نبی ﷺ کے حصہ آیا آپ ﷺ نے اسے آزاد کر دیا۔ اس لیے کہ نماز پڑھتے دیکھا تھا۔
رسول اللہ ﷺ (مدینے سے چند روزہ شب باہر رہے)۔

سریہ قتل کعب بن الاشرف

کعب بن الاشرف کے قتل کا حکم:

کعب بن الاشرف یہودی کے قتل کا سریہ رسول اللہ ﷺ کی ہجرت کے پچیسویں مہینے ۱۲ ربیع الاول کو ہوا، وہ شاعر تھا رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب کی ہجو کیا کرتا تھا۔ مخالفت پر لوگوں کو برا سمجھتے کرتا اور ایذا دیتا تھا غزوہ بدر ہوا تو وہ ذلیل و سرنگون ہو گیا اور کہا کہ آج زمین کا شکم اس کی پشت سے بہتر ہے۔

وہ مکہ آیا، مقتولین پر قریش کوڑ لایا اور شعر کے ذریعے سے برا سمجھتے کیا، مدینے آیا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے اللہ ابن الاشرف کے اعلان شر اور شعر کہنے کو جس طرح چاہے مجھ سے روک دے، نیز ارشاد فرمایا، کوئی ہے جو ابن الاشرف سے میرا انتقام لے، کیونکہ اس نے مجھے ایذا پہنچائی ہے۔

محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ:

محمد بن مسلمہ نے عرض کی، اس کے لیے میں ہوں یا رسول اللہ ﷺ میں اسے قتل کر دوں گا آپ نے اجازت دی اور فرمایا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے میں مشورہ کر لو، محمد بن مسلمہ اور قبیلہ اوس کے چند آدمی جمع ہوئے جن میں عباد بن بشر، ابونا نکلہ، سلکان بن سلامہ، الحارث بن اوس بن معاذ اور ابو عیسٰ بن جبیر بھی تھے۔

انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ ہم لوگ اسے قتل کر دیں گے، اجازت دیجئے کہ ہم کوئی بات بنا میں فرمایا مناسب ہے ابونا نکلہ کعب بن الاشرف کے رضاعی (دودھ شریک) بھائی تھے۔
منصوبہ قتل:

وہ اس کے پاس روانہ ہو گئے، کعب کو سخت تعجب ہوا اور ڈر گیا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں ابونا نکلہ ہوں، میں تو صرف اس لیے تیرے پاس آیا ہوں کہ تجھے اس شخص کے آنے کی خبر دوں جو ہم لوگوں پر مصیبت ہے، عرب ہم سے لڑتے ہیں اور ایک ہی کمان سے تیرے مارے ہیں، حالانکہ ہم لوگ اس سے کنارہ کشی چاہتے ہیں میرے ہمراہ وہ لوگ ہیں جن کی رائے میری رائے کے موافق ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ انہیں تیرے پاس لے آؤں ہم لوگ تجھ سے غلہ اور کھجوریں خریدیں اور جو چیز قابل اعتماد ہو تیرے پاس رہن کر دیں۔

وہ ان کی بات سے مطمئن ہو گیا اور کہا کہ انہیں جب چاہو لے آؤ۔ وہ اس کے پاس سے کسی وقت کے وعدے سے نکلے ساتھیوں کے پاس آئے اور انہیں خبر دی تو وہ سب اس رائے سے مشتق ہو گئے کہ اس کے پاس اس وقت چلیں جب شام ہو جائے۔

وہ لوگ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے، آپ کو خبر دی، آپ ان کے ہمراہ روانہ ہوئے بقیع تشریف لائے۔ انہیں روانہ کر دیا اور فرمایا کہ اللہ کی برکت اور مدد کے بھروسہ پر تم لوگ جاؤ۔ چاندنی رات میں وہ لوگ روانہ ہوئے اور اس کے قلعہ تک پہنچے ابونا نکلہ نے پکارا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی عورت نے رضائی پکڑ لی اور کہا کہ تو کہاں جاتا ہے؟ تو تو ایک جنگجو آدمی ہے اس نے حال ہی میں شادی کی تھی، کعب نے کہا کہ مجھ سے وعدہ ہے، وہ تو میرا بھائی، ابونا نکلہ ہے تو اس نے اپنے ہاتھ سے رضائی اوڑھ لی اور کہا کہ اگر مرد کو نیزہ مارنے کو بھی بلایا جائے تو چاہیے کہ قبول کر لے۔

کعب ان کے پاس آیا۔ ان لوگوں نے تھوڑی دیر تک باتیں کیں یہاں تک کہ وہ ان سے کھل گیا اور مانوس ہو گیا۔ ابونا نکلہ نے اپنا ہاتھ اس کے بالوں میں داخل کر دیا اور سر کے پٹے (بال) پکڑ لیے۔ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اللہ کے دشمن کو قتل کر دو سب نے اپنی اپنی تلوار سے وار کئے، مگر بے سود، بعض تلواروں نے بعض کو لوٹا دیا۔ کعب ابونا نکلہ سے چٹ گیا۔

کعب بن الاشرف یہودی کا قتل:

محمد بن مسلمہ کہتے ہیں: مجھے ایک گہتی یاد آئی جو میری تلوار میں تھی اسے مہینچ لیا اور اس کی ناف میں گھیسٹر کے زور سے دبایا، گہتی کا ٹٹی ہوئی زیر ناف اتر گئی اللہ کے دشمن نے ایک ایسی چیخ ماری جس سے یہود کے قلعوں میں سے کوئی قلعہ باقی نہ رہا۔ جس پر آگ نہ روشن ہو گئی ہوا انہوں نے اس کا سر کاٹ لیا اور اپنے ہمراہ لے آئے بقیع الغرقہ پہنچے تو تکبیر کہی۔ رسول اللہ ﷺ اس شب کو کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ ان کی تکبیر سنی تو آپ نے بھی تکبیر کہی۔ سمجھ گئے کہ انہوں نے اسے قتل کر دیا۔

وہ لوگ رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان چہروں کو فلاح یاب کرے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ آپ کے چہرے کو بھی یہ کہا اور آپ کے آگے کعب کا سر ڈال دیا۔ آپ ﷺ نے اللہ کی حمد کی، صبح ہوئی تو فرمایا: یہودیوں میں سے تم جس پر قابو پاؤ قتل کر دو۔ وہ ڈرے ان میں سے کوئی نہیں نکلا اور نہ کچھ بولے انہیں اندیشہ تھا کہ ابن الاشرف کی طرح ان پر بھی شب خون نہ مارا جائے۔

زہری سے حق تعالیٰ کے اس قول:

﴿وَلْتَسْمَعْنَ مِنَ الَّذِينَ آوَتْهُنَّ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا﴾

”ان لوگوں سے جن کو تم سے قبل کتاب دی گئی اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تم لوگ ضرور ضرور بہت سی ایذا

رساں باتیں سنو گے۔“

کے بارے میں مروی ہے کہ وہ کعب بن الاشرف ہے جو مشرکین کو رسول اللہ ﷺ اور اصحاب کے خلاف اپنے اشعار سے برا بھونچتا کرتا تھا، نبی ﷺ اور آپ کے اصحاب کی ہجو کرتا تھا۔

کعب کے قتل کے متعلق دوسری روایت:

انصار میں سے پانچ آدمی اس کے پاس گئے جن میں محمد بن مسلمہ اور ایک اور شخص تھے جنہیں ابو عبس کہا جاتا، وہ العوالیٰ میں اپنی قوم کی مجلس میں تھا۔ جب اس نے ان کو دیکھا تو ڈر اور ان کی حالت سے بھڑک گیا۔

ان لوگوں نے کہا کہ ہم تیرے پاس ایک ضرورت سے آئے ہیں اس نے کہا: تم میں سے ایک شخص میرے پاس آئے اور اپنی ضرورت سے مجھے آگاہ کرے ایک آدمی اس کے پاس آیا اور کہا کہ ہم اس لیے تیرے پاس آئے ہیں کہ تیرے ہاتھ وہ زرہیں فروخت کریں جو ہمارے پاس ہیں تاکہ ہم انہیں خرچ کریں اس نے کہا: بخدا اگر ایسا کرو گے تو تم اچھا کرو گے۔ جب سے یہ شخص (یعنی آنحضرت ﷺ) تم میں اترا ہے تم لوگ مصیبت میں پڑ گئے۔

انہوں نے وعدہ کیا کہ اس کے پاس ایسے وقت آئیں گے جب کوئی دوسرا نہ ہوگا، حسب وعدہ کعب کے پاس پہنچ کر آواز دی اس کی عورت نے کہا کہ کیا ان لوگوں نے کسی ایسی چیز کے لیے تیرا دروازہ کھلکھلایا ہے۔ جو تجھے پسند ہے اس نے کہا ان لوگوں نے اپنی غرض اور مقصد کے متعلق مجھے پہلے ہی آگاہ کر دیا ہے۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ کعب ان لوگوں کے سامنے آیا اور پوچھا کہ میرے پاس کیا رہن کرو گے کیا اپنے بیٹے رہن کرو گے؟ اس کا ارادہ یہ تھا کہ انہیں بھجوریں قرض دے۔

انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اس سے شرماتے ہیں کہ ہمارے لڑکوں کو عار دلائی جائے اور کہا جائے کہ یہ ایک وسق پر گرو ہے اور یہ دو وسق پر اس نے کہا اچھا اپنی عورتوں کو میرے پاس رہن کر دو۔ انہوں نے کہا تو سب سے زیادہ خوبصورت ہے ہمیں تجھ سے اطمینان نہیں کون عورت ہے جو تیری خوبصورتی کی وجہ سے بچ سکے گی۔ البتہ ہم لوگ اپنے ہتھیار تیرے پاس رہن کر دیں گے تجھے معلوم ہے کہ آج کل ہمیں ہتھیاروں کی کس قدر ضرورت ہے اس نے کہا ہاں اپنے ہتھیار لے آؤ اور جو چاہو لادے جاؤ۔

اصحاب نے کہا کہ ہمارے پاس آؤ تاکہ معاملہ کی گفتگو کریں۔ کعب اترنے لگا تو اس کی عورت لپٹ گئی اور کہا کہ اس قسم کے لوگوں کے پاس قوم میں سے کسی کو بھیج دیا کر جو تیرے ہمراہ ہوں اس نے کہا اگر یہ لوگ مجھے سوتا ہوا پاتے تو نہ جگاتے، عورت نے کہا اچھا چھت پر ہی سے ان سے بات کر لے وہ نہ مانا اور ان کے پاس اتر آیا اس کی خوشبو تمام مہک رہی تھی پوچھا اے فلاں یہ کیسی خوشبو ہے اس نے کہا یہ فلاں کی ماں (یعنی اس کی عورت) کا عطر ہے ایک آدمی اس کا سر سونگھنے کے بہانے سے بڑھا اور مضبوط پکڑ کے کہا اللہ کے دشمن کو قتل کر دو۔ ابو عبس نے اس کے کولہے میں نیزہ مارا اور محمد بن مسلمہ نے تلوار مار دی وہ قتل ہو گیا تو واپس ہوئے۔

یہودیوں پر خوف کا غلبہ:

یہودی صبح خوف کی حالت میں ہوئی، نبی ﷺ کے پاس آئے اور شکایت کی کہ ہمارا سردار دعا سے قتل کیا گیا۔ نبی ﷺ نے اس کے افعال یاد دلوائے کہ کس طرح وہ لوگوں کو برا بھلا سمجھتا کرتا تھا، لڑائی پر ابھارتا تھا اور یزید پھینچتا تھا آپ نے انہیں اس امر کی دعوت دی کہ اپنے اور آپ کے درمیان ایک معاہدہ صلح لکھ دیں جو کافی ہو۔

یہ عہد نامہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔

غزوہ غطفان:

ہجرت کے پچیسویں مہینے ماہ ربیع الاول میں رسول اللہ ﷺ کا نجد کی جانب غزوہ غطفان ہے جو انجیل کے نواح میں

ذوی مر میں ہے۔

رسول اللہ ﷺ کو یہ خبر پہنچی کہ بنی ثعلبہ و محارب کی ایک جماعت نے ذی امر میں جمع ہو کر یہ قصد کیا ہے کہ آپ کو تمام اطراف سے گھیر لیں، یہ فعل بنی محارب میں سے ایک شخص کا ہے جس کا نام دشوَر بن الحارث ہے۔

نیابت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ:

رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کو جمع کیا اور چار سو پچاس آدمیوں کے ہمراہ جن کے پاس گھوڑے تھے ۱۲ ربیع الاول کو روانہ ہوئے مدینے میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا مسلمانوں کو ذی القصدہ میں بنی ثعلبہ کا ایک شخص ملا جس کا نام جبار تھا۔ لوگ اسے رسول اللہ ﷺ کے پاس لائے اس نے ان کی خبر دی اور کہا کہ اگر وہ لوگ آپ کی آمد سن لیں گے تو ہرگز مقابلہ نہ کریں گے۔ وہ لوگ پہاڑ کی چوٹیوں پر بھاگ گئے، میں آپ کے ہمراہ چلتا ہوں۔

رسول اللہ ﷺ نے اسے اسلام کی دعوت دی وہ مسلمان ہو گیا۔ اسے بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیا رسول اللہ ﷺ کا کسی سے مقابلہ نہ ہوا۔ آپ انہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر دیکھ رہے تھے۔ رسول اللہ ﷺ اور اصحاب بارش سے بھیگ گئے آپ نے اپنے دونوں کپڑے اتار کر پھیلا دیئے تاکہ خشک ہو جائیں درخت پر لٹکا دیئے اور خود ایک کروٹ لیٹ گئے۔

دشوَر بن الحارث کا قبول اسلام:

دشمنوں میں سے ایک شخص آیا جس کا نام دشوَر بن الحارث تھا۔ اس کے پاس تلوار تھی رسول اللہ ﷺ کے سر ہانے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا آج آپ کو مجھ سے کون بچائے گا۔ آپ نے فرمایا: ”اللہ“ جبریل علیہ السلام نے آپ کے سینہ مبارک میں القاء کیا تھا۔ تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی رسول اللہ ﷺ نے اٹھالی اور فرمایا: تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا کوئی نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں وہ اپنی قوم کے پاس آیا اور انہیں اسلام کی دعوت دینے لگا۔

اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَنَّهُمْ قَوْمٌ - الْآيَةُ﴾

”اے ایمان والو! اپنے اوپر اللہ کے انعام کو یاد کرو جبکہ ایک قوم نے تم پر دست درازی کا ارادہ کیا تو اللہ نے ان کا ہاتھ

روک دیا۔“

رسول اللہ ﷺ مدینے میں تشریف لائے نوبت جنگ کی نہیں آئی اور آپ کی غیبت گیارہ دن رہی۔

غزوہ بنی سلیم:

۶ جمادی الاولیٰ ہجرت کے ستائیسویں مہینے رسول اللہ ﷺ کا بحران کا غزوہ ہے۔ بحران الفرج کے نواح میں ہے مدینے اور فرج کے درمیان آٹھ برد (۹۶ میل) کا فاصلہ ہے۔

رسول اللہ ﷺ کو خبر ملی کہ بحران میں بنی سلیم کا مجمع ہے آپ تین سو اصحاب کے ہمراہ روانہ ہوئے مدینے میں ابن ام مکتوم کو خلیفہ بنایا اور تیز چل کر آپ بحران میں وارد ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ لوگ اپنے اپنے پانی کے مقامات کو منتشر ہو گئے آپ واپس ہوئے نوبت جنگ نہیں آئی دس روز آپ باہر رہے۔

سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ:

زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا سریہ القروہ کی جانب ہجرت کے اٹھائیسویں مہینے شروع جمادی الآخر میں پیش آیا یہ سب سے پہلا سریہ ہے جس میں زید امیر بن کے لکھے القروہ نجد کی زمین الزبدہ اور الغمرہ کے درمیان ذات عرق کے نواح میں ہے۔ انہیں رسول اللہ ﷺ نے قافلہ قریش کے روکنے کے لیے بھیجا جس میں صفوان بن امیہ اور حویطب بن عبد العزیٰ اور عبد اللہ بن ابی ربیعہ تھے۔ ان کے ہمراہ بہت سا مال سونے چاندی کے سکے برتن اور چاندی تھی جن کا وزن تیس ہزار درم تھا۔ ان کا رہبر فرات بن حیان العجلی تھا اس نے انہیں عراق کے راستے سے ذات عرق روانہ کیا۔

رسول اللہ ﷺ کو خبر پہنچی تو آپ نے زید بن حارثہ کو سواروں کے ہمراہ روانہ کیا انہوں نے اسے روک لیا اور قافلے کو پایا۔ قوم کے بڑے بڑے لوگ بچ کر نکل گئے تمام مال یہ لوگ رسول اللہ ﷺ کے پاس لائے آپ نے اسے پانچوں حصوں پر تقسیم فرمایا اس کا ایک خمس (پانچواں حصہ) بیس ہزار درہم کو پہنچا جو بچا وہ آپ نے اہل سریہ کو تقسیم کر دیا۔

غزوہ احد:

۷ شوال یوم شنبہ رسول اللہ ﷺ کو ہجرت کے تیسویں مہینے غزوہ احد پیش آیا۔

مشرکین جو بدر میں آئے تھے جب مکے کو لوٹے تو اس قافلے کو جسے ابوسفیان بن حرب لایا تھا دارالندوہ میں ٹھہرا ہوا پایا۔ سرداران قریش ابوسفیان کے پاس گئے اور کہا کہ ہم لوگ نہایت خوش ہوں گے اگر تم اس قافلے کے نفع سے محمد (ﷺ) کی طرف (جانے کے لیے) سامان سفر مہیا کرو۔ ابوسفیان نے کہا میں پہلا شخص ہوں جس نے اسے منظور کیا اور عبد مناف کی اولاد بھی میرے ساتھ ہے۔

مال فروخت ہو کر سونا جمع ہوا۔ کل ایک ہزار اونٹ تھے اور پچاس ہزار دینار کا مال تھا قافلے کے مالکوں کو اصل سریا دے دیا گیا اور نفع نکال لیا گیا۔ معمول یہ تھا کہ ایک دینار میں دینار نفع لیتے تھے۔

انہیں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی: ﴿ان الذین کفروا ینفقون اموالہم لیصدوا عن سبیل اللہ﴾ (وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے مال کو اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے سے روکیں) انہوں نے قاصد روانہ کیا جو عرب میں جا کر نصرت کی دعوت دیتے تھے۔ انہوں نے سب سے مال جمع کیا جو عرب کے ساتھ تھے سب متفق ہو کر حاضر ہوئے قریش نے ہمراہ

عورتوں کو لینے پر بھی اتفاق کیا۔ تاکہ وہ مقتولین بدر کو یاد دلائیں انہیں غصہ دلائیں جس سے شدت انتقام تیز ہو۔
یہود مدینہ کی افواہیں:

عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے تمام یاتیں رسول اللہ ﷺ کو لکھ بھیجیں رسول اللہ ﷺ نے سعد بن الربیع کو عباس رضی اللہ عنہ کے خط کی خبر دی یہودیوں اور منافقوں نے مدینے میں خوفناک خبریں مشہور کر دیں قریش مکے سے روانہ ہو گئے ان کے ہمراہ اپنی قوم کے پچاس آدمیوں کے ساتھ فاسق ابو عامر بھی تھا جو اس کے قتل راہب کہلاتا تھا۔ ان کی تعداد تین ہزار تھی سات سوزرہیں دوسو گھوڑے تین ہزار اونٹ اور پندرہ عورتیں تھیں۔ خبر روانگی لوگوں میں شائع ہو گئی۔ یہاں تک کہ وہ ذوالحلیفہ میں اترے۔
کفار کے حالات کی خبر:

رسول اللہ ﷺ نے اپنے دو جاسوسوں انس و مونس کو جو فضالہ کے بیٹے اور الظفری تھے ۵ ر شوال شب پنج شنبہ کو روانہ کیا وہ دونوں رسول اللہ ﷺ کے پاس ان کی خبر لائے۔ قریش نے اپنے اونٹ اور گھوڑے العریض کی کھیتی میں چھوڑے اور وہاں سے روانہ ہوئے تو گھاس ختم ہو چکی تھی۔
آپؐ نے الحباب بن الممذر بن الجموح کو بھی ان کی طرف روانہ کیا۔ وہ لشکر میں داخل ہوئے تعداد کا اندازہ کیا اور آپؐ کے پاس خبر لائے۔

سعد بن معاذ، اسید بن خضیر اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہم شب جمعہ کو صلح ہو کے مسجد میں رسول اللہ ﷺ کے دروازہ پر رہے۔
مدینے کی حفاظت کی گئی یہاں تک کہ صبح ہوئی۔
رسول اللہ ﷺ کا خواب:

رسول اللہ ﷺ نے اس شب کو خواب دیکھا کہ آپ ایک مضبوط زرہ پہنے ہیں۔ آپ کی تلوار ذوالفقار دھار کے پاس سے تڑک گئی ہے ایک گائے ذبح کی جا رہی ہے اور ایک مینڈھا اس کے پیچھے ہے آپؐ نے اصحاب کو اس کی خبر دی اور تعبیر فرمائی کہ محفوظ زرہ سے مراد مدینہ ہے، تلوار کا تڑکا خود مجھ پر مصیبت کی علامت ہے ذبح کی ہوئی گائے میرے اصحاب کا قتل ہے مینڈھے کا پیچھا کرنا اس سے مراد لشکر کفار ہے جسے اللہ تعالیٰ قتل کرے گا۔

مشاورت:

رسول اللہ ﷺ کے اس خواب کی بنا پر یہ رائے ہوئی کہ مدینے سے نہ نکلیں۔ آپؐ چاہتے تھے کہ آپ کی رائے کی موافقت کی جائے۔ اصحاب سے مشورہ فرمایا تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا کہ آپؐ نہ نکلیں اکابر مہاجرین و انصار کی بھی یہی رائے تھی۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم لوگ مدینے میں ٹھہرو۔ عورتوں اور بچوں کو قلعوں میں کر دو۔ دونو جوانوں نے جو بدر میں حاضر نہیں ہوئے تھے رسول اللہ ﷺ سے دشمن کی طرف نکلنے کی درخواست کی اور شہادت کی رغبت ظاہر کی انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے دشمن کی طرف لے چلئے پھر ان لوگوں کا غلبہ ہو گیا جو باہر نکلتا چاہتے تھے۔

رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو نماز جمعہ پڑھائی، وعظ بیان فرمایا۔ انہیں کوشش اور جہاد کرنے کا حکم دیا اور یہ خبر دی کہ جب تک وہ صبر کریں گے ان کی مدد ہوگی انہیں اپنے دشمن کے مقابلے کے لیے تیاری کا حکم دیا چنانچہ لوگ روائی سے خوش ہوئے۔ آپ نے لوگوں کو نماز عصر پڑھائی، سب جمع تھے۔ اہل العوالی بھی حاضر ہو گئے رسول اللہ ﷺ اپنے مکان میں داخل ہوئے آپ کے ہمراہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے دونوں اصحاب نے آپ کے عمامہ باندھا لیا۔ لباس (جنگ) پہنایا لوگ صف باندھے ہوئے آپ کے برآمد ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔

سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر نے کہا کہ تم نے باہر نکلنے پر رسول اللہ ﷺ سے زبردستی کی۔ حالانکہ امر مناسب آپ پر آسمان سے نازل ہو جاتا ہے لہذا تم لوگ معاملہ کو آپ ہی کے سپرد کر دو۔

رسول اللہ ﷺ اس طرح برآمد ہوئے کہ زرہ پہنے ہوئے تھے آپ نے زرہ کو ظاہر کیا اور اس کے درمیان چڑے کی بیٹی سے باندھا تھا۔ جو تلوار لٹکانے کی تھی آپ عمامہ باندھے اور تلوار لٹکائے ہوئے ڈھال پشت پر تھی۔

سب لوگ اس پر نادم ہوئے جو انہوں نے کیا اور عرض کی ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ آپ کی مخالفت کریں لہذا جو مناسب معلوم ہو وہ کیجئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کسی نبی کو یہ مناسب نہیں کہ جب وہ اپنی زرہ پہن لے تو اسے اتار دے تا وقتیکہ اللہ اس کے اور دشمن کے درمیان فیصلہ نہ کر دے تم اسے دیکھو جس کا میں نے تمہیں حکم دیا اسے کرو اور اللہ کے نام پر روانہ ہو جاؤ۔ تمہاری ہی مدد ہوگی جب تک تم صبر کرو گے۔

پرچم اسلام:

آپ نے تین نیزے طلب فرمائے اور تین جھنڈے بنائے، اوس کا جھنڈا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو دیا، خزر ج کا جھنڈا الحباب بن المنذر کو اور کہا جاتا ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو اپنا جھنڈا جو مہاجرین کا جھنڈا تھا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دیا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دیا۔ مدینہ پر عبداللہ بن ام کثوم رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا۔

پیش قدمی:

رسول اللہ ﷺ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے کمان کو کندھے پر ڈال لیا اور ایک نیزہ ہاتھ میں لے لیا مسلمان مسلح اور زرہ پوش تھے ان کے پاس سوزر ہیں تھیں۔ دونوں سعد یعنی سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما آپ کے آگے نکلے دونوں دوڑ رہے تھے اور زرہ پوش تھے لوگ آپ کے دائیں بائیں تھے۔

اس طرح آپ روانہ ہوئے جب اثنین پہنچے جو دو قلعے ہیں تو آپ متوجہ ہوئے اور بہت سے ہتھیار والے لشکر کو دیکھا جس کے خاص قسم کے بال تھے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے لوگوں نے عرض کی کہ یہ ابن ابی کے یہودی خلفاء ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اہل شرک سے اہل شرک پر مدد نہ لو! آپ نے جسے واپس کیا اسے واپس کیا اور جسے اجازت دی اسے اجازت دی۔

آفتاب غروب ہو گیا۔ بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہی نبی ﷺ نے اصحاب کو مغرب کی نماز پڑھائی اور اثنین ہی میں شب باش ہوئے۔

لشکر کی حفاظت کا اہتمام:

آپؐ بنی النجار میں اترے تھے۔ اس رات کے پہرے پر محمد بن مسلمہ کو پچاس آدمیوں کے ہمراہ عامل مقرر فرمایا جو رات بھر لشکر کے گرد گشت کرتے رہے۔

مشرکین نے رسول اللہ ﷺ کو جب کہ آپؐ روانہ ہوئے اور اترتے دیکھ لیا تھا وہ سب جمع ہو گئے عکرمہ بن ابی جہل کو مشرکین کی ایک جماعت کے ساتھ اپنے پہرے پر عامل بنایا۔

رسول اللہ ﷺ پچھلی شب کو اس طور پر روانہ ہوئے کہ آپؐ کے رہبر ابو شہمہ الحارثی تھے آپؐ اسی روز احد کے مقام پر القطرہ تک پہنچ گئے نماز کا وقت آ گیا آپؐ مشرکین کو دیکھ رہے تھے بلال رضی اللہ عنہ کو (اذان کا) حکم دیا۔ انہوں نے اذان اور اقامت کہی آپؐ نے اصحاب کو صف بہ صف کر کے نماز پڑھائی۔

ابن ابی کی بد عہدی:

ابن ابی اسی مقام سے ایک لشکر کے ہمراہ اس طرح اکھڑ گیا کہ گویا وہ ایک مظلوم ہے جو ان کے آگے جا رہا ہے وہ کہتا جاتا تھا کہ آپؐ نے میری نافرمانی کی اور بچوں کی اور ان لوگوں کی اطاعت کی جن کو عقل نہیں اس کے ہمراہ تین سو آدمی علیحدہ ہو گئے۔

صف آرائی:

رسول اللہ ﷺ کے ساتھ صرف سات سو اصحاب رہ گئے آپؐ کے پاس ایک گھوڑا آپؐ کا اور ایک گھوڑا ابو بردہ بن یزار کا تھا۔ آپؐ سامنے آ کر اصحاب کو صف بستہ کر رہے تھے۔ آپؐ نے مینہ اور میسرہ بنایا۔ آنحضرت ﷺ دوزر ہیں خود اور لوہے کی ٹوپی (مقفرو بیضہ) پہنے ہوئے تھے۔ آپؐ نے احد کو اپنی پشت پر اور مدینے کو سامنے کیا۔

کوہ عنین مع نالے کے بائیں جانب تھا اس پر پچاس تیر اندازوں کو مقرر کیا عبد اللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو ان کا عامل بنایا۔ اور سمجھا دیا کہ تم لوگ اپنے اسی مورچے پر کھڑے رہنا۔ ہماری پشت کی حفاظت کرنا۔ اگر تم یہ دیکھو کہ ہم کو مال غنیمت ملا ہے تو ہمارے شریک نہ ہونا اور اگر تم یہ دیکھنا کہ ہم قتل ہو رہے ہیں۔ تو ہماری مدد نہ کرنا۔

مشرکین بھی سامنے آ کر اپنی صفیں درست کرنے لگے انہوں نے مینہ پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اور میسرہ پر عکرمہ بن ابی جہل کو عامل بنایا دونوں کناروں (مینہ و میسرہ) پر دو سو گھوڑے تھے۔ سواروں پر صفوان بن امیہ کو مقرر کیا اور کہا جاتا ہے کہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو۔ تیر اندازوں پر جو سو تھے عبد اللہ بن ابی ربیعہ کو جھنڈا طلحہ بن ابی طلحہ کے حوالے کیا ابو طلحہ کا نام عبد اللہ بن عبد العزی بن عثمان بن عبد الدار بن قصی تھا۔

علمبردار اسلام:

رسول اللہ ﷺ نے دریافت فرمایا کہ مشرکین کا جھنڈا کون اٹھائے گا تو کہا گیا عبد الدار۔ آپؐ نے فرمایا ہم وفائے عہد کے ان سے زیادہ مستحق ہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کہاں ہیں عرض کی میں یہ ہوں فرمایا جھنڈا لے لو۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے

جھنڈا لے لیا اور وہ اسے لے کے رسول اللہ ﷺ کے آگے ہو گئے۔

آغازِ جنگ:

جس شخص نے سب سے پہلے جنگ چھیڑی وہ فاسق ابو عامر تھا جو اپنی قوم کے پچاس آدمیوں کے ساتھ نکلا اور پکار کر کہا کہ میں ابو عامر ہوں، مسلمانوں نے کہا کہ نہ تیرے لیے مرجا ہے اور نہ خوش آمدید اس نے کہا کہ میرے بعد میری قوم پر ایک شر نازل ہوا، اس کے ساتھ قریش کے غلام بھی ہیں۔

وہ لوگ اور مسلمان پتھر پھینکنے لگے ابو عامر اور اس کے ساتھیوں نے پشت پھیر لی، مشرکین کی عورتیں ڈھول تاشے اور دف بجا کر برا بیچتے کرنے لگیں۔ مقتولین بدر کی یاد دلا کر یہ اشعار پڑھنے لگیں:

نحن بنات طارق نمشی علی النمارق

”ہم لوگ رات کو آنے والے کی بیٹیاں ہیں۔ ہم لوگ تکیے پر چلتے ہیں۔

ان تقبلوا نعانق او تدبروا نفارق

فراق غیر و امق

اگر تم لوگ مقابلہ پر آؤ گے تو اور اگر پشت پھیر کر بھاگو گے تو تمہارے گلے لگ جائیں گے ہم تم سے جدا ہو جائیں گے۔ اور جدائی بھی وہ ہوگی جو نفرت کرنے والے کی ہوتی ہے۔“

شجاعت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ:

قوم کے بعض لوگ بعض کے نزدیک آ گئے۔ تیر انداز مشرکین کے لشکر پر تیر پھینک رہے تھے قبیلہ ہوازن نے پشت پھیر لی، طلحہ بن ابی طلحہ نے جو جھنڈا لیے ہوئے تھا۔ پکارا کہ کون جنگ کرے گا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نکلے اور دونوں صفوں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ علی رضی اللہ عنہ نے اس پر سبقت کی اور سر پر ایسا مارا کہ کھوپڑی پھٹ گئی اور وہ گر پڑا وہ لشکر کا سردار تھا۔

رسول اللہ ﷺ اس سے مسرور ہوئے آپ نے بلند آواز سے تکبیر فرمائی اور مسلمانوں نے بھی تکبیر کہی مشرکین کے لشکروں پر حملہ کر کے انہیں مارنے لگے یہاں تک کہ ان کی صفیں پراگندہ ہو گئیں۔

حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی دلیری:

مشرکین کا جھنڈا ابوشیبہ عثمان بن ابی طلحہ نے اٹھایا، وہ عورتوں کے آگے رجز کہتا تھا اور یہ شعر پڑھتا تھا:

ان علی اهل اللواء حقاً ان تخضب الصعدة وتندقا

”بے شک جھنڈے والے پر واجب ہے کہ اس کا نیزہ (خون میں) رنگ جائے یا ٹوٹ جائے۔“

اس پر حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا، انہوں نے اس کے شانے پر اس زور سے تلوار ماری کہ ہاتھ اور بازو کاٹتی ہوئی کمر تک پہنچ گئی اور اس کا پیچھا اٹا ہر ہو گیا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے لوٹے کہ میں تو ساقی الخج کا بیٹا ہوں (الخج وہ شخص جس کے زخم کی گہرائی ناپی جائے)۔

مشرک علمبرداروں کا خاتمہ:

وہ جھنڈا ابوسعہد بن ابی طلحہ نے اٹھایا۔ اسے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ایک تیر مارا جو اس کے گلے میں لگا اور کتے کی طرح زبان باہر نکل پڑی پھر اسے قتل کر دیا۔

مسافع بن طلحہ بن ابی طلحہ نے وہ جھنڈا اٹھایا، عاصم بن ثابت نے تیر مار کر اسے قتل کر دیا۔

کلاب بن طلحہ بن ابی طلحہ نے اٹھایا تو اسے زبیر بن عوام نے قتل کر دیا۔

الجللاس بن طلحہ بن ابی طلحہ نے اٹھایا تو طلحہ بن عبید اللہ نے اسے قتل کر دیا۔

ارطاة بن شریل نے جھنڈا لیا تو اسے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا۔

شریح بن قارظ نے اٹھایا تو کسی شخص نے اسے قتل کر دیا۔ اس کا نام معلوم نہ ہو سکا۔

ان کے غلام صواب نے وہ علم اٹھایا، کوئی کہتا ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اور کوئی کہتا ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کیا۔ کوئی کہتا ہے قزو ان نے اسے قتل کیا اور یہی قول سب سے زیادہ ثابت ہے۔

مشرکین کی پسائی:

جب جھنڈا اٹھانے والے قتل کر دیئے گئے تو مشرکین اس طرح ہزیمت اٹھا کے بھاگے کہ کسی چیز کی طرف بھی رخ نہ کرتے تھے حالانکہ ان کی عورتیں ہلاکت کی دعاء کر رہی تھیں مسلمان تعاقب کر کے جہاں چاہتے تھے قتل کرتے تھے انہیں لشکر گاہ سے نکال دیا اور لوٹ لیا غنیمت کا مال جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔

تیر اندازوں کی لغزش:

تیر اندازوں نے جو کہ عینین پر تھے گفتگو کی، آپس میں اختلاف ہو گیا ان کے امیر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ ایک قلیل جماعت کے ساتھ جو دس سے کم تھی اپنے مقام پر ثابت قدم رہے انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آگے نہ بڑھوں گا اپنے ساتھیوں کو نصیحت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یاد دلایا۔ مگر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مراد نہیں، مشرکین تو بھاگ گئے پھر ہمارا مقصد مقام یہاں کیوں ہو وہ لوگ لشکر کے پیچھے جا رہے تھے۔ انہیں کے ہمراہ لوٹ رہے تھے اور پہاڑ کو تنہا چھوڑ دیا۔ خالد بن الولید نے پہاڑ کو خالی اور وہاں والوں کی قلت کو دیکھا تو لشکر کو لوٹایا عکرمہ بن ابی جہل بھی پیچھے رہ گیا۔ انہوں نے بقیہ تیر اندازوں پر حملہ کر کے قتل کر دیا ان کے امیر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ بھی قتل ہو گئے۔

مسلمانوں کی صفیں ٹوٹ گئیں، ان کی چکی گھوم گئی، ہوا بدل کے مغربی ہو گئی حالانکہ اس کے قبل مشرقی تھی، ابلیس لعنہ اللہ نے ندادی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیئے گئے۔ مسلمانوں کے حواس جاتے رہے وہ خلاف قاعدہ قتال کرنے لگے، حیرانی اور جلدی کی وجہ سے جسے وہ جانتے بھی تھے ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔

مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت:

مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ قتل کر دیئے گئے تو جھنڈا ایک فرشتے نے لے لیا جو مصعب کی صورت کا تھا۔ اس روز ملائکہ حاضر

ہوئے مگر جنگ نہیں کی مشرکین نے اپنے شعار (جنگی اصطلاح) میں ندادی کہ: یا للعزى یا للہبل۔

انہوں نے مسلمانوں کا قتل عظیم کیا۔ ان میں سے جس نے پشت پھیر لی پھیر لی۔

رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ ثابت قدم صحابہ رضی اللہ عنہم:

رسول اللہ ﷺ اس طرح ثابت قدم رہے۔ کہ ہٹتے نہ تھے۔ اپنی کمان سے تیر پھینک رہے تھے۔ جب ختم ہو گئے تو پتھر مارنے لگے۔ ہمراہ اصحاب میں سے چودہ آدمی کی ایک جماعت ہی ثابت قدم رہی جن میں سات مہاجرین بشمول ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ اور سات انصار میں تھے۔ انہوں نے مدافعت کی۔

ابن قمیہ کا رسول اللہ ﷺ پر حملہ:

مشرکین کو رسول اللہ ﷺ کے چہرہ مبارک میں کچھ کامیابی حاصل ہوئی کچلیوں اور آگے کے دانتوں کے درمیانی چار دانت پر ضرب آگئی چہرہ مبارک اور پیشانی پر زخم آگیا۔ آپ پر ابن قمیہ نے تلوار سے حملہ کیا۔ اور داہنے پہلو پر مارا، طلحہ بن عبید اللہ نے اپنے ہاتھ سے بچایا، اس میں ان کی انگلی بیکار ہو گئی، ابن قمیہ نے دعویٰ کیا کہ اس نے آپ کو شہید کر دیا ہے یہ وہ بات تھی جس نے مسلمانوں کو مرعوب کر دیا اور انہیں شکستہ خاطر بنا دیا۔

اسمائے شہداء و مقتولین اُحد:

اس روز حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ شہید ہوئے جنہیں وحشی نے شہید کیا۔ عبد اللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو ابوالحکم بن الاخص بن شریق نے شہید کیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ابن قمیہ نے شہید کیا، شماس بن عثمان بن الشریذ المخزومی رضی اللہ عنہ کو ابی بن خلف الحنفی، عبد اللہ و عبد الرحمن رضی اللہ عنہما فرزند ان الہیب نے جو بنی سعد میں سے تھے۔ وہب بن قابوس المزنی اور اس کے بھتیجے الحارث بن عقبہ بن قابوس نے شہید کیا۔

انصار میں سے ستر آدمی شہید ہوئے جن میں سے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے بھائی عمرو بن معاذ اور حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد الیمان رضی اللہ عنہ کو تو مسلمانوں نے غلطی سے شہید کر دیا۔

حظلمہ بن ابی عامر راہب، سعد بن خیشمہ رضی اللہ عنہ کے والد خیشمہ ابوبکر کے داماد خارجہ بن زید بن ابی زہیر، سعد بن الریح اور ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ کے والد مالک بن سنان، العباس بن عبادہ بن نعلہ، مجذور بن زیاد و عبد اللہ بن عمرو بن حرام، عمرو بن الجموح جو ان کے سرداروں میں سے تھے۔ بہت سے آدمیوں کے ہمراہ شہید ہوئے۔

مشرکین میں سے تیس آدمی مقتول ہوئے جن میں جھنڈے کے اٹھانے والے اور عبد اللہ بن حمید بن زہیر بن الحارث بن اسد بن عبد العزیٰ ابوعزیز بن عمیر، ابوالحکم بن الاخص بن شریق انھیں جسے علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا، سباع بن عبد العزیٰ الخزاعی جو ام انمار کا بیٹا تھا۔ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے قتل کیا، ہشام بن ابی امیہ بن المغیرہ، الولید بن العاص بن ہشام، امیہ بن ابی حذیفہ بن المغیرہ، خالد بن العلم العقیلی، ابی بن خلف الحنفی جسے رسول اللہ ﷺ نے اپنے دست مبارک سے قتل فرمایا۔ ابوعزہ الحنفی جس کا نام عمرو بن عبد اللہ بن عمیر بن وہب بن حذافہ بن نجح ہے تھے۔

ابوعزہ کا قتل:

ابوعزہ وہ شخص ہے جو جنگ بدر میں گرفتار ہو گیا تھا، رسول اللہ ﷺ نے احسان فرمایا تو اس نے کہا کہ میں آپ کے مقابلہ پر کسی جماعت میں اضافہ نہ کروں گا۔ مشرکین کے ہمراہ جنگ احد میں نکلا تو اسے رسول اللہ ﷺ نے اسیر کر کے گرفتار کر لیا۔ اس کے سوا آپ نے کسی اور کو گرفتار نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ اے محمد (ﷺ) مجھ پر احسان کیجئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مومن کو ایک سوراخ سے دوسرے نہیں ڈسا جاسکتا۔ تو مکے اس طرح نہیں لوٹے پائے گا۔ کہ اپنے رخساروں پر ہاتھ پھیر کر کہے کہ میں نے دوسرے محمد ﷺ سے تسخیر کیا، آپ نے اس کے متعلق عاصم بن ثابت بن ابی اللاح کو حکم دیا تو انہوں نے اس کی گردن مار دی۔

شہدائے احد کی نماز جنازہ:

جب مشرکین احد سے واپس ہو گئے۔ تو مسلمان اپنے مقتولین کی طرف واپس ہوئے۔ حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ ﷺ کے پاس لایا گیا تو آپ نے انہیں نہ غسل دیا اور نہ دوسرے شہداء کو غسل دیا اور فرمایا انہیں مع ان کے خون اور زخموں کے کفناؤں انہیں رکھ دو میں ان سب کا نگران ہوں۔

سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی امتیازی خصوصیت:

حمزہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے شخص تھے۔ جن پر چار مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے تکبیر فرمائی (یعنی نماز جنازہ پڑھی) پھر آپ کے پاس شہداء جمع کیے گئے۔ جب کسی شہید کو لایا جاتا تھا تو اسے حمزہ رضی اللہ عنہ کے پہلو میں رکھ دیا جاتا تھا۔ پھر ان پر اور اس شہید پر نماز پڑھتے تھے۔ اس طرح آپ نے ان پر ستر مرتبہ نماز پڑھی۔

ہم نے سنا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے شہدائے احد پر نماز نہیں پڑھی اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا گڑھا کھودو گہرا اور چوڑا کرو جسے قرآن زیادہ یاد ہوا سے مقدم کرو۔

وہ لوگ جنہیں ہم جانتے ہیں ایک قبر میں دو دفن کیے گئے یہ تھے:

عبد اللہ بن عمرو بن حرام اور عمرو بن الجموح ایک قبر میں خارجہ بن زید اور سعد بن الربیع ایک قبر میں النعمان بن مالک اور عبیدہ بن الحساس ایک قبر میں۔

پھر سب لوگ یا اکثر اپنے مقتولین کو مدینے اٹھالے گئے اور نواح میں دفن کرویا۔ رسول اللہ ﷺ کے منادی نے ندا دی کہ مقتولین کو ان کی خواب گاہوں کی طرف واپس کرو منادی نے صرف ایک ہی شخص کو پایا جو دفن نہیں کیے گئے تھے۔ وہ لوٹا دیئے گئے اور وہ شماس بن عثمان الحمری تھے۔

اسی روز رسول اللہ ﷺ واپس ہوئے نماز مغرب مدینے میں پڑھی۔ ابن ابی اور منافقین نے رسول اللہ ﷺ اور اصحاب کی ناکامیابی پر خوشیاں منا کیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مشرکین آج کی طرح ہم پر کامیابی حاصل نہ کر سکیں گے۔ یہاں تک کہ ہم رکن (حجر اسود) کو بوسہ دیں۔

حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا سوگ:

انصار اپنے مقتولین پر روئے رسول اللہ ﷺ نے سنا تو فرمایا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ پر رونے والا کوئی نہیں، انصار کی عورتیں رسول اللہ ﷺ کے دروازے پر آئیں اور حمزہ رضی اللہ عنہ پر روئیں رسول اللہ ﷺ نے ان کے لیے دعا کی اور واپس جانے کا حکم دیا۔ آج تک وہ عورتیں جب انصار میں سے کوئی مرتا ہے۔ تو پہلے حمزہ رضی اللہ عنہ پر روتی ہیں پھر میت پر۔
شعی سے مروی ہے کہ احد کے دن رسول اللہ ﷺ نے مشرکین کے ساتھ مکہ کیا (یعنی خفیہ تدبیر کی) اور یہ پہلا دن تھا کہ مکہ کیا گیا۔

رسول اللہ ﷺ کے زخم:

انس بن مالک سے مروی ہے کہ احد کے دن نبی ﷺ کے دانت (جو کچلی اور سامنے کے دانتوں کے درمیان تھے) اور آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی چہرہ پر خون بہا (صلوات اللہ علیہ رضوانہ رحمۃ وبرکاتہ)۔
آپ نے فرمایا وہ قوم کیسے فلاح پاسکتی ہے جس نے اپنے نبی کے ساتھ یہ کیا حالانکہ وہ انہیں کے پروردگار کی طرف بلاتا تھا۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَلَهُمْ ظَالِمُونَ﴾ (یعنی آپ کو اس معاملہ میں کوئی دخل نہیں خدا کو اختیار ہے۔ انہیں معاف کرے یا ان پر عذاب کرے۔ کیونکہ یہ لوگ ظالم ہیں)۔
حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کی شہادت:

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب یوم احد ہوا تو مشرکین کو شکست ہوئی انہیں نے پکار کر کہا: اے اللہ کے بندو اپنی دوسری جماعت کو دیکھو پہلی جماعت لوٹی، وہ اور ان کی دوسری جماعت باہم شمشیر زنی کرنے لگی حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اتفاقاً ان کے باپ نعمان ہیں (جنہیں تلوار ماری جا رہی ہے) تو کہا اے اللہ کے بندو یہ تو میرے باپ ہیں، میرے باپ ہیں۔
عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں خدا کی قسم وہ لوگ نہ باز آئے تا آنکہ انہیں قتل کر دیا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے۔

عروہ نے کہا کہ خدا کی قسم ان کی بقیہ خیر حذیفہ میں رہی یہاں تک کہ وہ بھی اللہ سے جا ملے۔

نوجوان صحابہ رضی اللہ عنہم کا جوش و خروش:

جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ ایک محفوظ زرہ میں ہوں اور میں نے ذبح کی ہوئی گائے دیکھی تعبیر لی کہ زرہ سے مراد مدینہ اور گائے سے مراد جماعت ہے۔ اگر تم چاہو تو ہم مدینے میں مقیم رہیں جب وہ لوگ حملہ آور ہوں تو ان سے جنگ کریں۔

انہوں نے کہا: واللہ جاہلیت میں کوئی ہمارے شہر میں داخل نہ ہوا تو اسلام میں کون ہمارے پاس گھسے گا؟ آپ نے فرمایا: تمہاری مرضی، وہ چلے گئے رسول اللہ ﷺ نے زرہ پہن لی تو انہوں نے کہا: کہ ہم نے یہ کیا کیا کہ رسول اللہ ﷺ کی رائے کو رد کر دیا۔ آئے اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ آپ کی مرضی، فرمایا کسی نبی کو جائز نہیں کہ جب وہ زرہ پہن لے تو اسے قتال سے سہل

اتار دے۔

زہری سے مروی ہے کہ شیطان نے احد کے دن پکار کر کہا کہ محمد (ﷺ) قتل کر دیئے گئے۔
کعب بن مالک نے کہا کہ میں سب سے پہلا شخص ہوں جس نے نبی ﷺ وسلم کو پہچانا۔ میں نے خود کے نیچے آپ کی
دونوں آنکھوں کو پہچانا تو بلند آواز سے پکارا کہ یہ رسول اللہ ﷺ ہیں آپ نے میری طرف اشارہ کیا کہ خاموش رہو۔ اللہ تعالیٰ
نے یہ آیت نازل فرمائی:

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ آلَيْهِمْ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾
”محمد ﷺ بھی اللہ کے رسول ہی ہیں ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر گئے۔ کیا یہ مرجائیں یا قتل کر دیئے جائیں
تو تم اپنے پیچھے پلٹ جاؤ گے؟“۔

سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابی بن خلف الحمی بدر کے دن گرفتار ہوا اس نے رسول اللہ ﷺ کو فدیہ دیا اور
کہا کہ میرے پاس ایک گھوڑا ہے جسے میں روزانہ ایک فرق (۸ سیر) جوار کھاتا ہوں۔ شاید آپ کو اسی پر سوار ہو کے قتل کروں گا۔
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں ان شاء اللہ اس پر تجھے کروں گا۔

جب احد کا دن ہوا تو ابی بن خلف اسی گھوڑے کو ایڑا مارتا ہوا سامنے آیا۔ رسول اللہ ﷺ کے قریب گیا چند مسلمانوں نے
اسے روکا کہ قتل کر دیں مگر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مہلت دو مہلت دو۔

رسول اللہ ﷺ ایک نیزہ لے کر کھڑے ہوئے جو آپ کے ہاتھ میں تھا۔ اس سے آپ نے ابی بن خلف کو مارا جس
سے ایک پسی ٹوٹ گئی وہ مجروح ہو کے اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ گیا۔ اسے ان لوگوں نے اٹھالیا اور واپس لے گئے کہنے لگے
کہ تیرے لیے کوئی خوف نہیں ہے، مگر ابی نے ان سے کہا کہ کیا انہوں نے مجھ سے نہیں فرمایا تھا کہ ان شاء اللہ میں تجھے قتل کر دوں
گا۔ اس کے ساتھی اسے لے گئے تھوڑی دور جا کر مر گیا اسے ان لوگوں نے دفن کر دیا۔

سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

﴿وَمَا رَمَيْتْ أَذْمِيتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ﴾
”جس وقت مارا آپ نے نہیں مارا، لیکن اللہ نے مارا۔“

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جاں نثاری:

سفیان بن عیینہ سے مروی ہے۔ کہ احد کے دن تقریباً تیس آدمیوں پر رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ مصیبت آئی ان میں
سے ہر ایک آتا تھا۔ اور آپ کے سامنے دوزانو بیٹھ جاتا تھا (یا سفیان نے کہا کہ آپ کے سامنے آ جاتا تھا) پھر کہتا تھا کہ میرا چہرہ
آپ کے لیے کی وفا ہے (یعنی اس کے بدلے حاضر ہے) اور میری جان آپ کی جان پر قربان ہے۔ آپ پر اللہ کا ایسا سلام ہو

تیر انداز دستے کو ہدایات:

براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب احد کا دن ہوا تو رسول اللہ ﷺ نے تیر اندازوں پر جو پچاس تھے عبد اللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو سردار بنا کے ایک مقام پر مقرر کر دیا۔ اور فرمایا کہ اگر تم ہمیں اس حالت میں دیکھو کہ پرندے نوح رہے ہیں تب بھی اپنے مقام سے نہ ٹلو تا وقتیکہ تمہارے پاس قاصد نہ بھیجا جائے۔ اور اگر تم یہ دیکھو کہ ہم نے اس قوم کو بھگا دیا، ہم ان پر غالب آگئے اور ہم نے انہیں روند ڈالا تب بھی اپنی جگہ سے نہ ملو جب تک کہ تمہارے پاس قاصد نہ بھیجا جائے۔

براء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے دشمنوں کو شکست دی، میں نے خدا کی قسم عورتوں کو دیکھا کہ پہاڑ پر اس طرح بھاگ رہی تھیں کہ ان کی پنڈلیاں اور پازیبیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ اپنے کپڑے اٹھائے ہوئے تھیں عبد اللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے کہا کہ غنیمت! اے قوم غنیمت! تمہارے ساتھی غالب آگئے تم کس کا انتظار کرتے ہو؟ عبد اللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا تم بھول گئے؟ جو رسول اللہ ﷺ نے تم سے فرمایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو بخدا ان لوگوں کے پاس جائیں گے اور غنیمت حاصل کریں گے۔

براء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو ان کے چہرے پھیر دیئے گئے وہ ہزیمت اٹھا کے آگئے اس آیت کے یہی معنی ہیں: ﴿اذیدعوہم الرسول فی اخراہم﴾ (جبکہ رسول انہیں ان کی دوسری جماعت میں بلارہے تھے) چنانچہ سوائے بارہ آدمی کے رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ کوئی نہ رہا ان (مشرکین) کو ہمارے ستر آدمی ملے رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب کو بدر کے دن ایک سو چالیس مشرکین ملے تھے۔ جن میں ستر اسیر تھے اور ستر مقتول۔

ابوسفیان کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نعرہ حق:

ابوسفیان سامنے آیا۔ اور اس نے تین مرتبہ کہا کہ آیا اس جماعت میں محمد ہیں؟ مگر رسول اللہ ﷺ نے انہیں جواب دینے سے منع فرمایا اس نے کہا کہ آیا اس جماعت میں ابن ابی قحافہ ہیں؟ کیا اس جماعت میں ابن ابی قحافہ ہیں؟ کیا اس جماعت میں ابن قحافہ ہیں؟ کیا اس جماعت میں ابن قحافہ (ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ) ہیں کیا اس جماعت میں (فاروق اعظم) عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہیں؟ کیا اس جماعت میں ابن الخطاب ہیں؟ کیا اس جماعت میں ابن الخطاب ہیں؟

ابوسفیان اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ یہ لوگ تو قتل کر دیئے گئے اور تم ان کے لیے کافی ہو گئے عمر (فاروق) رضی اللہ عنہ کو اپنے نفس پر قابو نہ رہا، انہوں نے کہا بخدا اے اللہ کے دشمن تو جھوٹا ہے۔ وہ لوگ جن کو تو نے شمار کیا سب کے سب زندہ ہیں اور وہ چیز تیرے لیے باقی ہے۔ جو تیرے ساتھ برائی کرے گی۔

ابوسفیان نے کہا کہ یہ دن بدر کے دن کا بدلہ ہے جنگ تو کبھی موافق ہوتی ہے کبھی مخالف تم لوگ اس جماعت میں مثلاً (ناک کان کاٹنا) پاؤ گے جس کا میں نے حکم نہیں دیا اور نہ مجھے وہ برا معلوم ہوا وہ رجز برا سمجھنے کرنے والے اشعار پڑھنے لگا اور کہنے لگا: "اعل ہبل اعل ہبل" (ہبل کا نام ہے) بلند رہ۔ ہبل بلند رہ۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم لوگ اسے جواب نہیں دیتے؟ عرض کی یا رسول اللہ ﷺ اسے کیا جواب دیں؟ فرمایا کہو:

اللہ اعلیٰ واجل (یعنی اللہ بزرگ و برتر ہے) ابوسفیان نے کہا کہ العزّی (بت کا نام ہے) ہمارے ہی لیے ہے تمہارے لیے کوئی عزّی نہیں ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم لوگ اسے جواب نہیں دیتے۔ عرض کی یا رسول اللہ ﷺ کیا جواب دیں؟ فرمایا کہو: اللہ مولانا ولا مولیٰ لکم (اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے)۔

سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا اعزاز:

بہل بن سعد سے مروی ہے کہ احد کے دن رسول اللہ ﷺ کا ایک دانت ٹوٹ گیا۔ چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ خود سر پر ٹوٹ گیا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کا زخم دھو رہی تھیں اور علی رضی اللہ عنہ اس پر ڈھال سے پانی ڈالتے تھے جب فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ دیکھا کہ پانی سے سوائے خون کی زیادتی کے اور کچھ نہیں ہوتا تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ایک ٹکڑا بوریہ کا لیا، اسے جلایا اور لگا دیا۔ جس سے خون رُک گیا۔

مشرکین کی مدد لینے سے انکار:

ابو حید الساعدی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ احد کے دن برآمد ہوئے حمیۃ الوداع سے آگے بڑھ گئے تو ایک بہت سے ہتھیار والے لشکر کو دیکھا فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ عبداللہ بن ابی بن سلول ہے اہل قبیحہ کے چھ سو یہودی ہمراہ ہیں جو اس کے دوست و معاہد ہیں اور وہ لوگ عبداللہ بن سلام کے قبیلے کے ہیں، استفسار فرمایا: اسلام لاکچے ہیں، لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ ﷺ فرمایا ان سے کہو واپس جائیں کیونکہ ہم مشرکین کے خلاف مشرکین سے مدد نہیں لیں گے۔ ابو مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے شہدائے احد کی نماز جنازہ پڑھی۔

غزوہ حمراء الاسد:

غزوہ حمراء الاسد ہجرت کے بیسویں مہینے ۸ شوال یکشنبہ کو ہوا، رسول اللہ ﷺ احد سے ہنّے کی شام کو واپس ہوئے تو اس شب کو آپ کے دروازہ پر چند معزز انصار نے پاسبانی کی۔ مسلمان رات کو اپنے زخموں کا علاج کرتے رہے۔ یکشنبہ کو رسول اللہ ﷺ نے نماز صبح پڑی اور بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا ندا دیں کہ رسول اللہ ﷺ تم کو دشمن کی تلاش کا حکم دیتے ہیں ہمارے ہمراہ سوائے اس کے جو جنگ میں حاضر تھا کوئی نہ نکلے۔

جابر بن عبد اللہ نے عرض کیا کہ احد کے دن میرے باپ نے مجھے میری بہنوں کی نگران کے لیے چھوڑ دیا تھا اس لیے میں جنگ میں حاضر نہ ہوا، اجازت دیجئے کہ میں آپ کے ہمراہ چلوں انہیں رسول اللہ ﷺ نے اجازت دے دی۔ سوائے ان کے آپ کے ہمراہ کوئی ایسا شخص نہیں روانہ ہوا جو جنگ میں موجود نہ تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنا جھنڈا طلب فرمایا جو بندھا ہوا تھا۔ کھلا نہ تھا۔

آپ نے اسے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دیا اور کہا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔

آپ اس حالت میں روانہ ہوئے کہ چہرہ مبارک مجروح تھا اور پیشانی مبارک زخمی تھی دندان مبارک ٹوٹا ہوا تھا۔ اور

نیچے کا ہونٹ اندر کی جانب سے مجروح تھا دابنا شانہ ابن قمیہ کی تلوار کی ضرب سے ست تھا۔ اور دونوں گھٹنے چھلے ہوئے تھے العوالی کے باشندے بھی جب انہیں آواز آئی جمع ہو کر شریک ہو گئے۔

رسول اللہ ﷺ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور لوگ آپ کے ہمراہ روانہ ہوئے آپ نے قبیلہ اسلم کے تین آدمیوں کو اس قوم کے نشان قدم پر بنا کے بھیجا ان میں سے دو آدمی اس قوم سے یعنی کفار سے 'حمرہ الاسد' میں ملے جو وادی العقیق کے راستے خلیفہ کی بائیں جانب مدینے سے دس میل کے فاصلے پر ہے جبکہ وادی کا راستہ اختیار کیا جائے۔

اس کے لیے بہت مسافت تھی لوگ پلٹنے کا مشورہ کر رہے تھے صفوان بن امیہ انہیں اس سے منع کر رہا تھا اتنے میں یہ دونوں آدمی نظر میں پڑ گئے۔ کفار ان کی طرف متوجہ ہوئے ان پر غالب آ گئے (قتل کر دیا) اور روانہ ہو گئے۔

رسول اللہ ﷺ بھی مع اپنے اصحاب کے روانہ ہوئے حمرہ الاسد میں پڑاؤ کیا۔ آپ نے ان دونوں آدمیوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا وہ دونوں باہم قرابت دار بھی تھے۔

ان راتوں میں مسلمانوں نے پانچ سو جگہ آگ روشن کی تھی جو دور دور سے نظر آتی تھی لشکر کی آواز اور آگ کی روشنی ہر طرف گئی اللہ تعالیٰ نے دشمن کو اس سے دفع کیا۔

رسول اللہ ﷺ مدینے واپس ہوئے اور جمعے کو داخل ہوئے آپ پانچ شب باہر رہے مدینے پر عبد اللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا تھا۔

سریہ ابی سلمہ بن عبد الاسد المحرمی رضی اللہ عنہ:

قطن کی جانب ابوسلمہ بن عبد الاسد المحرمی کا سریہ ہوا۔ قطن ایک پہاڑ نواح فید میں ہے وہاں بنی اسد بن خذیمہ کا چشمہ آب تھا۔ محرم کے چاند پر رسول اللہ ﷺ کی ہجرت کے پینچویں مہینے یہ سریہ ہوا۔ رسول اللہ ﷺ کو خبر پہنچی کہ طلحہ و سلمہ فرزند ان خویلد مع اپنے پیروؤں کے اپنی قوم میں جا کر رسول اللہ ﷺ کے خلاف جنگ کی دعوت دیتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ابوسلمہ کو بلایا ان کے لیے جھنڈا مقرر کیا اور ہمراہ مہاجرین و انصار میں سے ایک سو پچاس آدمی روانہ ہو گئے۔ ان سے فرمایا جاؤ یہاں تک کہ علاقہ بنی اسد میں پہنچو قبل اس کے کہ ان کی جماعتیں تمہارا مقابلہ کریں تم ان پر حملہ کر دو۔

وہ روانہ ہوئے اور اپنی رفتار تیز کر دی۔ معمولی راستے کو ترک کر دیا۔ الاخبار سے گزر کر قطن کے قریب پہنچ گئے۔ میدان پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا تین غلام چرواہوں کو گرفتار کیا باقی بچ گئے۔

وہ اپنی جماعت کے پاس آئے انہیں خبر کی سب لوگ اطراف میں منتشر ہو گئے ابوسلمہ نے اونٹ اور بکریوں کی تلاش میں اپنے ساتھیوں کو تین جماعتوں پر تقسیم کر دیا وہ صبح و سالم واپس ہوئے اونٹ اور بکریاں ساتھ لائے کوئی شخص نہیں ملا جو محرم ہوتا ابوسلمہ ان سب کو مدینہ لے آئے۔

سریہ عبد اللہ بن اُنیس رضی اللہ عنہ:

عرنہ میں سفیان بن خالد بن یحییٰ البہذلی کی جانب عبد اللہ بن انیس کا سریہ ہے۔ جو رسول اللہ ﷺ کی ہجرت کے

پینتیسویں ماہ ۵/ محرم یومِ دو شنبہ کو مدینہ روانہ ہوئے رسول اللہ ﷺ کو یہ خبر پہنچی کہ سفیان بن خالد البہذلی والکھانی نے جو عورت اور اس کے قرب و جوار میں اتر کر تھکا۔ اپنی قوم وغیرہ کے لوگوں کے ہمراہ رسول اللہ ﷺ کے لیے کچھ گروہ جمع کیے ہیں رسول اللہ ﷺ نے عبد اللہ بن انیس جی سے کو بھیجا کہ وہ اسے قتل کر دیں۔

انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اس کا کچھ حال مجھ سے بیان فرما دیجئے آپ نے فرمایا کہ جب تم اسے دیکھو گے تو اس سے ڈر جاؤ گے اس سے پریشان ہو جاؤ گے۔ اور تمہیں شیطان یاد آ جائے گا۔ عبد اللہ نے کہا کہ میں آدمیوں سے نہیں ڈرتا رسول اللہ ﷺ سے بات بنانے کی اجازت چاہی جو مل گئی۔

میں نے اپنی تلوار لی اور اپنے کو بنی خزاعہ کی طرف منسوب کرتا ہوا نکلا جب بطنِ عرنہ پہنچا تو اس سے اس حالت میں ملا کہ وہ جارہا تھا اس کے پیچھے مختلف قبائل کے لوگ تھے۔ جو اس کے پاس جمع ہو گئے تھے رسول اللہ ﷺ نے جو حلیہ بیان فرمایا تھا اس سے میں نے پہچانا۔ اور ڈر گیا۔ خوف ایسا طاری ہوا کہ پینے پینے ہو گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ اور اس کے رسولؐ سچے ہیں۔ اس نے مجھے دریافت کیا تو میں نے کہا کہ خزاعہ کا ایک آدمی ہوں۔ محمد (ﷺ) کے لیے تیرے گروہ کو سن کر یہاں آیا کہ میں بھی تیرے ساتھ ہو جاؤں۔ اس نے کہا بے شک میں ان کے مقابلہ کی تیاری کر رہا ہوں۔

میں اس کے ساتھ باتیں کرتا چلا اس کو میری بات شیریں معلوم ہوئی باتیں کرتے کرتے اس کے خیمے تک پہنچ گئے۔ اس کے ساتھی جدا ہو گئے لوگ منقطع ہو گئے اور سو گئے تو میں نے اسے دھوکا دے کر قتل کر دیا اور اس کا سر لے لیا۔

میں پہاڑ کے غار میں داخل ہو گیا اور مکڑی نے مجھ پر جالا لگا دیا۔ بہت تلاش کیا۔ مگر انہیں کچھ نہ ملا۔ اور واپس ہونے کے لیے پلٹے۔ میں نکلا رات بھر چلتا تھا اور دن کو پوشیدہ رہتا تھا۔ یہاں تک کہ مدینہ آ گیا۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کو مسجد میں پایا جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا تمہارا چہرہ فلاح پائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا چہرہ بھی فلاح پائے میں نے اس کا سر آپ کے سامنے رکھ دیا اور واقعے سے آپ کو آگاہ کیا۔ اٹھارہ روز باہر رہے اور ۲۳ محرم یومِ شنبہ کو آئے۔

آپ نے مجھے ایک عصا عطا فرمایا کہ اسے پکڑ کے جنت میں چلے جاؤ وہ عصا ان کے پاس رہا۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے گھروالوں کو وصیت کی کہ عصا کفن میں رکھ دیں انہوں نے یہی کیا۔

سریرہ المندر بن عمرو:

رسول اللہ ﷺ کی ہجرت کے چھتیسویں مہینے صفر میں پیر معونہ کی طرف المندر بن عمرو الساعدی کا سر یہ ہوا۔ عامر بن جعفر ابو براء ملاعب الاسۃ الکلابی رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا۔ اور آپ کو ہدیہ دیا، مگر آپ نے قبول نہیں فرمایا۔ آپ نے اس پر اسلام پیش کیا مگر اس نے اسلام قبول نہیں کیا اور دور بھی نہیں ہوا۔

عامر نے درخواست کی کہ اگر آپ اصحاب میں سے چند آدمی میرے ہمراہ میری قوم کے پاس بھیج دیں۔ تو امید ہے کہ وہ آپ کی دعوت قبول کر لیں گے اور آپ کے حکم کا اتباع کریں گے آپ نے فرمایا کہ مجھے اہل نجد کا خوف ہے۔ اس نے کہا میں تو ان کے ہمراہ ہوں پھر کیسے کوئی ان کے سامنے آئے گا۔

رسول اللہ ﷺ نے انصار میں سے ستر نو جوانوں کو جو قاری کہلاتے تھے اس کے ہمراہ کر دیا اس پر المنذر بن عمرو الساعدی کو امیر بنایا یہ لوگ بیر معونہ پر اترے جو بنی سلیم کا گھاٹ تھا۔ اور بنی عامر بنی سلیم کی زمین کے درمیان تھا یہ دونوں بستیوں اسی کی شمار ہوتی تھیں اور وہ المعدن کے نواح میں تھا۔ وہ لوگ وہیں اترے پڑاؤ کیا اور اپنے اونٹ چھوڑ دیئے۔

بیر معونہ پر ۷۰ صحابہ رضی اللہ عنہم کی مظلومانہ شہادت:

انہوں نے پہلے حرام بن ملحان کو رسول اللہ ﷺ کے فرمان کے ساتھ عامر بن الطفیل کے پاس بھیجا اس نے حرام پر حملہ کر کے شہید کر دیا۔ مسلمانوں کے خلاف اس نے بنی عامر کو بلایا مگر انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ ابو براء کے ساتھیوں (مہمانوں) کے ساتھ دعا نہیں کی جائے گی۔

اس نے ان کے ساتھ قبائل سلیم میں سے عصیہ اور ذکوان اور رعل کو پکارا وہ لوگ اس کے ہمراہ روانہ ہو گئے اور اسے اپنا رئیس بنالیا، حرام کے آنے میں دیر ہوئی تو مسلمان ان کے نشان قدم پر روانہ ہوئے، کچھ دور جا کر انہیں وہ جماعت ملی۔ انہوں نے مسلمانوں کا احاطہ کر لیا دشمن تعداد میں زیادہ تھے۔ جنگ ہوئی رسول اللہ ﷺ کے اصحاب شہید کر دیئے گئے۔

مسلمانوں میں سلیم بن ملحان اور الحکم بن کیسان تھے جب انہیں گھیر لیا گیا تو انہوں نے کہا اے اللہ ہمیں سوائے تیرے کوئی ایسا نہیں ملتا جو ہمارا سلام تیرے رسول کو پہنچا دے لہذا تو ہی ہمارا سلام پہنچا۔ آپ کو (ﷺ) جبریل علیہ السلام نے اس کی خبر دی تو فرمایا و علیہ السلام۔

منذر بن عمرو سے ان لوگوں نے کہا کہ اگر تم چاہو تو ہم تمہیں امن دے دیں مگر انہوں نے انکار کیا کہ وہ حرام کے قتل کا گاہ پر آئے ان لوگوں سے جنگ کی یہاں تک کہ شہید کر دیئے گئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ وہ بڑھ گئے تاکہ مرجائیں یعنی موت کے آگے چلے گئے حالانکہ وہ اسے جانتے تھے۔

عمرو بن امیہ الضمری کی رہائی:

مسلمانوں میں عمرو بن امیہ الضمری تھے۔ سوائے ان کے سب شہید کر دیئے گئے۔ عامر بن طفیل نے کہا کہ میری ماں کے ذمہ ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ لہذا تم اس کی طرف سے آزاد ہو اور ان کی پیشانی کو کاٹ دیا۔ عمرو بن امیہ نے عامر بن فہیرہ کو مقتولین میں نہ پایا تو عامر بن طفیل سے دریافت کیا اس نے کہا کہ انہیں بنی کلاب کے ایک شخص نے جس کا نام جبار بن سلمیٰ ہے قتل کر دیا۔ جب اس نے انہیں نیزہ مارا تو انہوں نے کہا اللہ میں کامیاب ہو گیا۔ وہ آسمان کی طرف بلندی میں اٹھالیے گئے۔

جبار بن سلمیٰ نے جو عامر بن فہیرہ کا قتل اور ان کا اٹھایا جانا دیکھا تو وہ اسلام لے آیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ملائکہ نے ان کے جتنے کو چھپا دیا۔ اور وہ علیین میں اتار دیئے گئے۔

رسول اللہ ﷺ کو شہداء بیر معونہ کی اطلاع:

رسول اللہ ﷺ کے پاس بیر معونہ والوں کی خبر آئی اسی شب خبیث بن عدی اور مرشد بن عدی بن ابی مرہد کی مصیبت کی بھی خبر آپ کے پاس آئی آپ نے محمد بن مسلمہ کو بھیجا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ ابو براء کا کام ہے میں اسی لیے ناپسند

کرنا تھا۔

قاتلین کے لیے بددعا:

رسول اللہ ﷺ نے صبح کی نماز میں رکوع کے بعد ان (مسلمان) کے قاتلین کے لیے بددعا فرمائی: اللہم اشدد وطاء تلك على مضر (اے اللہ مضر پر اپنی گرفت مضبوط کر دے) اللہم سنين كسني يوسف (اے اللہ یوسف کے قحط کی طرح ان پر قحط نازل فرما) اللہم عليك بنی لحیان و عضل والقارة وزغب ورعل و ذکوان وعصية (اے اللہ بنی لحیان و عضل و قارہ و زغب و رعل و عصیہ کی گرفت کر) فانهم عصوا الله ورسوله (کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے)۔

رسول اللہ ﷺ نے کسی اور پر اتار نچ محسوس نہیں فرمایا جتنا مقتولین بیر معونہ پر ان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا جو بعد کو منسوخ ہو گیا: بلغوا قومنا عنا انا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه (ہماری قوم کو یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم اپنے پروردگار سے ملے وہ ہم سے خوش ہوا اور ہم اس سے خوش ہوئے)۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے اللہ بنی عامر کو ہدایت دے اور عامر بن طفیل سے میرے نقض عہد کا بدلہ لے عمرو بن امیہ چار روز پیادہ چل کر آئے۔ وہ جب صدور قنادہ میں تھے۔ تو انہیں بنی کلاب کے دو شخص ملے جنہیں رسول اللہ ﷺ کی طرف سے امن تھا، مگر یہ جانتے نہ تھے۔ اس لیے انہوں نے ان دونوں کو قتل کر دیا۔ عمر و رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے آپ کو اصحاب بیر معونہ کے قتل کی خبر دی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ ان میں سے تم پلٹ آئے۔ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو دونوں عامریوں کے قتل کی خبر دی۔ تو آپ نے فرمایا تم نے بہت برا کیا۔ ان دونوں کو تو میری طرف سے امن و پناہ تھی میں دونوں کا خوں بہا ضرور ادا کروں گا۔ آپ نے ان دونوں کا خوں بہا ان دونوں کی قوم میں بھیج دیا۔

انس بن مالک سے مروی ہے کہ رعل و ذکوان و عصیہ و بنی لحیان رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور آپ سے اپنی قوم کے خلاف مدد چاہی آپ نے ستر انصار سے ان کی مدد فرمائی یہ لوگ قاری کہلاتے تھے دن بھر لکڑیاں چننے اور رات بھر نماز پڑھتے تھے۔ جب وہ بیر معونہ پہنچے تو ان کے ساتھ بدعہدی کی اور انہیں قتل کر ڈالا یہ خبر نبی ﷺ کو پہنچی تو آپ نے ایک مہینے تک صبح کی نماز میں رعل و ذکوان و عصیہ و بنی لحیان پر بددعا کی۔

ہم نے ایک زمانے تک ان کے بارے میں قرآن کی یہ آیت پڑھی پھر وہ یا تو اٹھالی گئی یا بھلا دی گئی۔ بلغوا عنا قومنا انا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه۔

شہدائے بیر معونہ کی عظمت و فضیلت:

مکحول سے مروی ہے کہ میں نے انس بن مالک سے قاری ابو حمزہ کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا افسوس ہے۔ وہ لوگ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں قتل کر دیئے گئے وہ ایسا گروہ تھا کہ رسول اللہ ﷺ کے لیے شیریں پانی لاتا تھا۔ لکڑیاں چننا تھا۔ جب رات ہوتی تو سواری کی طرف نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔

کعب بن مالک اور چند اہل علم سے مروی ہے۔ کہ منذر بن عمرو الساعدی بیر معونہ کے دن شہید ہوئے، وہ ایسے شخص تھے جن کو کہا جاتا ہے کہ موت کے لیے آگے بڑھ گئے، عامر بن طفیل نے ان کے لیے بنی سلیم سے مدد چاہی تھی، وہ اس کے ہمراہ گئے اور انہیں قتل کر دیا۔ سوائے عمرو بن امیہ الضمری کے جنہیں عامر بن طفیل نے گرفتار کر لیا تھا۔ مگر پھر چھوڑ دیا۔

جب وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے تو رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا، کہ تم ان میں سے پلٹ آئے اسی گروہ میں عامر بن نفیرہ بھی تھے۔ ابن شہاب نے کہا کہ عروہ بن زبیر کا گمان یہ ہے کہ وہ اسی روز قتل کر دیئے گئے مگر جس وقت وہ سب لوگ دفن کیے گئے تو ان کا جسم نہیں ملا۔ عروہ نے کہا کہ لوگوں کا گمان یہ تھا کہ ملائکہ ہی نے انہیں دفن کیا۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو لوگ بیر معونہ میں شہید ہوئے ان کے بارے میں قرآن نازل ہوا جو بعد کو منسوخ ہو گیا: بلغوا قومنا انا قد لقینا ربنا فرضی عنا ورضینا عنہ اور رسول اللہ ﷺ ان لوگوں پر جنہوں نے انہیں قتل کیا تیس دن صبح کو بد دعا کی وہ رعل و ذکوان و عصیہ تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی کی۔

عاصم سے مروی ہے کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ میں نے کسی پر رسول اللہ ﷺ کو اتار بخیدہ ہوتے نہیں دیکھا جتنا کہ اصحاب بیر معونہ پر۔

سریہ مرشد بن ابی مرشد رضی اللہ عنہ:

شروع صفر میں رسول اللہ ﷺ کی ہجرت کے چھتیسویں مہینے رجب کی جانب مرشد بن ابی القوی کا سریہ ہے۔ اسید بن علاء بن جاریہ سے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہم نشینوں میں تھے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک قوم عضل و قارہ سے آئی جو الہون بن خزیمہ کی طرف منسوب تھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہم میں بھی اسلام ہے۔ لہذا ہمارے ہمراہ اپنے اصحاب میں سے کچھ لوگوں کو بھیج دیجئے جو ہمیں سمجھائیں قرآن پڑھائیں اور شریعت اسلامی سکھائیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کے ہمراہ دس آدمی روانہ کیے (۱) عاصم بن ثابت بن ابی اللاح (۲) مرشد بن ابی مرشد (۳) عبد اللہ بن طارق (۴) ضعیب بن عدی (۵) زید بن دغنه (۶) خالد بن ابی الکبیر (۷) معتب بن عبید جو عبد اللہ بن طارق کے اخیانی بھائی تھے، دونوں قبیلہ بلی سے تھے۔ جو بنی ظفر کے حلیف تھے۔

ان پر آپ نے عاصم بن ثابت کو اور بعض نے کہا کہ مرشد بن ابی مرشد کو امیر بنایا، وہ روانہ ہوئے۔ جب رجب پہنچے جو الہذہ سے نکلنے پر بذیل کا گھاٹ ہے (الہذہ وہاں (یعنی رجب) سے سات میل ہے اور عسفان سے بھی سات میل ہے) تو انہوں نے اس جماعت کے ساتھ بد عہدی کی، ان کے خلاف پکار کر بذیل کو بلایا۔ بنو لحيان ان کی طرف نکلے مگر اس جماعت کو سوائے ان لوگوں کے کسی کا خوف نہ ہوا، جن کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ اور انہیں گھیر لیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ کے اصحاب نے بھی اپنی تلواریں لے لیں اور ان سے کہا کہ ہم لوگ بخدا تم سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اہل مکہ سے تمہارے ذریعہ عوض لیں، تمہارے لیے تو عہد و میثاق ہے کہ ہم تم کو قتل نہ کریں گے۔

لیکن عاصم بن ثابت، مرشد بن ابی مرشد، خالد بن ابی الکبیر اور معتب بن ابی الکبیر نے کہا کہ واللہ ہم کسی شرک کا عہد و

عقد (معاملہ) کبھی قبول نہ کریں گے ان لوگوں نے ان سے جنگ کی یہاں تک کہ قتل کر دیئے گئے مگر زید بن دثمنہ اور خبیب بن عدی اور عبد اللہ بن طارق گرفتار کر لیے گئے انہوں نے اپنے آپ کو ان لوگوں کے حوالے کر دیا۔

حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کے سر کی قدرتی حفاظت:

انہوں نے چاہا کہ عاصم کا سر سلافہ بنت سعد بن شہید کے ہاتھ فروخت کریں جس نے نذر مانی تھی کہ عاصم کے کانسرہ سر میں شراب پئے گی۔ عاصم نے اس کے دو بیٹوں مسافع و جلاس کو احد کے دن قتل کیا تھا، مگر بھڑوں (زبور) نے ان کی حفاظت کی تو انہوں نے کہا کہ ان کو اتنی مہلت دو کہ شام ہو جائے کیونکہ اگر شام ہو جائے گی تو وہ بھڑیں۔ ان کے پاس سے چلی جائیں گی۔ حضرت عبد اللہ بن طارق رضی اللہ عنہ کی شہادت:

اللہ تعالیٰ نے وادی میں سیلاب بھیج دیا جو انہیں اٹھا لے گیا وہ ان تین آدمیوں کو لے کر روانہ ہو گئے جب مرا نظر ان پہنچے تو عبد اللہ بن طارق نے اپنا ہاتھ رسی سے چھڑا لیا اور اپنی تلوار لے لی قوم ان کے پیچھے رہ گئی تھی۔ ان لوگوں نے پھر مار کر انہیں قتل کر دیا۔ ان کی قبر مرا نظر ان میں ہے۔

حضرت خبیب اور حضرت زید رضی اللہ عنہما کی مظلومانہ شہادت:

خبیب اور زید کو مکے لائے زید کو صفوان بن امیہ نے خرید لیا کہ اپنے باپ کے عوض قتل کرے، خبیب بن عدی کو جحیر بن ابی اباب نے اپنے بھانجے عقبہ بن الحارث بن عامر بن نوفل کے لیے خرید لیا کہ وہ انہیں اپنے باپ کے بدلے قتل کرے۔ ان لوگوں نے دونوں کو قید رکھا، اشہر حرام (وہ مہینے جن میں لوگ قتل و خونریزی کو حرام سمجھتے تھے) نکل گئے تو دونوں کو تعصیم لے گئے اور وہاں قتل کر دیا۔ دونوں نے قبل اس کے کہ انہیں قتل کیا جائے دو دو رکعت نماز پڑھی، خبیب پہلے شخص ہیں جنہوں نے قتل کے وقت دو رکعتیں مسنون کیں۔

رسول اللہ ﷺ سے سیدنا زید رضی اللہ عنہ کی محبت کا مظاہرہ:

عمر بن عثمان بن عبد اللہ بن موہب سے مروی ہے کہ موہب نے جو حارث بن عامر کے آزاد کردہ غلام تھے بیان کیا کہ ان لوگوں نے خبیب کو میرے پاس کر دیا تھا۔ مجھ سے خبیب نے کہا کہ اے موہب میں تجھ سے تین باتیں چاہتا ہوں:

۱: مجھے آب شیریں پلایا کر۔

۲: مجھے اس سے بچا جو بتوں کے نام پر ذبح کیا جائے۔

۳: جب وہ لوگ میرے قتل کا ارادہ کریں تو مجھے آگاہ کر دے۔

عاصم بن عمرو بن قتادہ سے مروی ہے کہ قریش کا ایک گروہ جن میں ابوسفیان بھی تھا زید کے قتل میں حاضر ہوا۔ ان میں سے کسی نے کہا: اے زید! تمہیں خدا کی قسم کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اس وقت اپنے عزیزوں میں ہوتے اور تمہارے بجائے محمد ﷺ ہمارے پاس ہوتے کہ ہم ان کی گردن مارتے انہوں نے کہا: نہیں۔ خدا کی قسم میں یہ نہیں چاہتا کہ محمد ﷺ کو بجائے میرے کوئی کاٹا بھی چھو یا جائے جو انہیں ایذا دے اور میں اپنے عزیزوں میں بیٹھا ہوں۔

راوی نے کہا کہ ابوسفیان کہتا تھا 'واللہ میں نے کبھی کسی قوم کو اپنے ساتھی سے اس قدر زیادہ محبت کرتے نہیں دیکھا جس قدر محمدؐ کے ساتھ ان کے اصحاب کو ہے۔
غزوہ بنی النضیر:

ماہ ربیع الاول ۴۰ھ میں ہجرت کے سنتیسویں مہینے غزوہ بنی النضیر ہوا۔ بنی النضیر کے مکانات الغرس اور اس کے متصل تھے جو آج بنی نطمہ کا قبرستان ہے، وہ بنی عامر کے حلفاء تھے۔

رسول اللہ ﷺ شنبہ کو روانہ ہوئے۔ مسجد قباء میں نماز پڑھی۔ ہمراہ مہاجرین و انصار کی ایک جماعت تھی، آپ بنی النضیر کے پاس تشریف لائے ان سے اس بارے میں گفتگو فرمائی کہ وہ لوگ ان دونوں کلاہیوں کی دیت کے معاملہ میں آپ کی مدد کریں جنہیں عمرو بن امیہ ضمری نے قتل کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا اے ابوالقاسم آپ جو چاہتے ہیں ہم کریں گے۔ مگر ان میں بعض نے بعض سے تنہائی میں باتیں کیں اور آپ سے بدعہدی کا قصد کر لیا۔

عمرو بن حجاج بن کعب بن سہیل النضیری نے کہا کہ میں مکان پر چڑھ جاؤں گا اور آپ پر ایک پتھر ڈھک دوں گا۔ سلام بن مشکم نے کہا کہ ایسا نہ کرو واللہ تم نے جو ارادہ کیا اس کی انہیں خبر دی جائے گی اور یہ اس عہد کے بھی خلاف ہے۔ جو ہمارے اور ان کے درمیان ہو چکا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے پاس ان کے قصد کی خبر آئی۔ آپ اس تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے گویا کسی حاجت کا قصد فرماتے ہیں اور مدینے روانہ ہو گئے اصحاب بھی آپ سے آئے۔ انہوں نے عرض کیا آپ اس طرح کھڑے ہو گئے کہ ہمیں خبر بھی نہ ہوئی۔ فرمایا یہود نے بدعہدی کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ نے اس کی مجھے خبر دے دی۔ اس لیے میں کھڑا ہو گیا۔
بنی نضیر کو دس دن کی مہلت:

رسول اللہ ﷺ نے محمد بن مسلمہ سے کہلا بھیجا کہ تم لوگ میرے شہر سے نکل جاؤ اور میرے ساتھ اس میں نہ رہو۔ تم نے جس بدعہدی کا قصد کیا وہ کیا میں تمہیں دس دن کی مہلت دیتا ہوں اس کے بعد جو نظر آئے گا۔ اس کی گردن ماز دی جائے گی۔ وہ اس پر بھی چند روز ٹھہر کر تیاری کرتے رہے۔ انہوں نے ذوالجدر میں اپنے مددگاروں کے پاس قاصد روانہ کیا اور لوگوں سے تیز چلنے والے اونٹ کرائے پر لیے۔

بنی نضیر کا اعلان جنگ:

ابن ابی نے کہلا بھیجا کہ تم لوگ شہر سے نہ نکلو اور قلعے میں مقیم ہو جاؤ میرے ساتھ میرے ہم قوم اور عرب دو ہزار ہیں جو تمہارے ساتھ تمہارے قلعے میں داخل ہوں گے اور آخر تک مرجائیں گے قرظہ اور غطفان کے حلفاء تمہاری مدد کریں گے۔ جو کچھ ابن ابی نے کہا اس سے جی کو لالچ پیدا ہوا۔ اس نے رسول اللہ ﷺ کو کہلا بھیجا کہ ہم لوگ شہر سے نہیں نکلیں گے آپ سے جو ہو سکے وہ کہتے رسول اللہ ﷺ نے زور سے تکبیر کہی مسلمانوں نے بھی آپ کی تکبیر کے ساتھ تکبیر کہی۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا یہود نے اعلان جنگ کر دیا۔

نبی ﷺ اصحاب کے ہمراہ ان کی طرف روانہ ہوئے بنی النضیر کے میدان میں نماز عصر پڑھی۔ علی رضی اللہ عنہ کو اپنا علم دیا اور مدینہ پر ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا۔

بنو قریظہ کی علیحدگی:

جب انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا تو تیر اور پتھر اپنے ہمراہ لے کے قلعوں پر چڑھ گئے، قریظہ ان سے علیحدہ رہے۔ انہوں نے مدد نہیں کی ابن ابی اور اس کے حلفائے غطفان نے بھی انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا وہ ان کی مدد سے مایوس ہو گئے۔

محاصرہ بنی نضیر:

رسول اللہ ﷺ نے ان کا محاصرہ کر لیا اور بارغ کاٹ ڈالا تب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے شہر سے نکلے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آج میں اس کو نہیں مانتا لیکن اس سے اس طرح نکلو کہ تمہارے لیے تمہاری جانیں ہوں گی اور سوائے زرہ کے جو کچھ اونٹ لادیں گے وہ ہوگا اس شرط پر یہود اتر آئے۔

بنی نضیر کی جلا وطنی کا فیصلہ:

آپ نے پندرہ دن تک ان کا محاصرہ کیا، وہ اپنے مکان اپنے ہاتھ سے خراب کر رہے تھے۔ آپ نے انہیں مدینے سے جلا وطن کر دیا اور ان کے نکالنے پر محمد بن مسلمہ کو والی بنایا۔ یہود نے اپنے بچوں اور عورتوں کو بھی سوار کر لیا اور وہ چھ سو اونٹوں پر سوار ہوئے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ لوگ اپنی قوم میں ایسے ہی ہیں جیسے بنی النضیر، قریش میں وہ خیر چلے گئے منافقین کو ان پر بڑا رنج ہوا۔

بنی نضیر کے اموال و اسلحہ:

رسول اللہ ﷺ نے ان کے مالوں اور زرہوں پر قبضہ کر لیا۔ آپ کو پچاس زرہیں، پچاس خواتین سو چالیس تلواریں ملیں۔ بنو النضیر، رسول اللہ ﷺ کے لیے مخصوص تھے۔ آپ کے حوائج ضروریہ رفع کرنے کے لیے (ان کے اموال) خاص آپ کے لیے تھے۔ آپ نے ان اموال کو پانچ حصوں پر تقسیم نہیں فرمایا۔ نہ اس میں سے کسی کا کوئی حصہ لگایا اپنے اصحاب میں سے چند آدمیوں کو عطا فرمایا اور ان اموال سے انہیں وسعت عطا فرمائی۔

جن لوگوں کو عطا کیا گیا ان میں سے مہاجرین کے نام جو ہمیں معلوم ہوئے یہ ہیں۔

ابوبکر صدیق کو بصرہ، عمر بن الخطاب کو بصرہ، عبد الرحمن بن عوف کو سوالہ، صہیب بن سنان کو الضراطہ، زبیر بن العوام کو اور ابوسلمہ بن عبد الاسد کو البویلہ، سمیل بن حنیف اور ابو وجانہ رضی اللہ عنہ کو وہ مال دیا۔ جو ابن خربشہ کا مال کہلاتا تھا۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بنی نضیر کا بارغ البویرہ جلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمْوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ اصولِهَا فَبَادِئِ اللّٰهُ﴾ (تم نے جو کھجور کے درخت کاٹ ڈالے یا انہیں ان

کی جڑوں پر قائم رہنے دیا تو یہ اللہ ہی کے حکم سے ہوا تاکہ اللہ کا فروں کو ذلیل کرے۔

حسن سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے جب بنی النضیر کو جلا وطن کیا تو فرمایا چلے جاؤ کیونکہ یہ پہلا حشر ہے اور میں (ان کے) نشان پر ہوں۔
غزوہ بدر الموعود:

رسول اللہ ﷺ کا غزوہ بدر الموعود جو بدر القتال کے علاوہ ہے ذیقعدہ کے چاند پر ہجرت کے پینتالیسویں مہینے پیش آیا۔ جب ابوسفیان بن حرب نے یوم احد میں واپس ہونے کا ارادہ کیا تو اس نے ندادی کہ ہمارے تمہارے درمیان سال کے شروع میں بدر الصفر (کی جنگ کا) وقت مقرر ہے۔ جہاں ہم لوگ مل کے قتال کریں گے رسول اللہ ﷺ نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہہ دو ہاں ان شاء اللہ لوگ اس بات پر منتشر ہو گئے۔ قریش بھی لوٹ گئے۔

نعیم بن مسعود کی مہم پر روانگی:

انہوں نے اپنے طرفداروں کو اس میعاد کی خبر دی اور روانگی کی تیاری کی جب میعاد قریب آئی تو ابوسفیان نے روانگی ناپسند کی نعیم بن مسعود الا شجعی مکے میں آیا تو اس سے ابوسفیان نے کہا کہ میں نے محمدؐ اور ان کے اصحاب سے وعدہ کیا تھا کہ ہم بدر میں ملیں گے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے۔ مگر یہ سال خشک ہے۔ اور ہمارے لیے وہ سال مفید ہے۔ جس میں سبزہ اور کثیر بارش ہو۔ مجھے یہ بھی گوارہ نہیں کہ محمدؐ روانہ ہوں اور میں روانہ نہ ہوں کیونکہ انہیں ہم پر جرأت ہو جائے گی، ہم صرف اس بات پر تیرے بیس کام کر دیں گے جن کا تیرے لیے ہل بن عمرو ضامن ہوگا کہ تو مدینے میں پہنچ کر اصحاب محمدؐ کو ان سے جدا کر دے۔

وہ راضی ہو گیا انہوں نے انتظام کیا اسے ایک اونٹ پر سوار کیا جو تیزی کے ساتھ روانہ ہوا اور مدینے میں آیا اس نے ابوسفیان کی تیاری اور اس کے ہتھیار کی خبر دی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے ضرور ضرور روانہ ہوں گا۔ خواہ میرے ہمراہ کوئی شخص بھی روانہ نہ ہو۔

مدینے سے روانگی:

اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی اور ان سے رعب کو دور کیا رسول اللہ ﷺ نے مدینے پر عبداللہ بن رواحہ کو خلیفہ بنایا۔ جھنڈا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اٹھایا۔ آپ مسلمانوں کے ہمراہ روانہ ہوئے جو پندرہ سو تھے صرف دس گھوڑے ساتھ تھے۔

بدر الصفراء پر اجتماع:

وہ لوگ اپنا مال و اسباب تجارت بھی لے گئے بدر الصفراء ایک مقام اجتماع تھا جس میں عرب جمع ہوا کرتے تھے وہ ایک بازار تھا جو ذی القعدہ کے چاند سے ۸ تاریخ تک قائم رہتا تھا پھر لوگ اپنے اپنے شہروں میں منتشر ہو جاتے تھے۔ مسلمان ذی القعدہ کی چاند رات کو پہنچے اور صبح کو بازار لگ گیا۔ وہ لوگ آٹھ دن وہاں رہے جو مال تجارت لے گئے تھے۔ اسے فروخت کیا تو انہیں ایک درم پر ایک درم نفع ہوا جب واپس ہوئے تو قریش نے ان کی روانگی سن لی۔

مشرکین کا فرار:

ابوسفیان بن حرب دو ہزار قریش کے ہمراہ مکہ سے نکلا ان کے ساتھ چچاس گھوڑے تھے۔ وہ مجنہ تک پہنچے جو مرالظہر ان میں ہے۔ وہاں ابوسفیان نے کہا کہ واپس چلو کیونکہ ہمیں سوائے سبزہ اور بارش کثیر کے اور کوئی سال مناسب نہیں جن میں ہم مویشی چرائیں اور دودھ پیئیں یہ سال خشک ہے لہذا میں تو پلٹتا ہوں اور تم بھی پلٹو۔ اہل مکہ نے اس لشکر کا نام جیش السویق رکھا (یعنی ستوکا لشکر) اس لیے کہ وہ لوگ ستوپیتے ہوئے نکلے تھے۔

معبد بن ابی معبد الخزاعی رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب کی بدر میں پہنچنے کی خبر کے میں لایا تو صفوان بن امیہ نے ابوسفیان سے کہا میں نے تجھے اسی روز اس قوم سے میعاد مقرر کرنے کو منع کیا تھا۔ اب انہیں ہم پر جرأت ہو گئی انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم ان سے پیچھے رہ گئے پھر ان لوگوں نے غزوہ خندق کے لیے جنگ و خروج و تیاری شروع کی۔

غزوہ بدر الصغریٰ:

مجاہد سے مروی ہے۔ کہ آیت ﴿الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم﴾ (یہ وہ ہیں کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ تمہارے لیے سامان جمع کیا ہے) کی تفسیر میں کہا کہ یہ ابوسفیان ہے جس نے احد کے دن کہا تھا کہ اے محمد! تمہاری میعاد بدر ہے۔ جہاں تم نے ہمارے ساتھیوں کو قتل کیا تھا تو محمد ﷺ نے فرمایا قریب ہے۔

نبی ﷺ اپنے وعدے کے مطابق گئے بدر میں اترے اور بازار کے وقت پہنچے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول یہی ہے: ﴿فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسهم سوء﴾ (یہ لوگ اللہ کے ایسے فضل و نعمت کے ساتھ واپس ہوئے کہ انہیں ذرا سی بھی ناگواری نہ پیش آئی) فضل وہ ہے۔ جو انہیں تجارت سے ملایا (غزوہ) غزوہ بدر الصغریٰ ہے۔

غزوہ ذات الرقاع:

رسول اللہ ﷺ ہجرت کے سینتالیسویں مہینے ماہ محرم میں غزوہ ذات الرقاع کے لیے روانہ ہوئے۔

کوئی آنے والا مدینے میں اپنا مال تجارت لایا۔ اس نے رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کو خبر دی کہ انمار و ثعلبہ نے مقابلے کے لیے کچھ گروہ جمع کیے ہیں یہ خبر رسول اللہ ﷺ کو پہنچی تو آپ نے مدینے پر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو قائم مقام بنایا اور شب شنبہ ۱۰ محرم کو چار سو اصحاب کے ساتھ اور کہا جاتا ہے کہ سات سو اصحاب کے ساتھ روانہ ہوئے۔ آپ چلتے چلتے ان کے مقام جو ذات الرقاع میں تھا آ گئے۔ یہ ایک پہاڑ ہے جس میں سرخی و سیاہی و سفیدی کی زمیں ہیں اور انجیل کے قریب السعد اور الشقرہ کے درمیان ہے۔

پہلی بار نماز خوف:

آپ نے ان مقامات میں سوائے عورتوں کے کسی کو نہ پایا، انہیں گرفتار کر لیا ان میں ایک خوبصورت لڑکی بھی تھی اعراب پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھاگ گئے نماز کا وقت آیا تو مسلمانوں کو خوف ہوا کہ وہ لوگ حملہ کر دیں گے۔ رسول اللہ ﷺ نے نماز خوف پڑھائی یہ سب سے پہلا موقع تھا جو آپ نے نماز خوف پڑھی۔

مدینہ واپسی:

رسول اللہ ﷺ مدینے کا ارادہ کر کے واپس ہوئے آپ نے جابر بن عبد اللہ سے اسی سفر میں ایک اوقیہ میں ان کا اونٹ خرید اور مدینے تک اس کی سواری کی شرط کر دی ان سے ان کے والد کا قرض دریافت فرمایا تو انہوں نے بتایا رسول اللہ ﷺ نے ان کے لیے اسی شب میں پیچیس بار دعائے مغفرت فرمائی۔ رسول اللہ ﷺ نے جمال بن سراقہ کو اپنی اور مسلمانوں کی سلامتی کی خوشخبری دینے کے لیے مدینے روانہ کیا آپ ۲۵ محرم یکشنبہ کو صرار میں آئے صرار مدینے سے تین میل ہے جو عراق کے راستے میں جاہلیت کے زمانے کا کنواں تھا۔ آپ پندرہ شب باہر رہے۔

جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ ذات الرقاع میں ہم کسی سایہ دار درخت کے نیچے ہوتے تو اسے رسول اللہ ﷺ کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ مشرکین میں سے ایک شخص آیا۔ رسول اللہ ﷺ کی تلوار ایک درخت سے لٹکی ہوئی تھی اس نے وہ لے لی اور سونت لی رسول اللہ ﷺ سے کہا کہ کیا آپ مجھ سے ڈرتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں اس نے کہا پھر مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ مجھے تجھ سے بچائے گا۔ اسے اصحاب نے دھکایا تو اس نے تلوار میان میں کر دی اور لٹکا دی۔

اذان کہی گئی تو آپ نے ایک گروہ کو دو رکعتیں پڑھائیں وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ پھر دوسرے گروہ کو دو رکعتیں پڑھائیں رسول اللہ ﷺ کی چار رکعتیں اور ہر جماعت کی دو رکعتیں۔

غزوہ دومۃ الجندل:

ماہ ربیع الاول میں ہجرت کے انچاسویں مہینے رسول اللہ ﷺ کا غزوہ دومۃ الجندل ہے۔

رسول اللہ ﷺ کو اطلاع ملی کہ دومۃ الجندل میں بہت بڑی جماعت ہے جو شترسوار اور مزدور ادھر سے گزرتے ہیں۔ وہ لوگ ان پر ظلم کرتے ہیں ان کا ارادہ مدینے پر حملہ کا ہے۔

دومۃ الجندل شام کے راستہ کے کنارے پر ہے اس کے اور دمشق کے درمیان پانچ رات کی مسافت ہے اور مدینے سے پندرہ یا سولہ رات کی مسافت ہے۔

مدینہ میں حضور ﷺ کی نیابت:

رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو بلایا مدینے پر سباع بن عرفظہ الغفاری کو اپنا قائم مقام بنایا آپ ۲۵ ربیع الاول کو ایک ہزار مسلمانوں کے ہمراہ روانہ ہوئے رات کو چلتے تھے دن کو پوشیدہ ہو جاتے تھے ہمراہ ایک رہبر بنی عذرہ میں سے تھا۔ جس کا نام مذکور تھا۔ جب آپ ان لوگوں کے نزدیک ہوئے تو وہ ترک وطن کر رہے تھے۔ اتفاقاً اونٹنوں اور بکریوں کے نشان تھے آپ نے موسیٰ اور چرواہوں پر حملہ کیا جو مل گیا وہ مل گیا جو بھاگ گیا وہ بھاگ گیا۔

اس کی خبر اہل دومۃ کو ہوئی تو منتشر ہو گئے رسول اللہ ﷺ ان کے میدان میں اترے مگر وہاں کوئی نہ ملا آپ وہاں چند روز ٹھہرے چھوٹی چھوٹی جماعتیں اطراف میں روانہ کیں وہ واپس آ گئے اور انہیں کوئی نہ ملا۔ ایک شخص گرفتار ہوا اس سے رسول

اللہ ﷺ نے دریافت فرمایا تو اس نے کہا کہ وہ لوگ جب ہی بھاگ گئے جب انہوں نے یہ سنا کہ آپ نے ان کے اونٹ پکڑ لیے ہیں آپ نے اس پر اسلام پیش کیا، وہ اسلام لے آیا۔

رسول اللہ ﷺ ۲۰ ربیع الاول کو اس طرح مدینے واپس ہوئے کہ آپ کو جنگ کی نوبت نہیں آئی۔

عیینہ بن حصن سے معاہدہ:

اسی غزوے میں رسول اللہ ﷺ نے عیینہ بن حصن سے اس امر پر صلح فرمائی کہ وہ تعلمین اور اس کے قرب و جوار سے المراض تک جانور چرائے وہ مقام سرسبز تھا۔ اور عیینہ کا شہر خشک تھا۔ تعلمین المراض سے دو میل ہے اور المراض ربذہ کے راستے پر مدینے سے چھتیس میل کے فاصلے پر ہے۔

غزوہ المریسج:

شعبان ۵ھ میں رسول اللہ ﷺ کا غزوہ المریسج ہے۔ بنی المصطلق خزاعہ میں سے تھے۔ جو بنی مدج کے حلفاء تھے۔ وہ اپنے ایک کنوئیں پر اتر کر تے تھے جس کا نام المریسج تھا اس کے اور الضرع کے درمیان تقریباً ایک دن کی مسافت تھی الضرع اور مدینے کے درمیان آٹھ برد (۹۶) میل کا فاصلہ تھا۔

الحارث بن ابی ضرار:

ان کا سرغنہ اور سردار الحارث بن ابی ضرار تھا۔ وہ اپنی قوم میں اور ان عربوں میں گیا جن پر اس کا قابو تھا انہیں رسول اللہ ﷺ سے جنگ کی دعوت دی ان لوگوں نے مان لی اور اس کے ہمراہ آپ کی طرف جانے کی تیاری کی۔ یہ خبر رسول اللہ ﷺ کو پہنچی تو آپ نے بریدہ بن حصیب الاسلمی کو بھیجا کہ وہ اس کا علم حاصل کریں انہوں نے آپ کو ان کے حال کی خبر دی رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو بلایا ان لوگوں نے روانگی میں عجلت کی گھوڑوں کی باگ ڈور پکڑ کر روانہ ہوئے۔ جو تعداد میں تیس تھے دس مہاجرین کے اور بیس انصار کے۔

مدینہ میں قائم مقام:

آپ کے ہمراہ منافقین کے بھی بہت سے آدمی روانہ ہوئے جو اس سے قتل کسی غزوے میں روانہ نہیں ہوئے تھے۔ آپ نے مدینے پر زید بن حارثہ کو قائم مقام بنایا، ہمراہ دو گھوڑے تھے (۱) لزاز (۲) الظرب۔

آنحضرت ﷺ ۲ شعبان یوم دو شنبہ کو روانہ ہوئے حارث بن ابی ضرار اور اس کے ہمراہیوں کو رسول اللہ ﷺ کی روانگی کی اور اس امر کی خبر ملی کہ اس کا جاسوس قتل کر دیا گیا، جسے اس نے اس لیے بھیجا تھا کہ رسول اللہ ﷺ کی خبر لائے۔

حارث اس کے ہمراہیوں کو سخت ناگوار گزارا انہیں بہت خوف ہوا۔ جو عرب ان کے ساتھ تھے وہ سب جدا ہو گئے رسول اللہ ﷺ المریسج پہنچ گئے۔ جو ایک گھاٹ ہے آپ نے وہاں اپنا خیمہ نصب کرنے کا حکم دیا۔ ہمراہ عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما بھی تھیں۔

آغاز جنگ:

لوگوں نے جنگ کی تیاری کی رسول اللہ ﷺ نے اپنے اصحاب کو صف بستہ کیا مہاجرین کا جھنڈا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو

انصار کا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو دیا۔ تھوڑی دیر انہوں نے تیر اندازی کی پھر رسول اللہ ﷺ نے اپنے اصحاب کو حکم دیا تو انہوں نے یکبارگی حملہ کر دیا مشرکین میں سے کوئی شخص نہ بچا، دس قتل ہوئے اور باقی گرفتار ہو گئے رسول اللہ ﷺ نے مردوں عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر لیا اونٹ بکری پکڑی مسلمانوں میں سوائے ایک شخص کے کوئی مقتول نہیں ہوا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے تھے کہ نبی ﷺ نے اس طرح ان پر حملہ کیا کہ وہ لوگ غافل تھے اور ان کے جانوروں کو گھاٹ پر پانی پلایا جا رہا تھا۔ آپ نے ان کے جنگ جوئیوں کو قتل کر دیا۔ اور بچوں کو قید کر لیا۔ مگر پہلی روایت زیادہ ثابت ہے۔

آپ نے قیدیوں کے متعلق حکم دیا ان کی مشکپیں کس دی گئیں ان پر آپ نے بریدہ بن حصیب الاسلمی کو عامل بنایا، مال غنیمت کے متعلق حکم دیا تو وہ جمع کیا گیا اور اس پر آپ نے اپنے آزاد کردہ غلام شقران کو عامل بنایا، بچوں کو ایک طرف جمع کیا، خمس کی تقسیم اور مسلمانوں کے حصوں پر خمیہ بن جزء کو عامل بنایا۔

قیدی تقسیم کر دیئے گئے اور لوگوں کے پاس پہنچ گئے اونٹ اور بکریاں بھی تقسیم کی گئیں ایک اونٹ کو دس بکریوں کے برابر کیا گیا۔ گھر کا سامان اس کے ہاتھ فروخت کیا گیا جو زیادہ دیتا تھا۔ گھوڑے کے دو حصے اس کے مالک کا ایک حصہ اور پیادے کا ایک حصہ لگایا گیا اونٹ دو ہزار تھے۔ اور بکریاں پانچ ہزار۔

جویریہ بنت الحارث کے ساتھ حضور ﷺ کا نکاح:

قیدی دو سو گھر والے تھے۔ جویریہ بنت الحارث بن ابی ضرار ثابت بن قیس بن شماس اور ان کے چچا زاد بھائی کے حصہ میں آئی ان دونوں نے اسے نواوقیہ سونے پر مکاتب بنا دیا اس نے رسول اللہ ﷺ سے اپنی کتابت کے بارے میں درخواست کی آپ نے ان کی طرف سے ادا کر دیا اور ان سے عقد کر لیا وہ ایک خوب صورت لڑکی تھیں۔

کہا جاتا ہے کہ آپ نے بنی المصطلق کے ہر قیدی کی آزادی کو ان کا مہر قرار دیا یہ بھی روایت ہے۔ کہ آپ نے ان کی قوم کے چالیس آدمیوں کی آزادی کو ان کا مہر قرار دیا۔

قیدیوں میں وہ بھی تھے۔ جن پر بغیر فدیہ کے رسول اللہ ﷺ نے احسان فرمایا اور وہ بھی تھے جن سے فدیہ لیا گیا۔ عورتوں اور بچوں کا بقدر چھ حصوں کے فدیہ لیا گیا بعض قیدیوں کو مدینہ لائے تو ان کے وارث آئے اور انہوں نے ان کا فدیہ ادا کیا۔ بنی المصطلق کی کوئی عورت ایسی نہ تھی جو اپنی قوم میں واپس نہ گئی ہو۔ یہی ہمارے نزدیک ثابت ہے۔

سنان بن دبر الجحنی نے جو انصار میں سے تھے اور بنی سالم کے حلیف تھے اور ججہاہ بن سعید الغفاری نے پانی پر جھگڑا کیا، ججہاہ نے اپنے ہاتھ سے سنان کو مارا تو سنان نے آواز دی: ”یا للافانصار“ (اے انصار) اور ججہاہ نے آواز دی ”یا قریش“ یا لکسانہ“ (اے کنانہ) قریش فوراً متوجہ ہوئے اور اوس اور خزرج بھی متوجہ ہوئے انہوں نے ہتھیار نکال لیے، مہاجرین و انصار میں چند آدمیوں نے گھٹکوں کی سنان نے اپنا حق چھوڑ دیا اور انہیں معاف کر دیا، انہوں نے صلح کر لی۔

ابن ابی کے برے خیالات:

عبداللہ بن ابی نے کہا کہ جب ہم مدینے واپس جائیں گے تو عزت والا ذلیل کو وہاں سے ضرور نکال دے گا۔ وہ اپنی

قوم کے ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوا جو موجود تھے۔ اور کہا کہ یہ وہ ہے جو تم نے خود اپنے ساتھ کیا زید بن ارقم نے سنا تو نبی ﷺ تک اس کا قول پہنچا دیا۔ آپ نے کوچ کا حکم دیا اور اسی وقت روانہ ہوئے اور لوگ آپ کے پیچھے ہو گئے۔ عبد اللہ بن ابی لوگوں سے آگے بڑھ گئے اور اپنے باپ کے انتظار میں راستے میں ٹھہر گئے۔ جب انہوں اس کو دیکھا تو اسے ٹھہرا لیا اور کہا کہ میں اس وقت تک تجھے نہ چھوڑوں گا جب تک تو یہ نہ سمجھ جائے کہ تو ہی ذلیل ہے اور محمد ﷺ عزت والے ہیں۔

ان کے پاس سے رسول اللہ ﷺ گزرے۔ آپ نے فرمایا اسے جانے دو بخدا جب تک وہ ہم میں رہے گا حسن اخلاق ہی سے اس کے ساتھ پیش آئیں گے۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار اور تیمم کا حکم:

اسی غزوہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گر گیا اس کی تلاش میں لوگ رکے تو تیمم کی آیت نازل ہوئی۔ اسید بن خضیر نے کہا کہ اے آل ابوبکر تمہاری یہ پہلی برکت کیسی اچھی ہے اسی غزوے میں عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ اور ان کی شان میں تہمت لگانے والوں کا قول ہوا۔ راوی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی براءت نازل فرمائی۔

اسی غزوہ میں رسول اللہ ﷺ اٹھائیس روز باہر رہے اور مدینے میں رمضان کے چاند کے وقت تشریف لائے۔

غزوہ خندق یا غزوہ احزاب:

ذی القعدہ ۵ھ میں رسول اللہ ﷺ کا غزوہ خندق ہے اور یہی غزوہ احزاب ہے۔

قریش اور بنی نضیر کا معاہدہ:

رسول اللہ ﷺ نے بنی نضیر کو جلا وطن کر دیا تو وہ خیبر چلے گئے ان کے اشراف و معززین میں سے چند آدمی مکہ روانہ ہوئے اور قریش کے پاس ٹھہر کر انہیں رسول اللہ ﷺ کے مقابلہ کی ترغیب دی ان سے انہوں نے معاہدہ کیا اور سب نے آپ سے جنگ پر اتفاق کیا اس کے لیے انہوں نے ایک وقت کا وعدہ کر لیا وہ لوگ ان کے پاس سے نکل کر غطفان و سلیم کے پاس آئے اسی قسم کا معاہدہ ہوا پھر ان کے پاس سے بھی روانہ ہو گئے۔

دشمنان اسلام کا اجتماع:

قریش تیار ہو گئے انہوں نے متفرق قبائل کو اور ان عربوں کو جو ان کے حلیف تھے جمع کیا تو چار ہزار ہو گئے دارالندوہ میں جھنڈا تیار ہوا اسے عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ نے اٹھایا قریش اپنے ہمراہ تین سو گھوڑے اور پندرہ سو اونٹ لے چلے ابوسفیان بن حرب بن امیہ ان کا سردار تھا۔ مرانظہر ان میں بنو سلیم بھی ان کے پاس پہنچ گئے جو تعداد میں سات سو تھے۔ ان کا سردار سفیان بن عبد الشمس تھے۔ جو حرب بن امیہ کا حلیف اور اس ابوالاعور السلسی کا باپ تھا۔ جو جنگ صفین میں معاویہ کے ساتھ تھا۔

ان کے ہمراہ بنو اسد بھی نکلے جن کی سرداری طلحہ بن خویلد الاسدی کر رہا تھا۔ فزارہ بھی نکلے جو سب کے سب تھے وہ ایک

ہزار اونٹ تھے۔ ان کا سردار عیینہ بن حصن تھا۔

اشجع نکلے وہ چار سو تھے۔ اور ان کی سرداری مسعود بن زحیلہ کر رہا تھا۔

بنو مرہ نکلے جو چار سو تھے۔ ان کا سپہ سالار حارث بن عوف تھا۔

ان کے ہمراہ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ تھے۔

زہری نے روایت کی ہے کہ حارث بن عوف بنی مرہ کو واپس لے گیا ان میں غزوہ خندق میں کوئی حاضر نہیں ہوا۔ اسی کو بنی مرہ نے بھی روایت کیا ہے مگر پہلی روایت زیادہ ثابت ہے کہ وہ لوگ غزوہ خندق میں حارث بن عوف کے ہمراہ حاضر ہوئے اور ريسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ان کی جھوکی۔

کفار کی مجموعی تعداد:

وہ تمام قومیں جن کا ذکر کیا گیا اور غزوہ خندق میں شریک ہوئیں تعداد میں دس ہزار تھیں ان کے بہت سے گروہ تھے اور وہ تین لشکروں میں تھے سب کی عثمان ابوسفیان بن حرب کے ہاتھ تھی۔

مشاورت سے خندق کھودنے کا فیصلہ:

رسول اللہ ﷺ کو ان لوگوں کے مکے سے روانہ ہونے کی خبر پہنچی تو آپؐ نے اصحاب کو بلایا انہیں دشمن کی خبر دی اور مشورہ کیا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے خندق کی رائے دی جو مسلمانوں کو پسند آئی۔

رسول اللہ ﷺ نے کوہ سلع کے میدان میں ان کی چھاؤنی قائم کی اور سلع کو پس پشت کیا اس روز مسلمان تین ہزار تھے۔ آپؐ نے مدینے پر عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو قائم مقام بنایا۔ آپؐ نے شہر کے گرد خندق کھودی مسلمان غلات کے ساتھ کام کرنے لگے چاہتے تھے کہ دشمن کے آنے سے پہلے تیار ہو جائے رسول اللہ ﷺ نے بھی ان کے ہمراہ اپنے ہاتھ سے کام کیا تاکہ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھے۔

آپؐ نے ہر جانب ایک جماعت کو مقرر فرمایا، مہاجرین رانج کی طرف سے ذباب تک کھود رہے تھے اور انصار ذباب سے جبل بنی عبید تک باقی مدینے میں عمارتیں باہم ملی ہوئی تھیں۔ جس سے ایک قلعہ معلوم ہوتا تھا۔ بنو عبدالاشمل نے رانج سے اس کے پیچھے تک خندق کھودی، اور اس طرح مسجد کی پشت تک آ گئی۔ بنو دینار نے جرباء سے اس مقام تک خندق کھودی جہاں آج (بعد مصنف) ابن ابی الجہوب کا مکان ہے اس کے کھودنے سے چھ دن میں فارغ ہوئے۔

عورتوں اور بچوں کی حفاظت کا انتظام:

مسلمان بچوں اور عورتوں کو قلعوں میں اٹھالے گئے۔ رسول اللہ ﷺ ۸ رذی القعدہ یوم دو شنبہ کو روانہ ہوئے آپؐ کا جھنڈا جو مہاجرین کا تھا زید بن حارثہ اٹھائے ہوئے تھے انصار کا جھنڈا اسعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اٹھائے تھے۔ بنو قریظہ کی غداری:

ابوسفیان بن حرب نے یحییٰ بن اخطب کو خفیہ طور پر بنی قریظہ کے پاس بھیج کر ان سے درخواست کی کہ وہ اس عہد کو توڑ دیں جو ان کے اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان ہوا ہے اور آپؐ کے مقابلہ میں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جائیں (پہلے تو) انہوں نے انکار کیا۔ پھر مان لیا۔ یہ خبر نبی ﷺ کو پہنچی تو آپؐ نے کہا: ”حسبنا اللہ ونعم الوکیل“ (ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ کیسا اچھا

کار ساز ہے) نفاق ظاہر ہو گیا لوگ جنگ سے ڈر گئے۔ مصیبت بڑھ گئی، خوف شدید ہو گیا۔ بچوں اور عورتوں کا اندیشہ ہونے لگا۔ وہ ایسے ہی ہو گئے جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: ﴿اذ جاءکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر﴾ (وہ وقت یاد کرو جب کہ وہ لوگ (مشرکین) اوپر اور نیچے سے تمہارے پاس آ گئے اور جب کہ نگاہیں کج ہو گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے)۔

رسول اللہ ﷺ اور مسلمان دشمن کے سامنے اور مقابلہ سے ہٹتے نہ تھے۔ سوائے اس کے کہ اپنی خندق کو روکے ہوئے تھے اور اس کی حفاظت کر رہے تھے۔

رسول اللہ ﷺ سلمہ بن اسلم کو دو سو آدمیوں کے ہمراہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو تین سو آدمیوں کے ہمراہ بھیجتے رہتے تھے۔ جو مدینے کی حفاظت کرتے تھے اور بلند آواز سے تکبیر کہتے تھے۔ یہ اس لیے کہ بچوں پر بنو قریظہ کی طرف سے خوف کیا جاتا تھا۔ عباد بن بشر مع دوسرے انصار کے رسول اللہ ﷺ کے خیمے کی حفاظت پر تھے جو تمام رات پاسبانی کیا کرتے تھے۔ غزوہ خندق میں جھڑپیں:

مشرکین نے اپنے درمیان باری مقرر کر لی تھی کسی دن صبح کو ابوسفیان بن حرب اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جاتا تھا کسی دن خالد بن ولید کسی دن عمرو بن العاص کسی دن ہبیر بن ابی وہب اور کسی دن ضرار بن الخطاب الفہری۔ یہ لوگ برابر اپنے گھوڑوں کو گھمایا کرتے تھے کبھی الگ الگ ہو جاتے تھے اور کبھی مل جاتے تھے رسول اللہ ﷺ کے اصحاب سے مقابلہ کرتے تھے اور اپنے تیر اندازوں کو آگے کر دیتے تھے۔ جو تیر پھینکتے تھے۔

حبان بن العرقہ نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے ایک تیر مارا جو ان کی کلائی کی رگ میں لگا اور کہا کہ اسے پکڑ۔ میں ابن العرقہ ہوں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے دوزخ میں غرق کرے اور کہا جاتا ہے کہ جس نے اسے تیر مارا وہ ابواسامہ الجشمی تھا۔

کفار کے روساء نے اس امر پر اتفاق کر لیا کہ کسی دن صبح کو سب جائیں وہ سب مل کر گئے ان کے ہمراہ تمام گروہوں کے لشکر تھے۔ وہ خندق میں کوئی ایسی جگہ تلاش کرنے لگے۔ جہاں سے اپنا لشکر نبی ﷺ اور آپ کے اصحاب تک پہنچا دیں۔ مگر انہیں نہ ملی۔

انہوں نے کہا کہ یہ ایسی تدبیر ہے کہ عرب نہیں کر سکتے ان سے کہا گیا کہ آنحضرت ﷺ کے ہمراہ ایک فارسی شخص ہے جس نے آپ کو اس بات کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا یہ اسی کی تدبیر ہے۔ عمرو بن عبدود کا قتل:

وہ ایسے تنگ مقام پر پہنچے جسے مسلمان بھول گئے تھے عکرمہ بن ابی جہل نوفل بن عبد اللہ، ضرار بن الخطاب، ہبیرہ بن ابی وہب اور عمرو بن عبدود اس سے گزر گئے عمرو بن عبدود جنگ کی دعوت دینے لگا کہ:

وقد بهجت من النداء لجمعهم هل من مبارز

”ان کی جماعت کو آواز دیتے دیتے خود میری آواز بیٹھ گئی کہ ہے کوئی لڑنے والا جو مقابلہ کو نکلے۔“

عمر بن عبدود اس وقت نوے برس کا تھا، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ﷺ میں اس سے لڑوں گا رسول اللہ ﷺ نے انہیں اپنی تلوار دی عمامہ باندھا اور کہا اے اللہ اس کے مقابلہ میں ان کی مدد کر۔ علی رضی اللہ عنہ اس کے مقابلہ کے لیے نکلے ان میں سے ایک دوسرے کے قریب ہو گیا غبار اڑا اور علی رضی اللہ عنہ نے اسے مار کر قتل کر دیا اور تکبیر کہی تو ہمیں معلوم ہوا کہ انہوں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ اس کے ساتھی پشت پھیر کر بھاگے ان کے گھوڑے انہیں بچالے گئے زبیر بن العوام نے نوفل بن عبد اللہ پر تلوار سے حملہ کیا اسے مار کے دو ٹکڑے کر دیا۔

جنگ کا آغاز:

آخر یہ ٹھہری کہ دوسرے دن مقابلہ ہو گا سب نے رات اس حالت میں گزاری کہ اپنے ساتھیوں کو تیار کرتے رہے اپنے لشکروں کو پھیلا دیا۔ رسول اللہ ﷺ کی جانب بہت بڑا لشکر مقرر کیا جس میں خالد بن الولید تھا اس روز دن بھر جنگ ہوتی رہی کچھ رات گئے تک یہی سلسلہ جاری رہا نہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ سکے نہ رسول اللہ ﷺ کو فرصت ملی کہ نماز پڑھ سکیں آپ نے اور آپ کے اصحاب نے ظہر پڑھی نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہزیمت دی وہ متفرق ہو کر اپنے اپنے مقام و لشکر کی طرف واپس ہو گئے۔ مسلمان رسول اللہ ﷺ کے خیمے کی طرف واپس ہوئے۔

طفیل بن نعمان کی شہادت:

اسید بن خضیر دو مسلمانوں کے ہمراہ خندق ہی پر رہے خالد بن ولید مشرکین کے لشکر کے ساتھ پلٹ پڑا جو مسلمانوں کی تلاش میں تھا توڑی دیر انہوں نے مقابلہ کیا مشرکین کے ہمراہ وحشی بھی تھا اس نے طفیل بن نعمان کو جو سلسلہ میں سے تھے اپنا نیزہ کھینچ کے مارا انہیں قتل کر کے وہ لوگ بھاگ گئے۔

نماز عصر کی قضاء:

رسول اللہ ﷺ اپنے خیمہ کی طرف گئے آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے اذان کہی اور ظہر کی اقامت کہی پھر آپ نے نماز پڑھی انہوں نے ہر نماز کے بعد علیحدہ علیحدہ اقامت کہی آپ اور آپ کے اصحاب نے قضا نمازیں پڑھیں اور فرمایا ان لوگوں نے ہمیں نماز وسطیٰ یعنی عصر سے باز رکھا اللہ تعالیٰ ان کے حکموں اور قبروں میں آگ بھر دے۔

اس کے بعد ان لوگوں کی کوئی جنگ نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ وہ رات میں جاسوسوں کا بھیجنا ترک نہیں کرتے تھے جو دھوکے کی امید میں تھے رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب دس رات سے زائد محصور رہے تھے کہ ان میں سے ہر ایک کو پریشانی و مشقت لاحق ہوئی۔

رسول اللہ ﷺ نے ارادہ کیا کہ غطفان سے آپ اس شرط پر مصالحت کر لیں کہ انہیں ایک تہائی چھل دیا کریں گے اور وہ لوگوں کے درمیان نا اتفاقی کرادیں تاکہ کفار آپ کے پاس سے واپس چلے جائیں۔ انصار نے اس سے انکار کیا تو آپ نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔

حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حکمت عملی:

نعیم بن مسعود الاشجعی اسلام لے آئے تھے انہوں نے اپنے اسلام کو زینت دی وہ قریش اور قریظہ اور غطفان کے درمیان گئے ان کی طرف سے ان کو اور ان کی طرف سے ان کو ایسا کلام پہنچایا جس سے ہر گروہ سمجھا کہ وہ اس کے خیر خواہ ہیں کفار نے ان کا قول قبول کر لیا اس طرح انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے ان کی مخالفت ترک کرادی۔

نعیم ایسی چال چلے کہ ہر گروہ کو ایک دوسرے سے وحشت ہو گئی قریظہ نے قریش سے ضمانت طلب کی تاکہ وہ ان کے ساتھ نکلیں اور جنگ کریں مگر قریش نے اس سے انکار کیا اور ان کو مہم جانا۔ قریظہ نے سبت ہفتہ کی ان سے علت بیان کی اور کہا ہم اس روز (ہفتہ کو) نہیں لڑتے اس لیے کہ ہماری ایک قوم نے ہفتے کے دن سرکشی کی تھی تو وہ بندر اور سور بنا دیے گئے۔ ابوسفیان بن حرب نے کہا کہ میں اپنے آپ کو کیوں نہیں دیکھتا جو میں بندر اور سور کے بھائیوں سے مدد مانگتا ہوں۔

آندھی کی صورت میں غیبی امداد:

اللہ تعالیٰ نے شبِ شنبہ کو ایک ہوا بھیجی جو مشرکین کا کام تمام کر گئی ہوا اتنی تیز چلی کہ نہ تو کوئی خیمہ ٹھہر سکا اور نہ ہانڈی رسول اللہ ﷺ نے ان کی طرف حذیفہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ وہ ان کی خبر لائیں۔ اس شب کو رسول اللہ ﷺ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے۔

ابوسفیان کا فرار:

ابوسفیان بن حرب نے کہا اے گروہ قریش تم لوگ ایسے مکان میں نہیں ہو جو قیام گاہ ہو گھوڑے اور اونٹ ہلاک ہو گئے میدان خشک ہو گیا۔ بنو قریظہ نے ہم سے وعدہ خلائی کی اور ہمیں وہ لگی ہے جو تم دیکھ رہے ہو لہذا کوچ کر دو میں بھی کوچ کرتا ہوں۔ وہ کھڑا ہو گیا اور اپنے اونٹ پر بیٹھ گیا جس کی رسی بندھی ہوئی تھی اسے مارا تو وہ اپنے تین پیروں سے کودا اس نے اس کی رسی اس وقت تک نہ کھولی جب تک وہ کھڑا نہ ہو گیا ابوسفیان کھڑا ہی تھا کہ لوگ کوچ کرنے لگے سارا لشکر تیزی سے روانہ ہو گیا ابوسفیان نے تعاقب کے اندیشہ سے عمرو بن العاص اور خالد بن الولید کو دو سو سواروں کے ہمراہ لشکر کے پیچھے حصے پر اپنا محافظ مقرر کیا۔

لشکر کفار کی واپسی:

حذیفہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے پاس لوٹے اور آپ کو تمام واقعے کی خبر کی رسول اللہ ﷺ کو اس طرح صبح ہوئی کہ آپ کے سامنے لشکروں میں سے ایک بھی نہ تھا سب اپنے اپنے شہروں کو دفع ہو چکے تھے نبی ﷺ نے مسلمانوں کو اپنے اپنے مکان واپس جانے کی اجازت دے دی وہ لوگ جلدی جلدی اور خوش خوش روانہ ہوئے۔

شہدائے غزوہ خندق:

جو لوگ غزوہ خندق میں شہید ہوئے ان میں یہ بھی تھے: (۱) انس بن عتیک جو بنی عبدالاشہل میں سے تھے انہیں

خالد بن الولید نے قتل کیا تھا۔ (۲) عبد اللہ بن سہل الاشجلی (۳) ثعلبہ بن عثمہ بن عدی بن نابی، جن کو ہیرہ بن وہب نے قتل کیا (۴) کعب بن زید جو بنی دینار میں سے تھے انہیں ضرار بن الخطاب نے قتل کیا۔

مشرکین میں سے عثمان بن منہ بن عبید بن السباق بھی قتل ہوا جو بنی عبدالدار بن قصی میں سے تھا مشرکین نے چند روز مسلمانوں کا محاصرہ کیا رسول اللہ ﷺ ۲۳ ذی القعدہ یوم چہار شنبہ ۵ھ کو واپس ہوئے۔

مہاجرین و انصار کے لیے دعائے نبوی ﷺ:

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مہاجرین و انصار ٹھنڈی صبح میں نکل کر خندق کھود رہے تھے۔ رسول اللہ ﷺ فرمانے لگے: اے اللہ! خیر تو آخرت ہی کی خیر ہے۔ لہذا انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما ان لوگوں نے آپ کو جواب دیا: ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمدؐ سے ہمیشہ کے لیے جہاد کی بیعت کی ہے جب تک ہم باقی رہیں۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کے اصحاب جب خندق کھود رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ کے لیے جہاد کی بیعت کی ہے جب تک ہم باقی رہیں نبی ﷺ فرما رہے تھے اے اللہ! خیر تو آخرت ہی کی خیر ہے لہذا انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما آپ کے پاس جو کی روٹی لائی گئی جس پر بودار چربی تھی انصار نے اس میں سے کھائی اور نبی ﷺ نے فرمایا خیر تو آخرت ہی کی خیر ہے۔

لسان نبوت پر اشعار:

سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ ہمارے پاس اس حالت میں تشریف لائے جب ہم خندق کھود رہے تھے اور اپنے کندھوں پر مٹی ڈھور رہے تھے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عیش تو صرف آخرت ہی کا عیش ہے لہذا اے اللہ تو انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما۔

براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جنگ احزاب میں رسول اللہ ﷺ ہمارے ساتھ مٹی ڈھور رہے تھے مٹی نے آپ کے شکم مبارک کی سفیدی کو چھپا لیا تھا۔ آپ یہ اشعار پڑھ رہے تھے:

اللهم لو لا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا

”اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو نہ ہم ہدایت پاتے نہ خیرات کرتے اور نہ نماز پڑھتے۔“

فانزلن سكينه علينا وثبت الاقدام ان لا قينا

بس ہم پر سکون نازل کر جب ہم (دشمن سے) ملیں تو ہمیں ثابت قدم رکھ۔

ان الاولى لقد بغوا علينا اذا ارادوا فتنه ابينا

ان لوگوں نے ہم پر بغاوت کی ہے۔ جب انہوں نے فتنے کا ارادہ کیا ہم نے انکار کیا۔“

”ہم نے انکار کیا“ اسے آپ بلند آواز سے فرما رہے تھے۔

سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یوم خندق مدینے میں ہوا تھا ابوسفیان بن حرب آیا جو قریش اس کے ساتھ تھے جو

کنانہ اور عیینہ بن حصن میں سے ان کے تابع تھے جو عطفان و طیجہ میں سے عیینہ بن حصن کے تابع تھے بنی اسد میں سے اور ابوالاعور جو اس کے تابع تھے جو بنی سلیم اور قریظہ میں سے اس کے تابع تھے سب ہمراہ ہوئے۔

آیات قرآنی کا نزول:

قریظہ اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان معاہدہ تھا۔ انہوں نے اسے توڑ دیا اور مشرکین کی مدد کی اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں نازل فرمایا:

﴿وَانزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَافِيهِمْ﴾

”اور جن اہل کتاب نے ان مشرکین کی مدد کی تھی ان کو اللہ نے ان کے قلعوں میں سے اتار دیا۔“

جبریل علیہ السلام آئے، ان کے ہمراہ آندھی تھی۔ جب آپ نے جبریل کو دیکھا تو تین مرتبہ فرمایا: ”دیکھو خوش ہو جاؤ“ اللہ نے ان پر ایسی آندھی بھیجی جس نے خیموں کو اکھاڑ دیا۔ ہانڈیاں الٹ دیں کجاووں کو فٹن کر دیا اور میخوں کو اکھاڑ پھینکا لوگ اس طرح روانہ ہوئے کہ کوئی کسی کی طرف رخ نہ کرتا تھا۔

اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

﴿اِذَا جَاءَ تَكْوِيْنُ فَارَسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَجَنُودًا لَمْ تَرَوْهَا﴾

”اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پاس ایک لشکر آیا پھر ہم نے ان پر آندھی اور ایسے لشکر کو بھیجا جسے تم نہیں دیکھتے تھے (اس کے بعد رسول اللہ ﷺ واپس ہوئے)۔“

مراجعة مدینہ:

ابو بشر نے کہا رسول اللہ ﷺ جب اپنے مکان سے واپس آئے تو آپ نے اپنے سر کا داہنا حصہ دھویا اور بایاں باقی تھا کہ جبریل نے کہا: خبردار میں آپ کو سردھوتے دیکھتا ہوں، واللہ ہم اب تک (گھوڑے سے) نہیں اترے۔ اٹھیے رسول اللہ ﷺ نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ وہ بنی قریظہ کی طرف روانہ ہوں۔

علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے یوم خندق میں فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی (مشرکین کی) قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے۔ کیونکہ انہوں نے ہمیں نماز سے روکا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ نماز وسطیٰ قضاء ہونے پر افسوس:

علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مسلمانوں نے یوم الاحزاب میں عصر نہیں پڑھی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا یا فرمایا سورج لوٹ گیا تو نبی ﷺ نے فرمایا کہ اے اللہ ان (کفار) کے گھر آگ سے بھر دے کیونکہ انہوں نے ہمیں نماز وسطیٰ سے روکا، یہاں تک کہ سورج غائب ہو گیا یا فرمایا سورج لوٹ گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ نماز وسطیٰ نماز عصر ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یوم خندق میں فرمایا، انہیں (مشرکین کو) کیا ہوا ہے؟ اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کیوں کہ انہوں نے ہمیں نماز وسطیٰ سے جو عصر ہے باز رکھا۔

ابی جعد سے جنہوں نے نبی ﷺ کی صحبت پائی ہے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے سال احزاب میں مغرب پڑھی جب فارغ ہوئے تو فرمایا کہ تم سے کسی کو معلوم ہے کہ میں نے عصر بھی پڑھی ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہم نے تو نہیں پڑھی آپ نے مؤذن کو حکم دیا تو انہوں نے نماز کی اقامت کہی آپ نے عصر پڑھی پھر مغرب دہرائی۔ صحابہ کو وظیفہ کی تعلیم:

ابن ابی صفراء سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جس وقت خندق کھودی اور آپ کو یہ اندیشہ ہوا کہ ابوسفیان شب خوں مارے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم پر شب خون مارا جائے تو تمہاراوردیہ ہوگا ”حم لا ی نصر وں“۔ ابوسفراء سے مروی ہے کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ کے ایک صحابی نے بیان کیا کہ نبی ﷺ نے شب خندق میں فرمایا میرا خیال یہی ہے کہ وہ قوم تم پر رات ہی کو شب خوں مارے گی تمہارا شعاع ”حم لا ی نصر وں“ ہے۔ سعید بن المسیب رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ مشرکین نے خندق میں چوبیس رات تک نبی ﷺ کا محاصرہ کیا۔ نصرت الہی کے طلبگار:

ابن المسیب رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ جب یوم الاحزاب ہوا۔ تو نبی ﷺ اور آپ کے اصحاب کا دس روز سے زائد محاصرہ کیا گیا جس سے ہر ایک کو مشقت لاحق ہوئی یہاں تک کہ نبی ﷺ نے فرمایا اے اللہ میں تجھ سے تیرا عہد اور وعدہ طلب کرتا ہوں اے اللہ اگر تو چاہے تو تیری عبادت نہ کی جائے۔ وہ لوگ اسی حالت پر تھے کہ نبی ﷺ نے عیینہ بن حصن بن بدر کے پاس کہلا بھیجا کہ اگر تو مناسب سمجھے کہ میں تم لوگوں کے لیے انصار کے تہائی پھل مقرر کر دوں تو کیا تو غطفان کو جو تیرے ساتھ ہیں واپس کر دے گا اور احزاب (متفرق کرو ہوں) کے درمیان نا اتفاقی کرا دے گا عیینہ نے آپ کے پاس کہلا بھیجا کہ اگر آپ میرا حصہ مقرر فرمادیں تو میں کر دوں گا۔

نبی ﷺ نے سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما کے پاس قاصد بھیجا انہیں اس کی خبر دی تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی بات پر (اللہ کی طرف سے) مامور ہیں تو اللہ کے امر کو جاری کیجئے آپ نے فرمایا اگر میں کسی بات پر مامور ہوتا تو تم دونوں سے مشورہ نہ لیتا یہ میری رائے ہے جس کو میں تم دونوں کے سامنے پیش کرتا ہوں ان دونوں نے کہنا کہ ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ انہیں سوائے تلوار کے کچھ نہ دیں۔

نعیم بن مسعود الا جمعی کی کامیابی:

ابن ابی نجیح سے مروی ہے کہ اسی وقت جب کہ وہ اس کی فکر میں تھے یکا یک نعیم بن مسعود الا جمعی آگئے وہ ایسے تھے کہ دونوں فریق ان سے مطمئن تھے انہوں نے ان لوگوں کے درمیان نا اتفاقی کرا دی۔ احزاب بغیر قتال کے بھاگ گئے اللہ تعالیٰ کے قول کے یہی معنی ہیں: ﴿وَكُفِيَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾ اور جنگ میں اللہ ہی مومنین کے لیے کافی ہو گیا۔ مشرکین کے لیے رسول اللہ ﷺ کی بددعا:

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مسجد میں دو شنبہ سہ شنبہ چہار شنبہ کو احزاب کے لیے بددعا کی

کنانہ اور عیینہ بن حصن میں سے ان کے تابع تھے جو غطفان و ظبیحہ میں سے عیینہ بن حصن کے تابع تھے بنی اسد میں سے اور ابوالاعور جو اس کے تابع تھے جو بنی سلیم اور قرظہ میں سے اس کے تابع تھے سب ہمراہ ہوئے۔

آیات قرآنی کا نزول:

قریظہ اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان معاہدہ تھا۔ انہوں نے اسے توڑ دیا اور مشرکین کی مدد کی اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں نازل فرمایا:

﴿وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَافِيهِمْ﴾

”اور جن اہل کتاب نے ان مشرکین کی مدد کی تھی ان کو اللہ نے ان کے قلعوں میں سے اتار دیا۔“

جبریل علیہ السلام آئے ان کے ہمراہ آندھی تھی۔ جب آپ نے جبریل کو دیکھا تو تین مرتبہ فرمایا: ”دیکھو خوش ہو جاؤ“ اللہ نے ان پر ایسی آندھی بھیجی جس نے خیموں کو اکھاڑ دیا۔ ہاڈیاں الٹ دیں کجاووں کو دفن کر دیا اور میخوں کو اکھاڑ پھینکا لوگ اس طرح روانہ ہوئے کہ کوئی کسی کی طرف رخ نہ کرتا تھا۔

اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

﴿إِذَا جَاءَ تَكْمُ جُنُودِ فَارِسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا﴾

”اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پاس ایک لشکر آیا پھر ہم نے ان پر آندھی اور ایسے لشکر کو بھیجا جسے تم نہیں دیکھتے تھے (اس کے بعد رسول اللہ ﷺ واپس ہوئے۔“

مراجعت مدینہ:

ابو بشر نے کہا رسول اللہ ﷺ جب اپنے مکان سے واپس آئے تو آپ نے اپنے سر کا داہنا حصہ دھویا اور بایاں باقی تھا کہ جبریل نے کہا: خبردار میں آپ کو سرد دھوتے دیکھتا ہوں واللہ ہم اب تک (گھوڑے سے) نہیں اترے۔ اٹھیے رسول اللہ ﷺ نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ وہ بنی قریظہ کی طرف روانہ ہوں۔

علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے یوم خندق میں فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی (مشرکین کی) قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے۔ کیونکہ انہوں نے ہمیں نماز سے روکا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ نماز وسطیٰ قضاء ہونے پر افسوس:

علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مسلمانوں نے یوم الاحزاب میں عصر نہیں پڑھی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا یا فرمایا سورج لوٹ گیا تو نبی ﷺ نے فرمایا کہ اے اللہ ان (کفار) کے گھر آگ سے بھر دے کیونکہ انہوں نے ہمیں نماز وسطیٰ سے روکا یہاں تک کہ سورج غائب ہو گیا یا فرمایا سورج لوٹ گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ نماز وسطیٰ نماز عصر ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یوم خندق میں فرمایا انہیں (مشرکین کو) کیا ہوا ہے؟ اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کیوں کہ انہوں نے ہمیں نماز وسطیٰ سے جو عصر ہے باز رکھا۔

ابی جعد سے جنہوں نے نبی ﷺ کی صحبت پائی ہے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے سال احزاب میں مغرب پڑھی جب فارغ ہوئے تو فرمایا کہ تم سے کسی کو معلوم ہے کہ میں نے عصر بھی پڑھی ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہم نے تو نہیں پڑھی آپ نے مؤذن کو حکم دیا تو انہوں نے نماز کی اقامت کہی آپ نے عصر پڑھی پھر مغرب دہرائی۔ صحابہ کو وظیفہ کی تعلیم:

ابن ابی صفہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جس وقت خندق کھودی اور آپ کو یہ اندیشہ ہوا کہ ابوسفیان شب خوں مارے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم پر شب خون مارا جائے تو تمہاراوردیہ ہوگا ”حم لا یصرون“۔ ابوصفرہ سے مروی ہے کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ کے ایک صحابی نے بیان کیا کہ نبی ﷺ نے شب خندق میں فرمایا میرا خیال یہی ہے کہ وہ قوم تم پر رات ہی کو شب خون مارے گی تمہارا شعار ”حم لا یصرون“ ہے۔ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مشرکین نے خندق میں چوبیس رات تک نبی ﷺ کا محاصرہ کیا۔ نصرت الہی کے طلبگار:

ابن المسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب یوم الاحزاب ہوا۔ تو نبی ﷺ اور آپ کے اصحاب کا دس روز سے زائد محاصرہ کیا گیا جس سے ہر ایک کو مشقت لاحق ہوئی یہاں تک کہ نبی ﷺ نے فرمایا اے اللہ میں تجھ سے تیرا عہد اور وعدہ طلب کرتا ہوں اے اللہ اگر تو چاہے تو تیری عبادت نہ کی جائے۔ وہ لوگ اسی حالت پر تھے کہ نبی ﷺ نے عیینہ بن حصن بن بدر کے پاس کہلا بھیجا کہ اگر تو مناسب سمجھے کہ میں تم لوگوں کے لیے انصار کے تہائی پھل مقرر کر دوں تو کیا تو غطفان کو جو تیرے ساتھ ہیں واپس کر دے گا اور احزاب (متفرق گردہوں) کے درمیان نا اتفاقی کر دے گا عیینہ نے آپ کے پاس کہلا بھیجا کہ اگر آپ میرا حصہ مقرر فرمادیں تو میں کر دوں گا۔

نبی ﷺ نے سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما کے پاس قاصد بھیجا انہیں اس کی خبر دی تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی بات پر (اللہ کی طرف سے) مامور ہیں تو اللہ کے امر کو جاری کیجئے آپ نے فرمایا اگر میں کسی بات پر مامور ہوتا تو تم دونوں سے مشورہ نہ لیتا یہ میری رائے ہے جس کو میں تم دونوں کے سامنے پیش کرتا ہوں ان دونوں نے کہا کہ ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ انہیں سوائے تلوار کے کچھ نہ دیں۔

نعیم بن مسعود الاشجعی کی کامیابی:

ابن ابی نجیح سے مروی ہے کہ اسی وقت جب کہ وہ اس کی فکر میں تھے یکا یک نعیم بن مسعود الاشجعی آگئے وہ ایسے تھے کہ دونوں فریق ان سے مطمئن تھے انہوں نے ان لوگوں کے درمیان نا اتفاقی کرادی۔ احزاب بغیر قتال کے بھاگ گئے اللہ تعالیٰ کے قول کے یہی معنی ہیں ﴿و کفی اللہ المؤمنین القتال﴾ اور جنگ میں اللہ ہی موئین کے لیے کافی ہو گیا۔ مشرکین کے لیے رسول اللہ ﷺ کی بددعا:

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مسجد میں دو شنبہ شنبہ چہار شنبہ کو احزاب کے لیے بددعا کی

چہار شنبہ کو ظہر و عصر کی نماز کے درمیان قبول ہو گئی ہم نے خوشخبری آپ کے چہرہ سے معلوم کی جابر نے کہا کہ جب کوئی زبردست و سخت دشوار معاملہ پیش آیا تو میں نے اسی روز کی اسی ساعت میں التجا کی اور اللہ سے دعا کی تو مجھے قبولیت معلوم ہوئی۔

عبداللہ بن ابی اوفی سے مروی ہے کہ یوم الاحزاب میں رسول اللہ ﷺ نے مشرکین کے لیے بددعا کی کہ اے کتاب کے نازل کرنے والے جلدی حساب لینے والے احزاب کو ہزیمت دے اے اللہ انہیں شکست دے اور ڈمگا دے۔
غزوہ بنی قریظہ:

ذی القعدہ ۵ھ میں رسول اللہ ﷺ کو غزوہ بنی قریظہ پیش آیا لوگوں نے بیان کیا۔ کہ جب خندق سے مشرکین پلٹ گئے اور رسول اللہ ﷺ بھی واپس ہو کر عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں داخل ہوئے۔ تو آپ کے پاس جبریل آئے اور مقام جنازہ میں کھڑے ہو کر کہا (عذیرک من محارب) اپنے محارب (جنگ کرنے والے) کے مقابلہ میں اپنے مددگار سے ملے تو گھبرا کر رسول اللہ ﷺ ان کے پاس نکل آئے انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ آپ بنی قریظہ کی طرف جائیں اور میں بھی ان کا ارادہ کرتا ہوں ان کے قلعوں کو میں ہلا دوں گا۔

رسول اللہ ﷺ نے علی رضی اللہ عنہ کو بلایا انہیں اپنا جھنڈا دیا۔ اور بلال رضی اللہ عنہ کو بھیجا انہوں نے لوگوں میں ندا دی رسول اللہ ﷺ تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ عصر کی نماز سوائے بنی قریظہ کے اور کہیں نہ پڑھو۔

مدینے پر رسول اللہ ﷺ نے عبداللہ بن ام مکتوم کو جانشین بنایا اور مسلمانوں کے ہمراہ جو تین ہزار تھے ان کی جانب روانہ ہو گئے، چھتیس گھوڑے ساتھ تھے یہ ۲۳ ذی القعدہ چہار شنبہ کا دن تھا۔ پندرہ روز تک ان کا نہایت شدید محاصرہ کیا لوگوں نے تیر پھینکے مگر وہ اس طرح اندر گھسے کہ کوئی باہر نہ نکلا۔

ابولبابہ بن عبدالمنذر کی ندامت:

بنی قریظہ کو محاصرہ سے سخت تکلیف ہوئی تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے پاس بھیجا کہ ابولبابہ بن عبدالمنذر کو ہمارے پاس بھیج دیجئے۔ آپ نے انہیں بھیج دیا۔ یہود نے اپنے معاملے میں ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ آنحضرت ﷺ کے قصد میں تمہارے لیے ذبح ہے اس پر ابولبابہ نادم ہوئے (کہ آنحضرت ﷺ کا راز ان لوگوں سے کیوں کہہ دیا) انا للہ وانا الیہ راجعون کہا اور کہا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی وہ واپس ہو کر مسجد میں جا بیٹھے اور (اسی شرم سے) رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر نہیں ہوئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔

بنو قریظہ رسول اللہ ﷺ کے حکم پر اترے تو رسول اللہ ﷺ نے ان کے متعلق محمد بن مسلمہ کو حکم دیا، ان کے مشکیں کس کے ایک کنارے کر دیا گیا اسی وقت جب وہ ایک کنارے تھے عورتیں اور بچے نکالے گئے ان پر عبداللہ بن سلام کو عامل بنایا۔

مال غنیمت:

تمام سامان زرہیں اسباب کپڑے جو قلعے میں پائے گئے وہ سب جمع کیا گیا سامان میں پندرہ سو تلواریں تین سوز رہیں دو ہزار نیزے اور پندرہ سو ڈھالیں جو چمڑے کی تھیں ملیں شراب اور شراب کے مٹکے تھے یہ سب بہا دیا گیا اس کا خمس نہیں کیا گیا

پانی کھینچنے والے اور چلنے والے بہت سے اونٹ بھی ملے۔

سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا فیصلہ:

اوس نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کی کہ بنی قریظہ کو انہیں بہہ کر دیں وہ ان کے حلفاء تھے رسول اللہ ﷺ نے ان کا فیصلہ سعد بن معاذ کے سپرد کیا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر وہ شخص جس پر استرے چلتے ہیں (یعنی مرد ہے) قتل کر دیا جائے عورتوں اور بچوں کو قید کر دیا جائے اور ان کا مال تقسیم کر دیا جائے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بے شک اللہ کا سات آسمان کے اوپر سے جو فیصلہ تھام نے اس کے مطابق فیصلہ کیا۔

بنی قریظہ کا عجبر تناک انجام:

رسول اللہ ﷺ ۷ ذی الحجہ یوم پنج شنبہ کو واپس ہوئے۔ آپ نے ان کے متعلق حکم دیا تو وہ مدینے میں داخل کئے گئے بازار میں ان کے لیے ایک خندق کھودی گئی رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب بیٹھے وہ لوگ اس کی طرف ایک ایک گروہ کر کے لائے گئے اور ان کی گردنیں ماری گئیں، کل تعداد چھ اور سات سو کے درمیان تھی۔

مال غنیمت کی تقسیم:

رسول اللہ ﷺ نے ریحانہ بنت عمرو کو اپنے لیے منتخب فرمایا۔ مال غنیمت کے متعلق حکم دیا تو وہ جمع کیا گیا آپ نے اسباب اور قیدیوں میں سے خمس نکالا باقی کے متعلق حکم دیا تو وہ زائد دینے والے کے ہاتھ بیچا گیا۔ آپ نے اسے مسلمانوں میں تقسیم فرما دیا، سب تین ہزار بہتر حصے ہوئے گھوڑے کے دو حصے اور اس کے مالک کا ایک حصہ اور خمس محمیہ بن جزء الزبیدی کے پاس پہنچ گیا۔ رسول اللہ ﷺ کسی کو آزاد کر رہے تھے اور جس کو چاہا اسے خادم بنایا اسی طرح آپ نے اس اسباب کے ساتھ کیا جو آپ کو پہنچا۔

قلعہ بنی قریظہ پر پیش قدمی:

یزید بن الاصم سے مروی ہے کہ جب اللہ نے احزاب کو دور کر دیا اور نبی ﷺ اپنے مکان واپس گئے تو آپ اپنا سردھو رہے تھے۔ کہ جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ آپ کو اللہ معاف کرے آپ نے ہتھیار اتار دیئے۔ حالانکہ اللہ کے ملائکہ نے ابھی تک نہیں اتارے۔ بنو قریظہ کے قلعے کے نزدیک ہمارے پاس آئیے۔

رسول اللہ ﷺ نے لوگوں میں ندا دلوائی کہ بنی قریظہ کے قلعے کو آؤ رسول اللہ ﷺ نے غسل کر لیا اور آپ لوگوں کے پاس قلعہ کے قریب آ گئے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب احزاب واپس ہو گئے تو نبی ﷺ نے لوگوں میں ندا دلوائی کہ کوئی شخص ظہر کی نماز سوائے بنی قریظہ کے کہیں نہ پڑھے بعض لوگوں کو نماز فوت ہونے کا اندیشہ ہوا تو انہوں نے پڑھ لی دوسروں نے کہا کہ ہم سوائے اس مقام کے کہیں نماز نہ پڑھیں گے جہاں ہمیں رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا ہے خواہ وقت فوت ہی کیوں نہ ہو جائے۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے دونوں فریق میں سے کسی پر ملامت نہیں کی۔

بیہوشی وغیرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب بنی قریظہ میں آئے تو آپ بے زین کے گدھے پر سوار ہوئے، لوگ پیدل چل رہے تھے۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بنی ششم کی گلی میں جبریل علیہ السلام کی سواری کا اڑتا ہوا غبار جب کہ رسول اللہ ﷺ بنی قریظہ تشریف لے گئے میری نظر میں ہے۔
حضرت جبریل کی آمد:

المایشون سے مروی ہے کہ جبریل علیہ السلام یوم الاحزاب (غزوہ خندق) میں رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک گھوڑے پر آئے جو ایک سیاہ عمامہ باندھے ہوئے تھے اور اپنے دونوں شانوں کے درمیان لٹکائے ہوئے تھے، ان کے دانتوں پر غبار تھا، ان کے نیچے سرخ چار جامہ تھا انہوں نے (رسول اللہ ﷺ سے) کہا کہ آپ نے ہمارے ہتھیار اتارنے سے پہلے ہتھیار اتار دیئے، آپ کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ بنی قریظہ کی طرف چلے۔

سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے چودہ شب بنی قریظہ کا محاصرہ کیا۔ عطیہ القرظی سے مروی ہے کہ یوم قریظہ میں میں بھی ان لوگوں میں تھا جو گرفتار کیے گئے جو بالغ تھے وہ قتل کیے جاتے تھے اور جو نابالغ تھے وہ چھوڑ دیئے جاتے تھے۔ میں ان میں تھا جو بالغ نہ تھے۔

حمید بن بلال سے مروی ہے کہ نبی ﷺ اور بنی قریظہ کے درمیان خفیف سا عہد تھا۔ جب احزاب وہ تمام لشکر لائے جنہیں وہ لائے تھے (تو انہوں نے عہد توڑ دیا۔ اور رسول اللہ ﷺ پر مشرکین کو غالب کرادیا) اللہ نے اپنے لشکر اور آندھی کو بھیجا وہ لوگ بھاگ کر چلے گئے اور دوسرے اپنے قلعہ میں رہ گئے۔ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب نے ہتھیار رکھ دیئے جبریل علیہ السلام نبی ﷺ کے پاس آئے، آپ ان کے پاس آئے جبریل علیہ السلام گھوڑے کے سینے سے تکیہ لگائے ہوئے تھے۔

آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام کہتے ہیں ہم نے اب تک ہتھیار نہیں رکھے، آپ بنی قریظہ کی طرف چلے۔ ان کے ابو پر غبار جما ہوا تھا۔ آنحضرت نے فرمایا کہ میرے اصحاب کو تھکان ہے۔ اگر کچھ روز کی مہلت دیجئے (تو بہتر ہو) جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ چلے میں اسی گھوڑے کو ان کے قلعوں میں داخل کر دوں گا۔ اور منہدم کر دوں گا۔ جبریل علیہ السلام اور آپ کے ہمراہی ملائکہ نے رخ پھیر لیا، یہاں تک کہ انصار بنی ششم کی گلی میں غبار بلند ہوا رسول اللہ ﷺ بھی روانہ ہوئے، اصحاب میں سے کوئی شخص آپ کے رو برو آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ تشریف رکھیے ہم لوگ کافی ہیں، فرمایا وہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے متعلق سنا ہے کہ وہ آپ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بہت اذیادہ گئی۔

رسول اللہ ﷺ بنی قریظہ پہنچے تو فرمایا اے بندہ اور سور کے بھائیو! مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، ان میں سے بعض نے بعض سے کہا یہ ابو القاسم ہیں ہم نے آپ سے بدی کرنے کا معاہدہ نہیں کیا تھا۔

حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات:

سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی رگ دست میں تیر مارا گیا رخم بند اور خشک ہو گیا انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ! انہیں اس

وقت تک موت نہ دے جب تک بنی قریظہ سے ان کا دل نہ ٹھنڈا ہو جائے، بنی قریظہ کو ان کے قلعہ میں اس غم نے گرفتار کیا۔ جس نے گرفتار کیا تو وہ تمام لوگوں میں سے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے فیصلہ پر اترے سعد رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے جنگجو قتل کر دیئے جائیں اور بچوں کو قید کیا جائے۔

یہ صورتحال دیکھ کر بعض لوگوں نے کہا کہ یہ شہر مہاجرین کا ہو گا نہ کہ انصار کا اس پر انصار نے کہا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں ہم تو ان کے ساتھ تھے انہوں نے قائل اول نے پھر کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مہاجرین تم سے بے نیاز ہو جائیں۔ جب سعد ان سے فارغ ہوئے اور انہیں جو حکم دینا تھا دے دیا وہ کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے کہ ان پر سے ایک بکری گزری اس نے ان کے زخم کو کھر سے ٹھیس لگا دی وہ پھر نہ خشک ہوا یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی۔

رئیس دومۃ الجندل کا ہدیہ:

دومۃ الجندل کے رئیس نے رسول اللہ ﷺ کو ایک خچر اور ایک ریشمی جبہ بھیجا جبے کی خوبی پر رسول اللہ ﷺ کے اصحاب تعجب کرنے لگے تو آپ نے فرمایا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے رومال جنت میں اس سے بہتر ہیں۔

سریہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ بجانب قبیلہ قرطاء:

محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کا قرطہ کی جانب سریہ رسول اللہ ﷺ کی ہجرت کے انٹھویں مہینے ۱۰ ہجری کو واقع ہوا رسول اللہ ﷺ نے انہیں تیس سواروں کے ہمراہ قرطاء کی جانب بھیجا وہ لوگ بنی بکر کے کلاب کے سلسلے کی ایک شاخ ہیں جو ضریہ کے نواح میں البکرات میں اتر کر تے تھے ضریہ اور مدینے کے درمیان سات شب کی مسافت ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ انہیں ہر طرف سے گھیر لیں وہ رات کو چلتے تھے اور دن کو پوشیدہ ہو جاتے تھے انہوں نے ان پر حملہ کر دیا ایک جماعت کو قتل کیا اور باقی لوگ بھاگ گئے اونٹ اور بکری ہنکا لائے، کوئی شخص نیزہ بازی کے لیے ظاہر نہ ہوا، اور وہ مدینے آ گئے۔

رسول اللہ ﷺ نے خمس نکالنے کے بعد جو بچان کے ساتھیوں پر تقسیم کر دیا اونٹ دس بکری کے برابر شمار ہوا کل ڈیڑھ سو اونٹ اور تین ہزار بکریاں تھیں محمد بن مسلمہ انہیں شب باہر رہے ۲۹ ہجری کو آ گئے۔

غزوہ بنی لحيان:

ربیع الاول ۶ھ میں رسول اللہ ﷺ بنی لحيان کی طرف جو نواح عسفان میں تھے روانہ ہوئے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عاصم بن ثابت اور ان کے ساتھیوں کا سخت صدمہ محسوس کیا اور ملک شام کا ارادہ ظاہر فرمایا ربیع الاول کی چاند رات کو لوگوں کی بے خبری کے عالم میں دوسو آدمیوں کا لشکر جمع کیا جن کے ہمراہ بیس گھوڑے تھے۔

مدینے پر عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ آپ تیزی کے ساتھ روانہ ہوئے اور بطن غران میں پہنچے۔ اس کے اور عسفان کے درمیان جہاں آپ کے اصحاب پر مصیبت آئی تھی پانچ میل کا فاصلہ تھا آپ نے ان کے لیے رحمت کی دعا فرمائی۔

بنی لحیان کی روپوشی:

بنو لحیان کو خبر ہوئی تو وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھاگ گئے۔ کوئی قابو میں نہ آیا۔ آپ ایک یا دو دن مقیم رہے۔ ہر طرف لشکر بھیجے مگر وہ لوگ بھی کسی پر قابو نہ پاسکے وہاں سے روانہ ہو کر آپ عسفان آئے دس سواروں کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھیجا تاکہ قریش سنیں اور خوف زدہ ہوں لشکر غمیم تک آیا اور واپس گیا انہیں کوئی نہ ملا۔

مدینہ واپسی:

رسول اللہ ﷺ یہ فرماتے ہوئے مدینے کی طرف واپس ہوئے کہ ہم لوگ رجوع کرنے والے توبہ کرنے والے اپنے رب کی عبادت کرنے والے اور حمد کرنے والے ہیں آپ چودہ رات باہر رہے۔

غزوہ بنی لحیان کا اجمالی خاکہ:

عاصم بن عمرو بن عبد اللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ غزوہ بنی لحیان میں روانہ ہوئے آپ نے یہ ظاہر فرمایا کہ شام کا ارادہ ہے تاکہ ان کو غفلت کی حالت میں پائیں۔

آپ مدینے سے نکلے غراب، خثیف اور البتراء کے راستے ہوتے ہوئے ذات الیسار کی طرف گھومے۔ پھر آپ عین کے راستے پر نکلے صحرات الشام سے ہوتے ہوئے السیالہ کا سیدھا راستہ اختیار کیا۔ آپ نے رفتار بہت تیز کر دی اور غران میں اترے (اسی دن ابن اور لیس نے بیان کیا جہاں بنو لحیان کے مکانات تھے۔ یہاں معلوم ہوا کہ لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں پر محفوظ ہو گئے ہیں۔ جب وہ ارادہ جو آپ نے دشمن کے لیے کیا تھا کامیاب نہ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ اگر ہم عسفان میں اتریں تو اہل مکہ کو معلوم ہوگا کہ ہم وہاں آئے تھے آپ مع اصحاب کے روانہ ہوئے اور عسفان میں اترے اصحاب میں سے دو سواروں کو روانہ کیا جو غمیم کی جھوپڑیوں میں پہنچے پھر واپس آ گئے۔

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ ہم توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے ان شاء اللہ اپنے پروردگار کی حمد کرنے والے عبادت کرنے والے ہیں سفر کی مشقت واپسی کی مکان اہل و عیال اور مال میں نظر بد سے میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں۔

ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قبیلہ ہذیل کے بنی لحیان کی طرف کچھ لوگوں کو بھیجا اور فرمایا کہ ہر دو آدمی میں ایک آدمی تیز رفتاری اختیار کرے ثواب دونوں کے درمیان رہے گا۔ جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سب سے پہلے عسفان کو تلاش کیا پھر واپس ہوئے تو فرمایا ہم رجوع کرنے والے توبہ کرنے والے اپنے رب کی عبادت اور حمد کرنے والے ہیں۔

غزوہ الغابہ:

ربیع الاول ۱ھ میں رسول اللہ ﷺ نے غزوہ الغابہ کا ارادہ فرمایا جو مدینے سے ایک برید (۱۲ میل) کے فاصلے پر شام کے راستے پر ہے۔

ابن ابوزر رضی اللہ عنہ کی شہادت:

رسول اللہ ﷺ کی دودھ دینے والی بیس اونٹنیاں تھیں۔ جو الغابہ میں جرتی تھیں اور ان میں ابوزر رضی اللہ عنہ تھے۔ شب چار شنبہ کو چالیس سواروں کے ہمراہ عیینہ بن حصن نے ان پر دھوکے سے حملہ کیا۔ اونٹنیوں کو بھگالے گئے اور ابوزر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو قتل کر دیا، ایک چیخ کی آواز آئی جس میں الفرع الفرع (پریشانی پریشانی) کی ندا تھی، پھر یہ ندا دی گئی اے اللہ کی جماعت سوار ہو جاؤ، یہ سب سے پہلی ندا تھی جو ان کلمات کے ساتھ دی گئی۔

مدینے سے روانگی:

رسول اللہ ﷺ سوار ہوئے چار شنبہ کی صبح کو چہرے پر رومال باندھے ہوئے الحدید روانہ ہوئے۔ وہاں ٹھہر گئے۔ سب سے پہلے شخص جو آپ کے سامنے آئے وہ المقداد بن عمرو تھے وہ زہرہ و خود پہنے اور اپنی تلوار کو برہنہ کیے ہوئے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کے نیزے میں جھنڈا باندھ دیا اور فرمایا جاؤ، یہاں تک کہ تمہیں لشکر ملیں۔ میں بھی تمہارے نقش قدم پر ہوں۔ رسول اللہ ﷺ نے مدینے پر عبد اللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو ان کی قوم کے تین سو آدمیوں کے ہمراہ مدینے کی حفاظت کے لیے چھوڑا۔

معرکہ آرائی:

المقداد نے بیان کیا کہ میں نکلا تو دشمن کی آخری جماعتوں میں پایا۔ ابو قحادہ نے مسعدہ کو قتل کر دیا انہیں رسول اللہ ﷺ نے اس کا گھوڑا اور ہتھیار دے دیا عکاشہ بن حصن نے اثار بن عمرو بن اثار کو قتل کیا المقداد نے عمرو بن حبیب بن عیینہ بن حصن کو اور قرف بن مالک بن حذیفہ بن بدر کو قتل کیا۔ مسلمانوں میں محرز بن فضلہ شہید ہوئے۔ جنہیں مسعدہ نے شہید کیا۔ سلمہ بن الاکوع کو جو پیادہ تھے ایک جماعت ملی تو وہ انہیں تیر مارنے لگے اور کہتے تھے ”یہ لے“ اور یہ شعر پڑھتے تھے:

وانا ابن الاکوع ابو ابن الاکوع اليوم يوم الرضع

”میں ابن الاکوع ہوں۔ یہ دن قابل ملامت لوگوں کی مصیبت کا دن ہے۔“

مسلمانوں نے ان لوگوں کو ذی قرد تک بھگا دیا۔ جو خیبر کے نواح میں المستنخ کے متصل ہے۔

سلمہ نے بیان کیا کہ شام کے وقت رسول اللہ ﷺ کو ایک لشکر ملا۔ عرض کی: یا رسول اللہ وہ قوم بیاسی ہے اگر آپ مجھے سو آدمیوں کے ہمراہ بھیجیں تو جو جانور ان کے ساتھ ہیں۔ سب چھین لوں گا اور سرداروں کو گرفتار کر لوں گا۔ نبی ﷺ نے فرمایا: وہ لوگ اس وقت غطفان میں جمع ہوں گے۔

شورغل بنی عمرو بن عوف تک گیا تو امداد آئی اور برابر لشکر آتے رہے لوگ پیادہ بھی تھے۔ اور اپنے اونٹوں پر بھی تھے یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ذی قرد میں پہنچ گئے انہوں نے دس اونٹنیاں چھین لیں اور وہ قوم بقیہ اونٹنیوں کے ساتھ جو دس تھیں بچ گئی۔

رسول اللہ ﷺ نے ذی قرد میں نماز خوف پڑھی آپ وہاں خبر دریافت کرنے کے لیے ایک شبانہ روز مقیم رہے آپ نے اپنے ہر سوا صاحب میں ایک اونٹ تقسیم فرمایا جسے وہ ذبح کرتے تھے کل تعداد پانچ سو تھی، کہا جاتا ہے کہ سات سو تھی سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی خدمت میں کئی بورے بھجور اور دس اونٹ روانہ کیے وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ذی قرد میں پہنچے۔

امیر سر یہ سعد بن زید الاشہلی رضی اللہ عنہ:

ہمارے نزدیک ثابت یہ ہے کہ نے رسول اللہ ﷺ نے اس سر یہ پر سعد بن زید الاشہلی کو امیر بنایا تھا۔ لیکن حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے قول ”غداة فوارس المقداد“ (المقداد کے سواروں کی صبح) کی وجہ سے لوگوں نے اسے المقداد کی طرف منسوب کر دیا تو سعد بن زید نے ان پر عتاب کیا اور کہا کہ حرف روی نے مجبوراً میرا نام المقداد تک پہنچا دیا۔ رسول اللہ ﷺ پانچ شب باہر رہنے کے بعد دو شبے کو مدینے پہنچے۔

سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ کی شاندار کارکردگی:

سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں اور نبی ﷺ کے غلام رباح نبی ﷺ کے اونٹ لے گئے، میں طلحہ بن عبید اللہ کا گھوڑا بھی لے گیا میرا ارادہ تھا کہ اسے بھی اونٹوں کے ہمراہ پانی پلاؤں جب تارکی ہو گئی تو عبدالرحمن بن عیینہ نے رسول اللہ ﷺ کے اونٹوں کو لوٹ لیا۔ اور چرواہے کو قتل کر دیا وہ اور اس کے ساتھ چند آدمی جو سواروں کے ہمراہ تھے۔ ان کو ہنکاتے ہوئے روانہ ہوئے میں نے رباح سے کہا اس گھوڑے پر بیٹھ کر اسے طلحہ کے پاس پہنچا دو اور رسول اللہ ﷺ کو خبر کر دو کہ ان کے جانور لوٹ لے گئے۔ میں ایک ٹیلے پر کھڑا ہو گیا اپنا منہ مدینے کی جانب کر لیا اور تین مرتبہ ندا دی ”یا صبا حاہ“ (ہائے صبح) پھر اس قوم کا پیچھا کیا، میرے پاس تلوار اور تیر بھی تھے میں انہیں تیر مار کر زخمی کرنے لگا ایسا اس وقت کرتا جب درختوں کی کثرت ہوتی تھی۔ جب کوئی سوار میری طرف پلٹتا تو میں درخت کی جڑ میں بیٹھ کر اسے تیر مارتا تھا، جو سوار میری طرف متوجہ ہوا میں نے اسے زخمی کر دیا۔ انہیں تیر مارتا اور کہتا تھا کہ:

انا ابن الاکوع والیوم یوم الرضع

”میں ابن الاکوع ہوں۔ اور یہ قابل ملامت لوگوں کے لیے مصیبت کا دن ہے۔“

میں ایک آدمی سے ملا وہ اپنی سواری ہی پر تھا کہ میں نے اسے تیر مارا میرا تیر اس شخص کے لگا اور جگر چھید دیا میں نے کہا یہ لے، میں ابن الاکوع ہوں اور یہ دن قابل ملامت لوگوں کی مصیبت کا دن ہے۔ جب میں درخت کی آڑ میں ہوتا تھا تو انہیں تیروں سے گھیر لیتا میرا اور ان کا برابر یہی حال رہا اور جب دشواریاں نکلی کرتی تھیں تو پہاڑ پر چڑھ کر ان پر پتھر پھینکتا تھا۔ میں ان کا پیچھا کرتا تھا اور جڑ پڑھتا تھا تا آنکہ میں نے نبی ﷺ کے ان جانوروں کو جنہیں اللہ نے پیدا کیا تھا اپنے پس پشت کر لیا اور ان لوگوں کے ہاتھوں سے چھڑا لیا۔

میں برابر انہیں تیر مارتا رہا انہوں نے تم سے زائد نیزے ڈال دیے اور تم سے زائد چادریں جن سے وہ بارہلکا کر رہے تھے۔ جو کچھ وہ ڈالتے تھے میں اس پر پتھر رکھ دیتا تھا۔ میں نے اسے رسول اللہ ﷺ کے راستے پر صبح کیا۔ جب صبح کی روشنی

پھیل گئی تو ان کی مدد کے لیے عیینہ بن بدر الغزازی آیا۔ وہ لوگ ایک تنگ گھاٹی میں تھے میں پہاڑ پر چڑھ گیا اور ان لوگوں کے اوپر تھا۔ عیینہ نے کہا یہ کیا ہے۔ جو مجھے نظر آتا ہے انہوں نے کہا کہ اسی سے ہمیں ایذا پہنچی اس نے ہمیں صبح سے اس وقت تک نہیں چھوڑا جو کچھ ہمارے ہاتھوں میں تھا سب لے لیا اور اسے اپنے پیچھے کر دیا۔ عیینہ نے کہا ایسا نہ ہو کہ یہ جو دکھائی دیتا ہے اس کے پیچھے کوئی جستجو کرنے والا ہو جس نے تمہیں چھوڑ دیا ہو۔ تم میں سے ایک جماعت کو اس کے مقابلہ کے لیے کھڑا ہونا چاہیے ان میں سے چار کی ایک جماعت میرے مقابلہ کو کھڑی ہو گئی وہ پہاڑ پر چڑھے میں نے انہیں آواز دی اور کہا: کیا تم لوگ مجھے پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا: تو کون ہے؟ میں نے کہا میں ابن الاکوع ہوں جس کے چہرے کو محمد (ﷺ) نے مکرم کیا تم میں سے کوئی بھی مجھے پا نہیں سکتا اور نہ وہ شخص مجھ سے بچ سکتا ہے جسے میں طلب کروں ان میں سے ایک شخص نے کہا اس کا یہ گمان ہے۔

میں اپنی نشست گاہ سے ہٹنے بھی نہ پایا تھا کہ رسول اللہ ﷺ کے سواروں کو دیکھا جو درختوں کے درمیان تھے۔ سب سے آگے الاخرم الاسدی تھے ان کے پیچھے رسول اللہ ﷺ کے سوار ابو قتادہ اور ابو قتادہ کے پیچھے المقداد تھے مشرکین پشت پھیر کر بھاگے۔

اخرم بنی النضر اور ابن عیینہ سے مقابلہ:

میں پہاڑ سے اتر کر اخرم کے آگے آ گیا۔ ان کے گھوڑے کی باگ پکڑ کر کہا: اے اخرم اس جماعت سے ڈرو (یعنی ان سے بچو) مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تمہیں لوٹ لیں گے لہذا انتظار کرو یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب آئیں۔ انہوں نے کہا اے سلمہ اگر تمہیں اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان ہے اور تم جانتے ہو کہ جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے تو میرے اور شہادت کے درمیان حائل نہ ہو۔ میں نے ان کے گھوڑے کی باگ چھوڑ دی۔ وہ عبدالرحمن بن عیینہ سے ملے وہ ان پر پلٹ پڑا دونوں نیزے چلانے لگے اخرم نے عبدالرحمن کو زخمی کر دیا عبدالرحمن نے انہیں نیزہ مار کر قتل کر دیا۔ عبدالرحمن نے اخرم کا گھوڑا بدل لیا۔

معرکہ ذو قرد:

میں نکل کر اس قوم کے پیچھے روانہ ہوا مجھے نبی ﷺ کے اصحاب کا کچھ غبار بھی نظر نہ آتا تھا وہ لوگ ایک گھاٹی کے سامنے تھے جس میں پانی تھا اس کا نام ذو قرد تھا ان کا ارادہ ہوا کہ پانی پیئیں لیکن مجھے اپنے پیچھے دوڑتا ہوا دیکھ لیا تو اس سے ہٹ گئے اور ایک گھاٹی کا جو عیینہ ذو قرد پر تھی سہارا لے لیا۔

آفتاب غروب ہو گیا میں نے ایک آدمی کو پایا اسے تیر مارا اور کہا یہ لے۔

وانا ابن الاکوع والیوم یوم الرضع

”میں ابن الاکوع ہوں۔ اور یہ دن قابل ملامت لوگوں کی مصیبت کا دن ہے۔“

اس نے کہا کہ اے میری ماں کے رلانے والے کیا تو میرا صبح والا اکوع ہے؟ میں نے کہا اے اپنی جان کے دشمن ہاں۔ وہ شخص وہی تھا جسے میں نے صبح تیر مارا تھا میں نے اسے ایک اور تیر مارا دونوں تیر اس کے لگے وہ لوگ دو گھوڑے چھوڑ گئے تو میں انہیں

رسول اللہ ﷺ کے پاس ہنکا لایا آپ ذو قرد کے اس پانی پر تھے جس سے میں نے ان لوگوں کو ہنکایا تھا۔ اتفاقاً نبی اللہ ﷺ پانچ سو آدمیوں کے ہمراہ تھے بلال نے ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ ذبح کیا۔ جو میں پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ وہ رسول اللہ ﷺ کے لیے اس کی کلیجی اور کوہان بھون رہے تھے۔

میں رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ مجھے اجازت دیجئے اور اپنے اصحاب میں سے سو آدمی منتخب فرما دیجئے تو میں بے خبری کی حالت میں کفار پر حملہ کر دوں ان میں سے کوئی خبر دینے والا بھی نہ ہوگا جسے میں قتل نہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا: کیا تم ایسا کرنے والے ہو؟ میں نے کہا: ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو بزرگی دی رسول اللہ ﷺ بنے یہاں تک کہ میں نے آگ کی روشنی میں آپ کی کچلیاں دیکھیں۔ آپ نے فرمایا وہ لوگ اس وقت بنی غطفان کی زمین میں پناہ گزیں ہوں گے۔

غطفان کا ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ فلاں غطفانی کے پاس چلو کیونکہ ایک اونٹ ان (کفار) کے لیے ذبح کیا ہے جس وقت وہ لوگ اس کی کھال کھینچنے لگے تو انہوں نے ایک غبار دیکھا اونٹ کو چھوڑ دیا اور بھاگ گئے۔
ابن الاکوع اور ابوقحادہ رضی اللہ عنہما کی تعریف و تحسین:

جب صبح ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہمارے سواروں میں سب سے بہتر آج ابوقحادہ ہیں اور ہمارے پیادوں میں سب سے بہتر ابوسلمہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے پیادہ اور سوار کا حصہ دیا۔ مدینے واپس آتے ہوئے آپ نے مجھے اپنے پیچھے گوش بریدہ اونٹنی پر بٹھالیا۔

دوڑ میں سبقت:

ہمارے اور مدینے کے درمیان قریب چاشت کا وقت ہو گیا اس جماعت میں ایک انصاری تھے جن کے آگے کوئی نہیں ہو سکتا تھا وہ یہ نہ دینے لگے کہ ہے کوئی دوڑنے والا۔ کیا کوئی شخص ہے جو مدینے تک باہم دوڑ کرے؟ انہوں نے اسے کئی مرتبہ دہرایا۔ میں رسول اللہ ﷺ کے پیچھے تھا۔ آنحضرت ﷺ نے مجھے ہم نشین بتایا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ نہ تو تم کسی بزرگ کا ادب کرتے ہو اور نہ کسی شریف سے ڈرتے ہو انہوں نے کہا: سوائے رسول اللہ ﷺ کے کسی سے نہیں ڈرتا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں مجھے اجازت دیجئے تو میں ان کے ساتھ دوڑ کروں آپ نے فرمایا: اگر تم چاہو کرو میں نے (ان سے) کہا: چلو (میں بھی) تمہاری طرف (چلتا ہوں)۔

وہ اپنی سواری سے کود پڑے۔ میں نے بھی پاؤں سمیٹے اور اونٹنی سے کود پڑا انہیں ایک یا دو کوہان (آگے بڑھنے میں) طاقت دار بنا دیا، یعنی میں نے اپنے آپ کو روک لیا پھر میں دوڑا یہاں تک کہ ان سے مل گیا۔ اپنے ہاتھ سے ان کے دونوں شانوں کے بیچ میں زور سے مارا اور کہا میں تم سے آگے ہو گیا، کامیابی اللہ ہی کی طرف سے ہے یا اسی قسم کا کوئی کلمہ کہا، وہ ہنسے اور کہا میں تو نہیں خیال کرتا، یہاں تک کہ ہم دونوں مدینے آ گئے۔

سریہ عکاشہ بن محسن الاسدی رضی اللہ عنہ بجانب الغمر مرزوق:

عکاشہ بن محسن الاسدی کا الغمر مرزوق کی جانب سریہ ہے جو فید سے مدینے کے پہلے راستے میں دورات کی مسافت پر بنی اسد کا پانی (گھاٹ) ہے یہ رجب الاول ۶ھ میں ہوا۔

رسول اللہ ﷺ نے عکاشہ بن محسن کو چالیس آدمیوں کے ہمراہ الغمر روانہ کیا۔ وہ اس طرح جلد روانہ ہوئے کہ ان کی رفتار بہت تیز تھی۔

اس قوم نے انہیں تار لیا اور اپنی ہستی کے پہاڑ کی چوٹی پر چلے گئے انہیں اپنا مکان ناموافق ہوا۔ عکاشہ نے شجاع بن وہب کو خبر بنا کے بھیجا تو انہوں نے اونٹوں کا نشان دیکھا۔

یہ لوگ روانہ ہوئے تو انہیں کفار کا ایک مجرمل گیا جس کو انہوں نے امن دے دیا۔ اس نے انہیں اپنے چچا زاد بھائی کے اونٹ بتا دیئے جو انہوں نے لوٹ لیے۔ دو سو اونٹ ہٹکا لائے اس شخص کو چھوڑ دیا۔ اونٹ مدینے لے آئے اور رسول اللہ ﷺ کے پاس آ گئے انہیں جنگ کی نوبت نہیں آئی۔

سریہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ بجانب ذی القصہ:

رجب الاول ۶ھ میں ذی القصہ کی جانب محمد بن مسلمہ کا سریہ ہے رسول اللہ ﷺ نے محمد بن مسلمہ کو دس آدمیوں کے ہمراہ بنی ثعلبہ اور بنی عموال کی جانب جو ثعلبہ میں سے تھے بھیجا اور وہ لوگ ذی القصہ میں تھے اس کے اور مدینے کے درمیان ربذہ کے راستے پر جو میں میل کا فاصلہ ہے۔

یہ لوگ رات کے وقت ان کے پاس پہنچے تو اس قوم نے جو سو آدمی تھے انہیں گھیر لیا۔ کچھ رات تک دونوں نے تیر اندازی کی، اعراب دیہاتی نے نیزوں سے حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا محمد بن مسلمہ مجروح ہو کر پڑے ان کے منحنے پر ایسی چوٹ لگ گئی تھی کہ حرکت نہیں کر سکتے تھے مسلمانوں کے کپڑے ان کفار نے اتار لیے محمد بن مسلمہ کے پاس ایک مسلمان گزرے تو انہوں نے انہیں لا کر مدینے میں پہنچا دیا۔ رسول اللہ ﷺ نے ابوعبیدہ بن الجراح کو چالیس آدمیوں کے ہمراہ اس جماعت کی قتل گاہ کو بھیجا مگر ان کو کوئی نہ ملا انہوں نے اونٹ اور بکریاں پائیں جو ہٹکا لائے اور واپس ہوئے۔

سریہ ابوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ بجانب ذی القصہ:

رجب الآخر ۶ھ میں ذی القصہ کی جانب ابوعبیدہ بن الجراح کا سریہ ہوا لوگوں نے بیان کیا کہ بنی ثعلبہ و انمار کی بستیاں خشک ہو گئیں اور المراض سے تعلمین تک تالابوں میں خشکی آ گئی المراض مدینے سے ۳۶ میل ہے۔ بنو حارث و ثعلبہ و انمار اسی خشک تالاب کو گئے انہوں نے اس پر اتفاق کر لیا کہ مدینے کے موشی لوٹ لیں جو مدینے سے سات میل پر مقام ہیفہ میں چرتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ابوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو چالیس مسلمانوں کے ہمراہ جب کہ انہوں نے نماز مغرب پڑھ لی۔ بھیجا وہ لوگ روانہ ہوئے صبح کی تاریکی میں ذی القصہ پہنچے۔ ان لوگوں پر حملہ کر دیا جو پہاڑوں میں بھاگ کر چھپ گئے وہ ایک شخص کو پا گئے جو اسلام لے آیا اس کو چھوڑ دیا۔ ان کے اونٹوں میں سے کچھ اونٹ انہوں نے پکڑ لیے اور ہٹکا لائے سامان میں سے کچھ اسباب

لے لیا اسے مدینے میں لے آئے رسول اللہ ﷺ نے خمس نکالا جو بچا وہ انہیں پر تقسیم کر دیا۔
سریرہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بجانب بنی سلیم بمقام الجموم:

ربیع الآخر ۱۷ھ میں الجموم میں بنی سلیم کی جانب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا سریرہ ہوا رسول اللہ ﷺ نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بنی سلیم کی طرف بھیجا وہ روانہ ہوئے الجموم پہنچے جو بطن نخل کے بائیں جانب اسی نواح میں ہے بطن نخل مدینے سے چار برد (۳۸ میل) ہے۔

وہاں قبیلہ حزنہ کی ایک عورت ملی جس کا نام حلیمہ تھا اس نے بنی سلیم کے ٹھہرنے کے مقامات میں سے ایک مقام بتا دیا اس مقام پر انہیں اونٹ بکریاں اور قیدی ملے انہیں میں حلیمہ المزنیہ کا شوہر بھی تھا۔ جب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ وہ سب لے کر جو انہوں نے پایا تھا واپس آئے تو رسول اللہ ﷺ نے حزنہ کو اس کی جان اور اس کا شوہر رہہ کر دیا۔ بلال بن الحارث کا یہ شعر اسی واقعہ میں ہے:

لعمرك اخني المسول ولا وئت حلیمة حتی ركبها معا

”قسم ہے تیری زندگانی کی کہ نہ تو جس سے سوال کیا گیا تھا اس نے کوتاہی کی اور نہ حلیمہ ہی تھکی یہاں تک کہ دونوں کی سواری ساتھ ساتھ روانہ ہوئی۔“

سریرہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بجانب العیص:

جمادی الاولیٰ ۱۷ھ میں العیص کی جانب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا سریرہ ہوا اس کے اور مدینے کے درمیان چار رات کا راستہ ہے اور المر وہاں سے ایک رات کی مسافت پر ہے۔

رسول اللہ ﷺ کو خبر پہنچی کہ قریش کا ایک قافلہ شام سے آ رہا ہے آپ نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ستر سواروں کے ہمراہ اس کو روکنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے اسے اور جو کچھ اس میں تھا گرفتار کر لیا اس روز صفوان بن امیہ کی بہت سی چاندی پکڑ لی کچھ آدمیوں کو بھی گرفتار کیا جو اس قافلے میں تھے جن میں ابوالعاص بن الربیع بھی تھا انہیں مدینے لے آئے۔

ابوالعاص نے رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی زینب رضی اللہ عنہا سے پناہ مانگی انہوں نے اسے پناہ دے دی رسول اللہ ﷺ نے نماز فجر پڑھ لی تو زینب رضی اللہ عنہا نے لوگوں میں ندا دے دی کہ میں نے ابوالعاص کو پناہ دی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہمیں اس کا کچھ غم نہیں ہم نے بھی اسے پناہ دی جسے تم نے پناہ دی اور جو کچھ اس سے لیا گیا تھا آپ نے اسی کو واپس کر دیا۔
سریرہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بجانب الطرف:

جمادی الآخر ۱۷ھ میں الطرف کی جانب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو لشکر کے ساتھ بھیجا الطرف التحیل کے اسی جانب المراض کے قریب البقرہ کے اس راستہ پر جو الحجہ کو گیا ہے مدینے سے ۳۶ میل پر ہے وہ پندرہ آدمیوں کے ہمراہ بنی ثعلبہ کی جانب روانہ ہوئے مگر انہیں اونٹ بکریاں ملیں اعراب بھاگ گئے زید نے صبح کو اونٹوں کو جو بیس تھے مدینے پہنچا دیا اور انہیں جنگ کی نوبت نہیں آئی وہ چودہ رات باہر رہے ان کا شعار (نشان جنگ و اشارہ) اَمْتُ اَمْتُ تھا۔

سر یہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بجانب حسمی:

جمادی الآخرہ ۶ھ میں حسمی کی طرف زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا سریہ پیش آیا جو وادی القرئی کے پیچھے ہے۔ دحیہ بن خلیفہ الکلسی رضی اللہ عنہ قیصر کے پاس سے جس نے انہیں مہمان رکھا اور خلعت دیا تھا آئے حسمی میں انہیں الہند بن عارض اور اس کا بیٹا عارض بن الہند قبیلہ جذام کے چند آدمیوں کے ہمراہ ملا انہوں نے دحیہ کو لوٹ لیا اور سوائے پرانے کپڑوں کے کچھ بھی اس کے پاس نہ چھوڑا یعنی الصیب کے چند آدمیوں نے یہ سنا تو وہ ان کی طرف روانہ ہوئے اور دحیہ کا سامان چھین لیا۔ دحیہ نے نبی ﷺ کے پاس آ کر اس کی خبر دی تو آپ نے پانچ سو آدمیوں کے ہمراہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا ان کے ساتھ دحیہ کو بھی کر دیا۔ زید رات کو چلتے تھے اور دن کو چھپ رہے تھے ان کے ہمراہ قبیلہ بنی عذرہ کا ایک رہبر بھی تھا۔ وہ انہیں لایا اور صبح ہوتے ہی اس قوم پر حملہ کر دیا انہوں نے ان کو لوٹ لیا خون ریزی کی اور دکھ پہنچایا الہند اور اس کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا مواشی اور اونٹ اور عورتیں بھی پکڑ لیں انہوں نے ایک ہزار اونٹ پانچ ہزار بکریاں اور سو عورتیں اور بچے گرفتار کر لیے۔

زید بن رفاعہ الجذامی کی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضری:

زید بن رفاعہ الجذامی اپنی قوم کے ایک گروہ کے ہمراہ رسول اللہ ﷺ کے پاس گیا اور آپ کا وہ فرمان دکھایا جو آپ نے اس کے اور اس کی قوم کے لیے ان راتوں میں تحریر فرمایا تھا۔ جب وہ آپ کے پاس آیا تھا وہ اسلام لایا اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہم پر حلال کو حرام نہ کیجئے اور نہ حرام کو ہمارے لیے حلال کیجئے آپ نے فرمایا میں مقتولین کو کیا کروں ابو زید بن عمرو نے کہا یا رسول اللہ ﷺ اسے رہا کر دیجئے جو زندہ ہوا اور جو قتل ہو گیا تو وہ میرے ان دونوں قدموں کے نیچے ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ابو زید نے سچ کہا آپ نے ان لوگوں کے ہمراہ علی رضی اللہ عنہ کو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج کر حکم دیا کہ وہ انہیں اور ان کی عورتوں کو مال دے دیں۔

علی رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بشیر (فتح کی خوشخبری پہنچانے والے) رافع بن مکث الحیمینی سے ملے جو اسی قوم کی اونٹنی پر سوار تھے علی رضی اللہ عنہ نے وہ اونٹنی بھی اسی قوم کو واپس کر دی۔

وہ زید سے اخصتین میں ملے جو مدینے اور ذی المروہ کے درمیان ہے انہیں رسول اللہ ﷺ کا حکم پہنچایا۔ انہوں نے لوگوں سے جو کچھ لیا تھا وہ سب واپس کر دیا۔

سر یہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بجانب وادی القرئی:

رجب ۶ھ میں زید بن حارثہ کا سریہ وادی القرئی ہے لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ۶ھ میں زید کو امیر بنا کے بھیجا۔

سر یہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بجانب دومتہ الجندل:

شعبان ۶ھ میں عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا سریہ دومتہ الجندل ہوا رسول اللہ ﷺ نے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بابا۔ انہیں اپنے سامنے بٹھایا اپنے ہاتھ سے عمامہ باندھا اور فرمایا: اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو جو اللہ کے

ساتھ کفر کرے تم اس سے اس طرح لڑو کہ نہ تو خیانت کرو نہ بد عہدی کرو اور نہ کسی بچے کو قتل کرو۔

آپؐ نے انہیں دومۃ الجندل میں قبیلہ کلب کے پاس بھیجا اور فرمایا اگر وہ لوگ تمہیں مان لیں تو ان کے بادشاہ کی بیٹی سے نکاح کر لینا۔ عبدالرحمن روانہ ہوئے دومۃ الجندل آئے اور پھر کر تین روز تک اسلام کی دعوت دیتے رہے اصغ بن عمرو الکلبی اسلام لے آیا وہ نصرانی تھا اور ان لوگوں کا سردار ان کے ساتھ قوم کے بہت سے آدمی اسلام لے آئے جس نے چاہا وہ جزیہ دینے پر اپنے دین پر قائم رہا۔ عبدالرحمن نے الاصغ کی بیٹی تمار سے نکاح کر لیا انہیں مدینے لے آئے وہی ابوسلمہ بن عبدالرحمن کی ماں ہیں۔

سریہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بجانب سعد بن بکر بمقام فذک:

شعبان ۶ھ میں بمقام فذک بجانب بنی سعد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا سریہ ہوا۔ رسول اللہ ﷺ کو خبر ملی کہ ان لوگوں کا ایک مجمع ہے جس کا یہ قصد ہے کہ یہود خیبر کی مدد کرے رسول اللہ ﷺ نے ان کی جانب سو آدمیوں کے ہمراہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا وہ رات کو چلتے اور دن کو پوشیدہ رہتے تھے جب الحج پہنچے جو خیبر و فذک کے درمیان ایک چشمہ آب ہے اور مدینہ اور فذک کے درمیان چھ رات کا راستہ ہے تو اس مقام (الحج پر انہیں ایک آدمی ملا جس سے اس مجمع کو دریافت کیا اس نے کہا میں تمہیں اس شرط پر بتاؤں گا کہ تم لوگ مجھے امن دے دو ان لوگوں نے اسے امن دے دیا پھر اس نے بھی پتہ بتا دیا علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے غفلت کی حالت میں ان پر حملہ کر دیا پانچ سواونٹ اور دو ہزار بکریاں لے لیں بنو سعد اور ان کے سرغنہ ویر بن عظیم بار برادری کے اونٹوں کو بھگالے گئے علی رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ کے خاص حصے میں ایک دودھ دینے والی اونٹنی کو علیحدہ کر دیا جس کا نام الحفہ تھا پھر خمس علیحدہ کر دیا بقیہ مال غنیمت اپنے ساتھیوں پر تقسیم کر دیا۔ اور مدینے آگئے انہیں جنگ کی نوبت نہیں آئی۔

سریہ زید بن حارثہ بجانب ام قرفہ بمقام وادی القرئی:

رمضان ۶ھ میں وادی القرئی کے نواح میں جو مدینے سے سات رات کے راستہ پر ہیں ام قرفہ کی طرف زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا سریہ آیا۔

مسلمانوں کے تجارتی قافلہ پر حملہ:

زید بن حارثہ تجارت کے سلسلہ میں شام کی طرف روانہ ہوئے ان کے ہمراہ نبی ﷺ کے اصحاب کا مال تجارت تھا۔ جب وہ وادی القرئی کے قریب ہوئے اور انہیں بنی بدر کی شاخ فزارہ کے کچھ لوگ ملے جنہوں نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو مارا اور جو کچھ پاس تھا لے لیا۔

زید اچھے ہو گئے تو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئے اور آپ کو خبر دی رسول اللہ ﷺ نے ان کو ان لوگوں کی طرف بھیجا یہ لوگ دن کو چھپتے اور رات کو چلتے بنو بدر نے تاڑ لیا۔

بنی فزارہ کا عبرتناک انجام:

زید اور ان کے ساتھی صبح کے وقت ان لوگوں کے پاس آئے تکبیر کہی اور جو موجود تھے انہیں گھیر لیا۔ ام قرفہ کو جو قاطرہ

بنت ربیعہ بن بدر تھی اور اس کی بیٹی جاریہ بنت مالک بن حذیفہ بن بدر کو گرفتار کر لیا۔ جاریہ کو مسلمہ بن الاکوع بنی سعد نے گرفتار کیا اور رسول اللہ ﷺ کو بہہ کر دی رسول اللہ ﷺ نے حزن بن ابی وہب کو بہہ کر دی۔

قیس بن الحسر نے ام قرفہ کی طرف قصد کیا جو بہت سن رسیدہ بوڑھی تھی انہوں نے اس کو نہایت سختی سے قتل کیا اس کے دونوں پاؤں میں رسی باندھ کر دو اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا، اونٹوں کو تیز دوڑایا جس سے اس کا جسم کٹ گیا انہوں نے نعمان اور عبید اللہ کو بھی قتل کیا، یہ دونوں مسعدہ بن حکمہ بن مالک بن بدر کے بیٹے تھے۔

زید بن حارثہ اپنی اسی حالت کے ساتھ مدینے میں آئے نبی ﷺ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ کپڑے اتارے ہوئے تھے اپنا کپڑا کھینچتے ہوئے ان کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے انہیں گلے لگالیا بوسہ دیا اور ان سے حال دریافت کیا اللہ نے انہیں جو فتح دی تھی اس کی آپ کو خبر دی۔

سریہ عبداللہ بن عتیک بمقام خیبر:

رمضان ۶ھ میں بمقام خیبر ابورافع سلام بن ابی الحقیق النضری کی طرف عبداللہ بن عتیک بھیجے گئے ابورافع بن ابی الحقیق نے غطفان اور جو مشرکین عرب اس کے گرد تھے انہیں جمع کیا رسول اللہ ﷺ سے جنگ کے لیے ایک بہت بڑا مجمع ہو گیا۔ آنحضرت ﷺ نے عبداللہ بن عتیک، عبداللہ بن انیس، ابوقادہ، اسود بن خزاعی اور مسعود بن سنان کو ابورافع کے قتل پر مامور فرمایا۔
ابورافع کا قتل:

یہ لوگ خیبر پہنچ کے پوشیدہ ہو گئے جب سنا تا ہوا تو اس کے مکان کی طرف آئے اور زینے پر چڑھ گئے انہوں نے عبداللہ بن عتیک کو آگے کیا کیونکہ وہ یہودی زبان میں گفتگو کر سکتے تھے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ میں ابورافع کے پاس ہدیہ لایا ہوں اس کی عورت نے دروازہ کھول دیا مگر جب ہتھیار دیکھے تو غل مچانے کا ارادہ کیا، ان لوگوں نے تلوار سے اس کی طرف اشارہ کیا تو وہ خاموش ہو گئی لوگ اندر کھس پڑے اور ابورافع کو اس سفیدی سے پہچان لیا جو شل قطعی کپڑے کے تھے اور تلواروں سے اس پر ٹوٹ پڑے۔ ابن انیس نے بیان کیا کہ میں ایسا شخص تھا جسے رتوندی تھی کچھ دیکھ نہیں سکتا تھا میں نے اپنی تلوار اس کے پیٹ پر ٹکا دی بستر پر خون بہنے کی آواز سنی تو سمجھ گیا کہ وہ قضا کر گیا ساری جماعت اسے مارنے لگی۔

وہ لوگ اتر آئے اس کی عورت چلائی تو سب گھروالے چلائے، یہ جماعت خیبر کے قلعے کے ایک نالے میں چھپ گئی، حارث ابوزنب تین ہزار آدمیوں کے ہمراہ ان کے تعاقب کو نکلا آگ کی روشنی میں تلاش شروع کی مگر ان لوگوں کو نہیں پایا ناچار واپس ہو گئے۔ وہ جماعت اپنے مقام پر دو روز مقیم رہی یہاں تک کہ تلاش کم ہو گئی یہ لوگ مدینے کا رخ کر کے نکلے ان میں سے ہر شخص اس کے قتل کا مدعی تھا۔ آپ ﷺ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا، چہرے کامیاب ہوں انہوں نے کہا آپ کا چہرہ بھی کامیاب ہو۔ یا رسول اللہ ﷺ انہوں نے آپ کو اپنے مدافع کی خبر دی آپ نے ان کی تلواریں لے لیں دیکھا تو کھانے کا نشان عبداللہ بن انیس کی نوک پر تھا۔ آپ نے فرمایا انہوں نے اسے قتل کیا ہے۔

سریہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بجانب اسیر بن زارم یہودی:

شوال ۶ھ میں بمقام خیبر اسیر بن زارم الیہودی کی جانب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا سریہ ہوا۔

جب ابو رافع سلام بن ابی الحقیق قتل کر دیا گیا تو یہود نے اسیر بن زارم کو اپنا امیر بنالیا چنانچہ وہ بھی غطفان وغیرہم میں جا کر انہیں رسول اللہ ﷺ سے جنگ کرنے کے لیے جمع کرنے لگا۔ رسول اللہ ﷺ کو معلوم ہوا تو آنحضرت ﷺ نے ماہ رمضان میں خفیہ طور پر یمن آدمیوں کے ہمراہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا۔ انہوں نے اس کا حال اور اس کی غفلت دریافت کر کے رسول اللہ ﷺ کو خبر دی۔ رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو بلایا تیس آدمیوں نے آپ کی ندا قبول کی آپ نے ان پر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو امیر کر کے بھیجا۔ یہ لوگ اسیر کے پاس آئے اور کہا کہ ہم لوگ اس وقت تک امن میں ہیں جب تک ہم تیرے سامنے وہ بات پیش نہ کر دیں جس کے لیے ہم آئے ہیں اس نے کہا ہاں میرے لیے بھی تم لوگوں کی طرف سے اسی طرح ہے۔ انہوں نے کہا ہاں۔

ہم لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں تیرے پاس بھیجا ہے تو آپ کے پاس چل تاکہ آپ تجھے خیبر کا عامل بنا دیں اور تیرے ساتھ احسان کریں اسے لالچ پیدا ہوا اور روانہ ہو گیا ہمراہ تیس یہودی بھی ہوئے جو ہر مسلمان کے ہم نشین ہوئے۔ اسیر بن زارم کا قتل:

جب ہم لوگ قرقرہ ثناء پہنچے تو اسیر پچھتا یا عبداللہ بن انیس نے جو اس سریے میں تھے بیان کیا کہ اس نے میری تلوار کی طرف ہاتھ بڑھایا میں سمجھ گیا اپنا اونٹ کنارے لے گیا اور کہا ”اے اللہ کے دشمن خلاف عہد“ اس نے دوسرے ایسا ہی کیا میں اتر گیا اور قوم کو چلنے دیا یہاں تک کہ میرے لیے اسیر تیار ہو گیا میں نے اسے تلوار ماری اس کی ران اور پنڈلی کا اکثر حصہ علیحدہ ہو گیا وہ اپنے اونٹ سے گر پڑا اس کے ہاتھ میں شوط کی (پھاڑی درخت ہے جس سے کمان بنتی ہے) ٹیڑھی موٹھ کی ایک لٹھی تھی جس سے اس نے مجھے مارا اور میرے سر کو زخمی کر دیا۔ ہم لوگ اس کے ساتھیوں پر پلٹ پڑے سب کو قتل کر دیا سوائے ایک شخص کے جس نے ہم کو بہت ہی تھکا دیا۔ اور وہ مسلمانوں میں سے کسی کو نہیں ملا ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے آپ سے سب بات بیان کی تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ظالموں کی قوم سے نجات دی۔

سریہ کرز بن جابر القہری بجانب العربین:

شوال ۶ھ میں عربین کی جانب کرز بن جابر القہری کا سریہ ہے۔

عربین کی بد عہدی:

قبیلہ عربیہ کے آٹھ آدمی رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور اسلام لائے انہوں نے مدینے کی آب و ہوا کو خراب پایا تو رسول اللہ ﷺ نے انہیں اپنے اونٹوں کی طرف لے جانے کا حکم دیا ذی الجدر میں مدینے سے چھ میل پر قبا کے علاقہ میں عیر کے قریب چرتے تھے۔

وہ لوگ وہاں رہے یہاں تک کہ تندرست اور موٹے ہو گئے صبح کے وقت اونٹوں پر حملہ کیا اور ہٹکا لے گئے ان کو رسول

اللہ ﷺ کے آزاد کردہ غلام یسار نے جن کے ہمراہ ایک جماعت تھی پایا یسار لڑے ان لوگوں نے ان کا ہاتھ پاؤں کاٹ دیا۔ زبان اور آنکھوں میں کانٹے بھونک دیئے۔ یہاں تک کہ وہ مر گئے۔

عزیمین کا انجام:

یہ خبر رسول اللہ ﷺ کو پہنچی تو آپؐ نے ان کے تعاقب میں بیس سو اور روانہ کیے اور کرز بن جابر القہری کو عامل بنایا۔ یہ لوگ انہیں پاگئے گھیر کے گرفتار کر لیا اور رسیوں سے باندھ کر گھوڑوں پر ساتھ بٹھالیا وہ انہیں مدینے لائے۔ رسول اللہ ﷺ انہیں میں تھے وہ لوگ ان کو لے کر آپؐ کی طرف روانہ ہوئے آپؐ نے انہیں میں سیلابوں کے اجتماع کے مقام پر ملے آپؐ نے ان کے متعلق حکم دیا تو ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے آنکھیں نکالی گئیں پھر وہیں انہیں لٹکا دیا۔

وحی کا نزول:

رسول اللہ ﷺ پر یہ آیت نازل ہوئی: ﴿انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ و یسعون فی الارض الفساد﴾ (ان لوگوں کی جزا جو اللہ و رسولؐ سے جنگ کرتے ہیں اور زمین پر فساد کرتے پھرتے ہیں یہی ہے کہ وہ قتل کیے جائیں وغیرہ وغیرہ)۔ اس کے بعد پھر کوئی آنکھ نہیں نکالی گئی وہ اونٹنیاں پندرہ تھیں جو بہت دودھ دینے والی تھیں وہ انہیں مدینے واپس لے آئے تو اس میں سے ایک اونٹنی جس کا نام الحناء تھا رسول اللہ ﷺ کو نہیں ملی آپؐ نے دریافت فرمایا تو کہا گیا اسے ان لوگوں نے ذبح کر ڈالا۔

سریہ عمرو بن امیہ الضمیری

حضور ﷺ کو شہید کرنے کی سازش:

ابوسفیان بن حرب نے قریش کے چند آدمیوں سے کہا کہ کیا کوئی ایسا نہیں ہے جو محمد (ﷺ) کو دھوکے سے قتل کر دے کیونکہ وہ بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں اعراب میں سے ایک شخص آیا اور کہا کہ میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ تیز سب سے زیادہ مضبوط اور اپنے دل کو سب سے زیادہ مطمئن پاتا ہوں تو اگر مجھے قوت دے دے تو میں ان کی جانب روانہ ہو جاؤں اور دھوکے سے قتل کر دوں میرے پاس ایک خنجر ہے جو گدھ کے پر کی طرح ہے جس سے میں ان پر حملہ کر دوں گا۔ پھر میں کسی قافلہ میں مل جاؤں گا اور بھاگ کر اس جماعت سے آگے بڑھ جاؤں گا کیونکہ میں راستہ سے واقف ہوں اور اسے خوب جانتا ہوں۔

ابوسفیان نے کہا کہ تو ہمارا دوست ہے اسے اونٹ اور خرچ دیا اور کہا اپنے کام کو پوشیدہ رکھنا وہ رات کو روانہ ہوا اپنی سواری پر پانچ شب چلا چھٹی صبح ظہر الحمرہ میں ہوئی رسول اللہ ﷺ کو پوچھتا ہوا آیا۔ اسے آپؐ بتا دیئے گئے اپنی سواری کو باندھ کر رسول اللہ ﷺ کے طرف آیا آپؐ مسجد بنی عبدالاشہل میں تھے۔

قتل کے لئے آنے والے کی گرفتاری و قبول اسلام:

جب رسول اللہ ﷺ نے اسے دیکھا تو فرمایا یہ شخص بد عہدی کا ارادہ رکھتا ہے وہ بڑھا کہ رسول اللہ ﷺ پر حملہ کرے

اسید بن خضیر نے اس کی تہہ کا اندر کا حصہ پکڑ کے کھینچا تو اتفاق سے خنجر ملادہ شخص گھبرا گیا اور کہا میرا خون، میرا خون، اسید نے اس کا گریبان پکڑ کے زور سے کھینچا اور جھنجھوڑا۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھ سے سچ کہہ تو کون ہے؟ اس نے کہا پھر مجھے امن ہے؟ فرمایا ہاں اس نے آپ کو اپنے کام کی خبر دی اور اس کی بھی جو ابوسفیان نے اس کے لیے مقرر کیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے اسے چھوڑ دیا اور وہ اسلام لے آیا۔
ابوسفیان کے قتل کے لئے مہم:

رسول اللہ ﷺ نے عمرو بن امیہ اور سلمہ بن اسلم کو ابوسفیان بن حرب کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ اگر تم دونوں اس کی غفلت کا موقع پانا تو قتل کر دینا دونوں کے میں داخل ہوئے عمرو بن امیہ رات کے وقت جا کر بیت اللہ کا طواف کرنے لگے تو انہیں معاویہ بن ابی سفیان نے دیکھا لیا اور پہچان لیا اور قریش کو خبر دے دی۔

قریش کو ان سے اندیشہ ہوا اور انہوں نے ان کی تلاشی لی وہ جاہلیت میں بھی بڑے بہادر تھے انہوں نے کہا کہ عمرو کسی بھلائی کے لیے نہیں آئے اہل مکہ نے ان کے لیے اتفاق اور اجتماع کر لیا عمرو اور سلمہ بھاگے عمرو کو عبید اللہ بن مالک بن عبید اللہ النخعی ملا تو اس کو انہوں نے قتل کر دیا ایک اور شخص کو بھی قتل کر دیا جو بنی الدیل سے تھا اس کو انہوں نے یہ شعر گاتے اور کہتے سنائے۔

ولست بمسلم وما دفت حیا ولست ادين دين المسلمين

”میں جب تک زندہ ہوں مسلمانوں میں نہ ہوں گا اور نہ مسلمانوں کا دین قبول کروں گا۔“

انہیں قریش کے دو قاصد ملے جن کو انہوں نے خبر دریافت کرنے کو بھیجا تھا۔ ان میں سے ایک کو انہوں نے قتل کر دیا اور دوسرے کو گرفتار کر کے مدینے لے آئے، عمرو رسول اللہ ﷺ کو اپنا حال بتا رہے تھے اور رسول اللہ ﷺ ہنس رہے تھے۔
غزوہ حدیبیہ:

رسول اللہ ﷺ کا غزوہ حدیبیہ ذی القعدہ ۶ھ میں پیش آیا جب کہ آپ عمرہ کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ اس اجتماع کی تفصیل یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے اصحاب سے عمرہ کے لیے چلنے کو فرمایا، ان لوگوں نے بہت جلدی کی اور تیار ہو گئے۔ رسول اللہ ﷺ اپنے مکان میں گئے غسل فرمایا دو کپڑے پہنے اور اپنی سواری القصواء پر روانہ ہوئے۔

طلوع ہلال ذی القعدہ اور دو شنبہ کا دن تھا مدینے پر آپ نے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا، ہمراہ سوائے نکواریوں کے جو چمڑے کے میانوں میں تھیں اور کوئی ہتھیار نہ تھا۔ آپ اپنے ساتھ قربانی کے اونٹ لے گئے اور اصحاب نے بھی قربانی کے اونٹ لیے نماز ظہر ذی الحلیفہ میں پڑھی۔ آنحضرت ﷺ نے ان اونٹوں کو منگایا جو ہمراہ لیے تھے، انہیں جھول پہنائی گئی، آپ نے اور آپ کے اصحاب نے بھی ان کی داہنی جانب (کوہان میں) زخم برائے علامت قربانی کیے ان کے گلے میں ہار ڈالے وہ سب رو بہ قبلہ تھے اور تعداد میں ستر تھے جن میں ابو جہل کا اونٹ بھی تھا جو آپ کو جنگ بدر میں غنیمت میں ملا تھا۔
مسلمانوں کی تعداد:

آپ نے احرام باندھا اور تبلیہ کہا، عباد بن بشر کو بیس مسلمان سواروں کے ہمراہ بطور مخبر آگے روانہ کیا جن میں مہاجرین

اور انصار دونوں تھے آپ کے ہمراہ سولہ مسلمان تھے کہا جاتا ہے کہ چودہ سوتھے، سوا پندرہ سو کی تعداد بھی بتائی جاتی ہے آپ اپنے ہمراہ اپنی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو بھی لے گئے۔

حضور ﷺ کو روکنے کی کوشش:

مشرکین کو خبر پہنچی تو ان سب کی رائے آپ کو مسجد حرام سے روکنے پر متفق ہو گئی، انہوں نے جلدی میں لشکر جمع کیا، دو سو سواروں کو جن کا سردار خالد بن الولید یا براویث دیگر مکرمہ بن ابی جہل تھا، کراع الغمیم تک آگے بھیجا لبر بن سفیان الخزاعی مکے میں آئے انہوں نے ان کا کلام سنا اور ان کی رائے معلوم کی، وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس واپس آئے اور آپ سے غدیر الاشطاہ میں ملے جو عسفان کے پیچھے تھے اور آپ کو اس کی خبر دی۔

خالد بن الولید مع اپنے لشکر کے قریب آ گیا۔ اس نے رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کو دیکھا رسول اللہ ﷺ نے عباد بن بشر کو حکم دیا۔ وہ اپنے لشکر کے ہمراہ آگے بڑھے اور اس کے مقابلہ پر کھڑے ہو گئے اپنے ساتھیوں کو صف بستہ کر دیا۔

حدیبیہ میں تشریف آوری:

نماز ظہر کا وقت آ گیا رسول اللہ ﷺ نے اصحاب کو نماز خوف پڑھائی جب شام ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اسی العصل کی داہنی جانب کو اختیار کرو کیونکہ قریش کے جاسوس مرالظہران اور صبحان میں ہیں آپ روانہ ہوئے اور حدیبیہ کے قریب پہنچے جو حرم کے کنارے مکے سے نو میل ہے۔

سواری کے دونوں اگلے پاؤں ایک پہاڑی راستہ سے جس سے وہ آپ کو اتار رہی تھی قوم قریش کے مقام قضائے حاجت میں جا پڑے تو اس نے اپنا سینہ ٹیک دیا۔ مسلمانوں نے کہا ”حل حل“ اس کلمہ سے وہ اسے جھڑک رہے تھے مگر اس نے اٹھنے سے انکار کیا لوگوں نے کہا القصواء رک گئی نبی ﷺ نے فرمایا اس نے چلنا نہیں چھوڑا البتہ اسے اسی نے روک لیا جس نے (اصحاب فیل کے) ہاتھی کو روک دیا تھا آگاہ رہو کہ بخدا اگر آج وہ لوگ مجھ سے کسی ایسی چیز کی درخواست کریں گے جس میں حرمتہ اللہ کی تعظیم ہوگی تو میں وہ چیز انہیں ضرور دوں گا۔

آنحضرت ﷺ نے قصواء کو جھڑکا تو وہ کھڑی ہو گئی پھر اس طرح پھرے کہ واپسی اسی طرف ہوئی جہاں سے مکے کی طرف جانا شروع کیا تھا اور لوگوں کو حدیبیہ کے چشموں میں سے کسی ایسے چشمے پر اتارا جس میں پانی تقریباً کچھ نہ تھا۔ آنحضرت ﷺ نے اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکالا، حکم دیا کہ اسی گڑھے میں گاڑ دیا جائے۔ شیریں پانی ایلنے لگا لوگوں نے کنوئیں کی مینڈھ پر بیٹھ کر اپنے برتن بھر لیے حدیبیہ میں کئی مرتبہ رسول اللہ ﷺ پر بارش ہوئی اور بار بار پانی آیا کیا۔

بدیل بن ورقا کی حضور ﷺ سے ملاقات:

رسول اللہ ﷺ کے پاس بدیل بن ورقا اور خزاعہ کے چند سوار آئے انہوں نے آپ کو سلام کیا اور عرض کی کہ ہم لوگ آپ کے پاس آپ کی قوم کی طرف سے آئے ہیں، کعب بن لوی اور عامر بن لوی نے مختلف جماعت کے لشکروں سے اور اپنے فرماں برداروں سے آپ کے مقابلہ کے لیے روانہ ہونے کی خواہش کی ہے ان کے ہمراہ اونٹ، بچے والے جانور، عورتیں اور بچے

ہیں انہوں نے یہ قسم کھائی ہے کہ اس وقت تک آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان راستہ نہ کھولیں گے جب تک ان کے بڑے لوگ ہلاک نہ ہو جائیں گے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہم کسی شخص کی خوزیزی کے لیے نہیں آئے ہم تو صرف اس لیے آئے ہیں کہ اس بیت (بیت اللہ) کا طواف کریں۔ جو ہمیں روکے گا ہم اس سے لڑیں گے۔
عروہ بن مسعود انھیں کی حضور ﷺ سے ملاقات:

بدیل واپس ہوا اس نے قریش کو اس کی خبر دی انہوں نے عروہ بن مسعود انھیں کو بھیجا اس سے بھی رسول اللہ ﷺ نے اسی قسم کی گفتگو کی جیسی بدیل سے کی تھی وہ بھی واپس ہوا اور قریش کو آنحضرت ﷺ کے جواب سے آگاہ کیا۔
قریش نے کہا کہ اس سال ہم آپ کو بیت اللہ سے واپس کریں گے آپ سال آئندہ آئیں اور کئے میں داخل ہو کر بیت اللہ کا طواف کریں آپ کے پاس مکرز بن حفص بن الابخف آیا آپ نے اس سے بھی اسی قسم کی گفتگو فرمائی جیسی کہ اس کے دونوں ساتھیوں سے کی تھی وہ بھی قریش کے پاس واپس آ گیا اور انہیں خبر دی۔
قریش کو الحلیس بن علقمہ کا انتخاب:

انہوں نے الحلیس بن علقمہ کو بھیجا جو اس روز مختلف جماعتوں کے لشکروں کا سردار تھا اور عبادت کیا کرتا تھا جب اس نے ہدی (قربانی کے جانور) کو دیکھا کہ اس پر ہار ہیں جنہوں نے بہت زمانے تک رکے رہنے کی وجہ سے اس کے بالوں کو کھالیا ہے تو جو کچھ اس نے دیکھا اسے بڑی بات سمجھ کر لوٹا اور رسول اللہ ﷺ کے پاس نہیں آیا اس نے قریش سے کہا کہ واللہ تمہیں آپ کے اور جس کام کے لیے آپ آئے ہیں اس کے درمیان راستہ ضرور کھولنا پڑے گا ورنہ میں لشکروں کو منتشر کر دوں گا۔ انہوں نے کہا ہمیں اتنی مہلت دے کہ ہم اپنے لیے کسی ایسے شخص کو اختیار کر لیں جس سے ہم راضی ہوں۔
حضرت خراش بن امیہ رضی اللہ عنہ بحیثیت سفیر نبوی ﷺ:

سب سے پہلے شخص جنہیں رسول اللہ ﷺ نے قریش کی جانب بھیجا خراش بن امیہ الکعبی ہیں تاکہ وہ ان لوگوں کو آپ کی تشریف آوری کی غرض سے اطلاع دیں ان کو لوگوں نے روک لیا اور قتل کا ارادہ کیا مگر ان کی قوم کے جو لوگ وہاں تھے انہوں نے ان کو بچا لیا۔

قریش سے مذاکرات کے لئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روانگی:

پھر آپ نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا ان سے فرمایا کہ تم قریش کے پاس جاؤ انہیں یہ اطلاع دو کہ ہم کسی خوزیزی کے لیے نہیں آئے ہم تو صرف اس بیت اللہ کی زیارت کے لیے اس کی حرمت کی تعظیم کے لیے آئے ہیں ہمارے ہمراہ ہدی (قربانی کا جانور) بھی ہے جسے ہم ذبح کریں گے اور واپس ہوں گے۔

وہ ان کے پاس آئے اور انہیں خبر دی تو انہوں نے کہا یہ کبھی نہ ہوگا ورنہ وہ اس سال ہمارے شہر میں داخل ہونے پائیں گے۔
بیعت رضوان:

رسول اللہ ﷺ کو معلوم ہوا کہ عثمان رضی اللہ عنہ قتل کر دیئے گئے یہی وہ امر تھا جس سے رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کو

”بیعت رضوان“ کی دعوت دی آپؐ نے ان سے درخت کے نیچے بیعت لی۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے بھی بیعت لی آپؐ نے اپنا بایاں ہاتھ دہنے ہاتھ پر عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے مارا اور فرمایا کہ وہ اللہ کی حاجت اور اس کے رسول کی حاجت میں گئے۔ رسول اللہ ﷺ اور قریش کے درمیان قاصد آنے جانے لگے سب نے آشتی و صلح پر اتفاق کیا قریش نے سہیل بن عمرو کو اپنے چند آدمیوں کے ہمراہ بھیجا اس نے آپؐ سے اس پر صلح کی اور انہوں نے آپس میں صلح نامہ لکھ لیا۔

صلح نامہ حدیبیہ:

یہ وہ (صلح نامہ) ہے جس پر محمدؐ بن عبد اللہ اور سہیل بن عمرو نے صلح کی دونوں نے دس سال تک ہتھیار رکھ دینے کا عہد کیا، یہ لوگ امن سے رہیں اور ایک دوسرے سے تعرض نہ کریں۔ اس طور پر کہ نہ خفیہ چوری ہو نہ خیانت ہو یہ معاہدے ہمارے درمیان (بندش فتنہ کے لحاظ سے) ایک بند صندوق کا حکم رکھتا ہے ہمارے درمیان مثل ایک صندوق کے ہے جو چاہے کہ محمدؐ کی ذمہ داری میں داخل ہو تو وہ ایسا کر سکے گا اور جو شخص یہ پسند کرے کہ قریش کے عہد میں داخل ہو وہ بھی ایسا کر سکے گا ان میں سے جو شخص بغیر اپنے ولی کی اجازت کے محمدؐ کے پاس آئے گا تو وہ اس کو اس کے ولی کے پاس واپس کر دیں گے اصحاب محمدؐ سے جو قریش کے پاس آئے گا وہ اسے واپس نہیں کریں گے اس سال محمدؐ اپنے اصحاب کو ہمارے پاس سے واپس لے جائیں گے اور سال آئندہ وہ ہمارے پاس مع اپنے اصحاب کے اس طرح آ کر کے میں تین دن قیام کریں گے کہ ہمارے یہاں سوائے ان ہتھیاروں کے کوئی ہتھیار لے کر داخل نہ ہوں گے جو مسافر کے ہتھیار ہوتے ہیں اور وہ تلواریں ہیں جو چمڑے کے میان میں ہوتی ہیں۔ ابو بکر بن ابی قحافہ اور عمر بن الخطاب اور عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص اور عثمان بن عفان اور ابو عبیدہ بن الجراح اور محمد بن مسلمہ اور حویطب بن عبد العزیٰ اور کرز بن حفص بن الاخیف رضی اللہ عنہم اس کے گواہ ہوئے۔

حضرت ابو جندل کی واپسی کا واقعہ:

اس عہد نامہ کا عنوان علی رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا یہ رسول اللہ ﷺ کے پاس رہا اس کی نقل سہیل بن عمرو کے پاس رہی ابو جندل بن سہیل بن عمرو کے سے رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا وہ مقید تھا اور مشکل سے چلتا تھا سہیل نے کہا کہ یہ پہلا شخص ہے جس کے متعلق میں آپؐ سے صلح کی بنا پر مطالبہ کروں گا رسول اللہ ﷺ نے اسے واپس کر دیا اور فرمایا اے ابو جندل ہمارے اور اس قوم کے درمیان صلح مکمل ہو گئی اس لیے تم صبر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشاکش کی سہیل پیدا کر دے۔

خزاعہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم محمدؐ کے عہد میں داخل ہوتے ہیں۔ بنو بکر رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے ہم قریش کے ساتھ انہیں کے عہد میں داخل ہوتے ہیں۔

فتح مہین کی خوشخبری:

جب لکھنے سے فارغ ہوئے تو سہیل اور اس کے ساتھ چلے گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے قربانی کی، آپؐ کا سر خراش بن امیہ الکعبی نے مونڈا، اصحاب نے بھی قربانی کی اور ان میں سے اکثر کا سر مونڈا گیا، اور دوسروں کے بال کتروائے گئے، رسول اللہ ﷺ نے تین مرتبہ فرمایا کہ ”اللہ سرمنڈوانے والے لوگوں پر رحم کرے“ کہا گیا یا رسول اللہ ﷺ اور بال کتروانے والوں پر“

تو آپ نے فرمایا ”بال کتر وانے والوں پر بھی“ رسول اللہ ﷺ دس روز سے زائد الحدیبیہ میں مقیم رہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بیس روز رہے پھر واپس ہوئے جب آپ ضحان میں تھے تو آپ پر ”انا فتحنا لك فتحا مبینا“ نازل کی گئی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو اور مسلمانوں نے بھی آپ کو مبارکباد دی۔

براء سے مروی ہے کہ ہم لوگ حدیبیہ کے دن چودہ سو تھے۔

رسول اللہ ﷺ کے صحابی عبداللہ بن ابی اونی سے مروی ہے کہ جو بیعت الرضوان میں موجود تھے کہ ہم لوگ اس روز تیرہ سو تھے اور اس روز اسلام کی تعداد مہاجرین کا آٹھواں حصہ تھی۔

شجر کا بیعت الرضوان کی تعداد:

سالم بن ابی الجعد سے مروی ہے کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ سے دریافت کیا کہ درخت کی بیعت کے دن آپ لوگ کتنے تھے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ پندرہ سو تھے لوگوں کو پیاس لاحق ہوئی تو رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک چھوٹے سے برتن میں پانی لایا گیا۔ آپ نے اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیا پانی آپ کی انگلیوں سے اس طرح نکلنے لگا جیسے وہ چشمے ہیں ہم نے یہاں اور وہ ہمیں کافی ہو گیا راوی نے پوچھا آپ لوگ کتنے تھے انہوں نے کہا اگر ہم لوگ ایک لاکھ بھی ہوتے تو وہ ضرور ہمیں کافی ہو جاتا ہم لوگ پندرہ سو تھے۔

ایاس بن سلمہ کے والد سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ حدیبیہ میں آئے ہم لوگ چودہ سو تھے حدیبیہ کے حوض پر پچاس بکریاں تھیں جو اس سے سیراب ہوتی تھیں رسول اللہ ﷺ حوض پر بیٹھ گئے پھر یا تو آپ نے دعا فرمائی اور یا لعاب دہن ڈال پانی ایلنے لگا ہم لوگ سیراب ہو گئے اور سب نے پانی لے لیا۔

شجرۃ الرضوان:

طارق سے مروی ہے کہ میں حج کے لیے روانہ ہوا تو ایک قوم پر گزرا جو نماز پڑھ رہی تھی میں نے کہا یہ مسجد کیسی ہے انہوں نے کہا کہ یہ وہ درخت ہے جہاں نبی ﷺ نے بیعت الرضوان لی تھی میں سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور انہیں خبر دی انہوں نے کہا کہ میرے والد نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ بھی ان لوگوں میں تھے جنہوں نے درخت کے نیچے رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی تھی انہوں نے کہا کہ ہم سال آئندہ نکلے تو اسے بھول گئے پھر بھی ہم اس پر قادر نہ ہو سکے سعید نے کہا کہ اگر اصحاب محمدؐ اسے نہیں جانتے تھے اور تمہیں نے اسے جان لیا تو تم زیادہ جاننے والے ہوئے۔

طارق بن عبدالرحمن سے مروی ہے کہ میں سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ لوگوں نے درخت کا تذکرہ کیا تو وہ ہنسے پھر کہا کہ میرے والد نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ اس سال ان کے ہمراہ تھے اور وہ اس (درخت) کے پاس حاضر ہوئے تھے مگر سب لوگ دوسرے ہی سال اسے بھول گئے۔

عبداللہ بن مغفل سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ درخت کے نیچے لوگوں سے بیعت لے رہے تھے میرے والد آپ کے سر سے اس کی شاخیں اٹھائے ہوئے تھے۔

معقل بن یسار سے مروی ہے کہ الحدیبیہ کے سال میں رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ تھا آپ لوگوں کو بیعت کرا رہے تھے، میں درخت کی شاخوں میں سے ایک شاخ رسول اللہ ﷺ کے سر سے اٹھائے ہوئے تھا۔ آپ نے ان سے اس امر کی بیعت لی کہ وہ فرار نہ ہوں گے ان سے موت پر بیعت نہیں لی ہم نے معقل سے پوچھا کہ اس روز تم کتنے لوگ تھے تو انہوں نے کہا پندرہ سو۔

معقل بن یسار سے مروی ہے کہ نبی ﷺ حدیبیہ کے سال درخت کے نیچے لوگوں سے بیعت لے رہے تھے میں اپنے ہاتھ سے درخت کی شاخوں میں سے ایک شاخ آپ کے سر سے اٹھائے ہوئے تھا آپ نے اس روز اس امر کی بیعت لی کہ فرار نہ ہوں گے راوی نے پوچھا کہ آپ کتنے لوگ تھے تو انہوں نے کہا ایک ہزار چار سو۔

نافع سے مروی ہے کہ لوگ اس درخت کے پاس آیا کرتے تھے جس کا نام شجرة الرضوان ہے اس کے پاس نماز پڑھتے تھے، یہ خبر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے اس بارے میں انہیں ڈانٹا اور حکم دیا تو وہ کاٹ ڈالا گیا۔

عامر سے مروی ہے کہ سب سے پہلے جس شخص نے نبی ﷺ سے بیعت رضوان کی وہ ابوسنان الاسدی تھے۔ محمد بن سعد (مؤلف کتاب ہذا) کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو محمد بن عمر سے بیان کیا تو انہوں نے کہا یہ نسیان ہے ابوسنان الاسدی حدیبیہ کے قبل بنی قریظہ کے حصار میں شہید ہو گئے جنہوں نے حدیبیہ کے دن بیعت کی وہ سنان بن سنان الاسدی تھے۔

دہب بن منبہ سے مروی ہے کہ میں نے جابر بن عبد اللہ سے پوچھا کہ ”مسلمان یوم حدیبیہ میں کتنے تھے“ انہوں نے کہا ہم چودہ سو تھے، ہم نے آپ سے درخت کے نیچے جو خار وار اور بلند ریگستانی (بول کا) درخت تھا بیعت کی اپنے ہاتھ سے اسے پکڑے ہوئے تھے سوائے جد بن قیس کے جو اپنے اونٹ کی بغل کے نیچے چھپ گیا تھا، میں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے کیونکر آپ سے بیعت کی تو انہوں نے کہا ہم نے آپ سے اس امر پر بیعت کی کہ ہم فرار نہ کریں گے ہم نے آپ سے موت پر بیعت نہیں کی میں نے ان سے دریافت کیا کہ نبی ﷺ نے ذی اہلیفہ میں بیعت لی تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہاں نماز پڑھی اور سوائے درخت حدیبیہ کے اور کسی درخت کے پاس بیعت نہیں لی، نبی ﷺ نے حدیبیہ کے حوض پر دعا فرمائی۔ سب نے ستر اونٹ کی قربانی کی جو ہر سات آدمی میں ایک اونٹ تھا۔

جابر نے کہا کہ مجھے ام مبشر نے خبر دی کہ انہوں نے آپ ﷺ کو حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس کہتے سنا کہ ان شاء اللہ درخت والے لوگ جنہوں نے اس کے نیچے بیعت کی ہے آگ میں داخل نہ ہوں گے حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ ﷺ آپ نے انہیں جھڑکا تو حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا ”وان منکم الا واردھا کان علی ربك حتما مقصبا“ (تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو اس آگ میں داخل نہ ہو یا آپ کے پروردگار پر ایسا واجب ہے جو پورا کیا جائے گا) نبی ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیہا جثیا (پھر ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا اور ظالموں کو اس میں پنجوں کے بل چھوڑ دیں گے)۔

صلح حدیبیہ کی شرائط:

براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے یوم حدیبیہ میں مشرکین سے تین چیزوں پر صلح کی۔ (۱) مشرکین۔

میں سے جو کوئی آپ کے پاس آئے گا وہ ان کے پاس واپس کیا جائے گا۔ (۲) مسلمانوں میں سے جو ان کے پاس آئے وہ اسے واپس نہیں کریں گے (۳) آپ کے میں سال آئندہ داخل ہوں گے اور تین دن قیام کریں گے سوائے ضروری ہتھیاروں کے جیسے تلوار اور کمان اور اسی کے مثل دوسرے ہتھیار نہ لائیں گے ابو جندل آیا جو اپنی بیڑیوں میں مقید تھا آپ نے اسے ان کے پاس روانہ کر دیا۔

عمرہ سے مروی ہے کہ جب نبی ﷺ نے وہ صلح نامہ لکھا جو آپ کے اور اہل مکہ کے درمیان یوم حدیبیہ میں ہوا تھا تو آپ نے فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوان لوگوں نے کہا اللہ کو تو ہم پہچانتے ہیں مگر الرحمن الرحیم کو ہم نہیں جانتے، انہوں نے: بسم اللہ لکھا رسول اللہ ﷺ نے صلح نامے کے نیچے لکھا کہ ہمارے حقوق بھی تم پر ویسے ہی ہیں جیسے کہ تمہارے حقوق ہم پر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی غیرت ایمانی:

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے اہل مکہ سے ایسی صلح کی اور وہ شے انہیں عطا کی کہ اگر نبی اللہ مجھ پر کسی کو امیر بنا دیتے اور وہ وہی کرتا جو نبی اللہ نے کیا تو میں اس کی نہ سماعت کرتا نہ اطاعت کرتا وہ بات جو آپ نے ان کے لیے کردی یہ تھی کہ جو کوئی مسلمان کفار سے ملے گا تو وہ اسے واپس نہیں کریں گے اور جو کوئی کفار میں سے مسلمانوں کو ملے گا تو وہ اسے واپس کر دیں گے۔ ہتھیار لانے پر پابندی:

براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حدیبیہ میں اہل مکہ نے رسول اللہ ﷺ پر یہ شرط لگائی کہ آپ کے اصحاب میں سے کوئی مکہ کے اندر سوائے ہتھیاروں کے نہ لائے گا جو چڑے کے میان میں ہوتے ہیں۔ براء بن عازب سے مروی ہے کہ حدیبیہ کے سال مشرکین نے رسول اللہ ﷺ پر یہ شرط لگائی کہ آپ کوئی ہتھیار نہ لائیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سوائے ضروری ہتھیاروں کے۔ راوی نے کہا کہ وہ میان ہے جس میں تلوار ہوتی ہے اور کمان۔ وحی کا نزول:

قنادہ سے مروی ہے کہ جب سفر حدیبیہ ہوا تو مشرکین نے رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب کو بیت اللہ سے روکا۔ مشرکین نے اس روز اس فیصلہ پر صلح کی کہ مسلمانوں کو یہ حق ہے کہ وہ آئندہ سال اسی ماہ میں عمرہ کریں جس میں انہوں نے (مشرکین نے) ان کو روکا ہے اللہ تعالیٰ نے بجائے اس ماہ کے جس میں وہ روکے گئے اسی کو شہر حرام بنا دیا جس میں وہ عمرہ کریں اس کا کلام یہ ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص (ماہ محترم کے احترام ماہ محترم کے عوض میں ہے اور احترام میں اولہ بدلہ ہے یعنی اگر کوئی تم سے ماہ محترم میں جنگ کرے تو تم بھی اس سے جنگ کرو کیونکہ جب اس نے ماہ محترم کا خیال نہ کیا تو تم پر بھی اس کا خیال کرنا ضروری نہیں رہا۔

عبید اللہ بن عبد اللہ بن عقبہ بن مسعود سے مروی ہے کہ ابوسفیان بن حرب نے کہا کہ جب حدیبیہ کے سال رسول اللہ ﷺ مکہ آئے تو ان کے اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان عہد ہوا کہ آپ ہمارے یہاں ہتھیار لے کے نہ آئیں گے نہ مکہ میں

تین رات سے زائد قیام کریں گے جو شخص ہم سے تمہارے پاس جائے گا اسے تم ہمارے پاس واپس کر دو گے اور جو تم میں سے ہمارے پاس آئے گا اسے ہم تمہارے پاس واپس نہ کریں گے۔

اونٹوں کی قربانی:

جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حدیبیہ کے سال ستر اونٹ کی قربانی کی، سات آدمی کی طرف سے ایک اونٹ۔

محمد بن عبید نے اپنی حدیث میں اتنا اور اضافہ کیا کہ اس روز ہم لوگ چودہ سو تھے اور قربانی نہ کرنے والے قربانی کرنے والوں سے زائد تھے۔

سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ غزوہ حدیبیہ میں رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ روانہ ہوئے ہم نے سوا اونٹوں کی قربانی کی ہم لوگ ایک ہزار سے زائد تھے ہمارے ساتھ ساتھ تھیاری زیادہ اور سوار تھے آپ کے اونٹوں میں ابی جہل کا اونٹ بھی تھا آپ حدیبیہ میں اترے قریش نے اس بات پر صلح کی کہ اس قربانی کا مقام وہی ہے جہاں ہم نے آپ کو روکا۔

جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ حدیبیہ کے سال رسول اللہ ﷺ نے ایک اونٹ کی سات آدمیوں کی طرف سے اور ایک گائے کی بھی سات آدمیوں کی طرف سے قربانی کی۔ جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کے اصحاب نے حدیبیہ کے سال ستر اونٹ کی قربانی کی ایک اونٹ سات سات کی طرف سے۔ جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ ہم نے حدیبیہ کے روز رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ ستر اونٹ سات کی طرف سے، ہم سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تمہاری ایک جماعت ایک قربانی میں شریک ہو جائے۔

انس بن مالک سے مروی ہے کہ مسلمانوں نے حدیبیہ کے دن ستر اونٹ کی قربانی کی ہر سات آدمیوں کی طرف سے ایک اونٹ۔

حلق کروانے والوں کے لیے دعاء:

قنادہ سے مروی ہے کہ ہم سے بیان کیا گیا کہ نبی ﷺ حدیبیہ کے روز روانہ ہوئے تو آپ نے اپنے اصحاب میں سے چند آدمیوں کو دیکھا کہ انہوں نے بال کتروائے ہیں، فرمایا اللہ سر منڈانے والوں کی مغفرت کرے، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بال کتروانے والوں کی؟ آپ نے یہی تین مرتبہ فرمایا، انہوں نے آپ کو برابر یہی جواب دیا، پھر آپ نے چوتھی مرتبہ فرمایا، ”اور بال کتروانے والوں کی“۔

ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حدیبیہ کے سال رسول اللہ ﷺ نے سوائے عثمان بن عفان اور ابوقنادہ الانصاری رضی اللہ عنہ کے اپنے اصحاب کو دیکھا کہ انہوں نے سر منڈایا ہے تو رسول اللہ ﷺ نے سر منڈانے والوں کے لیے تین مرتبہ دعائے مغفرت کی اور کتروانے والوں کے لیے ایک مرتبہ۔

مالک بن ربیعہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ﷺ کو کہتے سنا کہ ”اے اللہ سر منڈانے والوں کی مغفرت فرما“ تو ایک

شخص نے کہا اور بال کتر دانے والوں کی؟“ تو آپؐ نے تیسری یا چوتھی مرتبہ فرمایا ”اور بال کتر دانے والوں کی“ میں بھی اس روز سرمٹا اے ہوئے تھا۔ مجھے جو مسرت اس سے ہوئی وہ اونٹ کے گوشت سے اور نہ بڑی قدر سے ہوئی۔

مجمع بن یعقوب نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب رسول اللہ ﷺ اور آپؐ کے اصحاب روانہ ہوئے حدیبیہ میں سرمٹا ایا اور قربانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک تیز ہوا بھیجی جو ان کے بالوں کو اڑا لے گئی اس نے انہیں حرم میں ڈال دیا۔

مجاہد سے مروی ہے کہ ”انا فتحناک فتحا مبیناً“ حدیبیہ کے سال نازل ہوئی۔

آیات فتح کا نزول:

مجاہد سے مروی ہے کہ ”انا فتحناک فتحا مبیناً“ (ہم نے آپؐ کو اے محمدؐ کھلی ہوئی فتح دی) ”انا قضینا لک قضاء مبیناً“ (ہم نے آپؐ کے لیے کھلا ہوا فیصلہ کر دیا) نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے حدیبیہ میں قربانی کی اور سرمٹا ایا۔ قتادہ سے مروی ہے کہ میں نے انس بن مالک کو کہتے سنا کہ یہ آیت جب نبی ﷺ حدیبیہ سے لوٹے تو نازل ہوئی۔ ”انا فتحناک فتحنا مبینا یعقر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر“ (ہم نے آپؐ کو کھلی ہوئی فتح دی تاکہ اللہ تعالیٰ آپؐ کی اگلی بچھلی لغزشیں معاف کر دے)۔

فصیح سے مروی ہے کہ ہجرت حدیبیہ کے درمیان فتح مکہ تک تھی حدیبیہ بھی فتح ہی ہے۔

مجمع بن جاریہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ حدیبیہ میں حاضر ہوا۔ جب ہم لوگ وہاں سے واپس ہوئے تو دیکھا کہ لوگ اونٹوں کو بھگا رہے ہیں، بعض لوگوں نے بعض سے کہا کہ انہیں کیا ہوا ہے (جو بھاگ رہے ہیں) لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ پر وحی نازل ہوئی ہے اس پر وہ بھی لوگوں کے ہمراہ بھاگنے لگے یہاں تک کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کو کراع الغمیم کے پاس کھڑا ہوا پایا جب آپؐ کے پاس وہ چند نفوس جمع ہو گئے۔ جنہیں آپؐ چاہتے تھے تو آپؐ نے انہیں پڑھ کر سنایا۔ ”انا فتحناک فتحنا مبیناً“ اصحاب میں سے ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ کیا یہ فتح ہے؟ آپؐ نے فرمایا ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بے شک یہ فتح ہے۔ پھر خیبر حدیبیہ پر اٹھارہ حصوں میں تقسیم کیا گیا، لشکر پندرہ سو تھا جن میں تین سو سوار تھے ہر سوار کے دو حصہ تھے۔ براء نے کہا کہ جس کو لوگ فتح مکہ کہتے ہیں ہم تو وہ یوم حدیبیہ بیحد الرضوان کو کہتے ہیں، کیونکہ یہی باعث فتح مکہ ہے۔

نافع سے مروی ہے کہ اس کے چند سال بعد رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کی ایک جماعت روانہ ہوئی تو ان میں سے کسی نے بھی اس درخت کو نہ پہچانا اس میں انہوں نے اختلاف کیا، ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا وہ درخت اللہ کی رحمت تھا۔

ابو ایحٰ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن ہم لوگوں پر اتنی تھوڑی بارش ہوئی جس سے ہمارے جوتوں کے تلے بھی تر نہ ہوئے رسول اللہ ﷺ کے منادی نے یہ ندا دی کہ اپنے کجاووں میں نماز پڑھو۔

غزوہ خیبر

تاری کا حکم:

جمادی الاولیٰ کے ہجری میں غزوہ خیبر ہوا خیبر مدینے سے آٹھ برد (۹۶ میل) ہے رسول اللہ ﷺ نے اپنے اصحاب کو غزوہ خیبر کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا، آپؐ ان کو جمع کرنے لگے جو آپؐ کے پاس تھے اور جہاد کرتے تھے آپؐ نے فرمایا کہ ہمارے ہمراہ سوائے اس کے کوئی نہ جائے جسے جہاد کا شوق ہو۔
مدینہ میں قائم مقام:

یہود جو مدینے میں باقی رہ گئے تھے ان پر بہت شاق ہوا۔ اور وہ چلے گئے آپؐ نے مدینے پر سباع بن عرفطہ النضاری کو اپنا قائم مقام بنایا آپؐ ہمراہ اپنی زوجہ ام سلمہؓ کو لے گئے جب خیبر کے قریب پہنچے تو رات کو دشمنوں نے جنبش نہ کی اور نہ ان کے مرغ نے بانگ دی یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہو گیا، ان کی صبح اس حالت میں ہوئی کہ دل پریشان خاطر پر آگندہ انہوں نے اپنے قلعے کھول دیے اور اپنے کام پر روانہ ہوئے ان کے ہمراہ چھاؤڑے، صراحیاں اور ٹوکریاں تھیں، جب انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا تو کہا ”محمد اور خیمیں“، خیمیں سے ان کی مراد لشکر تھی وہ پشت پھیر کر اپنے قلعوں کی طرف بھاگے رسول اللہ ﷺ فرمانے لگے ”اللہ اکبر“ خیبر برباد ہو گیا جب ہم کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو ان لوگوں کی صبح خراب ہوتی ہے جنہیں ڈرایا جاتا ہے۔

اسلامی علم بردار:

رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو نصیحت کی اور ان میں (رأیہ) بڑے جھنڈے تقسیم کیے سوائے جنگ خیبر کے اور کبھی بڑے نہیں تھے صرف (لواء) چھوٹے جھنڈے ہوتے تھے نبی ﷺ کا جھنڈا اور (رأیہ) سیاہ تھا جو عائشہ رضی اللہ عنہا کی چادر کا تھا اس کا نام ”العقاب“ تھا آپؐ کا (لواء) جھنڈا سفید تھا۔ جو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دیا، ایک (رأیہ) بڑا جھنڈا احباب بن المہذر کو دیا، ایک رأیہ سعد بن عبادہ کو دیا، مسلمانوں کا شعار (نشان جنگ جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ اسلامی فوج کا فرد ہے) ”یا منصورُ اُمت“ تھا۔

معرکہ آرائی کا آغاز:

رسول اللہ ﷺ نے مشرکین سے اور انہوں نے آپؐ سے شدید جنگ کی آپؐ کے اصحاب میں سے چند شہید ہوئے دشمنوں کی بہت بڑی جماعت متفق ہوئی آپؐ نے خیبر کے قلعوں کو ایک ایک کر کے فتح کیا وہ ساز و سامان والے متعدد قلعے تھے جن میں سے ایک العطا تھا ایک قلعہ الصعب بن معاذ ایک قلعہ ”ناعم“ ایک قلعہ ”الزبیر“ تھا ایک حصہ اور تھا جس میں قلعے تھے ان میں سے ایک قلعہ ”ابی“ ایک قلعہ ”النزار“ تھا، اس کے علاوہ لشکروں کے قلعے القوس، الوطیج اور سلام تھے یہ ابو العتیق کے بیٹوں کے قلعے تھے۔

آپ ﷺ نے ابوالحقیق کے خاندان کا وہ خزانہ لے لیا جو اونٹ کی کھال میں تھا انہوں نے اس کو ویران مقام میں پوشیدہ کر دیا تھا مگر اللہ نے اپنے رسول ﷺ کو اس کا راستہ بتا دیا اور آپ نے اسے نکال لیا ترانوے یہودی مارے گئے جن میں الحارث ابوزنوبہ، مرحب، اسیر یا سر اور عامر کنانہ بن ابی الحقیق اور اس کا بھائی بھی تھا ہم نے ان لوگوں کا ذکر اور نام ان کی سرداری کی وجہ سے لیا۔

شہدائے خیبر:

خیبر میں نبی ﷺ کے اصحاب میں سے ربیعہ بن اسلم، ثقف بن عمرو بن سمیط، رفاعہ بن مسروح، عبد اللہ امیہ بن وہب جو بنی اسد بن عبد العزی کے حلیف تھے محمود بن مسلمہ، ابوصباح بن نعمان جو اہل بدر میں سے تھے حارث بن حاطب جو اہل بدر میں سے تھے عدی بن مرہ بن سراقہ، اوس بن حبیب، انیف بن وائل، مسعود بن سعد بن مسلمہ قیس، بشر بن البراء بن معرور جو ہریلی بکری سے مرے، فضیل بن نعمان، عامر بن الاکوع جنہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا وہ اور محمود بن مسلمہ خیبر کے الرجیع کے ایک ہی غار میں دفن کیے گئے عمارہ بن عقبہ بن عباد بن طیل، یار جو جشی غلام تھے اور قبیلہ اشج کے ایک شخص رضی اللہ عنہ یہ سب پندرہ آدمی ہوئے (جو میدان جنگ میں شہید ہوئے دو آدمی بشر بن البراء بن معرور، زہریلی بکری کے گوشت سے اور عامر بن الاکوع اپنے ہی خنجر سے ہلاک ہوئے اس طرح کل سترہ آدمی ہوئے۔

زینب بنت الحارث یہودیہ کا قتل:

اسی غزوہ میں زینب بنت الحارث زوجہ سلام بن معکم نے اس طور پر رسول اللہ ﷺ کو زہریلی بکری کا کوزہ آپ کو اس نے ایک زہریلی بکری ہدیہ دی اسے آپ اور آپ کے اصحاب میں سے چند نے کھایا جن میں بشر بن البراء بن معرور بھی تھے وہ اس سے مر گئے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس عورت کو قتل کر دیا، یہی ہمارے نزدیک ثابت ہے۔

مال غنیمت کی تقسیم:

آپ نے غنائم کے متعلق حکم دیا، وہ جمع کی گئیں ان پر فردہ بن عمرو البیاضی کو عامل بنایا پھر ان کے متعلق حکم دیا تو وہ پانچ حصوں پر تقسیم کی گئیں ایک حصہ پر لکھا گیا کہ اللہ کے لیے بقیہ حصے نامعلوم رہے سب سے پہلے حصہ نکلا وہ نبی ﷺ کا تھا جو پانچوں حصوں میں سے منتخب نہیں کیا گیا تھا۔ پھر آپ نے پانچوں حصوں میں سے بقیہ چار کے متعلق جو زیادہ دے اس کے ہاتھ فروخت کرنے کا حکم دیا گیا فروہ نے انہیں فروخت کیا اور اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا۔

وہ شخص جو لوگوں کے شمار کرنے پر مامور تھے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ انہوں نے کل تعداد چودہ سواور گھوڑے دو سو شمار کئے سب حصے اٹھا رہے تھے ہر سو کے لیے ایک حصہ گھوڑوں کے لیے چار سو حصے وہ شخص جو نبی ﷺ کو پہنچا اس میں سے ہتھیار اور کپڑے جیسا اللہ آپ کے دل میں ڈالتا تھا آپ دے رہے تھے۔ اس میں سے آپ نے اہل بیت (بیویوں) کو عبدالمطلب کے خاندان کے آدمیوں کو عورتوں، یتیم بچوں اور سالکوں کو دیا مقام الکلبیہ سے آپ نے اپنی ازواج اور اولاد عبدالمطلب وغیرہم کو غلہ دیا۔

ابو ہریرہ و اشعری رضی اللہ عنہما کا قبول اسلام:

رسول اللہ ﷺ خیبر ہی میں تھے کہ قبیلہ دوس کے لوگ آئے جن میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، طفیل بن عمرو آئے اور اشعری لوگ بھی آئے وہ سب وہیں رسول اللہ ﷺ سے ملے تو رسول اللہ ﷺ نے اپنے اصحاب سے ان کے بارے میں گفتگو فرمائی کہ وہ ان کو بھی غنیمت میں شریک کر لیں۔ انہوں نے شریک کر لیا۔
جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی واپسی:

خیبر فتح ہونے کے بعد جعفر بن ابی طالب اور اسفغینین والے نجاشی کے پاس سے آئے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے ان دونوں باتوں میں سے کس سے زائد خوشی ہوئی، آمد جعفر یا فتح خیبر سے۔
ام المؤمنین صفیہ بنت حبیب رضی اللہ عنہا سے نکاح:

ان لوگوں میں جنہیں خیبر میں رسول اللہ ﷺ نے قید کیا صفیہ بنت حبیب بھی تھیں آپ نے آزاد کر کے ان سے نکاح کر

لیا۔

فتح خیبر پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا اظہار مسرت:

حجاج بن علاط السلمی مکے میں قریش کے پاس آئے انہیں یہ خبر دی کہ محمد کو یہود نے قید کر لیا ان کے اصحاب ان سے جدا ہو گئے اور قتل کر دیئے گئے، یہود محمدؐ اور ان کے اصحاب کو تنہا رہے پاس لا رہے ہیں اس بہانے سے حجاج نے اپنا قرض وصول کیا اور فوراً روانہ ہو گئے راستہ میں عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ ملے تو رسول اللہ ﷺ کی صحیح خبر بتا دی اور ان سے درخواست کی کہ وہ انہیں پوشیدہ رکھیں یہاں تک کہ حجاج چلے جائیں، عباس رضی اللہ عنہ نے یہی کیا۔ جب حجاج چلے گئے تو عباس رضی اللہ عنہ نے ان کا اعلان کر دیا، مسرت ظاہر کی اور ایک غلام کو آزاد کر دیا جس کا نام ابو زبیر تھا۔

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ ۱۸ رمضان کو خیبر کی جانب نکلے، ایک گروہ نے روزہ رکھا اور دوسروں نے افطار کیا (روزہ نہیں رکھا) نہ تو روزہ دار کی اس کے روزے پر برائی کی گئی اور نہ افطار کرنے والے کی اس کے افطار پر۔

خیبر کے یہود کی بدحواسی:

انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ رات کے وقت خیبر پہنچے جب ہمیں صبح ہوئی اور رسول اللہ ﷺ نے نماز پڑھ لی تو آپ سوار ہو گئے ہمراہ مسلمان بھی سوار ہوئے اور روانہ ہو گئے اہل خیبر کو جب صبح ہوئی تو وہ اپنے پھاؤڑے اور ٹوکریاں لے کر نکلے جیسا کہ وہ اپنی زمینوں میں نکلا کرتے تھے۔

جب انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا تو کہا ”محمدؐ واللہ محمدؐ اور بھاگ کر اپنے شہر میں واپس آ گئے“ نبی ﷺ نے فرمایا ”اللہ اکبر“ خیبر ویران ہو گیا، ہم لوگ جب کسی قوم کے میدان میں اترے ہیں۔ تو جو لوگ ڈرائے جاتے ہیں ان کی صبح خراب ہوتی ہے، انس نے کہا کہ میں (اونٹ پر) ابو طلحہ کا ہم نشین تھا۔ میرا قدم رسول اللہ ﷺ کے قدم سے مس ہو رہا تھا۔

ابو طلحہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے خیبر میں صبح کی تو یہود نے پھاؤڑے لیے وہ اپنے کھیتوں اور زمینوں کی طرف روانہ ہوئے۔ لیکن انہوں نے جب رسول اللہ ﷺ اور آپ کے ہمراہ لشکر کو دیکھا تو وہ پس پشت لوٹے نبی ﷺ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر ہم جب کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو ڈرائے جانے والے کی صبح خراب ہوتی ہے۔

حسن سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ خیبر کے سامنے اترے تو خیبر والے گھبرائے انہوں نے کہا محمدؐ اور میرے بھائی کے آگے رسول اللہ ﷺ نے جس وقت ان کی گھبراہٹ کو دیکھا تو فرمایا جب ہم کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو ڈرائے جانے والوں کے لیے صبح خراب ہوتی ہے۔

انس سے مروی ہے کہ میں خیبر کے دن ابو طلحہ کا ہم نشین تھا میرا قدم رسول اللہ ﷺ کے قدم سے لگ رہا تھا ہم لوگ یہود کے پاس اس وقت آئے جب آفتاب طلوع ہو گیا تھا وہ مع اپنے مویشی پھاؤڑے کدال اور کھاڑیوں کے نکلے انہوں نے کہا محمدؐ اور لشکر۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر جب ہم کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو ڈرائے جانے والوں کی صبح بری ہوتی ہے اللہ نے ان کو ہزیمت دی۔

انس سے مروی ہے کہ نبی ﷺ جب خیبر کے قریب پہنچے تو صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھی اور ان لوگوں پر حملہ کیا پھر فرمایا: اللہ اکبر اللہ اکبر خیبر ویران ہو گیا۔ ہم جب کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو ڈرائے جانے والوں کی صبح خراب ہوتی ہے۔ آپ ان پر گھس پڑے وہ نکل کر گلیوں میں بھاگتے پھرتے تھے اور کہتے تھے محمدؐ اور لشکر محمدؐ اور لشکر لڑنے والے قتل کر دیئے گئے اور بچے گرفتار ہو گئے۔

یہود خیبر کو وارننگ:

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ فجر کے وقت خیبر پہنچے آپ نے ان سے جنگ کی اور انہیں اپنے محل میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا ان کی زمین اور کھجور کے باغوں پر آپ قابض ہو گئے۔ آپ نے ان سے اس پر صلح کی کہ وہ قتل نہیں کیے جائیں گے وہ مال ان کا ہوگا جو ان کے اونٹ اٹھالیں گے سونا چاندی اور ہتھیار نبی ﷺ کا ہوگا اور وہ خیبر سے چلے جائیں گے انہوں نے نبی ﷺ سے اقرار کیا کہ آپ سے کوئی شے نہ چھپائیں گے اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو ان کے لیے نہ کوئی ذمہ داری ہے اور نہ عہد۔

مال و جائیداد کی ضبطی:

جب آپ نے وہ مال پالیا جو انہوں نے اونٹ کی کھال میں چھپایا تھا تو عورتوں کو گرفتار کر لیا زمین اور باغ پر قابض ہو گئے اور انہیں لگان پردے دیا ابن رواحہ اس زمین و باغ کا ان کے سامنے اندازہ کرتے تھے اور ان کے حصے پر قبضہ کرتے تھے۔

صالح بن کیسان سے مروی ہے کہ خیبر کے دن نبی ﷺ کے ہمراہ دو سو گھوڑے تھے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی علمبرداری:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خیبر کے روز فرمایا ”میں جھنڈا (رأیہ) ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور

اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اسے دوست رکھتے ہیں اور اسی پر فتح ہوگی۔ عمر نے کہا کہ اس روز سے پہلے میں نے امارت کبھی پسند نہیں کی میں اس امید پر کھڑا ہوتا تھا اور دیکھتا تھا کہ آپ جھنڈا مجھے دیں گے۔ جب دوسرا دن ہوا تو آپ نے علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور وہ جھنڈا انہیں دے دیا اور فرمایا کہ لڑو اور اس وقت تک نہ پلٹو جب تک اللہ تعالیٰ تم پر فتح نہ کر دے وہ نزدیک تک گئے پھر پکار کر پوچھا کہ یا رسول اللہ ﷺ میں کب تک لڑتا رہوں؟ آپ نے فرمایا جب تک وہ یہ گواہی نہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں جب وہ ایسا کریں تو انہوں نے اپنے خون اور مال سوائے اس کے حق کے مجھ سے محفوظ کر لیے اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔“

عامر اور مرحب کے مابین معرکہ آرائی:

سلمہ بن الاکوع سے مروی ہے کہ خیبر کے روز میرے چچا نے مرحب یہودی سے لڑنے کا مطالبہ کیا تو مرحب نے یہ رجز کہا کہ ۔

قد علمت خیبرانی مرحب شاکي السلاح بطل مجرب

اذ الحروب اقبلت تلہب

”خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں جو زبردست ہتھیار چلانے والے بہادر اور آزمودہ کار ہے۔ جب جنگ سامنے آتی ہے تو وہ بھڑک اٹھتا ہے۔“

میرے چچا عامر نے (یہ رجز) کہا ۔

قد علمت خیبرانی عامر شاکي السلاح بطل مغامر

”خیبر کو معلوم ہو گیا ہے کہ میں عامر ہوں زبردست ہتھیار چلانے والا بہادر اور موت سے بے پرواہ ہو کر قتال کرنے والا ہوں۔“

عامر کی شہادت:

دونوں کی تلواریں چلنے لگیں، مرحب کی تلوار عامر کی ڈھال میں جا پڑی، عامر اس سے نیچے ہو گئے تو وہ تلوار ان کی پنڈلی پر جا پڑی اور اس نے ان کی رگ کاٹ دی اسی میں ان کی جان گئی۔

سلمہ بن الاکوع نے کہا کہ میں رسول اللہ ﷺ کے اصحاب میں سے کچھ لوگوں سے ملا تو انہوں نے کہا کہ عامر کا عمل بے کار گیا انہوں نے اپنے آپ کو قتل کر لیا۔ یہ سن کر میں روتا ہوا رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور آپ سے کہا یا رسول اللہ ﷺ عامر کا عمل بے کار گیا؟ آپ نے فرمایا: یہ کس نے کہا؟ میں نے کہا: آپ کے اصحاب میں سے کچھ لوگوں نے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے یہ کہا غلط کہا، ان کے لیے تو دو ہر اثواب ہے کیونکہ جب وہ خیبر کی جانب روانہ ہوئے تو رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کو (بہادری کے اشعار سے) جوش دلانے لگے اور انہیں میں نبی ہیں جو اونٹوں کو ہنکار رہے ہیں۔ عامر یہ اشعار پڑھتے تھے۔

عامر کے رجز یہ اشعار:

تالله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا
”بخدا اگر خدا نہ ہوتا تو ہم لوگ ہدایت نہ پاتے نہ خیرات کرتے نہ نماز پڑھتے۔“

ان الذين كفروا علينا اذا ارادوا فتنه ابينا
جن لوگوں نے ہم پر کفر کیا انہوں نے جب فتنہ کا ارادہ کیا تو ہم نے انکار کیا۔

ونحن عن فضلك ما استغنيا فثبت الاقدام ان لا قينا
وانزلن سكينه علينا

(اے اللہ) ہم تیرے فضل سے بے نیاز نہیں ہیں اس لیے جب ہم مقابلہ کریں تو ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہم پر سکون و اطمینان نازل فرما۔“

عامر کے لئے حضور ﷺ کی دعائے مغفرت:

(جب عامر یہ اشعار پڑھ رہے تھے) تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہ کون ہے۔ لوگوں نے کہا ”عامر“ ہیں یا رسول اللہ ﷺ آپ نے فرمایا:
”اے عامر! اللہ تمہاری مغفرت کرے۔“

راوی نے کہا کہ آپ نے جب کبھی کسی انسان کے لیے اس کی تخصیص کے ساتھ دعائے مغفرت کی تو وہ ضرور شہید ہو گیا۔
جب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ سنا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ ہمیں آپ نے عامر سے کیوں نہ فائدہ اٹھانے دیا جو وہ آگے بڑھ کے شہید ہو گئے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مرحب کا خاتمہ:

سلمہ نے کہا نبی ﷺ نے علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ میں آج جھنڈا (رأیہ) اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس کو دوست رکھتا ہے انہوں نے کہا کہ میں انہیں کھینچ کر لایا ان کی آنکھیں بھتی تھیں رسول اللہ ﷺ نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن ڈالا انہیں جھنڈا (رأیہ) دے دیا مرحب اپنی تلوار چلاتا ہوا نکلا اور اس نے یہ رجز پڑا۔

قد علمت خيبر اني مرحب شاك السلاح بطل مجرب

اذ الحروب اقبلت تلهب

”خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں جو زبردست ہتھیار چلانے والا بہادر اور آزمودہ کار ہے۔ جب جنگ پیش آتی ہے تو وہ جھڑک اٹھتا ہے۔“

علی صلوات اللہ علیہ و برکاتہ نے کہا:

انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیث غابات کریمہ المنظرہ

اکیلہم بالنصاع کیل السندرہ

”میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر (شیر) رکھا، مثل جنگلوں کے شیروں کے ہیبت ناک ہوں جن کو میں السندرہ کے پیمانے سے تولتا ہوں“۔ السندرہ وہ لکڑی جس سے کمان بنتی ہے۔

انہوں نے نکوار سے مرحب کا سر پھاڑ دیا اور انہیں کے ہاتھ پر فتح ہوئی۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب نبی ﷺ اہل خیبر پر غالب آ گئے تو آپ نے ان سے اس شرط پر صلح کی کہ وہ لوگ اس طرح اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو لے جائیں کہ نہ ان کے پاس سونا ہو نہ چاندی۔ دربار رسالت میں کتنا نہ اور الربیع کی غلط بیانی:

بارہ گاہ نبوی میں کتنا نہ اور الربیع کو لایا گیا، کتنا نہ صفیہ کا شوہر تھا۔ اور الربیع اس کا عم زاد بھائی تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے ان دونوں سے فرمایا کہ تمہارے وہ برتن کہاں ہیں جو تم اہل مکہ کو عاریہ دیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا ہم لوگ بھاگے اس طرح کہ ایک زمین ہمیں رکھتی تھی اور دوسری اٹھاتی تھی اور ہم نے ہر چیز صاف کر دی۔

آپ نے ان دونوں سے فرمایا کہ اگر تم نے مجھ سے کوئی چیز چھپائی اور مجھے اس کی اطلاع ہوئی تو تمہارے خون اور اہل و عیال میرے لیے حلال ہو جائیں گے دونوں اس پر راضی ہو گئے۔

کتنا نہ اور الربیع کا قتل:

آپ نے انصار میں سے ایک شخص کو بلایا اور فرمایا کہ تم فلاں فلاں خشک زمین کی طرف جاؤ پھر کھجور کے باغ میں آؤ اس میں جو کچھ ہو میزے پاس لے آؤ۔ وہ انصاری گئے اور برتن اور مال لے آئے آپ نے ان دونوں کی گردن ماری اور اہل و عیال کو گرفتار کر لیا آپ نے ایک شخص کو بھیجا جو صفیہ کو لے آیا اس نے انہیں ان دونوں کی قتل گاہ پر گزرا، اس شخص سے نبی ﷺ نے فرمایا: تم نے ایسا کیوں کیا، عرض کی یا رسول اللہ ﷺ میں نے چاہا کہ صفیہ کو غصہ دلاؤں، آپ نے صفیہ کو بلال رضی اللہ عنہ اور ایک انصاری کے سپرد کر دیا وہ ان کے پاس رہیں۔

گدھے کے گوشت کی ممانعت:

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ خیبر کے دن لوگ بھوک کی تکلیف محسوس کرنے لگے تو انہوں نے گدھے پکڑ کے ذبح کیے اور ہانڈیاں بھر لیں اس کی خبر نبی ﷺ کو ہوئی تو آنحضرت ﷺ نے حکم دیا کہ ہانڈیاں الٹ دی جائیں۔ رسول اللہ ﷺ نے شہری گدھے، خچر، درندوں اور پنچے سے پھاڑ کھانے والے پرندوں کا گوشت حرام قرار دیا، مردار پرندہ، لوٹ اور اچکے ہوئے مال کو بھی حرام کر دیا۔

جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یوم خیبر میں گدھے کے گوشت سے منع کیا۔ البتہ گھوڑے کے

گوشت کی اجازت دی۔

انس بن مالک جی اللہ سے مروی ہے کہ یوم خیبر میں ایک آنے والا رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ ﷺ میں نے گدھے کھائے ایک اور آنے والا آپ کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ ﷺ میں نے گدھوں کو فنا کر دیا آپ نے ابو طلحہ کو ندادینے کا حکم دیا۔ اللہ اور اس کا رسول تمہیں گدھے کے گوشت سے منع کرتا ہے کیونکہ وہ نجس ہے تمام ہانڈیاں اوندھادی گئیں۔ براء بن عازب سے مروی ہے کہ یوم خیبر میں ہمیں گدھے ملے رسول اللہ ﷺ کے منادی نے یہ ندادی کہ ہانڈیاں اوندھا دو۔

ابوسلیط سے جو بدزی تھے مروی ہے کہ یوم خیبر میں ہمارے پاس گدھے کے گوشت سے رسول اللہ ﷺ کی ممانعت آئی ہم لوگ بھوکے تھے پھر بھی ہانڈیاں اوندھا دیں۔

خیبر کے مال غنیمت کی تقسیم

بشیر بن یسار سے مروی ہے کہ جب اللہ نے خیبر کو رسول اللہ ﷺ پر فتح کر دیا تو آپ نے اسے ۳۶ حصوں پر تقسیم کیا کہ ہر حصے میں سوہم تھے۔ ان حصوں کا نصف اپنے ملکی حوارج اور ان کی ضروریات کے لیے جو آپ کو پیش آتی تھیں مخصوص کر دیا اور دوسرے نصف حصے کو چھوڑ دیا اسے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا نبی ﷺ کا حصہ اسی نصف میں تھا کہ اسی میں قلعہ نطاۃ اور اس کے مشغولات تھے اس کو بھی آپ نے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ جسے آپ نے وقف کیا وہ قلعہ ابوطیحہ الکنتیہ سلام اور اس کے محتویات تھے۔

جب تمام مال نبی ﷺ اور مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا اور آپ نے مسلمانوں میں کاشت کرنے والوں کی قلت ملاحظہ فرمائی تو زمین یہود کو وے دی کہ پیداوار کے نصف پر کام کریں۔

وہ لوگ برابر اسی طریقے پر رہے یہاں تک کہ عمر بن الخطاب جی اللہ خلیفہ ہوئے اور مسلمانوں کے ہاتھ میں کام کرنے والوں کی کثرت ہو گئی اور وہ اصول کاشت سے اچھی طرح واقف تھے تو عمر جی اللہ نے یہود کو شام کی طرف جلا وطن کر دیا۔ اور تمام املاک مسلمانوں میں تقسیم کر دیں۔

بشیر بن یسار سے مروی ہے کہ جب نبی ﷺ نے خیبر فتح کیا تو آپ نے اسے صلح سے لیا اور ۳۶ حصوں پر تقسیم کیا اٹھارہ حصے اپنے واسطے مخصوص کر لیے اور اٹھارہ حصے مسلمانوں میں تقسیم کر دیے سواپ سوار ہر کاب تھے آپ نے ایک گھوڑے کے دو حصے لگائے۔

مکحول سے مروی ہے کہ یوم خیبر میں رسول اللہ ﷺ نے سوار کے تین حصے لگائے ایک حصہ اس کا اور دو حصے اس کے گھوڑے کے۔

ابی اللحم کے آزاد کردہ غلام عمیر سے مروی ہے کہ یوم خیبر میں میں نے اپنے آقا کے ہمراہ جہاد کیا اور فتح کے موقع پر رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ موجود تھا۔ میں نے آپ سے درخواست کی کہ ان لوگوں کے ساتھ میرا حصہ بھی لگائیں آپ نے مجھے

روی سامان میں سے کچھ ڈے دیا اور حصہ نہیں لگایا۔

ثابت بن الحارث الانصاری سے مروی ہے کہ خیبر کے سال رسول اللہ ﷺ نے مہلہ بنت باصم بن عدی اور ان کی بیٹی کا جو پیدا ہوئی تھی حصہ لگایا۔

حش سے مروی ہے کہ میں رویف بن ثابت البلوی کے ہمراہ فتح جزیرہ میں حاضر ہوا۔ رویف بن ثابت نے وعظ بیان کیا۔ میں فتح خیبر میں رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ تھا میں نے آپ کو یہ کہتے سنا کہ جس کا اللہ اور روز آخرت پر ایمان ہے وہ اپنا پانی دوسرے کی زراعت کو نہ دے (یعنی حاملہ لوطی سے صحبت نہ کرے) اور جس کا اللہ اور روز آخرت پر ایمان ہے وہ کسی قیدی عورت سے حاجت روائی نہ کرے تا وقتیکہ اس کا استبراء نہ کرے (یعنی دو حیض تک انتظار کرے تاکہ حمل غیر کا شہ جاتا رہے) جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہوا ہے چاہیے کہ تقسیم تک مال غنیمت کو فروخت نہ کرے اور جس کا اللہ اور روز آخرت پر ایمان ہے اسے چاہیے کہ مسلمانوں کی غنیمت میں سے کسی جانور پر اس طرح سوار نہ ہو کہ جب وہ دبلا ہو جائے تو مسلمانوں کی غنیمت میں واپس کر دے یا کسی کپڑے کو اتنا پہنے کہ جب وہ پرانا ہو تو اسے مسلمانوں کی غنیمت میں واپس کر دے۔

حکم نے کہا کہ مجھے عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ نے اللہ کے اس قول کے بارے میں خبر دی۔ ”وَأَنَابِهِمْ فَسَحَا قَرِيبًا“ (انہیں عنقریب فتح دے گا) کہ (اس سے مراد) خیبر ہے ”وَآخِرَى لَمْ تَقْدَرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا“ (اور ایک دوسری جماعت کہ تم جس پر قادر نہیں ہوئے تھے اللہ نے اس کا احاطہ کر لیا) (اس سے مراد) فارس و روم ہے) جو رسول اللہ ﷺ کے بعد حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے فتح کیے۔

زہریلا گوشت:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تو رسول اللہ ﷺ کو ایک بکری ہدیہ دی گئی جو زہر آلود تھی۔ نبی ﷺ نے فرمایا یہاں جس قدر یہود ہیں سب کو جمع کر و سب آپ کے پاس جمع کیے گئے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ آیا تم لوگ اس کے بارے میں مجھ سے سچ کہو گے۔ انہوں نے کہا اے ابوالقاسم۔ ہاں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمہارا باپ کون ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا باپ فلاں ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم جھوٹ بولے۔ تمہارا باپ فلاں ہے انہوں نے کہا آپ نے سچ کہا اور درست کہا۔ آپ نے فرمایا اگر میں تم میں سے کچھ پوچھوں تو تم مجھ سے سچ کہو گے۔

انہوں نے کہا اے ابوالقاسم ہاں کیونکہ ہم اگر جھوٹ بولیں گے تو آپ ہمارا جھوٹ معلوم کر لیں گے جیسا کہ آپ نے ہمارے باپ کے بارے میں معلوم کر لیا۔ رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ اہل جہنم کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اس میں بہت کم رہیں گے تم لوگ اس میں ہمارے عوض رہو گے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تمہیں اس میں رہو اور ہم کبھی اس میں تمہارے عوض میں نہ رہیں گے۔

پھر آپ نے فرمایا کہ تم مجھ سے سچ کہو گے اگر میں تم سے پوچھوں انہوں نے کہا اے ابوالقاسم ہاں آپ نے فرمایا کیا تم

لوگوں نے اس بکری میں زہر ملایا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں آپؐ نے فرمایا: تمہیں کس نے ابھارا انہوں نے کہا ہمارا ارادہ یہ تھا کہ اگر آپؐ مجھوٹے ہوں گے تو ہمیں آپؐ سے راحت مل جائے گی اور اگر آپؐ نبی ہوں گے تو آپؐ کو ضرر نہ ہوگا۔

حضرت صفیہ بنت حنیؓ سے عقد نکاح:

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے خیبر سے روانگی کا ارادہ کیا تو مسلمانوں نے کہا اب ہم معلوم کر لیں گے کہ صفیہ لونڈی ہیں یا بیوی اگر وہ بیوی ہوں گی تو آپؐ انہیں پردہ کرائیں گے ورنہ وہ جاریہ (لونڈی) ہوں گی۔ جب آپؐ روانہ ہوئے تو آپؐ نے پردے کا حکم دیا ان کے درمیان پردہ کیا گیا۔ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ وہ زوجہ ہیں جب انہوں نے سوار ہونے کا ارادہ کیا تو آپؐ نے ان کے قریب اپنی ران کر دی تاکہ وہ اس پر سے سوار ہوں۔ لیکن انہوں نے انکار کیا۔ اپنا گھٹنا آپؐ کی ران کے قریب رکھا آپؐ نے انہیں اٹھایا۔

رات کو آپؐ اترے اور خیمے میں داخل ہوئے وہ بھی آپؐ کے ساتھ داخل ہوئیں ابویوب آئے پاس تلوار بھی تھی وہ خیمے پر اپنا سر رکھ کر سو گئے رسول اللہ ﷺ کو صبح ہوئی تو آپؐ نے حرکت (آہٹ سنی فرمایا: کون ہے؟ انہوں نے کہا میں ابویوب ہوں۔ آپؐ نے فرمایا تمہارا کیا کام ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ جو ان لڑکی جن کی نئی شادی ہوئی ہے۔ اور آپؐ نے ان کے شوہر کے ساتھ جو کیا وہ کیا اس لیے میں ان سے بے خوف نہ تھا۔ میں نے کہا کہ اگر وہ جنبش کریں تو میں آپؐ کے قریب ہوں گا۔ رسول اللہ ﷺ نے دو مرتبہ فرمایا: اے ابویوب خدا تم پر رحمت کرے۔

انس سے مروی ہے کہ صفیہ دحبہ کے حصہ میں پڑیں وہ ایک خوبصورت لڑکی تھیں انہیں رسول اللہ ﷺ نے سات راس (جانوروں) کے عوض میں خریدا۔ اور ام سلیم کے سپرد کیا تاکہ وہ ان کا بناؤ کر دیں اور انہیں تیار کر دیں۔

رسول اللہ ﷺ نے ان کا ولیہ کھجور اور پنیر اور گھی پر کیا زمین کو جھاڑا دسترخوان لائے گئے اور اسی زمین پر بچھا دیئے گئے پنیر، گھی اور کھجور لائی گئی لوگ سیر ہو گئے لوگوں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ آپؐ نے ان سے نکاح کیا ہے یا انہیں ام الولد (لونڈی) بنایا ہے پھر لوگوں نے کہا کہ اگر انہیں پردہ کرائیں گے تو آپؐ کی زوجہ ہوں گی اور اگر پردہ نہ کرائیں گے تو وہ ام الولد (لونڈی) ہوں گی۔ جب آپؐ نے سوار ہونے کا ارادہ کیا تو انہیں پردہ کرایا یہاں تک کہ وہ اونٹ کی پشت پر بیٹھ گئیں لوگوں نے سمجھ لیا کہ آپؐ نے ان سے نکاح کیا ہے۔

انس سے مروی ہے کہ انہیں قیدیوں میں صفیہ بنت حنیؓ بھی تھیں جو دحبہ الکھمی کے حصے میں پڑیں بعد کو نبی ﷺ کے پاس گئیں آپؐ نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے حق (آزاد کرنے کو) ان کا مہر بنایا۔

حماد نے کہا کہ عبدالعزیز نے ثابت سے کہا کہ اے ابو محمد تم نے انس سے کہا کہ آپؐ نے انہیں کیا مہر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ خود انہیں کو ان کے مہر میں دیا پھر ثابت نے اپنا سر ملایا گویا وہ ان کی تصدیق کرتے ہیں۔

سریہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بجانب تربہ:

شعبان ۷ھ میں بجانب تربہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ مہم پر روانہ ہوئے۔

رسول اللہ ﷺ نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو تیس آدمیوں کے ہمراہ قبیلہ ہوازن کی ایک کی شاخ کی جانب بمقام تربہ بھیجا جو العیلا کے نواح میں مکے سے چار رات کے فاصلے پر صنعاء نجران کی شاہراہ پر ہے وہ روانہ ہوئے ان کے ہمراہ بنی ہلال کا ایک رہبر تھا۔ رات کو چلتے تھے اور دن کو پوشیدہ ہو جاتے تھے۔

ہوازن کو خبر ہو گئی تو وہ بھاگ گئے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان کی بستی میں آئے مگر انہیں کوئی نہیں ملا وہ واپس ہو کر مدینے آ گئے۔

سریہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بجانب بنی کلاب بمقام نجد:

شعبان ۷ھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سریہ کے نواح میں بمقام نجد سریہ بنی کلاب ہوا۔

سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ جہاد کیا۔ بنی علیہم نے انہیں ہم پر امیر بنا کے بھیجا انہوں نے مشرکین کے کچھ آدمی گرفتار کئے جن کو ہم نے قتل کر دیا ہمارا شعار امت امت تھے میں نے مشرکین کے ساتھ گھر والوں (اہل ایات) کو قتل کیا۔

سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فزارہ کی طرف بھیجا میں بھی ان کے ہمراہ روانہ ہوا۔ جب ہم ان کے حوض کے قریب پہنچے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے راستہ میں قیام کیا صبح کی جب نماز پڑھ لی تو ہمیں حکم دیا۔ ہم سب جمع ہو گئے اور حوض پر اتر آئے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جنہیں قتل کیا انہیں قتل کیا ہم لوگ ان کے ہمراہ تھے۔

سلمہ نے کہا کہ مجھے لوگوں کی گردنیں نظر آئیں جن میں بچے بھی تھے خوف ہوا کہ یہ لوگ مجھ سے آگے پہاڑ پر چلے جائیں گے میں نے ان کا قصد کیا۔ ان کے اور پہاڑ کے درمیان تیر پھیکا جب انہوں نے دیکھا تو کھڑے ہو گئے اتفاقاً انہیں میں فزارہ کی ایک عورت تھی جو چڑے کا جبہ پہنے تھی اس کے ہمراہ اس کی بیٹی تھی جو عرب میں سب سے زیادہ حسین تھی میں انہیں ہنکا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس لایا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی بیٹی مجھے حصہ سے زائد دی میں نے اس کا کپڑا انہیں کھولا یہاں تک کہ مدینے آ گیا وہ میرے پاس سو گئی مگر میں نے اس کا کپڑا انہیں کھولا۔ مجھے رسول اللہ ﷺ بازار میں ملے آپ نے فرمایا اے سلمہ وہ عورت مجھے بہہ کر دو میں نے کہا یا نبی اللہ خدا کی قسم اس نے مجھے فریفتہ کر لیا ہے لیکن اس نے اس کا کپڑا انہیں کھولا ہے۔ آپ خاموش ہو گئے۔

جب دوسرا دن ہوا تو رسول اللہ ﷺ مجھ سے بازار میں ملے۔ میں نے اس کا کپڑا انہیں کھولا تھا۔ آپ نے فرمایا: اے سلمہ وہ عورت مجھے دے دو۔ تمہارا باپ خدا ہی کے لیے ہو میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ وہ آپ ہی کے لیے ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے اسے اہل مکہ کے پاس بھیج کر ان مسلمانوں کے فدیہ میں دے دیا جو مشرکین کے ہاتھ میں قید تھے۔

سریہ بشیر بن سعد الانصاری بمقام فدک:

شعبان ۷ھ میں فدک کی جانب سریہ بشیر بن سعد الانصاری ہوا۔

رسول اللہ ﷺ نے بشیر بن سعد کو تیس آدمیوں کے ہمراہ بمقام فدک بنی مرہ کی جانب روانہ فرمایا وہ بکریاں چرانے

والوں سے ملے بنی مرہ کو دریافت کیا گیا تو کہا گیا کہ وہ اپنے جنگلوں میں ہیں بشیر بن سعد اونٹ اور بکریاں ہنکا کے مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔

ایک چیخ کی آواز نکلی جس نے قبیلہ والوں کو خبردار کر دیا، ان میں سے حبشی رات کے وقت بشیر کو پا گئے وہ لوگ باہم تیر اندازی کرتے ہوئے بڑھے بشیر کے ساتھیوں کے تیر ختم ہو گئے اور صبح ہو گئی۔

مربون نے ان پر حملہ کر دیا بشیر کے ساتھیوں کو تکلیف پہنچائی بشیر نے جنگ کی جس میں وہ زخمی ہو گئے ان کے ٹخنے میں چوٹ لگ گئی کہا گیا کہ وہ مر گئے قبیلہ والے اپنے اونٹ اور بکریاں واپس لے گئے علیہ بن زید الحارثی ان لوگوں کی خبر رسول اللہ ﷺ کے حضور میں لائے اس کے بعد ہی بشیر بن سعد بھی آ گئے۔

سریہ غالب بن عبد اللہ اللبیشی بجانب المیفعة:

رمضان کے مہینے میں المیفعة کی جانب غالب بن عبد اللہ اللبیشی کا سریہ ہوا۔

رسول اللہ ﷺ نے غالب بن عبد اللہ کو بنی حوال اور بنی عبد بن ثعلبہ کی طرف بھیجا جو المیفعة میں تھے کہ بطن نخل سے انقرہ کی جانب اسی طرف علاقہ نجد میں ہے اس کے اور مدینے کے درمیان آٹھ برد (۹۶ میل) کا فاصلہ ہے انہیں آپ نے ایک سوتیں آدمیوں کے ہمراہ روانہ کیا۔ رسول اللہ ﷺ کے آزاد کردہ غلام یسار تھے۔

ان لوگوں نے ایک دم سے سب پر حملہ کر دیا۔ ان کے مکانات کے درمیان جا پڑے۔ جو سامنے آیا اسے قتل کر دیا۔ اونٹ اور بکریاں ہنکا کے مدینے لے آئے انہوں نے کسی کو گرفتار نہیں کیا۔

اسی سریہ میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا جس نے لا الہ الا اللہ کہا بنی عبد اللہ نے کہا تم نے اس کا قلب چیر کے کیوں نہ دیکھ لیا کہ تم معلوم کر لیتے کہ وہ صادق ہے یا کاذب اسامہ نے کہا میں کسی ایسے شخص سے جنگ نہ کروں گا جو لا الہ الا اللہ کی شہادت دے گا۔

سریہ بشیر بن سعد الانصاری بجانب یمن وجبار:

شوال کے مہینے میں یمن وجبار کی جانب سریہ بشیر بن سعد الانصاری ہوا۔

رسول اللہ ﷺ کو یہ خبر پہنچی کہ غطفان کی ایک جماعت سے جو البجانب میں ہے عیینہ بن حصن نے وعدہ لیا ہے کہ ان کے ہمراہ رسول اللہ ﷺ کی جانب روانہ ہوگا رسول اللہ ﷺ نے بشیر بن سعد کو بلایا ان کے لیے جھنڈا باندھا اور ہمراہ تین سو آدمی روانہ کیے۔

وہ لوگ رات بھر چلتے اور دن بھر پوشیدہ رہتے تھے یہاں تک کہ یمن وجبار آ گئے جو البجانب کی جانب ہے۔ البجانب سلاح و خیمہ و وادی القری کے سامنے ہے۔ وہ سلاح میں اترے اور اس قوم کے قریب آئے، بشیر کو ان لوگوں سے بہت اونٹ ملے، چرواہے بھاگ گئے انہوں نے مجمع کو ڈرایا۔ تو سب بھاگ گئے اور پہاڑ کی چوٹی پر چلے گئے۔

بشیر مع اپنے ساتھیوں کے ان کی تلاش میں روانہ ہوئے ان کے مکانات میں آئے مگر کوئی نہ ملا وہ اونٹ لے کے واپس

ہوئے صرف دو آدمی طے جن کو انہوں نے قید کر لیا اور رسول اللہ ﷺ کے پاس لے آئے وہ دونوں اسلام لے آئے۔ تو آپ نے انہیں بھیج دیا۔

عمرہ قضاء:

ذی القعدہ کے ہجرت میں رسول اللہ ﷺ کا عمرہ قضاء ہوا۔

ذی القعدہ کا چاند ہوا تو رسول اللہ ﷺ کا عمرہ قضاء ہوا۔ اصحاب کو حکم دیا کہ وہ عمرہ قضاء کریں جس سے انہیں مشرکین نے حدیبیہ میں روکا تھا اور یہ کہ جو لوگ حدیبیہ میں حاضر تھے ان میں سے کوئی پیچھے نہ رہے۔ سب لوگ شریک ہوئے سوائے ان کے جو خیر میں شہید ہو گئے یا مر گئے۔

نیابت نبوی کا اعزاز:

رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ مسلمانوں کی ایک جماعت عمرے کے لیے روانہ ہوئی وہ سب عمرہ قضاء میں دو ہزار تھے آپ نے مدینے پر ابوہریرہؓ کو قائم مقام بنایا، رسول اللہ ﷺ ساٹھ اونٹ لے گئے آپ نے اپنی ہدی (قربانی کے اونٹ) پر تاجیہ بن جندب الاسلمی کو مقرر کیا، رسول اللہ ﷺ نے ہتھیاروں میں خود زہریں اور نیزے لیے اور سو گھوڑے روانہ کیے۔ مسلمانوں کی مرالظہر ان میں آمد:

جب آپ ذوالحلیفہ پہنچے تو گھوڑوں کو اپنے آگے روانہ کیا محمد بن مسلمہ (امیر) تھے آپ نے ہتھیاروں کو بھی آگے کیا۔ اور ان پر بشیر بن سعد کو عامل بنایا۔

رسول اللہ ﷺ نے مسجد ہی سے احرام باندھ کر تلبیہ کہا، مسلمان بھی آپ کے ہمراہ تلبیہ کہہ رہے تھے۔ محمد بن مسلمہ رسالے کے ہمراہ مرالظہر ان تک آئے تھے کہ وہاں قریش کے کچھ لوگ طے ان لوگوں کے استفسار پر محمد بن مسلمہ نے کہا کہ یہ رسول اللہ ﷺ کا لشکر ہے ان شاء اللہ کل آپ کو اس منزل میں صبح ہوگی وہ قریش کے پاس آئے اور انہیں خبر دی لوگ گھبرائے۔

رسول اللہ ﷺ مرالظہر ان میں اترے آپ نے ہتھیار یمن یا حج کے پاس آگے روانہ کر دیے جہاں سے حرم کے بت نظر آتے تھے اور اس پر اوس بن خولی الانصاری کو دو سو آدمیوں کے ہمراہ پیچھے چھوڑ دیا۔ مکہ میں حضور ﷺ کا داخلہ:

قریش مکہ سے نکل کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے گئے مکہ کو انہوں نے خالی کر دیا۔ رسول اللہ ﷺ نے ہدی کو آگے روانہ کیا تھا وہ ذی طوی میں روک لی گئی۔

رسول اللہ ﷺ اپنی سواری القصواء پر اس طرح روانہ ہوئے کہ مسلمان تلواریں لیے ہوئے رسول اللہ ﷺ کے گرد حلقہ کیے ہوئے تھے اور تلبیہ کہتے جاتے تھے۔

آپ اس پہاڑی راستے سے چلے جو الحجون پر نکلتا ہے، عبداللہ بن رواحہؓ آپ کی سواری کی تکمیل پکڑے ہوئے تھے۔

طواف بیت اللہ:

رسول اللہ ﷺ تلبیہ کہتے رہے یہاں تک کہ آپ نے اپنی چادر دھنی بغل سے نکال کر بائیں شانے پر ڈال لی۔ اور اپنی ٹیڑھی موٹھ کی نکڑی سے حجر اسود کو مس کیا آپ نے سواری ہی پر طواف کیا اور مسلمان بھی اپنی چادروں کو دھنی بغل سے نکال کر بائیں شانے پر ڈالے آپ کے ہمراہ طواف کر رہے تھے اور عبد اللہ بن رواحہ یہ (اشعار) کہہ رہے تھے۔
حضرت عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے اشعار:

خلوا بنی الکفار عن سبیلہ خلوا فکل الخیر مع رسولہ
”اے اولاد کفار اس کا راستہ خالی کر دو۔ کیونکہ ہر طرح کی خیر رسول اللہ ﷺ ہی کے ساتھ ہے۔

نحن ضربناکم علی تاویلہ کما ضربناکم علی تنزیلہ
ہم نے تمہیں ان کی واپسی پر ایسی مار ماری جیسی مار ہم نے تمہیں ان کے اترنے پر ماری۔

ضربا یزیل الہام عن عقیلہ ویذہل الخلیل عن خلیلہ
یا رب انی مومن بقیلہ

وہ ایسی مار تھی جو ماغ کو اس کی راحت سے ہٹا دیتی ہے اور دوست سے دوست کو بھلا دیتی ہے۔ یا رب میں ان کی بات پر ایمان لاتا ہوں۔“

عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابن رواحہ پھر کہو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے عمر رضی اللہ عنہ میں سن رہا ہوں۔ آپ نے عمر رضی اللہ عنہ کو خاموش کر دیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے ابن رواحہ پھر کہو۔ ارشاد فرمایا کہ کہو سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے جو تہجد دیکھتا ہے جس نے اپنے بندے کی مدد کی اپنے لشکر کو غالب کیا اور گروہوں کو تہاء اسی نے بھگا دیا ابن رواحہ اور ان کے ساتھ دوسرے لوگوں نے بھی یہی کیا۔

رسول اللہ ﷺ نے اپنی سواری پر صفاد مروہ کا طواف کیا۔ جب ساتوں طواف سے فراغت ہوئی اور ہدی بھی مروہ کے پاس کھڑی ہو گئی تو آپ نے فرمایا یہ قربانی کی جگہ ہے اور مکہ کا ہر راستہ قربانی کی جگہ ہے۔

آپ نے مروہ میں قربانی کی اور وہیں سر منڈایا۔ اسی طرح مسلمانوں نے بھی کیا رسول اللہ ﷺ نے ان میں سے کچھ آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ بطن یا نج میں اپنے ساتھیوں کے پاس جائیں اور ہتھیاروں کی نگرانی کریں کہ دوسرے لوگ آکر اپنا فرض ادا کریں ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔

حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بنت الحارث کے ساتھ نکاح:

رسول اللہ ﷺ کعبہ میں داخل ہوئے آپ اس میں برابر نظر تک رہے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے کعبہ کی پشت پر اذان کہی رسول اللہ ﷺ نے مکہ میں تین روز قیام فرمایا اور میمونہ بنت الحارث الہمالیہ سے نکاح کیا۔

حضور ﷺ کی واپسی:

جب چوتھے روز ظہر کا وقت ہوا تو آپؐ کے پاس سہل بن عمرو اور حویطب بن عبد العزیٰ آئے دونوں نے آپؐ سے عرض کیا کہ آپؐ کی مدت پوری ہوگئی۔ لہذا آپؐ ہمارے پاس سے جائیے۔

رسول اللہ ﷺ کسی مکان میں نہیں اترے بلکہ ریتلی زمین پر آپؐ کے لیے چڑے کا خیمہ نصب کر دیا گیا۔ آپؐ اسی میں اپنی روانگی تک رہے۔

آپؐ نے ابورافع کو حکم دیا تو انہوں نے کوچ کی ندادی اور کہا کہ مسلمانوں میں سے کوئی شخص وہاں شام نہ کرے۔
حضرت عمارہ بنت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما:

آپؐ نے مکے سے عمارہ بنت حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہما کو اور ان کی والدہ سلمہ بنت عمیس کو لیا، عمارہ عبد اللہ بن شداد بن الہاد کی والدہ تھیں۔ ان کے بارے میں علی اور جعفر اور زید بن حارثہ نے جھگڑا کیا کہ وہ ان میں سے کس کے پاس رہیں گی؟ رسول اللہ ﷺ نے جعفر کے حق میں فیصلہ کیا اس لیے کہ عمارہ کی خالہ اسماء بنت عمیس ان کے پاس تھیں۔

رسول اللہ ﷺ سوار ہوئے وہاں سے آپؐ سرف میں آئے یہاں سب لوگ آپؐ سے آٹے ابورافع کے ہی میں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ انہیں شام ہوگئی وہ آپؐ کے پاس میمونہ بنت الحارث کو لائے سرف میں رسول اللہ ﷺ ان کے پاس تشریف لے گئے پھر آپؐ پچھلی رات کو روانہ ہوئے اور مدینے آ گئے۔

عمرہ قضاء میں رمل کا حکم:

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور آپؐ کے اصحاب عمرہ قضاء کے لیے مکے آئے قریش نے کہا تم لوگوں کے پاس ایک ایسی قوم آرہی ہے جنہیں مغرب کے بخار نے کمزور کر دیا ہے، مشرکین حجر اسود کے قریب بیٹھ گئے نبی ﷺ نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ وہ تین پھیروں میں (یعنی طواف کے) رمل کریں (یعنی دونوں شانیں اور بازو ہلاتے ہوئے آہستہ آہستہ دوڑیں) تاکہ مشرکین ان کی قوت دیکھ لیں اور یہ کہ دونوں رکنوں (رکن یمانی و رکن حجر اسود) کے درمیان چلیں۔

آپؐ کو صرف مسلمانوں کی شفقت نے اس امر سے باز رکھا کہ آپؐ انہیں تمام پھیروں میں رمل کا حکم دیں جب انہوں نے رمل کیا تو قریش نے کہا کہ وہ کمزور نہیں ہوئے۔

سریہ ابن ابی العوجاء السلمی بجانب بنی سلیم:

ذی الحجہ ۷ھ میں بنی سلیم کی جانب ابن ابی العوجاء کا سریہ ہوا رسول اللہ ﷺ نے ابن ابی العوجاء السلمی کو پچا کر آدمیوں کے ہمراہ بنی سلیم کی جانب بھیجا وہ ان کی طرف روانہ ہوئے۔

بنی سلیم کے ایک جاسوس نے جو ابن ابی العوجاء کے ہمراہ تھا آگے بڑھ کر ان لوگوں کو آگاہ کر دیا ان لوگوں نے جماعت تیار کر لی ابن ابی العوجاء اس کے پاس جب پہنچے تو وہ لوگ بالکل تیار تھے۔

مسلمانوں نے ان کو اسلام کی طرف بلایا۔ انہوں نے کہا کہ تم ہمیں جس چیز کی دعوت دیتے ہو ہمیں اس کی کچھ حاجت

نہیں انہوں نے تھوڑی دیر تیز اندازی کی، مشرکین کو امداد آنے لگی اور ہر طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیا مسلمان بڑی بہادری سے لڑے ان کے اکثر ساتھی شہید ہو گئے ابن ابی العوجاء بھی مجروح ہوئے وہ بمشکل روانہ ہوئے۔ رسول اللہ ﷺ کے پاس سب لوگ صفر ۸ھ کے پہلے دن آئے۔

سریہ غالب بن عبد اللہ اللیثی بجانب بنی الملوح بمقام الکدید:

صفر ۸ھ میں الکدید میں بنی الملوح کی جانب غالب بن عبد اللہ اللیثی کا سریہ ہوا۔

جندب بن مکیت الجعفی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے غالب بن عبد اللیثی کو بنی کلب بن عوف کے ایک سریہ کے ساتھ بھیجا، پھر ان کے بارے میں حکم دیا کہ وہ سب مل کر! الکدید میں بنی الملوح پر حملہ کریں جو بنی لیث میں سے تھے۔

ہم سب روانہ ہوئے جب قدید پہنچے تو حارث بن البرصاء اللیثی ملا ہم نے اسے گرفتار کر لیا اس نے کہا کہ میں تو صرف اسلام کے ارادہ سے آیا ہوں اور رسول اللہ ﷺ کے پاس جانے کے لیے نکلا ہوں ہم نے کہا کہ اگر تو مسلمان ہے تو ایک دن ایک رات میں ہمارا لشکر تیرا کچھ نقصان نہ کرے گا اور اگر تو اس کے خلاف ہو تو ہم تیری نگرانی کریں گے ہم نے اسے اسی سے باندھ کر رو بجلی جشی کے سپرد کر دیا اور ان سے کہہ دیا کہ اگر وہ تم سے جھگڑا کرے تو اس کا سراڑا دینا۔

ہم روانہ ہوئے، غروب آفتاب کے وقت الکدید پہنچے اور وادی کے کنارے پوشیدہ ہو رہے تھے مجھے میرے ساتھیوں نے مخبری کے لیے بھیجا، میں روانہ ہوا اور ایک ایسے بلند ٹیلے پر آیا جو ایک قبیلے کے سامنے تھا اور میں ان کو نظر آ رہا تھا۔ میں اس ٹیلے کی چوٹی پر چڑھ گیا اور کروٹ کے بل لیٹ گیا میں نے دیکھا کہ یکا یک ایک شخص اپنے اونٹ کے بالوں کے خیمے سے نکلا، اس نے اپنی عورت سے کہا کہ میں اس پہاڑ پر ایسی سیابی دیکھتا ہوں جو میں نے اس دن سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اپنے برتنوں کو دیکھ، ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کوئی برتن کتے گھسیٹ کر لے گئے ہوں۔ اس عورت نے دیکھا اور کہا کہ واللہ میرے برتنوں میں سے کوئی گم نہیں ہوا۔ اس نے کہا تو پھر مجھے کمان اور تیر دے دے۔ عورت نے کمان اور اس کے ساتھ دو تیر دیئے، اس نے ایک تیر پھینکا جس نے میری دونوں آنکھوں کے درمیان (لگنے میں) واللہ خطانہ کی۔ میں نے تیر کھینچ لیا اور اپنی جگہ جہاں اس نے دوسرا تیر پھینکا جو میرے مٹانے میں لگا میں نے اسے بھی کھینچ کے رکھ لیا اور اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اس نے اپنی عورت سے کہا کہ واللہ اگر کوئی مخبر ہوتا تو اب تک حرکت کرتا ضرور میرے دونوں تیر اس (ٹیلے) میں گھس گئے جب صبح ہو تو ان دونوں کو دیکھتا کہ کتے نہ چبا ڈالیں۔ وہ اندر چلا گیا، قبیلے کے موسیٰ، اونٹ اور بکریاں آگئیں جب انہوں نے دودھ دوہ لیا اور انہیں آرام لینے دیا اور مطمئن ہو کر سو گئے تو ایک دم سے ہم نے ان پر حملہ کر دیا، موسیٰ ہنکا لیے۔

قوم میں ایک شور مچ گیا تو وہ جانور بھی آگئے جن کی ہمیں طاقت نہ تھی، ہم انہیں نکال کر لارہے تھے کہ ابن البرصاء ملا ہم نے اسے بھی لا دیا اور اپنے ساتھی کو بھی لے لیا، ہمیں اس قوم نے پالیا اور ہماری طرف دیکھا، ہمارے اور ان کے درمیان سوائے وادی کے اور کوئی چیز نہ تھی، ہم لوگ وادی کے کنارے چل رہے تھے کہ یکا یک اللہ نے جہاں سے چاہا سیلاب بھیج دیا جس نے اس کے دونوں کنارے پانی سے بھر دیئے واللہ میں نے اس روز نہ ابرو دیکھا نہ بارش، وہ ایسا سیلاب لایا جس میں کسی کو یہ طاقت نہ تھی کہ

اس کے پار ہو میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ کھڑے ہوئے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اور ہم نے ان جانوروں کو پانی کے بہاؤ پر چڑھا دیا تھا۔

انہوں نے اسی طرح کہا، لیکن محمد بن عمرو کی روایت میں ہے کہ ہم ان جانوروں کو پانی کے بہاؤ پر چڑھائے لیے جا رہے تھے ان لوگوں سے ہم اس طرح چھوٹ گئے کہ وہ ہماری تلاش پر قادر نہ تھے انہوں نے کہا کہ میں ایک مسلمان رجز خواں کا قول نہ بھولوں گا جو کہہ رہے تھے:

ابی ابوالقاسم ان تعزبی فی عضلی نباتہ مغلوب
صُغراً عالیہ کلون المذهب

”ابوالقاسم نے اس سے انکار کیا کہ میرے لیے کم ہو۔ کسی سبزہ زار میں اس کی گھاس جس میں بکثرت سبزہ ہو جس کے اوپر کا حصہ ایسا زرد ہے جیسے سونے سے طبع کی ہوئی چیز کا رنگ ہوتا ہے۔“
محمد بن عمرو نے اپنی روایت میں اتنا اور زیادہ کیا ہے:

وذاك قول صادق لم يكذب

”اور یہ ایک صادق کا قول ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولا۔“

انہوں نے کہا کہ وہ دس سے زائد آدمی تھے اسلم کے ایک آدمی نے بیان کیا کہ ان کا شعرا اس روز امت امت تھا۔
سریہ غالب بن عبد اللہ اللبیشی:

صفحہ ۸ میں غالب بن عبد اللہ اللبیشی کا سریہ ان لوگوں کی جانب فذک میں ہوا جن سے بشیر بن سعد کے ساتھیوں پر مصیبت آئی۔ خارث بن فضیل سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کو تیار کیا اور فرمایا کہ جاؤ یہاں تک کہ تم بشیر بن سعد کے ساتھیوں پر مصیبت لانے والوں کے پاس پہنچو اگر اللہ تمہیں ان پر کامیاب کرے تو ان کے ساتھ مہربانی نہ کرنا۔ آپ نے ان کے ساتھ دوسو آدمی کر دیے اور ان کے لیے جھنڈا باندھ دیا۔

اتنے میں غالب بن عبد اللہ اللبیشی الکدید کے سریے سے واپس آئے اللہ نے انہیں فتح مند کیا تھا رسول اللہ ﷺ نے زبیر سے فرمایا کہ تم بیٹھو اور غالب بن عبد اللہ کو دوسو آدمیوں کے ہمراہ روانہ کیا، انہیں میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بھی تھے مسلمان بشیر کے ساتھیوں پر مصیبت لانے والوں تک پہنچ گئے ان کے ہمراہ غلبہ بن زید بھی تھے ان لوگوں کو مشرکین کے اونٹ ملے کچھ لوگوں کو انہوں نے قتل بھی کیا۔

عبد اللہ بن زید سے مروی ہے کہ اس سریے میں عقبہ بن عمرو ابو مسعود اور کعب بن عجرہ اور اسامہ بن زید الحارثی بھی غالب کے ہمراہ روانہ ہوئے۔

حصہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے ایک سریے میں غالب بن عبد اللہ کے ہمراہ بنی مرہ کی جانب بھیجا، ہم نے صبح ہوتے ہی ان پر حملہ کر دیا غالب نے ہمیں خوف دلایا تھا اور حکم دیا تھا کہ ہم لوگ جدا نہ ہوں اور ہم میں عقد مواعث (ایک

دوسرے کا بھائی) کر دیا تھا۔

غالب نے کہا کہ میری نافرمانی نہ کرنا کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی تم لوگ اگر میری نافرمانی کرو گے تو اپنے نبی ﷺ کی نافرمانی کرو گے انہوں نے کہا کہ میرے اور ابوسعید خدری رضی اللہ عنہما کے درمیان انہوں نے عقد مواخات کر دیا (یعنی انہیں اور مجھے بھائی بھائی بنا دیا) پھر ہمیں وہ قوم مل گئی (جس کی تلاش تھی)۔

سریہ شجاع بن وہب الاسدی:

ربیع الاول ۸ھ میں اسی میں بنی عامر کی جانب شجاع بن وہب الاسدی کا سریہ ہوا۔

عمر بن الحکم سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے چوبیس آدمیوں کو ہوازن کے ایک مجمع کی طرف روانہ کیا جو اسی میں تھا کہ المعدن سے اسی طرف رقبہ کے نواح میں مدینے سے پانچ رات کے راستہ پر ہے آنحضرت ﷺ نے حکم دیا کہ وہ ان پر حملہ کریں۔ مسلمان رات کو چلتے تھے اور دن کو چھپ رہے تھے وہ اسی حالت میں صبح کے وقت ان کے پاس پہنچے کہ وہ غافل تھے انہیں بہت سے اونٹ بکریاں ملیں جن کو مدینہ منورہ لائے مال غنیمت کو تقسیم کیا تو ان کے حصے میں پندرہ اونٹ آئے اونٹ کو انہوں نے دس بکریوں کے برابر کیا۔

یہ سریہ پندرہ روز کا تھا۔

سریہ کعب بن عمیر الغفاری:

ربیع الاول ۸ھ میں ذات اطلاق کی جانب جو وادی القری کے اسی طرف ہے کعب بن عمیر الغفاری کا سریہ ہوا۔

زہری سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کعب بن عمیر الغفاری کو پندرہ آدمیوں کے ہمراہ روانہ کیا وہ ذات اطلاق پہنچے جو شام کے علاقے میں ہے انہوں نے ان کی جماعت میں سے بہت بڑا مجمع پایا ان کو اسلام کی دعوت دی مگر انہوں نے قبول نہیں کیا اور تیر اندازی کی۔

جب رسول اللہ ﷺ کے اصحاب نے یہ دیکھا تو انہوں نے ان سے نہایت سخت مقابلہ کیا یہاں تک کہ وہ قتل کر دیئے گئے ایک شخص مجروح ہو کر مقتولین میں بیچ گیا جب رات ان پر سکون طاری ہو گیا۔ تو بمشکل روانہ ہوئے اور رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے آپ کو یہ خبر دی جو بہت شاق گزری آپ نے ان کی جانب مہم بھیجنے کا ارادہ کیا مگر معلوم ہوا کہ وہ لوگ دوسرے مقام پر چلے گئے تو آپ نے انہیں چھوڑ دیا۔

سریہ موتہ:

جمادی الاولیٰ ۸ھ میں سریہ موتہ ہوا جو البقاء کے نزدیک ہے اور البقاء دمشق کے آگے ہے۔

قاصد نبوی حارث بن عمیر کی شہادت:

رسول اللہ ﷺ نے حارث بن عمیر الازدی جو بنی لہب میں سے تھے شاہ بصری کے پاس نامہ مبارک کے ساتھ بھیجا۔

جب وہ موتہ میں اترے تو انہیں شرجیل بن عمرو الغسانی نے روکا اور قتل کر دیا ان کے سوار رسول اللہ ﷺ کا اور کوئی قاصد قتل نہیں کیا گیا۔

یہ سانحہ آپؐ پر بہت گراں گزرا۔ آپؐ نے لوگوں کو بلایا۔ سب تیزی سے آئے اور مقام جرف میں جمع ہو گئے ان کی تعداد تین ہزار تھی۔
امراء لشکر کا تقرر:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ سب کے امیر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہیں اگر وہ قتل کر دیئے جائیں تو جعفر بن ابی طالب ہیں اگر وہ بھی قتل کر دیئے جائیں تو مسلمان اپنے میں سے کسی کا انتخاب کر لیں اور اسے امیر بنالیں۔

رسول اللہ ﷺ نے ان کے لیے ایک سفید جھنڈا باندھا اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا انہیں وصیت کی کہ حارثہ بن عمیر کے قتل میں آئیں۔ جو لوگ وہاں ہوں انہیں اسلام کی دعوت دیں اگر وہ قبول کر لیں تو خیر ورنہ اللہ سے ان کے خلاف مدد مانگیں اور ان سے لڑیں۔

آپؐ ان کی مشایعت کے لیے نکلے ثنیۃ الوداع پہنچ کے ٹھہر گئے اور انہیں رخصت کر دیا۔ وہ لوگ اپنی چھاؤنی سے روانہ ہوئے تو مسلمانوں نے ندا دی کہ اللہ تم سے تمہارے دشمن کو دفع کرے اور تمہیں نیک و کامیاب کر کے واپس کرے ابن رواحہ نے اس وقت یہ شعر پڑھا۔

لکنی اسال الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ نقذف الزبد
”لیکن میں رحمن سے مغفرت مانگتا ہوں۔ اور ایسی کاری ضرب جو خباثت کو دفع کر دے۔“
اسلامی لشکر کی روانگی:

جب وہ مدینے سے چلے تو دشمن نے ان کی روانگی کا سنی اور مقابلے کے لیے جمع ہوئے شرجیل بن عمرو غسانی نے ایک لاکھ سے زائد آدمی جمع کر لیے اور اپنے جاسوسوں کو آگے روانہ کر دیا۔
آغاز جنگ:

مسلمان معاً ملک شام میں اترے لوگوں کو یہ خبر پہنچی کہ ہر قل مآب علاقہ البلقاء میں ایک لاکھ آدمیوں کے ساتھ اتر رہا ہے جو بہراء اور وائل اور بکر اور حم اور جذام کے قبائل میں سے تھے۔

مسلمان دو شب مقیم رہے تاکہ اپنے معاملہ پر غور کریں انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کو لکھیں اور آپؐ کو اس واقعے کی خبر دیں عبداللہ بن رواحہ نے انہیں چلنے پر ہمت دلائی وہ لوگ موتہ تک گئے مشرکین ان کے پاس آئے ان کا وہ سامان ہتھیار جانور و بیابا و حریر اور سونا آیا جس کی کسی کو قدرت نہ تھی۔

امیر اول حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی شہادت:

مسلمان اور مشرکین کا مقابلہ ہوا۔ امراء نے اس روز پیادہ لڑائی کی جھنڈا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے لیا۔ انہوں نے جنگ

کی ان کے ہمراہ اپنی اپنی صفوں میں مسلمانوں نے بھی جنگ کی یہاں تک کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نیزے سے قتل ہوئے ان پر خدا کی رحمت ہو۔

امیر ثانی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شہادت:

جھنڈا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے لے لیا وہ اپنے گھوڑے سے اتر پڑے جو سنہرے رنگ کا تھا انہوں نے اس کے پاؤں کی رگ کاٹ دی یہ پہلا گھوڑا تھا جس کے پیر کی رگ اسلام میں کاٹی گئی۔ انہوں نے مقابلہ کیا یہاں تک کہ وہ بھی قتل کر دیئے گئے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا انہیں ایک رومی نے مارا اور دو ٹکڑے کر دیئے ان کے جسم کے ایک ٹکڑے میں تمیں سے زائد زخم پائے گئے جیسا کہ کہا گیا۔ جعفر کے بدن پر بہتر زخم ملے جو تلوار اور نیزے کے تھے۔

امیر ثالث حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت:

جھنڈا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے لے لیا وہ لڑے یہاں تک کہ قتل ہو گئے۔ ان پر اللہ کی رحمت ہو۔

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا کارنامہ:

لوگوں کی صلاح خالد بن الولید رضی اللہ عنہ پر ہوئی انہوں نے جھنڈا لے لیا مسلمان بھاگے ان کو شکست ہو گئی مشرکین نے ان کا تعاقب کیا مسلمانوں میں سے جو قتل ہو گیا وہ ہو گیا۔

وہ زمین رسول اللہ ﷺ کے لیے اٹھائی گئی آپ نے قوم کے میدان جنگ کو دیکھا۔ جب خالد بن الولید رضی اللہ عنہ نے جھنڈا لے لیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اب جنگ زور کی ہو گئی۔

اہل مدینہ کا اظہار افسوس:

اہل مدینہ نے لشکر موتہ کو سنا کہ آرہے ہیں تو مقام جرف میں ان سے ملاقات کی لوگ ان کے منہ پر خاک ڈالنے لگے اور کہنے لگے کہ اے فرار کرنے والو تم نے اللہ کی راہ سے فرار کیا رسول اللہ ﷺ فرمانے لگے: یہ لوگ فرار کرنے والے نہیں ہیں یہ لوگ ان شاء اللہ دوبارہ حملہ کرنے والے ہیں۔

ابو عامر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے شام بھیجا جب میں واپس ہوا تو اپنے ساتھیوں پر گزرا جو موتہ میں مشرکین سے لڑ رہے تھے میں نے کہا اللہ میں آج نہ جاؤں گا تا وقتیکہ ان کے مآل کا ركونہ دیکھ لوں۔

جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جھنڈا لے لیا اور ہتھیار پہن لیے دوسرے راوی نے کہا کہ زید نے جھنڈا لیا جو قوم کے سردار تھے جعفر نے اٹھایا جب انہوں نے دشمنوں سے مقابلے کا ارادہ کیا تو واپس آئے اور ہتھیار پھینک دیئے پھر دشمن پر حملہ کیا اور نیزہ بازی کی وہ بھی قتل کر دیئے گئے۔

جھنڈا زید بن حارثہ نے لیا اور نیزہ بازی کی وہ بھی قتل کر دیئے گئے۔ عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا لے لیا اور نیزہ بازی کی وہ بھی قتل کر دیئے گئے۔

مسلمان اس بری طرح ہزیمت اٹھا کے بھاگے کہ میں نے ایسا کبھی نہ دیکھا تھا ان میں سے دو کو بھی میں نے یکجا نہ پایا۔

وہ جھنڈا ایک انصاری نے لے لیا وہ اسے لے کے دوڑے یہاں تک کہ سب لوگوں کے آگے ہو گئے تو انہوں نے اسے گاڑ دیا اور کہا اے لوگو میرے پاس آؤ لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے جب تعداد اچھی خاصی ہو گئی تو وہ جھنڈا خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے خالد نے کہا کہ میں جھنڈا تم سے نہ لوں گا تم اس کے زیادہ مستحق ہو۔ انصاری نے کہا: واللہ میں نے تمہارے ہی لیے لیا ہے۔

خالد نے وہ جھنڈا لے لیا اور مشرکین پر حملہ کر دیا اللہ نے انہیں ایسی بری شکست دی کہ میں نے ایسی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مسلمانوں نے جہاں چاہا تلوار چلائی۔

رسول اللہ ﷺ کا سکوت:

میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور اس کی خبر دی آپ پر یہ واقعہ شاق گزرا ظہر پڑھی اور اندر تشریف لے گئے۔ آپ نے جب ظہر پڑھ لی تو کھڑے ہوئے دو رکعتیں اور پڑھیں پھر جماعت کی طرف منہ پھیر لیا لوگوں پر بہت شاق گزرا۔ آپ نے عصر پڑھی اور اسی طرح کیا۔ مغرب پڑھی اور اسی طرح کیا پھر عشاء پڑھی اور اسی طرح کیا۔ جب صبح کی نماز کا وقت ہوا تو مسجد میں تشریف لائے لبوں پر مسکراہٹ تھی معمول تھا کہ جب تک آپ صبح کی نماز نہ پڑھ لیں کوئی انسان مسجد کی کسی طرف سے آپ کی طرف کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ جب آپ مسکرائے تو جماعت نے عرض کیا یا نبی اللہ ہماری جانیں آپ پر فدا ہوں ہمارے اس غم کو اللہ ہی جانتا ہے جو ہمیں اس وقت سے تھا جب سے ہم نے آپ کی وہ حالت دیکھی جو ہم نے دیکھی۔

شہدائے موتہ کا اعزاز:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم نے میری جو حالت دیکھی یہ ہے کہ مجھے میرے اصحاب کے قتل نے غمگین کر دیا۔ یہاں تک کہ میں نے انہیں اس طرح جنت میں دیکھ لیا کہ وہ بھائی بھائی ہیں آنے سے سانسے تختوں پر بیٹھے ہیں ان میں سے ایک میں نے کسی قدر اعراض (روگردانی) کو دیکھا کہ گویا انہیں تلوار ناپسند ہے میں نے جعفر کو دیکھا کہ وہ ایک فرشتے ہیں جن کے دو بازو ہیں جو خون میں رنگے ہوئے ہیں اور جن کے قدم بھی رنگے ہوئے ہیں۔

سریہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ:

ذات السلاسل کی جانب عمرو بن العاص کا سریہ ہوا جو وادی القرئی کے اسی طرف ہے اس کے اور مدینے کے درمیان دس دن کا راستہ ہے یہ سریہ جمادی الاخریٰ ۶ھ میں ہوا۔

رسول اللہ ﷺ کو خبر پہنچی کہ قضاہ کی ایک جماعت اس ارادہ سے اکٹھا ہوئی ہے۔ کہ مدینہ النبی ﷺ کے اطراف پہنچ جائیں رسول اللہ ﷺ نے عمرو بن العاص کو بلایا ان کے لیے (لواء) سفید جھنڈا باندھا اور ہمراہ سیاہ جھنڈا (راۓ) بھی کر دیا انہیں تین سو اعلیٰ درجے کے مہاجرین و انصار کے ساتھ روانہ کیا تیس گھوڑے بھی ساتھ تھے۔ آپ نے حکم دیا کہ بلی و عذرہ و بلیقین میں سے جس پر گزر ہو اس سے مدد حاصل کریں وہ رات کو چلتے اور دن کو پوشیدہ رہتے جب اس قوم کے نزدیک ہوئے تو معلوم ہوا کہ بہت بڑا مجمع ہے۔ انہوں نے رافع بن مکیت الجہنی کو رسول اللہ ﷺ کے پاس بھیج کر آپ سے امداد کی درخواست کی آپ نے

ان کے پاس ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو دو سو آدمیوں کے ہمراہ روانہ کیا ان کے لیے جھنڈا باندھا ہمراہ منتخب مہاجرین و انصار کو بھیجا جن میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ انہیں یہ حکم دیا کہ دونوں ساتھ رہیں جدا جدا نہ ہوں۔

وہ عمرو سے ملے ابو عبیدہ نے ارادہ کیا کہ لوگوں کی (نماز میں) امامت کریں عمرو نے کہا کہ آپ تو میرے پاس مدد کے لیے آئے ہیں امیر تو میں ہوں ابو عبیدہ نے ان کی بات مان لی عمرو لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔

عمرو روانہ ہوئے بللی کی آبادی میں داخل ہوئے تمام راستے معلوم کر لیے عذرہ و بلقین کی آبادی تک آ گئے آخر کو انہیں ایک مجمع ملا جن پر مسلمانوں نے حملہ کر دیا وہ اپنی آبادی میں بھاگے اور منتشر ہو گئے عمرو لوٹے انہوں نے عوف بن مالک الاشجعی کو پیامبر بنا کر رسول اللہ ﷺ کے پاس بھیجا انہوں نے آپ کو ان کے واپس آنے اور صحیح دسالم ہونے کی اور جو کچھ ان کے جہاد میں ہوا اس کی خبر دی۔

سریہ الخیط (برگ درخت) بامارت ابو عبیدہ بن الجراح:

رجب ۸ھ میں سریہ الخیط ہوا جس کے امیر ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو تین سو مہاجرین و انصار کے ہمراہ جن میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے جہینہ کے ایک قبیلہ کی طرف بھیجا جو القلیہ میں تھا کہ سمندر کے ساحل متصل ہیں اس کے اور مدینے کے درمیان پانچ رات کا راستہ ہے۔ راستے میں ان کو بھوک کی سخت تکلیف ہوئی تو ان لوگوں نے درخت کے پتے کھائے قیس بن سعد نے اونٹ خریدے اور ان لوگوں کے لیے ذبح کیے سمندر نے ان کے لیے بہت بڑی مچھلی ڈال دی۔ جس کو انہوں نے کھایا اور واپس ہوئے جنگ کی نوبت نہیں آئی۔

سریہ ابو قتادہ بن ربیع الانصاری:

خضرہ کی جانب جو نجد میں قبیلہ محارب کی زمین ہے ابو قتادہ بن ربیع الانصاری کا سریہ شعبان ۸ھ میں ہوا۔ رسول اللہ ﷺ نے پندرہ آدمیوں کے ہمراہ ابو قتادہ کو غطفان کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لیں وہ رات کو چلے اور دن کو چھپے رہے ابو قتادہ نے ان کے بہت بڑے قبیلہ پر حملہ کر کے گھیر لیا ان میں سے ایک آدمی چلایا ”یا خضرہ“۔

ان کے چند آدمیوں نے لڑائی کی مگر جو مسلمانوں کے سامنے آیا قتل ہوا مسلمان موسیٰ بن کلالے جو دو سو اونٹ اور دو ہزار بکریاں تھیں بہت سے مشرکین کو گرفتار کر لیا مال غنیمت کو جمع کیا اور خس نکال لیا جو بچا لشکر پر تقسیم کر دیا۔ ہر شخص کے حصے میں بارہ اونٹ آئے اونٹ کو دس بکریوں کے برابر شمار کیا گیا ابو قتادہ کے حصے میں ایک خوبصورت لونڈی آئی جسے رسول اللہ ﷺ نے ان سے مانگ لیا اور محمید بن جز کو بہہ کر دی اس سریے میں یہ لوگ پندرہ رات باہر رہے۔

سریہ ابو قتادہ بن ربیع الانصاری:

ماہ رمضان میں ۸ھ میں بطن اضم کی جانب سریہ ابو قتادہ بن ربیع الانصاری ہوا۔

جب رسول اللہ ﷺ نے اہل مکہ سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے ابو قتادہ بن ربیع کو آٹھ آدمیوں کے ہمراہ بطور سریے کے بطن اضم کی طرف روانہ کیا جو ذی حطب اور ذی المروہ کے درمیان ہے اس کے اور مدینے کے درمیان تین برد

(۳۶ میل) فاصلہ ہے یہ سر یہ اس لیے بھیجا کہ گمان کرنے والا یہ گمان کر لے کہ رسول اللہ ﷺ کی توجہ اس علاقے کی طرف ہے تاکہ اس کی خبر پھیل جائے۔ اس سر یہ میں محکم بن جثامہ اللبیشی بھی تھے بمالاضبط الاشجی کا کوئی باشندہ گزرا اس نے اسلامی طریقے سے سلام کیا تو اسے اس جماعت نے روک لیا مگر محکم بن جثامہ نے حملہ کر کے اسے قتل کر دیا اس کا اونٹ اسباب اور دودھ کا برتن جو اس کے ہمراہ تھا چھین لیا۔

یہ لوگ جب نبی ﷺ سے ملے تو ان کے بارے میں قرآن میں نازل ہوا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَاكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَتَّبِعُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَجَعَلَ اللَّهُ مَفَانِمَ كَثِيرَةً﴾

”اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں سفر کرو تو خوب سمجھ لیا کرو اور جو شخص تمہیں سلام کرے تو اسے یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں ہے اس غرض سے کہ تم حیات دنیا کا سامان حاصل کرو کیونکہ اللہ کے پاس کثیر مال غنیمت ہے۔“

وہ روانہ ہوئے انہیں کوئی جماعت نہ ملی تو واپس ہوئے، شب پہنچے تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کے کی طرف روانہ ہو گئے انہوں نے درمیان کا راستہ اختیار کیا اور نبی ﷺ سے السقیاء میں مل گئے۔

غزوہ فتح مکہ:

رمضان ۸ھ میں رسول اللہ ﷺ کا غزوہ عام الفتح (غزوہ سال فتح مکہ) ہوا۔

بنو خزاعہ پر بنو بکر کے افراد کا شب خون:

صلح حدیبیہ کے بیسیویں مہینے جب شعبان ۸ھ آیا تو بنو نفاذ نے جو بنو بکر میں سے تھے۔ اشراف قریش سے گفتگو کی کہ بنی خزاعہ کے مقابلہ میں آدمیوں اور ہتھیاروں سے ان کی مدد کریں قریش نے ان سے وعدہ کر لیا۔ الوتیر میں چھپ کے بھیس بدلے ہوئے ان کے پاس پہنچ گئے، صفوان بن امیہ جو یطیب بن عبد العزیٰ اور کرز بن حفص بن الایخف اس جماعت میں تھے۔ ان لوگوں نے رات کے وقت بنی خزاعہ پر حملہ کیا جب کہ وہ لوگ غافل اور امن میں تھے ان کے بیس آدمی قتل کر دیئے۔

بدعہدی پر اہل مکہ کو تشویش:

قریش کو اپنے کیے پر ندامت ہوئی اور انہوں نے یقین کر لیا کہ یہ اس مدت اور عہد کا نقص ہے جو ان کے اور رسول

اللہ ﷺ کے درمیان ہے۔

عمر و بن سالم الخزاعی چالیس خزاعی سواروں کے ہمراہ روانہ ہوا۔ یہ لوگ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے آپ کو اس مصیبت کی خبر دی جو انہیں پیش آئی اور مدد کی درخواست کی۔ آپ کھڑے ہو گئے اپنی چادر کو کھینچتے تھے اور فرماتے تھے کہ میری مدد بھی نہ کی جائے اگر میں اس چیز سے بنی کعبہ کی مدد نہ کروں جس سے میں اپنی مدد کرتا ہوں اور فرمایا کہ یہ ابر بنی کعبہ کی مدد کے لیے ضرور برے گا۔

تجدید معاہدہ کی درخواست:

ابوسفیان بن حرب نے مدینے میں آ کر آپ سے یہ درخواست کی کہ آپ عہد کی تجدید اور مدت میں اضافہ کر دیں، مگر آپ نے اس سے انکار کیا، ابوسفیان نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں نے لوگوں کے سامنے اجازت حاصل کر لی، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے ابوسفیان تو یہ کہتا ہے پھر وہ مکے واپس چلا گیا۔

رسول اللہ ﷺ نے سامان کیا، معاملہ پوشیدہ رکھا اپنے کان بند کر لئے اور دعا کی کہ اے اللہ ان کی آنکھیں بند کر دے کہ وہ مجھے ناگہانی طور کے سوانہ دیکھ سکیں۔

حاطب بنی النضر کے قاصد کی گرفتاری:

جب آپ نے روانگی پر اتفاق کر لیا تو حاطب بن ابی بلتعہ نے قریش کو ایک خط لکھا جس میں اس واقعہ کی انہیں خبر دی رسول اللہ ﷺ نے علی بن ابی طالب اور المقداد بن عمرو رضی اللہ عنہما کو روانہ کیا ان دونوں نے حاطب کے خط اور قاصد کو گرفتار کر لیا اور رسول اللہ ﷺ کے پاس لے آئے۔

حلیف قبائل کی طلبی:

رسول اللہ ﷺ نے اپنے اطراف کے عرب کو بلا بھیجا، ان کے بڑے قبیلے اسلم، غفار، خزیمہ، جہینہ، اشجع اور سلیم تھے ان میں سے بعض آپ سے مدینے میں ملے اور بعض راستے میں مسلمان غزوہ فتح میں دس ہزار تھے۔

عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے لئے نیابت کا اعزاز:

رسول اللہ ﷺ نے مدینے پر عبداللہ بن ام مکتوم کو اپنا قائم مقام بنایا اور دس رمضان ۸ھ یوم چہار شنبہ کو بعد عصر روانہ ہو گئے۔ جب آپ الصلصل پہنچے تو زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کو دوسو مسلمانوں کے ہمراہ اپنے آگے روانہ کر دیا۔ اسلامی لشکر کی روانگی:

رسول اللہ ﷺ کے منادی نے یہ ندا دی کہ جو شخص افطار کرنا چاہے وہ افطار کرے اور جو روزہ رکھنا چاہے وہ روزہ رکھے آپ روانہ ہوئے جب قدید پہنچے تو چھوٹے اور بڑے جھنڈے (لواء و رایہ) باندھے اور قبائل کو دیئے۔

عشاء کے وقت مر الظهران میں اترے۔ آپ نے اپنے اصحاب کو حکم دیا تو انہوں نے دس ہزار جگہ آگ روشن کی قریش کو آپ کی روانگی کی خبر نہیں پہنچی وہ غمگین تھے کیونکہ اندیشہ تھا کہ آپ ان سے جنگ کریں گے۔

قریش نے ابوسفیان بن حرب کو بھیجا کہ وہ حالات معلوم کرے انہوں نے کہا اگر تو محمدؐ سے ملے تو ہمارے لیے ان سے امان لے لینا، ابوسفیان بن حرب حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقاء روانہ ہوئے جب انہوں نے لشکر دیکھا تو سخت پریشان ہو گئے۔ ابوسفیان کا قبول اسلام:

رسول اللہ ﷺ نے اس رات کو سپہرے پر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو عامل بنایا تھا، عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ ابوسفیان کی آواز سنی تو (پکار کر) کہا ”ابو حظلہ“ اس نے کہا ”لیک (حاضر اے عباس)“ یہ تمہارے پیچھے کیا ہے انہوں نے کہا ”یہ

دس ہزار کے ساتھ رسول اللہ ﷺ ہیں تیری ماں اور تیرا خاندان روئے تو اسلام لے آئے۔

عباس رضی اللہ عنہ نے اسے پناہ دی اسے اور اس کے دونوں ساتھیوں کو خدمت نبویؐ میں پیش کیا، تینوں اسلام لے آئے آپ ﷺ نے ابوسفیان کے لیے یہ کر دیا کہ جو شخص ان کے گھر میں داخل ہوا سے امان ہے اور جو شخص اپنا دروازہ بند رکھے اسے بھی امان ہے۔

اسلامی لشکر کا مکہ میں فاتحانہ داخلہ:

رسول اللہ ﷺ اپنے آہن پوش لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، آپؐ اپنی اونٹنی القصواء پر ابوبکر و اسید بن حضیر رضی اللہ عنہما کے درمیان تھے، ابوسفیان کو روک لیا گیا تھا۔ جب انہوں نے وہ سامان دیکھا جس کی انہیں طاقت نہ تھی تو کہا اے ابوالفضل (عباس) تمہارے بھتیجے کی سلطنت تو بہت بڑھ گئی، عباس نے کہا تمہاری خرابی ہو، یہ سلطنت نہیں ہے یہ تو نبوت ہے انہوں نے کہا بے شک۔

اس روز رسول اللہ ﷺ کا (رأیہ) جھنڈا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا آپؐ کو ان کی طرف سے یہ معلوم ہوا کہ قریش کے بارے میں کلام ہے اور ان سے وعدہ ہے تو آپؐ نے جھنڈا ان سے لے لیا اور ان کے فرزند قیس بن سعد کو دے دیا۔
حضور علیہ السلام کے نامزد کردہ افراد کا قتل:

رسول اللہ ﷺ نے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو کدار سے زیر کو کدائی اور خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کو الیٹ سے داخل ہونے کا حکم دیا۔ عکرمہ بن ابی جہل، ہبار بن الاسود، عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح، مقیس بن صبابہ، اللیثی، حویرث بن نقید اور عبد اللہ بن ہلال بن نطل الادرمی۔

ہند بنت عتبہ، سارہ عمرو بن ہاشم کی آزاد کروہ لونڈی، فرتنا اور قریبہ۔

ان میں سے ابن نطل، حویرث بن نقید، مقیس بن صبابہ قتل کیے گئے۔

عکرمہ بن ابوجہل اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا مقابلہ:

تمام لشکر کو کوئی مجمع نہیں ملا۔ سوائے خالد رضی اللہ عنہ کے کہ انہیں الحمد میں قریش کی ایک جماعت کے ساتھ صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمرو اور عکرمہ بن ابی جہل ملے ان لوگوں نے انہیں اندر آنے سے روکا ہتھیار نکال لیے اور تیر اندازی کی، خالد نے اپنے ساتھیوں کو پکارا ان سے جنگ ہوئی، جس میں چوبیس آدمی قریش کے اور چار آدمی ہذیل کے قتل ہوئے جو بچے وہ بہت بری طرح بھاگے۔

رسول اللہ ﷺ اذخر کے پہاڑی راستے پر ظاہر ہوئے تو آپؐ نے ایک بجلی دیکھی فرمایا میں نے تمہیں قتال سے منع نہیں کیا تھا کہا گیا کہ خالد سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے بھی شمشیر زنی کی فرمایا اللہ کا فیصلہ سب سے بہتر ہے۔

شہدائے فتح مکہ:

مسلمانوں میں دو آدمی مقتول ہوئے جو راستہ بھول گئے ایک کزرن بن جابر الفہری اور دوسرے خالد الاشتر الخزاعی تھے۔

خیمہ نبوی ﷺ:

رسول اللہ ﷺ کے لیے الحجون میں چمڑے کا خیمہ لگایا گیا۔ زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ آپ کا جھنڈا لے گئے اور اسے اس (خیمے) کے پاس گاڑ دیا، رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اس کے اندر گئے۔

عرض کی: آپ اپنے مکان میں کیوں نہیں اترتے۔
فرمایا: کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی مکان چھوڑا ہے؟

بیت اللہ سے بتوں کو نکالنا:

نبی ﷺ کے میں غلبہ وقوف کے ساتھ داخل ہوئے۔ لوگ خوشی اور ناگواری سے اسلام لائے۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنی سواری پر بیت اللہ کا طواف کیا، حالانکہ کعبہ کے گرد تین سو ساٹھ بت تھے۔ آپ نے یہ کیا کہ جب کسی بت کے پاس سے گزرتے تو اپنے ہاتھ کی لکڑی سے اس کی طرف اشارہ کرتے اور فرماتے: ”جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقاً“ (حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ باطل تو مٹنے والا ہی ہے) وہ بت اوندھے منہ گر پڑتا تھا۔

سب سے بڑا بت ہبل کعبہ کے سامنے تھا۔ آپ مقام ابراہیم میں آئے جو کعبے کے متصل تھا اس کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھی، مسجد کے ایک کنارے بیٹھ گئے اور بلال کو عثمان بن طلحہ کے پاس کعبے کی چابی لانے کے لیے بھیجا، عثمان لائے رسول اللہ ﷺ نے اس پر قبضہ کر لیا اور بیت اللہ کا دروازہ کھول کر اندر تشریف لے گئے۔ اس میں دو رکعت نماز پڑھی اور باہر آ گئے۔
آپ نے دروازے کے دونوں پٹ بند کر دیئے اور چابی اپنے ہی پاس رکھی، لوگوں کو کعبے کے گرد لایا گیا تھا، آپ نے اس روز لوگوں کو نصیحت کی، عثمان بن طلحہ کو بلا کر چابی دے دی اور فرمایا کہ اولاد ابی طلحہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے لو وہ تم سے سوائے ظالم کے کوئی نہیں چھینے گا۔

پانی کی سبیل (سقایہ) آپ نے عباس بن عبدالمطلب کو دی اور فرمایا کہ میں نے تمہیں دی نہ وہ تم سے بخل کرے اور نہ تم اس سے بخل کرو۔

خانہ کعبہ میں پہلی اذان:

رسول اللہ ﷺ نے حمیم بن اسد الخزاعی کو بھیجا انہوں نے حرم کے پتھروں کو درست کر دیا، ظہر کا وقت آ گیا تو بلال نے کعبے کی چھت کے اوپر اذان دی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس دن کے بعد سے قریش سے قیامت تک (کفر پر) جنگ نہیں کی جائے گی۔

رسول اللہ ﷺ المحرور میں ٹھہرے کعبے سے خطاب کر کے کہا کہ تو اللہ کی زمینوں میں سب سے زیادہ بہتر ہے اللہ کی زمینوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اگر میں تجھ سے نکالا نہ جاتا تو میں نہ نکلتا۔

بتوں کی تباہی:

رسول اللہ ﷺ نے ان بتوں کی طرف سراپا بھیجے جو کعبے کے گرد تھے اور سب کو توڑ ڈالا ان میں سے العزیٰ، مناہ، سواع،

بوانہ اور ذوالکفین تھے۔

رسول اللہ ﷺ کے منادی نے مکہ میں ندا دی کہ جو شخص اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے گھر میں کوئی بت بغیر توڑے نہ چھوڑے۔

رسول اکرم ﷺ کا خطبہ فتح یا رحمت کی رم جھم:

جب فتح کا دوسرا دن ہوا تو رسول اللہ ﷺ نے ظہر کے بعد خطبہ پڑھا (وعظ کہا) اور فرمایا کہ اللہ نے جس دن آسمان وزمین کو پیدا کیا (اسی دن سے مکہ کو حرام (محرم قتل و قتل سے محفوظ) کر دیا ہے وہ قیامت تک حرام ہے میرے لیے بھی دن کی ایک ساعت سے سوا کبھی حلال نہیں ہوا۔ اس کے بعد وہ اپنی حرمت دیروزہ پر واپس چلا گیا لہذا تم میں جو لوگ حاضر ہیں وہ غائبین کو پہنچادیں ہمارے لیے ان کے غنائم میں سے بھی کچھ حلال نہیں ہے۔

یوم فتح مکہ:

آنحضرت ﷺ نے بیس رمضان یوم جمعہ کو مکہ معظمہ کو فتح کیا، پندرہ رات مقیم رہے دو رکعت نماز (عصر) پڑھتے رہے غائبین کی طرف روانہ ہوئے، کئے پر عتاب بن اسید کو عامل بنایا جو انہیں نے نماز پڑھاتے تھے اور معاذ بن جبل کو جو حدیث و فقہ کی تعلیم دیتے تھے۔

روزہ رکھنے کے بعد افطار کر دینے کا واقعہ:

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ۱۰ رمضان کو عام الفتح (فتح مکہ کے سال) میں مدینے سے روانہ ہوئے آپ نے روزہ رکھا، الکدید پہنچے تو روزہ ترک کر دیا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کا آخر حکم ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ عام الفتح میں رمضان میں روانہ ہوئے آپ نے روزہ رکھا جب الکدید پہنچے اور لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے تو آپ نے پیالہ لے کے اس سے (پانی) پی لیا، پھر فرمایا اے لوگو! جو رخصت کو قبول کرے (یعنی افطار کرے) تو رسول اللہ ﷺ نے بھی اسے قبول کیا ہے اور جو روزہ رکھے تو رسول اللہ ﷺ نے بھی روزہ رکھا ہے۔

لوگ آپ کے جدید سے جدید امر کا اتباع کرتے تھے اور امرناخ کو محکم سمجھتے تھے (یعنی جس حکم نے سفر مکہ کے روزے کو منسوخ کر دیا۔ اسے بدیہی اور واضح حکم سمجھتے تھے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ عام الفتح میں ماہ رمضان میں روانہ ہوئے آپ نے روزہ رکھا، یہاں تک کہ الکدید پہنچے پھر آپ نے افطار کیا (روزہ ترک کر دیا) رسول اللہ ﷺ کے اصحاب آپ کے جدید سے جدید حکم کا اتباع کرتے تھے۔

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں دو رمضان کو بلایا ہم لوگ روانہ ہوئے حالانکہ روزہ دار تھے جب الکدید پہنچے تو رسول اللہ ﷺ نے فطر (ترک روزہ) کا حکم دیا۔ ہمیں شرجین میں اس حالت میں صبح ہوئی کہ بعض ہم میں

سے روزہ دار تھے اور بعض تارک روزہ جب ہم مر الظہر ان پہنچے تو آپؐ نے ہمیں آگاہ کیا کہ ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے اور ترک صوم کا حکم دیا۔

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے مکہ فتح کر لیا تو ۱۸ یا ۱۷ رمضان کو ہم لوگ آپؐ کے ہمراہ روانہ ہوئے، ہم میں بعض نے روزہ رکھا اور بعض نے روزہ ترک کر دیا مگر نہ روزہ دار نے تارک کو برا کہا اور نہ تارک روزہ نے روزہ دار کو۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے دن روزہ رکھا جب آپؐ کدید آئے تو آپؐ کے پاس ایک پیالہ دودھ لایا گیا۔ آپؐ نے افطار کر لیا اور لوگوں کو بھی افطار کرنے کا حکم دیا۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ۱۰ رمضان کو اس حالت میں مکہ فتح کیا کہ آپؐ روزہ دار و مسافر مجاہد تھے۔

لشکر اسلام کی تعداد:

سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عام الفتح میں رسول اللہ ﷺ آٹھ ہزار یا دس ہزار کے ہمراہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور مکہ والوں میں سے دو ہزار کو حنین لے گئے۔

ابن ابی ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ دس ہزار مسلمانوں کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔

عبداللہ کے والد سے مروی ہے کہ ہم نے عام الفتح میں رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ جہاد کیا، ہم لوگ ایک ہزار سے زائد تھے (ان کی مراد اپنی قوم مزینہ سے ہے) اللہ تعالیٰ نے مکہ اور حنین آپؐ کے لیے فتح کر دیا۔

رسول انور ﷺ کا منفرد فاتحانہ انداز:

انس بن مالک سے مروی ہے کہ عام الفتح میں رسول اللہ ﷺ اس طرح مکہ میں داخل ہوئے کہ سر پر خود تھا آپؐ نے اسے اتار دیا۔

معن و موسیٰ بن داؤد نے اپنی حدیثوں میں بیان کیا کہ ایک آدمی آیا اس نے کہا یا رسول اللہ ﷺ ابن حنظل کعبے کے پردوں میں لٹکا ہوا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اسے قتل کر دو۔

معن نے اپنی حدیث میں بیان کیا کہ اس روز رسول اللہ ﷺ محرم (احرام باندھے) ہوئے نہ تھے۔

انس بن مالک نے زہری سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کو عام الفتح میں اس حالت میں دیکھا کہ آپؐ کے سر پر خود تھا۔ جب آپؐ نے اسے اتار ڈالا تو ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ ﷺ ابن حنظل ہے جو کعبے کے پردوں میں لٹکا ہوا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اسے جہاں پاؤ قتل کر دو۔

طاؤس سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے میں کبھی بغیر احرام کے داخل نہیں ہوئے سوائے یوم فتح کے کہ اس روز آپؐ بغیر احرام کے داخل ہوئے۔

جابر سے مروی ہے کہ عام الفتح میں نبی ﷺ اس طرح داخل ہوئے کہ آپؐ کے سر پر سیاہ عمامہ تھا۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ یوم الفتح میں رسول اللہ ﷺ مکہ کے اوپر سے داخل ہوئے اور مکہ کے نیچے سے باہر آئے۔
عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ عام الفتح میں رسول اللہ ﷺ کداء کے راستے اس گھاٹی سے داخل ہوئے جو مکہ کے اوپر ہے۔
ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ مکہ میں بلند گھاٹی سے داخل ہوئے اور نیچی گھاٹی سے نکلے تھے۔
عبیدہ بن عمیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے روز اپنے اصحاب سے فرمایا کہ آج جنگ کا دن ہے اس لیے روزہ افطار کر لو۔

شبابہ نے شعبہ سے روایت کی کہ عمرو بن دینار نے عبید بن عمیر سے صرف تین حدیثیں سنیں۔

یوم الفتح میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے اشعار:

ابوسلمہ و یحییٰ بن عبدالرحمن بن حاطب سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کی فتح مکہ کا دن ہوا تو عبید اللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آپ کے آگے صف اور مردہ کے درمیان تھے اور یہ اشعار پڑھتے تھے:

يا حبيذا مكة من وادي ارض بها اهلي وعواذی

”اے وادی مکہ تیرا کیا کہنا، تو ایسی زمین ہے جس میں میرے اہل اور عبادت کرنے والے ہیں۔

ارض امشني بها بلا هادي ارض بها ترسخ اوتادي

تو ایسی زمین ہے جس میں بلا ہادی کے چلتا ہوں، تو ایسی زمین ہے جس میں میری میخیں مضبوط گڑی ہیں۔“

گستاخ رسول ابن نطل کا انجام:

سعید بن السیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یوم الفتح میں رسول اللہ ﷺ نے ابن ابی سرح، فرتنا، از بصری اور ابن نطل کے قتل کا حکم دیا اور ابو بزرہ ابن نطل کے پاس آئے جو کعبے کے پردوں میں لٹکا ہوا تھا۔ اس کا پیٹ چاک کر دیا۔
ابن ابی سرح کے لئے معافی:

انصار میں سے ایک شخص تھے جنہوں نے یہ نذرمانی کہ اگر ابن ابی سرح کو دیکھیں گے تو اسے قتل کر دیں گے، عثمان آئے ابن ابی سرح ان کا رضاعی بھائی تھا انہوں نے نبی ﷺ سے اس کی سفارش کی حالانکہ وہ انصاری تلوار کا قبضہ پکڑے نبی ﷺ کے منتظر تھے کہ جب آپ اشارہ کریں تو وہ اسے قتل کر دیں۔

عثمان نے ان کی سفارش کی آپ نے اسے چھوڑ دیا رسول اللہ ﷺ نے ان انصاری سے کہا کہ تم نے اپنی نذر کیوں نہ پوری کی انہوں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ میں اپنا ہاتھ تلوار کے قبضہ میں رکھ کر منتظر تھا کہ جب آپ اشارہ فرمائیں گے تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ نبی ﷺ نے فرمایا کہ اشارہ کرنا خیانت ہے نبی کو یہ مناسب نہیں کہ وہ اشارہ کرے۔

عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے اعزہ میں سے کسی سے مروی ہے کہ جب یوم الفتح ہوا تو آپ نے صفوان بن امیہ بن خلف، ابوسفیان بن حرب اور حارث بن ہشام کو بلا بھیجا، میں نے کہا کہ اللہ نے ان کے بارے میں قدرت دی ہے کہ آپ ان لوگوں کو جو کچھ انہوں نے کیا آگاہ کریں۔

عام معافی کا اعلان:

نبی ﷺ نے لوگوں سے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا: ”لا تشریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین“ (آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے اللہ تمہاری مغفرت کرے وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔)

(عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ) پھر میں رسول اللہ ﷺ سے ان ناگوار افعال کی وجہ سے جو مجھ سے (زمانہ جاہلیت میں) سرزد ہوئے تھے شرمایا گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے تو ان سے جو کچھ فرمایا وہ فرمایا ہی۔

بیت اللہ کو بتوں سے پاک کرنے کا حکم:

جابر سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو جو بطحاء میں تھے زمانہ فتح مکہ میں یہ حکم دیا کہ وہ کعبے میں آئیں اس میں جو تصویر ہوا سے مٹاویں نبی ﷺ اس میں اس وقت تک داخل نہ ہوئے جب تک اس کی تمام تصویریں نہ مٹا دی گئیں۔

فضل سے مروی ہے کہ نبی ﷺ بیت اللہ میں داخل ہوئے آپ تسبیح پڑھتے تھے بکیر کہتے تھے اور دعا کرتے تھے رکوع نہیں کرتے تھے۔

شعیب کے والد سے مروی ہے کہ نبی ﷺ عام الفتح میں کعبے کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئے اور اللہ کی حمد و ثناء کی اور جو تکلم فرمایا اس میں یہ فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یوم الفتح مکہ میں ایک دھواں تھا اور اللہ کے قول کے یہی معنی ہیں (یوم تاتی السماء بدخان مبین) جس دن آسمان کھلا ہوا دھواں لائے گا۔

لسان نبوت سے سورۃ فتح کی تلاوت:

عبداللہ بن مغفل سے مروی ہے کہ میں نے یوم فتح مکہ میں رسول اللہ ﷺ کو ایک اونٹنی پر دیکھا کہ آپ جارہے تھے اور سورۃ الفتح پڑھ رہے تھے اسے دہرا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اگر لوگ میرے گرد جمع نہ ہوتے تو میں ضرور دہراتا جیسا کہ دہرایا گیا۔

درس مساوات:

عباس بن عبد اللہ بن معبد سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے دوہرے روز فرمایا کہ جاہلیت کی نخوت اور اس کا فخر اپنے سے دور کر دو کیونکہ سب لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی کے ہیں۔

قیام مکہ میں نماز کے متعلق مختلف روایات:

وہب بن منبہ سے مروی ہے کہ میں نے جابر بن عبد اللہ سے پوچھا کہ آیا تمہیں یوم فتح میں کچھ غنیمت ملی تو انہوں نے کہا نہیں۔

عمران بن حصین سے مروی ہے کہ میں فتح مکہ میں نبی ﷺ کے ہمراہ موجود تھا۔ آپ مکہ میں اٹھارہ شب اس طرح مقیم رہے کہ دو رکعت نماز قصر سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔

انس بن مالک سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ روانہ ہوئے آپ (نماز میں) قصر کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ واپس ہوئے۔

حکم سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ۶ رمضان کو مدینے سے نکلے کو روانہ ہوئے آپ (نماز میں) قصر کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ واپس ہوئے۔ دو رکعت پڑھتے رہے مکہ میں آئے۔ تو وہاں آپ آدھے مہینے ٹھہرے قصر کرتے رہے پھر ۲۸ رمضان کو حنین روانہ ہو گئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی ﷺ فتح مکہ کے بعد مکہ میں سترہ روز ٹھہر کر دو رکعت پڑھتے رہے۔ عراک بن مابک سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے عام الفتح میں پندرہ دن ورات نماز پڑھی آپ دو رکعت پڑھتے رہے۔ عمران بن حصین سے مروی ہے کہ زمانہ فتح میں رسول اللہ ﷺ مکہ میں اٹھارہ شب رہے لیکن دو رکعت ہی نماز پڑھی۔ سبرہ الجعفی سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ عام الفتح میں روانہ ہوئے آپ پندرہ شبانہ روز مقیم رہے۔

ام ہانی ایک آزاد کردہ لونڈی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب مکہ فتح کیا تو آپ نے ایک برتن منگایا۔ غسل کیا پھر چار رکعت نماز پڑھی۔

ام ہانی نے اپنے آزاد کردہ غلام ابومرہ کو خبر دی کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ ﷺ کے مکان میں ایک شخص کے بارے میں جس کے لیے وہ امان چاہتی تھیں گفتگو کرنے کے لیے داخل ہوئیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ اس طرح اندر تشریف لائے کہ آپ کے سر اور داڑھی پر غبار پڑا ہوا تھا آپ ایک کپڑے میں مستور ہو گئے اور کپڑے دونوں رخ (یعنی آگے کا پیچھے اور پیچھے کا آگے کیا) پھر آپ نے چاشت کی آٹھ رکعت نماز پڑھی۔

ام ہانی کی سفارش پر امان دینے کا واقعہ:

ام ہانی بنت ابی طالب سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب مکہ معظمہ فتح کیا تو ام ہانی کے پاس بنی مخزوم کے دو آدمی بھاگ کر آئے انہوں نے دونوں کو پناہ دے دی علی رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور کہا کہ میں ان دونوں کو ضرور قتل کروں گا۔ ان (ام ہانی نے کہا) کہ جب میں نے انہیں یہ کہتے سنا تو میں تو رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی جو مکہ کے اعلیٰ (بلند حصہ) میں تھے رسول اللہ ﷺ نے مجھے دیکھا تو مرجا کہا اور فرمایا اے ام ہانی تمہیں کون سی ضرورت ہے میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ میں نے اپنے دیوروں میں دو آدمیوں کو پناہ دی ہے مگر علی رضی اللہ عنہ کا ارادہ ان کے قتل کرنے کا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے پناہ دی رسول اللہ ﷺ غسل کے لیے کھڑے ہوئے تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ایک کپڑے سے پردہ کیا پھر آپ نے اپنا کپڑا الے کے اوڑھ لیا اور آٹھ رکعت نماز چاشت کی پڑھی۔

عامل سعید بن سعید العاص:

سعید بن سالم الحکی نے ایک شخص سے روایت کی جس کا انہوں نے نام بھی لیا تھا (مگر راوی کو یاد نہیں رہا) کہ رسول اللہ ﷺ نے جب مکہ فتح کیا تو آپ نے اس کے بازار پر سعید بن العاص بن امیہ کو عامل بنایا۔ جب نبی ﷺ نے طائف جانے

کا ارادہ کیا تو سعید بن سعید آپ کے ہمراہ روانہ ہوئے اور طائف میں شہید ہوئے۔

عتاب بن اسید کی بطور عامل مکہ تقرری:

ابن جریج سے مروی ہے کہ جب عام الفتح میں نبی ﷺ طائف کی طرف روانہ ہوئے تو آپ نے ہبیرہ بن شہل بن العجلان انشقیٰ کو مکے پر قائم مقام بنایا۔ جب آپ طائف سے واپس آئے اور مدینے کی روانگی کا ارادہ کیا تو ۸ھ میں عتاب بن اسید کو مکہ معظمہ اور حج کا عامل بنایا۔

حارث بن مالک برصاء سے مروی ہے کہ میں نے نبی ﷺ کو یوم الفتح میں کہتے سنا، اس کے بعد قیامت تک (مکے میں) قریش سے کفر پر جنگ نہ کی جائے گی۔

سریہ خالد بن الولید رضی اللہ عنہ:

۲۵ رمضان ۸ھ کو بجانب العزری (بت) خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کا سریہ ہوا۔

عزری کی تباہی:

رسول اللہ ﷺ نے جب مکہ فتح کیا تو خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کو العزری کی جانب بھیجا کہ وہ اسے منہدم کر دے وہ آپ کے اصحاب کے تیس سواروں کے ہمراہ روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر اسے منہدم کر دیا رسول اللہ ﷺ کے پاس آ کر آپ کو خبر دی تو فرمایا: کیا تم نے کوئی چیز دیکھی انہوں نے کہا نہیں فرمایا: پھر تو تم نے اسے منہدم نہیں کیا۔ واپس جاؤ اور اسے منہدم کر دو۔ ایک پراسرار عورت کا قتل:

خالد لوٹے وہ غصے میں تھے انہوں نے اپنی تلوار میان سے باہر کر لی ان کی طرف ایک عورت نکل کے آئی جو برہنہ سیاہ اور نکھرے ہوئے بالوں والی تھی اس پر مجاور چلانے لگا خالد رضی اللہ عنہ نے اسے مارا اور کھڑے کر دیا۔

رسول اللہ ﷺ کے پاس آ کر آپ کو خبر دی تو فرمایا: ہاں یہی عزری تھی جو ہمیشہ کے لیے اس امر سے مایوس ہو گئی کہ تمہارے بلاد میں اس کی پرستش کی جائے گی وہ مقام خلعہ میں تھی۔ اور قریش اور تمام بنی کنانہ کے لیے ان بتوں میں سب سے بڑی تھی اس کے خدام اور مجاور بنی سلیم میں سے بنی شیبان تھے۔

سریہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ:

۸ رمضان ۸ھ میں سواع کی جانب سریہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ہوا۔

رسول اللہ ﷺ نے جب مکہ فتح کیا تو آپ نے عمرو بن العاص کو سواع کی طرف روانہ کیا جو ہذیل کا بت تھا کہ اسے

منہدم کر دیں۔

ہذیل کے بت خانہ کی بربادی:

عمرو نے بیان کیا کہ میں وہاں پہنچا تو اس بت کا مجاور ملا اس نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو۔ میں نے کہا: مجھے رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا ہے کہ اس بت کو منہدم کر دوں اس نے کہا کہ تم اس پر قادر نہ ہو گے میں نے پوچھا کہ کیوں؟ اس نے جواب کہ وہ محفوظ

ہے میں نے کہا اب تک تو باطل ہی میں ہے تیری خرابی ہو کیا وہ سنتا ہے۔ یا وہ دیکھتا ہے؟

اس کے قریب گیا اور اس کو توڑ ڈالا اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ خزانے کی کوٹھڑی منہدم کر دیں مگر اس کوٹھڑی میں اسے کچھ نہ ملا۔ مجاور سے کہا تو نے کیا دیکھا تو اس نے کہا میں اللہ کے لیے اسلام لاتا ہوں۔

سریہ سعید بن زید الاشہلی :

رمضان ۸ھ میں بجانب مناتہ سریہ سعید بن زید الاشہلی ہوا۔

رسول اللہ ﷺ نے جب مکہ فتح کیا تو آپؐ نے سعید بن زید الاشہلی کو مناتہ کی جانب روانہ کیا جو المشلل میں غسان اور اوس و خزرج کا بت تھا۔ فتح مکہ کے دن رسول اللہ ﷺ نے سعید بن زید الاشہلی کو بھیجا کہ وہ اسے منہدم کر دیں۔

سعید بیس سواروں کے ہمراہ روانہ ہوئے اور وہاں ایسے وقت پہنچے کہ اس پر ایک مجاور بھی تھا۔ مجاور نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا مناتہ کا انہدام اس نے کہا۔ تم اور یہ کام؟

بت خانہ مناتہ کا انہدام :

سعد اس بت کی طرف بڑھے اتنے میں ان کی جانب ایک سیاہ اور برہنہ پراگندہ بال والی ایک عورت نکل آئی جو کوس رہی تھی اور اپنے سینے پر مار رہی تھی۔ مجاور نے کہا: اے مناتہ اپنا غضب کر، سعید بن زید الاشہلی اسے مارنے لگے یہاں تک کہ وہ قتل ہو گئی۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بت کی طرف متوجہ کر دیا، مگر خزانے میں کچھ نہ پایا سعد اور ان کے ساتھی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئے۔ یہ واقعہ ۲۴ رمضان ۸ھ کو ہوا۔

سریہ خالد بن الولید رضی اللہ عنہ :

شوال ۸ھ میں بنی جذیمہ کی طرف جو بنی کنانہ میں سے تھے اور مکے سے نیچے یلم کے نواح میں ایک شب کے راستہ پر تھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا سریہ ہوا۔ (یہی سریہ) یوم الغمیصاء تھا (یعنی جنگ مقام الغمیصاء) جب خالد بن الولید رضی اللہ عنہ عزلی کے توڑنے سے لوٹے اور رسول اللہ ﷺ کے ہی میں مقیم تھے تو آپؐ نے انہیں بنی جذیمہ کی جانب دعوت اسلام کے لیے بھیجا۔ لیکن انہیں مقاتل و جنگجو بنا کے نہیں بھیجا تھا۔ وہ مہاجرین و انصار بنی سلیم کے تین سو پچاس آدمیوں کے ہمراہ روانہ ہوئے۔

بنی جذیمہ کا معاملہ :

خالد ان کے پاس پہنچے تو پوچھا، تم کون ہو؟ ان لوگوں نے کہا، مسلمان ہم نے نماز پڑھی ہے، محمد کی تصدیق کی ہے، اپنے میدانوں میں مسجدیں بنائی ہیں اور ان میں اذان کہی ہے، انہوں نے کہا تمہارے پاس ہتھیار کا کیا حال ہے؟ جواب دیا ہمارے اور عرب کی ایک قوم کے درمیان عداوت ہے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ لوگ ہوں گے تو ہم نے ہتھیار لے لیے۔ خالد نے حکم دیا کہ ہتھیار رکھ دو انہوں نے ہتھیار رکھ دیے۔ خالد نے سب کو گرفتار کر لیا اور بعض کی مشکیں بھی کس دیں اور سب کو اپنے بیابان تقسیم کر دیا۔

جب صبح ہوئی تو خالد نے ندا دی کہ جس کے ہمراہ قیدی ہو وہ تلوار سے اس کا کام تمام کر دے، یوسلیم نے تو جوان کے ہاتھ میں تھے۔ انہیں قتل کر دیا، لیکن مہاجرین و انصار نے اپنے قیدیوں کو رہا کر دیا۔
مقتولین کے خون بہا کی ادائیگی:

خالد نے جو کچھ کیا وہ نبی ﷺ کو پہنچا تو آپ نے فرمایا اے اللہ میں خالد کے فعل کی تجھ سے براءت چاہتا ہوں آپ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا انہوں نے مقتولین کا خون بہا ادا کیا اور نقصان کی تلافی کی پھر رسول اللہ ﷺ کے پاس آ کر آپ کو خبر دی۔
یوم الغمیصاء:

ابو بدرہ سے مروی ہے کہ میں اس لشکر میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تھا جس نے یوم الغمیصاء میں جزیہ پر حملہ کیا ہم ان کے پاس ایک ایسے شخص سے ملے جس کے ہمراہ عورتیں تھیں وہ ان عورتوں کو بچانے کے لیے لڑنے لگا اور یہ رجز پڑھنے لگا۔
رخین اذیال الحضاء واربعن مشی حیيات کان لم یبصر ملحن
”اے عورت ازار کے دامن چھوڑ دے اور توقف کر سپہیلیوں کی چال کہ گویا خوف کرتے ہی نہیں۔“
ان یمنع القوم ثلاث تمنعن (اگر قوم کو تین آدمی بھی روکیں تو ضرور بچ جائے)۔
راوی نے کہا کہ اتفاقاً ہم ایک اور شخص سے ملے جس کے ہمراہ عورتیں تھیں وہ بھی ان کی جانب سے لڑنے لگا اور یہ شعر پڑھنے لگا:

قد علمت بیضاء قلمی العرسا لا تملا اللجین منها نهسا
”گوری سرخ کو لہے والی عورت نے جان لیا کہ بکری والا اور اوٹ والا اس کی حفاظت کرے گا۔“

لا ضربن اليوم ضرباوعا ضرب المذبذبین المتخاص القعسا
آج میں ضرور بے نیاز کروں گا۔ جس طرح کوئی مرد بے نیاز کرتا ہے۔“

اس نے اس کی طرف سے جنگ کی یہاں تک کہ اسے پہاڑ پر چڑھالے گیا (راوی نے کہا کہ) ایک اور شخص ہم سے ملے جس کے ہمراہ عورتیں تھیں وہ ان کی طرف سے لڑنے لگا اور یہ اشعار پڑھنے لگا۔

قد علمت بیضاء تلھی العرسا لا تملا اللجین منها نهسا
”ایسی گوری عورت نے جو دلہن کو بھلا دیتی ہے جان لیا ہے کہ اس کے کم گوشت کو پتہ نہیں بھرے گا۔“

لا ضربن اليوم ضرباوعا ضرب المذبذبین المتخاص القعسا
آج میں ضرور تیز سفر کروں گا۔ ان لوگوں کا سا سفر جو پھری ہوئی پشت اور گردن والے اونٹوں کو ہنکاتے ہیں۔“

اس نے ان کی طرف سے جنگ کی یہاں تک کہ انہیں پہاڑ پر چڑھا کر لے گیا خالد نے کہا کہ ان لوگوں کا تعاقب نہ کرو۔ عصام المزنی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بطن نخلہ کے روز (بطن نخلہ سے عزیمت ہونے کا دن مراد ہے)

ہمیں بھیجا اور فرمایا: کہ جس آبادی میں اذان نہ سنو یا مسجد نہ دیکھو وہاں لوگوں کو قتل کر دو۔ اتفاقاً ہم ایک شخص سے ملے اس سے پوچھا کہ تو کافر ہے یا مسلم۔ اس نے کہا کہ اگر میں کافر ہوں تو ٹھہر جاؤ۔ ہم نے اس سے کہا کہ اگر تو کافر ہوگا تو ہم تجھے قتل کر دیں گے اس نے کہا مجھے اتنی مہلت دو کہ میں عورتوں کی حاجت پوری کر دوں وہ ان میں سے ایک عورت کے پاس گیا اور کہا کہ اے جیش عیش کے خاتمہ پر اسلام لے آ۔

اربتك اذ طالبکم فوجدتکم بجيلة او ادرکتکم بالخواقف

”کیا تم نے دیکھا کہ جب میں نے تمہاری تلاش کی تھی اور پھر تمہیں پایا تھا تو مقام بجیلہ میں پایا تھا یا خوافق میں۔

اما کان اهلا ان ينول عاشق تکلف ادکاج السرى و الواقب

کیا عاشق اس کا اہل نہ تھا کہ اس کے ساتھ فیاضی کی جائے جس نے راتوں میں اور سخت گرمیوں میں چلنے کی تکلیف گوارا کی۔

فلاذب لی قد قلت اذ نحن جبره ائیبی بود قبل احدی البواقف

پھر میرا کوئی گناہ نہیں۔ میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا جبکہ ہم پڑوسی تھے اے عورت محبت کی جزا دے کسی ایک نازل ہونے والی مصیبت کے قبل۔

ائیبی بود قبل ان تشحط النوی وینای امیری بالحبيب المفارق

محبت کی جزا دے قبل اس کے گھر دور اور میرا جدائی کرنے والا امیر محبوب کو دور کر دے۔“

اس عورت نے کہا ہاں تو دس اور سات سال پے در پے آٹھ سال جن میں مہلت ہو زندہ رہے۔ پھر ہم لوگ اس کے قریب گئے اور اس کی گردن مار دی وہ عورت آئی اور اس پر تیرا اندازی کرنے لگی یہاں تک کہ وہ مر گئی سفیان نے کہا کہ وہ عورت خوب پر گوشت تھی۔
غزوہ حنین:

شوال ۸ھ میں رسول اللہ ﷺ کا غزوہ حنین ہوا اسی کو غزوہ ہوازن بھی کہتے ہیں حنین ایک وادی ہے۔ اس کے اور مکے کے درمیان تین رات کا فاصلہ ہے۔
ہوازن اور ثقیف کا اتحاد:

جب رسول اللہ ﷺ نے مکہ فتح کیا تو ہوازن و ثقیف کے اشراف ایک دوسرے کے پاس گئے انہوں نے اتفاق کر لیا اور بغاوت کر دی ان سب کو مالک بن عوف النصری نے جمع کیا جو اس زمانہ میں تیس سال کا تھا اس کے حکم پر وہ لوگ اپنے ہمراہ مال عورت اور بچوں کو لے آئے وہ اوطاس میں اترے اور ان کے پاس امداد بھی آنے لگی انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی طرف بغرض مقابلہ جانے کا ارادہ کیا۔
مکہ سے روانگی:

رسول اللہ ﷺ مکے سے ۶ شوال یوم شعبہ کو بارہ ہزار مسلمانوں کے ہمراہ جن میں دس ہزار اہل مدینہ تھے اور دو ہزار اہل

مکہ روانہ ہوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج ہم قلت کی وجہ سے مغلوب نہ ہوں گے رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ بہت سے مشرکین بھی روانہ ہوئے جن میں صفوان بن امیہ بھی تھا رسول اللہ ﷺ نے اس سے سوز رہیں مع سامان کے عاریۃ لی تھیں شب سہ شنبہ ۱۰ شوال کو شام کے وقت آپ حنین پہنچے۔

مالک بن عوف نے تین آدمیوں کو روانہ کیا کہ رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کی خبر لائیں وہ لوگ اس طرح اس کے پاس واپس لوٹ گئے کہ رعب کی وجہ سے ان کے جوڑ جوڑ الگ ہو گئے تھے۔

پرچم اسلام:

رسول اللہ ﷺ نے عبد اللہ بن ابی حدرد الاسلمی کو روانہ کیا وہ ان کے لشکر میں داخل ہوئے اس میں گھوڑے اور ان کی خبر لائے۔ جب رات ہوئی تو مالک بن عوف نے اپنے ساتھیوں کی طرف قصد کیا اس نے انہیں وادی حنین میں تیار کیا اور مشورہ دیا کہ وہ سب محمدؐ اور ان کے اصحاب پر ایک دم سے حملہ کریں۔

رسول اللہ ﷺ نے اپنے اصحاب کو صبح بڑے تیار کیا اور ان کی چند صفیں بنادیں الویہ (چھوٹے جھنڈے) اور رايات (بڑے جھنڈے) ان کے مستحقین کو دیئے مہاجرین کے ہمراہ ایک لواء (چھوٹا جھنڈا) تھا جسے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اٹھائے ہوئے تھے اور ایک راۓ (بڑا جھنڈا) تھا جسے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اٹھائے ہوئے تھے۔ ایک راۓ (بڑا جھنڈا) عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اٹھائے ہوئے تھے۔

خزرج کا لواء (چھوٹا جھنڈا) حباب بن المہذر اٹھائے ہوئے تھے اور کہا جاتا ہے کہ خزرج کا ایک دوسرا لواء (چھوٹا جھنڈا) سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تھا اوس کا لواء (چھوٹا جھنڈا) اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تھا اوس و خزرج کے ہر بطن (شاخ قبیلہ) میں لواء یا راۓ تھا جسے انہیں کا ایک نام زد شخص اٹھائے ہوئے تھے۔ قبائل عرب میں سب کے پاس الویہ و رايات (چھوٹے سے بڑے جھنڈے) تھے جنہیں انہیں کی نامزد جماعت اٹھائے ہوئے تھی۔

رسول اللہ ﷺ جس روز مکے سے روانہ ہوئے آپؐ نے سلیم کو مقدمہ بنایا اور ان پر خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کو عامل کیا برابر وہی آپؐ کے مقدمہ پر عامل رہے یہاں تک کہ وہ ہجرانہ میں اترے۔

مسلمانوں پر اچانک حملہ:

رسول اللہ ﷺ وادی حنین میں تیاری کے ساتھ پہنچے آپؐ سفید خمر دلدل پر سوار ہوئے دوز رہیں اور مغر و خود پہنی پھر ہوازن کے آگے کوئی شے نظر آئی جس کے مثل تاریکی و کثرت کبھی انہوں نے نہ دیکھی تھی اور صبح کے وقت کی تاریکی میں تھی۔

وادی کے تنگ راستوں اور اس کی گھاٹیوں میں سے لشکر نکلے انہوں نے ایک دم سے حملہ کر دیا نبی سلیم اور ان کے ساتھ اہل مکہ اور دوسرے لوگ پشت پھیر کر بھاگے۔

رسول اللہ ﷺ کہنے لگے اے اللہ اور اس کے مددگارو! میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ رسول اللہ ﷺ

شکر کی طرف واپس آئے آپ کے پاس وہ لوگ بھی لوٹے جو بھاگے تھے۔

ثابت قدم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اسمائے گرامی:

اس روز آپ کے ہمراہ عباس بن عبدالمطلب، علی بن ابی طالب، فضل بن عباس، ابوسفیان بن عبدالمطلب، ربیعہ بن الحارث بن عبدالمطلب، ابوبکر و عمر اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم اپنے چند گھر والوں اور ساتھیوں کے ہمراہ ثابت قدم رہے۔
مسلمانوں کا شدید جوانی حملہ:

عباس رضی اللہ عنہ سے آپ فرمانے لگے کہ تم یہ ندا دؤ اے گروہ انصار، اے اصحاب السمر، اے اصحاب سورۃ البقرہ، انہوں نے ندا دی اور وہ تھے بھی بڑی آواز والے لوگ اس طرح متوجہ ہوئے گویا وہ اونٹ ہیں جب وہ اپنے بچوں پر شفقت کرے ان لوگوں نے کہا: یا لبیک یا لبیک، پھر مشرکین پر حملہ کر دیا۔

رسول اللہ ﷺ نے نظر اٹھائی اور ان کا لڑنا دیکھا تو فرمایا: اب جنگ شروع ہو گئی میں نبی ہوں غلط نہیں ہے میں عبدالمطلب کا فرزند ہوں، پھر عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے کنکریاں دؤ انہوں نے آپ کو زمین سے کنکریاں دیں آپ نے شاہت الوجوہ (چہرے برے ہوں) کہہ کر وہ کنکریاں مشرکین کے چہروں پر پھینک دیں اور فرمایا رب کعبہ کی قسم ہے بھاگو! اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا وہ اس طرح بھاگے کہ ان میں سے کوئی کسی طرف رخ نہ کرتا۔
قتل عام:

رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ جس پر بس چلے اسے قتل کر دیا جائے مسلمان غضبناک ہو کر انہیں قتل کر رہے تھے حتیٰ کہ عورت اور بچے بھی ان سے نہ بچے رسول اللہ ﷺ کو معلوم ہوا تو آپ نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع کیا۔ حنین کے روز ملائکہ کی شناخت سرخ عمامے سے تھی جنہیں وہ اپنے شانوں کے درمیان لٹکائے ہوئے تھے۔
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص کسی کو قتل کرے اور اس کے پاس اس پر شہادت بھی ہو تو اس کا اسباب اس (قاتل) کے لیے ہے۔

کفار کی پسپائی:

رسول اللہ ﷺ نے دشمن کی تلاش کا حکم دیا، ان میں سے بعض پہنچے، بعض نکلے کی طرف اور ان کی ایک جماعت اوطاس روانہ ہوئی۔

ابو عامر رضی اللہ عنہ کی شہادت:

رسول اللہ ﷺ نے ابو عامر الاشعری کے لیے لواء (چھوٹا جھنڈا) باندھا، انہیں لوگوں کی تلاش میں روانہ کیا، ہمراہ سلم بن الاکوع بھی تھے مسلمان جب مشرکین کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ وہ لوگ رک رہے تھے ابو عامر نے ان میں سے نو جنگجویوں کو قتل کر دیا۔ دسواں آدمی ظاہر ہوا جو زرد عمامہ باندھے ہوئے تھا۔ اس نے ابو عامر کو تلواریں اور قتل کر دیا۔

ابوموسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کے لئے نیابت کا اعزاز:

ابو عامر نے ابوموسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا انہوں نے ان لوگوں سے جنگ کی یہاں تک کہ اللہ نے فتح دی انہوں نے ابو عامر کے قاتل کو بھی قتل کر دیا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے اللہ! ابو عامر کی مغفرت فرما اور انہیں جنت میں میری امت کے اعلیٰ طبقے میں کر۔ آپ نے ابوموسیٰ کے لیے بھی دعاء کی۔
شہدائے غزوہ حنین کے اسمائے گرامی:

مسلمانوں میں سے ایمن بن عبید بن زید الخزرجی جو ام ایمن کے بیٹے اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کے اخیانی بھائی تھے، سراقہ بن الحارث، رقیم بن ثعلبہ بن زید لؤذان بھی قتل ہوئے، بنی نصر بن معاویہ کے ساتھ جنگ بہت شدید ہوئی پھر بنی رباب کے ساتھ عبداللہ بن قیس نے جو مسلمان تھے کہا کہ بنی رباب تو ہلاک ہو گئے۔
مالک بن عوف کا فرار:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے اللہ! ان مسلمانوں کی مصیبت (کی مکافات) پوری کر دے، مالک بن عوف گھائیوں میں سے ایک گھائی پر کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ اس کے کمر و ساق تھیں چلے گئے اور ان کا آخری آدمی تک آ گیا، پھر وہ (مالک) بھاگا اور قصر بلہ میں پناہ لی اور کہا جاتا ہے کہ ثقیف کے قلعے میں داخل ہو گیا۔
اسیران جنگ و مال غنیمت:

رسول اللہ ﷺ نے قیدیوں اور اموال غنیمت کے جمع کرنے کا حکم دیا، وہ سب یکجا کیا گیا۔ مسلمانوں نے اس کو جہرا نہ میں منتقل کر دیا، وہاں رکا رہا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ طائف سے واپس ہوئے مسلمان اپنے اپنے سائبانوں میں تھے جہاں وہ دھوپ سے بچاؤ میں تھے قیدی چھ ہزار تھے۔ اونٹ چوبیس ہزار، بکریاں چالیس ہزار سے زائد اور چار ہزار اوقیہ چاندی۔
رسول اللہ ﷺ نے قیدیوں (کے فیصلے) میں اس لیے دیر فرمادی کہ شاید ان کا وفد آپ ﷺ کے پاس آئے، آپ نے مال سے ابتداء کی اسے تقسیم کیا، سب سے پہلے ان لوگوں کو دیا جن کی تالیف قلب مقصود تھی۔
مال غنیمت کی تقسیم:

حکیم بن حزام کو سواونٹ دیئے، اس نے آپ سے درخواست کی تو آپ نے اور بھی دیئے، آپ نے نصر بن الحارث بن کندہ کو سواونٹ دیئے، اسید بن جاریہ اشقی کو بھی اونٹ دیئے، علاء بن حارثہ اشقی کو پچاس اونٹ دیئے۔ حویطب بن عبدالعزیٰ کو سواونٹ دیئے، ہشام بن عمرو العامری کو ۵ اونٹ دیئے، اقرع بن حابس اشقی کو سواونٹ دیئے، عیینہ بن حصن کو سواونٹ دیئے۔ مالک بن عوف کو سواونٹ دیئے، عباس بن مرداس کو چالیس اونٹ دیئے تو اس نے اس کے بارے میں ایک شعر کہا، آپ نے اسے سواونٹ دیئے اور کہا جاتا ہے کہ ۵ دیئے۔

یہ سب آپ نے خمس میں سے دیا اور یہی تمام اقوال میں ہمارے نزدیک سب سے زیادہ ثابت ہے، آپ نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو لوگوں پر تقسیم کر دیا، ہر شخص کے حصہ میں چار اونٹ اور چالیس بکریاں ہوئیں، اگر کوئی سوار تھا تو اس نے بارہ اونٹ

اور ایک سو بیس بکریاں لیں اور اگر اس کے ہمراہ ایک گھوڑے سے زائد تھا تو اس کا حصہ نہیں لگایا گیا۔
حضور ﷺ کے رضاعی چچا ابو زرقان کی سفارش:

رسول اللہ ﷺ کے پاس ہوازن کا وفد آیا جن کا رئیس زہیر بن صرد تھا، ان میں رسول اللہ ﷺ کا رضاعی چچا ابو زرقان بھی تھا ان لوگوں نے آپ سے سفارش کی کہ آپ قیدیوں کے معاملہ میں احسان کریں فرمایا کہ میں تمہیں اپنی عورتیں اور بچے سے زیادہ محبوب ہیں یا مال، انہوں نے کہا کہ ہم شمار میں کوئی چیز برابر نہیں کر سکتے، فرمایا جو میرا اور عبدالمطلب کی اولاد کا ہے وہ تو تمہارا ہے اور میں تمہارے لیے لوگوں سے درخواست کروں گا۔
مال غنیمت کی واپسی:

مہاجرین و انصار نے کہا کہ جو ہمارا ہے وہ رسول اللہ ﷺ کا ہے مگر اقرع بن حابس نے کہا کہ میں اور بنی تمیم تو نہ دیں گے۔ عیینہ بن حصن نے کہا کہ میں اور بنی فزارہ (دیں گے) بنو سلیم نے کہا جو ہمارا ہے وہ رسول اللہ ﷺ کا ہے تو عباس بن مرداس نے کہا کہ تم لوگوں نے میری توہین کی۔
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ جماعت (وفد کی) مسلمان ہو کر آئی ہے میں نے ان کے قیدیوں کے فیصلے میں تاخیر کی تھی، میں نے انہیں اختیار دیا تھا مگر انہوں نے عورتوں اور بچوں کے مساوی کسی چیز کو نہیں کیا جس کے پاس ان میں سے کوئی ہو اور وہ دل سے واپس کرنے پر راضی ہو تو یہ راستہ اچھا ہے جو نہ راضی ہو تو وہ بھی انہیں واپس کر دے مگر یہ ہم پر قرض ہوگا ان چھ حصوں میں جو اللہ ہمیں سب سے پہلے غنیمت دے گا۔
انہوں نے کہا ہم راضی ہیں اور ہم نے مان لیا، انہوں نے ان کی عورتیں اور بچے واپس کر دیئے ان میں سے سوائے عیینہ بن حصن کے کسی نے اختلاف نہیں کیا اس نے ان کی اس بڑھیا کے واپس کرنے سے انکار کیا جو اس کے قبضہ میں آگئی تھی آخر اس کو بھی اس نے واپس کر دیا۔

رسول اللہ ﷺ نے قیدیوں کو ایک ایک قبلیہ (قبط کا کپڑا) پہنایا تھا۔
انصار کی تشویش و اظہار اطمینان:

جب انصار نے رسول اللہ ﷺ کی وہ عطا دیکھی جو قریش اور عرب میں تھی تو انہوں نے اس کے بارے میں گفتگو کی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اے گروہ انصار کیا تم راضی نہیں ہو کہ لوگ بکریاں اور اونٹ لے کر واپس جائیں اور تم رسول اللہ ﷺ کو لے کے اپنے کجاوؤں کی طرف واپس جاؤ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ ہم تقسیم اور حصہ میں آپ پر راضی ہو گئے۔
انصار کے لیے دعائے نبوی ﷺ:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے اللہ انصار پر رحم فرما، انصار کے بیٹوں کے بیٹوں پر رحم فرما، رسول اللہ ﷺ واپس ہوئے اور لوگ بھی متفرق ہو گئے رسول اللہ ﷺ شب پنجشنبہ ۵ ربیع الثانی کو جہنم پہنچے وہاں تیرہ روزہ مقیم رہے۔

جب مدینے کی واپسی کا ارادہ کیا تو آپؐ شب چار شنبہ ۱۸ رذی القعدہ کو روانہ ہوئے عمرہ کا احرام باندھا اور مکے میں داخل ہوئے پھر طواف سعی کی اور اپنا سرمہ ایا اسی رات آپؐ شب باش کی طرح حیرانہ واپس آئے، پنجشنبہ کی صبح ہوئی تو آپؐ مدینے واپس ہوئے آپؐ وادی حیرانہ میں چلے یہاں تک کہ سرف پر نکلے اور مر الظہر ان کا راستہ اختیار کیا، پھر مدینے کا۔ حضور ﷺ کی استقامت اور ثابت قدمی:

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ بارہ ہزار کے ہمراہ ہوازن میں آئے آپؐ نے ان میں سے اتنے ہی قتل کیے جتنے بدر کے دن قریش میں سے قتل کیے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے رختلی زمین سے مٹی لی پھر اسے ہمارے چہرے پر پھینکا جس سے ہم بھاگے۔

عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یوم حنین میں مسلمانوں اور مشرکوں میں مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں نے پشت پھیر لی میں نے رسول اللہ ﷺ کو اس حالت میں دیکھا کہ آپؐ کے ساتھ سوائے ابوسفیان بن الحارث بن عبدالمطلب کے کوئی نہ تھا وہ نبی ﷺ کی رکاب پکڑے ہوئے تھے نبی ﷺ نے مشرکین کی طرف تیزی کرنے میں کوتاہی نہیں کی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بلانے کا حکم:

پھر آپؐ کے پاس میں آیا، فخر کی لگام پکڑی، آپؐ اپنے سفید خچر پر تھے فرمایا: اے عباس پکارو! اے اصحاب السمرہ! میں بلند آواز والا آدمی تھا اپنی بلند آواز سے ندا دی، کہاں ہیں اصحاب السمرہ! وہ اس اونٹ کی طرح جو اپنے بچوں پر شفقت کرے یا لبیک یا لبیک یا لبیک کہتے ہوئے آئے۔

مشرکین بھی آئے۔ ان کا اور مسلمانوں کا مقابلہ ہوا، دو مرتبہ انصار نے ندا دی، اے گروہ انصار! اے گروہ انصار! پھر ندا (پکار) صرف بنی حارث بن الخزرج ہی میں رہ گئی، انہوں نے ندا دی، اے بنی حارث بن الخزرج۔

نبی ﷺ نے اپنے خچر پر سے اونچے ہو کر ان کی لڑائی معائنہ فرمائی اور کہا: یہ وقت جنگ کے گرم ہونے کا ہے، آپؐ نے اپنے ہاتھ میں کنکریاں لیں اور انہیں پھینک دیا، پھر فرمایا رب کعبہ کی قسم بھاگو! واللہ ان کی حالت بدلتی رہی ان کی تلوار کند ہوتی رہی، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں شکست دے دی۔

اسیران جنگ کی رہائی:

زہری نے کہا کہ مجھے ابن المسیب نے خبر دی کہ اس روز مسلمانوں کو چھ ہزار قیدی ملے مشرکین مسلمان ہو کر آئے اور کہا اے نبی اللہ! آپؐ کوگوں میں سب سے بہتر ہیں آپؐ نے ہمارے مال، عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ فرمایا: میرے پاس وہی قیدی ہیں جو تم دیکھ رہے ہو، سب سے بہتر بات وہ ہے جو سب سے زیادہ سچی ہو تمہیں اختیار ہے کہ یا تو تم مجھ سے اپنے بچوں اور عورتوں کو لے لو یا اپنا مال۔

انہوں نے کہا ہم لوگ ایسے نہیں ہیں کہ حساب میں کوئی چیز عورتوں اور بچوں کے مساوی کریں۔ نبی ﷺ خطبہ پڑھتے ہوئے اٹھے اور فرمایا کہ یہ لوگ مسلمان ہو کر آئے ہیں ہم نے عورتوں بچوں اور مال میں اختیار دیا

تھا، مگر انہوں نے حساب میں کسی چیز کو عورتوں اور بچوں کے مساوی نہیں کیا، لہذا جس کے پاس ان میں سے کچھ ہو اور اس کا دل واپس کرنے پر راضی ہو تو یہ راستہ بہتر ہے جو راضی نہ ہو تو وہ ہمیں دے دے، یہ ہم پر قرض ہوگا، جب ہم کچھ پائیں گے تو یہ قرض ادا کر دیں گے۔ انہوں نے کہا یا نبی اللہ ہم راضی ہیں اور تسلیم کرتے ہیں، آپؐ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم شاید تم میں کوئی ایسا موجود ہو جو راضی نہ ہو، لہذا تم لوگ اپنے نمائندے بھیجو جو ہمارے پاس اسے پیش کریں، آپؐ کے پاس نمائندے پیش کیے گئے کہ وہ لوگ راضی ہیں اور تسلیم کرتے ہیں۔

میدان جنگ کا حالت:

ابو عبد الرحمن الفہری سے مروی ہے کہ غزوہ حنین میں ہم رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ تھے، سخت تیز اور شدید گرمی والے دن روانہ ہوئے ایک درخت کے سائے کے نیچے اترے، جب آفتاب ڈھل گیا تو میں نے اپنی زرہ پہنی گھوڑے پر سوار ہو کر رسول اللہ ﷺ کی جانب روانہ ہوا، آنحضرت ﷺ اپنے خیمے میں تھے میں نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ علیک، چلنے کا وقت آگیا، آپؐ نے فرمایا اچھا پھر فرمایا اے بلال وہ بول کے نیچے سے اس طرح اٹھے کہ گویا ان کا سایہ طائر (چڑیا) کا سایہ ہے اور کہا: بلیک وسعدیک میں آپؐ پر فدا ہوں، آپؐ نے فرمایا میرے گھوڑے پر زین کس دو۔

انہوں نے ایک زین نکالی جس کے دونوں دامن کھجور کی چھال کے تھے مگر کچھ نقص نہ تھا زین کس دی آپؐ سوار ہوئے اور ہمراہ ہم بھی سوار ہوئے، رات بھر ہم نے ان کے مقابلہ میں صف بندی کی دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کی بوسو گھسی، مسلمانوں نے پشت پھیر لی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: نبی ﷺ نے فرمایا اے اللہ کے بندو میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں پھر فرمایا اے گروہ مہاجرین میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔

رسول اللہ ﷺ گھوڑے پر سے کود پڑے، آپؐ نے ایک مٹھی مٹی لی، مجھے انہوں نے خبر دی جو مجھ سے زیادہ آپؐ کے نزدیک تھے کہ وہ مٹی آپؐ مشرکین کے منہ پر ماری اور فرمایا چہرے برے ہوں اللہ نے ان کو شکست دے دی۔

بارش کا نزول:

یعنی بن عطاء نے بیان کیا کہ مجھ سے ان (مشرکین) کے بیٹوں نے اپنے اپنے والد سے بیان کیا ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہ تھا جس کی دونوں آنکھیں اور منہ میں مٹی نہ بھری ہو پھر ہم نے آسمان اور زمین کے درمیان ایک آواز مثل اس آواز کے سنی جو لوہے کے (صیقل کے لیے) نئے طشت پر گزرنے سے پیدا ہوتی ہے۔

سمرہ سے مروی ہے کہ یوم حنین بارش کا دن تھا رسول اللہ ﷺ نے منادی کو حکم دیا تو اس نے ندا دی کہ نماز کجاؤں میں ہوگی۔ ابوالحکیم کے والد سے مروی ہے کہ حنین میں ہم پر بارش ہوئی تو رسول اللہ ﷺ کے حکم سے منادی نے ندا دی کہ کجاؤں میں نماز ہوگی۔

کفار کو شکست:

عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یوم حنین میں ندا دی گئی کہ اے اصحاب سورۃ البقرہ وہ اپنی تلواروں کو لے کے

آئے جو شہاب (نوٹے ستاروں) کے تھیں، پھر اللہ نے مشرکین کو شکست دی۔
سریہ طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ:

شوال ۸ھ میں ذی الکفین کی جانب جو عمرو بن ثمرہ الدوسی کابٹ تھا طفیل بن عمرو الدوسی کا سریہ ہوا۔
ذی الکفین کا انہدام:

جب رسول اللہ ﷺ نے طائف جانے کا ارادہ کیا تو طفیل بن عمرو الدوسی کو ذی الکفین کی طرف بھیجا، جو عمرو بن ثمرہ الدوسی کابٹ تھا کہ وہ اسے منہدم کر دیں۔ ان کو آپؐ نے حکم دیا کہ اپنی قوم سے امداد حاصل کریں اور آپؐ کے پاس طائف میں آجائیں وہ تیزی کے ساتھ اپنی قوم کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے ذی الکفین کو منہدم کر دیا اس کے چہرے میں آگ لگانے لگے اسے جلانے لگے اور کہنے لگے:

يا ذا الكفين لست من عبادكا ميلادنا اقدام من ميلادكا

اِنِّي خَشِشْتُ النَّارَ فِي فِوَادِكَا

”اے ذوالکفین، ہم تیرے بندوں میں نہیں ہیں۔ ہماری ولادت تیری ولادت سے پہلے ہے میں نے تیرے دل میں آگ لگا دی۔“

ان کے ہمراہ قوم کے چار سو آدمی فوراً روانہ ہو گئے وہ رسول اللہ ﷺ کے طائف آنے کے چار روز بعد آپؐ کے پاس پہنچے آپؐ و بابہ (قلعہ شکن آلہ) اور منجیق (پتھر پھینکنے کا آلہ) بھی لائے آپؐ نے فرمایا: اے گروہ از د تمہارا جھنڈا کون اٹھائے گا؟ طفیل نے کہا کہ جو اسے جاہلیت (حالت کفر) میں اٹھاتے تھے وہ نعمان بن باز یہ اللہ ہی ہیں فرمایا تم نے درست کہا۔
غزوہ طائف:

شوال ۸ھ میں رسول اللہ ﷺ کا غزوہ طائف ہوا۔

بنو ثقیف کی قلعہ بندی:

رسول اللہ ﷺ حنین سے بقصد طائف روانہ ہوئے خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کو اپنے مقدمے پر آگے روانہ کیا، ثقیف نے اپنے قلعہ کی حرمت کر لی اس کے اندر اتنا سامان رکھ لیا تھا کہ ایک سال کے لیے کافی ہو جب وہ اوطاس سے بھاگے تو اپنے قلعے میں داخل ہو گئے اور اندر سے بند کر کے مقابلہ پر تیار ہو گئے۔
طائف کا محاصرہ:

رسول اللہ ﷺ قلعہ طائف کے قریب اترے اور اسی مقام پر آپؐ نے چھاؤنی بنائی ان لوگوں نے مسلمانوں پر ایسی سخت تیر اندازی کی کہ گویا وہ تیر نہیں مڑیوں کے پاؤں ہیں چند مسلمان زخمی اور بارہ شہید ہوئے جن میں عبد اللہ بن ابی امیہ بن المغیرہ اور سعید بن العاص بھی تھے۔

اس روز عبد اللہ بن ابی بکر کے تیر لگا زخم مندمل ہو گیا۔ لیکن پھر کھل گیا۔ جس سے وہ انتقال کر گئے۔

رسول اللہ ﷺ اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جہاں آج مسجد طائف ہے آپ کی ازواج میں سے ہمراہ ام سلمہ اور نہنب تھیں ان دونوں کے لیے دو خیمے نصب کیے گئے آپ پورے محاصرے کے زمانے میں دونوں خیموں کے درمیان نماز پڑھتے تھے آپ نے اٹھارہ روز تک محاصرہ کیا ان پر متحیق (آلہ سنگباری) نصب کیا، قلعے کے گرد اگر دستقیمین نے لکڑیوں سے حنک (گیاہ خاردار یا گوکھرو) پھیلا دیا، ان پر ثقیف نے تیر اندازی کی جس سے چند آدمی مارے گئے۔

رسول اللہ ﷺ نے انگوڑ کے باغ کاٹنے اور جلانے کا حکم دیا، مسلمانوں نے بکثرت باغ کاٹ ڈالے ان لوگوں نے آپ سے درخواست کی کہ ان باغوں کو اللہ کے لیے رحم کر کے چھوڑ دیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں اللہ کے لیے رحم کر کے چھوڑتا ہوں۔

غلامان طائف کی آزادی کا اعلان:

رسول اللہ ﷺ کے منادی نے ندا دی کہ جو غلام ہمارے پاس قلعہ سے اتر آئے گا وہ آزاد ہوگا، ان میں دس زائد آدمی نکلے جن میں ابوبکر بھی تھے چونکہ وہ ایک ایک جماعت (بکرہ کے ساتھ اترے اس لیے ابوبکر جماعت کے باپ) کہا گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے انہیں آزاد کر دیا، ان میں سے ہر شخص کو ایک ایک مسلمان کے سپرد کر دیا جو اس کا خرچ برداشت کرتا تھا۔ اہل طائف پر یہ بہت ہی شاق گزرا۔

رسول اللہ ﷺ کا نوفل بن معاویہ سے مشورہ:

رسول اللہ ﷺ کو (منجانب اللہ) فتح طائف کی اجازت نہیں دی گئی تھی، آپ نے نوفل بن معاویہ الدبلی سے مشورہ طلب فرمایا کہ تم کیا مناسب سمجھتے ہو انہوں نے کہا: ایک لومڑی اپنے سوراخ میں ہے اگر آپ اس پر کھڑے رہیں گے تو اسے پکڑ لیں گے اور اگر آپ اسے چھوڑ دیں گے تو وہ آپ کا نقصان نہ کرے گی۔ طائف سے واپسی کا حکم:

رسول اللہ ﷺ نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے کوچ کا اعلان کیا لوگوں نے شور مچایا اور کہا ہم کیسے کوچ کریں درآں حالیکہ طائف ابھی فتح نہیں ہوا؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، صبح کے وقت لڑائی پر جاؤ، لوگ گئے تو زخمی ہو کر واپس آئے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ان شاء اللہ ہم واپس ہوں گے، وہ اس سے خوش ہوئے انہوں نے اقرار کیا اور کوچ کرنے لگے حالانکہ رسول اللہ ﷺ بے بس رہے تھے۔

ان سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کہو! سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں جو یکتا و تنہا ہے اس نے اپنا وعدہ سچا کیا، اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا اسی نے گروہوں کو شکست دی۔

جب وہ لوگ روانہ ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہو! (ہم) لوٹنے والے توبہ کرنے والے اپنے رب کی عبادت کرنے والے حمد کرنے والے ہیں۔ کہا گیا یا رسول اللہ ﷺ ثقیف کے لیے اللہ سے بددعا کیجئے آپ نے فرمایا کہ اے اللہ ثقیف کو

ہدایت کر اور انہیں لے آئے۔

حسن سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اہل طائف کا محاصرہ کیا اس کی دیوار پر سے ایک شخص کو تیر مار کر قتل کیا گیا، عمر نے آ کر عرض کی یا نبی اللہ ثقیف کے لیے بددعاء کیجئے آپؐ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ثقیف کے بارے میں اجازت نہیں دی، اس قوم سے ہم کیونکر لڑیں جن کے بارے میں اللہ نے اجازت نہیں دی، فرمایا کوچ کرو، ارشاد نبوی کی تعمیل کی گئی۔

مکحول سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اہل طائف پر چالیس روز تک منجیق نصب کی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے طائف کے دن فرمایا غلاموں میں سے جو ہمارے پاس نکل آئے گا آزاد ہوگا ان غلاموں میں سے چند غلام نکل آئے جن میں ابوبکر بھی تھے رسول اللہ ﷺ نے سب کو آزاد کر دیا۔

محاصل کی وصولی:

رسول اللہ ﷺ نے جب محرم ۹ھ کا چاند دیکھا تو محصلوں کو عرب سے صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا، آپؐ نے عیینہ بن حسن کو تمیم کی طرف بھیجا کہ وہ ان سے صدقہ وصول کریں بریدہ بن الحصیب کو اسلم وغفار کی طرف اور کہا جاتا ہے کہ (بجائے بریدہ کے) کعب بن مالک کو عباد بن بشر الاشہلی کو سلیم و مزینہ کی طرف، رافع بن ملکیت کو جہینہ کی طرف عمرو بن العاص کو بنی فزارہ کی طرف ضحاک بن سفیان الکلابی کو بنی کلاب کی طرف، بسر بن سفیان الکعبی کو بنی کعب کی طرف، بھیجا ابن العجیہ الازدی کو بنی ذبیان کی طرف اور سعد ہذیم کے ایک شخص کو آپؐ نے ان کے صدقات جمع کرنے پر روانہ کیا، رسول اللہ ﷺ نے اپنے مصدقین (صدقہ وصول کرنے والے) کو حکم دیا کہ جو زیادہ ہو وہ ان سے لے لیں اور ان کے عمدہ مالوں سے بچیں۔

سریہ عیینہ بن حصن الفزاری:

محرم ۹ھ میں بنی تمیم کی جانب سریہ عیینہ بن حصن الفزاری ہوا جو السقیاء اور زمین بنی تمیم کے درمیان تھے نے عیینہ بن حصن الفزاری کو پچاس عرب سواروں کے ہمراہ جن میں نہ کوئی مہاجر تھا۔ نہ انصار بنی تمیم کی جانب روانہ کیا، وہ رات بھر چلے اور دن بھر پوشیدہ رہے پھر ان پر ایک جنگل میں انہوں نے حملہ کر دیا۔

مشرکین اپنے مویشی چرا رہے تھے کہ مسلمانوں کو دیکھا اور بھاگے ان میں سے گیارہ آدمی گرفتار کیے گئے، انہوں نے محلے میں گیارہ عورتیں اور تیس بچے پائے تو انہیں بھی مدینے گھسیٹ لائے۔ رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ وہ رملہ بنت الحارث کے مکان میں قید کر دیئے جائیں۔

قبیلے کے متعدد رئیس، جن میں عطار بن سعد حاجب، البرقان بن بدر، قیس بن عاضم، الاقرع بن حابس، قیس بن الحارث، نعیم بن سعد، عمرو بن الاعم، اور رباح بن الحارث بن جاشع بھی تھے آئے۔

جب ان قیدیوں نے ان کو دیکھا تو عورتیں اور بچے ان کے آگے رونے لگے یہ غلٹ کر کے نبی ﷺ کے دروازہ کی طرف آئے اور پکارا کہ یا محمد ہماری طرف نکلے رسول اللہ ﷺ برآمد ہوئے حالانکہ بلال نے نماز کی اقامت کہہ دی تھی وہ لوگ رسول اللہ ﷺ سے لپٹ کر گھٹکھٹکھٹ کرنے لگے اور آپؐ ان کے پاس ٹھہر گئے، پھر آپؐ چلے گئے اور نماز ظہر پڑھ کر مسجد کے صحن میں

بیٹھ گئے۔

انہوں نے عطار بن حاجب کو آگے کیا، اس نے گفتگو کی اور تقریر کی رسول اللہ ﷺ نے ثابت بن شماس کو حکم دیا تو انہوں نے جواب دیا، انہیں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی:

﴿ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون﴾

”جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔“

(رسول اللہ ﷺ نے ان کے اسیر و قیدی واپس کر دیے)۔

بنی المصطلق سے محصولات کی وصولی:

رسول اللہ ﷺ نے ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو بنی المصطلق کی جانب بھیجا جو خزاعہ میں تھے، وہ لوگ اسلام لے آئے تھے اور مساجد بنائی تھیں جب انہوں نے ولید کے نزدیک آنے کی خبر سنی تو ان میں سے بیس آدمی ولید کی خوشی میں اونٹ بکریاں ان کے پاس لے جانے کو نکلے۔

جب انہوں نے ان کو دیکھا تو مدینے واپس آئے اور نبی ﷺ کو خبر دی کہ انہوں نے ہتھیاروں سے مقابلہ کیا اور صدقہ جمع کرنے میں مزاحم ہوئے رسول اللہ ﷺ نے ان کی جانب ان لوگوں کے بھیجنے کا ارادہ کیا جو ان سے جنگ کریں۔

یہ خبر اس قوم کو پہنچی تو آپ کے پاس دو سو آئے جو ولید سے ملے تھے انہوں نے واقعے کی صورت سے نبی ﷺ کو آگاہ کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ﴾

”اے ایمان والو! اگر تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لائے تو اچھی طرح معلوم کر لو تا کہ ناواقفی سے کسی قوم کو مصیبت نہ پہنچاؤ۔“

رسول اللہ ﷺ نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ ان کے ہمراہ عباد بن بشر کو بھیجا کہ وہ ان کے اموال کے صدقات لے لیں انہیں شرائع اسلام سے آگاہ کریں اور قرآن پڑھائیں رسول اللہ ﷺ نے جو حکم دیا، عبادہ نہ تو اسے سے بڑھے اور نہ انہوں نے کوئی حق ضائع کیا، ان کے پاس وہ دس روز رہے پھر خوشی خوشی رسول اللہ ﷺ کے پاس آ گئے۔

سریہ قطبہ بن عامر بن حدیدہ:

صفر ۹ھ میں قطبہ بن عامر بن حدیدہ کا نواہیشہ قریب تر بنہ بن خثعم کی جانب سریہ ہوا۔

رسول اللہ ﷺ نے قطبہ بن عامر بن حدیدہ کو بیس آدمیوں کے ہمراہ قبیلہ خثعم کی جانب نواہیشہ میں بھیجا انہیں یہ حکم دیا کہ ایک دم سے ان پر حملہ کریں وہ دس اونٹ پر سوار ہو کر روانہ ہوئے جنہیں باری باری استعمال کرتے تھے۔

انہوں نے ایک آدمی کو پکڑ کر اس سے دریافت کیا تو وہ ان کے سامنے گونگا بن گیا۔ پھر قبیلہ کو پکارنے لگا، ان لوگوں نے اس کی گردن ماروئی پھر اتنی مہلت دے دی کہ قبیلہ سو گیا تو انہوں نے ایک دم سے ان پر حملہ کر دیا اتنی سخت جنگ ہوئی کہ دونوں

فریق میں مجروحین کی کثرت ہوگئی، قطبہ بن عامر نے جسے قتل کیا اسے قتل کیا۔

یہ لوگ اونٹ بکریاں مدینے ہنکالائے، ایک سیلاب آگیا جو مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان حائل ہو گیا وہ لوگ قطبہ تک کوئی راستہ نہ پاتے تھے، قس نکالنے کے بعد ان کے حصے میں چار اونٹ آئے ایک اونٹ دس بکریوں کے برابر کیا گیا۔
سریہ ضحاک بن سفیان الکلابی:

ربیع الاول ۹ھ میں بجانب بنی کلاب سریہ ضحاک بن سفیان الکلابی ہوا۔ رسول اللہ ﷺ نے القیر طاء کی جانب ایک لشکر بھیجا جن پر ضحاک بن سفیان بن عوف بن ابی بکر الکلابی امیر تھے ان کے ہمراہ اصید بن سلمہ بن قرط بھی تھے۔ الزج لا دائیں یہ ان لوگوں سے ملے اور انہیں اسلام کی دعوت دی مگر انہوں نے انکار کیا تو ان لوگوں نے ان سے جنگ کی اور شکست دی۔
اصید اپنے والد سلمہ سے ملے جو گھوڑے پر سوار الزج کے ایک تالاب میں تھا انہوں نے اپنے والد کو اسلام کی دعوت دی مگر اس نے ان کو اور ان کے دین کو برا کہا، اصید نے اپنے والد کے گھوڑے کے دونوں پیروں پر تلوار ماری، گھوڑا گر پڑا تو سلمہ اپنے نیزے کے سہارے سے پانی میں کھڑا ہو گیا۔ سلمہ کو وہ پکڑے رہے یہاں تک کہ اس کے پاس کوئی اور آیا جس نے اسے قتل کیا اسے اس کے فرزند نے قتل نہیں کیا۔
سریہ علقمہ بن مجز المذحجی:

ربیع الآخر ۹ھ میں الحسبہ کی جانب سریہ علقمہ بن مجز المذحجی ہوا۔ رسول اللہ ﷺ کو معلوم ہوا کہ الحسبہ کے کچھ لوگ ہیں جنہیں اہل جدہ نے دیکھا، آپ نے ان کی جانب علقمہ بن مجز کو تین سو آدمیوں کے ہمراہ روانہ کیا، وہ سمندر میں ایک جزیرے تک پہنچے سمندر ان کی طرف چڑھ گیا وہ لوگ اس سے بھاگے۔
سمندر اتر گیا، بعض جماعت والوں نے اپنے اہل و عیال کی طرف جانے میں عجلت کی تو انہیں اجازت دے دی، عبداللہ بن حذافہ السہمی نے بھی عجلت کی تو ان کو انہوں نے عجلت کرنے والوں پر امیر بنا دیا، عبداللہ میں مزاح (ہنسی) کی عادت تھی۔ یہ لوگ راستہ میں کہیں اترے آگ سلاگ کرتا پنے اور کھانا پکانے لگے عبداللہ نے کہا کہ میں نے تم لوگوں پر یہ مقرر کیا ہے کہ اس آگ میں بعض ان میں سے کھڑے ہو جاؤ اور جمع ہو جاؤ۔

عبداللہ نے خیال کیا کہ اب یہ لوگ اس میں کودیں گے تو کہا بیٹھو میں تو تمہارے ساتھ صرف ہنسی کرتا تھا، انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا اگر تمہیں کوئی معصیت کا حکم دے تو اس کی اطاعت نہ کرو۔
سریہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بجانب قبیلہ طے:

ربیع الآخر ۹ھ میں قبیلہ طے کے بت الفلس کی جانب علی بن طالب رضی اللہ عنہ کا سریہ ہوا۔ رسول اللہ ﷺ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو ڈیڑھ سو انصار کے ہمراہ سوا دھڑوں پر اور پچاس گھوڑوں پر الفلس کی جانب روانہ کیا تا کہ وہ اسے منہدم کر دیں۔ ان کے ہمراہ رابیع (بڑا جھنڈا) سیاہ اور لواء (چھوٹا جھنڈا) سفید تھا۔
وہ فجر ہوتے ہی آل حاتم کے محلے پر ایک دم ٹوٹ پڑے، الفلس کو منہدم اور خراب کر دیا، انہوں نے اپنے ہاتھ قیدیوں

اور اونٹوں اور بکریوں سے بھر لیے قیدیوں میں عدی بن حاتم کی بہن بھی تھی۔

الفلس کے خزانے میں تلواریں پائی گئیں جن میں سے ایک کا نام ”رسوب“ دوسری کا ”الحخذم“ اور تیسری کا الیمانی تھا۔ اور تین زرہیں بھی ملیں۔

رسول اللہ ﷺ نے قیدیوں پر ابوقنادہ کو عامل بنایا تھا اور مویشی اور اسباب پر عبد اللہ بن عتیک کو وہ لوگ جب رکک میں اترے تو مال غنیمت تقسیم کر لیا۔

نبی ﷺ کے حصے میں رسوب اور الحخذم و مچھوڑ دی گئی بعد کو تیسری تلوار بھی آپ کے لیے آگئی اور خمس بھی نکال دیا گیا، آل حاتم کو چھوڑ دیا گیا ان کو انہوں نے تقسیم نہیں کیا اور مدینے لے آئے۔
سریہ عکاشہ بن محسن الاسدی رضی اللہ عنہ:

ربیع الآخر ۹ھ میں بجانب الجناب علاقہ عذرہ و بلی عکاشہ بن محسن الاسدی رضی اللہ عنہ کا سریہ ہوا۔
غزوہ تبوک:

رجب ۹ھ میں رسول اللہ ﷺ کا غزوہ تبوک ہوا۔

رسول اللہ ﷺ کو معلوم ہوا کہ شام میں رومیوں نے کثیر جمع کیا ہے، ہر قل نے اپنے ساتھیوں کو ایک سال کی تنخواہ دے دی ہے اس کے ہمراہ (قبیلہ) لخم و جزام و عاملہ و غسان کو بھی لایا گیا ہے اور اپنے مقدمات الجیوش کو البقاء تک بھیج دیا ہے۔
رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو روانگی کے لیے بلایا انہیں وہ مقام بتایا جس کا آپ قصد فرماتے تھے تاکہ وہ لوگ تیار ہو جائیں آپ نے مکے اور قبل عرب میں قاصد بھیج کر ان سے بھی کمک طلب کی یہ سخت گرمی کا زمانہ تھا انہیں صدقے کا حکم دیا گیا، لوگ بہت سے صدقات لائے انہوں نے اللہ کے راستہ میں مضبوط کر دیا۔

کچھ رونے والے لوگ آئے جو سات تھے آپ سے سواری چاہتے تھے آپ نے فرمایا میرے پاس کچھ نہیں ہے جس پر میں تمہیں سوار کروں، وہ اس طرح واپس ہوئے کہ اس غم سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ انہیں وہ چیز نہیں ملی جسے وہ خرچ کریں۔

یہ لوگ سالم بن عمیر، ہری بن عمرو، علیہ بن زید، ابولیلی المازنی، عمرو بن عمنہ، سلمہ بن صحر اور عرابض بن ساریہ رضی اللہ عنہ تھے۔
بعض روایات میں ہے کہ ان میں عبد اللہ بن مغفل اور معقل بن یسار بھی تھے بعض راوی کہتے ہیں کہ انہیں وہ چیز نہیں ملی جسے وہ خرچ کریں۔

منافقین کا جہاد سے گریز:

کچھ منافق آئے جو رسول اللہ ﷺ سے بغیر کسی سبب کے پیچھے رہ جانے کی اجازت چاہتے آپ نے انہیں اجازت دے دی وہ لوگ اسی سے کچھ زائد تھے۔

اعراب میں سے بیاسی آدمی جو جھوٹا عذر کرنے والے تھے آئے کہ انہیں بھی رہ جانے کی اجازت دی جائے انہوں نے

آپؐ سے عذر کیا، مگر آپؐ نے ان کا عذر قبول نہیں کیا عبد اللہ بن ابی سلول نے اپنے منافق حلفاء کے ہمراہ ہتھیار الوداع میں لشکر قائم کیا تھا، کہا جاتا تھا کہ دونوں لشکروں میں اس کا لشکر کم نہیں تھا۔

نیابت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ:

رسول اللہ ﷺ نے اپنے لشکر پر ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا جو لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے مدینے پر محمد بن مسلمہ کو اپنا قائم مقام بنایا یہی رائے ہمارے نزدیک ان لوگوں سے زیادہ ثابت ہے جو کہتے ہیں آپؐ نے کسی اور کو خلیفہ بنایا۔
رسول اللہ ﷺ روانہ ہوئے تو عبد اللہ بن ابی اور جو اس کے ہمراہ تھے پیچھے رہ گئے چند مسلمان بھی بغیر کسی شک و شبہ کے پیچھے رہ گئے ان میں کعب بن مالک، ہلال بن ربیع، مرارہ بن الربیع، ابوخیثمہ السالمی اور ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ تھے۔
جیش عسره کی تبوک میں آمد:

رسول اللہ ﷺ نے انصار اور قبائل عرب کی ہر شاخ کو یہ حکم دیا کہ وہ لواء (چھوٹا جھنڈا) اور رایہ (بڑا جھنڈا) بنا لیں آپؐ اپنی مرضی کے مطابق روانہ ہو کر اپنے اصحاب کو لے چلے، تیس ہزار آدمی اور دس ہزار گھوڑوں کے ہمراہ آپؐ تبوک آئے وہاں بیس شب اس طرح قیام کیا کہ دو رکعت نماز (قصر) پڑھتے تھے وہیں ابوخیثمہ السالمی اور ابوذر الغفاری رضی اللہ عنہ آپؐ سے ملے۔

اکیدر بن عبد الملک کی گرفتاری:

ہرقل اس زمانے میں حمص میں تھا رسول اللہ ﷺ نے خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کو چار سو بیس سواروں کے ہمراہ رجب ۹ھ میں بطور سریہ اکیدر بن عبد الملک کی جانب دومۃ الجندل بھیجا جو مدینہ منورہ سے پندرہ رات کے راستہ پر تھا۔ اکیدر قبیلہ کنذہ میں سے تھا ان کا بادشاہ ہو گیا تھا اور نصرانی تھا خالد اس کے پاس ایسے وقت پہنچے کہ چاندنی رات میں وہ قلعہ سے نکل کر مع اپنے بھائی کے ایک نیل گائے کا شکار کھیل رہا تھا۔

خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کے لشکر نے اس پر حملہ کر دیا، اکیدر اسیر ہو گیا، اس کا بھائی حسان باز رہا، وہ لڑا یہاں تک کہ قتل ہو گیا، جو لوگ ان دونوں کے ہمراہ تھے وہ بھاگ کر قلعے میں داخل ہو گئے۔

مال غنیمت کی تقسیم:

خالد رضی اللہ عنہ نے اکیدر کو قتل سے پناہ دی اور اس شرط پر رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے۔ وہ دومۃ الجندل آپؐ کو دے دے گا اس نے منظور کیا اور خالد سے دو ہزار اونٹ آٹھ سو (راس) جانور، چار سو زہیں اور چار سو نیزے پر صلح کی انہوں نے نبی ﷺ کے لیے مخصوص حصہ نکالا اور بقیہ اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا ان میں سے ہر شخص کو پانچ پانچ حصہ ملے۔

اکیدر سے مصالحت:

خالد بن الولید رضی اللہ عنہ اکیدر اور اس کے بھائی مصاء کو جو قلعے میں تھا وہ سب سامان جس پر صلح کی تھی لے کے روانہ ہوئے، اکیدر کو رسول اللہ ﷺ کے پاس لائے اس نے آپؐ کو ہدیہ دیا، آپؐ نے اس سے جزیہ (ٹیکس) پر صلح کر لی اور وہ اور اس کا بھائی

دونوں محفوظ رہے دونوں کو آزاد کر دیا گیا رسول اللہ ﷺ نے اسے ایک فرمان لکھ دیا۔ جس میں ان کے امان اور شرائط صلح کا ذکر تھا۔ اس روز آپؐ نے فرمان پر اپنے انگوٹھے کا نشان بنایا۔
عباد ابن بشر کا حضور ﷺ پر پہرہ:

تبوک میں رسول اللہ ﷺ نے اپنی حفاظت اور پہرے پر عباد ابن بشر کو عامل کیا، وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ لشکر کا گشت کیا کرتے تھے آپؐ تبوک سے اس طرح واپس ہوئے کہ جنگ کی نوبت نہ آئی۔

رمضان ۹ھ میں آنحضرت ﷺ مدینے آئے تو فرمایا، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس سفر میں اجر و ثواب عطا فرمایا، آپؐ کے پاس وہ لوگ آئے جو پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے قسم کھائی تو آپؐ نے ان کا عذر قبول کیا اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔
سورہ توبہ کا نزول:

آپؐ نے کعب بن مالک اور ان کے دونوں ساتھیوں کے معاملے میں انتظار فرمایا یہاں تک کہ قرآن میں ان کی توبہ نازل ہوئی، مسلمان اپنے ہتھیار بیچنے لگے کہ جہاد ختم ہو گیا، یہ خبر رسول اللہ ﷺ کو پہنچی تو آپؐ نے انہیں منع کر دیا اور فرمایا میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر جہاد کرتی رہے گی تا آنکہ دجال ظاہر ہو۔
جیشِ عمرہ کی حالت:

کعب بن مالک سے مروی ہے کہ بہت کم ایسا ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے کسی غزوہ کا ارادہ فرمایا اور اسے دوسرے نام سے نہ چھپایا ہو، بجز غزوہ تبوک کے کہ اسے رسول اللہ ﷺ نے سخت گرمی میں کیا آپؐ نے سفر بعید اور کثیر دشمن کا مقابلہ کیا مسلمانوں سے آپؐ نے ان کا نام صاف صاف بیان کر دیا کہ وہ اپنے دشمن کی طرح تیار ہو جائیں اور انہیں آپؐ نے اپنے اس رخ سے آگاہ کر دیا جن کا آپؐ قصد فرماتے تھے۔

عبداللہ بن محمد بن عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے اللہ کے اس قول میں کہ ”الذین اتبعوه فی ساعة العسرة“ (جن لوگوں نے تنگی کے وقت آپؐ کی پیروی کی) مروی ہے کہ غزوہ تبوک میں دو دو اور تین تین آدمی ایک اونٹ پر تھے وہ سخت گرمی میں روانہ ہوئے ایک روز انہیں شدت کی پیاس لگی وہ اپنے اونٹوں کو ذبح کرنے لگے ان کی اوجھڑیاں نچوڑتے تھے اور یہ پانی پی لیتے تھے یہ پانی کی تنگی تھی اور یہ خرچ کی تنگی تھی۔
حضور ﷺ کا آخری غزوہ:

کعب بن مالک سے مروی ہے کہ نبی ﷺ تبوک میں پہنچے اور روانہ ہوئے یہ آپؐ کا آخری غزوہ تھا جسے آپؐ نے پسند کیا۔ آپؐ پہنچنے کی روانگی کو پسند فرماتے تھے۔

یحییٰ بن ابی کثیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے غزوہ تبوک کیا وہاں بیس رات مقیم رہے اور مسافروں کی نماز پڑھتے تھے۔

انس بن مالک سے مروی ہے کہ ہم لوگ غزوہ تبوک سے واپس ہوئے۔ جب مدینے کے قریب پہنچے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مدینے میں ایسی جماعتیں ہیں کہ تم نے کوئی راستہ طے کیا ہو یا کوئی وادی قطع کی ہو مگر وہ تمہارے ہی ساتھ رہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ وہ مدینے ہی میں تھے آپ نے فرمایا ہاں انہیں عذر نے روک لیا تھا۔

مراجعت مدینہ:

جابر سے مروی ہے کہ میں نے نبی ﷺ کو بعد اس کے کہ ہم لوگ مدینے واپس آ گئے غزوہ تبوک کے بارے میں کہتے سنا کہ مدینے میں ایسی جماعتیں ہیں کہ تم نے بغیر ان کے نہ کوئی راستہ طے کیا اور نہ کوئی وادی قطع کی ہر حال میں وہ تمہارے ہمراہ رہے (یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بیماری نے جہاد میں جانے سے روک لیا تھا)۔

حج بامارت ابو بکر الصديق ۱۱؎ کی شمولیت:

ذی الحجہ ۹ھ میں ابو بکر صدیق ۱۱؎ نے لوگوں کو حج کرایا۔

رسول اللہ ﷺ نے ابو بکر صدیق ۱۱؎ کو حج پر مامور کیا وہ مدینے سے تین سو آدمیوں کے ہمراہ روانہ ہوئے رسول اللہ ﷺ نے ان کے ساتھ میرا بدنہ (قربانی کے اونٹ) بھیجے جنہیں آپ نے اپنے ہاتھ سے ہار پہنا دیا تھا (اور اشعار کر دیا تھا اور اشعار یہ ہے کہ اونٹ کے کوہان میں برہمی مار کے خون نکال دیا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ حرم کی قربانی کے لیے ہے آپ نے ان (بدنہ) پر ناجیہ بن حنبل الاسلمی کو مقرر کیا اور ابو بکر ۱۱؎ پانچ بدنہ لے گئے۔

حضرت علی ۱۱؎ کی شمولیت:

جب وہ عرج میں تھے تو رسول اللہ ﷺ کی اونٹنی القصواء پر سوار ہو کر علی بن ابی طالب ۱۱؎ ان سے ملے ابو بکر ۱۱؎ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے تمہیں حج پر مامور فرمایا ہے انہوں نے کہا نہیں مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں لوگوں کو سورۃ براءت پڑھ کر سناؤں۔ اور ہر عہد والے کو اس کا عہد واپس کر دوں۔

سورۃ توبہ (براءت) کا اعلان:

ابو بکر ۱۱؎ رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے انہوں نے لوگوں کو حج کرایا۔ علی بن ابی طالب ۱۱؎ نے یوم النحر (۱۰ ذی الحجہ) کو حجرہ (عقبہ) کے پاس لوگوں کو سورۃ براءت سنائی اور ہر عہد والے کو اس کا عہد واپس کر دیا اور کہا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک نہ حج کر سکے گا اور نہ برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کر سکے گا پھر دونوں مدینے کے ارادے سے واپس ہوئے۔

یوم النحر:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے ابو بکر الصديق ۱۱؎ نے اس حج میں جس پر رسول اللہ ﷺ نے انہیں امیر بنایا تھا اور جو حجۃ الوداع سے پہلے ہوا تھا ایک جماعت کے ہمراہ بھیجا جو یوم النحر میں لوگوں میں اعلان کر رہے تھے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کر سکے گا اور نہ بیت اللہ کا طواف برہنہ ہو کر کر سکے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی وجہ سے حید کہا کرتے تھے کہ یوم النحر ہی (۱۰ ذی الحجہ) یوم الحج الاکبر (حج اکبر کا دن) ہے۔

سریہ خالد بن الولید رضی اللہ عنہ:

۱۰۔ اھ میں بمقام نجران عبدالمدان کی جانب سریہ خالد بن الولید رضی اللہ عنہ ہوا۔

سریہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ:

سریہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یمن کی جانب ہوا۔ کہا جاتا ہے یہ سریہ دوم مرتبہ ہوا۔ ایک رمضان ۱۰ اھ میں ہوا۔

رسول اللہ ﷺ نے علی رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا ان کے لیے جھنڈا (لواء) بنایا اپنے ہاتھ سے ان کے سر پر عمامہ باندھا اور فرمایا جاؤ اور کسی طرف پھر کر نہ دیکھو جب ان کے میدان میں اترو تو ان سے جنگ نہ کرو تا وقتیکہ وہ تم سے نہ لڑیں۔

علی رضی اللہ عنہ تین سو سواروں کے ساتھ روانہ ہوئے یہ سب سے پہلا لشکر تھا جو ان بستیوں میں داخل ہوا اور وہ بستی بلا مدد ج تھی انہوں نے اپنے ساتھیوں کو پھیلا دیا وہ لوٹ اور غنائم بچے اور عورتیں اونٹ اور کمریاں وغیرہ لائے علی رضی اللہ عنہ نے غنائم پر بریدہ بن الحصیب الاسلمی کو مقرر کیا تھا لوگوں کو جو کچھ ملا ان کے پاس جمع کیا۔

یمنی قبائل کا قبول اسلام:

علی رضی اللہ عنہ ایک جماعت سے ملے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے انکار کیا اور تیر اور پتھر مارے آپ نے اپنے ساتھیوں کو صف بستہ کر دیا۔ اپنا جھنڈا مسعود بن سنان الاسلمی کو دیا۔ اور ان پر حملہ کر دیا مشرکین کے میں آ دی قتل ہوئے تو وہ لوگ بھاگے علی رضی اللہ عنہ ان کی تلاش سے باز رہے انہیں اسلام کی دعوت دی تو وہ دوڑے اور قبول کی ان کے رؤساء کی ایک جماعت نے اسلام پر بیعت کر لی اور کہا کہ ہم لوگ اپنی قوم کے جو ہمارے پیچھے ہے سردار ہیں یہ ہمارے صدقات ہیں۔ لہذا ان میں سے اللہ کا حق لے لیجئے۔

مال غنیمت کی تقسیم:

علی رضی اللہ عنہ نے تمام غنائم کو جمع کیا پھر انہیں پانچ حصوں پر تقسیم کیا اور ان میں سے ایک حصہ پر لکھ دیا ”یہ اللہ کے لیے ہے“ قرعہ ڈالا تو سب سے پہلا خُمس کا ٹکلا علی رضی اللہ عنہ نے بقیہ مال غنیمت اپنے ساتھیوں پر تقسیم کر دیا، پھر واپس ہوئے اور نبی ﷺ کے پاس مکہ میں آئے آپ ۱۰ اھ میں حج کے لیے وہاں تشریف لائے تھے۔ حضور ﷺ نے چار عمرے کیے:

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے چار عمرے کیے:

۱۔ عمرہ حدیبیہ جو عمرہ حصر (روک دیئے جانے کا عمرہ) تھا۔

۲۔ دوسرے سال عمرہ قضاء۔

۳۔ عمرہ جہرانہ (غزوہ حنین کے بعد)۔

۴۔ وہ عمرہ جو اپنے حج کے ساتھ ادا کیا۔

سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک عمرہ ذی القعدہ میں عام حدیبیہ میں کیا۔ پھر جس سال ذی القعدہ

میں قریش سے صلح کی ایک عمرہ کیا اور ایک عمرہ اپنی طائف و ہجرانہ کی واپسی میں ذی القعدہ میں کیا۔
عمرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حج سے پہلے ذی القعدہ میں تین عمرے کیے ابو ملیکہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے چار عمرے کیے جو کل ذی القعدہ میں ہوئے۔

عمرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کوئی عمرہ سوائے ذی القعدہ کے نہیں کیا۔
عطاء سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے تمام عمرے ذی القعدہ میں ہوئے۔

قنادہ سے مروی ہے کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ نے کتنے عمرے کیے ہیں۔ انہوں نے کہا چار ایک آپ کا عمرہ وہ ہے جس میں مشرکین نے آپ کو ذی القعدہ میں حدیبیہ سے واپس کیا اور بیت اللہ جانے سے روکا دوسرے وہ عمرہ کہ جس سال قریش نے آپ سے صلح کی اس کے دوسرے سال ذی القعدہ میں ہوا تیسرے ہجرانہ سے ذی القعدہ میں آپ کا وہ عمرہ جب آپ نے حنین کی غنیمت تقسیم کی اور چوتھے وہ عمرہ جو آپ کے حج کے بعد ہوا۔
ابن عباس رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام عتبہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ طائف سے آئے تو ہجرانہ میں اترے آپ نے وہاں مال غنیمت تقسیم کیا اور وہیں سے عمرہ کیا یہ ۲۸ شوال کو ہوا۔

محرش الکعبی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے رات کے وقت ہجرانہ سے عمرہ کیا۔ پھر آپ شب باش کی طرح لوٹے اسی وجہ سے آپ کا عمرہ بہت سے لوگوں پر مخفی رہا ہے۔ (یہ عمرہ) عام الفتح میں (ہوا)۔

محمد بن جعفر سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے ہجرانہ سے عمرہ کیا اور وہاں سے سترنبیوں نے بھی عمرہ کیا۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے تین عمرے شوال میں کیے اور دو عمرے ذی القعدہ میں۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مرتبہ سے زائد عمرہ نہیں کیا۔

شععی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے عمروں میں تین مرتبہ مکہ میں قیام کیا۔

اسماعیل بن ابی خالد سے مروی ہے کہ میں نے عبد اللہ بن ابی اوفی سے پوچھا کہ آیا نبی ﷺ اپنے عمروں میں بھی بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے کہا نہیں۔

حجۃ الوداع:

• اچھے میں رسول اللہ ﷺ کا وہ حج ہوا جس کو لوگ ”حجۃ الوداع“ کہتے ہیں اور مسلمان اسے حجۃ الاسلام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ مدینے میں دس سال رہ کر ہر سال اس طرح قربانی کیا کرتے تھے کہ نہ سر منڈاتے تھے نہ بال ترشواتے تھے اور جہاد کے موقع پر جہاد کرتے تھے حج نہیں کرتے تھے۔

حجۃ الاسلام:

• اچھے کا ذی القعدہ ہوا تو آپ نے حج کا ارادہ کیا اور لوگوں میں بھی اس کا اعلان کیا مدینے میں لوگ بغداد و کثیر رسول

اللہ ﷺ کے حج کی پیروی کرنے کے لیے آئے۔ آپؐ نے اپنے زمانہ نبوت سے وفات تک سوائے اس حج کے اور کوئی حج نہیں کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما حجۃ الوداع کہنے کو ناپسند کرتے تھے اور وہ حجۃ الاسلام کہا کرتے تھے۔ مدینے سے روانگی:

رسول اللہ ﷺ مدینے سے غسل کر کے تیل لگا کے کنگھا کر کے مقام صحار کے بنے ہوئے صرف دو کپڑوں ایک تہ بند اور ایک چادر میں روانہ ہوئے یہ ۲۵ ذی القعدہ شنبہ کا دن تھا۔ آپؐ نے ذی الحلیفہ میں دو رکعت ظہر پڑھی اپنے ہمراہ اپنی تمام ازواج کو بھی ہو وجوں میں لے کے گئے آپؐ نے اپنی ہدی کا اشعار کیا (کوہان کے زخم سے علامت قربانی ظاہر کی) اور اس کے گلے میں ہار ڈالا۔ پھر آپؐ اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے۔

جب آپؐ البیاء میں اس پر (اونٹنی پر) بیٹھے تو اسی روز احرام باندھا، آپؐ کے ہدی (قربانی) پر ناجیہ بن جندب الاسلمی مقرر تھے۔

رسول اللہ ﷺ کے عمرہ و حج کی نیت کے بارے میں روایات:

اس بارے میں اختلاف کیا گیا کہ آپؐ نے کس چیز کی نیت کی کہتے ہیں کہ آپؐ نے حج مفرد کی نیت کی، غیر مدنی لوگوں کی روایت ہے کہ آپؐ نے حج کے ساتھ عمرہ کا بھی قرآن کیا بعض لوگوں نے کہا کہ آپؐ کے میں متنع لغمرہ ہو کر داخل ہوئے پھر اسی عمرہ سے حج کو ملادیا، ہر قول کے بارے میں روایت ہے اللہ ہی کا علم سب سے زیادہ ہے۔ آپؐ منازل سے گزرتے ہوئے چلے بوقت نماز ان مسجدوں میں اپنے اصحاب کی امامت فرماتے تھے جو لوگوں نے بنا دی تھیں اور ان کے مقامات لوگوں کو معلوم تھے۔

آنحضرت ﷺ دو شنبہ کو مرقا الظہر ان پہنچے، سرف میں آفتاب غروب ہوا۔ صبح ہوئی تو غسل کیا۔ اور دن کو اپنی اونٹنی قصواء پر کئے میں داخل ہوئے آپؐ کداء سے جو کئے کا بلند حصہ ہے داخل ہو کر باب بنی شیبہ پہنچے۔ بیت اللہ کی عظمت کے لیے دعائے مصطفیٰ ﷺ:

جب آپؐ نے بیت اللہ کو دیکھا تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ بیت کا شرف و عظمت و بزرگی و ہیبت زیادہ کر اور حج و عمرہ کرنے والوں میں سے جو شخص اس کی تعظیم کرے اس کی بھی نیکی و شرف و عظمت و ہیبت زیادہ کر۔ مناسک حج کی ادائیگی:

آنحضرت ﷺ نے مناسک کی ابتداء فرمائی، طواف کیا اور حجر اسود سے حجر اسود تک طواف کے ابتدائی (تین پھیروں میں اس طرح مل کیا) یعنی دونوں شانے اور ہاتھ ہلاتے ہوئے تیز رفتاری سے چلے (کہ اپنی چادر کو اضطباع کیے ہوئے تھے) یعنی چادر دہنی بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں شانے پر ڈالے ہوئے تھے۔

پھر مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھی اس کے فوراً بعد ہی اپنی سواری پر صفا و مروہ کے درمیان سعی کی الاطح میں متردد ہوئے تو اپنی منزل کو واپس آ گئے۔

یوم الترویہ:

یوم الترویہ (۸ ذی الحجہ) سے ایک روز پہلے آنحضرت ﷺ نے ظہر کے بعد مکے میں خطبہ ارشاد فرمایا، یوم الترویہ کو مٹی کی طرف روانہ ہوئے رات کو وہاں رہے صبح کو عرفات کی طرف روانہ ہوئے، عرفات کے پہاڑ کی چوٹی پر آپؐ نے وقوف فرمایا، سوائے بطن عرنہ کے پورا عرفہ وقوف کی جگہ ہے۔ آپؐ اپنی سواری ہی پر ٹھہر کر دعا کرتے رہے۔
مزدلفہ میں تشریف آدری:

آفتاب غروب ہو گیا تو آنحضرت ﷺ نے کوچ کیا اور تیز چلنے لگے۔ جب کوئی گڑھا دیکھتے تھے تو اونٹنی کو پھندا دیتے تھے۔ اس طرح مزدلفہ آگئے وہاں آگ کے قریب اترے ایک اذان اور دو اقامتوں سے مغرب و عشاء کی نماز پڑھی اور رات کو وہیں قیام فرمایا۔

جرہ عقبہ کی رمی:

جب پچھلی شب ہوئی تو آپؐ نے کمزور بچوں اور عورتوں کو اجازت دے دی کہ لوگوں کے جھوم سے پہلے مٹی میں آجائیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ آپؐ ہماری راتوں کو تھکنے لگے اور فرمانے لگے کہ اے میرے بچو کیا تم سورج نکلنے تک جرہ عقبہ کی رمی نہ کرو گے؟ فجر کے وقت نبی ﷺ نے نماز پڑھی، اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے جبل قروح پر وقوف کیا اور فرمایا کہ ”سوائے بطن محسر“ کے تمام مزدلفہ موقف (مقام وقوف) ہے۔
وادی محسر سے گزر:

طلوع آفتاب سے پہلے کوچ فرمایا، جب محسر پہنچے تو اپنی اونٹنی کو تیز کر دیا اور جرہ عقبہ کی رمی تک برابر تلبیہ کہتے رہے آپؐ نے ہدی کی قربانی کی اور اپنا سر منڈوا یا مونچھوں اور دونوں رخساروں کے بال بھی ترشوائے اپنے ناخن بھی ترشوائے ناخن اور بالوں کے دفن کرنے کا حکم دیا پھر خوشبو لگائی اور کرت پہنا۔

خطبہ حج کا دن:

مٹی میں آپؐ کے منادی نے ندا دی کہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں بعض روایات میں (رہنے کے دن) بھی آیا ہے آپؐ ہر روز زوال آفتاب کے وقت چھوٹی کٹکریوں سے رمی جمار کرتے رہے، یوم النحر (۱۰ ذی الحجہ) کے دوسرے روز بعد ظہر اپنی اونٹنی قصواء پر خطبہ ارشاد فرمایا۔

یوم الصدر الآخر:

یوم الصدر الآخر (یعنی ۱۳ ذی الحجہ) کو واپس ہوئے اور فرمایا کہ یہ ینین ہیں (یعنی رمی جمار) جنہیں مہاجر مکہ میں لوٹنے کے بعد قائم کرتا ہے، پھر بیت اللہ کو (بذریعہ طواف) رخصت کیا اور مدینے کی طرف واپس ہوئے۔
حج و عمرہ کا تلبیہ:

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ﷺ کو حج و عمرہ دونوں کا تلبیہ کہتے سنا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کیا

تو انہوں نے کہا کہ آپ نے صرف حج کا تلبیہ کہا۔ پھر میں انس سے ملا اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں لوگ بچوں ہی میں شمار کرتے تھے میں نے رسول اللہ ﷺ کو ”لیک بعمہ و حج“ ساتھ ساتھ کہتے سنا۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ تین طور پر روانہ ہوئے ہم میں بعض وہ تھے جنہوں نے حج و عمرہ میں قرآن کیا۔ وہ بھی تھے جنہوں نے حج کی نیت کی اور ایسے بھی جنہوں نے عمرے کی نیت کی، لیکن جو شخص حج و عمرہ میں قرآن کرے وہ اس وقت تک حلال (احرام سے باہر) نہیں ہوتا جب تک تمام مناسک (ارکان حج) ادا نہ کر لے۔

لیکن جس نے حج کی نیت کی اس پر بھی ان چیزوں میں سے کوئی چیز حلال نہیں جو اس پر حرام کی گئی تا وقتیکہ وہ مناسک ادا نہ کر لے۔

البتہ: انہوں نے عمرہ کی نیت کی پھر اس نے طواف و سعی کر لی تو اس کے لیے حج کے آنے تک سب چیز حلال ہو گئی۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (حج و عمرہ) دونوں کی ساتھ ساتھ تصریح کی انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حج و عمرہ کا تلبیہ کہا۔

انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے چار رکعت ظہر مدینے میں پڑھی، دو رکعت عصر ذوالحلیفہ میں پڑھی اور وہیں رات کو رہے یہاں تک کہ صبح ہوئی جب آپ کی اونٹنی آپ کو تیزی سے لے چلی تو آپ نے بکیر و تہج کبی اور اس نے آپ کو البیداء پہنچا دیا۔

جب ہم مکے آئے تو رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو حلال (احرام سے باہر) ہو جانے کا حکم دیا۔ رسول اللہ ﷺ کا قربانی فرمانا:

جب یوم الترویہ (۸ ذی الحجہ) ہوا تو لوگوں نے حج کا احرام باندھا۔ رسول اللہ ﷺ نے سات اونٹ کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ سے خریکے اونٹ کی گردن میں خاص مقام پر برچی مار کر خون بہانے کو نحر کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے دو مینڈھوں کی قربانی کی جو چستکبرے اور سینگ والے تھے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب (ذی الحجہ کی) چوتھی صبح کو حج کی نیت کر کے (مکے) آئے انہیں (اصحاب کو) رسول اللہ ﷺ نے یہ حکم دیا کہ وہ اس (حج) کو عمرہ کر دیں، سوائے ان کے جن کے ہمراہ ہدی ہے، پھر کرتے پہنے گئے خوشبو سونگھی گئی اور عورتوں سے صحبت کی گئی۔

یوم النحر:

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ۴ ذی الحجہ کو مکہ معظمہ آئے جب ہم نے بیت اللہ اور صفا و مروہ کے درمیان طواف کر لیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس (حج) کو عمرہ کر دو سوائے ان کے جن کے ہمراہ ہدی ہو، جب یوم الترویہ ہوا تو انہوں نے حج کا احرام باندھا، یوم النحر (قربانی کا دن) ہوا تو بیت اللہ کا طواف کیا۔ صفا مروہ کے درمیان طواف کیا۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حج کا احرام باندھا۔ آپ ۴ ذی الحجہ کو آئے، ہمیں صبح کی نماز

مقام بطحاء میں پڑھائی اور فرمایا کہ جو شخص اسے عمرہ کرنا چاہے تو کر دے۔

مکحول سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب نے جو ہمراہ تھے کس طرح حج کیا؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ آپ کے اصحاب جو ہمراہ تھے عورتیں اور بچے سب نے حج کیا انہوں نے عمرہ سے حج کی طرف متوجہ کیا پھر حلال ہو گئے ان کے لیے عورتیں اور بچے اور خوشبو جو حلال کے لیے حلال ہیں حلال کر دی گئیں۔

نعمان نے مکحول سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے حج و عمرہ دونوں کا احرام باندھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ مجھے ابو طلحہ نے خبر دی کہ رسول اللہ ﷺ نے حج و عمرہ کو جمع کیا۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے صرف حج کا احرام باندھا۔

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے حج مفرد کیا۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی ﷺ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا:

لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

”میں حاضر ہوا اے اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں حمد و نعمت ملک تیرے ہی لیے ہے تیرا کوئی شریک نہیں۔“

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے پرانے کجاوے اور چادر پر حج کیا (وکج نے کہا جو چادر درم کے مساوی ہو گا یا نہ مساوی ہو گا ہاشم بن القاسم نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں قیمت چادر درم ہوگی) جب آپ روانہ ہوئے تو فرمایا: اے اللہ ایسا حج (عطا کر) نہ اس میں ریاء ہو نہ سمعہ (نہ وہ کسی کے دکھانے کو ہو نہ سنانے کو)۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے ذی الحلیفہ سے ظہر گئے وقت احرام باندھا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے اپنے حج میں قربانی کے سوا اونٹ لے گئے آپ نے ہراونٹ میں سے ایک بوٹی گوشت کا حکم دیا۔ وہ ایک ہانڈی میں کر دیا گیا، دونوں نے اس کا گوشت کھایا اور دونوں نے اس کا شوربہ پیا میں نے کہا وہ کون ہے جس نے نبی ﷺ کے ہمراہ کھایا اور شوربا پیا تو کہا علی رضی اللہ عنہ، جعفر اس کو مجھ سے کہتے تھے یعنی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ کے ساتھ کھایا اور شوربا پیا اور جعفر اس کو ابن جریج سے کہتے تھے۔

ابی امامہ نے ان سے روایت کی جنہوں نے نبی ﷺ کو منیٰ کی طرف جاتے دیکھا کہ بلال رضی اللہ عنہ آپ کے ایک طرف تھے ان کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی اس پر دو نقشین کپڑے تھے جس سے وہ آفتاب سے سایہ کیے ہوئے تھے۔
نیت حج کے لیے ہدایت:

یحییٰ بن ابی کثیر سے مروی ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی ﷺ کے پاس آئے اور کہا کہ اہلال (نیت حج) میں اپنی آواز بلند کیجئے کیونکہ وہ حج کا شعار ہے۔

زید بن خالد الجعفی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے انہوں نے مجھ سے کہا

کہ اہلال (نیت حج) میں اپنی آواز بلند کیجئے کیونکہ یہ شعار حج ہے (علامت و طریقہ حج ہے)۔

رکن یمانی پر رسول ﷺ کی دعاء:

عبداللہ بن السائب سے مروی ہے کہ میں نے نبی ﷺ کو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھتے دیکھا: ”رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ“ (اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا)۔

بیت اللہ میں نماز:

اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی، اسامہ بن زید اور عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کعبہ کے اندر دو رکعت نماز پڑھی۔

عبدالرحمن بن اسامہ سے مروی ہے کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا رسول اللہ ﷺ نے کعبہ کے اندر کیا کیا تو انہوں نے کہا کہ دو رکعت نماز پڑھی۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور بلال رضی اللہ عنہما بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ ﷺ نے اس میں نماز پڑھی، انہوں نے کہا ہاں، بیت اللہ کے آگے کے حصہ میں کہ آپ کے اور دیوار کے درمیان تین گز کا فاصلہ تھا۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں آیا تو مجھ سے کہا گیا کہ رسول اللہ ﷺ بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے ہیں آگے بڑھا تو آپ کو دیکھا کہ باہر آچکے ہیں، میں نے بلال کو دروازہ کے پاس کھڑا ہوا پایا تو ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے دو رکعت نماز پڑھی۔

عبداللہ بن ابی مغیث سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے تھے۔ آپ پر مکان کا اثر تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ آپ کو کیا ہوا، فرمایا، آج میں نے وہ کام کیا کہ کاش اسے نہ کیے ہوتا۔ شاید میری امت کے لوگ اس کے اندر داخل ہونے پر قادر نہ ہوں گے تو وہ واپس ہوں گے اور ان کے دل میں رنج ہوگا۔ ہمیں تو صرف اس کے طواف کا حکم دیا گیا ہے، اندر داخل ہونے کا حکم نہیں دیا گیا۔

ابن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے قبل (وقوف) عرفہ طواف کیا۔

مناسک حج کا بیان:

عبدالرحمن بن یحمر نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو عرفات میں کہتے سنا کہ حج تو (وقوف) عرفات ہے یا (وقوف) عرفہ ہے، جس شخص نے (نمازوں) کے جمع کرنے کی رات (یعنی مقام مزدلفہ شب دہم ذی الحجہ) صبح سے پہلی پائی تو اس کا حج پورا ہو گیا، اور فرمایا کہ ایام منیٰ (دسویں ذی الحجہ کے علاوہ) تین ہیں، جو شخص دو ہی دن میں (یعنی گیا رہو)

اور بارہویں ہی کو عجلت کر کے چلا جائے تو اسے بھی کوئی گناہ نہیں اور جو شخص تاخیر کر کے (تیرہویں تک رہے) تو اسے بھی کوئی گناہ نہیں۔

ابن لائم سے مروی ہے کہ میں نبی ﷺ کے پاس آیا جبکہ آپ مزدلفہ میں تھے میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ کیا میرا حج ہو گیا؟ آپ نے فرمایا جس نے ہمارے ساتھ یہاں (مزدلفہ میں) نماز پڑھی اور اس کے قبل رات یا دن کو عرفات میں حاضر ہوا اور وہ اس نے اپنا میل کچیل دور کیا (یعنی سرمٹا لیا) اس کا حج پورا ہو گیا۔

عروہ سے مروی ہے کہ جس وقت میں بیٹھا ہوا تھا تو اسامہ سے پوچھا گیا حجۃ الوداع میں رسول اللہ ﷺ جس وقت واپس ہوئے تو کس طرح چلتے تھے۔ انہوں نے کہا: بہت تیز چلتے تھے جب کوئی گڑھا دیکھتے تو اونٹنی کو پھندا دیتے تھے۔

سواری پر رسول اللہ ﷺ کی ہم نشینی کا شرف:

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ عرفات سے اس طرح واپس ہوئے کہ آپ نے ناقے پر اسامہ کو شرف ہم نشینی بخشا۔ آپ جمع (مزدلفہ) سے واپس ہوئے تو فضل بن عباس ہم نشین تھے آپ تلبیہ کہتے رہے یہاں تک کہ آپ نے جمرہ عقبہ کی رمی کی۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فضل بن عباس رضی اللہ عنہما کو اپنا رفیق (ہم نشین) بنایا اور فضل نے انہیں اطلاع دی کہ نبی ﷺ جمرہ عقبہ کی رمی تک برابر تلبیہ کہتے رہے۔

رمی کے بارے میں ہدایات:

فضل بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے عرفے کی شب اور جمع (مزدلفہ) کی صبح میں جب لوگ واپس ہوئے تو فرمایا کہ تمہیں الطینان سے چلنا ضروری ہے اور اپنی ناقہ کو روک رہے تھے محسر سے اترے تو منیٰ میں داخل ہوئے اور فرمایا تمہیں چھوٹی کنکریاں (لینا) ضروری ہے جن سے تم جمرہ کی رمی کرو نبی ﷺ نے (اس طرح اشارہ کیا) جس طرح انسان کنکری مارتا ہے۔

جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ﷺ کو (باقلا کی پھلی کے دانوں کے برابر) چھوٹی کنکریاں سے رمی کرتے دیکھا۔

دین میں غلو کی ممانعت:

عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے عقبہ کی صبح (گیارہویں ذی الحجہ) کو فرمایا کہ میرے لیے کنکریاں چن لو۔ میں نے آپ کے لیے چھوٹی چھوٹی کنکریاں چنیں تو آپ نے انہیں ہاتھ میں رکھ کر فرمایا: ہاں اس طرح کی تم لوگ غلو (زیادتی کرنے سے بچو) کیونکہ تم سے پہلے لوگ دین میں غلو (زیادتی) کرنے سے ہلاک ہو گئے۔

ابوالزبیر نے جابر بن عبد اللہ کو کہتے سنا کہ نبی ﷺ نے یوم النحر (۱۰ ربیع الاول) کو چاشت کے وقت رمی کی تھی پھر زوال آفتاب کے بعد بھی۔

مناسک حج سیکھنے کی ترغیب:

ابوالزبیر نے بیان کیا کہ میں نے جابر بن عبد اللہ سے سنا کہ یوم النحر میں نبی ﷺ کو اپنی سواری پر رمی کرتے دیکھا، آپ ﷺ ہم لوگوں سے فرما رہے تھے کہ اپنے مناسک (احکام حج) سیکھ لو کیونکہ مجھے نہیں معلوم شاید میں اس حج کے بعد حج نہ کروں گا۔

جعفر بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ جمروں کی رمی پیادہ آتے جاتے کرتے تھے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے قربانی کی پھر سر منڈایا۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع میں اپنا سر منڈایا۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو اس طرح دیکھا کہ حجام آپ کا سر مونڈ رہا تھا، اصحاب آپ کے گرد اگر دگھوم رہے تھے اور چاہتے تھے کہ آپ کا بال سوائے ان کے ہاتھ کے اور کہیں نہ گرے۔

ابن شہاب سے مروی ہے کہ نبی ﷺ یوم النحر کو روانہ ہوئے زوال آفتاب سے پہلے ہی (بغرض طواف کے) گئے پھر (منیٰ میں) واپس آئے اور تمام نمازیں منیٰ ہی میں پڑھیں۔

عطاء نے کہا کہ جو شخص (منیٰ سے مکہ جائے) اس کو ظہر کی نماز منیٰ ہی میں پڑھنا چاہیے، میں ظہر کی نماز (مکہ) جانے سے قبل منیٰ ہی میں پڑھتا ہوں اور عصر راستے میں اور یہ سب درست ہے۔

ازواج مطہرات کی روانگی:

طاؤس سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ منیٰ سے مکہ (دن کو روانہ ہوں) اپنی ازواج کو آپ نے رات کو روانہ کیا۔ ناتق پر بیت اللہ کا طواف کیا پھر زم زم پر آئے اور فرمایا: مجھے دو آپ کو ایک ڈول بھر کر دیا گیا آپ نے اس میں سے پیا غرارہ کیا پھر اس میں کلی کر دی اور حکم دیا کہ چاہ زم زم میں انڈیل دیا جائے۔

طاؤس نے لوگوں سے بیان کیا کہ نبی ﷺ نے اپنی سواری پر طواف کیا۔

ہشام بن حذیر نے طاؤس سے سنا جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ نبی ﷺ زم زم پر آئے اور فرمایا: مجھے دو آپ کو ایک ڈول دیا گیا، آنحضرت ﷺ نے اس میں سے پیا پھر اس میں کلی کی اور وہ پانی آپ کے حکم سے کنوئیں میں انڈیل دیا گیا۔

سقاۃ النبی:

آنحضرت ﷺ سقاۃ (سبیل) کی طرف روانہ ہوئے، جو سقاۃ النبی (کہلاتا تھا) کہ اس کا پانی بیہیں پھر ابن عباس

نے عباس سے کہا یہ تو ایسا ہے کہ آج ہی ہاتھوں نے اسے گھنگول ڈالا ہے البتہ بیت اللہ میں پینے کا صاف پانی ہے مگر نبی ﷺ نے سوائے اس کے اور کوئی پانی پینے سے انکار کیا اور اسی کو پیا۔

طاؤس کہا کرتے تھے کہ سقایۃ النبیذ سے پانی پینا حج پورا کرنے والی چیزوں میں سے ہے رسول اللہ ﷺ نے سقایۃ النبیذ سے اور زمزم سے (پانی) پیا اور فرمایا کہ اگر سنت نہ ہو جاتی تو میں (پانی کا ڈول) کھینچتا۔

حسین بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جبکہ لوگ ان کے گرد جمع تھے پوچھا کہ کیا تم اس نبیذ کو بطور سنت استعمال کرتے ہو یا وہ تم پر دودھ اور شہد سے زیادہ بہل ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ نبی ﷺ نے جب کہ ہمراہ اصحاب مہاجرین و انصار بھی تھے چند پیالے لائے گئے جن میں نبیذ تھی نبی ﷺ نے اس میں سے پیا مگر سیر ہونے سے پہلے اپنا سر اٹھالیا اور فرمایا تم نے اچھا کیا اسی طرح کیے جاؤ۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ مجھے اس معاملہ میں رسول اللہ ﷺ کی خوشنودی سب سے زیادہ محبوب ہے کہ ہم پر دودھ اور شہد کے سیلاب بہ جائیں۔

(تنبیہ: سقایۃ النبیذ کے نام سے زم زم کی ایک سبیل تھی راوی نے مجازاً اس کے پانی کو نبیذ کہہ دیا کیونکہ حقیقتاً نبیذ کے معنی شراب کے ہیں یہ محال ہے کہ آپ کے زمانے میں مکہ میں حقیقی نبیذ کا گزر ہوا ہو نبیذ فتح مکہ سے پہلے ہی حرام ہو چکی تھی)۔
عطاء سے مروی ہے کہ نبی ﷺ جب (منی سے مکہ) واپس آئے تو آپ نے اپنے لیے تھا ایک ڈول کھینچا پینے کے بعد ڈول میں بچ گیا اسے کنوئیں میں اندیل دیا اور فرمایا: ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہاری سبیل (سقایۃ) میں تم پر غالب آ جائیں اس لیے میرے سوا کوئی اور اس سے نہ کھینچے خود آپ ﷺ نے وہ ڈول کھینچا جس میں سے آپ نے پیا کسی اور نے آپ کی مدد نہیں کی۔

حارث بن وہب الخزامی جن کی ماں عمر رضی اللہ عنہا کی زوجہ تھیں نے بیان کیا کہ میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر منی میں رسول اللہ ﷺ کے پیچھے نماز پڑھی لوگ بھی پیشتر حاضر تھے آپ نے ہمیں دو رکعتیں پڑھائیں۔

منی میں خطبہ نبوی ﷺ:

عمر بن خارجه سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے منی میں خطبہ ارشاد فرمایا میں آپ کے ناطقے کی گردن کے نیچے جو جگہ لگا کر رہی تھی اس کا لعاب میرے دونوں شانوں کے درمیان بہ رہا تھا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

اللہ نے ہر انسان کے لیے میراث میں اس کا حصہ مقرر کر دیا ہے اس لیے وراثت کے لیے وصیت جائز نہیں خبردار بچہ صاحب فراش کے لیے ہے (یعنی عورت جس کی منکوحہ ہے بچہ اسی شخص کا ہے اگرچہ وہ مخفی طور پر زنا سے ہو) اور بدکار کے لیے پتھر ہے وہ شخص جو اپنے باپ کے سوا کسی اور کا (بیٹا ہونے) کا دعویٰ کرے یا کوئی آزاد کردہ غلام اپنے آزاد کرنے والوں سے منہ پھیر

کے دوسروں کا آزا کردہ غلام ہونے کا دعویٰ کرے تو اس پر اللہ کی ملائکہ کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔

یوم النحر میں خطبہ نبوی ﷺ:

ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی ﷺ یوم النحر میں جمعرات کے درمیان کھڑے ہوئے، لوگوں سے فرمایا: 'یہ کون سادن ہے' عرض کی انحر ہے فرمایا یہ کون سا شہر ہے لوگوں نے فرمایا: یہ کون سا مہینہ ہے لوگوں نے کہا: شہر حرام فرمایا۔
یہ حج اکبر کا دن ہے تمہارے خون تمہارے مال تمہاری آبرو میں اس دن میں اس مہینے میں اس شہر کی حرمت کی طرح تم پر حرام ہیں پھر فرمایا کیا میں نے (پیام الہی کی) تبلیغ کر دی لوگوں نے کہا ہاں۔ رسول اللہ ﷺ فرمانے لگے اے اللہ گواہ رہ آپ نے لوگوں کو رخصت (وداع کیا) اس لیے انہوں نے (اس حج کو) حجۃ الوداع کہا۔

عبید بن شریط الاشجعی سے مروی ہے کہ میں حجۃ الوداع میں اپنے والد کا ردیف (اونٹ کی سواری میں ہم نشین) تھا کہ نبی ﷺ خطبہ ارشاد فرمانے لگے میں اونٹ کے سرین پر کھڑا ہو گیا، اور اپنے دونوں پاؤں والد کے شانوں پر رکھ لیے میں نے آپ کو کہتے سنا کہ کون سادن سب سے زیادہ محترم ہے لوگوں نے کہا یہی دن فرمایا کون سا مہینہ سب سے زیادہ محترم ہے لوگوں نے کہا یہی مہینہ فرمایا کون سا شہر سب سے زیادہ محترم ہے لوگوں نے کہا یہی شہر فرمایا تمہارے خون تمہارے مال تم پر ایسے ہی حرام ہیں جیسے تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں تمہارے اس شہر میں ہے فرمایا: کیا میں نے تبلیغ کر دی لوگوں نے کہا ہاں فرمایا: اے اللہ گواہ رہ اے اللہ گواہ رہ اے اللہ گواہ رہ۔

یوم العقبہ میں خطبہ نبوی ﷺ:

ابو خادیہ سے جو رسول اللہ ﷺ کے صحابی ہیں مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے یوم العقبہ میں (یعنی حجرہ عقبہ کی رمی کے روزہ ارذی الحج کو) ہمیں خطبہ سنایا فرمایا اے لوگو! تمہارے خون تمہارے مال اپنے پروردگار سے ملے تک تم پر ایسے ہی حرام ہیں جیسے تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں ہے اور اس شہر میں ہے خبردار کیا میں نے تبلیغ کر دی، ہم لوگوں نے کہا ہاں فرمایا اے اللہ گواہ رہ خبردار میرے بعد کفر کی طرف نہ پلٹ جانا کہ تم سے کوئی کسی کی گردن مارے۔

شب عرفہ میں خطبہ نبوی ﷺ:

ام الحسین سے مروی ہے کہ میں نے شب عرفہ میں رسول اللہ ﷺ کو ایک اونٹ پر اس طرح چادر لٹکائے ہوئے دیکھا (ابوبکر (درمیانے راوی) نے اشارہ کیا کہ آپ نے اسے اپنے بازو کے نیچے سے بائیں بازو پر ڈال لیا تھا اور اپنا دایا بازو کھول دیا تھا) پھر میں نے آپ کو کہتے سنا کہ اے لوگو! سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تم پر کوئی عیب دار حبشی غلام ہی امیر کیوں نہ بنادیا جائے جو تم میں کتاب اللہ کو قائم کرے۔

یوم عرفہ میں خطبہ نبوی ﷺ:

نبیٹ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یوم عرفہ میں سرخ اونٹ پر خطبہ فرماتے دیکھا۔
عبدالرحمن بن معاذ القیمی سے مروی ہے، جو رسول اللہ ﷺ کے اصحاب میں تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں خطبہ سنایا،
جبکہ ہم منیٰ میں تھے (منجانب اللہ) ہمارے کان کھول دیئے گئے تھے جو کچھ آپؐ نے فرما رہے تھے ہم لوگ اچھی طرح سن رہے
تھے حالانکہ ہم لوگ اپنی منزلوں میں تھے۔
مناسک حج کی تعلیم:

آپؐ لوگوں کو مناسک (مسائل حج) تعلیم کرنے لگے (جب (ری) جمار کے بیان پر پہنچے تو فرمایا، ”چھوٹی کنکریوں
سے“ آپؐ نے اپنی دونوں شہادت کی انگلی ایک دوسرے پر رکھی پھر مہاجرین کو حکم دیا کہ وہ مسجد کے آگے کے حصہ میں اتریں اور
انصار کو حکم دیا کہ مسجد کے پیچھے اتریں پھر اور لوگ بعد کو اترے۔
غلاموں کے متعلق ارشاد نبویؐ:

زید بن الخطاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع میں فرمایا، اپنے غلاموں کا (خیال رکھو) اپنے غلاموں
کا خیال رکھو، جو تم کھاؤ اسی میں سے انہیں کھلاؤ، جو تم پہنوا اسی میں سے انہیں پہناؤ اگر وہ کوئی ایسا گناہ کریں جسے تم معاف نہ کرنا
چاہو تو اے اللہ کے بندو انہیں بیچ ڈالو اور انہیں سزا نہ دو۔

الہر ماس بن زیاد الباطلی سے مروی ہے کہ میں قربانی کے روز (یوم الاضحیٰ میں) اپنے والد کا ہم نشین تھا نبی ﷺ منیٰ میں
ناتے پر لوگوں کو خطبہ سنارہے تھے۔

الہر ماس بن زیاد سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ واپس ہوئے میرے والد اپنے اونٹ پر مجھے پیچھے بٹھائے ہوئے تھے
میں چھوٹا بچہ تھا میں نے نبی ﷺ کو دیکھا کہ یوم الاضحیٰ میں منیٰ میں اپنی کان کئی اونٹنی پر لوگوں کو خطبہ سنارہے تھے۔
یوم الحج پر خطبہ نبوی ﷺ:

ابی بکرہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے اپنے حج میں خطبہ فرمایا کہ خبردار زمانہ اپنی ہیئت پر اسی دن سے گردش کرتا ہے
جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے سال بارہ مہینے کا ہے ان میں سے چار مہینے حرام (محترم) ہیں تین تو بے درپے
ذی القعدہ، ذی الحجہ و محرم (اور ایک بعد کو) قبیلہ (مضر کا وہ رجب جو جمادی (الآخری و شعبان) کے درمیان ہے۔

پھر فرمایا یہ کون سا دن ہے تو ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں آپؐ خاموش رہے یہاں تک کہ ہم لوگوں
نے خیال کیا کہ آپؐ اس کے نام کے علاوہ کوئی اور نام بتائیں گے فرمایا کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ ہم نے کہا بے شک ہے فرمایا یہ
کون سا مہینہ ہے ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپؐ نے سکوت کیا، یہاں تک کہ ہم لوگوں کا گمان ہوا کہ آپؐ
اس کے نام کے علاوہ کوئی دوسرا نام بتائیں گے تو فرمایا، کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے ہم نے کہا بے شک ہے فرمایا یہ کون سا شہر ہے ہم

نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے آپؐ نے سکوت کیا یہاں تک کہ ہم لوگوں کو گمان ہوا کہ آپؐ اس کے نام کے سوا کوئی نام بتائیں گے تو فرمایا کیا یہ بلد حرام نہیں ہے ہم نے کہا بے شک ہے۔

فرمایا تمہارے خون، تمہارے مال راوی نے کہا میرا خیال ہے کہ آپؐ نے اور تمہاری آبروئیں بھی فرمایا، تم پر ایسے حرام ہیں جیسے تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس مہینے کی حرمت اس شہر میں ہے تم اپنے پروردگار سے ملو گے، تو وہ تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس کرے گا، خبردار میرے بعد گمراہ ہو کر (دین سے نہ پھر جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو، خبردار کیا میں نے (حق) پہنچا دیا؟ خبردار جو تم میں سے حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے کیونکہ شاید بعض لوگ جنہیں یہ پہنچے اس سے زیادہ حافظ ہوں بہ نسبت ان کے جنہوں نے سنا، خبردار کیا میں نے تبلیغ کر دی؟

محمدؐ نے کہا: یہی ہوا، بعض لوگ جن کو پہنچا وہ ان سے زیادہ حافظ ہوئے جن سے انہوں نے سنا۔

ذی الحجہ کی امتیازی عظمت:

مجاہد سے مروی ہے کہ ذی القعدہ میں ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سفر حج کیا اور علی رضی اللہ عنہ نے اذان دی اہل جاہلیت دو سال تک سال کے مہینوں میں سے ہر مہینے میں حج کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کا حج ذی الحجہ میں پڑا آپؐ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، زمانے نے اپنی ہیئت کے مطابق گردش کی، ابوالبشر نے کہا کہ لوگوں نے جب حق کو ترک کر دیا تو مہینے بھول گئے۔

ایام تشریق:

زہری سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عبد اللہ بن حذافہ کو اپنی سواری پر بھیجا کہ وہ ایام تشریق (۱۰/۱۱/۱۲/۱۳) ذی الحجہ کے روزوں سے منع کریں اور فرمایا کہ یہ تو صرف کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں، معن (راوی) نے اپنی حدیث میں کہا مسلمان ان ایام کے روزے سے باز رہے۔

بدیل بن ورقاء سے مروی ہے کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے ایام تشریق میں یہ حکم دیا کہ میں نداؤں، یہ کھانے پینے کے دن ہیں لہذا ان میں کوئی روزہ نہ رکھے۔

الحکم الزرقی کی والدہ سے مروی ہے کہ گویا میں علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہی ہوں جو رسول اللہ ﷺ کے سفید حجر پر سوار تھے جس وقت وہ شعب الانصار پر کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ اے لوگو! یہ روزوں کے دن نہیں ہیں یہ تو صرف کھانے پینے اور ذکر کے دن ہیں۔

جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ ہم اصحاب نبی ﷺ نے صرف خالص اور تنہا حج کا احرام باندھا تھا۔ اس کے ساتھ کوئی ورنیت نہ تھی ذی الحجہ کی چوتھی صبح کو کئے آئے تو ہمیں نبی ﷺ نے حلال ہو جانے (احرام کھول دینے کا حکم دیا) اور فرمایا کہ حلال ہو جاؤ اور اس حج کو عمرہ کرو۔

آپ کو خبر پہنچی کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جب ہمارے اور عرفہ کے درمیان پانچ روز سے زائد نہ رہے تو آپؐ نے ہمیں حلال ہونے کا حکم دیا تا کہ ہم مٹی اس حالت میں جائیں کہ ہماری شرم گاہوں سے مٹی چلتی ہو۔

نبی ﷺ کھڑے ہوئے ہمیں مخاطب ہو کر فرمایا مجھے وہ بات پہنچ گئی جو تم نے کہی میں تم لوگوں سے زیادہ نیکو کار اور زیادہ متقی ہوں اگر (میرے ہمراہ مدینے سے) ہدی نہ ہوتی تو میں ضرور حلال ہو جاتا اور اگر مجھے پہلے سے اپنا حال معلوم ہوتا جو بعد کو مجھے معلوم ہوا تو میں ہدی نہ لاتا۔

علی بنی ہدیہ یمن سے آئے تو آپؐ نے ان سے پوچھا تم نے کاہے کا احرام باندھا انہوں نے کہا کہ جس کا نبی ﷺ نے باندھا ہو فرمایا ہدی لاؤ اور احرام میں رہو جیسا کہ تم ہو۔

آپؐ سے سراقہ نے کہا یا رسول اللہ ﷺ کیا آپ ہمارے اس عمرہ پر غور فرمالیا کریں کہ اسی سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے اسماعیل (راوی) نے کہا یا اس کے مثل کہا۔

انس بن مالک سے مروی ہے کہ میں نبی ﷺ کو لبیک ہمرۃ و حج کہتے سنا۔

انس بن مالک سے مروی ہے (دوسرے طریقے سے) کہ نبی ﷺ کو لبیک ہمرۃ و حج کہتے سنا۔

﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ﴾ کا نزول:

شععی سے مروی ہے کہ نبی ﷺ پر آیت ﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ (آج میں نے تمہارے لیے دین کامل کر دیا) نازل ہوئی یہ آیت آپؐ کے وقوف عرفہ کی حالت میں نازل ہوئی جس وقت آپؐ نے موقف ابراہیم میں وقوف کیا تھا شرک مضحل ہو گیا جاہلیت کی روشنی کے مقامات مہدم کر دیئے گئے کسی برہنہ نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یوم النحر میں جمرہ کی رمی تک تلبیہ کہا۔

سعید بن العاص نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں یوم الصدر کو (حج سے واپسی کے دن) ابن عمر کے ساتھ واپس ہوا چند یمنی رفیق ہمارے پاس سے گزرے جن کے کباوے چڑے کے تھے ان کے اونٹ کی ٹکیلیں رسی کی تھیں عبد اللہ (ابن عمر) نے کہا کہ جو شخص ان رفقاء کو دیکھنا چاہے جو اس سال رسول اللہ ﷺ اور آپؐ کے اصحاب کے ساتھ وارد ہوئے جبکہ آپؐ لوگ حجۃ الوداع میں آئے تھے تو اسے ان رفقاء کو دیکھنا چاہیے۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ مجھے حجۃ الوداع کہنا ناپسند تھا طائوس نے کہا کہ میں نے حجۃ الاسلام کہا تو انہوں نے کہا ہاں حجۃ الاسلام۔

ابراہیم بن میسرہ سے مروی ہے کہ طائوس حجۃ الوداع کہنے کو ناپسند کرتے تھے اور حجۃ الاسلام کہتے تھے۔

علاء بن الحضرمی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مہاجرین اپنے مناسک ادا کرنے کے بعد تین دن ٹھہرے۔

رسول اللہ ﷺ نے صرف ایک مرتبہ حج کیا:

قائدہ نے کہا میں نے انس سے پوچھا کہ نبی ﷺ نے کتنے حج کیے انہوں نے کہا صرف ایک حج، مجاہد سے مروی ہے کہ

رسول اللہ ﷺ نے ہجرت سے پہلے دوج کیے اور ہجرت کے بعد ایک حج کیا۔ ام المومنین وقاسم سے مروی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ ﷺ لوگ دونسک (حج و عمرہ) کر کے لوٹ رہے ہیں اور میں ایک ہی نسک (حج) کے ساتھ لوٹ رہی ہوں، آپ نے فرمایا تم انتظار کرو جب (حیض سے) پاک ہو جانا تو متعیم تک جانا وہاں سے (عمرہ کا) احرام باندھ لینا ہم سے فلاں فلاں پہاڑ پر ملنا (مجھے خیال ہے فلاں فرمایا تھا) لیکن وہ (عمرہ) بقدر تمہاری غایت کے ہوگا۔ یا فرمایا تمہارے خرچ کے ہوگا یا جیسا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہو۔

سریہ اسامہ بن زید حارثہ رضی اللہ عنہ:

اسامہ بن زید حارثہ رضی اللہ عنہ کا یہ سریہ اہل انہی کی جانب جو البقاء کے نواح میں السراۃ کی زمین ہے پیش آیا۔

اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو نصیحت:

چھبیسویں صفر ۱۱ھ یوم دوشنبہ کو رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو جہاد روم کی تیاری کا حکم دیا۔ دوسرے دن آپ نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا اپنے باپ کے مقتل پر جاؤ اور کفار کو کچل دو میں نے اس لشکر پر تمہیں والی بنا دیا ہے تم سویرے اہل انہی پر حملہ کرو ان میں آگ لگا دو اور اتنا تیز چلو کہ مخبروں کے آگے ہو جاؤ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دے تو تم ان لوگوں میں بہت کم ٹھہرو اپنے ہمراہ رہبروں کو لے لو مخبروں اور جاسوسوں کو اپنے آگے روانہ کر دو۔ رسول اللہ ﷺ کی علالت:

چارشنبہ کو رسول اللہ ﷺ کی بیماری شروع ہو گئی آپ کو بخار اور سرد رہ گیا، مجتہبے کی صبح کو آپ ﷺ نے اپنے ہاتھ سے اسامہ رضی اللہ عنہ کے لیے جھنڈا باندھا، پھر فرمایا اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو اس سے جنگ کرو جو اللہ کی راہ میں کفر کرے۔

امارت اسامہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض:

وہ اپنے جھنڈے کو جو بندھا ہوا تھا لے کے نکلے جسے بریدہ بن الحصیب الاسلمی کو دیا مقام جرف میں لشکر جمع کیا، مہاجرین اولین و انصار کے معززین میں سے کوئی شخص ایسا نہ تھا جو اس غزوے میں بلا نہ لیا گیا ہو۔

ابوبکر الصدیق، عمر بن الخطاب، ابوعبیدہ بن الجراح، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، قتادہ بن نعمان، سلمہ بن اسلم بن حریس رضی اللہ عنہ جیسے اصحاب کبار تھے۔

قوم نے اعتراض کیا کہ یہ لڑکا مہاجرین اولین پر عامل بنایا جاتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کا اظہار خفگی:

رسول اللہ ﷺ نہایت غصہ ہوئے آپ اس طرح باہر تشریف لائے کہ سر پر ایک پٹی بندھی اور جسم پر ایک چادر تھی، آپ منبر پر چڑھے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی اور فرمایا:

”اما بعد! اے لوگو! تم میں سے بعض کی گفتگو اسامہ رضی اللہ عنہ کو امیر بنانے کے بارے میں مجھے پہنچی (تو تعجب نہیں) اگر تم نے اسامہؓ کے امیر بنانے پر اعتراض کیا، تم اس سے پہلے ان کے باپ کے امیر بنانے پر اعتراض کر چکے ہو خدا کی قسم وہ امارت ہی کے لیے پیدا ہوئے تھے اور ان کا بیٹا بھی امارت ہی کے لیے پیدا ہوا ہے وہ میرے محبوب ترین لوگوں میں سے ہیں ان دونوں سے ہر خیر کا گمان کیا گیا ہے تم لوگ اسامہ کے متعلق خیر کی وصیت قبول کرو کیونکہ وہ تمہارے بہترین لوگوں میں سے ہیں۔“

آپ ﷺ منبر سے اترے اور اپنے مکان میں داخل ہو گئے یہ ۱۰ ربیع الاول یوم شنبہ کا واقعہ ہے وہ مسلمان جو اسامہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تھے رسول اللہ ﷺ سے رخصت ہو کر لشکر کی طرف جو جرف میں تھا جا رہے تھے۔

رسول اللہ ﷺ شدت مرض کی کیفیت میں:

رسول اللہ ﷺ کے مرض میں شدت ہو گئی تو آپ ﷺ فرمانے لگے اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو روانہ کرو یکشنبہ کو رسول اللہ ﷺ کا درد بہت شدید ہو گیا اسامہ رضی اللہ عنہ اپنے لشکر گاہ سے اس وقت آئے جبکہ نبی ﷺ بیہوش تھے اور اس روز لوگوں نے آپ کو دو پلائی تھی۔

اسامہ رضی اللہ عنہ نے سر جھکا کے آپ کو بوسہ دیا رسول اللہ ﷺ کلام نہیں فرما سکتے تھے آپ ﷺ اپنے دونوں ہاتھ آسمان پر اٹھاتے تھے اور اسامہ رضی اللہ عنہ کے سر پر رکھ دیتے تھے اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں یہ سمجھا کہ آپ ﷺ میرے لیے دعا کرتے ہیں۔

دُعائے نبوی کے ساتھ لشکر اسامہ کی روانگی:

اسامہؓ اپنے لشکر گاہ کو واپس گئے دو شنبہ کو آئے رسول اللہ ﷺ کی صبح افاتے کی حالت میں ہوئی (آپؐ پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں) آپؐ نے ان سے فرمایا کہ صبح کو اللہ کی برکت سے روانہ ہو جاؤ۔

آنحضرت ﷺ کا وصال:

اسامہ رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ سے رخصت ہو کے اپنے لشکر گاہ کی طرف روانہ ہو گئے اور لوگوں کو کوچ کا حکم دیا جس وقت وہ سوار ہونے کا ارادہ کر رہے تھے کہ ان کی والدہ ام ایمن کا قاصدان کے پاس آ کر یہ کہنے لگا۔ رسول اللہ ﷺ انتقال فرماتے ہیں۔

وہ آئے اور ان کے ہمراہ عمرو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہما بھی آئے وہ لوگ رسول اللہ ﷺ کے پاس اس حالت میں پہنچے کہ آپؐ انتقال فرما رہے تھے ۱۲ ربیع الاول ۱۱ھ یوم دو شنبہ کو جبکہ آفتاب ڈھل چکا تھا آپؐ کی وفات ہو گئی اللہ تعالیٰ آپؐ پر ایسی رحمت نازل کرے جس سے آپؐ خوش ہوں اور جسے آپؐ پسند کریں۔

جیش اسامہ رضی اللہ عنہ کی واپسی:

لشکر کے وہ مسلمان بھی مدینے آ گئے جو جرف میں جمع تھے بربدہ بن الحصیب بھی اسامہ رضی اللہ عنہ کا بندھا ہوا جھنڈا لے کر

آگئے وہ اسے رسول اللہ ﷺ کے دروازے پر لے آئے وہاں اسے گاڑ دیا۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیعت کر لی گئی تو انہوں نے بریدہ بن الحصیب کو جھنڈا اسامہ کے مکان لے جانے کا حکم دیا تاکہ وہ آپ کی مرضی کے مطابق روانہ ہوں، بریدہ اسے لوگوں سے پہلے لشکر گاہ کو لے گئے۔

عرب مرتد ہو گئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اسامہ رضی اللہ عنہ کے روکنے کے بارے میں گفتگو کی گئی، انہوں نے انکار کیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسامہ رضی اللہ عنہ سے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں گفتگو کی کہ وہ انہیں رہ جانے کی اجازت دے اسامہ رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی۔

اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی دوبارہ روانگی:

ربیع الآخر ۱۱ھ کا چاند ہوا تو اسامہ روانہ ہوئے وہ بیس رات میں اہل انبیٰ تک پہنچے ان پر ایک دم سے حملہ کر دیا، ان کا شعار (علامت و اصطلاح شناخت) یا منصور امت تھا، جوان کے سامنے آیا اسے قتل کر دیا اور جس پر قابو چلا اسے قید کر لیا۔ ان کی کشتیوں میں آگ لگا دی مکانات اور کھیت اور باغات جلا دیئے جس سے وہ سب علاقہ دھواں دھار ہو گیا۔ اسامہ نے ان لوگوں کے میدانوں میں اپنے لشکر کو گشت کرایا اس روز جو کچھ انہیں مال غنیمت ملا اس کی تیاری میں ٹھہرے رہے اسامہ اپنے والد کے گھوڑے سجدہ پر سوار تھے انہوں نے اپنے والد کے قاتل کو بھی غفلت کی حالت میں قتل کر دیا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کے دو حصے لگائے اور گھوڑے کے مالک کا ایک اپنے لیے اسی کے مثل حصہ لیا۔

جیش اسامہ رضی اللہ عنہ کی مدینہ میں فاتحانہ واپسی:

جب شام ہو گئی تو اسامہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو کوچ کا حکم دیا اپنی رفتار تیز کر دی نورات میں وادی القرئی میں آگئے انہوں نے بشر (مژدہ رساں) کو مدینہ بھیجا کہ وہ لوگوں کو سلامتی کی خبر دے اس کے بعد انہوں نے روانگی کا قصد کیا، چھ رات میں مدینہ پہنچ گئے مسلمانوں میں سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، ابو بکر رضی اللہ عنہ مہاجرین و اہل مدینہ کے ہمراہ ان لوگوں کو لینے کے لیے ان کی سلامتی پر اظہار مسرت کرتے ہوئے روانہ ہوئے اسامہ رضی اللہ عنہ اپنے والد کے گھوڑے سجدہ پر سوار مدینہ میں اس طرح داخل ہوئے کہ جھنڈا ان کے آگے تھا جسے بریدہ بن الحصیب اٹھائے ہوئے تھے یہاں تک کہ وہ مسجد پہنچ گئے اس کے اندر گئے۔ دو رکعت نماز پڑھی پھر اپنے گھر واپس ہوئے۔

اسامہ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کیا وہ ہر قل کو معلوم ہوا جو جمص میں تھا تو اس نے البقاء میں رہنے کے لیے ایک لشکر بھیجا وہ برابر وہیں رہے یہاں تک کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں لشکر شام کی طرف بھیجے گئے۔



طبقات ابن سعد

حصہ دوم

اخبار النبی ﷺ

طبقات کے اس دوسرے حصہ میں رسول اللہ ﷺ کا مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کرانے سے لے کر مرض الموت اور وفات تک کے حالات درج ہیں۔ آخر میں حضرت ابوبکر صدیق، عبداللہ بن انیس، حسان بن ثابت، کعب بن مالک، اروی بنت عبدالمطلب، عاتکہ بنت زید بنی النخعہ وغیرہ کے مرثیے بھی پیش کر دیئے گئے ہیں جو محبت اور درد میں ڈوبے ہوئے ہیں۔

مصنف

محمد بن سعد (المتوفی ۲۴۰ھ)

ترجمہ

علامہ عبداللہ العماویؒ

نفیس اکیسی طبعی
اُردو بازار، کراچی

طبقات ابن سعد

کے اردو ترجمہ کے دائمی حقوق طباعت و اشاعت
چوہدری طارق اقبال گامہندری
مالک ”نفیس اکیسی“ محفوظ ہیں

نام کتاب طبقات ابن سعد (حصہ دوم)

مصنف علامہ محمد بن سعد التتونی ۲۳۰ھ

مترجم علامہ عبداللہ العماوی مرحوم

اضافہ عنوانات و حواشی مولانا عبدالمنان صاحب

ناشر نفیس اکیسی اردو بازار - کراچی

قیمت /- روپے

نفیس اکیسی
اردو بازار، کراچی

طبقات ابن سعد کی خصوصیات

از: چوہدری محمد اقبال سلیم گاہندری

محمد بن سعد نے طبقات ابن سعد لکھ کر دنیائے اسلام پر وہ احسان عظیم کیا ہے جس سے قیامت تک مسلمان سر نہیں اٹھا سکتے۔ اس پر تمام امت کا اجماع ہے کہ آپ نہایت ثقہ اور معتمد مورخ تھے اور آپ نے تمام واقعات و حالات کو محدثانہ طور پر پسند صحیح لکھا ہے۔ روایت کے فن کے ساتھ آپ نے جو اعتناء کیا وہ کسی نے نہیں کیا انہوں نے ہر قسم کی روایتوں میں مسلسل سند کی جستجو کی راویوں کے حالات بہم پہنچائے۔ یہی وجہ ہے کہ طبقات ابن سعد میں تمام واقعات پسند متصل مذکور ہیں۔

پانچویں صدی سے قبل کا دور قدامت کا دور کہلاتا ہے اس دور میں تاریخ و رجال میں کتابیں لکھی گئیں ہر صدی کے حالات و واقعات کو محفوظ و مدون کیا گیا۔ صحت و روایت کو بقدر امکان محفوظ رکھا گیا۔ اس دور کے مؤرخین تمام واقعات کو حدیث کی طرح پسند متصل نقل کرتے تھے اس کا انہوں نے خاص خیال رکھا تھا۔ رہا مؤرخین کا اپنے اپنے زمانوں کے حالات سے متاثر ہونے کا معاملہ تو یہ ایک فطری چیز ہے۔ لیکن انہوں نے حتی الامکان اس تاثر کا اثر واقعات پر نہیں پڑنے دیا۔ یہ چیز طبقات ابن سعد کی خصوصیات میں سے ہے ان خصوصیات کے اعتبار سے ہم علامہ ابن اثیر طبری اور ابن سعد کا ایک مقام سمجھتے ہیں۔

طبقات ابن سعد سیرت نبویؐ پر بہت ہی جامع و بسیط کتاب ہے اور اہم کتاب ہے اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ سیرت نبویؐ پر یہ سب سے پہلی کتاب ہے جو احادیث کی روشنی میں مرتب کی گئی ہے اس کتاب سے ابن سعد کے معاصرین اور بعد کے علماء اور مؤرخین نے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے اور ہمیشہ مشعل راہ کی طرح اس کو اپنے پیش نظر رکھا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی کی نظر میں اس کتاب کی جو افضلیت اور اہمیت تھی وہ ان کے ان الفاظ سے ظاہر ہے:

”ہمیں یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوئی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے حالات میں متاخرین محدثین نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں مثلاً استیعاب، الاصابہ، اسد الغابہ۔ لیکن ابن سعد کی کتاب میں جو جامعیت ہے ان کتابوں کو اس سے کچھ نسبت نہیں۔ اس سے قیاس ہوتا ہے کہ شاید متاخرین کو یہ کتاب ہاتھ نہیں آئی یا ان کا مذاق ایسا تھا کہ اس قدر تفصیلی حالات کو وہ ضروری نہ سمجھتے تھے۔ اس کتاب میں ایک ایک جزوی واقعہ کو پسند متصل لکھا ہے اور مصنف کا زمانہ عہد نبوت کے قریب ہے اس لیے سلسلہ روایت میں تین چار راوی سے زیادہ نہیں ہوتے۔“

طبقات کے مصنف ابن سعد بہت ہی خلیل القدر عالم اور صادق الروایہ اور ثقہ محدث گزرے ہیں ان کی صداقت و ثقاہت حد درجہ مشہور تھی، علامہ خطیب، علامہ خلکان، علامہ ابن حجر، علامہ سخاوی وغیرہ ان کے صادق الروایہ اور ثقہ ہونے کے بارے میں رطب اللسان ہیں۔

ہمارا ادارہ ہمیشہ نادر اور معیاری علمی اور تاریخی کتابوں کو شائع کرنے میں پیش پیش رہا ہے کیونکہ اس کا مقصد جالب زر سے زیادہ خدمتِ علم و ادب ہے ہم نے اب تک درجنوں تاریخ، سیرت، فلسفہ اور ادب کی اہم اور معیاری کتابوں کو اہل علم حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ تاریخ طبری (۱۱ جلدیں) تاریخ ابن خلدون (چودہ حصے) زاد المعاد (۴ حصے) فتوح البلدان (۲ حصے) اقبال نامہ جہانگیری، تاریخ فیروز شاہی، تاریخ فلاسفۃ الاسلام، سفر نامہ ابن بطوطہ (۲ حصے) تاریخ الخلفاء سیوطی خلافت بنو امیہ علامہ ابن اثیر وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب ادارے کی وہ مطبوعات ہیں جن پر علم و ادب کے خزانے فخر کر سکتے ہیں۔

طبقات ابن سعد کا اردو ترجمہ ناپید ہو گیا تھا۔ بڑی کاوشوں سے حاصل کر کے ہم اسے اہل علم حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ طبقات کے اس دوسرے حصے میں رسول اللہ کا مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کرانے سے لے کر مرض الموت اور وفات تک کے حالات درج ہیں آخر میں حضرت ابو بکر صدیق، عبد اللہ بن امیس، حسان بن ثابت، کعب بن مالک، اروی بنت عبد المطلب، عاتکہ بنت عبد المطلب، عاتکہ بنت زید بن عوف وغیرہ کے مرثیے بھی پیش کر دیے ہیں جو محبت اور درد میں ڈوبے ہوئے ہیں۔



فہرست مضامین

طبقات ابن سعد (حصہ دوم)

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۵	حارث بن ابی شمر کو پیغام	۳	طبقات ابن سعد کی خصوصیات
۲۶	فروہ بن عمرو کا قبول اسلام	۱۱	اخبار النبی ﷺ
۲۷	بادشاہ عمان کو دین حق کی دعوت	۱۱	مہاجرین و انصار کے درمیان عقد مواخات
۲۸	بحرین کے گورنر کے لئے پیغام نبوی ﷺ	۱۱	مسجد نبوی کے لئے جگہ کی خریداری
۱۲	مکتوبات نبوی کا انداز تحریر	۱۲	مسجد نبوی کی تعمیر
۱۲	مختلف قبائل کی جانب حضور ﷺ کے پیغامات اور مکتوبات	۱۳	مسجد کا نقشہ
۱۳	مکتوبات	۱۳	تحويل قبلہ کا واقعہ
۲۸	وفود عرب	۱۵	تقویٰ کی بنیاد پر بننے والی مسجد
۱۶	(۱) قبیلہ مزیہ کا وفد	۱۶	اذان کا حکم اور مشاورت
۳۹	(۲) وفد بنی اسد بن خزیمہ	۱۷	قرضیت صیام و احکام عیدین و قربانی
۵۰	(۳) وفد بنو تمیم	۱۸	خطبہ نبوی کے لئے منبر بنایا جانا
۵۱	(۴) وفد بنی عیس	۱۹	استن حنان کی گریہ و زاری
۵۲	(۵) وفد بنی فزارہ	۲۱	منبر مصطفیٰ ﷺ کی شان و عظمت
۵۳	(۶) وفد مرہ	۲۲	صفہ اور اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم
۲۳	(۷) وفد بنی ثعلبہ	۲۳	جنازہ گاہ
۸	(۸) وفد محارب	۲۳	بادشاہوں کے نام مکاتیب نبوی ﷺ
۵۳	(۹) وفد بنی سعد بن بکر	۲۳	حضور ﷺ کی مہر مبارک
۱۰	(۱۰) وفد بنی کلاب	۲۳	قاصد نبوی شاہ نجاشی کے دربار میں
۱۱	(۱۱) وفد بنی رواس بن کلاب	۲۳	رسول اللہ ﷺ کا قیصر کے لئے پیغام
۵۵	(۱۲) وفد بنی عقیل بن کعب	۲۳	کسریٰ ایران کی طرف دعوت حق کا پیغام
۵۶	(۱۳) وفد جعدہ	۲۵	کسریٰ فارس کا انجام
۱۲	(۱۴) وفد بنی قشیر	۲۵	مقوقس کو دعوت اسلام

۷۵ (۳۵) وفد صداء	۵۷ (۱۵) وفد بنی البرکاء
۷۶ (۳۶) وفد فروہ بن سبک المرادی	۵۸ (۱۶) وفد وائل بن الاسقع اللثی
// (۳۷) وفد قبیلہ زبید	// (۱۷) وفد بنی عبد بن عدی
// (۳۸) وفد قبیلہ کندہ	۵۹ (۱۸) وفد اشجع
// (۳۹) وفد صدف	// (۱۹) وفد بابلہ
۷۷ (۴۰) وفد خشین	// (۲۰) وفد بنی سلیم بن منصور
// (۴۱) وفد سعد بن عذیم	۶۱ (۲۱) وفد بنی ہلال بن عامر
// (۴۲) وفد ملی	۶۲ (۲۲) وفد عامر بن طفیل
۷۸ (۴۳) وفد بہراء (یکن)	// (۲۳) وفد علقمہ بن علاشہ
// (۴۴) وفد بنی عذرہ	۶۳ (۲۴) وفد بنی عامر بن حصصہ
۷۹ (۴۵) وفد بنی سلامان	// (۲۵) وفد بنو لقیف
// (۴۶) وفد حمینہ	// عروہ بن مسعود کا قبول اسلام
۸۰ (۴۷) وفد بنی رقاش	۶۴ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کی شہادت
۸۱ (۴۸) وفد بنی جرم	// اہل طائف کا قبول اسلام
۸۳ (۴۹) وفد قبیلہ ازد	۶۵ وفو قبیلہ ربیعہ
۸۴ (۵۰) وفد غسان	// (۲۶) وفد عبد القیس (اہل بحرین)
// (۵۱) وفد بنی حارث بن کعب	۶۶ (۲۷) وفد بکر بن وائل
۸۵ (۵۲) وفد قبیلہ ہمدان	// (۲۸) وفد بنی تغلب
۸۶ (۵۳) وفد بنو سعد العشرہ	۶۷ (۲۹) وفد بنی حنیفہ
// (۵۴) وفد قبیلہ غنس بن مالک	// (۳۰) وفد شیبان
۸۷ (۵۵) وفد دارین	۷۱ وفو اہل یمن
۸۸ (۵۶) وفد الربا وین از قبیلہ مذحج	// (۳۱) وفد قبیلہ طے
۸۹ (۵۷) وفد غامد	// حاتم طائی کی بیٹی بارگاہ نبوت میں
// (۵۸) وفد قبیلہ النخ	۷۲ عدی بن حاتم کا قبول اسلام
۹۰ (۵۹) وفد بحیلہ	// (۳۲) وفد تہیب
۹۱ (۶۰) وفد قبیلہ نخعم	۷۳ (۳۳) وفد خولان
// (۶۱) وفد الاشعرین	// (۳۴) وفد قبیلہ جہنی

۱۱۱	آداب طعام	۹۱	(۶۲) وفد حضرت موت
۱۱۲	اخلاق نبوی پر حضرت انس رضی اللہ عنہ کی گواہی	۹۲	پیغام رسالت شاہ حضرت موت کے نام
//	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشعار پڑھنا	۹۳	وائل بن حجر کی دربار نبوت میں حاضری
۱۱۳	اخلاق کریمانہ میں حیاء کا پہلو	//	(۶۳) وفد قبیلہ ازد عمان
//	کثرت عبادت	۹۴	(۶۴) وفد غافق
//	پانی پینے کا نبوی انداز	//	(۶۵) وفد باریق
۱۱۴	قابل رشک ادا کیں	//	(۶۶) وفد قبیلہ دوس
//	رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل اور وضوء	۹۵	(۶۷) وفد شمالہ والحدان
//	عبادات میں عادت مبارکہ	//	(۶۸) وفد قبیلہ السلم
۱۱۵	خلق عظیم کا مرقع کامل	//	(۶۹) وفد قبیلہ جذام
//	قبول ہدیہ و صدقہ	۹۶	(۷۰) وفد مہرہ
۱۱۷	فخر و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذا کیں	//	(۷۱) وفد قبیلہ حمیر
۱۱۹	نا پسندیدہ غذا کیں	۹۷	(۷۲) وفد اہل نجران
۱۲۰	عورت اور خوشبو سے محبت	//	دعوت مہابلہ
۱۲۱	الفقر فخری کے تاجدار کے معاشی حالات	۹۸	(۷۳) وفد حیشان
۱۲۲	شمال نبوی کا حسین منظر	۹۹	(۷۴) وفد السباع درندوں کا وفد
//	جمال مصطفیٰ کی رعنائیاں	//	توریت و انجیل میں ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم
۱۲۸	بے مثل سراپا	۱۰۳	خصائل نبوی کا دل آویز نظارہ
۱۳۰	محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دلربا ادا کیں	//	بیکر خلق عظیم کے اخلاق بزبان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا
//	حسن کامل کا مرقع کامل	۱۰۵	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے نادر نمونے
۱۳۲	جمال رسالت کا بیان بزبان سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما	۱۰۸	قوت بردانہ
	مہر نبوت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان تھی	//	اپنی ذات سے قصاص لینے کا موقع
۱۳۹	درمیان تھی	۱۰۹	حسن گفتار
//	مہر نبوت	//	قراءت اور خوش الحانی
۱۴۰	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک	//	انداز خطابت
۱۴۱	داڑھی مبارک کے بال اور بڑھا پے کے آثار	//	باکمال اخلاق کا بے مثال شاہکار
۱۴۳	ثبوت خضاب کی روایات	۱۱۰	حسن رفتار

۱۶۷	زفرہ مبارک	۱۳۵	کراہت خضاب کی روایات
۱۶۸	رسول اللہ ﷺ کی ڈھال	۱۳۷	بالوں پر چونے کا لپ
//	رسول اللہ ﷺ کے نیزے اور کمان	//	چھینے لگوانا
//	رسول اللہ ﷺ کی سواریاں	۱۵۰	قص شوارب
۱۷۰	رسول اللہ ﷺ کی سواری کی اونٹیاں	//	موچھیں کتر دانا
۱۷۱	رسول اللہ ﷺ کی دودھ والی اونٹیاں	//	پوشاک و لباس مبارک
۱۷۲	رسول اللہ ﷺ کی دودھ دینے والی بکریاں	//	سفید لباس کا استعمال
//	رسول اللہ ﷺ کے خدام و آزاد کردہ غلام	۱۵۱	رنگین لباس کا استعمال
۱۷۳	رسول اللہ ﷺ اور ازواج مطہرات کے مکانات	۱۵۳	عمامہ مبارک کا رنگ
۱۷۵	رسول اللہ ﷺ کے وقف شدہ اموال	//	لباس میں سندس و حریر کا استعمال
۱۷۶	رسول اللہ ﷺ کے زیر استعمال کنوئیں	۱۵۴	رسول اللہ ﷺ کے لباس مبارک کی لمبائی اور چوڑائی
۱۷۹	آثار و وفات	//	ازار (تہبند) مبارک
//	زندگی کے آخری ایام اور کثرت استغفار	۱۵۵	سر مبارک ڈھانپ کر رکھنے کی عادت
۱۸۱	آخری سال میں قرآن مجید کا دوبارہ دور اور طویل اعتکاف	//	لباس پہننے وقت دعا
//	رسول اللہ ﷺ پر یہود کے جادو کا اثر	۱۵۶	ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھنا
//	رسول اللہ ﷺ کو بذریعہ زہر شہید کرنے کی یہودی	۱۵۷	حالت استراحت
۱۸۳	کوشش	۱۵۹	رسول اللہ ﷺ کا جائے نماز
۱۸۶	زہر دینے والی عورت کا قتل	۱۶۰	سونے کی انگوٹھی کی ممانعت
//	آنحضرت ﷺ کا شہدائے اہل بیت کے لئے	//	رسول اللہ ﷺ کی چاندی کی انگوٹھی
//	استغفار فرمانا	۱۶۱	حضور علیہ السلام کی مہر مبارک
۱۸۸	رسول اللہ ﷺ کے ایام علالت	۱۶۲	نقش مہربنوی ﷺ
//	علالت کا آغاز	۱۶۳	رسول اللہ ﷺ کی انگوٹھی کا کنوئیں میں گرنا
//	تکلیف کی شدت اور کیفیت مرض	//	رسول اللہ ﷺ کے نعلین مبارک
۱۹۰	حضور علیہ السلام کے شفا یہ کلمات	۱۶۵	موزے مبارک
۱۹۳	مرض کے ایام میں صحابہ جنی اللہ کی امامت	۱۶۶	رسول اللہ ﷺ کی مسواک
//	حضور علیہ السلام کے حکم سے ابو بکر جنی اللہ کی امامت	//	رسول اللہ ﷺ کا کنگھا سرمہ آئینہ اور پیالہ
۱۹۴	آخری بار زیارت مصطفیٰ ﷺ	۱۶۷	سیف النبی ﷺ

۲۲۱	حضور علیہ السلام کا سر مبارک آغوش صدیقہ نبی اللہ میں	۱۹۷	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مصلی پر آنے کا واقعہ
۲۲۲	جسد اطہر کو غسل دینے کی سعادت	//	سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مصلی نبوی ﷺ پر
//	بعد از وفات یحییٰ چادر اوڑھانا	۱۹۹	حضور علیہ السلام کی زندگی میں سترہ نمازوں میں امامت
۲۲۳	سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا رخ مصطفیٰ پر بوسہ	//	ایام علالت میں شان ابو بکر رضی اللہ عنہ میں فرامین نبوی ﷺ
۲۲۴	وفات نبوی ﷺ پر اصحاب سول اللہ رضی اللہ عنہ کی حالت و	۲۰۰	خلافت کا اشارہ
۲۲۵	کیفیت	۲۰۱	مناقب صدیق بزرگان رحمت عالم ﷺ
//	خطبہ صدیقی رضی اللہ عنہ	۲۰۲	زندگی اور موت میں سے انتخاب کا اختیار
۲۲۹	یوم وفات	۲۰۳	ازواج مطہرات کے مابین مساوات
۲۳۰	رسول اللہ ﷺ کی تعزیت		ازواج کی اجازت سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں
۲۳۱	کرتے سمیت غسل دینے کا حکم	۲۰۴	منہج
۲۳۲	آنحضرت ﷺ کو غسل دینے کا اعزاز	۲۰۵	سیدہ عائشہ صدیقہ نبی اللہ رضی اللہ عنہا نے مسواک چبا کر دی
۲۳۳	تکفین مصطفیٰ ﷺ	۲۰۶	مرض وفات میں دوا کا پلایا جانا
۲۳۴	تین چادروں میں کفن	//	اللہ کے نبی کو موزی مرض نہیں ہوتا
۲۳۵	جسد رسالت پر حنوط (خوشبو) کا استعمال	۲۰۷	وفات سے قبل مال کی تقسیم
//	رسول اللہ ﷺ کی نماز جنازہ	۲۰۸	قبر پر مسجد بنانے والے بدترین خلاق
۲۳۹	روضہ انور (آرام گاہ رسالت مآب ﷺ)	//	یہود پر لعنت
۲۴۱	رسول اللہ ﷺ کی لحد مبارک	۲۱۰	وصیت نبوی ﷺ اور واقعہ قرطاس
۲۴۲	فرش قبر	۲۱۲	حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشورہ
۲۴۳	آنحضرت ﷺ کو قبر میں اتارنے والے		مرض وفات میں حضور علیہ السلام کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے
۲۴۴	مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا اعزاز	۲۱۳	گفتگو
۲۴۵	آنحضرت ﷺ کی تدفین	۲۱۴	حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمان نبوی
۲۴۶	قبر پر پانی چھڑکنا	۲۱۵	النصار کے متعلق فرمان رسالت ﷺ
//	قبر مصطفیٰ کی ہیئت	۲۱۷	مرض وفات میں وصیت نبوی ﷺ
۲۴۸	وفات کے وقت رسول اللہ ﷺ کی عمر	۲۱۹	آنحضرت ﷺ کی صحابہ رضی اللہ عنہم کو وعائیں
۲۴۹	رنج و غم سے صحابہ رضی اللہ عنہم اور اہل بیت کی حالت	//	اختتامی کلمات اور کیفیات
۲۵۱	رسول اللہ ﷺ کی وراثت	۲۲۰	وفات نبوی ﷺ کا المناک سانحہ
۲۵۲	ایفائے عہد اور آپ ﷺ کے قرض کی ادائیگی	//	ملک الموت کی آمد

۲۸۳	عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا علم کتاب	۲۵۴	حضور علیہ السلام کے غم میں اشعار کہنے والے حضرات
//	ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی شان علم	//	حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اشعار
۲۸۴	عہد نبوی میں قرآن جمع کرنے والے اصحاب رضی اللہ عنہم	۲۵۵	عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کے اشعار
۲۸۶	زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا علم قرآن اور مہارت تحریر	۲۵۶	حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اشعار
۲۸۸	علم حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بے مثال مقام	۲۶۱	کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے اشعار
۲۸۹	مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما	//	اروئی بنت عبدالمطلب رضی اللہ عنہا کے اشعار
۲۹۰	حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما صحابہ و تابعین کی نظر میں	۲۶۳	عاتکہ بنت عبدالمطلب رضی اللہ عنہا
۲۹۱	حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا حلقہ درس	۲۶۵	صفیہ بنت عبدالمطلب رضی اللہ عنہا کے اشعار
۲۹۴	عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی علمی احتیاط	۲۶۹	ہند بنت الحارث بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہا کے اشعار
//	عبداللہ بن عمر و ابن العاص رضی اللہ عنہما	۲۷۰	ہند بنت اٹاشہ کے اشعار جو مسطح بن اثاثہ کی بہن تھیں
//	چند فقیہ صحابہ رضی اللہ عنہم	۲۷۱	عاتکہ بنت زید بن عمرو بن نفیل کے اشعار
//	ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم	۲۷۲	ام ایمن رضی اللہ عنہا کے غم ناک اشعار
۲۹۵	اکابر صحابہ سے قلت روایت کی وجہ	۲۷۳	صحابہ رضی اللہ عنہم کی اتباع و پیروی کا حکم
۲۹۸	اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل علم اور اہل فقہ تابعین	//	مناقب شیخین
//	سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ	۲۷۴	علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی قوت فیصلہ
۳۰۱	فقہیان و مفتیان مدینہ	۲۷۶	عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا فقہی مقام
//	سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ	//	ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی امتیازی حیثیت
۳۰۲	ابوبکر بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہ	۲۷۷	عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا علم قرآن
//	عکرمہ رضی اللہ عنہ مولیٰ ابن عباس رضی اللہ عنہما	۲۷۸	ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی عظیم الشان قراءت
//	عطاء بن ابی رباح رضی اللہ عنہ	۲۷۹	اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
۳۰۳	عمرہ بنت عبدالرحمن و عمرو بن زبیر رضی اللہ عنہ	۲۸۰	معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی عظمت
//	محمد بن جلیل ابن شہاب زہری رضی اللہ عنہ	۲۸۲	اہل علم و فتویٰ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم

طبقات ابن سعد

حصہ دوم

اخبار النبی ﷺ

مہاجرین و انصار کے درمیان عقد مواخات:

زہری وغیرہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ مدینے تشریف لائے تو آپؐ نے بعض مہاجرین کا بعض سے اور مہاجرین و انصار کا باہم اس شرط پر عقد مواخات کر دیا کہ حق پر ساتھ رہیں گے، باہم ہمدردی و غم خواری کریں گے اور ذوی الارحام مرنے کے بعد ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔

یہ نوے آدمی تھے (جن میں عقد مواخات ہوا) پینتالیس مہاجرین اور پینتالیس انصار میں سے۔ یہ غزوہ بدر سے پہلے تک تھا جب جنگ بدر ہوئی اور اللہ نے آیت: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ نازل فرمائی تو اس آیت نے ماقبل حکم کو منسوخ کر دیا۔ میراث کے بارے میں مواخات ختم ہو گئی اور ہر انسان کی میراث اس کے نسب و ورثہ و ذورحم کی طرف لوٹ گئی۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے انس رضی اللہ عنہ کے گھر میں مہاجرین و انصار کے درمیان معاہدہ حلفی کرایا۔

مسجد نبوی کے لئے جگہ کی خریداری:

زہری سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی اونٹنی مسجد رسول اللہ ﷺ کے مقام پر گردن خم کر کے بیٹھ گئی اس زمانے میں اسی جگہ مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے وہ (جگہ) شترخانہ تھی جو انصار کے دو یتیم لڑکوں سہل و سہیل کی تھی وہ دونوں ابوامامہ اسد بن زرارہ کی ولایت میں تھے۔

رسول اللہ ﷺ نے ان دونوں لڑکوں کو بلایا۔ ان کے سامنے شترخانہ کی بہت بڑی قیمت پیش کی کہ آپؐ اسے مسجد بنائیں۔ ان دونوں نے عرض کی یا رسول اللہ! ہم تو آپؐ کو ہبہ کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے انکار فرمایا اور اس کو ان دونوں سے خرید لیا۔

مسجد نبوی کی تعمیر:

زہری سے مروی ہے کہ آپ نے اسے دس دینار میں خریدا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ رقم دے دیں، وہ محض احاطے کی شکل میں ایک دیوار تھی جس پر چھت نہ تھی اس کا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا اسد بن زرارہ نے اسے تعمیر کیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ کی تشریف آوری سے پہلے وہ اپنے ساتھیوں کو، جو گناہ نماز جمعہ پڑھایا کرتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس احاطہ میں کھجور اور غرقہ کے جو درخت تھے ان کے کاٹنے کا حکم دیا۔ کئی اینٹوں کا حکم دیا جو تیار کی گئیں۔

اس شتر خانہ میں زمانہ جاہلیت کی جو قبریں تھیں رسول اللہ ﷺ کے حکم سے کھود ڈالی گئیں آپ نے ہڈیوں کے پوشیدہ کرنے کا حکم دیا اسی شتر خانے میں پانی کا چشمہ تھا۔ لوگوں نے اسے ہٹا دیا یہاں تک کہ وہ غائب ہو گیا۔

مسجد کا نقشہ:

مسجد کی بنیاد رکھی گئی، طول قبلہ کی طرف سے پیچھے تک سو ہاتھ رکھا اور دونوں جانبوں میں بھی اسی طرح رکھا وہ مربع تھی۔ کہا جاتا ہے کہ سو ہاتھ سے کم تھی، بنیاد تقریباً تین ہاتھ زمین کے اوپر تک پتھر سے بنائی، تعمیر کچی اینٹ سے ہوئی رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب نے کام کیا آپ بہ نفس نفیس ان کے ساتھ پتھر ڈھوتے اور فرماتے تھے کہ:

اللہم لا عیش الا عیش الاخوہ فاغفر الانصار والمہاجرہ

”اے اللہ عیش تو آخرت ہی کا عیش ہے۔ لہذا تو انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما۔“

ہذا الحمال لاحمال خیر ہذا بر ربنا واطہر

یہ خیر کی بار برداری نہیں ہے۔ اے ہمارے رب یہ بہت پاکیزہ و نیک ہے۔“

قبلہ بیت المقدس کی طرف کیا، تین دروازے بنائے ایک دروازہ پچھلے حصے میں ایک دروازہ جس کو باب الرحمہ کہا جاتا ہے اسی کو باب عاتکہ بھی کہا جاتا تھا۔ تیسرا دروازہ وہ تھا جس سے رسول اللہ ﷺ اندر تشریف لاتے تھے۔ یہی دروازہ آل عثمان رضی اللہ عنہ کے متصل تھا۔

دیوار کا طول بہت وسیع رکھا ستون کھجور کے تنے کے اوپر چھت کھجور کی شاخوں کی بنائی گذارش کی گئی کہ اسے پاٹ کیوں نہیں دیتے۔ فرمایا کہ یہ جھونپڑی موسیٰ کی جھونپڑی کی طرح ہے جو چند چھوٹی چھوٹی لکڑیوں اور پھوس کی تھی۔ اس کے پہلو میں چند حجرے کچی اینٹوں کے بنائے جن کو کھجور کے تنے اور شاخوں سے پانا۔

جب آپ اس تعمیر سے فارغ ہوئے تو اس حجرے کو جس کے متصل مسجد کا راستہ تھا عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے مخصوص فرمایا۔ سودہ بنت زمعہ کو دوسرے حجرے میں کیا جو اسی کے متصل اس دروازے کی طرف تھا کہ آل عثمان رضی اللہ عنہ سے متصل تھا۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جہاں نماز کا وقت آتا تھا آپ وہیں نماز پڑھ لیتے تھے آپ بکریوں کے باندھنے کی جگہ پہلے نماز پڑھا کرتے تھے پھر مسجد کا حکم دیا گیا تو بنی نجار کے ایک گروہ کو بلا بھیجا۔ وہ لوگ آپ کے پاس آئے تو فرمایا کہ مجھ سے اپنے اس باغ کی قیمت لے لو۔ ان لوگوں نے کہا نہیں۔ واللہ ہم اس کی قیمت سوائے اللہ کے کسی سے نہیں چاہتے۔

اس نے کہا کہ اس میں مشرکین کی قبریں تھیں کھجور کا باغ تھا چٹائیں تھیں۔ رسول اللہ ﷺ نے کھجور کا باغ کو اڈیا۔ مشرکین کی قبریں کھدوادیں اور چٹانوں کو برابر کر اڈیا۔ لوگوں نے کھجوروں کو قبلہ کی طرف قطار میں کھڑا کر دیا اور اس کے دونوں جانب پتھر رکھے۔ وہ لوگ اور ان کے ساتھ رسول اللہ ﷺ بھی رجز پڑھتے تھے۔ اور آپ فرماتے تھے:

اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَةِ فَانصِرَاهُ انصار والمهاجرة

”اے اللہ آخرت کی خیر کے سوا کوئی خیر نہیں۔ لہذا تو انصار و مہاجرین کی مدد کر۔“

عمار رضی اللہ عنہ طاق و راہی تھے وہ دو دو پتھر اٹھاتے تھے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ اے ابن سمیہ! شاباش! تمہیں باغیوں کا گروہ قتل کرے گا۔ زہری سے مروی ہے کہ جب لوگ مسجد بنا رہے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

هَذَا الْحِمَالُ لَا حِمَالٌ خَيْرٌ هَذَا بَرٌّ رَبَّنَا وَالطَّهْرُ

”بارہے تو یہ ہے خیر کا بار کچھ نہیں۔ اے ہمارے پروردگار یہ زیادہ نیک و پاک ہے۔“

زہری کہا کرتے تھے کہ آپ نے سوائے اس شعر کے کبھی کوئی شعر نہیں سنایا اور نہ اس کا ارادہ کیا سوائے اس کے کہ وہ آپ سے پہلے کہا گیا ہو۔

تحویل قبلہ کا واقعہ:

عثمان بن محمد الاغسی وغیرہم سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب مدینہ ہجرت فرمائی تو آپ نے سولہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، آپ چاہتے تھے کہ اسے کعبہ کی طرف پھیر دیا جائے۔

آپ نے فرمایا کہ اے جبریل میری خواہش ہے کہ اللہ میرا رخ یہود کے قبلہ سے پھیر دے جبریل نے کہا کہ میں تو محض ایک بندہ ہوں آپ اپنے رب سے دعا کیجئے اور اسی سے درخواست کیجئے۔

آپ نے ایسا ہی کیا، جب نماز پڑھتے تھے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاتے تھے۔ آپ پر یہ آیت نازل ہوئی: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴾ (ہم آسمان کی طرف آپ کے چہرے کا اٹھنا دیکھتے ہیں۔ ہم ضرور آپ کو ایسے قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ خوش ہوں گے) اس نے آپ کو کعبے میں میزاب کی طرف متوجہ کر دیا۔

کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ ام بشر بن البراء بن معرور کی زیارت کو بنی سلمہ تشریف لے گئے تھے انہوں نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا۔ ظہر کا وقت آ گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنے اصحاب کو دو رکعتیں پڑھائیں پھر حکم دیا گیا کہ اپنا رخ کعبہ کی طرف کر لیں، آپ کعبہ کی طرف گھوم گئے اور میزاب کو سامنے کیا۔ اس مسجد کا نام قبلتین رکھ دیا گیا۔ یہ واقعہ ہجرت کے سترہویں مہینے ۱۵ ربیع الثانی کو ہوا۔

ہجرت کے اٹھارہویں مہینے شعبان میں رمضان کے روزے فرض کیے گئے محمد بن عمرو نے کہا ہمارے نزدیک یہی درست ہے۔ سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مدینہ تشریف لانے کے بعد سولہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی پھر غزوہ بدر سے دو ماہ قبل آپ کو کعبہ کی طرف پھیر دیا گیا۔

براء سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سولہ یا سترہ مہینے بیت المقدس کی جانب نماز پڑھی آپ کو یہ پسند تھا کہ قبلہ بیت اللہ کی جانب ہو جائے۔ آپ نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی یا آپ نے نماز عصر پڑھی اور آپ کے ساتھ ایک جماعت نے بھی نماز پڑھی۔

جن لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی ان میں سے ایک شخص نکلے جو ایک مسجد والوں پر گزرے کہ رکوع کی حالت میں تھے۔ انہوں نے کہا میں خدا کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ مکے کی جانب نماز پڑھی۔ وہ لوگ جس طرح تھے اسی طرح بیت اللہ کی طرف گھوم گئے۔

انس بن مالک جی اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ آیت نازل ہوئی (جس کا ترجمہ اوپر گزر چکا) کہ ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴾۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴿لَئِنْ آوَاكَ إِلَىٰ مَنَافِتِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (لہذا آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے)۔

بنی سلمہ کے ایک شخص ایک جماعت پر گزرے جو فجر کی نماز میں بحالت رکوع تھے۔ وہ لوگ ایک رکعت پڑھ چکے تھے ان صاحب نے ندا دی کہ خبردار قبلہ کعبہ کی طرف پھیر دیا گیا ہے۔ وہ لوگ کعبہ کی طرف پھر گئے۔ کثیر بن عبد اللہ المزنی نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہ جب رسول اللہ ﷺ مدینے تشریف لائے تو ہم لوگ آپ کے ساتھ تھے آپ نے سترہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔

عمارہ بن اوس الانصاری سے مروی ہے کہ ہم نے شب کی دو نمازوں میں سے ایک نماز پڑھی تھی کہ ایک شخص مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوا۔ ہم نماز ہی میں تھے اس نے ندا دی کہ نماز کا رخ کعبہ کی طرف کر دیا گیا امام اور بچے اور عورتیں سب کعبہ کی طرف پھر گئے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب مکہ میں تھے تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے حالانکہ کعبہ آپ کے سامنے ہی تھا۔ ہجرت فرمانے کے سولہ مہینے بعد تک یہی عمل رہا پھر آپ کو کعبہ طرف متوجہ کر دیا گیا۔

محمد بن کعب القرظی سے مروی ہے کہ کبھی کسی نبی نے سنت و قبلہ کے بارے میں کسی نبی کی مخالفت نہیں کی سوائے اس کے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب سے آپ مدینے تشریف لائے سولہ مہینے تک بیت المقدس کو قبلہ بنایا۔ پھر محمد بن کعب نے یہ آیت پڑھی: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا﴾ (اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا جس کی اس نے نوح علیہ السلام کو وصیت کی تھی)۔

براء سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب شروع میں مدینے تشریف لائے تو اپنے ناناؤں یا ماموؤں کے پاس اترے جو انصار میں سے تھے سولہ یا سترہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی لیکن پسند یہی تھا کہ قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے۔ آپ نے جو سب سے پہلی نماز (بیت اللہ کی طرف نماز) پڑھی وہ نماز عصر تھی۔ یہ نماز آپ کے ساتھ ایک جماعت نے بھی پڑھی۔

جن لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی ان میں سے ایک شخص نکلے ایک مسجد والوں کے قریب سے گزرے جو رکوع کی حالت میں تھے تو کہا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مکے کی طرف نماز پڑھی ہے وہ لوگ جس حالت

میں تھے بیت اللہ کی طرف گھوم گئے۔

آپ کو پسند یہی تھا کہ قبلہ بیت اللہ کی جانب پھیر دیا جائے۔ جب آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے تو یہ یہود و اہل کتاب کو پسند تھا۔ جب اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا تو ان لوگوں نے اس کو برا کہا۔

براء سے ان کی اسی حدیث میں مروی ہے کہ چند آدمی قبل اس کے کہ قبلہ بیت اللہ کی طرف پھیرا جائے اسی قبلے پر وفات پا گئے یا شہید ہو گئے، ہمیں معلوم نہ ہوا کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ اللہ نے یہ آیت نازل کی: ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءٍ وَرَحِيمٍ﴾ (اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان برباد کر دے۔ اللہ لوگوں کے ساتھ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے)۔

تقویٰ کی بنیاد پر بننے والی مسجد:

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وغیرہ سے مروی ہے کہ جب قبلہ کعبہ کی طرف پھیر دیا گیا تو رسول اللہ ﷺ قباء میں تشریف لائے، آپ نے مسجد قباء کی دیوار کو اس مقام پر آگے بڑھا دیا جہاں وہ آج ہے، آپ نے اس کی بنیاد رکھ دی۔ اور فرمایا کہ جبرائیل مجھے بیت اللہ کا رخ بتائیں گے رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب نے اس کی تعمیر کے لیے پھر ڈھوئے۔

رسول اللہ ﷺ ہر ہفتے وہاں پیادہ تشریف لایا کرتے تھے، فرمایا کہ جو وضو کرے اور اچھی طرح کرے پھر مسجد قبا میں آئے اور اس میں نماز پڑھے تو اسے عمرے کا ثواب ملے گا۔

عمر بنی النضر و دشنبہ و بنی شنبہ کو اس میں آتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر یہ مسجد کسی اور طرف بھی ہوتی تو ہم ضرور اس کے سفر میں اونٹوں کو ہلاک کرتے۔

ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ یہی وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے۔ ابی بن کعب اور دوسرے اصحاب رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ یہ رسول اللہ ﷺ کی مسجد ہے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے ﴿لمسجد أسس على التقوى﴾ (البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی وہ اس امر کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں) کی تفسیر میں روایت کی کہ وہ مسجد قبا ہے۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ مسجد بنی عمرو بن عوف میں جو مسجد قباء تھی تشریف لے گئے، انصار کے کچھ لوگ بھی آکر آپ کو سلام کرنے لگے۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ آنحضرت ﷺ کے ہمراہ صحیب بھی مسجد میں گئے تھے۔ میں نے صحیب سے پوچھا کہ جب آنحضرت ﷺ کو سلام کیا جاتا تھا تو آپ کیسے جواب دیتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ فرماتے تھے۔

عبدالرحمن بن ابی سعید خدری نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ دو شنبہ کو قبا گیا ہوں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی ﷺ قباء میں پیادہ و سوار ہو کر تشریف لایا کرتے تھے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ مسجد قباء میں جاتے تھے اور اس میں دو رکعت نماز پڑھتے تھے۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ قباء گئے۔ آپ اٹھ کر نماز پڑھنے لگے۔ آپؐ کو پاس انصار آئے اور سلام کرنے لگے۔ میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپؐ نے رسول اللہ ﷺ کو کس طرح ان لوگوں کو سلام کا جواب دیتے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپؐ نماز ہی کی حالت میں اپنے ہاتھ سے ان کی طرف اشارہ فرماتے تھے۔

ام بکر بنت السمر سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر مسجد قباء آفاق میں سے کسی اُفق میں بھی ہوتی تو ہم ضرور اس کے سفر میں اونٹوں کو ہلاک کرتے۔

اسد بن ظہیر سے جو رسول اللہ ﷺ کے اصحاب میں سے تھے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص مسجد قباء میں آئے اور نماز پڑھے تو یہ نماز مثل عمرے کے ہوگی۔

اذان کا حکم اور مشاورت:

سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ وغیرہم سے مروی ہے کہ اذان کا حکم ہونے سے نبی ﷺ کے زمانے میں آنحضرت ﷺ کا منادی لوگوں کو ندا دیتا تھا کہ (الصلوة جامعة) نماز جمع کرنے والی ہے۔ تو لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ جب قبلہ کعبہ کی طرف پھیر دیا گیا تو اذان کا حکم دیا گیا۔

رسول اللہ ﷺ کو اذان کے معاملے کی بھی بڑی فکر تھی لوگوں نے آپؐ سے ان چند باتوں کا ذکر بھی کیا جن سے لوگ نماز کے لیے جمع ہو جائیں۔ بعض نے کہا کہ صور اور بعض نے کہا کہ ناقوس بجا دیا جائے۔

لوگ اسی حالت میں تھے کہ عبداللہ بن زید الخزرجی کو نیند آ گئی۔ انہیں خواب میں دکھایا گیا کہ ایک شخص اس کیفیت سے گزرا کہ اس کے بدن پر دو مہر چادریں ہیں۔ ہاتھ میں ناقوس ہے۔

عبداللہ بن زید نے کہا کہ میں نے (اس شخص سے) کہا: کیا تم یہ ناقوس بیچتے ہو؟ اس نے جواب دیا: تم اسے کیا کرو گے؟ میں نے کہا خریدنا چاہتا ہوں کہ نماز میں حاضری کے لیے اس کو بجاؤں۔ اس نے کہا: میں آپؐ لوگوں کے لیے اس سے بہتر بیان کرتا ہوں۔ کہو کہ:

اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمداً رسول اللہ، حی علی الصلوۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ

عبداللہ بن زید رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور آپؐ کو خبر دی تو آپؐ نے فرمایا کہ تم بلال کے ساتھ کھڑے ہو اور جو کچھ تم سے کہا گیا ہے انہیں سکھا دو وہ یہی اذان کہیں انہوں نے ایسا ہی کیا۔

عمر رضی اللہ عنہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے جیسا انہوں نے دیکھا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ حمد اللہ ہی کے لیے ہے اور یہی سب سے زیادہ درست ہے۔

اہل علم نے کہا کہ یہی اذان کہی جانے لگی اور ”الصلوة جامعة“ کی ندا محض کسی امر حادث کے لیے رہ گئی۔ اس کی وجہ سے لوگ حاضر ہوتے تھے اور انہیں اس امر کی خبر دی جاتی تھی۔ مثلاً فتح کی خبر پڑھ کر سنائی جاتی تھی یا اور کسی امر کا ان کو حکم دیا جاتا تھا تو

”الصلوة جامعۃ“ کی ندادی جاتی تھی۔ اگرچہ وہ نماز کے وقت میں نہ ہو۔

عبداللہ بن زید الانصاری سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اذان کے بارے میں لوگوں سے مشورہ طلب فرمایا اور فرمایا کہ میں نے یہ قصد کیا ہے کہ لوگوں کو بھیجوں کہ وہ مدینے کے قلعوں اور بلند مکاتوں پر کھڑے ہو کر نماز کی اطلاع کریں، بعض لوگوں نے قصد کیا کہ ناقوس بجائیں۔

عبداللہ بن زید اپنے اہل خانہ کے پاس آئے ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم تمہیں شام کا کھانا نہ کھلائیں؟ جواب دیا۔ میں کھانا نہ کھاؤں گا کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہے کہ نماز کے معاملے نے آپ کو سخت فکر میں ڈال دیا ہے۔ وہ سو گئے اور خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے بدن پر سبز کپڑے ہیں وہ مسجد کی چھت پر کھڑا ہے اس نے اذان کہی پھر پیڑ بٹھ گیا، پھر کھڑا ہوا اور نماز کی اقامت کہی۔

یہ اٹھ کر رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے خواب کی خبر دی آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ بلال رضی اللہ عنہ کو سکھادیں۔ انہوں نے سکھا دیا۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو آئے۔

عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بھی آئے اور عرض کی ”یا رسول اللہ ﷺ میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے جو انہوں نے دیکھا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تمہیں میرے پاس آنے سے کون سا امر مانع تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب میں نے اپنے کو پیش پیش دیکھا تو مجھے شرم آئی۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارادہ فرمایا کہ کوئی ایسی چیز مقرر کر دیں جو لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرے آپ کے پاس بوق (بگل) اور بگل والوں کا ذکر کیا گیا تو ناپسند فرمایا۔ ناقوس اور ناقوس والوں کا ذکر کیا گیا تو اس کو بھی ناپسند فرمایا۔

انصار کے ایک شخص کو جن کا نام عبداللہ بن زید تھا اذان خواب میں سنائی گئی۔ اسی شب کو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو بھی اذان کا خواب دکھایا گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب صبح ہوگی تو میں رسول اللہ ﷺ کو خبر دوں گا۔ انصار رات ہی سے رسول اللہ ﷺ کے پاس چلے گئے اور خبر کر دی۔ رسول اللہ ﷺ نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا انہوں نے نماز کی اذان کہی۔

اس کے آگے راوی نے لوگوں کی اسی اذان کا ذکر کیا جو اس زمانے میں دی جاتی ہے بلال رضی اللہ عنہ نے صبح کی اذان میں ”الصلوة خیر من النوم“ کا اضافہ کیا جس کو رسول اللہ ﷺ نے باقی رکھا یہ کلمہ اس اذان میں نہ تھا جو اذان انصاری کو خواب میں سنائی گئی تھی۔

فریضیت صیام و احکام عیدین و قربانی:

عائشہ امین عمر و ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی ہجرت کے اٹھارہویں مہینے شعبان میں قبلے کے کعبہ کی طرف پھیرے جانے کے ایک مہینے بعد ماہ رمضان کا فرض (روزہ) نازل ہوا اسی سال رسول اللہ ﷺ نے صدقہ فطر کا حکم دیا۔ یہ زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے کی بات ہے۔

آپؐ نے حکم دیا کہ صغیر و کبیر، حرو و عبد مذکور و مؤنث سب کی طرف سے کھجور یا کشمش یا جو کا ایک صاع (تقریباً ساڑھے تین سیر) گیہوں کے دو مد (نصف صاع نکالے جائیں)۔

رسول اللہ ﷺ عید الفطر سے دو روز پہلے خطبہ ارشاد فرماتے تھے اور لوگوں کو عید گاہ جانے سے پہلے اس کے نکالنے کا حکم دیتے تھے۔ آپؐ نے فرمایا کہ گشت کرنے سے اس دن مساکین کو غنی کر دو۔ آپؐ جب (نماز سے) واپس آتے تھے تو اس کو تقسیم فرماتے تھے۔

رسول اللہ ﷺ نے نماز عید، عید گاہ میں یوم الفطر کو خطبہ سے پہلے پڑھی۔ نماز عید یوم الاضحیٰ میں (خطبے سے پہلے) پڑھی اور قربانی کا حکم دیا مدینے میں آپؐ دس سال اسی طرح مقیم رہے کہ ہر سال قربانی کرتے تھے۔ نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے قربانی کو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ مدینے میں دس سال اسی طرح مقیم رہے کہ قربانی ترک نہ کرتے تھے۔ اس کے بعد اس حدیث کا مضمون بھی حدیث سابق سے مل جاتا ہے۔

اہل علم نے کہا کہ آپؐ عید کی نماز خطبے سے پہلے بغیر اذان و اقامت کے پڑھا کرتے تھے آپؐ کے آگے ایک ٹیڑھی موٹھ کی لکڑی (سترہ کے لیے) اٹھا کر لگا دی جاتی تھی (کہ گزرنے والوں کا نماز میں سامنا نہ ہو) یہ لکڑی زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کی تھی جس کو وہ ملک حبشہ سے لائے تھے اور ان سے رسول اللہ ﷺ نے لے لی تھی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے لیے عید کے روز ٹیڑھی موٹھ کی لاٹھی اٹھا کر لگا دی جاتی تھی جس کی طرف (رخ کر کے) آپؐ نماز پڑھتے تھے پھر اس حدیث کا مضمون حدیث سابق کے مضمون سے ملتا ہے۔ اہل علم نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ جب قربانی کرنا چاہتے تھے تو دو مینڈھے خریدتے جو خوب فرہہ سینگ والے اور چربی والے ہوتے تھے۔

جب آپؐ نماز و خطبہ پڑھ لیتے تو ان میں سے ایک کو لایا جاتا تھا، مقام نماز پر کھڑے کھڑے اسے اپنے ہی دست مبارک سے چھری سے ذبح فرماتے تھے۔ پھر فرماتے تھے کہ اے اللہ یہ میری اس تمام امت کی طرف سے ہے جو تیری توحید اور میری رسالت کی گواہی دے۔

دوسرے کو لایا جاتا تھا۔ اسے آپؐ اپنی طرف سے اپنے ہی ہاتھ سے ذبح کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ محمد و آل محمد (ﷺ) کی طرف سے ہے ان دونوں میں سے آپؐ اور اہل بیت نوش فرماتے تھے۔ مساکین کو بھی کھلاتے تھے آپؐ (محلہ) طرف الرقاق کے قریب مکان معاویہ کے پاس ذبح فرماتے تھے۔

محمد بن عمرو نے کہا کہ ہمارے نزدیک تمام ائمہ مدینہ اسی طرح کرتے تھے۔

خطبہ نبوی کے لئے منبر بنایا جانا:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وغیرہ سے مروی ہے کہ جمعے کے روز رسول اللہ ﷺ مسجد میں ایک کھجور کے تنے کے پاس کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ آپؐ نے فرمایا کہ کھڑا ہونا مجھ پر گراں ہے تمہیں داری نے گزارش کی کہ کیا میں آپؐ کے لیے ایک منبر نہ بنالوں جیسا میں نے ملک شام میں بنتے دیکھا ہے؟

رسول اللہ ﷺ نے اس بارے میں مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ سب کی رائے ہوئی کہ آپؐ اسے بنالیں۔ عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا ایک غلام ہے جس کا نام کلاب ہے وہ سب سے زیادہ کام کرنے والا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ آپؐ اسے حکم دیجئے کہ وہ اس (منبر) کو بنادے۔

عباس رضی اللہ عنہ نے اسے جنگل میں درخت اثلہ (کائٹے کو) بھیجا (جس کی لکڑی سخت و مضبوط ہوتی ہے) اس نے اسے کاٹا۔ اس کے دو درجے اور ایک نشست گاہ بنا کے لایا اور اسی مقام پر رکھ دیا جہاں آج ہے۔

رسول اللہ ﷺ آئے اس پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میرا یہ منبر جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہے اور میرے منبر کے پائے جنت کے مراتب ہیں۔ فرمایا کہ میرا منبر میرے حوض (کوثر) پر ہے۔ اور فرمایا کہ میرے منبر اور میرے حجرے کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے حقوق کے متعلق قسم لینے کا معمول اپنے منبر کے پاس مقرر فرمایا۔ اور فرمایا کہ جو شخص میرے منبر پر (کھڑا ہو کر) جھوٹا حلف لے خواہ وہ پیلو کی مسواک ہی پر کیوں نہ ہو اسے چاہیے کہ دوزخ میں ٹھکانہ بنالے۔ رسول اللہ جب منبر پر چڑھتے تھے تو سلام کرتے تھے۔ جب بیٹھ جاتے تھے تو مؤذن اذان کہتے تھے۔ آپؐ دو خطبے پڑھا کرتے تھے۔ دو جلسے کیا کرتے تھے۔ اپنی انگلی سے اشارہ کرتے تھے اور لوگ آمین کہا کرتے تھے۔

جمعے کے روز آپؐ اپنے عصا پر جو درخت شوط کا تھا (درخت شوط سرو کی شکل کا ایک پہاڑی درخت ہے جس کی لکڑی کی کمانیں بنائیں جاتی تھیں) تکیہ لگا کر خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ دوران خطبہ میں لوگ اپنے چہرے آپؐ کے روبرو رکھتے تھے اور اپنے کان لگا دیتے تھے۔ آنکھوں سے آپؐ کو دیکھا کرتے تھے۔ جب آفتاب ڈھل جاتا تب آپؐ نماز جمعہ پڑھاتے تھے۔ آپؐ کی ایک یمنی چادر تھی جو چھ ہاتھ لمبی اور تین ہاتھ اور ایک بالشت چوڑی تھی۔ عمان کی بنی ہوئی ایک تہمتھی جس کی لمبائی چار ہاتھ اور ایک بالشت تھی جمعہ وعید کے روز آپؐ انہیں دونوں کو استعمال فرماتے تھے پھر تہ کر کے رکھ دی جاتی تھیں۔

عباس بن اہل سعد الساعدی نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ جمعے کے روز جب خطبہ پڑھتے تھے تو ایک دو شاخہ لکڑی سے سہارا لگا کر کھڑے ہو جاتے جو میرے خیال میں تاڑ کی تھی اور آپؐ کی جائے نماز میں تھی آپؐ اسی سے تکیہ لگایا کرتے تھے۔

اصحاب نے عرض کی یا رسول اللہ لوگ بہت ہو گئے ہیں اگر آپؐ کوئی چیز بنا کر خطبہ پڑھتے وقت اس پر کھڑے ہوتے تو لوگ آپؐ کو دیکھتے فرمایا: تم لوگ جو چاہو (کرو)۔ اہل نے کہا: مدینے میں صرف ایک ہی بڑھی تھا۔ میں اور وہ بڑھی خافقین گئے اور ہم نے یہ منبر درخت اثلہ سے بنایا۔

استن حنانہ کی گریہ و زاری:

نبی ﷺ اس پر کھڑے ہوئے تو وہ لکڑی (جس پر پہلے سہارا لگاتے تھے) گنگنائی نبی ﷺ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو اس لکڑی کی گنگناہٹ سے تعجب نہیں ہوتا؟ (اس کے سننے کے لیے) لوگ (قریب) آئے اور اس کی گنگناہٹ سے پریشان ہو گئے

یہاں تک کہ لوگوں کی گریہ و زاری بڑھ گئی۔

نبی ﷺ (منبر سے) اتر کے اس (لکڑی) کے پاس گئے۔ اپنا ہاتھ اس پر رکھا تو اسے سکون ہو گیا۔ نبی ﷺ نے اس کے متعلق حکم دیا تو اسے آپ کے منبر کے نیچے دفن کر دیا گیا یا چھت پر لگا دیا گیا۔

عبدالہمسن بن عباس بن سہل بن سعد الساعدی نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہ نبی ﷺ کے لیے غابہ (جنگل) کے درخت طرفاء سے تین درجے (کا منبر) بنایا، سہل اس کی ایک ایک لکڑی اٹھا کر لائے تھے یہاں تک کہ انہوں نے اس کو مقام منبر پر رکھ دیا۔

جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کھجور کے ایک تنے سے سہارا لگا کر کھڑے ہوا کرتے تھے جو مسجد میں نصب تھا جب آپ کو مناسب معلوم ہوا کہ آپ منبر بنوائیں رسول اللہ ﷺ نے اسے بنوایا۔

جمعے کا دن ہوا تو رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اس منبر پر بیٹھ گئے جب اس تنے نے آپ کو نہ پایا تو ایسی گنگناہٹ شروع کی جس نے لوگوں کو پریشان کر دیا رسول اللہ ﷺ اپنی نشست گاہ سے اٹھ کے اس کے پاس گئے (دست مبارک سے) مس کیا تو اسے سکون ہو گیا۔ اس روز کے بعد سے کوئی گنگناہٹ نہیں سنی گئی۔

طفیل بن ابی کعب نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ کھجور کے ایک تنے کے پاس (کھڑے ہو کر) خطبہ پڑھتے تھے۔

اصحاب میں سے ایک شخص نے کہا: یا رسول اللہ کیا آپ کی مرضی ہے کہ میں آپ کے لیے ایک منبر بناؤں کہ جمعے کے روز آپ اس پر تشریف لائیں تو لوگ آپ کی زیارت کریں اور آپ انہیں اپنا خطبہ سنائیں؟ فرمایا کہ ہاں۔ انہوں نے آپ کے لیے تین زینے بنائے جو وہی ہیں کہ بالائی حصے پر ہیں۔ منبر بن گیا اور اپنے مقام پر رکھ دیا گیا۔

رسول اللہ ﷺ نے اس منبر پر کھڑے ہونے کا ارادہ فرمایا آپ اس کے پاس (جانے کے لیے) گزرے تو وہ تاج چلایا اس میں شکاف پڑ گیا اور شق ہو گیا۔

رسول اللہ ﷺ (منبر سے) اترے اور اپنے ہاتھ سے چھوا یہاں تک کہ اسے سکون ہو گیا پھر آپ منبر پر واپس آ گئے۔ (اس کے قبل) جب آپ نماز پڑھتے تھے تو اسی تنے کے پاس پڑھتے تھے۔

جب مسجد منہدم کر دی گئی اور تبدیل کر دی گئی تو اس تنے کو ابی بن کعب نے لے لیا وہ ان کے پاس ان کے مکان ہی میں رہا یہاں تک کہ پرانا ہو گیا۔ اسے دیمک نے کھالیا اور سرنگل گیا۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کھجور کے تنے کے پاس خطبہ پڑھا کرتے تھے جب آپ نے منبر بنوایا اور اس پر منتقل ہوئے تو وہ تہ گنگنایا۔ آپ اس کے پاس آئے گلے سے لگایا اور فرمایا کہ اگر میں اسے گلے نہ لگاتا تو یہ قیامت تک گنگناتا۔

عبدالعزیز بن ابی حازم نے اپنے والد سے روایت کی کہ انہوں نے سہل بن سعد سے دریافت کیا کہ وہ منبر کس لکڑی کا تھا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فلاں خاتون سے کہلا بھیجا (سہل نے ان کا نام بھی لیا تھا) کہ اپنے غلام بڑھی کو حکم دو کہ وہ

میرے لیے لکڑیاں بنادے کہ میں اس پر (کھڑے ہو کر) لوگوں کو کلام سناؤں۔ اس نے یہی تین زینے الفار کے درخت طر فاء سے بنائے رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا تو وہ اس مقام پر رکھ دیا گیا۔

سہل نے کہا کہ میں نے پہلے ہی روز رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ اس پر بیٹھے اور تکبیر کہی لوگوں نے بھی تکبیر کہی۔ آپ نے رکوع کیا حالانکہ منبر ہی پر تھے پھر اٹھے اتر آئے اور منبر کی جڑ میں سجدہ کیا پھر دوبارہ کیا یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو گئے۔ اس میں آپ نے وہی کیا جیسا کہ آپ نے پہلی رکعت میں کیا تھا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا کہ اے لوگو! میں نے یہ محض اس لیے کیا کہ تم میری اقتدا کرو اور تمہیں میری نماز معلوم ہو جائے۔

جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ زمانہ نبی ﷺ میں اس مسجد کی چھت کھجور کے تنوں پر پٹی ہوئی تھی نبی ﷺ جب خطبہ پڑھتے تھے تو انہیں تنوں میں سے ایک تنے کے پاس کھڑے ہوتے تھے۔ جب منبر بنایا گیا تو اس پر تشریف فرما ہونے لگے۔ ہم لوگوں نے اس تنے کی ایسی آواز سنی جیسی آٹھ نو مہینے کی گابھن اونٹنیوں کی آواز ہوتی ہے یہاں تک کہ نبی ﷺ آئے اور اس پر اپنا ہاتھ رکھا تو اسے سکون ہو گیا۔

منبر مصطفیٰ ﷺ کی شان و عظمت:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ میرا یہ منبر جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہے۔ سہل بن سعد سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ میرا یہ منبر جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

میرے منبر اور میرے حجرے کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا منبر حوض (کوثر) پر ہے (یعنی قیامت میں حوض کوثر پر آپ کے لیے رکھا جائے گا)۔

ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرے منبر کے پائے جنت میں مراتب (درجات) ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرے منبر کے پائے جنت میں مراتب (درجات) ہیں۔

جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اس منبر کے پاس جھوٹی قسم کھائے گا وہ لامحالہ اپنا دوزخ میں ٹھکانہ بنا لے گا اگرچہ وہ قسم سبز مسواک ہی پر کیوں نہ ہو۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص میرے منبر کے پاس جھوٹی قسم کھائے گا خواہ وہ تر مسواک ہی پر کیوں نہ ہو اس کے لیے دوزخ واجب ہو جائے گی۔

ابراہیم بن عبد الرحمن بن عبد القاری سے مروی ہے کہ انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ اپنا ہاتھ منبر پر نبی ﷺ کی نشست گاہ پر رکھا پھر اس کو اپنے چہرے پر رکھا (یعنی بوسہ دیا)۔

یزید بن عبد اللہ بن قسبط سے مروی ہے کہ میں نے چند اصحاب نبی ﷺ کو دیکھا کہ جب مسجد خالی ہوتی تھی تو وہ منبر کے اس سادہ لٹوکو جو قبر شریف کے متصل ہے اپنے دامن ہاتھوں سے پکڑتے تھے پھر قبلہ رخ ہو کر دعا مانگتے تھے۔

صفہ اور اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم:

یزید بن عبد اللہ بن قسیط سے مروی ہے کہ اصحاب صفہ رسول اللہ ﷺ کے وہ اصحاب تھے جن کا کوئی مکان نہ تھا رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں وہ مسجد ہی میں سوتے تھے اس کے سائے میں رہتے تھے۔ سوائے اس کے ان لوگوں کا کوئی اور ٹھکانہ نہ تھا رسول اللہ ﷺ جب شام کا کھانا نوش فرماتے تو ان لوگوں کو بلاتے اور انہیں (کھانا کھلانے کے لیے) اپنے اصحاب پر تقسیم فرما دیتے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ شب کا کھانا کھاتا یہاں تک کہ اللہ تو نگری لایا۔

ابن کعب القرظی سے اس آیت کی تفسیر میں کہ ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ احْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ﴾ (یعنی صدقات ان فقراء کے لیے ہیں جو اللہ کی راہ میں مقید ہیں) اصحاب صفہ مراد ہیں۔ مدینے میں ان لوگوں کا کوئی مکان نہ تھا نہ اقارب تھے لہذا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو انہیں صدقہ دینے پر ابھارا۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے میں اہل صفہ کو دیکھا کہ وہ لوگ رسول اللہ ﷺ کے پیچھے اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ ان کے بدن پر چادریں نہ ہوتی تھیں۔ واٹلہ بن الاسقع سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے میں اصحاب کو رسول اللہ ﷺ کے پیچھے تہدوں میں نماز پڑھتے دیکھا۔ جن میں میں بھی تھا۔ (یعنی اوڑھنے کو چادر تک نہ تھی صرف ایک تہہ باندھے رہتے تھے)۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شب رسول اللہ ﷺ برآمد ہوئے اور فرمایا کہ اصحاب صفہ کو بلا دو۔ میں ایک ایک شخص کو تلاش کر کے بیدار کرنے لگا یہاں تک کہ انہیں جمع کیا۔ ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے باب عالی پر حاضر ہوئے۔ ہم نے (حاضری کی) اجازت چاہی تو ہمیں اجازت دی گئی۔ آپ نے ہمارے لیے ایک پیالہ رکھا جس میں کوئی چیز جو کی تیار کی ہوئی تھی۔

اس پر آپ نے اپنا ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا کہ بسم اللہ لو ہم لوگوں نے اس میں سے جتنا چاہا کھایا۔ (سیر ہونے کے بعد) ہم نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے جس وقت وہ پیالہ رکھا گیا تھا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد ﷺ کی جان ہے اس کھانے کے سوا جو تم لوگ دیکھتے ہو آل محمد میں اور کسی کھانے کی نوبت آج رات نہیں آئی۔ ہم لوگوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جب آپ لوگ فارغ ہوئے تو وہ کس قدر باقی رہا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جیسا رکھا گیا تھا ویسا ہی رہا سوائے اس کے کہ اس میں انگلیوں کے نشان ہو گئے تھے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی حیات میں میں اہل صفہ میں سے تھا اور یہ کیفیت تھی کہ ام سلمہ و عائشہ رضی اللہ عنہما کے حجروں کے درمیان مارے بھوک کے مجھ پر عشی طاری ہو جاتی تھی۔

ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں بھی اہل صفہ میں سے تھا۔

یعیس بن قیس بن طہفۃ الغفاری نے اپنے والد سے روایت کی:

”میں بھی اصحاب صفہ میں سے تھا“۔

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی ﷺ کے مدینے تشریف لانے پر جب کوئی قریب مرگ ہوتا تو آپ کے پاس حاضر ہو کر خبر دیتے تھے آپ اس کے پاس آتے اور اس کے لیے استغفار فرماتے جب اس کی روح قبض ہو جاتی تو آپ اور آپ کے ہمراہی واپس جاتے تھے اکثر آپ اس کے دفن تک بیٹھے رہتے تھے۔ اور اکثر آپ کی یہ پابندی طویل ہو جاتی تھی۔

جب ہمیں آپ پر اس کی مشقت کا اندیشہ ہوا تو قوم کے بعض افراد نے بعض سے کہا کہ واللہ کیا اچھا ہوتا کہ ہم نبی ﷺ کو بغیر قبض روح کے کسی کی اطلاع نہ کرتے۔ اس کی روح قبض ہو جاتی تو آپ کو اطلاع کر دیتے تاکہ آپ پر مشقت و پابندی نہ ہو۔ ہم لوگوں نے یہی کیا، مرجانے کے بعد ہم آپ کو مطلع کرتے تھے۔ آپ اس کے پاس آتے تھے۔ دعائے رحمت و مغفرت فرماتے تھے۔ اکثر آپ اس کے بعد واپس ہو جاتے تھے اور اکثر میت کے دفن ہونے تک ٹھہر جاتے تھے۔

ہم لوگ ایک زمانے تک اس معمول پر رہے۔ لوگوں نے کہا کہ واللہ کیا اچھا ہوتا ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کو (اپنی جگہ سے) نہ اٹھاتے۔ میت کو آپ کے مکان کے پاس لے جاتے آپ کو کہلا بھیجتے اور آپ اپنے مکان ہی کے پاس نماز پڑھ دیتے یہ آپ کے لیے زیادہ سہل اور زیادہ آسان ہوتا۔ ہم نے یہی کیا۔

محمد بن عمرو نے کہا کہ اسی وجہ سے اس مقام کا نام موضع الجنازہ رکھ دیا گیا کیونکہ جنازے وہاں لائے جاتے تھے۔ آج تک جنازوں کو وہاں لے جانے اور اسی مقام پر ان پر نماز پڑھنے کے بارے میں لوگوں کا یہی معمول جاری ہے۔

بادشاہوں کے نام مکاتیب نبوی ﷺ

دعوت اسلام اور مکاتیب نبوی ﷺ

ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے متعدد طرق و اسناد سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ ذی الحجہ ۱۱ھ میں حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو قاصدوں کو سلاطین کے پاس دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا ان کے نام فرمان تحریر فرمائے۔ حضور ﷺ کی مہر مبارک:

عرض کی گئی یا رسول اللہ سلاطین کوئی تحریر نہیں پڑھتے تاوقتیکہ اس پر مہر نہ لگی ہو۔ رسول اللہ ﷺ نے اسی روز ایک چاندی کی مہر بنوائی جس کا نگینہ بھی چاندی ہی کا تھا اس پر تین سطر میں یہ نقش تھا: ”محمد رسول اللہ“ اسی سے آپ نے فرمانوں پر مہر لگائی، ان قاصدوں میں سے چھ آدمی ایک ہی دن روانہ ہوئے یہ محرم ۱۱ھ کا واقعہ ہے۔ ان میں سے ہر شخص اس قوم کی زبان میں کلام کر سکتا تھا جن کے پاس آپ نے انہیں بھیجا تھا۔

قاصد نبوی شاہ نجاشی کے دربار میں:

سب سے پہلے قاصد جن کو رسول اللہ ﷺ نے نجاشی کے پاس بھیجا تھا عمرو بن امیہ الضمری تھے۔ آپ نے نجاشی کو دو فرمان تحریر فرمائے تھے ایک میں انہیں دعوت اسلام دی تھی اور قرآن کی آیات تحریر فرمائی تھیں۔ نجاشی نے رسول اللہ ﷺ کا فرمان لے لیا۔ آنکھوں سے لگا یا بطور تواضع کے اپنے تخت سے زمین پر اتر آئے۔ پھر اسلام لائے کلمہ شہادت ادا کیا اور کہا کہ اگر مجھے آپ

کی خدمت میں حاضری کی گنجائش ہوتی تو ضرور آپ کے پاس حاضر ہوتا انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو اپنی فرماں برداری اور تصدیق اور اللہ رب العالمین کے لیے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر اسلام لانا لکھ دیا۔

دوسرے فرمان میں آپ نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان بن حرب کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیں جنہوں نے اپنے شوہر عبید اللہ بن جحش الاسدی کے ہمراہ ملک حبشہ کو ہجرت کی تھی ابن جحش حبشہ ہی میں نصرانی ہو گیا اور مر بھی گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمان میں یہ حکم دیا تھا کہ جو اصحاب وہاں ہیں انہیں آپ کے پاس بھیج دیں اور سوار کر دیں۔

نجاشی نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے ام حبیبہ بنت ابی سفیان بن حرب کا نکاح آپ کے ساتھ کیا اور آپ کی جانب سے چار سو دینار مہر ادا کیا۔ مسلمانوں کے سفر کا اور جو چیزیں انہیں درکار ہوں سب کا سامان کر کے عمرو بن امیہ الضمری کے ہمراہ دو کشتیوں میں سوار کر دیا۔ ہاتھی دانت کا ایک ڈبہ مگاکہ رسول اللہ ﷺ کے دونوں فرمان اس میں رکھ دیئے۔ اور کہا کہ اہل حبشہ بحالت خیر رہیں گے جب تک یہ دونوں فرمان ان کے درمیان ہیں۔

رسول اللہ ﷺ کا قیصر کے لئے پیغام:

اہل علم نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے وحید بن خلیفہ الکلسی کو جو ان چھ میں سے ایک تھے قیصر کے پاس بھیجا کہ وہ اسے دعوت اسلام دیں آپ ﷺ نے ایک فرمان بھی تحریر فرما دیا اور انہیں یہ حکم دیا کہ اسے عظیم بصری (یعنی والی) کو دیں کہ وہ اسے قیصر کو دے دے۔

عظیم بصری نے اسے قیصر کو دے دیا جو اس زمانے میں محض میں تھا۔ قیصر اس زمانہ میں ایک نذر میں جو اس پر واجب تھی پیادہ چل رہا تھا۔ نذریہ تھی کہ اگر رومی فارس پر غالب آگئے تو قسطنطنیہ سے ایلایاء (بیت المقدس) تک برہنہ پا جائے گا۔ اس نے فرمان کو پڑھا محض کے ایک گرجا میں عظمائے روم کو حاضری کی اجازت دی اور کہا کہ اے گروہ روم کیا تمہیں فلاح و رشد کی اپنی سلطنت کو اپنے لیے قائم رہنے کی اور جو کچھ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے فرمایا اس کی پیروی کی خواہش ہے؟ رومیوں نے کہا کہ اے بادشاہ وہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ ان نبی عربی (ﷺ) کی پیروی کرتے ہو؟ یہ سن کر وہ لوگ گورخر کی طرح بھڑک گئے۔ اونٹ کی طرح بلبلائے اور صلیب اٹھالی۔ ہر قتل نے یہ حالت دیکھی تو وہ ان کے اسلام سے مایوس ہو گیا۔ اسے اپنی جان اور سلطنت کا اندیشہ ہوا۔ آخر انہیں تسکین دی کہ میں نے جو کچھ کہا وہ محض اس لیے تھا کہ امتحان لے کے یہ دیکھوں اپنے دین میں تمہاری چنگی کیسی ہے۔ میں نے تمہاری وہی کیفیت دیکھی جو میں چاہتا ہوں ان سب نے اسے سجدہ کیا۔

کسری ایران کی طرف دعوت حق کا پیغام:

اہل علم نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے عبداللہ بن حذافہ السہمی کو جو (مذکورہ بالا) چھ میں سے ایک تھے کسری کے پاس بھیجا کہ وہ اسے دعوت اسلام دیں۔ ایک فرمان بھی تحریر فرما دیا تھا۔

عبداللہ نے کہا کہ میں نے کسری کو رسول اللہ ﷺ کا فرمان دے دیا جو اسے پڑھ کر سنایا گیا اس نے اسے لے لیا اور چاک کر ڈالا۔ جب یہ واقعہ رسول اللہ ﷺ کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ اس کے ملک کو پارہ پارہ کر دے۔ کسری نے

اپنے عامل یمن باذان کو لکھا کہ تم اپنے پاس سے دو بہادر آدمیوں کو اس شخص کے پاس جو حجاز میں ہے بھیجو کہ وہ دونوں میرے پاس اس کی خبر لائیں۔ باذان نے قہر مانہ اور ایک شخص کو بھیجا اور ایک خط بھی لکھ دیا۔ یہ دونوں مدینے آئے اور انہوں نے باذان کا خط نبی ﷺ کو دے دیا۔

کسری فارس کا انجام:

رسول اللہ ﷺ مسکرائے اور دونوں کو دعوت اسلام دی۔ ان کی یہ کیفیت تھی کہ (آپ کے) رعب سے لرزہ بر اندام تھے۔ آپ نے فرمایا کہ آج تو تم دونوں میرے پاس سے جاؤ۔ کل پھر آنا تو میں اپنے ارادے سے تمہیں آگاہ کروں گا۔ دوسرے روز وہ دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے فرمایا کہ تم دونوں اپنے صاحب (باذان) کو یہ خبر پہنچا دو کہ اسی شب کو جو شب سہ شنبہ ارجمادی الاولیٰ سے تھی، سات بجے میرے رب نے اس کے رب (کسری) کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بیٹے شیرویہ کو اس پر مسلط کر دیا، جس نے اسے قتل کر دیا یہ دونوں شخص اس خبر کو لے کر باذان کے پاس واپس گئے تو باذان اور وہ سب مولد قبائل کہ یمن میں ”انباء“ کہلاتے تھے اسلام لے آئے۔

مقوقس کو دعوت اسلام:

اہل علم نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے حاطب بن ابی بلتعہ النخعی کو چھ قاصدوں میں سے ایک تھے مقوقس والی اسکندریہ کے پاس بھیجا جو قوم قبط کا سردار تھا اسے دعوت اسلام دیں اور ایک فرمان بھی تحریر فرمایا۔ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کا فرمان اسے پہنچا دیا۔ مقوقس نے وہ فرمان لے لیا اور اسے ہاتھی دانت کے ڈبے میں رکھ کے اس پر مہر لگا دی اور اسے اپنی کنیر کے سپرد کر دیا۔ نبی ﷺ کو لکھا کہ مجھے معلوم ہے کہ ایک نبی باقی ہیں اور میں یہ خیال کرتا تھا کہ وہ ملک شام میں ظہور فرمائیں گے۔ میں نے آپ کے قاصد کا احترام کیا ہے اور آپ کے پاس دو کنیریں بھیجی ہیں جن کا قوم قبط میں بڑا مرتبہ ہے۔ میں نے ہدیہ آپ کو ایک چادر اور ایک مادہ خنجر بھیجی ہے کہ آپ اس پر سوار ہوں مقوقس نے اس سے زیادہ کچھ نہ لکھا اور اسلام نہیں لایا۔

رسول اللہ ﷺ نے اس کا ہدیہ قبول فرمایا اور دونوں کنیریں بھی لے لیں جو ماریہ ام ابراہیم بن رسول اللہ ﷺ اور ان کی بہن سیرین تھیں۔ مادہ خنجر بھی لے لی جو سفید تھی اس زمانے میں عرب میں اس کے سوا کوئی اور (ایسی مادہ خنجر) نہ تھی۔ اور یہی دلدل تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس خبیث نے اپنی سلطنت پر بھل کیا۔ حالانکہ اس کی سلطنت کو کوئی بقاء نہیں۔ حاطب نے کہا کہ وہ مہمان داری میں میرا کرام کرتا تھا۔ میں نے صرف پانچ روز اس کے پاس قیام کیا۔

حارث بن ابی شمر کو پیغام:

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے شجاع بن وہب الاسدی کو جو چھ میں سے ایک تھے حارث بن ابی شمر الغسانی کے پاس بھیجا کہ اسے دعوت اسلام دیں۔ ایک فرمان بھی تحریر فرمایا۔ شجاع نے کہا کہ میں اس کے پاس گیا۔ وہ غوطہ دمشق میں قیصر کی مہمان داری و مدارات کی تیاری میں مشغول تھا جو حص سے ایلیاء آنے والا تھا۔

میں دو یا تین روز تک اس کے دروازے پر مقیم رہا۔ اس کے دربان سے کہا کہ میں نبی رسول اللہ ﷺ کا قاصد ہو کر اس کے پاس آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم اس کے پاس نہیں پہنچ سکتے تاوقتیکہ فلاں فلاں تاریخیں گزر نہ جائیں۔ دربان رومی تھا۔ اس کا نام مری تھا مجھ سے رسول اللہ ﷺ کو دریافت کرنے لگا میں اس سے رسول اللہ ﷺ کے حالات اور آپ کی دعوت و تبلیغ کا تذکرہ کرتا تھا تو اس کا دل بھرتا تھا یہاں تک کہ اس پر گریہ وزاری غالب آ جاتی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ میں نے انجیل پڑھی ہے میں یحییٰ نبی (ﷺ) کا حال پاتا ہوں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کی تصدیق کرتا ہوں حارث سے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دے گا یہ دربان میرا کرام کرتے اور اچھی طرح مہمان نوازی کرتے تھے۔

ایک روز حارث نکلا اور بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے سر پر تاج رکھا مجھے اپنے پاس آنے کی اجازت دی میں نے رسول اللہ ﷺ کا فرمان اسے دے دیا۔ اس نے اسے پڑھ کے پھینک دیا اور کہا کہ مجھ سے میری سلطنت کون چھین سکتا ہے۔ میں ان (آنحضرت ﷺ) کے پاس جانے والا ہوں خواہ وہ یمن میں ہوں۔ لوگوں کو بھیج کے میں ان کو اپنے پاس بلواؤں گا۔ وہ اسی طرح کی فرضی باتیں کرتا رہا پھر اٹھا اور گھوڑوں کے نعل لگانے کا حکم دیا۔ پھر مجھ سے کہا کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو اپنے صاحب (آنحضرت ﷺ) سے بتا دینا۔

یہ واقعات جن کی ذیل میں اپنا ارادہ بھی واضح کر دیا تھا قیصر کو لکھ بھیجے۔ قیصر نے اسے لکھا کہ تو آنحضرت ﷺ کی جانب نہ جا آپ سے بے پرواہ رہو۔ اور ایلیم میں میرے پاس پہنچ جا۔

جب اس کے پاس کا جواب آ گیا تو اس نے مجھے بلایا اور کہا کہ تم اپنے صاحب کے پاس روانہ ہونے کا کب ارادہ رکھتے ہو۔ میں نے کہا کہ کل۔ اس نے میرے لیے سو مشقال سونے کا حکم دیا۔ (ایک مشقال = ۲۴۴ ماشے) مری (دربان) نے بھی میرے ساتھ احسان کیا اور میرے لیے زارہ اور لباس کا حکم دیا اور کہا کہ رسول اللہ ﷺ سے میرا سلام کہہ دینا۔

میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور آپ کو خبر دی تو آپ نے فرمایا کہ اس کی سلطنت برباد گئی۔ میں نے آپ سے مری کا سلام بھی کہہ دیا اور جو کچھ کہا تھا اس کی بھی خبر دے دی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مری نے سچ کہا۔ (یعنی انجیل میں میرے تذکرے کا حوالہ صحیح ہے) حارث بن ابی شمر اس سال مرا جس سال مکہ معظمہ فتح ہوا ہے۔
فروہ بن عمرو کا قبول اسلام:

اہل علم نے کہا کہ فروہ بن عمرو الجذامی علاقہ بلقاء پر قیصر کے عامل تھے مگر رسول اللہ ﷺ نے انہیں کچھ نہیں تحریر فرمایا۔ فروہ خود ہی اسلام لائے۔ اپنے اسلام لانے کی عرضداشت رسول اللہ ﷺ کو لکھی۔ آپ کو ہدیہ بھیجا اور اپنے پاس سے اپنی قوم کے ایک قاصد کو جن کا نام مسعود بن سعد تھا روانہ کیا۔

رسول اللہ ﷺ نے ان کا خط پڑھا ہدیہ قبول فرمایا اور جواب تحریر فرما دیا۔ آپ نے مسعود کو ساڑھے بارہ اوقیہ جو پانچ سو درم تھے انعام دیا۔ اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سلیط بن عمرو العامری کو جو چھ قاصدوں میں سے ایک تھے ہوزہ بن علی انجی کے پاس بھیجا کہ اسے دعوت اسلام دیں۔ ایک فرمان بھی تحریر فرما دیا۔ وہ اس کے پاس گئے تو اس نے انہیں ٹھہرایا۔ ان کی

حفاظت کی نبی ﷺ کا فرمان پڑھا اور ایسا جواب دیا جو مرتبے سے کم تھا۔

نبی ﷺ کو لکھا کہ آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ نہایت خوب اور بہت اچھی ہے۔ میں اپنی قوم کا شاعر و خطیب ہوں عرب میرے مرتبے سے ڈرتے ہیں۔ لہذا کچھ امور میرے سپرد کر دیجیے تو میں آپ کی پیروی کر لوں۔ اس نے سلیط بن عمرو کو کچھ انعام اور ہجر کے بنے ہوئے کپڑوں کا لباس بھی دیا۔ وہ ان سب چیزوں کو نبی ﷺ کے پاس لائے اور جو کچھ اس نے کہا تھا اس کی خبر آپ کو دی۔

آپ نے اس کا خط پڑھا اور فرمایا کہ اگر وہ مجھ سے زمین کے پانی کا بہاؤ بھی مانگتا تو میں منظور نہ کرتا۔ وہ بھی برباد ہوا اور جو اس کے ہاتھوں میں ہے وہ بھی برباد گیا۔ جب آپ فتح مکہ سے واپس آئے تو آپ کے پاس جبریل آئے اور انہوں نے اطلاع دی کہ وہ مر گیا۔

بادشاہ عمان کو دین حق کی دعوت:

اہل علم نے کہا کہ ذی القعدہ ۸ھ میں رسول اللہ ﷺ نے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو بغرض دعوت اسلام جنیف و عبد فرزند ان الجندی کے پاس بھیجا۔ یہ دونوں قبیلہ ازد کے تھے۔ دونوں میں بادشاہ جنیف تھے ان دونوں کے نام ایک فرمان بھی تحریر فرما دیا اور فرمان پر مہر بھی لگا دی۔ عمرو بن العاص نے کہا کہ جب میں عمان آیا تو عبد کے پاس جانے کا ارادہ کیا جو ان دونوں شخصوں میں زیادہ بردبار اور زیادہ نرم مزاج کے تھے۔

میں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کی جانب سے میں تمہارے اور تمہارے بھائی کے پاس قاصد ہو کر آیا ہوں۔ عبد نے کہا کہ میرے بھائی مجھ سے عمرو سلطنت میں بڑھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو ان کے پاس پہنچا دوں گا کہ وہ آپ کا لایا ہوا فرمان پڑھ لیں۔ میں چند روز تک ان کے دروازے پر ٹھہرا رہا۔ انہوں نے مجھ کو بلایا تو میں ان کے پاس گیا اور وہ مہر لگا ہوا فرمان دے دیا۔ انہوں نے اس کی مہر توڑی اور آخر تک پڑھ کے اپنے بھائی کو دے دیا۔ انہوں نے بھی انہیں کی طرح پڑھا۔ میں نے ان کے بھائی کو دیکھا کہ وہ ان سے زیادہ رقیق القلب تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے آج کی مہلت دیجئے اور کل میرے پاس آئیے۔ صبح ہوئی تو میں ان کے پاس گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے جس امر کی دعوت دی ہے اس میں میں نے غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ جب میں اپنے مقبوضات کا ایک شخص کو مالک بنا دوں گا تو اس وقت میں تمام عرب سے زیادہ کمزور ہو جاؤں گا میں نے کہا کہ اچھا تو میں کل روانہ ہونے والا ہوں۔

جب انہیں میری روانگی کا یقین ہو گیا تو صبح کو بلا بھیجا، میں گیا تو انہوں نے اور ان کے بھائی نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی ﷺ کی تصدیق کی اور مجھے زکوٰۃ لینے اور لوگوں میں حکومت کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔

جو میری مخالفت کرتا تھا اس کے خلاف دونوں میرے مددگار ہو گئے ان کے اغیاء سے میں نے زکوٰۃ وصول کی اور ان کے فقراء میں تقسیم کر دی میں برابر انہیں لوگوں میں مقیم رہا یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کی خبر پہنچ گئی۔

بحرین کے گورنر کے لئے پیغام نبوی ﷺ:

رسول اللہ ﷺ نے ہجرانہ سے اپنی واپسی کے وقت علاء بن الحضرمی کو منذر بن ساوی العبدی کے پاس بھیجا جو بحرین میں تھے کہ وہ انہیں دعوت اسلام دیں۔ آپ نے ان کے نام ایک فرمان بھی تحریر فرما دیا۔ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو اپنے اسلام اور آنحضرت ﷺ کی تصدیق کی خبر لکھی کہ میں نے آپ کا فرمان اہل ہجر کو سنایا۔ ان میں سے بعض نے اسلام کو پسند کیا جو انہیں اچھا معلوم ہوا وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے بعض نے ناپسند کیا میرے ملک میں مجوس و یہود ہیں اس بارے میں مجھے آپ اپنے حکم سے از سر نو مطلع فرمائیے۔ رسول اللہ ﷺ نے مجوس ہجر کو ایک فرمان تحریر فرما کر ان پر اسلام پیش کیا اور تحریر فرمایا کہ اگر وہ انکار کریں تو ان سے جزیہ لیا جائے۔ ان کی عورتوں سے نکاح نہ کیا جائے اور نہ ان کا ذبیحہ کھایا جائے۔

رسول اللہ ﷺ نے علاء کو اونٹ گائے بکری پھل اور مال کے فرائض (زکوٰۃ) تحریر فرمائے علاء نے آپ کا فرمان لوگوں کو سنایا اور اسی کے مطابق زکوٰۃ وصول کی۔

مکتوبات نبوی کا انداز تحریر:

شعیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ بھی قریش کی طرح (فرمان کے سرنامہ) پر ”باسمک اللہم“ (یعنی اے اللہ تیرے نام سے شروع کرتا ہوں) تحریر فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ پر یہ آیت نازل ہوئی: ﴿وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبَهَا وَمَرْسَهَا﴾ تو آپ ”بسم اللہ“ لکھنے لگے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی: ﴿قُلْ ادْعُوا اللَّهَ او ادْعُوا الرَّحْمَنَ﴾ تو آپ ”بسم اللہ الرحمن“ لکھنے لگے جب یہ آیت نازل ہوئی ﴿اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَاِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ تو آپ ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ لکھنے لگے۔

مختلف قبائل کی جانب حضور ﷺ کے پیغامات اور مکتوبات:

شعیب رضی اللہ عنہ وغیرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کل صبح کو تم سب کے سب میرے پاس آنا آپ کا معمول یہ تھا کہ نماز فجر پڑھ چکے تو مصلیٰ ہی پر تھوڑی دیر تیج پڑھتے اور دعا کرتے۔ پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ آپ نے ایک گروہ کو ایک جماعت کی طرف بھیجا اور ان سے فرمایا کہ خدا کے لیے اس کے بندوں میں نیکی و خیر خواہی کرنا۔ کیونکہ جس شخص کو لوگوں کے امور کا راعی (رعایا کا نگہبان) بنایا جائے وہ ان کی خیر خواہی نہ کرے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے جاؤ اور ایسا نہ کرنا جیسی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے قاصدوں نے کیا تھا کہ وہ قریب کے پاس خبر گیری کو آتے اور بعید کو چھوڑ دیتے تھے۔ پھر غفلت سے بیدار ہوئے۔

ان میں ہر شخص اس قوم کی زبان میں باتیں کر سکتا تھا جس کی طرف ان کو بھیجا جا رہا تھا۔ نبی ﷺ سے یہ بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں کے معاملات میں جو حقوق اللہ کے ان لوگوں پر واجب ہیں ان میں یہ سب سے بڑا حق ہے (کہ یہ ان کی زبان جانیں)۔

رسول اللہ ﷺ نے اہل یمن کو ایک فرمان تحریر فرمایا جس میں انہیں شرائع اسلام اور مواشی و مال کے بارے میں فرائض

زکوٰۃ کی خبر دی اور وصیت فرمائی کہ ان صحابہ رضی اللہ عنہم اور نامہ بروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ اہل یمن کی جانب آپ کے پیامبر معاذ بن جبل و مالک بن مرارہ رضی اللہ عنہ تھے آپ نے ان لوگوں کے ان کے قاصد کے اپنے پاس پہنچنے کی اور جو پیام اس نے ان کی جانب سے پہنچایا تھا اس کی بھی خبر دی۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اہل یمن کی ایک جماعت کو نام بنام تحریر فرمایا جن میں حارث بن عبدکلال و شریح بن عبدکلال و نعیم بن عبدکلال و نعمان قیل ذی یزن و معافروہمان و زرعہ ذی ریین بھی تھے۔ یہ زرعہ قبیلہ حمیر کے پہلے ہی گروہ میں اسلام لائے تھے۔

ایک فرمان تحریر فرمایا اور ان کو حکم دیا کہ یہ لوگ صدقہ (زکوٰۃ) و جزیہ جمع کریں اور اسے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ و مالک بن مرارہ کے سپرد کر دیں۔ آپ نے ان لوگوں کو ان دونوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا حکم دیا۔ مالک بن مرارہ اہل یمن کے قاصد تھے جو ان کے اسلام و اطاعت کا پیام نبی ﷺ کے پاس لے گئے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان لوگوں کو تحریر فرمایا کہ مالک بن مرارہ نے خبر پہنچا دی ہے اور انہوں نے غائبانہ حق کی حفاظت کی ہے۔ آپ نے کندہ کے بنی معاویہ کو بھی اسی طرح تحریر فرمایا تھا۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قبیلہ حمیر کے بنی عمرو کو بھی تحریر فرما کر اسلام کی دعوت دی تھی۔ خالد بن سعید بن العاص نے اس فرمان کو لکھا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے جبلہ بن الاسیم بادشاہ غسان کو بھی دعوت اسلام دی۔ وہ اسلام لایا اور اس نے اپنے اسلام کی خبر رسول اللہ ﷺ کو لکھ دی۔ آپ کو ہدیہ بھی بھیجا اور برابر مسلمان رہا۔ جب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو اتفاق سے دمشق کے ایک بازار میں قبیلہ مزینہ کے ایک شخص کو چل دیا۔ مزنی نے حملہ کر کے اسے تھپڑ مار دیا۔ اسے گرفتار کر کے ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا۔

لوگوں نے کہا کہ اس نے جبلہ کے تھپڑ مارا ہے ابو عبیدہ نے کہا کہ اسے چاہیے کہ وہ بھی اس کو تھپڑ مار دے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ قتل نہیں کیا جائے گا؟ تو ابو عبیدہ نے کہا کہ نہیں۔ کہا کہ اچھا تو اس کا ہاتھ بھی نہیں کاٹا جائے گا؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں۔ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض قصاص کا حکم دیا ہے۔

جب کہ تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ میں اپنا چہرہ اس بھیڑ کے چہرے مشابہ بنانے والا ہوں جو جنگل سے آئی ہے یہ بہت خراب دین ہے وہ مرتد ہو کر نصرانی ہو گیا اور اپنی قوم کو لے کر روم میں داخل ہو گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم ہوا تو انہیں شاق گزرا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے ابوالولید کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارا دوست جبلہ بن الاسیم مرتد ہو کر نصرانی ہو گیا۔ انہوں نے کہا ”انا لله وانا الیہ راجعون“ کیوں مرتد ہو گیا۔ فرمایا کہ اسے قبیلہ مزینہ کے ایک شخص نے تھپڑ مارا تھا۔ حسان نے کہا کہ تو وہ حق بجانب تھا عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے اور انہیں درے سے مارا۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جریر بن عبد اللہ الحبلی کو ذی الکلاع بن ناکور بن حبیب بن حسان بن تیج اور ذی عمرو کے پاس بھیجا کہ ان دونوں کو دعوت اسلام دیں۔ دونوں اسلام لائے۔ ذی الکلاع کی بیوی ضریبہ بنت ابرہہ بن الصباح بھی اسلام لائیں۔ رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی تو جریر انہیں لوگوں کے پاس تھے۔ ذو عمرو نے انہیں آپ کی وفات کی خبر دی تو جریر

مدینے روانہ ہو گئے۔

رسول اللہ ﷺ نے معدی کرب بن ابرہہ کو تحریر فرمایا کہ جس حالت حکومت میں وہ اسلام لائیں گے وہ انہیں کی رہے گی۔ رسول اللہ ﷺ نے بنی الحارث بن کعب کے پادری، نجران کے پادریوں، کاهنوں ان کی پیروی کرنے والوں اور ان کے درویشوں کو تحریر فرمایا کہ جو قلیل و کثیر اشیاء (منقولہ وغیرہ منقولہ) ان کے گرجاؤں اور نمازوں اور رہبانیت (درویشی) کی ان کے تحت ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کے ہمسایہ ہیں وہ سب انہیں عیسائیوں کی رہیں گی (یعنی باوجود اسلام نہ لانے کے ان سے کچھ نہ لیا جائے گا) نہ کسی پادری کو اس کے منصب سے بدل جائے گا۔ نہ کسی راہب کو اس کی رہبانیت سے نہ کسی کاہن کو اس کی کہانت سے نہ ان کے حقوق میں کوئی تغیر کیا جائے گا اور نہ ان کی سلطنت میں یا اس چیز میں جس پر وہ تھے۔ جب تک وہ خیر خواہی کریں گے اور جو حقوق ان پر واجب ہیں ان کی اصلاح کریں گے تو نہ ان پر کسی ظلم کا بار پڑے گا اور نہ وہ خود ظلم کریں گے۔ یہ فرمان مغیرہ نے لکھا تھا۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ربیعہ بن ذی مرحب الحضرمی اور ان کے بھائیوں اور چچاؤں کو تحریر فرمایا کہ ان لوگوں کے مال۔ عطایا۔ غلام آگیر اور کتوں۔ درخت۔ دیہات کے کنوئیں۔ چھوٹی نہریں۔ جڑی بوٹیاں۔ صحرائی نالے جو حضر موت میں ہیں اور ذی مرحب کے خاندان کا ہر مال انہیں لوگوں کے لیے ہے۔ ہر وہ رہن جو ان کے ملک میں ہے اس کا ثمرہ اور اس کی شاخیں سب اسی رہن میں شمار کی جائیں گی جس میں وہ ہوں گی۔ جو خیر و برکت ان کے پھلوں میں ہوگی اس کو کوئی بھی نہ پوچھے گا اور اللہ اور اس کا رسول دونوں اس سے بری ہیں۔ خاندان ذی مرحب کی مدد مسلمانوں کی جماعت پر واجب ہے ان لوگوں کا ملک ظلم سے بری ہے ان کے جان و مال اور بادشاہ کے باغ کی وہ آبپاشی والی نہر جو خاندان قیس تک بہتی ہے وہ بھی انہیں کی رہے گی۔ اللہ و رسول اس پر مددگار ہیں۔ اس فرمان کو معاویہؓ نے لکھا تھا۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے تحریر فرمایا کہ قبیلہ لخم میں سے جو اسلام لائے گا نماز قائم کرے گا۔ زکوٰۃ دے گا۔ اللہ اور رسول ﷺ کا حصہ دے گا۔ مشرکین کو ترک کر دے گا تو وہ اللہ و محمد (ﷺ) کی پناہ و ذمہ داری میں بے خوف ہے۔ جو شخص اپنے سے پھر جائے گا تو اللہ اور اس کے رسول محمد (ﷺ) اس سے بری الذمہ ہیں۔ جس شخص کے اسلام کی کوئی مسلمان شہادت دے تو وہ بھی محمد (ﷺ) کی پناہ و ذمہ داری میں ہے اور وہ مسلمانوں میں ہے۔ اس فرمان کو عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خالد بن صماد الازدی کو تحریر فرمایا کہ وہ اپنی جس زمینداری کی حالت میں اسلام لائے وہ زمینداری انہیں کی رہے گی بشرطیکہ وہ اس اللہ پر ایمان لائیں جس کا کوئی شریک نہیں اور یہ شہادت دیں کہ محمد (ﷺ) اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نماز کو قائم کریں۔ زکوٰۃ دیں۔ رمضان کے روزے رکھیں۔ بیت اللہ کا حج کریں۔ کسی بدعتی کو پناہ نہ دیں۔ نہ اسلام کی حقانیت میں شک کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کریں۔ اللہ کے دوستوں کو دوست اور اللہ کے دشمنوں سے بغض رکھیں۔ محمد نبی (ﷺ) پر یہ لازم ہے کہ اپنی جانب سے ان کی ویسی ہی حمایت و حفاظت کریں جیسی کہ اپنی جان و مال و اہل عیال کی کرتے ہیں۔ خالد الازدی کے لیے اللہ و محمد نبی (ﷺ) کی ذمہ داری ہے بشرطیکہ خالد اس عہد کو پورا کریں۔ اس فرمان کو ابی (بن کعب) نے لکھا تھا۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب عمرو بن حزم کو یمن بھیجا تو انہیں ایک عہد نامہ تحریر فرمادیا جس میں آپؐ نے شرائع و فرائض و حدود اسلام کی تعلیم دی تھی۔ اس عہد کو ابی نے لکھا تھا۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نعیم بن اوس برادر تمیم داری کے لیے تحریر فرمایا کہ ملک شام کا موضع حمیری و عینون کل کا کل یعنی اس کی زمین اس کے پہاڑ اس کا پانی اس کی کھیتی۔ اس کے کنوؤں کا پانی۔ اس کے گائے بیل سب ان کے اور ان کے بعد ان کے پس ماندوں کے لیے ہیں۔ اس میں کوئی ان سے جھگڑانہ کرے اور نہ اس میں ان لوگوں پر ظلم کر کے داخل ہو۔ جو ان پر ظلم کرے گا یا ان سے کچھ لے گا تو اس پر اللہ اور تمام ملائکہ اور لوگوں کی لعنت ہے۔ اس کو علی بنی ہذیل نے لکھا۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حصین بن اوس الاسلمی کے لیے تحریر فرمایا کہ آپؐ نے انہیں فرغین و ذات اعشاش عطا فرمادیا ہے۔ اس میں ان سے کوئی جھگڑانہ کرے۔ اس کو علی بنی ہذیل نے لکھا۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بنی قرہ بن عبد اللہ ابن ابی نجیح البہانین کے لیے تحریر فرمایا کہ آپؐ نے انہیں پورا مظلہ۔ اس کی زمین۔ اس کا پانی۔ اس کے پہاڑ اور اس کی غیر کوہی زمین عطا فرمائی۔ یہ سب بطور شرکت ان کے لیے ہے جس میں وہ اپنے مویشی چرائیں گے۔ اس کو معاویہ بنی ہذیل نے لکھا۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بنی الحارث بن کعب کے بنی الضباب کے لیے تحریر فرمایا کہ ساریہ اور اس کا بلند حصہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ اس میں کوئی ان سے جھگڑانہ کرے۔ جب تک یہ لوگ نماز کو قائم رکھیں۔ زکوٰۃ دیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اور مشرکین سے بے تعلق رہیں۔ اس کو مغیرہ بنی ہذیل نے لکھا۔ اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یزید بن طفیل الحارثی کے لیے تحریر فرمایا کہ پورا المصہ ان کے لیے ہے۔ اس میں کوئی ان سے جھگڑانہ کرے۔ جب تک کہ یہ نماز قائم رکھیں۔ زکوٰۃ دیں اور مشرکین سے جہاد کریں۔ جنیم بن الصلت نے اس کو لکھا۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بنی الحارث بنی قنابن ثعلبہ کے لیے تحریر فرمایا کہ جس ان لوگوں کے لیے ہے۔ یہ لوگ اپنے جان و مال کے متعلق اہل اسلام کی طرف سے امن میں ہیں۔ اس کو مغیرہ بنی ہذیل نے لکھا۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عبد یغوث بن وعلہ الحارثی کے لیے تحریر فرمایا کہ وہ جس زمین کی زمینداری رکھتے ہوئے اسلام لائے وہ زمین اور اس کی اشیاء و ممتلكات ان کے اور ان کی قوم کے ان لوگوں کے لیے ہیں جو ان کی پیروی کریں جب تک کہ وہ نماز کو قائم رکھیں۔ زکوٰۃ دیتے رہیں۔ جہاد کے مال غنیمت میں خمس ادا کرتے رہیں۔ ان پر عشر (یعنی زمینداری کی پیداوار کا دسواں حصہ) بھی نہیں ہے اور نہ اپنی زمینداری سے بے دخل کیے جائیں۔ بقلم ارقم بن ابی الاقرم الحضری۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بنی زیاد بن الحارث الحارثین کے لیے تحریر فرمایا کہ جمعاء واذنبان لوگوں کا ہے۔ ان لوگوں کو امن ہے جب تک یہ نماز کو قائم رکھیں زکوٰۃ ادا کرتے رہیں اور مشرکین سے جہاد کرتے رہیں۔ بقلم علی بنی ہذیل۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یزید بن مجمل الحارثی کے لیے تحریر فرمایا کہ عمرہ اور اس کی آبپاشی کے راستے اور اس کے جنگل میں سے وادی الرحمن انہیں لوگوں کی ہے یہ (یزید) اور ان کے پسماندہ اپنی قوم بنی مالک پر سردار ہیں نہ ان لوگوں سے جنگ کی

جائے گی اور نہ ان کا اخراج کیا جائے گا۔ بقلم مغیرہ بن شعبہؓ۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ذوالنصفہ قیس بن الحصین کے لیے ان کے والد کی اولاد بنی الحارث اور بنی نہد کو امن دینے کے لیے تحریر فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری ہے نہ تو ان کا اخراج کیا جائے۔ نہ ان سے عشر لیا جائے۔ جب تک یہ لوگ نماز کو قائم رکھیں۔ زکوٰۃ دیتے رہیں۔ مشرکین سے جدائی رکھیں اور اپنے اسلام کی شہادت دیتے رہیں۔ ان کے مال میں مسلمانوں کا بھی حق ہے۔ بنی نہد بنی الحارث کے حلیف تھے۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بنی قنن بن یزید الحارثین کے لیے تحریر فرمایا کہ نہ دو اور اس کے ذرائع آبپاشی ان لوگوں کے ہیں جب تک یہ لوگ نماز کو قائم رکھیں۔ زکوٰۃ دیتے رہیں۔ مشرکین سے جدائی رکھیں۔ راستے کو مامون رکھیں اور اپنے اسلام کی گواہی دیتے رہیں۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عاصم بن الحارث الحارثی کے لیے تحریر فرمایا کہ راکس کے پودے اور درخت ان کے ہیں۔ ان میں کوئی ان سے مزاحمت نہ کرے۔ بقلم ارقم۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بنی معاویہ بن جریول الطائیین کے لیے تحریر فرمایا کہ ان میں سے جو اسلام لائے۔ نماز کو قائم رکھے۔ زکوٰۃ ادا کرے۔ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرے۔ اموال غنیمت میں سے اللہ کا خمس اور نبی ﷺ کا حصہ دے مشرکین سے جدا رہے اور اپنے اسلام کی گواہی دے تو وہ اللہ و رسول ﷺ کے امان میں بے خوف ہے۔ اسلام لانے کے وقت جو کچھ ان کا تھا سب انہیں کا ہے۔ اور بھیڑ چرتے چرتے رات کو جہاں تک پہنچے (وہ جگہ بھی انہیں کی ہے) بقلم زبہ بن العوام جزیؓ۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عامر بن الاسود بن عامر ابن جویں الطائیین کے لیے تحریر فرمایا کہ ان کی اور ان قوم کی بستیاں اور کنوئیں ان کے اور ان کی قوم طے کے ہیں جب تک یہ نماز کو قائم رکھیں۔ زکوٰۃ دیں اور مشرکین سے جدا رہیں بقلم مغیرہ جزیؓ۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بنی جویں الطائیین کے لیے تحریر فرمایا کہ ان میں سے جو اللہ پر ایمان لائے۔ قائم کرے۔ زکوٰۃ دے۔ مشرکین سے جدا رہے۔ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرے۔ مال غنیمت میں سے اللہ کا حق اور رسول اللہ ﷺ کا حصہ دے اور اپنے اسلام پر گواہی دے تو اس کے لیے اللہ اور محمد بن عبد اللہ (ﷺ) کی امان ہے۔ ان زمین۔ ان کے کنوئیں اور وہ اشیاء جن پر اسلام لانے کے وقت یہ قابض و متصرف جائز تھے اور بھیڑ صبح سے شام تک چرتے چرتے جہاں تک پہنچے وہ سب انہیں لوگوں کا ہے۔ بقلم مغیرہ جزیؓ۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بنی معین الطائیین کے لیے تحریر فرمایا کہ ان کی وہ بستیاں اور کنوئیں کہ اسلام لا کے وقت ان کی ملک تھے اور بھیڑ کے صبح سے شام تک چرنے کی جگہ ان لوگوں کی ہے جب تک یہ لوگ نماز کو قائم رکھیں زکوٰۃ دے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ مشرکین سے جدا رہیں۔ اپنے اسلام پر گواہی دیں اور راستے کو مامون رکھیں۔ گواہ شد

بقلم خود۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے تحریر فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منجانب محمد نبی ﷺ بنام اسد۔ سلام علیکم، میں تمہارے آگے اسی اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اما بعد! قبیلہ طے کے کنوؤں اور ان کی زمین کے ہر گز تم قریب نہ جاؤ (یعنی اس پر تصرف ماکانہ نہ کرو) کیونکہ تمہارے لیے ان کے کنوئیں حلال نہیں۔ ان کی زمین میں ہر گز کوئی داخل نہ ہو سوائے اس کے جس کو وہ خود داخل کریں۔ جو شخص محمد (ﷺ) کی نافرمانی کرے گا تو آنحضرت ﷺ اس سے بری الذمہ ہیں۔ قضاعی بن عمرو کو (جو بنی عذرہ میں سے تھے اور ان لوگوں پر عامل بنائے گئے تھے اس کا) انتظام کرنا چاہیے۔ بقلم خالد بن سعید۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جنادہ الازدی اور ان کی قوم اور ان کی پیروی کرنے والوں کے لیے ایک فرمان تحریر فرمایا کہ جب تک یہ لوگ نماز کو قائم رکھیں۔ زکوٰۃ ادا کرتے رہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ مال غنیمت میں سے اللہ کا خمس اور نبی ﷺ کا حصہ ادا کرتے رہیں اور مشرکین سے جدا رہیں تو ان کے لیے اللہ اور محمد بن عبد اللہ (ﷺ) کی ذمہ داری ہے۔ بقلم ابی۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سعد ہذیم کو جو قضاعہ میں سے تھے اور حذام کو ایک ہی فرمان تحریر فرمایا جس میں آپ نے ان لوگوں کو زکوٰۃ و صدقہ کے فرائض کی تعلیم فرمائی اور حکم دیا کہ یہ لوگ صدقہ و خمس آنحضرت ﷺ کے قاصدین ابی و عنینہ یا جس کو یہ دونوں بھیجیں اس کو دے دیا کریں۔ راوی نے کہا کہ ہمیں ان دونوں (ابی و عنینہ) کا نسب نہیں بتایا گیا۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بنی زرعہ و بنی الربیعہ کے لیے جو قبیلہ جہینہ سے تھے تحریر فرمایا کہ ان لوگوں کو ان کے جان و مال میں امن ہے۔ جو شخص ان پر ظلم کرے یا ان سے جنگ کرے اس کے خلاف ان کی مدد کی جائے گی سوائے اس کے کہ وہ ظلم و جنگ دین یا اہل و عیال کے بارے میں ہو (یعنی خود ان کی بے دینی پر یا کسی کے اہل و عیال پر ان کے ظلم سے جو جنگ یا ظلم کیا جائے گا تو اس میں ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ان کے دیہاتیوں میں سے جو نیکو کار اور پرہیزگار ہوگا اس کے وہی حقوق ہوں گے جو ان کے شہریوں کے ہیں۔ واللہ المستعان۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قبیلہ بلی کے بنی حعیل کے لیے تحریر فرمایا کہ یہ لوگ قریش کے پھر بنی عبد مناف کے ایک گروہ ہیں۔ ان کے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان لوگوں کے ہیں۔ ان لوگوں پر وہی ذمہ داری ہے جیسی ان لوگوں پر ہے۔ ان کا نہ تو اخراج کیا جائے گا اور نہ ان سے خراج لیا جائے گا۔ اسلام لانے کے وقت جس مال و متاع کے وہ مالک تھے وہ انہیں کا ہے نصر و سعد بن بکر و ثمالہ و ہذیل کے صدقات انہیں لوگوں کے لیے ہے۔

رسول اللہ ﷺ سے اسی پر عاصم بن ابی صفی و عمرو بن ابی صفی و اعجم بن سفیان و علی بن سعد نے بیعت کی اور اس پر عباس بن عبد المطلب و علی بن ابی طالب و عثمان بن عفان و ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہم گواہ بنے۔ اور اس پر آپ نے اس وجہ سے بنی عبد مناف میں سے گواہ بنائے کہ یہ لوگ بنی عبد مناف کے حلیف تھے۔ اخراج نہ کیے جانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ زکوٰۃ میں ایک منزل سے دوسری منزل تک نہ نکالے جائیں گے۔ عشر نہ لیے جانے کا یہ مدعا تھا کہ وہ سال میں صرف ایک مرتبہ لیا جائے گا زیادہ نہ لیا

جائے گا۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خزانہ کے قبیلہ اسلم کے لیے تحریر فرمایا کہ ان میں سے جو ایمان لائے نماز کو قائم کرے۔ زکوٰۃ ادا کرے۔ اللہ کے دین میں خلوص اختیار کرے۔ ان لوگوں کی اس شخص کے خلاف مدد کی جائے گی جو ان پر ظلم ڈھائے۔ اور جب نبی ﷺ ان کو بلائیں تو ان پر نبی ﷺ کی مدد واجب ہوگی۔ ان کے دیہاتیوں کے بھی وہی حقوق ہیں جو ان کے شہریوں کے ہیں۔ یہ جہاں چاہیں ہجرت کر سکتے ہیں۔ گواہ شد علاء بن الحضرمی بقلم خود۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عوجہ بن حرمہ الجعفی کے لیے تحریر فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ ﷺ نے عوجہ بن حرمہ کو جو (مقام) ذی المروہ عطا فرمایا۔ یہ اس کی دستاویز ہے۔ آپ نے انہیں مابین بلکہ سے مصنعہ بھلاٹ جد جبل قبلہ تک دے دیا ہے۔ اس میں کوئی ان سے مزاحمت نہ کرے جو ان سے مزاحمت کرے گا ناحق پر ہوگا حق عوجہ بنی کا ہوگا۔ گواہ شد عقبہ بقلم خود۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قبیلہ جہینہ کے بنی شیع کے لیے تحریر فرمایا کہ ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“۔ یہ دستاویز ہے جو محمد نبی ﷺ نے قبیلہ جہینہ کے بنی شیع کو عطا فرمائی۔ آپ نے انہیں صفینہ کی وہ زمین عطا فرمائی جس پر ان لوگوں نے خط لگالیا اور کھیتی کی جو ان سے مزاحمت کرے گا تو اس کا کوئی حق نہ ہوگا اور ان کا دعویٰ سچا ہوگا۔ گواہ شد علاء بن عقبہ بقلم خود۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بنی الجر مزین ربیعہ کے لیے جو قبیلہ جہینہ سے تھے تحریر فرمایا کہ ان لوگوں کو ان کی بستیوں میں امن ہے یہ لوگ بحالت قبول اسلام جو دولت و مال رکھتے تھے وہ سب انہیں کا ہے۔ بقلم مغیرہ۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عمرو بن معبد الجعفی و بنی الحرثہ کے لیے جو جہینہ میں سے تھے اور بنی الجر مز کے لیے تحریر فرمایا کہ ان میں سے جو اسلام لائے۔ نماز قائم کرے۔ زکوٰۃ دے۔ اللہ و رسول کی اطاعت کرے۔ مال غنیمت میں سے خمس اور نبی ﷺ کا منتخب حصہ ادا کرے۔ اپنے اسلام پر گواہی دے اور مشرکین سے جدا رہے تو وہ اللہ و رسول کی امان میں ہے۔ مسلمان میں سے جس کا کوئی قرض (ان لوگوں میں سے کسی پر) واجب الادا ہوگا تو اس کو صرف اصل رقم دلائی جائے گی۔ رہن کا سود باطل ہوگا۔ بچلوں کی زکوٰۃ دسواں حصہ ہوگی۔ جو شخص ان لوگوں میں شامل ہوگا اس کے حقوق بھی انہیں کی طرح ہوں گے۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بلال بن الحارث المزنی کے لیے تحریر فرمایا کہ انخل اور جزعہ اور اس کا جزو ذوالمزارع اور انخل انہیں کا ہے۔ اور وہ آلہ جو زراعت کے لیے مفید و ضروری ہووے بھی ان کا ہے۔ المصہ اور جزعہ اور غیلہ بھی ان کا ہے بشرطیکہ وہ صادق (ثابت قدم) رہیں۔ بقلم معاویہ رضی اللہ عنہ۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بدیل و بسر و سردات فرزندان عمرو کے نام تحریر فرمایا کہ ابابعد میں نے نہ تو تمہارے مال میں کوئی جرمانہ کیا ہے اور نہ تمہارے حق میں کوئی کمی کی ہے۔ اہل تہامہ میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل اکرام اور باعتبار رشتے کے سب سے زیادہ مجھ سے قریب تم لوگ اور مطمئین کے وہ لوگ ہیں جو تمہارے تابع ہیں۔ میں نے تمہارے مہاجر کے لیے وہی اختیار کیا ہے جو خود اپنے لیے اختیار کیا ہے۔ اگرچہ وہ اپنے ملک کو ہجرت کرے۔ سوائے ساکن مکہ کے (کہ اس کے احکام

جدا ہیں) اور سوائے عمرہ کرنے والے کے کہ اس کے احکام جدا ہیں اور سوائے عمرہ کرنے یا حج کرنے والے کے کہ اس کے احکام بھی (عام سفر ہجرت کے سے نہیں ہیں) کیونکہ میں نے جب سے صلح کی تم سے جنگ نہیں کی۔ تم لوگوں کو میری جانب سے خائف نہ ہونا چاہیے کہ تم لوگوں کا محاصرہ کیا جائے گا۔ علقمہ بن علاشہ اور ہوذہ کے دو بیٹے اسلام لائے۔ دونوں نے ہجرت کی اور اس شرط پر بیعت کی جس پر قبیلہ عکرمہ کے ان لوگوں نے کی ہے جو ان کے تابع ہیں۔ حلال و حرام میں ہم لوگ یکساں ہیں۔ بخدا میں تم سے غلط نہیں کہتا۔ ضرور ضرور تمہارا رب تم سے محبت کرے گا۔

راوی نے کہا کہ اس فرمان میں آپؐ نے سلام نہیں تحریر فرمایا اس لیے کہ یہ آپؐ نے سلام کا حکم نازل ہونے سے پہلے تحریر فرمایا تھا۔ علقمہ بن علاشہ یہی علقمہ بن علاشہ بن عوف بن الاخص بن جعفر بن کلاب ہیں۔ فرزند ان ہوذہ العداء و عمرو فرزند ان خالد بن ہوذہ ہیں جو بنی عمرو بن ربیعہ بن عامر بن صعصعہ میں سے ہیں قبیلہ عکرمہ میں سے ان کے تابع عکرمہ بن خصفہ بن قیس بن غیلان ہیں۔ مطہیین بنی ہاشم و بنی زہرہ و بنی الحارث بن فہر و تیم بن مرہ و اسد بن عبد العزیٰ ہیں۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے العداء بن خالد بن ہوذہ کے اور عامر بن عکرمہ کے خاندان میں سے جو لوگ ان کے پیرو تھے ان کے نام تحریر فرمایا کہ آپؐ نے انہیں المصباحہ کے درمیان سے الریح و لواءہ نحر اربک عطا فرمادیا۔ بقلم خالد بن سعید۔ اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مسیلہ کذاب لعنہ اللہ علیہ کے نام تحریر فرمایا اور اسے دعوت اسلام دی اس فرمان کو عمرو بن امیہ الضمری کے ہمراہ بھیجا۔ مسیلہ نے فرمان کے جواب میں لکھا کہ وہ بھی آپؐ ہی کی طرح نبی ہے۔ آپؐ سے یہ درخواست کی کہ ملک کو باہم تقسیم کر لیں۔ یہ بھی ذکر کیا کہ قریش وہ قوم ہے جو انصاف نہیں کرتے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس پر لعنت کرو۔ اس پر خدا لعنت کرے۔ اور اس کے نام تحریر فرمایا کہ مجھے تیرا جھوٹا اور اللہ پر بہتان سے بھرا ہوا خط ملا: ”وان الارض لله یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ والسلام علی من اتبع الهدی“۔ (ملک تو اللہ ہی کا ہے جس کو وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور انجام کار (بھلائی) پر ہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ اور اس پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے)۔ اس کو آپؐ نے السائب بن العوام بردار زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے ہمراہ روانہ فرمایا۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سلمہ بن مالک بن ابی عامر السلمی کے لیے جو بنی حارثہ میں سے تھے کہ آپؐ نے انہیں مدفوا عطا فرمادیا۔ اس میں کوئی ان سے مزاحمت نہ کرے۔ جو ان سے مزاحمت کرے گا تو اس کا کوئی حق نہ ہوگا۔ حق انہیں کا ہوگا۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عباس بن مرداس السلمی کے لیے تحریر فرمایا کہ آپؐ نے مدفوا انہیں عطا فرمادیا۔ لہذا جو ان سے مزاحمت کرے گا اس کا کوئی حق نہ ہوگا۔ گواہ شد الصاء بن عقبہ بقلم خود۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہوذہ بن نیشہ السلمی کے لیے جو بنی عصیہ میں سے تھے تحریر فرمایا کہ آپؐ نے انہیں جو کچھ الجفر میں ہے سب عطا فرمادیا۔ اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے الاجب کے لیے جو بنی سلیم کے ایک فرد تھے تحریر فرمایا کہ آپؐ نے انہیں فالس عطا فرمادیا۔ بقلم الارقم۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے راشد بن عبد السملی کے لیے تحریر فرمایا کہ آپ نے انہیں رباط میں سے اتنی زمین دی جتنی دو درو مرتبہ تیر جا سکے اور ایک مرتبہ پتھر جا سکے۔ اس میں ان کا کوئی مزاحم نہ ہو۔ جو ان سے مزاحمت کرے گا تو اس کا کوئی حق نہ ہوگا۔ حق انہیں کا ہوگا۔ بقلم خالد بن سعید رضی اللہ عنہ۔

رسول اللہ ﷺ نے حرام بن عبد کے لیے جو بنی سلیم میں سے تھے تحریر فرمایا کہ آپ نے انہیں اذا ما اور شواق کا وہ حصہ جو ان کا ہے عطا فرمادیا۔ نہ کسی کو ان لوگوں پر ظلم کرنا روا ہے اور نہ یہ لوگ کسی پر ظلم کریں۔ بقلم خالد بن سعید۔ رسول اللہ ﷺ نے تحریر فرمایا: ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ یہ وہ حلفی معاہدہ ہے جو نعیم بن مسعود بن زحیلہ الاشجعی نے کیا ہے۔ انہوں نے مدد و خیر خواہی پر اس وقت تک کے لیے حلفی معاہدہ کیا ہے جب تک کہ وہ احدا اپنے مقام پر رہے اور سمندر ایک بال کو بھی تر کر سکے۔ بقلم علی رضی اللہ عنہ۔

رسول اللہ ﷺ نے تحریر فرمایا: ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ یہ محمد رسول اللہ (ﷺ) کی جانب سے زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے نام میں نے انہیں شواق کا بلند و پست حصہ عطا کر دیا۔ اس میں کوئی ان سے مزاحمت نہ کرے۔ بقلم علی رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ ﷺ نے حصین بن نضله الاسدی کے لیے تحریر فرمایا کہ ارام و کسہ ان کے لیے ہے۔ اس میں کوئی ان سے مزاحمت نہ کرے۔ بقلم مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ۔

رسول اللہ ﷺ نے بنی غفار کے لیے تحریر فرمایا کہ یہ لوگ مسلمان ہیں۔ ان کے وہی حقوق ہیں جو مسلمانوں کے ہیں۔ ان پر وہی واجب ہے جو مسلمانوں پر واجب ہے۔ نبی (ﷺ) نے ان کے جان و مال پر اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو ذمہ دار بنایا ہے۔ اس شخص کے خلاف ان کے مدد کی جائے گی جو ان کے ساتھ ظلم کی ابتدا کرے گا۔ نبی ﷺ جب انہیں اپنی مدد کے لیے بلائیں گے تو یہ آپ کا حکم مانیں گے اور ان پر آپ کی مدد واجب ہوگی سوائے اس کے کہ جو (ان میں سے آپ سے) دینی جنگ کرے (یعنی مرتد ہو جائے تو اس پر اس معاہدے کی پابندی نہ ہوگی۔ یہ معاہدہ اس وقت تک نافذ رہے گا) جب تک سمندر ایک بال بھی تر کر سکے سوائے گناہ کے اس فرمان میں اور کوئی حائل نہ ہوگا“ (یعنی جو اس پر عمل کرنے سے روکے گا وہ گنہگار ہوگا)۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بنی ضمیرہ بن بکر بن عبد مناة بن کنانہ کے لیے تحریر فرمایا کہ ان لوگوں کو ان کے جان و مال کا امن ہے۔ اس کے خلاف ان کی مدد کی جائے گی جو ان پر ظلم سے حملہ کرے۔ ان پر نبی ﷺ کی مدد واجب ہوگی جب تک تمام سمندر ایک بال بھی تر کر سکے۔ سوائے اس کے کہ یہ لوگ دین الہی میں جنگ کریں جب نبی ﷺ ان کو بلائیں گے تو یہ آپ کا حکم قبول کریں گے۔ اس پر ان لوگوں کا اللہ و رسول ذمہ دار ہے۔ ان میں سے جو نیکو کار و متقی ہوگا اس کی بھی مدد کی جائے گی۔

رسول اللہ ﷺ نے ہلال والی بحرین کو تحریر فرمایا کہ تم صلح جو ہو اس لیے میں تم سے اسی اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ میں تمہیں خدائے واحد کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اطاعت کرو اور جماعت (نبی) میں داخل ہو جاؤ۔ کیونکہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔ رسول اللہ ﷺ نے اسحٰب بن عبد اللہ والی ہجر کو تحریر فرمایا کہ اقرع تمہارا خط اور تمہاری قوم کے لیے تمہاری سفارش میرے پاس لائے۔ میں نے تمہاری سفارش کو قبول کر لیا اور تمہاری قوم کے بارے میں تمہارے قاصد کی میں نے تصدیق کی۔ تم نے مجھ سے جو مانگا اور اپنی جس پسندیدہ چیز کی مجھ

سے درخواست کی اس کے بارے میں تم کو خوش خبری ہو۔ لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اسے بتا دوں۔ اور تم مجھ سے ملو۔ اگر تم ہمارے پاس آؤ گے تو ہم تمہارا اکرام کریں گے اور اگر بیٹھو گے تو تمہارا اکرام کریں گے۔ میں کسی سے ہدیہ طلب نہیں کرتا۔ اگر تم مجھے ہدیہ بھیجو گے تو میں تمہارا ہدیہ قبول کروں گا۔ میرے عمال نے مجھ سے تمہارے مرتبے کی تعریف کی ہے۔ تم جس حالت پر ہو میں تمہیں اس سے بہتر کی وصیت کرتا ہوں یعنی نماز و زکوٰۃ اور مومنین کی مہمان نوازی۔ میں نے تمہاری قوم کا نام بنی عبد اللہ رکھا ہے۔ لہذا انہیں بھی نماز اور سب سے بہتر عمل کا حکم دو۔ اور تمہیں خوشخبری ہو تم پر اور تمہاری قوم کے مومنین پر سلام۔

رسول اللہ ﷺ نے اہل ہجر کے نام تحریر فرمایا: اما بعد میں تم لوگوں کو اللہ کے اور خود تمہارے لیے وصیت کرتا ہوں کہ ہدایت دیئے جانے کے بعد گمراہ نہ ہونا اور راہ راست بتا دیئے جانے کے بعد کجی نہ اختیار کرنا۔ میرے پاس تمہارا وفد آیا ہے۔ میں نے ان کے ساتھ وہی برتاؤ کیا ہے جس سے وہ خوش ہوئے۔ اگر میں تمہارے بارے میں اپنی پوری کوشش صرف کرتا تو تم لوگوں کو ہجر سے نکال دیتا۔ مگر میں نے تمہارے غائب کی سفارش قبول کی اور تمہارے حاضر پر احسان کیا۔ لہذا اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے۔ جو کچھ تم لوگوں نے کیا ہے میرے پاس اس کی خبر آگئی ہے۔ تم میں سے جو نیکی کرے گا اس پر میں بدکار کا گناہ عائد نہیں کروں گا۔ جب تمہارے پاس میرے حکام آئیں تو تم اللہ کے کام پر اور اس کی راہ میں ان کی اطاعت و مدد کرنا۔ تم میں سے جو کوئی نیکی کرے گا تو وہ نیکی نہ خدا کے یہاں کبھی فراموش ہوگی نہ میرے یہاں۔

رسول اللہ ﷺ نے منذر بن سلاوی کے نام تحریر فرمایا: اما بعد میرے قاصدوں نے تمہاری تعریف کی ہے تم جب تک نیکی کرو گے میں بھی تمہارے ساتھ نیکی کروں گا اور تمہارے کام پر تم کو اجر دوں گا۔ تم اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے رہو۔ والسلام علیک اس فرمان کو آپؐ نے علاء بن الحضرمی کے ہمراہ ارسال فرمایا۔ رسول اللہ ﷺ نے منذر بن سلاوی کے نام ایک اور فرمان تحریر فرمایا: اما بعد: ”میں نے تمہارے پاس قدامہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کو بھیجا ہے تمہارے ملک کا جو جزیہ تمہارے پاس جمع ہو وہ ان دونوں کے سپرد کرو۔ والسلام“۔ بقلم ابی۔ رسول اللہ ﷺ نے علاء بن الحضرمی کے نام تحریر فرمایا: ”اما بعد“ میں نے منذر بن سلاوی کے پاس ان لوگوں کو بھیجا ہے جو ان سے وہ جزیہ وصول کر لیں جو ان کے پاس جمع ہو۔ لہذا تم بھی ان سے اس کے متعلق عجلت کرو۔ اور اسی کے ہمراہ تم بھی وہ صدقہ و عشر بھیج دو جو تمہارے پاس جمع ہو۔ والسلام“ بقلم ابی۔

رسول اللہ ﷺ نے ضغاطر اسقف کے نام تحریر فرمایا کہ ”اس شخص پر سلام ہے جو ایمان لائے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ عیسیٰ بن مریم روح اللہ و کلمۃ اللہ ہیں جس (کلمے) کو اللہ نے پاک و امن مریم کو القاء کیا میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں جو ہم پر نازل کیا گیا ہے۔ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط علیہم السلام (اولاد یعقوب) پر نازل کیا گیا ہے۔ جو موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام کو دیا گیا ہے۔ جو انبیاء کو ان کے رب کی جانب سے دیا گیا ہے۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے لیے اسلام لانے والے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔ یہ فرمان آپؐ نے دجیہ کلی کے ہمراہ ارسال فرمایا۔ رسول اللہ ﷺ نے یہود بنی جنیہ کے نام جو مقنا میں تھے اور اہل مقنا کے نام تحریر فرمایا ”مقنا ایلہ کے قریب ہے۔ تمہارے قاصد جو تمہاری بستی کو واپس جا رہے ہیں وہ میرے پاس اترے۔ لہذا جب میرا یہ فرمان تمہارے پاس پہنچے تو تم لوگوں کو امن ہے۔

تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے تمہاری ساری برائیاں اور تمام جرائم معاف کر دیے ہیں تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری ہے۔ تم پر کوئی ظلم و زبردستی نہ ہوگی رسول اللہ ﷺ جس چیز سے خود اپنی حفاظت کرتے ہیں اس سے تمہارے بھی محافظ رہیں گے۔ لہذا رسول اللہ ﷺ کے لیے وہ تمہارا مال غنیمت ہے جس پر تم کسی سے صلح کرو اور وہ غلام جو تمہارے پاس صلح میں آئیں، مویشی گھریلو ہتھیار اور مال، سو اس کے جو خود رسول اللہ ﷺ معاف فرمادیں یا آپ کا کوئی قاصد معاف کر دے۔

تم پر تمہارے کھجور کے باغوں کا چوتھائی حصہ، بحری شکار کا چہارم حصہ اور تمہاری عورتوں کے کاتے ہوئے سوت کا چوتھائی حصہ ہے آئندہ تم لوگ ہر قسم کے جزیے یا بیگار سے بری ہو اگر تم سنو گے اور اطاعت کرو گے تو رسول اللہ ﷺ کے ذمہ ہوگا کہ وہ تمہارے بزرگ کا اکرام کریں اور تمہارے بدکار سے درگزر کریں۔ اما بعد! یام مومنین و مسلمین۔ جو شخص اہل مقنا کے ساتھ نیکی کرے گا تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا اور جو ان کے ساتھ بدی کرے گا تو اس کے لیے بھی برا ہوگا۔ اور تم لوگوں پر جو حاکم و امیر ہوگا وہ یا تو تمہیں میں سے ہوگا۔ یا رسول اللہ ﷺ کے متعلقین میں سے ہوگا۔ والسلام۔

رسول اللہ ﷺ نے مسجد بن روہ اور سرداران اہل ایکہ کے نام تحریر فرمایا کہ تم لوگ صلح جو ہو تمہارے سامنے اسی اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں میں تم لوگوں سے جنگ کرنے والا نہیں ہوں تا وقتیکہ تمہیں لکھ نہ دوں لہذا اسلام لاؤ یا جزیہ دو اللہ اس کے رسول اور رسول کے قاصدوں کی اطاعت کرو قاصدوں کا اکرام کرو انہیں اچھا لباس پہناؤ جو جاہلین کا سانہ ہو۔ زید کو بہت اچھا لباس پہناؤ۔ جب میرے قاصد راضی ہوں گے تو میں بھی راضی ہوں گا۔

جزیہ معلوم ہی ہے اگر تم چاہتے ہو کہ بحرو میں امن رہے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ سوائے اللہ و رسول کے حق کے اور جو حق عرب و عجم کا ہوگا اس کو تم سے روکا جائے اگر تم نے ان (قاصدوں) کو واپس کر دیا اور انہیں راضی نہ کیا تو میں تم سے کچھ نہ لوں گا یہاں تک کہ میں تم سے جنگ کروں گا بچوں کو قید کروں گا اور بڑوں کو قتل کروں گا۔ کیونکہ میں حق پہنچانے کے لیے اللہ کا رسول ہوں میں اللہ پر اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پر کہ وہ کلمۃ اللہ ہیں میں ان پر ایمان لاتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں قبل اس کے کہ تم کو کوئی شریعت پہنچے تم آ جاؤ میں نے اپنے قاصدوں کو تم لوگوں کے متعلق نصیحت کر دی ہے۔ حرمہ کو تین وسق جو دو (ایک وسق = ۶۰ صاع کے اور ایک صاع تقریباً پونے دو سیر کا ہوتا ہے) حرمہ نے تمہاری سفارش کی ہے۔ اگر یہ معاملہ اور اللہ نہ ہوتا تو میں تم لوگوں سے کسی قسم کی مراسلت نہ کرتا یہاں تک کہ تم لشکر کو دیکھتے تم لوگوں نے اگر میرے قاصدوں کی اطاعت کر لی تو اللہ اور محمد (ﷺ) اور جو لوگ ان کی جانب سے ہوں گے وہ تمہارے محافظ ہوں گے شریحیل (حرمہ) و ابی و حریث بن زید الطائی میرے قاصد ہیں۔ یہ لوگ جب تم سے اس پر فیصلہ کر لیں گے تو میں بھی اس سے راضی ہوں گا تمہارے لیے اللہ اور محمد رسول اللہ (ﷺ) کی ذمہ داری ہوگی۔ اگر تم اطاعت کرو تو تم پر سلام ہے۔ اہل مقنا کو ان کے ملک جانے کے لیے سامان مہیا کر دو۔

رسول اللہ ﷺ نے ان جمع ہونے والوں کے نام جو کہ تہامہ میں تھے اور قبیلہ کنانہ و مزینہ و حکم و قارہ اور ان کے تابعین

غلام کو لوٹا تھا حکم بھیجا جب رسول اللہ ﷺ کا ظہور ہوا تو ان کا ایک وفد نبی ﷺ کے پاس آیا رسول اللہ ﷺ نے ان لوگوں کو تحریر فرمایا: ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ محمد نبی رسول اللہ ﷺ کی جانب سے یہ فرمان اللہ کے آزاد بندوں کے نام ہے۔ یہ لوگ اگر ایمان لائیں اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیا کریں تو ان کا غلام آزاد ہے ان کے مولا محمد (ﷺ) ہیں ان میں سے جو کسی قبیلے کا ہوگا اسے اس قبیلے کے پاس واپس نہ کیا جائے گا ان میں جو خون ہوگا جس کا انہوں نے ارتکاب کیا ہو یا کوئی مال ہو جو انہوں نے لے لیا ہو تو وہ انہیں کا رہے گا لوگوں میں ان کا جو قرض ہوگا وہ ان کو واپس دلایا جائے گا ان پر ظلم و زبردستی نہ ہوگی ان امور پر ان کے لیے اللہ و محمد (ﷺ) کی ذمہ داری ہے۔ والسلام علیکم، بقلم ابی بن کعب۔

رسول اللہ ﷺ نے تحریر فرمایا: ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ یہ محمد رسول اللہ ﷺ کی جانب سے بنی غادیہ کے یہود کے نام فرمان ہے کہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے ان پر یہ مقرر کیا گیا ہے نہ یہ سرکشی کریں گے اور نہ انہیں جلا وطن کیا جائے گا اور فرمان کو نہ رات توڑ سکے گی نہ دن۔“ بقلم خالد بن سعید۔

رسول اللہ ﷺ نے تحریر فرمایا: ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ یہ فرمان محمد رسول اللہ (ﷺ) کی جانب سے یہود بنی عریض کے لیے (ان کے لیے) رسول اللہ ﷺ کی جانب سے دس وسق گیہوں اور دس وسق جوہر غلے کی کٹائی کے وقت اور پچاس وسق کھجور ہے جس کو وہ ہر سال اپنے وقت پر پاتے رہیں گے۔ ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا“ خالد بن سعید بقلم خود۔

ابو العلاء سے مروی ہے کہ میں سوق الاہل (بازار شتر) میں مطرف کے ہمراہ تھا کہ ایک اعرابی ایک چمڑے کا ٹکڑا یا چرمی تو شدان لایا اور کہا کہ اس کو کون پڑھے گا یہ کہا کہ کیا تم لوگوں میں کوئی شخص ہے جو اس کو پڑھ دے میں نے کہا کہ میں پڑھ دوں گا۔ اُس نے کہا کہ اس کو لو۔ یہ رسول اللہ ﷺ نے میرے لیے تحریر فرمایا ہے لکھا تھا کہ:

”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ محمد نبی (ﷺ) کی جانب سے بنی زہیر بن اقیس کے لیے جو قبیلہ عسل کی ایک شاخ ہے یہ ہے کہ اگر یہ لوگ لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ کی شہادت دیں، مشرکین سے جدا ہو جائیں، غنائم میں خمس کا اور نبی ﷺ کے عام حصے اور خاص حصے کا اقرار کریں تو ان لوگوں کو اللہ رسول کی امان ہے“ (فقط)

بعض لوگوں نے ان اعرابی سے کہا کہ کیا آپ نے رسول اللہ ﷺ سے کوئی حدیث سنی ہے؟ اگر سنی ہے تو ہم لوگوں سے بیان کیجئے انہوں نے کہا کہ ہاں (سنی ہے) لوگوں نے کہا کہ خدا آپ پر رحمت کرے ہم سے بیان کیجئے۔

انہوں نے کہا کہ میں نے آپ ﷺ کو فرماتے سنا کہ جو شخص اس سے خوش ہو کہ سینے کا اکثر کینہ چلا جائے تو وہ ماہ رمضان میں اور ہر ماہ میں تین روزے رکھا کرے، بعض لوگوں نے اُن سے کہا کہ کیا یہ حدیث آپ نے رسول اللہ ﷺ سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ تم لوگ اندیشہ کرتے ہو کہ میں رسول اللہ ﷺ پر جھوٹ بولتا ہوں۔ واللہ میں آج سے تم لوگوں سے کوئی حدیث نہ بیان کروں گا۔

لوط بن یحییٰ الازدی سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے ابو ظبیان الازدی کو جو قبیلہ عامد کے تھے اور ان کی قوم کو ایک فرمان میں دعوت اسلام تحریر فرمائی، انہوں نے اپنی قوم کے ایک گردہ کے ساتھ جو مکے میں تھے اس کو قبول کر لیا جن میں مخنف و عبد اللہ و زہیر

فرزدان سلیم و عبد شمس بن عقیف بن زہیر بھی تھے یہ لوگ مکے میں تھے مدینے میں آپ کے پاس انجن بن المرقع و جندب بن زہیر و جندب بن کعب حاضر ہوئے بعد کو چالیس آدمیوں کے ہمراہ الحکم آئے جو قبیلہ مغفل کے تھے مکے میں آپ کے پاس چالیس آدمی آئے نبی ﷺ نے ابوظبیاں کو ایک فرمان تحریر فرما دیا تھا۔ انہوں نے آپ کی صحبت بھی پائی اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ بھی پایا۔

جیل بن مرثد سے مروی ہے کہ ایک شخص قوم احسین میں سے جن کا نام حبیب بن عرو تھا نبی ﷺ کے پاس حاضر ہوئے آپ نے انہیں ایک فرمان تحریر فرما دیا کہ ”یہ فرمان محمد رسول اللہ ﷺ کی جانب سے حبیب بن عمرو برادر ارجا اور ان کی قوم کے اس شخص کے لیے ہے جو اسلام لائے نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ ان کا مال اور ان کا پانی (کنواں) انہیں کا ہے نہ ان پر اس کے شہری (مال) میں کچھ نہ اس کے صحرائی میں اس پر اللہ کا عہد اور اس کے رسول کی ذمہ داری ہے۔

قبیلہ طے کے بنی سحر میں سے ایک شخص سے مروی ہے کہ ولید بن جابر بن ظالم بن حارثہ بن عتاب بن ابی حارثہ بن جدی بن مدول بن سحر رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اسلام لائے آپ نے انہیں ایک فرمان تحریر فرما دیا جو الجبلین میں ان کے متعلقین کے پاس ہے۔

زہری وغیرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عبد اللہ بن عوجہ العری کے ہمراہ سمعان بن عمرو بن قریط بن عبید بن ابی بکر بن کلاب کے نام فرمان تحریر فرما کر بھیجا انہوں نے آپ کے فرمان کا اپنے ڈول میں رقعہ (یعنی پیوند) لگا دیا ان لوگوں کو (اسی لیے) ہوا رقعہ کہا جاتا ہے سمعان اسلام لائے رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور حسب ذیل شعر کہا۔

اقلنی کما امنت دردا ولم اکن • باسواء زبنا اذ اتیتک من درد

”مجھے بھی معافی دیجئے جیسا کہ آپ نے درو کو پناہ دی جب میں آپ کے پاس حاضر ہو گیا تو درد سے زیادہ گنہگار نہیں ہوں۔“

ابو اسحق ہمدانی سے مروی ہے کہ عربی ان کے پاس رسول اللہ ﷺ کا فرمان لائے (جو چمڑے پر تحریر تھا) انہوں نے (ازراہ انکار و گستاخی) اپنے ڈول میں آپ کے فرمان کا پیوند لگا دیا تو ان سے ان کی بیٹی نے کہا کہ میرا خیال ہے تم پر کوئی بڑی مصیبت آئے گی تمہارے پاس سید العرب کا فرمان آیا اور تم نے اپنے ڈول میں اس کا پیوند لگا دیا۔

رسول اللہ ﷺ کا ایک لشکر ان کے پاس سے گزرا اور ان لوگوں نے ان کی ہر چیز کو تباہ کر دیا۔ پھر وہ اسلام لائے اور نبی ﷺ کے پاس حاضر ہوئے آپ کو اس واقعے کی خبر دی تو رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ جو مال مسلمانوں کے تقسیم کرنے سے پہلے تم پالو تو تمہیں اس کے زیادہ مستحق ہو۔

زائل بن عمرو الحجازی سے مروی ہے کہ فروہ بن عمرو والحجازی روم کی جانب سے عمان ملک بلقاء یا معان پر عامل مقرر تھے وہ اسلام لائے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں اپنا اسلام لکھا اس کو اپنی قوم کے ایک شخص کے ہمراہ جن کا نام مسعود بن سعد تھا بھیج دیا آپ کی خدمت میں ایک سفید مادہ خیر اور گھوڑا اور گدھا اور نرم کپڑے اور سندس کی (ریشمی) قباجس میں سونے کے پتر لگے ہوئے تھے بھیجی رسول اللہ ﷺ نے انہیں تحریر فرمایا کہ ”منجانب رسول اللہ (ﷺ) بنام فروہ بن عمرو۔ اما بعد ہمارے پاس تمہارے قاصد آئے جو کچھ تم نے بھیجا تھا انہوں نے پہنچا دیا تمہارے حالات کی ہمیں خبر دی تمہارے اسلام کا مشرودہ سنایا۔ اور یہ بھی کہ اللہ نے

تمہیں اپنی ہدایت سے سرفراز کیا، اگر تم نیکی کرو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ دو (تو تمہارے لیے بہتر ہے)۔ آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے ان کے قاصد مسعود بن سعد کو ساڑھے بارہ اوقیہ چاندی (بطور انعام) دی۔

شاہ روم کو فروہ کے اسلام کی خبر معلوم ہوئی تو اس نے انہیں بلایا اور کہا کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ تو ہم تم کو بادشاہ بنا دیں گے انہوں نے کہا کہ میں دین محمد (ﷺ) کو ترک کروں گا تو بھی جانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنحضرت ﷺ ہی کے متعلق بشارت دی ہے، لیکن تو اپنی سلطنت کی وجہ سے دریغ کرتا ہے۔

مگر اس نے انہیں قید کر دیا، پھر قید سے نکال کر قتل کر کے دار پر لٹکا دیا۔ بنی سدوس کے ایک شخص سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بکر بن وائل کو تحریر فرمایا: ”اما بعد: اسلام لاؤ تو سلامت رہو گے“۔ قتادہ نے کہا کہ لوگوں کو کوئی ایسا شخص نہ ملا جو اس کو پڑھتا (اسی لیے) یہ لوگ بنی الکاتب کہلاتے ہیں جو صاحب رسول اللہ ﷺ کے اس فرمان کو ان لوگوں کے پاس لائے تھے وہ طلبیان بن مرثد السدوسی تھے۔

عبداللہ بن یحییٰ بن سلیمان سے مروی ہے کہ مجھے سعیر بن عداء کے ایک فرزند نے رسول ﷺ کا ایک فرمان دکھایا (جو یہ تھا) کہ ”من جانب محمد رسول اللہ ﷺ بنام السعیر بن عداء۔ میں نے تمہیں (مقام) الریح کا محافظ بنایا اور مسافر کی رہی ہوئی اشیاء تمہارے لیے کر دیں۔“

زہری سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قبیلہ حمیر کے حارث و مسروح و نعیم بن عبدکلال کے نام تحریر فرمایا کہ ”تم لوگوں سے صلح ہے جب تک تمہارا ایمان اللہ اور رسول پر ہے اور یہ کہ اللہ واحد ہے جس کا کوئی شریک نہیں اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانوں کے ساتھ بھیجا اور عیسیٰ علیہ السلام کو (بغیر باپ کے محض) اپنے کلمات (قدرت) سے پیدا کیا۔ یہود نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے فرزند ہیں اور نصاریٰ نے کہا کہ اللہ تین (معبودوں) میں کا تیسرا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے فرزند ہیں۔“

یہ فرمان آپ نے عیاش بن ربیعہ الحزومی کے ہمراہ بھیجا۔ اور فرمایا کہ جب تم ان کے ملک میں جانا تو تا وقتیکہ صبح نہ ہو جائے ہرگز ہرگز داخل نہ ہونا (جب صبح ہو جائے تو) وضو کرنا اور اچھی طرح کرنا، دو رکعت نماز پڑھنا، اللہ سے کامیابی و قبولیت کی دعا کرنا، اللہ سے پناہ مانگنا، میرا فرمان داہنے ہاتھ میں لینا، اپنے داہنے ہاتھ سے ان لوگوں کے داہنے ہاتھوں میں دینا تو وہ لوگ قبول کر لیں گے۔

انہیں ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ﴾ پڑھ کر سنانا، جب اس سے فارغ ہونا تو کہنا محمد (ﷺ) ایمان لائے اور میں سب سے پہلا مومن ہوں، پھر ہرگز کوئی حجت تمہارے سامنے نہ آئے گی جو باطل نہ ہو جائے نہ کوئی باطل سے آراستہ کی ہوئی کتاب آئے گی جس کا نور نہ جاتا رہے۔

وہ لوگ تمہیں پڑھ کر سنائیں گے مگر جب وہ غمی زبان میں باتیں کریں تو کہنا کہ ترجمہ کرو۔ اور کہنا: حسبی اللہ احسن بما انزل اللہ من کتاب وامرت لاعدل بینکم اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجة بیننا و بینکم اللہ مجمع بیننا والیہ المصیر۔ مجھے اللہ کافی ہے۔ اللہ نے جو کتاب نازل کی میں اس پر ایمان لایا اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تم لوگوں

کے درمیان عدل کروں اللہ ہمارا اور تمہارا رب ہے ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ ہمارے تمہارے درمیان کوئی حجت نہیں۔ اللہ ہمیں (سب کو قیامت میں) جمع کر دے گا اور اسی کے پاس واپس جانا ہے۔

جب وہ اسلام لے آئیں تو ان سے وہ نیتوں چھڑیاں مانگنا کہ جب وہ انہیں حاضر کرتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں وہ بول کی ہیں ایک چھڑی پر گنگا جنی طمع ہے ایک چھڑی ایسی گانٹھوں والی ہے کہ پانس کی معلوم ہوتی ہے تیسری ایسی خالص سیاہ ہے کہ وہ ساسم (شیشم) معلوم ہوتی ہے۔ انہیں باہر نکال کر بازار میں جلادینا۔

عیاش نے کہا کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے جو حکم دیا تھا میں وہی کرتا ہوا روانہ ہوا جب میں داخل ہوا تو لوگ اپنے اپنے زینت کے لباس پہنے ہوئے تھے میں گزرا تا کہ ان لوگوں کو دیکھو یہاں تک کہ میں بڑے بڑے پردوں تک پہنچا جو مکان کے تین دروازوں پر پڑے ہوئے تھے۔ میں درمیان دروازے میں داخل ہوا ایک قوم کے پاس پہنچ گیا جو محن مکان میں تھی میں نے کہا کہ میں رسول اللہ ﷺ کا قاصد ہوں میں نے وہی کیا جو مجھے رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا تھا ان لوگوں نے قبول کر لیا اور ایسا ہی ہوا جیسا آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا۔

اہل علم نے پہلی ہی سند سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عبدالقیس کے نام تحریر فرمایا: منجانب محمد رسول اللہ (ﷺ) بنام اکبر بن عبدالقیس۔ ان لوگوں کو ان فسادوں پر جو زمانہ جاہلیت میں برپا کیے اللہ و رسول کی امان ہے ان پر بھی اپنے عہد کا پورا کھانا لازم ہے انہیں یہ حق ہے کہ ان کو رسد اور غلے کے راستے سے نہ روکا جائے گا نہ بارش کے (جمع شدہ) پانی سے نہ روکا جائے گا نہ پھلوں کی تیاری کے وقت منع کیا جائے گا۔

علاء بن الحضرمی اس مقام کے بحرو بر قبائل انہما اور جو اس سے پیدا ہوا اس پر رسول اللہ ﷺ کے امین ہیں اہل بحرین ظلم کے موقع پر ان کے حامی ظالم کے معاملے میں ان کے مددگار اور جنگوں میں ان کے معاون ہیں۔ ان لوگوں پر اس کے متعلق اللہ کا عہدہ و میثاق ہے۔ نہ وہ کسی قول کو بدلیں اور نہ جدائی کا ارادہ کریں۔ مسلمانوں کے لشکر پر ان لوگوں کو مال غنیمت میں شریک کرنا حکم میں عدل کرنا جہاد کی روانگی میں میانہ روی کا خیال رکھنا لازم ہے یہ حکم ہے جس کی فریقین میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی اللہ و رسول ان لوگوں پر گواہ ہیں۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت موت کے معززین و رؤسا کے نام فرامین بھیجے۔ آپ نے زرعہ قہد، البقی، الجیری، عبدکلال، ربیعہ و حجر کے نام فرمان تحریر فرمائے۔ شاعران میں سے بعض رؤسا کی مدح میں کہتا ہے۔

الا ان خیر الناس کلہم قہد و عبد کلال خیر سائرہم بعد

”خبردار ہو کہ تمام لوگوں میں سب سے بہتر قہد ہیں۔ ان کے بعد بقیہ لوگوں میں سب سے بہتر عبدکلال ہیں۔“

ایک دوسرا شاعر زرعہ کی مدح میں کہتا ہے:

الا ان خیر الناس بعد محمد لزرعة ان كان البحيري اسلما

”خبردار ہو کہ محمد ﷺ کے بعد سب سے بہتر زرعہ ہیں اگرچہ بحیری اسلام لائچکے ہیں۔“

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نفاث بن فروہ الدکلی رئیس السماوہ کے نام فرمان تحریر فرمایا۔

اہل علم نے کہا ہے کہ آپ نے عذرہ کے نام ہڈی پر تحریر فرمایا، اسے بنی عذرہ ہی کے ایک شخص کے ہمراہ بھیجا، مگر اس پرورد

بن مرداس نے جو ندیم کے بنی سعد کے ایک فرد تھے دراز دستی کی اور توڑ ڈالا۔ اسلام لے آئے اور زید بن حارثہ کے ساتھ غزوہ وادی القریٰ میں یا غزوۃ القروہ میں شہید ہو گئے۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مطرف بن الکاہن الباہلی کے لیے تحریر فرمایا کہ ”یہ فرمان منجانب محمد رسول اللہ

ﷺ مطرف بن الکاہن اور قبیلہ باہلہ کے ساکنان بیشہ کے لیے ہے جو شخص بالکل ناقابل زراعت زمین کو قابل زراعت بنائے گا جس میں مواشی اور اونٹوں کے گلے بٹھائے جاتے ہیں تو وہ اسی کی ہو جائے گی۔ ان لوگوں کے ذمے ہر تیس گائے پر ایک پوری عمر کی گائے ہر چالیس بھیڑ پر ایک سال بھر کی بھیڑ ہر پچاس اونٹ پر ایک شش سالہ اونٹ واجب ہے زکوٰۃ وصول کرنے والے کو یہ حق نہیں کہ وہ ان کی چراگاہ کے علاوہ کہیں اور زکوٰۃ وصول کرے۔ یہ سب امان الہی میں محفوظ ہیں۔“

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قبیلہ باہلہ کے نہشل بن مالک الوائلی کے لیے تحریر فرمایا کہ ”باسک اللہم“ یہ

فرمان محمد رسول اللہ ﷺ کی جانب سے نہشل بن مالک اور بنی وائل کے ان ہمراہیوں کے لیے ہے جو اسلام لائے نماز قائم کرنے زکوٰۃ دے اللہ و رسول کی اطاعت کرنے مال غنیمت میں سے اللہ کا خمس اور نبی کا حصہ ادا کرے اپنے اسلام پر گواہی دے۔ مشرکین کو چھوڑ دے تو وہ اللہ کی امان میں ہے محمد ﷺ اسے ہر قسم کے ظلم سے بچائیں گے ان لوگوں کا یہ حق ہے کہ نہ ان کو جلا وطن کیا جائے نہ ان سے عشر (بید اور کا دسواں حصہ) لیا جائے ان کا عامل انہیں میں سے ہوگا۔ بقلم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ثقیف کے لیے ایک فرمان تحریر فرمایا کہ آنحضرت ﷺ نے جو کچھ ان لوگوں

کے لیے تحریر فرمادیا اس کی ذمہ داری اللہ اور محمد بن عبد اللہ ﷺ پر ہے بقلم خالد بن سعید۔ گواہ شد۔ حسن وحسین رضی اللہ عنہما۔ نبی ﷺ نے یہ فرمان نمیر بن خزیمہ کے حوالہ کر دیا۔

اہل علم نے کہا ہے کہ وفد ثقیف نے رسول اللہ ﷺ سے درخواست کی کہ آپ ان کے لیے وج (علاقہ طائف کے ایک

گاؤں) کو حرم بنادیں (یعنی وہاں کا شکار وغیرہ حرام فرمادیں) آپ نے ان کے لیے تحریر فرمایا کہ یہ فرمان محمد رسول اللہ ﷺ کی جانب سے مسلمانوں کے نام ہے کہ وج کے عضاء (خاردار درخت) قطع نہ کیے جائیں اور نہ وہاں شکار کیا جائے جو اس کا مرتکب ہوگا اسے گرفتار کر کے نبی ﷺ کے پاس پہنچایا جائے گا یہ نبی محمد بن عبد اللہ رسول اللہ ﷺ کا حکم ہے راقم خالد بن سعید بنکرم نبی محمد بن عبد اللہ (ﷺ) جو کچھ محمد رسول اللہ (ﷺ) نے حکم دیا ہے کوئی شخص ہرگز اس سے نہ بڑھے اور نہ اپنے اوپر ظلم کرے۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سعید بن سفیان الرعلی کے لیے تحریر فرمایا کہ یہ اس امر کی دستاویز ہے کہ رسول

اللہ ﷺ نے سعید بن سفیان الرعلی کو السوارقیہ کا کھجور کا باغ عطا فرمایا۔ اس میں کوئی ان سے مزاحمت نہ کرے جو مزاحمت کرے گا اس کا کوئی حق نہ ہوگا اور حق انہیں کا ہوگا۔ بقلم خالد بن سعید۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عتبہ بن فرقد کے لیے تحریر فرمایا کہ یہ اس بات کی دستاویز ہے کہ نبی ﷺ نے عتبہ بن فرقد کو مکہ میں مکان کی زمین دی تاکہ وہ اسے مروہ کے متصل تعمیر کر لیں۔ کوئی ان سے مزاحمت نہ کرے جو مزاحمت کرے گا اس کا کوئی حق نہ ہوگا، حق انہیں کا ہوگا۔ بقلم معاویہ رضی اللہ عنہ۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سلمہ بن مالک السلمی کے لیے تحریر فرمایا کہ یہ اس امر کی دستاویز ہے جو رسول اللہ ﷺ نے ان کو ذات الحناظی وذات الاسلوو کے درمیان قطعہ عطا فرمایا ہے۔ گواہ شد علی بن ابی طالب و حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہما۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قبیلہ کلب کے بنی جناب کے لیے تحریر فرمایا کہ ”یہ فرمان محمد نبی رسول اللہ (ﷺ) کی جانب سے بنی جناب اور ان کے خلیفوں اور ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز قائم کرنے زکوٰۃ ادا کرنے ایمان کو مضبوط کرنے اور عہد کے پورا کرنے میں ان لوگوں کے مددگار ہیں۔ اور ان لوگوں پر لازم ہے کہ چھوٹی ہوئی (بغیر چرواہے کے) چرنے والی بکریوں پر ہر پانچ بکری میں ایک بے سبب بکری دیں۔ بار بردار غلہ لانے والے جانوروں پر بھی راستہ بھولنے والے جانور انہیں کے لیے ہوں گے وہ زمین بھی جس کی آبپاشی نہر اور بارش سے ہوتی ہے۔ امین کو اس کے متعلق وظیفہ ملے گا“ ان لوگوں پر اس سے زیادہ نہ کیا جائے گا۔ گواہ شد۔ سعد بن عبادہ و عبد اللہ بن انیس و دحیہ بن خلیفہ الکلبی رضی اللہ عنہم۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے تحریر فرمایا کہ یہ فرمان محمد رسول اللہ ﷺ کی جانب سے مہری بن الایض کے لیے ہے کہ خاندان مہرہ کے موئین فنا نہ کیے جائیں گے اور نہ ان پر حملہ کیا جائے گا اور نہ ان سے جنگ کی جائے گی ان لوگوں کے ذمہ شرائع اسلام کا قائم کرنا ہے۔ جو اس عہد کو بدلے گا تو (گویا) وہ اللہ سے جنگ کرے گا اور جو اس پر ایمان لائے گا تو وہ اللہ و رسول کی ذمہ داری میں ہوگا، گری پڑی چیز ادا کرنا ہوگی اور مواشی کو پانی پلانا ہوگا۔ خونریزی بدکلامی اور نافرمانی بری بات ہے۔ بقلم محمد بن مسلمہ الانصاری۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خثعم کے لیے تحریر فرمایا کہ خثعم کے جو لوگ (مقام) بیشہ اور اس کے دیہات میں مقیم ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ تم لوگوں نے زمانہ جاہلیت میں جو خون کیا ہے وہ تم سے معاف ہے تم میں سے جو اسلام لائے خواہ خوشی سے یا ناگواری سے اس کے قبضے میں نرم یا سخت زمین کا کوئی کھیت ہے جو بارش سے سیراب ہوتا ہے یا اس کی آبپاشی چشمے سے ہوتی ہے اور وہ (کھیت) بغیر قسط سالی و خشک سالی کے سرسبز و شاداب ہو گیا تو اس کو مواشی چرانے اور اس کے کھانے کا حق ہے اور ان لوگوں کے ذمے ہر جاری پانی (والے کھیت) میں دسواں حصہ اور ہر پر (سے سیراب ہونے والے کھیت) میں بیسواں حصہ ہے گواہ شد جریر بن عبد اللہ و حاضرین۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وفد شمالہ والحدان کے لیے تحریر فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان ساحل کے رہنے والوں اور اس اندرونی علاقے کے رہنے والوں کے لیے ہے جو علاقہ محاد کے متصل ہے کہ ان لوگوں کے ذمے کھجور کے باغوں پر نہ تو اندازہ ہے نہ پیمانہ کہ ہمیشہ اسی پر عمل ہو اور وہی ان سے وصول کیا جائے ان لوگوں کے ذمے ہر دس (پیمانہ) میں ایک دس

ہے اس صحیفے کے کاتب ثابت بن قیس بن شماس ہیں اور شاہد سعد بن عبادہ و محمد بن مسلمہ ہیں۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قبیلہ ازد کے باریق کے لیے تحریر فرمایا کہ یہ فرمان محمد رسول اللہ ﷺ کی جانب سے باریق کے لیے ہے کہ نہ تو باریق کے بے اجازت ان لوگوں کے پھل قطع کیے جائیں اور نہ ان کی فصل ربیع یا فصل خریف کی چراگاہوں میں جانور چرائے جائیں جو مسلمان ان لوگوں کے پاس کسی ایسے مقام پر گزرے کہ چراگاہ نہ ہو یا ایسی شور زمین سے گزرے جہاں اپنا اونٹ چھوڑ دے اور وہاں سے بقدر ضرورت چلے تو اس کی تین دن کی مہمان داری (ان لوگوں کے ذمے) ہوگی۔ جب ان لوگوں کے پھل پک جائیں تو مسافر کو اتنے گرے پڑے پھلوں کا حق ہوگا جو اسے شکم سیر کر دیں بغیر اس کے کہ وہ اپنے ہمراہ اسے لا کر لے جائے۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وائل بن حجر کے لیے تحریر فرمایا: جب انہوں نے اپنے وطن جانے کا ارادہ کیا تو عرض کی یا رسول اللہ مجھے میری قوم کے نام ایک فرمان تحریر فرما دیجئے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اے معاویہ یا اختیار رؤسا کے نام لکھ دو کہ وہ نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں زکوٰۃ باہر چرنے والے مواشی اور ان کے ساتھ گھریں رہنے والے مواشی پر ہے۔

مالک کو جائز نہیں کہ وہ دھوکا دے اور جانوروں کو (حساب کے وقت) ہکا دے۔ (وصول کرنے والے کو) مناسب نہیں کہ رسی باندھ کر بلوائے اور (اپنے پڑاؤ پر) جانوروں کو منگوائے (مالک کو) بھی جائز نہیں کہ آمیزش کرے (یعنی محصل کو یہ لازم ہے کہ جہاں جانور چر رہے ہوں وہیں جا کر شمار کو کے صدقے کا حساب کرے یا نہ کرے کہ اپنے پڑاؤ پر جانوروں کو منگائے اور مالک مواشی کو لازم ہے کہ وہ انہیں چھپانے کی کوشش نہ کرے) اور ان لوگوں پر مسلمانوں کے لشکروں کی مدد کرنا واجب ہے۔ ہر ایک دس پر بقدر ایک اونٹنی کے بوجھ کے ہے جس (محصل) نے باج لیا۔ اس نے زیادہ ستانی کی۔

وائل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے اس زمین (کی معافی) کے متعلق بھی تحریر فرما دیجئے جو زمانہ جاہلیت میں میری تھی رؤسائے قبیلہ جمہر و رؤسائے حضرموت نے وائل کے موافق شہادت دی (کہ یہ زمین ان کی تھی)۔

آپ نے ان کے لیے تحریر فرمایا کہ یہ فرمان محمد نبی ﷺ کی جانب سے وائل بن حجر رئیس حضرموت کے لیے ہے یہ اس لیے ہے کہ تم اسلام لے آئے جو زمینیں اور قلعے تمہارے قبضے میں ہیں وہ میں نے تمہارے ہی لیے مخصوص کر دیئے تم سے (بطور زکوٰۃ) ہر دس میں سے ایک لیا جائے گا جس میں دو صاحب عدل غور کریں گے میں نے تمہارے لیے یہ بھی کر دیا کہ اس میں تم پر ظلم نہ کیا جائے گا جب تک یہ دین قائم ہے اور نبی ﷺ اور مومنین اس پر مددگار ہیں۔

اہل علم نے کہا ہے کہ قبیلہ کندہ کے اشعث وغیرہ نے حضرموت کی ایک وادی کے بارے میں وائل بن حجر سے جھگڑا کیا رسول اللہ ﷺ کے پاس اس کا دعویٰ کیا تو رسول اللہ ﷺ نے اس کا فیصلہ وائل بن حجر کے موافق تحریر فرما دیا۔

اہل علم نے کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اہل نجران کے لیے تحریر فرمایا کہ یہ فرمان محمد رسول اللہ ﷺ کی جانب سے اہل نجران کے لیے ہے کہ ان لوگوں پر (حسب ذیل طریقہ پر) آپ کے حکم کی پابندی لازم ہوگی۔ ہر زرد یا سفید یا سیاہ پھل میں یا غلام

کے باب میں حکم نبویؐ پر عمل کریں گے، لیکن آنحضرت ﷺ نے ان پر یہ مکرمت کی کہ: یہ سب محصول دو ہزار حط کے عوض میں چھوڑ دیا جائے گا جو اوقیہ کے حساب سے ہوں گے۔ ہر رجب میں ایک ہزار حط واجب الاداء ہوں گے اسی طرح ہر صفر میں ایک ہزار واجب الاداء ہوں گے ہر حط اوقیہ کے حساب سے ہوگا جو زائد ہوں یا اوقیہ سے کم ہوں وہ حساب سے لیے جائیں گے۔

ان کے قبضے کی جو زرہیں یا گھوڑے یا اونٹ یا اسباب ان سے لے لیے جائیں گے وہ بھی حساب سے ہوگا اور نجران کے ذمے بیس روز تک اور اس سے کم کی میرے قاصدوں کی مہمان داری ہے۔ اور میرے قاصدوں کو ایک ماہ سے زیادہ نہ روکا جائے (یعنی جب وہ وصول کرنے جائیں تو انہیں ایک ماہ کے اندر اندر خرانج دے کر رخصت کرنا ہوگا)۔ جب یمن میں جنگ ہو تو اہل نجران کے ذمے میرے قاصدوں کو تین زرہ، تیس گھوڑے اور تیس اونٹ بطور عاریت دیئے ہوں گے۔ میرے قاصد جو زرہ، گھوڑے اور اونٹ بطور عاریت لیں اس میں سے جو چیز فنا ہو جائے اس کا تاوان میرے قاصد پر ہوگا۔ یہاں تک وہ اسے ان لوگوں کو ادا کر دے۔ اہل نجران اور ان کے قرب و جوار کے لیے ان کی جان، مذہب، ملک و مال، حاضر و غائب، ان کے معابد و عبادات، اللہ کی پناہ اور محمد نبی رسول اللہ ﷺ کی ذمہ داری میں ہیں نہ تو ان کے کسی اسقف کو تبدیل کیا جائے گا نہ کسی راہب (عیسائی تارک دنیا) کو اس کی رہبانیت سے اور نہ کسی واقف (تارک جنگ) کو اس کی وقفانیت سے۔

اس قلیل یا کثیر مقدار میں کوئی تبدل و تغیر نہ کیا جائے گا جو ان لوگوں کے قبضے میں ہے سود کے لین دین کا کوئی حق نہ ہوگا نہ زمانہ جاہلیت کے خون کے انتقام کا، ان میں سے جو کوئی حق کا مطالبہ کرے گا تو ان کے درمیان انصاف کیا جائے گا نہ تو ظلم کیا جائے گا اور نہ نجرانیوں پر ظلم سہا جائے گا جس نے سابق میں سود کھایا تو میں اس سے بری الذمہ ہوں دوسرے کے ظلم میں ان لوگوں سے مواخذہ نہ ہوگا۔

جو کچھ اس فرمان میں مذکور ہے اس پر ہمیشہ کے لیے اللہ کی پناہ اور ”محمدؐ“ نبی ﷺ کی ذمہ داری ہے، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیجے بشرطیکہ یہ لوگ بلا جبر و اکراہ اپنی ذمہ داری میں نیکی و خیر خواہی کریں۔

گواہ شد۔ ابوسفیان بن حرب و غیلان بن عمرو و مالک بن عوف النصری و اقرع بن حابس و مستورد بن عمرو و برادر بن علی و مغیرہ بن شعبہ و عامر مولائے ابی بکر رضی اللہ عنہ۔

اہل دومہ کے ایک شیخ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اکیدر کے لیے جو تحریر فرمایا وہ یہی ہے۔ محمد بن عمرو نے کہا کہ شیخ فرمان لائے تو میں نے اسے پڑھا، ان سے لے لیا مضمون یہ تھا: ”آپؐ نے یہ فرمان اس وقت تحریر فرمایا تھا جب اکیدر نے اسلام کو قبول کر لیا اور سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہمراہ دومۃ الجندل اور اس کے اطراف میں بتوں اور اصنام کو اکھیڑ پھینکا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ ﷺ کی طرف سے یہ فرمان اکیدر کے لیے ہے چھوٹے چھوٹے تالابوں کے کنارے کی زمین غیر مزرعہ زمین وہ زمین جس کی حد بندی ہے۔ وہ زمین جس کی حد بندی نہیں کی گئی ہے زرہ، ہتھیار، باولی اور قلعہ اکیدر کے لیے ہے تم لوگوں کے لیے کھجور کے تنے آبادی کا جاری پانی ہے۔ تمس ادا کرنے کے بعد تمہارے مویشی کو چراگاہ سے نہ بنایا جائے گا نہ تمہارے ان مویشی کو شمار کیا جائے گا جن میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ تمہیں گھاس سے نہ روکا جائے گا تم سے سوائے ان کھجور

کے درختوں کے جوا چھی طرح جڑ پکڑ چکے ہیں اور کسی سے عشر (یعنی پیداوار کا دسواں حصہ) نہیں لیا جائے گا۔ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہوگا اور زکوٰۃ کو اس کے حق کے مطابق ادا کرنا ہوگا۔ تم پر اس عہد و پیمان کی پابندی لازم ہوگی اس سے تمہاری سچائی اور وفاداری کا ثبوت ملے گا اللہ اور حاضرین مسلمین اس پر گواہ ہیں۔

محمد بن عمرو نے کہا کہ دومہ وایلد ویتاء کے لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ تمام عرب اسلام لے آیا تو انہیں نبی ﷺ سے خوف پیدا ہوا اس پر ان کی تسلی کے لیے یہ فرمان تحریر فرمایا۔

محمد بن عمرو نے کہا محنہ بن رویہ نبی ﷺ کے پاس حاضر ہوئے یہ ایلہ کے بادشاہ تھے انہیں اندیشہ ہوا کہ کہیں رسول اللہ ﷺ ان کے پاس بھی (لشکر) نہ بھیج دیں جس طرح آپؐ نے اکیدر کے پاس بھیج دیا تھا محنہ آئے تو ان کے ہمراہ اہل شام اہل یمن و اہل بحر بھی تھے کچھ لوگ جرباد اور اذرح کے بھی تھے۔ آپؐ نے ان لوگوں سے مصالحت فرمائی ایک معینہ جزیہ مقرر فرمادیا اور ان کے لیے یہ فرمان تحریر فرمادیا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ امن نامہ اللہ اور محمد نبی ﷺ کی جانب سے محنہ بن رویہ اور اہل ایلہ کے لیے ان کی کشتیوں اور قافلوں کے لیے ہے جو بحر و بر میں ہیں ان لوگوں کے لیے اور ان اہل شام اور اہل یمن و اہل بحر کے لیے جو ان کے ہمراہ ہیں اللہ اور محمد رسول اللہ ﷺ کی ذمہ داری ہے جو کوئی (اس عہد کے خلاف) نئی بات کرے گا تو اس کا مال اس کی جان کو نہ بچا سکے گا وہ اس شخص کے لیے حلال ہوگا جو اس کو لے لے (یعنی اس پر عمل کرے) یہ بھی حلال نہ ہوگا کہ یہ لوگ جس پانی (کے کنوئیں) پر اترتے ہیں اسے روکیں (کہ اور کوئی نہ بھرے) اور نہ خشکی و تری کے اس راستے کو جس کا وہ لوگ ارادہ کرتے ہیں۔

یہ فرمان جہیم بن الصلت و شریحیل بن حسنہ رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ ﷺ کے حکم سے لکھا۔ عبدالرحمن بن جابر نے اپنے والد سے روایت کی کہ جس روز محنہ بن رویہ نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے ان کے بدن پر سونے کی صلیب دیکھی جو ان کی پیشانی پر بندھی ہوئی تھی جب انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا تو وہ دست بستہ کھڑے ہو گئے اور اپنے سر سے (تعظیم و سلام کا) اشارہ کیا نبی ﷺ نے اشارے سے فرمایا کہ اپنا سر اٹھاؤ آپؐ نے اسی روز ان سے مصالحت کر لی۔

رسول اللہ ﷺ نے انہیں ایک یمنی چادر اڑھائی اور بلال کے پاس ٹھہرانے کا حکم دیا جس روز اکیدر کو خالد لائے تو میں نے انہیں بھی اس کیفیت سے دیکھا تھا کہ ان کے بدن پر سونے کی صلیب تھی۔ اور وہ ریشمی لباس پہنے تھے۔ اس کے بعد پھر اول مضمون کی طرف عود کیا جاتا ہے کہ محمد بن عمرو نے کہا۔ میں نے اہل اذرح کا فرمان لکھ لیا اس میں یہ مضمون تھا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ فرمان محمد نبی ﷺ کی جانب سے اہل اذرح کے لیے ہے کہ یہ لوگ اللہ اور محمد ﷺ کی امان میں ہیں ان پر ہر رجب میں سودینا رکھرے پورے پورے واجب الاداء ہوں گے مومنین کے ساتھ خیر خواہی و احسان کرنے سے اللہ ان لوگوں کا کفیل ہوگا مومنین میں سے جو شخص خوف و تعزیر کی وجہ سے ان لوگوں کے پاس پناہ لے جب کہ ان لوگوں کو مومنین پر اندیشہ ہو (تو اس حالت میں پناہ دینے اور احسان کرنے سے بھی اللہ نفیل ہوگا) یہ لوگ اس وقت تک امان میں ہیں جب تک کہ محمد ﷺ بغرض جنگ رواں لگی سے پہلے تک ان سے بیان نہ کر دیں۔ رسول اللہ ﷺ نے اہل ایلہ پر جو تین سو تھے تین سو دینار

سالانہ جزیہ مقرر فرمایا تھا۔

محمد بن عمرو نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے اہل جرباد اہل اذرح کے لیے تحریر فرمایا کہ یہ فرمان محمد نبی (ﷺ) کی جانب سے اہل جرباد اذرح کے لیے ہے کہ یہ لوگ اللہ اور محمد (ﷺ) کی امان میں ہیں، ان کے ذمے ہر رجب میں (بطور جزیہ) سودینار ہیں جو اچھے اور پورے ہوں اللہ ان کا کفیل ہے۔

محمد بن عمرو نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے اہل مقنا کے لیے تحریر فرمایا کہ یہ لوگ اللہ و محمد (ﷺ) کی امان میں ہیں، ان پر (بطور جزیہ) ان کے کاتے ہوئے سوت اور کپڑے کا اور ان کے پھلوں کا چوتھائی حصہ ہے۔

صالح مولائے قومہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اہل مقنا سے ان کے چوتھائی کتے ہوئے سوت اور چوتھائی پھلوں کے لینے پر صلح فرمائی۔ محمد بن عمرو نے کہا کہ اہل مقنا یہودی تھے جو ساحل بحر پر رہتے تھے اور اہل جرباد اذرح بھی یہودی تھے۔

وفود عرب

(۱) قبیلہ مزینہ کا وفد:

کثیر بن عبد اللہ المزنی نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہ قبیلہ مضر کا سب سے پہلا وفد جو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا مزینہ کے چار سو آدمیوں پر مشتمل تھا، یہ وفد رجب ۵ھ میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کے مکانوں میں رہنے ہی کو ہجرت قرار دیا کہ تم لوگ جہاں رہو مہاجر ہو لہذا تم لوگ اپنے مال و متاع کی جانب واپس جاؤ، وہ لوگ اپنے وطن واپس گئے۔

ابو عبد الرحمن الجعفی نے مروی ہے کہ قبیلہ مزینہ کی ایک جماعت رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی جن میں خزاعی بن عبد نہم بھی تھے، انہوں نے اپنی قوم مزینہ پر آپ سے بیعت کی، ان میں سے دس آدمی ساتھ آئے جن میں بلال بن الحارث، نعمان بن مقرن، ابواسماء، عبید اللہ بن بردہ، عبد اللہ بن درہ و بشر بن الحنفجر بھی تھے۔ محمد بن سعد کہتے ہیں کہ ایک دوسرے راوی نے بیان کیا کہ ان میں ذکین بن سعید و عمرو بن عوف بھی تھے۔

ہشام نے کہا کہ پھر خزاعی اپنی قوم کی جانب روانہ ہو گئے مگر انہوں نے ان لوگوں کی وہ کیفیت نہیں پائی جیسا ان کا خیال تھا، وہ مقیم ہو گئے، رسول اللہ ﷺ نے حسان بن ثابت کو بلایا اور فرمایا کہ خزاعی کا ذکر کرو اور ان کی ہجو نہ کرو، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا۔

الا ابلغ خزاعی رسولاً بان الذم يغسله الوفاء

”خبردار، خزاعی کے پاس قاصد بھیج دے۔ کہ وفاداری نہ مت کو دھو دیتی ہے۔“

وانك خير عثمان بن عمرو واستها اذا ذكر السناء

تم عثمان بن عمرو کی اولاد میں سب سے بہتر ہو، جب خوبی و بلندی کا ذکر کیا جائے تو ان سب میں زیادہ بلند و خوب تر ہو۔

وبایعت الرسول وكان خيرا الى خبير واذاك الشراء
تم نے رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی اور وہ خیر تھی جو خیر کی طرف پہنچ گئی اور تمہیں ثروت نے پہنچا دیا۔
فما يعجزك او ما لا تطقه من الاشياء لا تعجز عدا
تم کو عاجز نہ کرے یا جن اشیاء کی تم کو طاقت نہیں ہے اس سے قوم عدا عاجز نہ ہو۔

خزاعی اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے قوم! ان بزرگ کے شاعر نے تم کو خاص کیا لہذا میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، ان لوگوں نے کہا کہ ہم تم پر اعتراض نہ کریں گے وہ سب لوگ اسلام لائے اور بطور وفد نبی ﷺ کے پاس حاضر ہوئے۔
فتح مکہ کے دن رسول اللہ ﷺ نے قبیلہ مزینہ کا جھنڈا خزاعی کو دیا، اس روز وہ ایک ہزار آدمی تھے۔ وہ (خزاعی) عبد اللہ بن مغفل کے والد مغفل کے بھائی اور عبد اللہ ذی السجادین کے بھائی تھے۔

(۲) وفد بنی اسد بن خزیمہ:

ہشام بن محمد الکلبی نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابتدائے ۹ھ میں بنی اسد بن خزیمہ کے دس گروہ رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوئے۔ جن میں حضرمی بن عامر، ضرار بن الازور، وابصہ بن معبد، قناوہ بن القائف، سلمہ بن حیش، طلحہ بن خویلد، نقادہ بن عبد اللہ بن خلف بھی تھے۔

حضرمی بن عامر نے کہا کہ ہم لوگ سخت تاریک شب اور سخت خشک سالی میں سفر کر کے آپ ﷺ کے پاس آئے ہیں حالانکہ آپ نے ہمارے پاس کوئی لشکر نہیں بھیجا، انہیں لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی: ﴿يَمْنُونَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوا﴾ (کہ یہ لوگ اپنے اسلام لانے کا آپ پر احسان جتاتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ احسان جتاتا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت کر دی)۔

ان لوگوں کے ہمراہ بنی الزینہ کی بھی ایک قوم تھی جو مالک بن مالک بن ثعلبہ بن دودان بن اسد کی اولاد تھے ان لوگوں سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم لوگ ارشدہ کی اولاد ہو ان لوگوں نے عرض کی کہ ہم مثل اولاد محولہ کے نہیں ہیں یعنی مثل عبد اللہ بن غطفان کے نہیں ہیں۔

بنی مالک بن مالک کے ایک شخص سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قناوہ بن عبد اللہ بن خلف بن عیسہ بن مری بن سعد بن مالک الاسدی سے فرمایا کہ اے قناوہ میرے لیے ایک ایسی اونٹنی تلاش کرو جو دودھ بھی دے اور سواری کا کام بھی دے، اسے بچے سے جدا نہ کرنا۔

انہوں نے اپنے جانوروں میں تلاش کی مگر کوئی نہ ملی، البتہ اپنے چچا زاد بھائی کے پاس پائی جن کا نام سنان بن ظفیر تھا، وہ اونٹنی منگائی اور قناوہ اسے رسول اللہ ﷺ کے پاس لے گئے۔

آنحضرت ﷺ نے اس کے تھن چھوئے اور قناوہ کو بلایا، انہوں نے اس کا دودھ دودھ لیا اور کچھ حصہ چھوڑ دیا فرمایا کہ اے قناوہ دودھ کا وہ حصہ چھوڑ دو جس سے دوبارہ دودھ اترے۔

رسول اللہ ﷺ نے خود نوش فرمایا، اصحاب کو بلایا، نفاہ کو اپنا چاہا دیا اور فرمایا کہ ”اے اللہ اس اونٹنی کو اور اس شخص کو جس نے اسے دیا ہے برکت دے۔“ نفاہ نے کہا: ”یا نبی اللہ اور اس شخص کو جو اسے لایا ہے“ فرمایا ”اور اس شخص کو جو اسے لایا ہے۔“

(۳) وفد بنو تمیم:

سعید بن عمرو سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بشر بن سفیان کو جن کو نعام العدوی بھی کہا جاتا تھا خزاعہ کے بنی کعب کے صدقات (وصول کرنے پر) مامور فرما کر بھیجا، بنی عمرو بن جندب بن العنبر ابن عمرو بن تمیم جو ان (بنی کعب) کے اطراف میں اترے ہوئے تھے آئے۔ خزاعہ نے اپنے مواشی زکوٰۃ کے لیے جمع کیے تو اس امر کو بنی تمیم نے برا جانا اور (زکوٰۃ سے) انکار کیا، کمانوں کی طرف بڑھے اور تلواریں نکال لیں۔

محصل زکوٰۃ (یعنی بشر بن سفیان) نبی ﷺ کے پاس آئے اور خبر دی فرمایا کہ ان لوگوں (کی سرکوبی) کے لیے ہے کوئی؟ عیینہ بن بدر الفزازی تیار ہو گئے۔ نبی ﷺ نے انہیں پچاس عرب سواروں کے ہمراہ جن میں نہ کوئی مہاجر تھا نہ انصاری، بھیج دیا۔ ان لوگوں نے حملہ کیا، گیارہ مرد گیارہ عورتیں اور تیس بچے گرفتار کر لیے۔ اور انہیں مدینہ گھسیٹ لائے۔

رؤسائے بنی تمیم کی ایک جماعت جو عطار بن حاجب، زبرقان بن بدر، قیس بن عاصم، قیس بن الحارث، نعیم بن سعد، اقرع بن حابس، ریاح بن الحارث، عمرو بن الہائم پر مشتمل تھی آئی، کہا جاتا ہے کہ ہمراہ اسی یا نوے آدمی تھے۔ یہ لوگ مسجد میں ایسے وقت داخل ہوئے کہ بلال ظہر کی اذان کہہ چکے تھے اور لوگ رسول اللہ ﷺ کے برآمد ہونے کے منتظر تھے۔

ان لوگوں نے غلبت کی اور آپ کی آمد میں دیر سمجھے تو پکارا کہ اے محمد (ﷺ) ہمارے پاس تشریف لائیے رسول اللہ ﷺ برآمد ہوئے بلال نے اقامت کہی اور رسول اللہ ﷺ نے نماز ظہر پڑھائی۔

لوگ آپ کے پاس حاضر ہوئے، اقرع نے کہا کہ یا محمد (ﷺ) مجھے اجازت دیجئے کیونکہ واللہ میری سچی موجب زینت ہے اور میری مذمت عیب ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے انہیں جواب دیا کہ تم نے جھوٹ کہا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ رسول اللہ ﷺ نکلے اور بیٹھ گئے، ان لوگوں کے خطیب عطار بن حاجب نے تقریر کی رسول اللہ ﷺ نے ثابت بن قیس بن شماس سے فرمایا کہ تم ان کو جواب دو انہوں نے جواب دیا۔

ان لوگوں نے عرض کی کہ یا محمد (ﷺ) ہمارے شاعر کو اجازت دیجئے۔ آپ نے انہیں (شعر سننے کی) اجازت دی، زبرقان بن بدر اٹھے اور شعر پڑھے۔ محمد رسول اللہ ﷺ نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم ان کو جواب دو انہوں نے ان کو انہیں کے سے اشعار میں جواب دیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ واللہ آنحضرت ﷺ کا خطیب (مقرر) ہمارے خطیب سے زیادہ فصیح و بلیغ اور آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے بڑھا ہوا ہے اور یہ سب لوگ ہم سے زیادہ بردبار و حلیم ہیں۔ انہیں لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی:

﴿ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون﴾

”جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔“

رسول اللہ ﷺ نے قیس بن عاصم کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں کے اون والوں کے سردار ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے قیدیوں کو واپس کر دیا اور ان لوگوں کے لیے بھی اسی طرح انعامات کا حکم دیا جس طرح آپؐ وفد کو انعام دیا کرتے تھے۔

بنی النجار کی ایک خاتون سے مروی ہے کہ میں اس روز اس وفد کو دیکھ رہی تھی جو بلال سے اپنے انعامات کی ساڑھے بارہ بارہ اوقیہ (چاندی) لے رہے تھے، میں نے ایک بچے کو دیکھا جس کو اس روز انہوں نے پانچ اوقیہ دیئے۔ وہ ان میں سب سے چھوٹا تھا اور وہ عمرو بن الاثم تھا۔

محمد بن جناح برادر بنی کعب بن عمرو بن تمیم سے مروی ہے کہ سفیان بن الہذیل بن الحارث بن مصد بن مازن بن ذویب بن کعب بن عمرو بن تمیم بطور وفد کے نبی ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور اسلام لائے۔

ان کے بیٹے قیس نے کہا کہ اے میرے باپ مجھے بھی اپنے ہمراہ نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے دیجئے انہوں نے کہا کہ ہم غفریب واپس آجائیں گے (تو پھر دوبارہ چلنا)۔

علیم بن قیس بن سفیان نے بیان کیا کہ ہمیں ایک شتر سوار نظر آیا۔ اور اس نے محمد رسول اللہ ﷺ کی خبر وفات سنائی، ہم لوگ جھوپڑیوں سے نکل پڑے اور کہا کہ ہمارے ماں باپ رسول اللہ ﷺ پر قربان ہوں۔ میں نے یہ اشعار کہے۔

الایلیٰ الویل علی محمد قد کنت فی حیاته بمقعد

وفی امان من غدو متعدی

”خبردار! میری تباہی ہے محمد ﷺ کے واقعے پر کہ میں آپ کی حیات میں بیٹھا رہا (اور آپ کی زیارت نہ کی) میں ظالم دشمن سے بھی امان میں تھا۔“

راوی نے کہا کہ قیس بن سفیان بن الہذیل کی وفات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں علاء بن الحضرمی کے ہمراہ بحرین میں ہوئی ایک شاعر نے یہ شعر کہا ہے۔

فان یك قیس قد مضی لسیلہ فقد طاف قیس بالرسول وسلمنا

”اگر قیس اپنی راہ چلے گئے تو کیا مضا لقت رسول اللہ ﷺ کے گرد بھی تو قیس پھرے اور آنحضرت کو سلام بھی تو کیا۔“

(۴) وفد بنی عیس:

ابو الشغب عکرشہ بن اربد العیسیٰ وغیرہ سے مروی ہے کہ بنی عیس کے نو شخص بطور وفد رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوئے۔ یہ لوگ مہاجرین اولین میں سے تھے جن میں میسرہ بن مسروق، حارث بن الربیع یہی (حارث کا مل بھی کہلاتے تھے) قتبان بن دارم، بشیر بن الحارث بن عبادہ، ہدم بن مسعد، سباع بن زید، ابو الحسن بن لقمان، عبد اللہ بن مالک، فروہ بن الحصین بن فضالہ تھے۔

یہ لوگ اسلام لائے رسول اللہ ﷺ نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی اور فرمایا کہ میرے لیے ایسے شخص کو تلاش کرو جو تم

لوگوں سے عشر (دسواں حصہ بطور زکوٰۃ) وصول کرے تاکہ میں تمہارے لیے جھنڈا باندھ دوں۔ طلحہ بن عبید اللہ آئے آپ نے ان کے لیے جھنڈا باندھ دیا اور ان لوگوں کا شعار ”یا عشرہ“ مقرر فرمایا (شعار چند مخصوص الفاظ پہلے سے مقرر کر دیئے جاتے ہیں کہ میدان جنگ میں ان کے ذریعے سے اپنی فوج کے لوگ پہچان لیے جائیں)۔

عروہ بن ازیۃ اللثی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو معلوم ہوا کہ قریش کا ایک قافلہ ملک شام سے آیا ہے۔ آپ نے ایک سریہ (شکر) کے ہمراہ بنی عیس کو بھیجا اور ان کے لیے جھنڈا باندھا۔

ان لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر ہم لوگ مال غنیمت پائیں تو اسے کس طرح تقسیم کریں؟ ہم نو آدمی ہیں فرمایا تھا کہ تمہارا دسواں میں ہوں میں نے سب سے بڑا جھنڈا جماعت و امام کا جھنڈا کر دیا۔ بنی عیس کے لیے چھوٹا جھنڈا نہیں ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بنی عیس کے تین شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی ہمارے پاس قاری (حافظ قرآن و معلم) آئے انہوں نے ہمیں خبر دی کہ جو ہجرت نہ کرے اس کا اسلام نہیں ہمارے پاس مال (زمین) اور مواشی ہیں۔ جو ہمارا ذریعہ معاش ہیں۔ اگر اس کا اسلام نہ ہو جو ہجرت نہ کرے تو ہم اس کو فروخت کر دیں۔ اور ہجرت کریں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو (تقویٰ اختیار کرو) اگر تم صمد و جازان میں رہو جب بھی وہ ہرگز تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہ کرے گا۔“

آپ نے ان لوگوں سے خالد بن سنان کو دریافت فرمایا ان لوگوں نے کہا کہ ان کا کوئی پس ماندہ نہیں ہے فرمایا ایسے نبی جن کو قوم نے ضائع کر دیا۔ اور اصحاب سے خالد بن سنان کا ذکر شروع کر دیا۔

(۵) وفد بنی فزارہ:

ابو جزہ السعدی سے مروی ہے کہ جب ۹ھ میں رسول اللہ ﷺ غزوہ تبوک سے واپس ہوئے تو بنی فزارہ کے انیس آدمیوں کا ایک وفد بیلے اونٹوں پر آیا جس میں خارجہ بن حصن حریبن قیس بن حصن بھی تھے یہ (حریبن قیس) ان سب میں چھوٹے تھے یہ لوگ اسلام کا اقرار کرتے ہوئے آئے۔

رسول اللہ ﷺ نے ان کے وطن کا حال دریافت فرمایا تو ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے وطن میں قحط سالی ہے مواشی ہلاک ہو گئے اطراف خشک ہو گئے اور ہمارے عیال بھوکے مر گئے لہذا اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا فرمائیے۔

رسول اللہ ﷺ منبر پر تشریف لے گئے اور دعا فرمائی کہ اے اللہ اپنے شہر اور جانوروں کو سیراب کر دے اپنی رحمت کو پھیلا دے اور مردہ شہر کو زندہ کر دے اے اللہ ہمیں ایسی بارش سے سیراب کر دے جو مدد کرنے والی مبارک سرسبز شبانہ روز و سبغ فوری غیر تافیر کنندہ مفید و غیر مضر ہو۔ اے اللہ ہمیں باران رحمت سے سیراب کر دے نہ کہ باران عذاب سے یا مہدم اور غرق کرنے اور مٹانے والی بارش سے اے اللہ ہمیں بارش سے سیراب کر اور ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔

(اس دعا کے بعد) اتنی بارش ہوئی کہ لوگوں کو چھ روز تک آسمان نظر نہ آیا۔ رسول اللہ ﷺ منبر پر تشریف لے گئے اور دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمارے اوپر نہ ہو ہمارے اطراف ٹیلوں پر زمین سے ابھرے ہوئے پتھروں پر وادوں پر اور جھاڑیوں پر

ہو۔ ابرہہ نے اس طرح پھٹ گیا جس طرح کپڑا پھٹ جاتا ہے۔

(۶) وفد مرہ:

عبدالرحمن بن ابراہیم المزنی نے اپنے شیوخ سے روایت کی کہ وفد مرہ ”محمد رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ۹ھ میں غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت حاضر ہوا یہ تیرہ آدمی تھے جن کے رئیس حارث بن عوف تھے۔“ ان لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم لوگ آپ ہی کی قوم و خاندان کے ہیں ہم لوگ لوی بن غالب کی قوم سے ہیں رسول اللہ ﷺ نے تبسم فرمایا (رئیس وفد حارث بن عوف سے) فرمایا کہ تم نے اپنے متعلقین کو کہاں چھوڑا عرض کی واللہ ہم لوگ قطار زدہ ہیں آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ رسول اللہ (ﷺ) نے فرمایا کہ اے اللہ ان لوگوں کو بارش سے سیراب کر بلال کو حکم دیا کہ وہ ان لوگوں کو انعام دیں۔ چنانچہ انہوں نے ان لوگوں کو دس دس اوقیہ چاندی دی اور حارث بن عوف کو زیادہ دی ان کو بارہ اوقیہ دی۔

لوگ اپنے وطن واپس گئے تو معلوم ہوا کہ جس روز رسول اللہ ﷺ نے ان کے لیے دعا فرمائی اسی روز بارش ہوئی۔

(۷) وفد بنی ثعلبہ:

بنی ثعلبہ کے ایک شخص نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب رسول اللہ ﷺ ۸ھ میں حیرانہ سے تشریف لائے تو ہم چار آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہم اپنی قوم کے پسماندہ لوگوں کے قاصد ہیں ہم اور وہ اسلام کا اقرار کرتے ہیں آپ نے ہماری مہمان داری کا حکم دیا ہم لوگ چند روز مقیم رہے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ رخصت ہوں۔ آپ نے بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ان کو بھی اسی طرح انعام دو جس طرح تم وفد کو دیتے ہو وہ چند ٹکڑے چاندی کے لائے اور ہر شخص کو پانچ اوقیہ دیئے ہمارے پاس درم (روپیہ) نہ تھا اور ہم اپنے وطن واپس آ گئے۔

(۸) وفد محارب:

ابو جزہ السعدی سے مروی ہے کہ حجۃ الوداع ۱۰ھ میں وفد محارب آیا وہ لوگ دس آدمی تھے جن میں سواء بن الحارث اور ان کے بیٹے خزیمہ بن سواء بھی تھے یہ لوگ رملہ بنت الحارث کے مکان میں اتارے گئے بلال صبح و شام کھانا ان لوگوں کے پاس لایا کرتے تھے۔

یہ لوگ اسلام لے آئے اور عرض کی کہ ہم لوگ اپنے پس ماندہ لوگوں کے قائم مقام ہیں اس زمانے میں ان لوگوں سے زیادہ رسول اللہ ﷺ پر کوئی درشت خو سخت نہ تھا اس وفد میں انہیں کی قوم کے ایک شخص تھے رسول اللہ ﷺ نے پہچان لیا تو انہوں نے عرض کی کہ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے زندہ رکھا کہ میں نے آپ کی تصدیق کی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔

آپ نے خزیمہ بن سواء کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو ان کی پیشانی سفید و منور ہو گئی آپ نے انہیں انعام دیا جس طرح وفد کو دیا کرتے تھے یہ لوگ اپنے متعلقین کے پاس واپس گئے۔

(۹) وفد بنی سعد بن بکر:

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ بنی سعد بن بکر نے رجب ۵ھ میں ضمام بن ثعلبہ کو جو بہادر بہت بال اور زلفوں والے تھے بطور وفد رسول اللہ ﷺ کے پاس بھیجا، وہ آئے اور رسول اللہ ﷺ کے پاس ٹھہر گئے، آپ سے سوال کیا اور سوال کرنے میں بہت سختی کی۔

پوچھا آپ کو کس نے رسول بنایا، اور کن امور کا رسول بنایا؟ آپ سے شرائع اسلام بھی دریافت کیے، رسول اللہ ﷺ نے انہیں ان تمام امور کا جواب دیا۔

وہ ایسے مسلمان ہو کر اپنی قوم کی جانب واپس گئے کہ بتوں کو اکھاڑ پھینکا، لوگوں کو ان امور سے آگاہ کیا جس کا آپ نے حکم دیا تھا یا منع فرمایا تھا۔ اس روز شام نہ ہونے پائی کہ تمام عورت مرد مسلمان ہو گئے ان لوگوں نے مساجد تعمیر کیں اور نمازوں کی اذانیں کہیں۔

(۱۰) وفد بنی کلاب:

خارجہ بن عبد اللہ بن کعب سے مروی ہے کہ بنی کلاب کے تیرہ آدمیوں کا ایک وفد ۹ھ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوا جن میں لبید بن ربیعہ و جبار بن سلمیٰ بھی تھے آپ نے ان لوگوں کو رملہ بنت الحارث کے مکان میں اتارا۔ جبار و کعب بن مالک میں دوستی تھی، جب کعب کو ان لوگوں کا آنا معلوم ہوا تو انہوں نے ان لوگوں کو مہر جاکھا، جبار کو ہدیہ دیا اور ان کی خاطر کی۔

یہ لوگ کعب کے ہمراہ نکلے اور رسول اللہ ﷺ کے پاس گئے آپ کو اسلامی سلام کیا اور عرض کی کہ ضحاک بن سفیان ہمارے یہاں کتاب اللہ اور آپ کی وہ سنت لائے جس کا آپ نے انہیں حکم دیا تھا، انہوں نے ہمیں اللہ کی طرف دعوت دی، ہم نے اللہ و رسول کے لیے قبول کر لیا انہوں نے ہمارے امراء سے زکوٰۃ وصول کی اور ہمارے فقراء کو واپس کر دی۔

(۱۱) وفد بنی روا اس بن کلاب:

ابی نضیع طارق بن علقمہ الرواسی سے مروی ہے کہ ہم میں سے ایک شخص جن کا نام عمرو بن مالک بن قیس بن مجید بن روا اس بن کلاب بن ربیع بن عامر بن صعصعہ تھا نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لائے، وہ اپنی قوم کے پاس آئے انہیں اسلام کی دعوت دی تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک اسلام نہ لائیں گے۔ جب تک بنی عقیل بن کعب پر اسی طرح مصیبت نہ نازل کر لیں جس طرح انہوں نے ہم پر کی۔ وہ لوگ ان کے ارادے سے نکلے ہمراہ عمرو بن مالک بھی تھے، ان لوگوں نے ان پر مصیبت نازل کی، اور مواشی کو ہکاتے ہوئے نکلے تو بنی عقیل کے ایک سوار نے جس کا نام ربیعہ بن اسفق بن عامر بن عقیل تھا ان کو پالیا، وہ یہ شعر کہہ رہا تھا۔

اقسمت لا اطعن الا فارسا اذ الکماة لبسوا القوا نسا

”میں نے قسم کھائی ہے کہ سوائے فارس کے کسی کو نیزہ نہ ماروں گا، جبکہ مسلح لوگ خود پہنیں گے۔“

ابو نضیع نے کہا کہ اے گروہ پیادہ آج کے دن تو تم بچ گئے (کیونکہ تم پیادہ ہو اور یہ سوار کے قتل کی قسم کھاتا ہے۔ اس عقیل نے

بنی عبید بن رؤاس کے ایک شخص کو جس کا نام محرس بن عبد اللہ بن عمرو بن عبید بن رؤاس تھا پالیا اس کے بازو میں نیزہ مار کر اسے بے کار کر دیا۔ محرس اپنے گھوڑے کی گردن سے لپٹ گئے اور کہا کہ اے رؤاس والو ربیعہ نے کہا کہ گھوڑوں کے رؤاس کو پکارتے ہو یا آدمیوں کے عمرو بن مالک ربیعہ کی طرف پلٹ پڑے انہوں نے نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا۔

ابن نفیع نے کہا کہ ہم لوگ مواشی کو ہنکاتے ہوئے نکلے بنی عقیل ہماری تلاش میں آگئے یہاں تک کہ ہم لوگ تربہ پہنچ گئے وادی تربہ نے ہمارے اور ان کے درمیان سلسلہ منقطع کر دیا بنی عقیل ہماری طرف دیکھ رہے تھے اور کوئی چیز پانہ سکتے تھے ہم لوگ چل دیے۔

عمرو بن مالک نے کہا کہ میں حیران تھا کہ ایک خون کر دیا حالانکہ میں اسلام لایا تھا اور نبی ﷺ سے بیعت کر لی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ گردن سے باندھ لیا اور نبی ﷺ کے ارادے سے نکلا آپ کو یہ واقعہ معلوم ہوا تو فرمایا کہ اگر یہ (عمرو بن مالک) میرے پاس آئیں گے تو میں طوق اوپر ضرور ماروں گا۔

میں نے اپنا ہاتھ کھول دیا آپ کے پاس حاضر ہوا اور سلام کیا آپ نے میری طرف سے منہ پھیر لیا میں داہنی طرف سے آیا تو دوبارہ منہ پھیر لیا بائیں طرف سے آیا اور عرض کی: یا رسول اللہ پروردگار کو راضی کیا جاتا ہے تو وہ راضی ہو جاتا ہے خدا آپ سے راضی ہو آپ بھی مجھ سے راضی ہو جائیے فرمایا کہ میں تم سے راضی ہو گیا۔

(۱۲) وفد بنی عقیل بن کعب:

بنی عقیل کے ایک شخص نے اپنی قوم کے شیوخ سے روایت کی کہ ہم بنی عقیل میں سے ربیع بن معاذ بن خفاجہ بن عمرو بن عقیل ومطرف بن عبد اللہ بن الاعلم بن عمرو بن ربیعہ بن عقیل وانس بن قیس بن الحنفی بن عامر بن عقیل بطور وفد رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے ان لوگوں نے بیعت کی اور اسلام لائے اپنی قوم کے پسماندہ لوگوں کی طرف سے بھی بیعت کی۔ نبی ﷺ نے ان لوگوں کو (مقام) عقیق بنی عقیل عطا فرمایا یہ ایک زمین تھی جس میں چشمے اور کھجور کے باغ تھے اس کے متعلق ان لوگوں نے بیعت کی اور اسلام لائے اپنی قوم کے پسماندہ لوگوں کی طرف سے بھی بیعت کی۔

نبی ﷺ نے ان لوگوں کو (مقام) عقیق بنی عقیل عطا فرمایا۔ یہ ایک زمین تھی جس میں چشمے اور کھجور کے باغ تھے اس کے متعلق ان لوگوں کے لیے سرخ چمڑے پر ایک فرمان تحریر فرمایا جس کا مضمون یہ تھا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سند ہے جو محمد رسول اللہ ﷺ نے ربیع ومطرف وانس کو عطا فرمائی ہے آپ نے ان لوگوں کو اس وقت تک کے لیے عقیق عطا فرمایا ہے۔ جب تک یہ لوگ نماز کو قائم رکھیں زکوٰۃ ادا کرتے رہیں اطاعت وفرماں برداری کرتے رہیں۔ آپ نے ان کو کسی مسلمان کا کوئی حق نہیں دیا۔ یہ فرمان مطرف کے قبضے میں تھا۔ لقیط بن عامر بن الحنفی بن عامر بن عقیل جو رزین کے والد تھے بطور وفد آپ کی خدمت میں آئے آپ نے انہیں ایک پانی (کا مقام) جس کا نام نظم تھا عطا فرمایا انہوں نے آپ سے اپنی قوم کی طرف سے بیعت کی۔

آپ کی خدمت میں ابو حرب بن خویلد بن عامر بن عقیل آئے تو رسول اللہ ﷺ نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا ان کے

سامنے اسلام پیش کیا، انہوں نے عرض کی بے شک آپ اللہ سے ملے ہیں یا اس سے ملے ہیں جو اللہ سے ملا ہے بے شک آپ ایسی بات فرماتے ہیں جس کے برابر اچھی بات ہم نہیں جانتے، لیکن میں اس دین پر جس کی آپ مجھے دعوت دیتے ہیں اور اس دین پر جس پر میں (پہلے سے) ہوں اپنے یہ تیر گھاؤں گا (یعنی قرعہ ڈالوں گا)۔ انہوں نے تیروں کو گھمایا تو کفر کا تیران کے خلاف نکلا دوبارہ سہ بارہ بھی ان کے خلاف نکلا رسول اللہ ﷺ سے عرض کی کہ یہ تو اسی کو قبول کرتا ہے جو آپ کی رائے ہے۔

وہ اپنے بھائی عقال بن خویلد کے پاس گئے ان سے کہا کہ تمہاری خیر کم ہے کیا تمہیں محمد بن عبد اللہ (ﷺ) سے دلچسپی ہے جو دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں انہوں نے میرے اسلام لانے پر مجھے موضع عقیق عطا فرما دیا ہے۔ عقال نے جواب دیا کہ واللہ میں تمہیں اس سے زیادہ زمین دوں گا جتنی محمد (ﷺ) تمہیں دیتے ہیں وہ (ابو حرب) اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے نیزہ لے کر اسفل عقیق کو گئے اس کا حصہ اسفل مع اس جتنے کے جو اس میں تھا لے لیا۔

عقال رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوئے آپ نے ان کے سامنے بھی اسلام پیش کیا اور فرمایا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں وہ کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمیرہ بن النفاضہ موضع لبان کے دونوں پہاڑیوں کی لڑائی کے دن بہت اچھے سوار تھے آپ نے پھر فرمایا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ خالص (دودھ یا شراب) جھاگ اور بھین کے نیچے ہوتی ہے۔ آپ نے سہ بارہ ان سے فرمایا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو انہوں نے شہادت دی اور اسلام لے آئے۔

(۱۳) وقد جعده:

بنی عقیل کے ایک شخص سے مروی ہے کہ الرقاد بن عمرو بن ربیعہ بن جعدہ بن کعب بطور وفد رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے رسول اللہ ﷺ نے (مقام) فلج میں انہیں ایک جائیداد عطا فرمائی اور ایک فرمان تحریر فرما دیا جو ان لوگوں کے پاس ہے۔

(۱۴) وفد بنی قشیر:

علی بن محمد القرشی سے مروی ہے کہ بنی قشیر کا ایک وفد رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا جن میں ثور بن عروہ بن عبد اللہ بن سلمہ بن قشیر بھی تھے یہ اسلام لائے تو رسول اللہ ﷺ نے ان کو ایک قطعہ زمین کا عطا فرمایا اور ایک فرمان تحریر فرما دیا اس وفد میں حیدہ بن معاویہ بن قشیر بھی تھے۔

یہ واقعہ حیتہ الوداع سے پہلے اور غزوہ حنین کے بعد ہوا اس وفد میں قرہ بن ہمیرہ بن سلمہ الخیر بن قشیر بھی تھے۔ اسلام لائے تو رسول اللہ ﷺ نے انہیں (بھی کچھ) عطا فرمایا ایک چادر اوڑھائی اور حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کے محصل زکوٰۃ بن جائیں۔ قرہ جب واپس ہوئے تو انہوں نے یہ اشعار کہے:

حباہا رسول اللہ اذ نزلت بہ وامکنہا من نائل غیر منفد

”وفد جب رسول اللہ ﷺ کی جناب میں حاضر ہوا تو آپ نے یہ عنایت کی وفد کو ایسا فیض بخشا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔“

فاصحت بروض الخضر وہی حیثلثہ وقد انحجت حاجاتها من محمد

وفد کی جماعت جو بہت گرم روتھی سرسبز مرغزار میں ٹھہر گئی، رسول اللہ ﷺ کے لطف و کرم سے اس کی حاجتیں پوری ہو گئیں۔

عليها فتى لا يردف الدم رحله نزوك لامر العاجز المتردد

اس جماعت کا سرگروہ وہ جوان ہے کہ اس کے کجاوے کے ساتھ عیب کا گز نہیں جو لوگ عاجز و مذہب ہیں ان کے معاملات کو وہی درست کرتا ہے۔

(۱۵) وفد بنی البرکاء:

جد بن عبد اللہ بن عامر البرکائی نے جو بنی عامر بن صعصعہ میں سے تھے اپنے والد سے روایت کی ۹ھ میں بنی البرکاء کے تین آدمیوں کا ایک وفد رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا جن میں معاویہ بن ثور بن عبادہ بن البرکاء تھے جو اس زمانے میں سو برس کے تھے، ان کے ہمراہ ان کے ایک بیٹے بھی تھے جن کا نام بشر تھا، اور فہج بن عبد اللہ بن جندب بن البرکاء تھے، ان لوگوں کے ہمراہ عبد عمر و البرکائی بھی تھے جو بہرے تھے۔

رسول اللہ ﷺ نے ان لوگوں کو ٹھہرانے اور مہمان رکھنے کا حکم دیا، ان کو انعامات عطا فرمائے اور یہ لوگ اپنی قوم میں واپس گئے، معاویہ نے نبی ﷺ سے عرض کیا کہ میں آپ کے مس (چھونے) سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرا یہ لڑکا میرے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ لہذا اس کے چہرے پر (دست مبارک سے) مسح فرما دیجئے، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے بشر بن معاویہ کے چہرے پر دست مبارک پھیر دیا، انہیں سفید رنگ کی بھیڑیں عطا فرمائیں اور برکت کی دعا دی۔ جد راوی نے کہا کہ اکثر بنی البرکاء پر قحط سالی کی مصیبت آئی مگر ان لوگوں پر نہیں آئی۔ محمد بن بشر بن معاویہ بن ثور بن عبادہ بن البرکاء نے اشعار ذیل کہے ہیں۔

وابی الذی مسح الرسول برأسه ودعاه بالخیر والبرکات

”میرے باپ وہ ہیں جن کے سر پر رسول اللہ ﷺ نے دست مبارک پھیرا ہے اور ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی ہے۔

اعطاه احمد اذ اتاه اغداً عفرا نواجل لیس باللحبات

میرے والد کو جب وہ احمد ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے چند سفید اچھی نسل والی بھیڑیں عطا فرمائیں جو کم دودھ والی تھیں۔

یملآن وفد الحی کل غشیة ویعود ذاک الملاء بالغدوات

جو ہر شب کو قبیلے کے وفد کو (دودھ سے) بھر دیتی تھیں، اور یہ بھرنا پھر صبح کو دوبارہ بھی ہوتا تھا۔

بورکن من مسخ و بورك مانحا وعلیه منی ماحییت صلاتی

جو عطا کی وجہ سے بابرکت تھیں۔ اور عطا کرنے والے بھی بابرکت تھے، اور جب تک میں زندہ رہوں میری طرف سے آپ پر میرا درود پہنچتا رہے۔

ہشام بن محمد بن السائب الکلبی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فُجیع کے لیے ایک فرمان تحریر فرمایا، کہ ”محمد نبی (ﷺ) کی جانب سے فُجیع اور ان کے تابعین کے لیے جو اسلام لائے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے اللہ و رسول کی اطاعت کرے، مال غنیمت میں سے اللہ کا خمس دے، نبی ﷺ اور ان کے اصحاب کی مدد کرے، اپنے اسلام پر گواہی دے اور مشرکین کو چھوڑ دے تو وہ اللہ عزوجل و محمد ﷺ کے امان میں ہے۔“

ہشام نے کہا کہ رسول ﷺ نے عبد عمرو والاصم کا نام عبد الرحمن رکھا، ان کے لیے اس پانی (یعنی کنویں کی معافی) کے لیے جس کا نام ذی القصة تھا تحریر فرمادیا، عبد الرحمن اصحاب صفہ میں سے تھے۔

(۱۶) وفد وائلہ بن الاسقع اللیثی:

ابو قتیبہ وغیرہ سے مروی ہے کہ وائلہ بن الاسقع اللیثی رسول اللہ ﷺ کے پاس بطور وفد آئے یہ ایسے وقت مدینے آئے جب رسول اللہ ﷺ تبوک کی تیاری فرما رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے ہمراہ صبح کی نماز پڑھی۔

آپ نے فرمایا کہ تم کون ہو، تمہیں کیا چیز لائی ہے اور تمہاری حاجت کیا ہے؟ انہوں نے آپ کو اپنا نسب بتایا اور کہا کہ میں اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ اللہ اور رسول پر ایمان لاؤں لہذا میں جو پسند کروں سب پر مجھ سے بیعت لے لیجئے، آپ نے ان سے بیعت لے لی۔

وہ اپنے اعزہ میں واپس گئے، انہیں خبر دی تو ان کے والد نے کہا کہ بخدا میں تم سے کبھی کوئی بات نہ کروں گا، بہن نے گفتگو سنی تو وہ اسلام لے آئیں اور ان کا سامان سفر درست کر دیا، وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس جانے کو روانہ ہوئے کہ معلوم ہوا آپ تبوک جا چکے۔

انہوں نے کہا کہ ہے کوئی جو مجھے باری باری سوار کرے اور میرا مال غنیمت کا حصہ اسی کا ہو؟ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے سوار کر لیا یہاں تک کہ انہیں رسول اللہ ﷺ سے ملا دیا وہ رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ تبوک حاضر ہوئے۔

رسول اللہ ﷺ نے انہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہمراہ اکیدر کی جانب بھیج دیا، مال غنیمت حاصل ہوا تو اپنا حصہ کعب بن عجرہ کے پاس لائے، لیکن انہوں نے اس کے قبول کرنے سے انکار کیا اور انہیں کے لیے جائز کر دیا یہ کہہ کر کہ میں نے تو محض اللہ کے لیے تمہیں سواری دی تھی۔

(۱۷) وفد بنی عبد بن عدی:

اہل علم نے کہا کہ وفد بنی عبد بن عدی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا جو مشتمل بر حارث بن ابہان، عویر بن الاخرم، حبیب بن ملہ، ربیعہ بن ملہ تھا، ان کے ہمراہ قوم کی ایک جماعت بھی تھی۔

ان لوگوں نے عرض کیا کہ یا محمد (ﷺ) ہم لوگ ساکن حرم و اہل حرم ہیں۔ جو لوگ اس میں ہیں ان سب سے زیادہ طاقت ور ہیں، ہم آپ سے جنگ کرنا نہیں چاہتے، اگر آپ غیر قریش سے جنگ کریں گے تو ہم بھی آپ کے خاندان سے محبت کرتے ہیں، اگر غلطی سے ہم میں سے کسی کا آپ سے خون ہو جائے تو اس کا خون بہا آپ کے ذمے ہوگا اور اگر غلطی سے آپ کے اصحاب

میں سے کسی کا ہم سے خون ہو جائے تو اس کا خون بہا ہمارے ذمے ہوگا آپؐ نے فرمایا کہ ہاں۔

پھر وہ لوگ اسلام لے آئے۔

(۱۸) وفد اشجعیہ:

اہل علم نے کہا کہ قبیلہ اشجعیہ کے لوگ غزوہ خندق والے سال رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوئے، وہ سو آدمی تھے جن کے رئیس مسعود بن زخیلہ تھے، یہ لوگ (محلہ) شعب سلع میں اترے رسول اللہ ﷺ ان کے پاس تشریف لے گئے، آپؐ نے ان کے لیے کھجوروں کا حکم دیا۔

ان لوگوں نے عرض کیا: یا محمد (ﷺ) ہم اپنی قوم میں سے کسی کو نہیں جانتے جس کا مکان ہم سے زیادہ آپؐ کے قریب ہو اور جس کی تعداد ہم سے زیادہ قلیل ہو، ہم لوگ آپؐ کی اور آپؐ کی قوم کی جنگ سے تنگ آ گئے ہیں، لہذا آپؐ کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ صلح کریں آپؐ نے ان سے صلح کر لی۔

کہا جاتا ہے کہ اشجعیہ رسول اللہ ﷺ کے بنی قریظہ سے فارغ ہونے کے بعد آئے وہ سات سو آدمی تھے، آپؐ نے ان سے صلح کر لی۔ اس کے بعد وہ اسلام لے آئے۔

(۱۹) وفد بابلہ:

اہل علم نے کہا کہ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں مطرف بن اکاہن الباہلی اپنی قوم کے قاصد بن کر آئے اور اسلام لائے اپنی قوم کے لیے امن حاصل کیا، رسول اللہ ﷺ نے ان کے لیے ایک فرمان تحریر فرما دیا جس میں صدقات کے فرائض تھے۔

اس کے بعد ہشیل بن مالک الواکلی جو قبیلہ بابلہ سے تھے اپنی قوم کے قاصد بن کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لائے، رسول اللہ ﷺ نے ان کے اور ان کی قوم کے مسلمانوں کے لیے ایک فرمان تحریر فرما دیا جس میں شرائع اسلام تھے۔

اسے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا۔

(۲۰) وفد بنی سلیم بن منصور:

اہل علم نے کہا کہ بنی سلیم کے ایک شخص جس کا نام قیس بن نسیہ تھا رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپؐ کا کلام سنا، چند باتیں دریافت کیں آپؐ نے انہیں جواب دیا اور انہوں نے ان سب کو حفظ کر لیا۔

رسول اللہ ﷺ نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو وہ اسلام لے آئے، اپنی قوم بنی سلیم کی جانب واپس گئے اور کہا کہ میں نے روم کا ترجمہ (سیرت) فارس کا غیر مفہوم کلام، عرب کے اشعار، کاہن کی پیشین گوئی اور قبیلہ عمیر کے مقرر کی تقریر سنی مگر محمد (ﷺ) کا کلام ان میں سے کسی کے بھی مشابہ نہیں۔ لہذا تم لوگ میری پیروی کرو اور آنحضرتؐ سے اپنا حصہ لے لو۔

جب فتح مکہ کا سال ہوا تو بنی سلیم رسول اللہ ﷺ کی جانب روانہ ہوئے آپؐ سے قیدی میں ملے یہ سات سو آدمی تھے یہ

بھی کہا جاتا ہے کہ ایک ہزار تھے جن میں عباس بن مرداس، انس بن عباس بن رغل، راشد بن عبد ربہ بھی تھے یہ سب لوگ اسلام لائے۔ اور عرض کی آپ ہم لوگوں کو اپنے مقدمہ انجیش میں کر دیجئے ہمارا جھنڈا سرخ رکھیے اور ہمارا شعار ”مقدم“ مقرر فرمائیے۔ آپ نے ان کے ساتھ یہی کیا۔

وہ لوگ آپ کے ساتھ فتح مکہ و حنین و طائف میں حاضر ہوئے آپ نے راشد بن عبد ربہ کو (مقام) رباط عطا فرمایا اس میں ایک چشمہ تھا جس کا نام عین الرسول تھا۔

راشد بن سلیم کے بت کے مجاور تھے ایک روز دو لومڑیوں کو اس پر پیشاب کرتے دیکھ کر یہ شعر کہا

ازب یبول الثعلبان برائہ لقد ذل من بالث علیہ الثعالب

”کیا وہ رب ہو سکتا ہے جس کے سر پر لومڑیاں موتی ہیں۔ بے شک وہ ذلیل ہے جس پر لومڑیاں موتی“۔

انہوں نے اس پر حملہ کیا اور اسے پارہ پارہ کر دیا، نبی ﷺ کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے نام پوچھا انہوں نے کہا کہ غادی بن عبد الحری۔ فرمایا کہ تم راشد بن عبد ربہ ہو (غادی کے معنی گمراہ اور راشد کے معنی ہدایت یافتہ ہیں)۔

وہ اسلام لائے ان کا اسلام خالص تھا فتح مکہ میں نبی ﷺ کے ہمراہ حاضر ہوئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ عرب کے دیہات میں سب سے بہتر خیر ہے اور بنی سلیم میں سب سے بہتر راشد ہیں آپ نے انہیں اپنی قوم کا علم بردار بنایا۔

بنی سلیم کے ایک شخص سے مروی ہے کہ ہم میں سے ایک شخص جن کا نام قدر بن عمار تھا بطور وفد نبی ﷺ کی خدمت میں مدینہ حاضر ہوئے اسلام لائے اور عہد کیا کہ اپنی قوم کے ایک ہزار شہسواروں کو آپ کی خدمت میں لائیں گے اور یہ شعر پڑھنے لگے۔

شددت یمنی اذ اتیت محمداً بخیرید شدت بحجرۃ مزد

”میں رسول اللہ ﷺ کی جناب میں حاضر ہوا تو اپنے داہنے ہاتھ کو ایک بہترین ہاتھ سے وابستہ کر لیا۔

وذاک امرؤ قاسمتہ نصف دینہ واعطیتہ الف امرئ غیر اعسر

وہ ایسے ہیں کہ میں نے تقسیم کر کے اپنا آدھا دین ان کو دے دیا۔ اور ایسے شخص کی الفت و محبت ان کو پیش کی جو تنگ دست نہیں ہے۔“

قوم کے پاس آئے اس واقعے کی خبر کی تو ان کے ہمراہ نو سو آدمی روانہ ہوئے۔ سو آدمی قبیلہ میں چھوڑ دیئے نبی ﷺ کے پاس ان لوگوں کو لے چلے انہیں موت آگئی۔

قوم کے تین آدمیوں کو وصیت کی۔ ایک عباس بن مرداس کو اور انہیں تین سو پر امیر بنایا دوسرے جبار بن الحکم کو اور یہی فرار الشریذی تھے ان کو بھی تین سو پر امیر بنایا تیسرے اخس بن یزید کو ان کو بھی تین سو پر امیر بنایا۔

ان لوگوں سے کہا کہ آنحضرت ﷺ کے پاس جاؤ تاکہ وہ عہد پورا ہو جو میری گردن پر ہے پھر ان کی وفات ہوگئی۔

یہ لوگ روانہ ہوئے نبی ﷺ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ وہ خوبصورت بہت بولنے والا سچا مومن کہاں ہے۔ ان لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ انہیں اللہ نے دعوت دی تو اس کو انہوں نے قبول کر لیا۔

ان لوگوں نے آپ کو واقعہ بتایا آپ نے فرمایا کہ وہ ہزار کے بقیہ کہاں ہیں جن کا انہوں نے مجھ سے عہد کیا تھا لوگوں نے عرض کی کہ اس جنگ کے خوف سے جو ہمارے اور بنی کنانہ کے درمیان ہے سو آدمیوں کو قبیلے میں چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کو بھی بلا بھیجو کیونکہ اس سال تمہیں کوئی ناگوار حادثہ پیش نہیں آئے گا۔

ان لوگوں نے انہیں بھی بلا بھیجا جو (مقام) ہدہ میں آپ کے پاس آ گئے یہ وہی سو آدمی تھے جن پر مضع بن مالک بن امیہ بن عبد العزی بن عمل بن کعب بن الحارث بن بہشہ بن سلیم امیر تھے۔

جب ان لوگوں نے لشکر کا شور سنا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ ہم لوگ حاضر کر دیئے گئے آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ تمہارے نفع کے لیے نہ کہ تمہارے ضرر کے لیے یہ (قبیلہ) سلیم بن منصور ہے جو آیا ہے یہ لوگ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ فسخ مکہ وحین میں حاضر ہوئے۔ مضع ہی کے لیے امیر لشکر عباس بن مرداس نے یہ شعر کہا ہے:

القائد المائة التي وفي بها تسع المئين فتم الف افرع

”ان سو آدمیوں کے امیر لشکر جن سے انہوں نے نوحہ کو پورا کر دیا اور وہ مکمل سخت و بہادر ہزار ہو گئے۔“

(۲۱) وفد بنی ہلال بن عامر

اہل علم نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بنی ہلال کی ایک جماعت حاضر ہوئی جن میں عبد عوف بن اصرم بن عمرو بن شعیبہ بن الہزم بھی تھے جو قبیلہ رومیہ سے تھے آپ نے نام دریافت فرمایا تو انہوں نے بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ تم عبد اللہ ہوان کی اولاد میں سے ایک شخص نے یہ شعر کہا ہے۔

جدی الذی اختارت هوازن کلها الى النبی عبد عوف وافدا

”وہ میرے ہی وادہا ہیں جن کو تمام قبیلہ ہوازن نے بنی ہلال کی خدمت میں بطور بھیجنے کے لیے منتخب کیا۔“

ان میں سے قبیصہ بن الحارث نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں نے (ادائے قرض میں) اپنی قوم کی ضمانت کی ہے لہذا اس میں میری مدد فرما دیجئے۔ فرمایا: جب صدقات آئیں گے تو اس میں سے تمہیں دیا جائے گا۔

اشیاء بنی عامر سے مروی ہے کہ زیاد بن عبد اللہ بن مالک بن بکیر بن الہزم بن رومیہ بن عبد اللہ بن ہلال بن عامر بطور وفد بنی ہلال کے پاس حاضر ہوئے جب وہ مدینہ شریفہ میں داخل ہوئے تو میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا زوجہ بنی ہلال کے مکان پر چلے گئے جو زیاد کی خالہ تھیں جن کی والدہ غرہ بنت الحارث تھیں اور وہ اس زمانے میں جوان تھیں۔

اسی حالت میں کہ وہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھیں بنی ہلال تشریف لائے۔ رسول اللہ ﷺ ناراض ہو کر واپس تشریف لے گئے میمونہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ یہ تو میرے بھانجے ہیں رسول اللہ ﷺ ان کے پاس تشریف لے آئے آپ مسجد کو تشریف لے گئے۔ ہمراہ زیاد بھی تھے نماز ظہر پڑھی زیاد کو نزدیک کیا اور ان کے لیے دعا فرمائی اپنا ہاتھ ان کے سر پر رکھا پھر ان کی ناک کے کنارے تک اتارا۔

بنی ہلال کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ برابر زیاد کے چہرے پر برکت مشاہدہ کرتے تھے ایک شاعر نے علی بن زیاد کے

لیے کہا ہے۔

یا ابن الذی مسح النبی برأسه ودعا له بالخیر عند المسجد
 ”اے اس شخص کے بیٹے جس کے سر پر نبی ﷺ نے ہاتھ پھیرا اور مسجد میں اس کے لیے دعائے خیر فرمائی۔
 اعنی زیاد الا ارید سواء من غائر ارمہم او منجد
 میری مراد زیاد سے ہے ان کے علاوہ اور کوئی مراد نہیں۔ چاہے وہ غور کا ہو یا تہامہ کا یا نجد کا۔
 مازال ذاک النور فی عوینہ حتی تبتوا بیتہ فی الملحد
 یہ نور ان کے بشرے میں چمکتا رہا۔ یہاں تک کہ خانہ نشین ہو کے آخر قبر میں چلے گئے۔“
 (۲۲) وفد عامر بن طفیل:

اہل علم نے کہا ہے کہ عامر بن الطفیل بن مالک بن جعفر بن کلاب واربد بن ربیعہ بن مالک بن جعفر رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ اگر میں اسلام لاؤں تو میرے کیا حقوق ہوں گے آپ نے فرمایا کہ تمہارے وہی حقوق ہوں گے جو مسلمانوں کے ہیں اور تم پر وہی امور لازم ہوں گے جو مسلمانوں پر لازم ہیں۔
 انہوں نے کہا کہ کیا آپ اپنے بعد خلافت میرے لیے کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خلافت نہ تمہارے لیے ہوگی نہ تمہاری قوم کے لیے عرض کی اچھا تو کیا آپ یہ کرتے ہیں کہ دیہات میرے لیے ہوں اور شہر آپ کے لیے۔ آپ نے فرمایا نہیں لیکن میں گھوڑوں کی باگیں تمہارے لیے کر دوں گا کیونکہ تم شہسوار ہو اس نے کہا کہ کیا مجھے یہ طاعت نہیں ہے کہ میں پیادہ و سوار لشکر سے آپ پر عافیت تنگ کر دوں۔ پھر یہ دونوں واپس گئے۔
 رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اے اللہ ان دونوں سے مجھے کفایت کراے اللہ بنی عامر کو ہدایت کر۔ اور اے اللہ اسلام کو عامر بن الطفیل سے بے نیاز کر۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے عامر کی گردن پر ایک بیماری مسلط کر دی جس سے اس کی زبان اس کے حلق میں بکری کے تھن کی طرح سوچ کر لٹک پڑی وہ بنی سلول کی ایک عورت کے گھر کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ یہ گھینے گا بیل کے کوہان کی طرح کا ہے اور سلولیہ کے گھر میں موت ہے اربد پر اللہ نے ایک بجلی بھیجی جس نے اسے قتل کر دیا اس پر بلید بن ربیعہ روئے۔
 اس وفد میں مطرف کے والد عبد اللہ بن الشحیر بھی تھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے سردار ہیں اور ہم پر مہربان و کرم فرما ہیں آپ نے فرمایا کہ سردار تو اللہ ہی ہے۔ شیطان تم کو بہکا نہ دے۔

(۲۳) وفد علقمہ بن علاشہ

اہل علم نے کہا علقمہ بن علاشہ بن عوف بن الاحوص بن جعفر بن کلاب ہو وہ بن خالد بن ربیعہ اور ان کے بیٹے رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے، عمر بنی ہذیل رسول اللہ ﷺ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ علقمہ کے لیے جگہ کر دو انہوں نے علقمہ کے لیے جگہ کر دی اور وہ آنحضرت ﷺ کے پہلو میں بیٹھ گئے۔

رسول اللہ ﷺ نے شرائع اسلام بیان فرمائے، قرآن پڑھ کر سنایا، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا محمد (ﷺ) بے شک آپ کرب کریم ہے، اور میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، میں عکرمہ بن نصفہ برادر قیس کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں۔
ہوڑہ ان کے بیٹے اور بھتیجے بھی اسلام لائے اور ہوڑہ نے بھی عکرمہ کی طرف سے بیعت کی۔
(۲۴) وفد بنی عامر بن صعصعہ:

عون بن ابی جحیفہ السوانی نے اپنے والد سے روایت کی کہ وفد بنی عامر آیا، ان لوگوں کے ساتھ نبی ﷺ کی خدمت میں ایک عریضہ بھی تھا۔ ہم لوگوں نے آنحضرت ﷺ کو (مقام) اٹح میں ایک سرخ خیمے میں پایا۔
آپ کو سلام کیا تو پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ ہم نے عرض کی کہ بنی عامر بن صعصعہ، آپ نے فرمایا کہ تمہیں مرحبا (انتہ منی وانا منکم) تم میرے اور میں تمہارا ہوں، نماز کا وقت آ گیا تو بلال اٹھے۔ اذان کہی اور اذان میں گھومنے لگے (تا کہ سب طرف آواز جائے)۔

رسول اللہ ﷺ کے پاس وہ ایک برتن لائے جس میں پانی تھا، آپ نے وضو کیا زائد پانی بچ گیا، ہم لوگ آپ کے وضو سے پئے ہوئے پانی سے وضو کرنے کی کوشش کرنے لگے بلال نے اقامت کہی رسول اللہ ﷺ نے ہمیں دو رکعت نماز پڑھائی، عصر کا وقت آ گیا تو بلال اٹھے اور اذان کہی اذان میں گھومنے لگے۔ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں دو رکعت نماز پڑھائی۔
(۲۵) وفد بنو ثقیف:

عبد اللہ بن ابی یحییٰ الاسلمی سے مروی ہے کہ عروہ بن مسعود غیلان بن سلمہ طائف کے محاصرے میں موجود نہ تھے یہ دونوں جرش میں سنگ اندازی، قلعے کی نقب زنی، گوچھن وغیرہ آلات حرب کی صنعت سیکھ رہے تھے۔
یہ دونوں اس وقت آئے جب رسول اللہ ﷺ طائف سے واپس ہو چکے تھے ان لوگوں نے آلات سنگ اندازی نقب زنی و تخنیق (گوچھن) نصب کیے اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔
عروہ بن مسعود کا قبول اسلام:

اللہ نے عروہ کے قلب میں اسلام ڈال دیا، انہیں اس حالت سے بدل دیا جس پر وہ تھے وہ نکل کر رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور اسلام لائے۔

رسول اللہ ﷺ سے اپنی قوم کے پاس جانے کی اجازت چاہی کہ انہیں بھی اسلام کی دعوت دیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ تم سے جنگ کریں گے۔ عروہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ان کے نزدیک ان کے اکلوتے بیٹوں سے زیادہ محبوب ہوں، پھر عروہ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ اور سہ بارہ آپ سے اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو جاؤ۔

وہ نکلے اور پانچ دن طائف کی طرف چلے پھر عشاء کے وقت آئے اور اپنے مکان میں گئے ان کی قوم آئی اور شرک کا سلام کیا، عروہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہیں اہل جنت کا سلام اختیار کرنا چاہیے جو ”السلام“ ہے، ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ تو وہ لوگ نکل کر ان کے متعلق مشورہ کرنے لگے۔

حضرت عروہ بنی النضر کی شہادت:

صبح ہوئی تو عروہ بنی النضر اپنی کھڑکی (کے بالا خانے) پر آئے اور اذان کبھی ثقیف ہر طرف سے نکل پڑے بنی مالک کے ایک شخص نے جس کا نام اوس بن عوف تھا عروہ کو تیر مارا جو ان کی رگ ہفت اندام پر (جو کھانکی میں ہوتی ہے اور اسی میں فصد کھولی جاتی ہے) لگا ان کا خون بند نہ ہوا۔

غیلان بن سلمہ و کنانہ بن عبد یلیل و حکم بن عمرو بن وہب اور حلفاء کے معززین اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے ہتھیار پہن لیے اور سب کے سب (انتقام کے لیے) جمع ہو گئے۔

عروہ بنی النضر نے یہ کیفیت دیکھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا خون خون کرنے والے کو معاف کر دیا تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہارے درمیان صلح کر دوں یہ تو ایک بزرگی ہے جس کے سبب سے اللہ نے میرا کرام کیا اور شہادت ہے جس کو اللہ نے میرے پاس بھیج دیا مجھے ان شہداء کے ساتھ دفن کرنا جو رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ شہید ہوئے۔

ان کی وفات ہو گئی تو لوگوں نے ان کو انہیں شہداء کے ساتھ دفن کر دیا۔ رسول اللہ ﷺ کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ان کی مثال صاحب یسین کی سی ہے جنہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا تو ان لوگوں نے انہیں قتل کر دیا۔ اہل طائف کا قبول اسلام:

ابو اسحٰب بن عروہ و قارب بن الاسود بن مسعود بنی مسعود بنی سے جا ملے اور اسلام لے آئے رسول اللہ ﷺ نے مالک بن عوف کو پوچھا تو ان دونوں نے جواب دیا کہ ہم نے انہیں طائف میں چھوڑا ہے۔

آپ نے فرمایا کہ تم لوگ انہیں خبر دو کہ وہ مسلمان ہو کر میرے پاس آئیں تو میں ان کے اعزہ و مال انہیں واپس کر دوں گا اور مزید سوا نوٹ دوں گا وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے تو آپ نے انہیں یہ سب عطا فرمایا انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ثقیف کے لیے تو میں کافی ہوں میں ان کے مویشی لوٹا رہوں گا تا وقتیکہ وہ مسلمان ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہوں۔

رسول اللہ ﷺ نے انہیں ان کی قوم کے مسلمین اور قبائل پر عامل بنا دیا وہ ثقیف کے مویشی کو لوٹنے اور لوگوں سے جنگ کرتے رہے جب ثقیف نے یہ حالت دیکھی تو وہ لوگ عبد یلیل کے پاس گئے اور باہم یہ مشورہ کیا کہ اپنی قوم کے چند آدمی بطور وفد رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں روانہ کریں۔

عبد یلیل اور ان کے دو بیٹے کنانہ و ربیعہ اور عمر جمیل بن غیلان بن سلمہ اور حکم بن عمرو بن وہب بن مقب و عثمان بن ابی العاص و اوس بن عوف و نمیر بن خرشہ بن ربیعہ لکے اور ستر آدمیوں کے ہمراہ روانہ ہوئے یہ چھ آدمی ان کے رئیس ہوئے۔ بعض اہل علم نے کہا یہ سب انہیں آدمی تھے یہی زیادہ ٹھیک ہے۔

مغیرہ بن شعبہ بنی النضر نے کہا کہ میں مسلمانوں کے ہمراہ ذی حرج میں تھا کہ اتفاق سے عثمان بن ابی العاص مجھ سے مل کر حالات دریافت کرنے لگے۔ جب میں نے (ثقیف کے) ان لوگوں کو دیکھا تو بہت تیزی سے نکلا کہ رسول اللہ ﷺ کو ان لوگوں کی آمد کی بشارت دوں۔

میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملا اور انہیں ان لوگوں کی آمد کی خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تم مجھ سے پہلے ان لوگوں کی آمد کی خبر رسول اللہ ﷺ کو نہ دینا۔ وہ گئے اور رسول اللہ ﷺ کو خبر دی، رسول اللہ ﷺ ان لوگوں کی آمد سے مسرور ہوئے۔

ان میں جو لوگ حلیف تھے وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے پاس اترے، مغیرہ نے ان لوگوں کا اکرام کیا، جو لوگ بنی مالک میں سے تھے نبی ﷺ نے ان کے لیے مسجد میں خیمہ نصب فرمایا۔

رسول اللہ ﷺ ہر شب کو بعد عشاء ان لوگوں کے پاس تشریف لاتے تھے اور ان کے پاس کھڑے رہتے تھے یہاں تک کہ آپ کبھی ایک قدم پر کھڑے ہوتے تھے اور کبھی دوسرے قدم پر، آپ قریش کی شکایت کرتے تھے اور اس جنگ کا ذکر فرماتے تھے جو آپ کے اور قریش کے درمیان ہوئی۔

نبی ﷺ نے ایک فیصلے پر ثقیف سے صلح کر لی، ان لوگوں کو قرآن سکھایا گیا، ان پر عثمان بن ابی العاص کو عامل بنایا گیا۔ ثقیف نے لات وعزی کے منہدم کرنے سے معافی چاہی، آپ نے انہیں معاف فرما دیا۔ مغیرہ نے کہا کہ میں نے ان کو منہدم کیا، یہ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔

مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں عرب کے کسی خاندان یا قبیلے کی کسی قوم کو نہیں جانتا جن کا اسلام ان لوگوں سے زیادہ صحیح ہو اور جو اس سے بہت بعید ہوں کہ ان میں اللہ اور اس کی کتاب کے لیے کوئی دعا پائی جائے۔

وفود قبیلہ ربیعہ

(۲۶) وفد عبدالقیس (اہل بحرین):

عبدالحمید بن جعفر نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے اہل بحرین کو تحریر فرمایا کہ ان میں سے بیس آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، بیس آدمی حاضر ہوئے۔ جن کے رئیس عبداللہ بن عوف الاشح تھے، ان لوگوں میں جارود اور اشج کے بھانجے معاذ بن حیان بھی تھے، ان کی آمد فتح مکہ والے سال ہوئی۔

عرض کیا گیا کہ یہ عبدالقیس کا وفد ہے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ ان کو مر جا ہے، عبدالقیس بھی کیسی اچھی قوم ہے۔ جس شب کو یہ لوگ آئے اس کی صبح کو رسول اللہ ﷺ نے افق کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ ضرور ضرور مشرکین کی ایک جماعت آئے گی جن کو اسلام پر مجبور نہیں کیا گیا ہے جنہوں نے اونٹوں کو (چلاتے چلاتے تھکا کر) دبلا کر دیا ہے اور زاد راہ کو ختم کر دیا ہے، ان کے ہمراہی میں ایک علامت بھی ہے، اے اللہ عبدالقیس کی مغفرت کر جو میرے پاس مال مانگتے نہیں آئے ہیں، جو اہل مشرق میں سب سے بہتر ہیں۔

یہ لوگ اپنے کپڑوں میں آئے۔ رسول اللہ ﷺ مسجد میں تھے، ان لوگوں نے آپ کو سلام کیا، رسول اللہ ﷺ نے دریافت فرمایا کہ تم میں عبداللہ بن الاشج کون ہیں۔ عبداللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ہوں، وہ کریمہ منظر (بد شکل) آدمی تھے۔

رسول اللہ ﷺ نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ انسان کی کھال کی مشک نہیں بنائی جاتی، البتہ آدمی کی دوسب سے چھوٹی چیزوں کی حاجت ہوتی ہے ایک اس کی زبان اور ایک اس کا دل۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ (اے عبد اللہ) تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے۔ عبد اللہ نے کہا کہ وہ کون سی؟ آپ نے فرمایا کہ حلم اور وقار، انہوں نے عرض کیا کہ یہ چیز پیدا ہوگئی ہے یا میری خلقت اسی پر ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہاری خلقت اسی پر ہوئی ہے۔

جارود نصرانی تھے رسول اللہ ﷺ نے انہیں اسلام کی دعوت دی، وہ اسلام لے آئے اور ان کا اسلام اچھا تھا۔ آپ نے وفد عبد القیس کو رملہ بنت الحارث کے مکان پر بٹھرایا، ان لوگوں کی مہمان داری فرمائی، یہ لوگ دس روز مقیم رہے عبد اللہ بن الاشج رسول اللہ ﷺ سے فقہ و قرآن دریافت کیا کرتے تھے۔

آپ نے ان لوگوں کے لیے انعامات کا حکم دیا، عبد اللہ بن الاشج کو سب سے زیادہ دلایا، انہیں ساڑھے بارہ اوقیہ چاندی مرحمت فرمائی، اور مقد بن حیان کے چہرے پر دست مبارک پھیرا۔

(۲۷) وفد بکر بن وائل:

اہل علم نے کہا کہ بکر بن وائل کا وفد رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا، ان میں سے ایک شخص نے آپ سے عرض کیا کہ آپ قس بن ساعدہ کو پہچانتے ہیں؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ وہ تم میں سے نہیں ہے، یہ تو قبیلہ ایاد کا ایک شخص ہے جو زمانہ جاہلیت میں خنی (یعنی پیرو دین ابراہیم) بن گیا، اس وقت عکاظ پہنچا کہ لوگ جمع تھے، وہ ان لوگوں سے وہ باتیں کرنے لگا جو اس سے یاد کر لی گئی ہیں۔ اس وفد میں بشیر بن الحصاصیہ و عبد اللہ بن مرتد و حسان بن حوط بھی تھے، حسان کی اولاد میں سے کسی نے یہ شعر کہا ہے۔

انا ابن حسان بن حوط و ابی رسول بکر کلہما الی النبی

”میں حسان بن حوط کا بیٹا ہوں، میرے والد تمام قبیلہ بکر کی طرف سے قاصد بن کر نبی ﷺ کے پاس گئے تھے۔“

انہیں لوگوں کے ہمراہ عبد اللہ بن اسود بن شہاب بن عوف بن عمرو بن الحارث بن سدوس بھی رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے، یہ یمامہ میں رہا کرتے تھے، وہاں جو مال تھا اسے فروخت کر کے ہجرت کی، رسول اللہ ﷺ کے پاس کھجور کا ایک توشہ دان لائے تو رسول اللہ ﷺ نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔

(۲۸) وفد بنی تغلب:

یعقوب بن زید بن طلحہ سے مروی ہے کہ بنی تغلب کے سولہ مسلمانوں کا اور نصاریٰ کا جو سونے کی صلیبیں پہنے ہوئے تھے ایک وفد رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آیا، یہ لوگ رملہ بنت الحارث کے مکان میں اترے، رسول اللہ ﷺ نے نصاریٰ سے اس شرط پر صلح کر لی کہ آپ انہیں نصرانیت پر رہنے دیں گے اور وہ لوگ اپنی اولاد کو نصرانیت میں نہ لگیں گے، ان میں سے مسلمانوں کو آپ نے انعامات عطا فرمائے۔

(۲۹) وفد بنی حنیفہ:

اہل علم نے کہا ہے کہ بنی حنیفہ کے انیس آدمیوں کا ایک وفد رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا۔ جن میں رحال بن عوفہ، سلمیٰ بن حظلہ الحلی، طلق بن علی بن قیس اور بنی شمر میں سے صرف حمران بن جابر، علی بن شان، اقص بن مسلمہ، زید بن عمرو، وسمیلہ بن حبیب تھے اس وفد کے رئیس سلمیٰ بن حظلہ تھے۔

یہ لوگ رملہ بنت الحارث کے مکان پر ٹھہرائے گئے اور مہمان داری کی گئی، ان لوگوں کو دونوں وقت کھانا دیا جاتا تھا، کبھی گوشت روٹی کبھی دودھ روٹی کبھی گھی روٹی اور کبھی کھجور جو ان کے لیے پھیلا دی جاتی تھی۔

یہ لوگ مسجد میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے سلام کیا اور حق کی شہادت دی، آتے ہوئے مسیلہ کو اپنے کجاوے میں چھوڑ گئے تھے چند روز مقیم رہ کر نبی محمد (رسول اللہ ﷺ) کی خدمت میں آمد و رفت کرتے رہے رحال بن عوفہ ابی بن کعب سے قرآن کا درس لیتے رہے۔

واپسی کا جب ارادہ کیا تو رسول اللہ ﷺ نے ان میں سے ہر شخص کو پانچ پانچ اوقیہ چاندی انعام دیے کا حکم دیا، ان لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے اپنے ایک ساتھی کو کجاوے میں چھوڑ دیا ہے جو گمرانی کرتا ہے وہ ہماری ہمراہی میں ہے اور ہمارے اونٹوں کی حفاظت کرتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے اس کے لیے بھی اتنے ہی انعام کا حکم دیا جتنا اس کے ساتھیوں کو دلا یا تھا، اور فرمایا تھا کہ وہ تمہارے اونٹ اور کجاوے کی نگرانی کی وجہ سے تم میں سب لئے بڑے درجے کا آدمی نہیں ہے، یہ بات مسیلہ سے کہی گئی تو اس نے کہا کہ آنحضرت ﷺ سمجھ گئے کہ آپ کے بعد نبوت کا معاملہ میرے سپرد ہوگا۔

لوگ یمامہ واپس گئے رسول اللہ ﷺ نے ان کو پانی کا ایک مشکیزہ عطا فرمایا جس میں آپ کے وضوء کا پچا ہوا پانی تھا اور فرمایا کہ جب تم اپنے وطن جانا تو گر جا توڑ ڈالنا، اس کی جگہ کو اس پانی سے دھو ڈالنا اور وہاں مسجد بنادینا۔ ان لوگوں نے یہی کیا، یہ مشکیزہ اقص بن مسلمہ کے پاس رہا، طلق بن علی مؤذن ہوئے، انہوں نے اذان کی تو اس کو گر جا کے راہب نے سنا اور کہا کہ حق کی دعوت ہے، اور بھاگ گیا، یہ اس کا آخری زمانہ تھا۔

مسیلہ لعنہ اللہ علیہ نے نبوت کا دعویٰ کیا، رحال بن عوفہ نے شہادت دی کہ نبی محمد رسول اللہ (ﷺ) نے اس کو شریک کار بنایا ہے، لوگ اس سے فتنے میں مبتلا ہوئے۔

(۳۰) وفد شیبان:

عبداللہ بن حسان برادر بنی کعب سے جو بنی العنبر میں سے تھے مروی ہے کہ ان سے ان کی دونوں دادیوں صفیہ بنت علیہ و دحبیہ بنت علیہ نے قلیلہ بنت مخرمہ کی حدیث بیان کی، یہ دونوں دادیاں قلیلہ کی پروردہ تھیں۔ اور قلیلہ صفیہ اور دحبیہ کے والد کی نانی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ قلیلہ حبیب بن ازہر برادر بنی جناب کے عقد میں تھیں، ان کے یہاں ان سے لڑکیاں پیدا ہوئیں، ابتداءً اسلام میں حبیب بن ازہر کی وفات ہو گئی قلیلہ سے ان کی لڑکیوں کو لڑکیوں کے پچا اثواب بن ازہر نے چھین لیا۔

قیلہ اول اسلام میں رسول اللہ ﷺ کی صحبت کی تلاش میں نکلیں ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی حدیباء رونے لگی اس لڑکی کو فرصہ نے لے لیا تھا اس کے بدن پر سیاہ اون کا کبیل تھا قیلہ اس لڑکی کو اپنے ہمراہ لے چلیں۔

جس وقت یہ دونوں اونٹ کو دوڑا رہی تھیں تو یکا یک ایک خرگوش سوراخ سے نکلا۔ شریف حدیباء نے کہا اس بارے میں تمہارا تختہ اثوب کے تختے سے ہمیشہ بلند رہے گا (یعنی یہ تمہارے لیے فال نیک ہے) لومڑی نظر آئی تو اس پر بھی حدیباء نے کچھ کہا جس کو عبد اللہ بن حسان بھول گئے اس کے بارہ میں بھی حدیباء نے اسی طرح کہا جو خرگوش کے بارے میں کہا تھا۔

جس وقت یہ دونوں اونٹ کو بھاگا رہی تھیں یکا یک اونٹ بھڑکا اس پر لرزہ چڑھ گیا حدیباء نے کہا کہ امانت کی قسم تجھ پر اثوب کے سحر کا اثر پڑ گیا میں نے (یعنی قیلہ نے) گھبرا کر حدیباء سے کہا کہ تجھ پر افسوس ہے اونٹ نے کیا کیا۔ حدیباء نے کہا کہ اپنے کپڑوں کو الٹ لو استرخا رخ ابرہہ کی طرف کر لو شکم کو پشت کی طرف پھیر لو۔ اونٹ کے گدے کو پلٹ دو۔ پھر لڑکی نے اپنا کبیل اتارا اسے الٹ لیا اپنے شکم کو پشت کی طرف گھما دیا (یعنی رخ بدل کر بیٹھ گئی)۔

جب میں نے بھی وہی کیا جس کا مشورہ حدیباء نے دیا تھا تو اونٹ نے پیشاب کیا پھر کھڑا ہو گیا پھر پھیلائے اور پیشاب کیا حدیباء نے کہا کہ اپنے سامان کو دوبارہ اپنے اوپر کر لو۔ میں نے کر لیا۔

ہم لوگ اونٹ کو دوڑاتے ہوئے روانہ ہوئے اتفاق سے اثوب تیز چمک دار تلوار لیے ہوئے ہمارے پیچھے دوڑ رہا تھا ہم نے مکانوں کی ایک گھٹی صف کی پناہ لی اس نے اونٹ کو ایک فرمانبردار اونٹ کی طرح درمیانی مکان کے چھجے تک پہنچا دیا میں مکان کے اندر گھس چکی تھی۔

اس نے مجھے تلوار سے روک لیا اس کی دھار میری پیشانی کے ایک حصے پر لگی اور کہا وہ لوٹدی میری بھتیجی کو میرے آگے ڈال دے میں نے لڑکی کو اس کے آگے پھینک دیا خود نکل کر اپنی بہن کے پاس چلی جس کی شادی بنی شیبان میں ہوئی تھی تاکہ رسول اللہ ﷺ کی صحبت تلاش کروں۔

ایک شب کو بہن کے یہاں تھی وہ مجھے سوتا ہوا سمجھتی تھی یکا یک اس کے شوہر مجلس سے آئے اور کہا کہ تمہارے والد کی قسم میں نے قیلہ کے لیے ایک سچے آدمی کو پایا میری بہن نے کہا کہ وہ کون ہے انہوں نے کہا کہ وہ حریث بن حسان الشیبانی ہیں جو صبح کو بکمر بن وائل کے وفد کے طور پر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں جایا کرتے ہیں۔

میں اپنے اونٹ کے پاس گئی ان دونوں کی گفتگو سن چکی تھی اس پر کجاہہ کس دیا حریث کو دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ دور نہیں ہیں ان سے ہمراہ لے چلنے کی درخواست کی تو انہوں نے کہا کہ ہاں بسر و چشم۔

اونٹ تیار تھے ان صاحب صدق کے ہمراہ روانہ ہوئی یہاں تک کہ ہم لوگ نبی محمد رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئے آپ لوگوں کو نماز صبح پڑھا رہے تھے نماز اس وقت شروع کی گئی تھی جب پوچھ گئی تھی اور ستارے آسمان میں جھلملارہے تھے لوگ رات کی تاریکی کی وجہ سے باہم پہچان نہ سکتے تھے۔

میں مردوں کی صف میں کھڑی ہو گئی میں ایک ایسی عورت تھی جس کا زمانہ جاہلیت سے قریب تھا مجھ سے ایک مرد نے جو

صف میں میرے متصل تھے کہا کہ تم عورت ہو یا مرد؟ میں نے کہا کہ عورت انہوں نے کہا کہ تم نے تو مجھے فتنہ میں ڈال دیا تھا، تم عورتوں کے ساتھ نماز پڑھو جو تمہارے پیچھے ہیں۔

اتفاق سے حجروں کے پاس عورتوں کی صف قائم ہو گئی تھی جس کو میں نے داخل ہونے کے وقت نہیں دیکھا تھا کہ انہیں میں ہو جاتی۔

آفتاب نکل آیا تو میں نزدیک گئی، میں یہ کرنے لگی کہ جب کسی شخص کو تروتازہ سرخ و سفید دیکھتی تو اس کی طرف نظر اٹھاتی تاکہ رسول اللہ ﷺ کو لوگوں کے اوپر دیکھوں۔

آفتاب بلند ہو چکا تھا کہ ایک شخص آئے انہوں نے کہا: ”السلام علیک یا رسول اللہ“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ“ نبی ﷺ کے بدن پر بیوند دار و پرانی چادریں تھیں جن سے زعفران کا رنگ دور کیا ہوا تھا۔ آپ کے پاس کھجور کی ایک چھڑی تھی جس کا چھلکا اتر ا ہوا تھا، اوپر کی چھال نہیں اتری تھی آپ ہاتھ پاؤں سمیٹے ہوئے بیٹھے تھے۔

رسول اللہ ﷺ کی نشست میں فروتنی و عاجزی کرتے دیکھا تو میں خوف سے کانپنے لگی، ہمنشین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ مسکینہ کانپ رہی ہے آپ نے مجھے دیکھا نہ تھا حالانکہ میں آپ کی پشت کے پاس تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اے مسکینہ اطمینان سے رہو۔ رسول اللہ ﷺ نے یہ فرمایا تو اللہ نے جو رعب میرے قلب میں ڈال دیا تھا اسے دور کر دیا۔

میرے ہمراہی آگے بڑھے انہوں نے اپنی اور اپنی قوم کی طرف سے سب سے پہلے آپ سے بیعت کی۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ (مقام) دہناء کے متعلق آپ ہمارے اور بنی تمیم کے درمیان یہ تحریر فرما دیجئے کہ ان لوگوں میں سے سوائے مسافریا ہمسائے کے اور کوئی شخص اس مقام سے ہماری طرف نہ بڑھے فرمایا کہ اے لڑکے ان کو دہناء کے متعلق لکھ دو۔

جب میں نے دیکھا کہ آپ نے ان کے لیے حکم دے دیا کہ دہناء کے متعلق لکھ دیا جائے تو مجھ سے نہ رہا گیا یہ میرا وطن اور میز امان تھا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ جب انہوں نے آپ سے یہ درخواست کی تو زمین کے متعلق انصاف نہیں کیا، یہی دہناء آپ کے نزدیک بھی اونٹوں کے روکنے کی جگہ اور بکریوں کی چراگاہ ہے بنی تمیم کی عورتیں اور ان کے بچے اس کے پیچھے ہیں۔ فرمایا کہ اے لڑکے ابھی رک جا (یعنی نہ لکھو) یہ مسکینہ سچ کہتی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے پانی اور درخت دونوں کے لیے ہیں دونوں فتنہ انگیز کے مقابلے میں باہم مدد کرتے ہیں۔

جب حریت نے دیکھا کہ ان کے فرمان میں رکاوٹ پڑ گئی تو انہوں نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا اور (مجھ سے) کہا کہ میں اور تم اس طرح تھے۔ جس طرح کہا گیا ہے کہ ”بھیڑ کی موت اس میں ہے کہ دوسری بھیڑ کو اس کے سم پکڑ کے اٹھالے“۔ میں نے کہا کہ واللہ تم تاریکی میں رہتے تھے مسافر کے ساتھ خنجر اور اپنی رفیقہ کے ساتھ پاکدامن تھے یہاں تک میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آ گئی۔ لیکن جب تم نے اپنے حصے کی درخواست کی تو میرے حصے پر مجھے ملامت نہ کرو۔

انہوں نے کہا کہ تمہارا باپ نہ رہے دہناء میں تمہارا کیا حصہ ہے؟ میں نے کہا کہ میرے اونٹ کے روکنے کی جگہ ہے جس کو تم اپنی عورت کے اونٹ کے لیے مانگتے ہو انہوں نے کہا کہ لامحالہ میں رسول اللہ ﷺ کو گواہ بناؤں گا کہ جب تک زندہ ہوں تمہارا

بھائی ہوں۔ اس لیے کہ تم نے آنحضرت ﷺ کے سامنے میری مدد کی ہے میں نے کہا کہ جب تم نے اس کو شروع کیا ہے تو میں ہرگز اسے ضائع نہ کروں گی (یعنی برادری کو)۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کیا ان (عورت) کے بیٹے کو اس پر ملامت کی جاسکتی ہے کہ وہ حجرے کے اندر سے کام کا فیصلہ کرے۔

میں روئی اور کہا: یا رسول اللہ بخدا وہ میرے یہاں عقل مند ہی پیدا ہوا تھا جنگ ربہہ میں آپ کے ہمراہ تھا وہ میرے لیے غلہ لانے خیر گیا وہاں خیر کا بخار آ گیا اور میرے پاس لڑکیاں چھوڑ گیا۔

آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد (ﷺ) کی جان ہے اگر تم مسکینہ نہ ہوتیں تو ہم تم کو تمہارے منہ کے بل گھسیٹے، کیا تم میں سے کوئی شخص اس پر مغلوب ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ دنیا میں اچھا برتاؤ کرے (مطلب یہ ہے کہ بظاہر قبیلہ کے کلام سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ میرا لڑکا میرے لیے عذاب لانے گیا یہی اس کی موت کا باعث ہوا)۔ اس پر آنحضرت ﷺ ناخوش ہوئے اور آپ کے کلام کا مفہوم یہ ہے کہ نیکی سے مصیبت نہیں آتی۔

جب اس کے اور اس کے درمیان وہ شخص حائل ہو گیا جو اس سے زیادہ اس کے قریب تھا تو اس نے واپس لے لیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے اللہ تو نے جو گزارد یا اس کو مجھ سے بھلا دے اور جو تو نے باقی رکھا ہے اس پر میری مدد کر قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد (ﷺ) کی جان ہے تم میں سے ایک شخص روتا ہے پھر اس کے پاس اس کا ساتھی روتا ہے لہذا اے بندگان خدا اپنے بھائیوں پر عذاب نہ کرو۔

آپ نے سرخ چڑے کے ایک ککڑے پر قبیلہ اور دختران قبیلہ کے لیے تحریر فرمایا کہ ان کے حق میں ظلم نہ کیا جائے نہ انہیں نکاح پر مجبور کیا جائے ہر مومن مسلم ان کا مددگار ہے تم (عورتیں بھی) اچھا کرؤ برائی نہ کرو۔

صفیہ و دحبیہ دختران علیہ سے جن کے دادا حرمہ تھے مروی ہے کہ حرمہ لنگے محمد رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئے آپ کے پاس رہے رسول اللہ ﷺ نے انہیں عارف بنا دیا تب انہوں نے کوچ کیا۔

حرمہ نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو ملامت کی قصد کیا کہ اب نہ جاؤں گا تا وقتیکہ رسول اللہ ﷺ کے پاس (رہ کر) اپنے علم میں اضافہ نہ کروں میں آیا کھڑا ہو گیا اور عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے کیا عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں فرمایا کہ اے حرمہ نیکی پر عمل کرو اور بدی سے پرہیز کرو۔

میں روانہ ہو کے اپنی سواری کے پاس آ گیا واپسی میں اپنے مقام پر یا اس کے قریب کھڑا ہو گیا عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے کیا عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔

فرمایا: اے حرمہ نیکی کرو اور بدی سے بچو دیکھو کہ جب تم قوم کے پاس سے اٹھو تو تمہاری سماعت کیا پسند کرتی ہے کہ قوم تمہاری نسبت کیا کہے بس وہی کرو اور جب تم اپنی قوم کے پاس سے اٹھو تو سوچو کہ تم اپنے حق میں قوم کے کیا کہنے کو نا پسند کرتے ہو بس اسی سے پرہیز کرو۔

وفود اہل یمن

(۳۱) وفد قبیلہ طے:

عبادہ الطائی نے اپنے مشائخ سے روایت کی کہ قبیلہ طے کے پندرہ آدمیوں کا ایک وفد رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا جن کے رئیس و سردار زید خیر تھے یہی زید خیر زید خیل بن مہملہل تھے جو بنی نہمان میں سے تھے۔ ان لوگوں میں دزر بن جابر بن سدوس بن اصمغ البہبانی و قبیصہ بن الاسود بن عامر بھی تھے جو طے کی شاخ جرم سے تھے۔ بنی معن میں سے مالک بن عبد اللہ بن خیبر اور قعین بن جدیلہ تھے بنی بولان میں سے بھی ایک شخص تھے۔

جب مدینے میں داخل ہوئے تو رسول اللہ ﷺ مسجد ہی میں تھے ان لوگوں نے اپنی سواریوں کو مسجد کے سامنے والے میدان میں باندھ دیا اندر گئے اور رسول اللہ ﷺ کی جناب میں حاضر ہوئے۔

آپ نے ان لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا۔ سب مسلمان ہوئے ہر شخص کو پانچ پانچ اوقیہ چاندی انعام میں دی زید خیل کو ساڑھے بارہ اوقیہ چاندی عطا فرمائی۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مجھ سے عرب کے کسی شخص کا تذکرہ نہیں کیا گیا جس کو میں نے اس سے کم نہ پایا ہو جیسا کہ ذکر کیا گیا بجز زید کے کہ ان کی جتنی خوبیاں بیان کی گئیں اس سے زیادہ ہی پائیں۔

رسول اللہ ﷺ نے ان کا نام زید خیل رکھا، آپ نے انہیں فید اور دوزیمینوں کی جاگیر عطا فرمائی، اس کے متعلق انہیں ایک فرمان لکھ دیا، وہ اپنی قوم کے ساتھ واپس ہوئے مقام فردہ پہنچے تو فوت ہو گئے ان کی بیوی نے تمام فرامین پر قبضہ کر لیا جو رسول اللہ ﷺ نے زید کو لکھے تھے اور چاک کر ڈالا۔

حاتم طائی کی بیٹی بارگاہ نبوت میں:

رسول اللہ ﷺ نے قبیلہ طے کے بت فلس کی جانب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا تھا کہ اسے منہدم کر دیں اور ہر طرف سے گھیر لیں، وہ دو سو سواروں کے ہمراہ روانہ ہوئے انہوں نے خاندان حاتم کے حاضرین پر چھاپہ مارا، دختر حاتم ان لوگوں کے ہاتھ لگیں، یہ لوگ انہیں بھی قبیلہ طے کے قیدیوں کے ہمراہ رسول اللہ ﷺ کے پاس لے آئے۔

ہشام بن محمد کی روایت میں ہے کہ نبی ﷺ کے لشکر میں سے جن صاحب نے قبیلہ طے پر چھاپہ مارا اور حاتم کی دختر کو گرفتار کیا۔ وہ خالد بن الولید رضی اللہ عنہ تھے۔ (علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نہ تھے)۔

(اس گرفتاری کے وقت) عدی بن حاتم نبی ﷺ کے لشکر سے بچ کر بھاگ نکلے اور ملک شام پہنچ گئے۔ وہ دین نصرانیت پر تھے اپنی قوم کے ہمراہ (مقام) مریاغ جایا کرتے تھے۔

حاتم کی دختر کو مسجد نبوی کے دروازے کے ایک سائبان میں کر دیا گیا، وہ خوب صورت اور شیریں کلام تھیں، رسول اللہ ﷺ گزرے تو اٹھ کر آپ کے پاس آئیں اور عرض کی والدہ مر گئے وافر (بطور وفد آنے والے) (کھو گئے) لہذا مجھ پر احسان

فرمائیے اللہ آپ پر احسان فرمائے گا۔

آپؐ نے فرمایا کہ تمہارا وفد کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ عدی بن حاتمؓ فرمایا، وہ تو اللہ و رسولؐ سے بھاگنے والے ہیں۔ ایک وفد قبیلہ قضاہ کا شام سے آیا ہوا تھا، دختر حاتم کہتی ہیں کہ نبی ﷺ نے مجھے لباس عطا فرمایا، خرچ دیا اور سواری عطا فرمائی، میں انہیں (قبیلہ قضاہ) کے ہمراہ روانہ ہوئی، ملک شام میں عدی کے پاس آئی، ان سے کہا کہ اے قطع رحم کرنے والے ظالم تم نے اپنے بیوی بچوں کو تو سوار کر لیا اور والد کے پسماندگان کو چھوڑ دیا۔

عدی بن حاتم کا قبول اسلام:

چند روز وہ عدی کے پاس مقیم رہیں، انہوں نے عدی سے کہا، میری رائے یہ ہے کہ تم رسول اللہ ﷺ سے جا ملو، عدی روانہ ہو کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کو سلام کیا، اس وقت آپ مسجد میں تھے۔ آپؐ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ عدی بن حاتم۔

رسول اللہ ﷺ انہیں اپنے مکان پر لے گئے، ایک گدا بچھا دیا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی اور فرمایا کہ اس پر بیٹھو، رسول اللہ ﷺ زمین پر بیٹھ گئے، آپؐ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا، عدی اسلام لے آئے۔

رسول اللہ ﷺ نے انہیں ان کی قوم کے صدقات (محاصل) پر عامل بنا دیا۔

جمیل بن مرشد الطائی نے اپنے شیوخ سے روایت کی ہے کہ عمرو بن اسحٰب بن کعب بن عمرو بن عسیر بن غنم بن حارثہ بن ثوب بن معن الطائی نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ اس زمانے میں ڈیڑھ سو برس کے تھے۔

انہوں نے آنحضرت ﷺ سے شکار کو دریافت کیا، آپؐ نے فرمایا کہ جس کو تم قتل کرو اور اس کو خود مرنے دیکھ لو تو کھاؤ، جو شکار رزخی ہو کر بھاگ جائے اور تمہاری نظر سے اوجھل ہو کر مر جائے تو اسے چھوڑ دو۔

یہ عرب میں سب سے بڑے تیر انداز تھے، یہی وہ شخص ہیں جن کے بارے میں شاعر امرؤ القیس بن جمر یہ شعر کہتا ہے۔

رب رام من بنی نعل معرج کفیه می سترہ

”قبیلہ بنی نعل میں ایسے تیر انداز بھی ہیں کہ چھپے ہوئے مقام سے اپنی دونوں ہتھیلیاں نکال کے تیر چلاتے ہیں۔“

(۳۲) وفد تجیب:

ابوالخویرث سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ۹۹ میں وفد تجیب آیا، یہ لوگ تیرہ آدمی تھے اپنے ہمراہ وہ صدقات بھی لیتے آئے جو اللہ نے ان پر فرض کیے تھے۔

رسول اللہ ﷺ نے ان لوگوں کو مر جبا فرمایا، اچھی جگہ ٹھہرایا اور مقرب بنایا، مال کو حکم دیا کہ ان کی مہمان داری اچھی طرح کریں اور انعامات دیں۔

آپؐ (معمولاً) وفد کو جتنا عطا فرمایا کرتے تھے ان لوگوں کو اس سے زائد دیا اور فرمایا کہ اب تو تم میں کوئی نہیں رہا (جس کو انعام نہ ملا ہو) ان لوگوں نے عرض کی کہ ایک لڑکا ہے جس کو ہم اپنے کجاووں پر چھوڑ آئے ہیں، وہ ہم سب سے کم سن ہے، فرمایا کہ

اسے بھی ہمارے پاس لاؤ۔

لڑکا حاضر خدمت ہوا اور عرض کی میں بھی اسی گروہ سے تعلق رکھتا ہوں جو ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ آپ نے ان کی حوائج پوری کر دی ہیں، میری حاجت بھی پوری فرمادیجئے۔

فرمایا تمہاری حاجت کیا ہے؟ عرض کی اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ میری مغفرت کرے مجھ پر رحمت نازل کرے اور میری امیری میرے دل میں کر دے۔ فرمایا کہ اے اللہ اس کی مغفرت کر اس پر رحمت نازل کر اور اس کی امیری اس کے دل میں کر دے۔ آپ نے اس کے لیے بھی اتنے ہی انعام کا حکم دیا جتنا اس کے ساتھیوں میں سے ہر ایک کو دلایا تھا، یہ لوگ اپنے متعلقین کے پاس روانہ ہو گئے۔

سولہ آدمی بزمانہ حج رسول اللہ ﷺ سے منیٰ میں ملے رسول اللہ ﷺ نے ان لوگوں سے اس لڑکے کو دریافت فرمایا: ان لوگوں نے عرض کی کہ اسے جو کچھ اللہ دے دے اس پر اس سے زیادہ قناعت کرنے والا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں اللہ سے آرزو کرتا ہوں کہ ہم سب کا خاتمہ اسی طرح ہو۔ (۳۳) وفد خولان:

متعدد اہل علم سے مروی ہے کہ وفد خولان جو دس آدمیوں پر مشتمل تھا، شعبان ۳۰ھ میں آیا، ان لوگوں نے عرض کی: یا رسول اللہ ہم لوگ اللہ پر ایمان رکھنے والے اس کے رسول کی تصدیق کرنے والے اور اپنی قوم کے رہ جانے والوں کے قائم مقام ہیں اور ہم نے آپ کی جانب انہوں کو تھکا کر سفر کیا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ عم انس جو ان لوگوں کا بت تھا کیا ہوا؟ ان لوگوں نے عرض کی کہ وہ تو خراب اور بری حالت میں ہے ہم نے اسے اس اللہ سے بدل لیا جس کو آپ لائے ہیں۔ اگر ہم اس کی جانب واپس ہوں گے تو منہدم کر دیں گے۔ ان لوگوں نے امور دین کے متعلق چند باتیں رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیں تو آپ ان کے متعلق بتانے لگے آپ نے کسی کو حکم دیا کہ انہیں قرآن و حدیث کی تعلیم دے، یہ لوگ رملہ بنت الحارث کے مکان میں ٹھہرائے گئے اور ان کی مہمان داری کی گئی۔

چند روز کے بعد جب رخصت ہونے آئے تو آپ نے ساڑھے بارہ اوقیہ چاندی انعام دینے کا حکم دیا، یہ لوگ اپنی قوم میں واپس گئے (اپنے اسباب کی) گرہ تک نہ کھولی جب تک عم انس نے بت کو منہدم نہ کر دیا، ان لوگوں نے ان چیزوں کو حرام کر لیا جو رسول اللہ ﷺ نے ان پر حرام کر دی تھیں اور انہیں حلال کر لیا جو آپ نے ان کے لیے حلال کر دی تھیں۔ (۳۴) وفد قبیلہ جعفی:

ابی بکر بن قیس الجعفی سے مروی ہے کہ قبیلہ جعفی کے لوگ زمانہ جاہلیت میں دل کو حرام سمجھتے تھے ان میں سے دو آدمی قیس بن سلمہ بن شراحیل بنی مرآن بن جعفی میں سے اور سلمہ بن یزید بن مشجع بن المجمع بطور وفد رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ دونوں اخپائی بھائی تھے ان کی والدہ ملیکہ بنت الحلو بن مالک بن حریم بن جعفی میں سے تھی اسلام لائے تو رسول

اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم لوگ دل نہیں کھاتے۔ ان دونوں نے عرض کی جی ہاں۔ فرمایا کہ بغیر اس کے کھائے ہوئے تمہارا اسلام مکمل نہیں ہو سکتا۔

آپؐ نے ان کے لیے دل منگایا وہ بھونا گیا، آپؐ نے سلمہ بن یزید کو دیا، جب اس نے لیا تو اس کا ہاتھ کاٹنے لگا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اسے کھاؤ اس نے کھا لیا اور یہ شعر کہا:

علی انی اکلت القلب کرھا وتوعد حین مستہ بنانی

”اس بات پر کہ میں نے جبراً دل کو کھایا۔ جب میری انگلیوں نے اسے چھوا تو وہ کانپتی تھیں۔“

رسول اللہ ﷺ نے قیس بن سلمہ کو ایک فرمان لکھ دیا جس کا مضمون یہ تھا کہ ”یہ فرمان محمد رسول اللہ ﷺ کی جانب سے قیس بن سلمہ بن شراحیل کے لیے ہے کہ میں نے تم کو قوم مران اور ان کے موالی، حریم اور ان کے موالی اور کلاب اور ان کے موالی میں سے ان لوگوں پر عامل بنایا جو نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اپنے مال کا صدقہ دیں، اسے پاک و صاف کریں۔

راوی نے کہا کہ قبیلہ کلاب میں اردوزبید و جزء بن سعد العشیرہ وزید اللہ بن سعد وعائد اللہ بن سعد وبنی صلاءہ تھے جو بنی الحارث بن کعب میں سے تھے۔

راوی نے کہا کہ ان دونوں (قیس بن سلمہ و سلمہ بن یزید) نے کہا کہ یا رسول اللہ ہماری والدہ ملیکہ بنت الحلو قیدی کو رہا کراتی تھی، فقیر کو کھلاتی تھی، مسکین پر رحم کرتی تھی، وہ مرگئی ہے اس نے اپنی ایک بہت چھوٹی لڑکی کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ اس کا کیا حال ہے؟

فرمایا کہ جس نے زندہ درگور کیا (وہ بطور عذاب کے) اور جس کو زندہ درگور کیا گیا (وہ بطور انتقام یا شہادت) دوزخ میں ہیں (یہ سن کر) دونوں ناراض ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔

فرمایا کہ میرے پاس آؤ، دونوں واپس آئے تو آپؐ نے فرمایا کہ میری والدہ بھی تمہاری والدہ کے ہاتھ ہیں، مگر ان دونوں نے نہ مانا اور چلے گئے، دونوں کہتے جاتے تھے کہ واللہ جس شخص نے ہمارا دل کھایا اور یہ دعویٰ کیا کہ ہماری ماں دوزخ میں ہے وہ اس کا اہل ہے کہ ہرگز اس کی پیروی نہ کی جائے۔

یہ دونوں چلے گئے راستے میں کسی مقام پر پہنچے تو رسول اللہ ﷺ کے ایک صحابی ملے جن کے ہمراہ زکوٰۃ کے کچھ اونٹ تھے صحابی کو ان دونوں نے رسی سے جکڑ دیا اور اونٹ ہٹا لے گئے۔

یہ واقعہ نبی ﷺ کو معلوم ہوا تو دوسرے ملعونین کے ساتھ ان دونوں پر بھی لعنت فرمائی کہ رعل و ذکوان و عصیہ و لحیان ا ملیکہ کے دونوں بیٹوں پر جو حریم و مرآن کے خاندان سے ہیں اللہ لعنت کرے۔

ولید بن عبد اللہ الجعفی نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے شیوخ سے روایت کی کہ ابوسبرہ جن کا نام یزید بن مالک عبد اللہ بن الذؤب بن سلمہ بن عمرو بن ذہل بن مرآن بن جعفی تھا بطور وفد نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہمراہ ان کے بیٹے سبرہ و عزیز بھی تھے۔

رسول اللہ ﷺ نے عزیز سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، انہوں نے کہا عزیز۔ (غلبہ و عزت والا) فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی عزیز نہیں، تم عبدالرحمن ہو یہ لوگ اسلام لے آئے۔

ابوسبرہ نے عرض کی: یا رسول اللہ میری ہتھیلی کی پشت میں ایک بتوڑی ہے جو مجھے اپنی سواری کی گیل پکڑنے سے بروکتی ہے رسول اللہ ﷺ نے ایک پیالہ منگایا اس سے بتوڑی پر مارنے لگے اور ہاتھ سے چھونے لگے۔ چنانچہ وہ جاتی رہی۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کے دونوں بیٹوں کے لیے دعا فرمائی۔

ابوسبرہ نے عرض کی: یا رسول اللہ مجھے میری قوم کی وادی یمن بطور جاگیر عطا فرمائیے، آپ نے عطا فرمادی اس وادی کا نام حر دان تھا۔ یہی عبدالرحمن خثعم بن عبدالرحمن کے والد تھے۔

(۳۵) وفد صداء:

بنی المصطلق کے ایک شیخ نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ ۸ھ میں جب حیرانہ سے واپس ہوئے تو قیس بن سعد بن عبادہ کو نواح یمن میں بھیجا اور حکم دیا کہ قبیلہ صداء کو روند ڈالیں۔

وہ چار سو مسلمانوں کے ہمراہ قفۃ کے نواح میں لشکر انداز ہوئے قبیلہ صداء کا ایک شخص آیا اس لشکر کو دریافت کیا تو اسے ان لوگوں کے متعلق بتایا گیا۔

وہ تیزی سے روانہ ہو کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں وارد ہوا اور عرض کی کہ میں آپ کی خدمت میں اپنے پس پشت والوں کے وفد کے طور پر حاضر ہوا ہوں، آپ لشکر کو واپس بلا لیجئے، میں مع اپنی قوم کے آپ ہی کا ہوں، رسول اللہ ﷺ نے ان لوگوں کو واپس بلا لیا۔

اس کے بعد ان (صداء کے) لوگوں میں سے پندرہ آدمی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام لائے رسول اللہ ﷺ سے اپنی قوم کے پس ماندہ لوگوں کی طرف سے بیعت کی اور اپنے وطن واپس گئے۔

اسلام ان لوگوں میں پھیل گیا ان میں سے سو آدمی حیرۃ الوداع میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ زیاد بن الحارث الصدائی سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ میری قوم کی جانب لشکر بھیج رہے ہیں لشکر کو واپس بلا لیجئے، میں مع اپنی قوم کے آپ ہی کا ہوں، رسول اللہ ﷺ نے لشکر کو واپس بلا لیا۔

میری قوم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ نے (مجھے) فرمایا کہ اے برادر صداء بیشک تمہاری قوم میں تمہاری اطاعت کی جاتی ہے، عرض کی: یہ اللہ و رسول کے طفیل میں ہے۔

راوی نے کہا کہ یہی (زیاد) وہ شخص ہیں جن کو رسول اللہ ﷺ نے ایک سفر میں اذان کہنے کا حکم دیا تو انہوں نے اذان کہی بلال آئے کہ اقامت کہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ برادر صداء نے اذان کہی ہے اور جس نے اذان کہی ہے وہی اقامت کہے گا۔

(۳۶) وفد فروہ بن مسیک المرادی:

محمد بن عمارہ بن خزیمہ بن ثابت سے مروی ہے کہ فروہ بن مسیک المرادی شاہان کندہ کو چھوڑ کر اور نبی ﷺ کے مطیع بن کر بطور وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے یہاں ٹھہرے وہ قرآن اور فرائض و شرائع اسلام سیکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے انہیں بارہ اوقیہ چاندی انعام فرمائی ایک اچھی نسل کا اونٹ سواری کے لیے اور عمان کا بنا ہوا ایک جوڑا پہننے کے لیے عنایت فرمایا۔

انہیں قبیلہ مرواد نجد وزبید پر عامل بنایا، ان کے ہمراہ خالد بن سعید بن العاص کو صدقات پر (مامور فرما کر) بھیجا، ایک فرمان تحریر فرمادیا جس میں فرائض صدقہ تھے۔ رسول اللہ ﷺ کی وفات تک برابر وہ عامل صدقہ رہے۔

(۳۷) وفد قبیلہ زبید:

محمد بن عمارہ بن خزیمہ بن ثابت سے مروی ہے کہ عمر بن معدی کرب الزبیدی قبیلہ زبید کے دس آدمیوں کے ہمراہ مدینہ آئے پوچھا کہ اس سرسبز جگہ میں رہنے والے بنی عمرو بن عامر کا سردار کون ہے؟ ان سے کہا گیا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اپنی سواری کو گھسیٹتے ہوئے روانہ ہوئے تا آن کہ سعد کے دروازے پر پہنچے سعد نکل کر ان کے پاس آئے انہیں مرحبا کہا، کجاوے کے اتارنے کا حکم دیا۔ اور ان کی خاطر مدارات کی۔

رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پیش ہوئے وہ اور ان کے ہمراہی اسلام لائے چند روز مقیم رہے پھر رسول اللہ ﷺ نے انہیں انعام دیا اور اپنے وطن کو واپس گئے اپنی قوم کے ساتھ اسلام پر قائم رہے۔ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہو گئی تو مرتد ہو گئے اس کے بعد پھر اسلام کی طرف رجوع کیا، جنگ قادسیہ وغیرہ میں خوب شجاعت ظاہر کی۔

(۳۸) وفد قبیلہ کندہ:

زہری سے مروی ہے کہ اشعث بن قیس قبیلہ کندہ کے انیس شتر سواروں کے ہمراہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے یہ لوگ رسول اللہ ﷺ کے پاس مسجد میں آئے وضع یہ تھی کہ کاکل بڑھے ہوئے تھے سرمہ لگا تھا، صبرہ کے جے پہنے ہوئے تھے جن کا حاشیہ حریر کا تھا اور اوپر سے ریشمی کپڑے تھے جن پر سونے کے پتر چڑھے ہوئے تھے۔

رسول اللہ ﷺ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ کیا تم لوگ اسلام نہیں لائے؟ ان لوگوں نے عرض کی کیوں نہیں، فرمایا یہ کیا حال ہے جو اپنا بنا رکھا ہے؟ ان لوگوں نے اسے ڈال دیا۔

جب وطن کی واپسی کا ارادہ کیا تو رسول اللہ ﷺ نے ان لوگوں کو دس دس اوقیہ انعام دیا اور اشعث کو بارہ اوقیہ عطا فرمایا۔

(۳۹) وفد صدف:

شرجیل بن عبد العزیز الصدفی نے اپنے بزرگوں سے روایت کی کہ ہمارا وفد نبی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا

کل انیس آدمی تھے جو اونٹنیوں پر سوار تھے، تہہ اور چادر لباس تھا۔

یہ لوگ رسول اللہ ﷺ کے پاس آپ کے مکان اور منبر کے درمیان پہنچے اور بیٹھ گئے سلام نہیں کیا۔ فرمایا: کیا تم لوگ مسلمان ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ جی ہاں فرمایا پھر سلام کیوں نہیں کیا؟

وہ لوگ کھڑے ہوئے اور کہا کہ ”السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ“ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام بیٹھ جاؤ، لوگ بیٹھ گئے، رسول اللہ ﷺ سے اوقات نماز دریافت کیے آپ نے انہیں بتائے۔

(۴۰) وفد حشین:

حُجَّان بن وہب سے مروی ہے کہ ابو ثعلبہ النخعی اس وقت رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے جب آپ خبیر کی تیاری فرما رہے تھے وہ اسلام لائے، آپ کے ہمراہ روانہ ہوئے اور خبیر میں حاضر ہوئے، اس کے بعد حشین کے سات آدمی آئے اور ابو ثعلبہ کے پاس اترے، اسلام لائے، بیعت کی اور اپنی قوم میں واپس گئے۔

(۴۱) وفد سعد ہذیم:

ابو النعمان نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں اپنی قوم کے چند آدمیوں کے ہمراہ بطور وفد رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، ہم لوگ مدینے کے نواح میں اترے، مسجد نبوی کے ارادے سے نکلے تو ہم نے رسول اللہ ﷺ کو مسجد میں جنازے کی نماز پڑھاتے دیکھا۔

رسول اللہ ﷺ فارغ ہوئے تو فرمایا کہ تم کون لوگ ہو؟ عرض کی: ہم بنی سعد ہذیم میں سے ہیں، ہم اسلام لائے، بیعت کی اور اپنی سواریوں کی طرف واپس ہوئے۔

آپ نے ہمارے متعلق حکم دیا تو ہم بٹھرائے گئے۔ ہماری مہمان داری کی گئی، تین دن تک مقیم رہے، اس کے بعد آپ کی خدمت میں آئے کہ رخصت ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے میں سے کسی کو امیر بنالو۔

بلال رضی اللہ عنہ کو حکم ہوا تو انہوں نے ہمیں چند اوقیہ چاندی انعام دی، ہم لوگ اپنی قوم کی طرف واپس آئے، اللہ نے انہیں بھی اسلام عطا فرمایا۔

(۴۲) وفد بلعی:

روثع بن ثابت البلوی سے مروی ہے کہ میری قوم کا وفد ربیع الاول ۹ھ میں آیا، میں نے ان لوگوں کو اپنے مکان (واقعہ محلہ) بنی حدیلہ میں اتارا، میں ان لوگوں کو لے کر محمد رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا۔

آپ صبح کے وقت اصحاب کے ہمراہ اپنے مکان میں بیٹھے ہوئے تھے، شیخ وفد ابوالضباب آگے بڑھے، رسول اللہ ﷺ کے سامنے بیٹھ گئے اور گفتگو کی، یہ قوم اسلام لے آئی۔

رسول اللہ ﷺ سے ضیافت اور اپنے دینی امور میں چند باتیں دریافت کیں، آپ نے جواب دیا، میں ان لوگوں کو اپنے مکان واپس لایا۔

رسول اللہ ﷺ ایک بوجھ بھجور لا کر فرمانے لگے کہ اس بھجور کو استعمال کرو۔ یہ لوگ بھجور وغیرہ کھایا کرتے تھے تین دن تک رہے پھر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ سے رخصت ہوں۔

آنحضرت ﷺ نے ان لوگوں کو بھی انعام دیا جیسا کہ ان کے قبل والوں کو دیا تھا یہ لوگ اپنے وطن واپس گئے۔
(۴۳) وفد بہراء (مین):

ضباعہ بنت الزبیر بن عبدالمطلب سے مروی ہے کہ وفد بہراء مین سے آیا جو تیرہ آدمی تھے یہ لوگ اپنی ساریوں کو گھسیٹتے ہوئے آئے (محلہ) بنی جدیلہ میں مقداد بن عمرو کے دروازے پر پہنچے مقداد کل کر ان لوگوں کے پاس آئے ان کو مرجا کہا اور مکان کے ایک حصے میں ٹھہرایا یہ لوگ نبی ﷺ کے پاس آئے اسلام لائے فرائض سیکھے اور چند روز قیام کیا۔
رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے کہ آپ سے رخصت ہوں آپ نے ان کو انعام کا حکم دیا یہ لوگ اپنے متعلقین کے پاس واپس آ گئے۔

(۴۴) وفد بنی عذرہ:

ابی عمرو بن حرث العذری سے مروی ہے کہ میں نے اپنے بزرگوں کے خط میں پایا کہ بارہ آدمیوں کا وفد صفر ۹ھ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا جن میں حمزہ بن نعمان العذری و سلیم و سعد فرزند ان مالک و مالک بن ابی ریحاب بھی تھے۔
یہ لوگ رملہ بنت الحارث النجاریہ کے مکان میں اترے نبی ﷺ کے پاس آئے ایام جاہلیت کا سلام کیا اور کہا کہ ہم لوگ قصی کے اخیانی بھائی ہیں ہمیں لوگوں نے خزاعہ بنی بکر کو کے سے ہٹایا تھا ہماری قرابتیں اور رشتہ داریاں ہیں۔
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”مرحبا واهلا“ مجھ سے کسی نے تمہارا تعارف نہیں کرایا تمہیں اسلامی سلام سے کس نے روکا ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنی قوم کی فکر میں آئے ہیں۔

امور دین کے متعلق چند باتیں نبی ﷺ سے دریافت کیں آپ نے جواب دیا سب مشرف بہ اسلام ہوئے چند روز قیام کیا پھر اپنے متعلقین میں واپس آ گئے آپ نے انہیں اسی طرح انعامات دیئے جس طرح آپ وفد کو دیا کرتے تھے ان میں سے ایک کو آپ نے چادر بھی اوڑھائی۔

البوزفر الکلی سے مروی ہے کہ زل بن عمرو العذری بطور وفد نبی ﷺ کے پاس آئے انہوں نے عذرہ کے بت سے (تصدیق رسالت کے متعلق) جو کچھ سنا تھا بیان کیا فرمایا کہ یہ (کہنے والا) کوئی مومن جن تھا (بت نہ تھا)۔
زل اسلام لائے رسول اللہ ﷺ نے ان کے لیے قوم کی سرداری کا جھنڈا باندھ دیا صفین میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حاضر ہوئے۔ انہیں کے ساتھ مرج میں تھے کہ قتل کر دیئے گئے۔

جس وقت وہ بطور وفد نبی ﷺ کے پاس حاضر ہوئے تو یہ اشعار زبان پر تھے:

ایک رسول اللہ اعلمت نصھا اکلفھا حزنا وفوزا من الرمل

”یا رسول اللہ ﷺ میں نے آپ ہی کی جانب سواری کا رخ پھیرا ہے۔ ناہوار و دشوار گزار ریگستان طے کرنے میں

اسے تکلیف دے رہا ہوں۔

لا نصر خیر الناس نصرا مؤزرا واعقد حبلا من حبالک فی حبلی
غرض یہ ہے کہ بہترین انسان کی محکم واستوار آمد کروں۔ اور آپ ﷺ کے رشتہ مبارک کی ایک دھجی خود بھی باندھ لوں۔
واشهد ان اللہ لا شئی غیرہ اذین له انقلبت قدمی نعلی
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی چیز نہیں۔ میں اس وقت تک اسی کے دین پر رہوں گا جب تک میرا جوتا میرے
قدم کو بھاری رکھے۔

(۳۵) وفد بنی سلامان:

محمد بن یحییٰ بن سہل بن ابی حمزہ سے مروی ہے کہ میں نے اپنے والد کے خطوط میں پایا کہ حبیب بن عمرو السلامانی بیان
کرتے تھے کہ ہم لوگ وفد سلامان رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے ہم سات آدمی تھے۔
رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچے تو آپ مسجد سے نکل کر ایک جنازے کی طرف جس کی آپ نے دعوت دی تھی جا رہے تھے
ہم نے کہا: السلام علیک یا رسول اللہ فرمایا: علیکم تم لوگ کون ہو؟ عرض کی: ہم سلامان سے ہیں اور اس لیے آئے ہیں کہ آپ سے
اسلام پر بیعت کریں ہم اپنی قوم کے پسماندہ لوگوں کے بھی قائم مقام ہیں۔
آپ اپنے غلام ثوبان کی طرف مڑے اور فرمایا کہ اس وفد کو بھی وہیں اتارو جہاں وفد اترتے ہیں نماز ظہر پڑھ لی تو اپنے
مکان اور منبر کے درمیان بیٹھ گئے ہم لوگ آپ کے پاس گئے نماز شریع اسلام اور جھاڑ پھونک کو دریافت کیا۔
آپ نے ہم میں سے ہر شخص کو پانچ پانچ اوقیہ چاندی عطا فرمائی ہم لوگ وطن واپس گئے یہ واقعہ شوال ۱۰ھ کا ہے۔
(۳۶) وفد جہینہ:

ابو عبد الرحمن المدنی سے مروی ہے کہ جب نبی ﷺ مدینے تشریف لائے تو آپ کے پاس عبد العزیٰ بن بدر بن زید بن
معاویہ الجہنی جو بنی الربیعہ بن رشدان بن قیس بن جہینہ میں سے تھے بطور وفد آئے ہمراہ ان کے اخیانی اور چچا زاد بھائی ابو رعدہ بھی
تھے۔

رسول اللہ ﷺ نے عبد العزیٰ سے فرمایا کہ تم عبد اللہ بن ابی رعدہ سے فرمایا کہ ان شاء اللہ تم دشمن کو دھلا دو گے۔
آنحضرت ﷺ نے فرمایا تم لوگ کون ہو انہوں نے کہا کہ ہم بنی عیان ہیں (عیان کے معنی سرکشی کے ہیں) فرمایا کہ تم بنی
رشدان ہو (رشدان کے معنی ہدایت پانے کے ہیں)۔

ان لوگوں کی وادی کا نام غوی تھا (جس کے معنی گمراہی و سرکشی کے ہیں) رسول اللہ ﷺ نے اس کا نام رشد رکھا آپ نے
جہینہ کے کوہ اشعر و کوہ اجرہ کے لیے فرمایا کہ یہ دونوں جنت کے پہاڑوں میں سے ہیں جن کو کوئی فتنہ نہ روند سکے گا۔
فتح مکہ کے دن جہنم عبد اللہ بن بدر کو دیا ان لوگوں کو مسجد کے لیے زمین عطا فرمائی یہ مدینے کی سب سے پہلی مسجد تھی جس
کے لیے زمین دی گئی۔

عمر و بن مرہ الجعفی سے مروی ہے کہ ہمارا ایک بت تھا جس کی سب تعظیم کیا کرتے تھے میں اس کا مجاور تھا جب میں نے نبی ﷺ کے متعلق سنا تو اسے توڑ ڈالا۔ وہاں سے روانہ ہوا مدینہ شریفہ میں نبی ﷺ کے پاس آیا مسلمان ہوا کلمہ شہادت ادا کیا حلال و حرام کے متعلق جو احکام تھے سب پر ایمان لایا۔ اسی مضمون کو میں ان اشعار میں کہتا ہوں:

شہدت بان اللہ حق واننی لآلہۃ الاحجار اول تارک

”میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ حق ہے بے شک میں پتھروں کے معبودوں کا سب سے پہلا چھوڑنے والا ہوں“

وشمرت عن ساقی الازار مہاجرا الیک اجوب الوعث بعد الذکارک

میں نے اپنی پتھری سے تہہ چڑھا کر آپ کی طرف اس طرح ہجرت کی کہ میں سخت و دشوار راہ وزمین کو قطع کرنا ہوں۔

لا اصحب خیر الناس نفسا ووالدا رسول ملک الناس فوق الحباثک

تاکہ میں ایسے شخص کی صحبت اٹھاؤں جو اپنی ذات و خاندان کے اعتبار سے سب سے بہترین اور لوگوں کے اس مالک کے رسول ہیں جو آسمانوں کے اوپر ہے۔

اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے ان کو قوم کی جانب بھیجا کہ انہیں اسلام کی دعوت دیں ان سب نے اس کو قبول کیا سوائے ایک شخص کے جس نے ان کی بات کا رد کیا۔

عمر و بن مرہ نے اس پر بددعا کی جس سے اس کا منہ ٹوٹ گیا وہ بات کرنے پر قادر نہ رہا۔ نابینا اور محتاج ہو گیا۔

(۴۷) وفد بنی رقاش:

عبد عمرو بن جبلة بن وائل بن الجلاح الکلبی سے مروی ہے کہ میں اور ایک شخص عاصم جو بنی عامر کے بنی رقاش میں سے تھے روانہ ہوئے نبی ﷺ کے پاس آئے آپ نے ہمارے سامنے اسلام پیش کیا ہم اسلام لائے۔

آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میں نبی امی صادق و پاکیزہ ہوں خرابی اور پوری خرابی اس شخص کی ہے جو میری تکذیب کرے مجھ سے روگرداں ہو اور جنگ کرے بہتری اور پوری بہتری اس شخص کی ہے جو مجھے جگہ دے میری مدد کرے مجھ پر ایمان لائے میرے قول کی تصدیق کرے اور میرے ہمراہ جہاد کرے۔

ہم دونوں نے عرض کی کہ ہم تو آپ پر ایمان لاتے ہیں آپ کے قول کی تصدیق کرتے ہیں دونوں اسلام لے آئے عمر و یہ شعر پڑھنے لگے:

اجبت رسول اللہ اذ جاء بالهدی واصبحت بعد الجحد باللہ اوجرا

”میں نے رسول اللہ کو مان لیا جب آپ ہدایت لائے پہلے میں اللہ کا منکر تھا اب مومن ہوں اور اس کا مجھے اجر ملے گا۔

ودوعت لذات القداح وقداری بهاسد کاعمری وللهوا صورا

تیروں کے ذریعے سے فال و شگون لینے کے مزے میں نے ترک کر دیئے حالانکہ ایسے ہی لہو و لعب میں میری عمر گزری تھی۔

وامنت باللہ العلی مکانہ واصبحت للانوثان ماعشت منکرا

میں اللہ پر ایمان لایا جس کی منزلت برتر ہے۔ میں جب تک زندہ ہوں بتوں کا منکر رہوں گا۔

ربیعہ بن ابراہیم الدمشقی سے مروی ہے کہ حارثہ بن قطن بن زائر بن حصن بن کعب بن علیم الکلبی اور حمل بن سعدانہ بن حارثہ بن مغفل بن کعب بن علیم بطور وفد رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے۔

حمل بن سعدانہ کے لیے جھنڈا باندھا وہ اس جھنڈے کو لے کر معاویہ کے ہمراہ صفین میں تھے۔

حارثہ بن قطن کے لیے ایک فرمان تحریر فرما دیا جس میں یہ مضمون تھا کہ یہ فرمان نبی محمد (رسول اللہ ﷺ) کی جانب سے دومۃ الجندل اور اس کے نواح کے ان باشندگان کے لیے ہے جو قبیلہ کلب کے حارث بن قطن کے ساتھ ہیں بارش سے سیراب ہونے والی صحرائی کھجور کے درخت ہمارے ہیں شہر کے کھجور کے درخت تمہارے ہیں جس زمین پر چشمہ وغیرہ کا پانی جاری ہو اس پر محصول عشر (دسواں حصہ) ہے اور جو بارش سے سیراب ہو اس پر محصول نصف عشر (بیسواں حصہ) ہے نہ تمہارے اونٹوں کی جمعیت کو جمع کیا جائے گا اور نہ ایک دو مواشی ہوں تو ان کو برابر کیا جائے گا تمہیں نماز کو وقت پر ادا کرنا ہوگا اور زکوٰۃ اس کے حق کے موافق ادا کرنا ہوگی تم سے گھاس نہیں روکی جائے گی اور نہ سامان خانہ داری کا عشر (دسواں حصہ) لیا جائے گا تم سے اس کا عہد و پیمان ہے تمہارے ذمے خیر خواہی و وفاداری اور اللہ و رسول کی ذمہ داری ہے۔ اللہ اور مومنین حاضرین گواہ ہیں۔

(۲۸) وفد بنی جرم:

سعد بن مرہ الجرمی نے اپنے والد سے روایت کی کہ ہمارے دو آدمی بطور وفد رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے ایک کا نام اصقع بن شریح بن صریم بن عمرو بن رباح بن عوف بن عمیرہ بن الہون بن العجب بن قدامہ بن جرم بن ریاں بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعہ تھا اور دوسرے ہودہ بن عمرو بن رباح تھے۔

دونوں اسلام لائے رسول اللہ ﷺ نے ان کو ایک فرمان تحریر فرما دیا۔ مجھے بعض جرمیین نے وہ شعر سنائے جو اصقع یعنی عامر بن عصمہ بن شریح نے کہے تھے:

وکان ابو شریح الخیر عمی ففی الفتیان حمال الغرامہ

”ابو شریح الخیر میرے چچا تھے۔ جو بڑے بہادر اور ذمہ داری کے برداشت کرنے والے تھے۔

عمید الحی من جرم اذا ما ذو والا کال سامونا ظلامہ

ایسی حالت میں بھی وہ قبیلہ جرم کے سردار تھے جب کہ مال و متاع پر دست درازی کرنے والوں نے ہمیں مصیبت میں ڈال رکھا تھا۔

وسابق قومہ لما دعاهم الی الاسلام احمد من تھامہ

جب کہ احمد (ﷺ) نے مکے سے ان کی قوم کو اسلام کی دعوت دی تو وہ اس دعوت حق کے قبول کرنے میں اپنی تمام قوم سے سبقت لے گئے۔

فلباہ وکان لہ ظہیرا فرقلہ علی حتی قدامہ

انہوں نے آپ کو لیک کہا اور آپ کے مددگار ہو گئے۔ آپ نے انہیں قدامہ کے دونوں قبیلوں پر سردار بنادیا۔
عمر بن سلمہ بن قیس الجرمی سے مروی ہے کہ جب یہ لوگ اسلام لائے تو ان کے والد اور قوم کے چند آدمی بطور وفد نبی ﷺ کے پاس آئے قرآن سیکھا حواج دینی پوری کیں۔

ان لوگوں نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا کہ ہمیں نماز کون پڑھائے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے نماز وہ پڑھائے جس نے سب سے زیادہ قرآن یاد کیا یا سیکھا ہو۔

یہ لوگ اپنی قوم میں آئے دریافت کیا مگر کوئی ایسا شخص نہ ملا جو مجھ سے زیادہ قرآن کا جاننے والا ہو حالانکہ میں اس زمانے میں اتنا چھوٹا تھا کہ میرے بدن پر صرف ایک چادر تھی ان لوگوں نے مجھے امام بنایا اور میں نے انہیں نماز پڑھائی آج تک قبیلہ جرم کا کوئی مجمع ایسا نہ ہوا جس میں میں موجود ہوں اور امام نہ ہوں۔

راوی نے کہا عمرو بن سلمہ اپنی وفات تک برابر لوگوں کی نماز جنازہ پڑھاتے اور مسجد میں امامت کرتے۔
ابو یزید عمرو بن سلمہ الجرمی سے مروی ہے کہ ہم لوگ ایک ایسے پانی (کے کنوئیں) کے سامنے رہا کرتے تھے جس پر لوگوں کا راستہ تھا لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ یہ امر (اسلام) کیا ہے وہ کہتے تھے کہ ایک شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی ہیں اللہ نے انہیں رسول بنایا ہے اور یہ وحی بھیجی ہے۔

میں یہ کرنے لگا کہ اس میں سے جو کچھ سنا تھا اسے اس طرح یاد کر لیتا تھا کہ گویا میرے سینے پر رنگ چڑھا دیا گیا ہے یہاں تک کہ میں نے اپنے سینے میں بہت سا قرآن جمع کر لیا عرب قبول اسلام کے لیے فتح مکہ کے منظر تھے کہتے تھے کہ دیکھتے رہو اگر آنحضرت ﷺ ان لوگوں پر غالب آجائیں تو آپ صادق و نبی ہیں۔

جب فتح مکہ کی خبر آئی تو ہر قوم نے اسلام لانے میں سبقت کی میرے والد ہمارے ہمسایہ لوگوں کے اسلام کی خبر (آنحضرت ﷺ کے پاس) لے گئے جب تک اللہ کو ان کا قیام منظور ہو اور رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مقیم رہے۔ اس کے بعد آئے جب وہ ہمارے نزدیک آ گئے تو ہم نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔

انہوں نے کہا: بخدا میں رسول اللہ ﷺ کے پاس سے تمہارے پاس آیا ہوں آنحضرت ﷺ تمہیں اس بات کا حکم دیتے ہیں اور اس بات سے منع فرماتے ہیں فلاں نماز فلاں وقت پڑھو اور فلاں نماز فلاں وقت جب نماز کا وقت آئے تو کوئی تم میں سے اذان کہے تمہاری امامت وہ شخص کرے جو تم میں سب سے زیادہ قرآن جانتا ہو۔

ہمارے ہمسایہ نے غور کیا تو ان لوگوں نے کوئی شخص مجھ سے زیادہ قرآن جاننے والا نہ پایا۔ اس لیے کہ میں شتر سواروں سے یاد کیا کرتا تھا ان لوگوں نے مجھے اپنا امام بنایا میں انہیں نماز پڑھایا کرتا تھا حالانکہ میں چھ برس کا تھا میرے بدن پر ایک چادر تھی کہ جب میں سجدہ کرتا تو وہ بدن سے ہٹ جاتی تھی قبیلے کی ایک عورت نے کہا کہ تم لوگ اپنے قاری کے سرین کو ہم سے کیوں نہیں چھپاتے ان لوگوں نے مجھے بحرین کا ایک گرہ درگرہ کرتہ پہنایا جتنی مسرت مجھے اس کرتے سے ہوئی اتنی کسی چیز

سے نہیں ہوئی۔

عمر بن سلمہ الجرمی سے مروی ہے کہ میں شترسواروں سے ملتا تھا وہ مجھے آیتیں پڑھاتے تھے میں رسول اللہ ﷺ کے زمانے ہی میں امامت کیا کرتا تھا۔

عمر بن سلمہ سے مروی ہے کہ میرے والد اپنی قوم کے اسلام کی خبر رسول اللہ ﷺ کے پاس لے گئے۔ آپ نے ان لوگوں کے لیے جو کچھ فرمایا اس میں یہ بھی تھا کہ تمہاری امامت وہ شخص کرے جو تم میں سب سے زیادہ قرآن جانتا ہو۔

میں ان سب میں چھوٹا تھا اور امامت کیا کرتا تھا ایک عورت نے کہا کہ اپنے قاری کے سرین تو ہم سے چھپاؤ۔ پھر ان لوگوں نے میرے لیے کہ نہ بنایا میں جتنا اس کرتے سے خوش ہوا کسی چیز سے خوش نہیں ہوا۔

عمر بن سلمہ سے مروی ہے کہ جب میری قوم رسول اللہ ﷺ کے پاس سے واپس آئی تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ تمہاری امامت وہ شخص کرے جو تم میں سب سے زیادہ قرآن جانتا ہو۔

ان لوگوں نے مجھے بلایا رکوع و سجود سکھایا میں انہیں نماز پڑھایا کرتا تھا میرے بدن پر ایک بھٹی ہوئی چادر تھی لوگ میرے والد سے کہا کرتے تھے کہ تم ہم سے اپنے بیٹے کے سرین کیوں نہیں چھپاتے۔

(۴۹) وفد قبیلہ ازد:

منیر بن عبد اللہ الازدی سے مروی ہے کہ صد بن عبد اللہ الازدی اپنی قوم کے انیس آدمیوں کے ہمراہ بطور وفد رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے فروہ بن عمرو کے پاس اترے فروہ نے ان لوگوں کو سلام کیا اور ان کا اکرام کیا۔

یہ لوگ ان کے یہاں دس روز ہے صد بن سب میں افضل تھے رسول اللہ ﷺ نے ان کو اپنی قوم کے مسلمانوں پر امیر بنایا اور حکم دیا کہ وہ ان مسلمانوں کے ساتھ ان مشرک قبائل یمن سے جہاد کریں جو قریب و جوار میں ہیں۔

یہ نکلے اور جرش میں پڑاؤ کیا جو ایک محفوظ شہر تھا اسی میں قبائل یمن تھے جو قلعہ بند ہو گئے تھے صد نے پہلے اسلام کی دعوت دی انکار کیا تو ایک مہینے تک محاصرہ رکھا ان کے مویشی حملہ کر کے لوٹ لیا کرتے تھے۔

وہ محاصرہ اٹھا کر وہ شکر کی طرف چلے گئے یہ سمجھے کہ بھاگ گئے لوگ ان کی تلاش میں نکلے۔ صد نے اپنی صفیں آراستہ کیں اور حملہ کر دیا جس طرح چاہا ان لوگوں کو تہ تیغ کیا میں گھوڑے پکڑ لیے دو پہر تک طویل جنگ ہوئی۔

اہل جرش نے دو آدمیوں کو رسول اللہ ﷺ کے پاس بھیجا تھا جو ملاشی و منتظر تھے رسول اللہ ﷺ نے ان کو لوگوں کے مقابلے اور صد کی فتح کی خبر دی۔

یہ دونوں اپنی قوم کے پاس آئے اور کل حال بیان کیا۔ ایک وفد رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوا ارکان وفد اسلام لائے آپ نے انہیں مرحبا فرمایا اور فرمایا کہ تم لوگ صورت کے ایسے ملاقات میں سچے کلام میں پاکیزہ اور امانت میں بڑے ہونے میرے ہو اور میں تمہارا ہوں۔

آپ نے ان لوگوں کا (میدان جنگ میں) شعار (لفظ) مبرور مقرر فرمایا اور ان کے گاؤں کو خاص نشانوں سے محفوظ و

محمد و دفن مادیہ۔

(۵۰) وفد غسان:

محمد بن کبیر الغسانی نے اپنی قوم غسان سے روایت کی کہ ہم لوگ رمضان ۱۰ھ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس مدینے آئے، کل تیرہ آدمی تھے رملہ بنت الحارث کے مکان میں اترے دیکھا کہ تمام وفد عرب سب کے سب محمد ﷺ کی تصدیق کر رہے تھے کہ ہم نے آپس میں کہا کہ عرب کے اہل بصیرت کیا اس نظر سے دیکھیں گے کہ عرب بھر میں ہم ہی برے ہیں۔

ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اسلام لائے، تصدیق کی، اور گواہی دی کہ آپ جو کچھ لائے ہیں سب حق ہے، ہم جانتے نہ تھے کہ قوم ہماری پیروی کرے گی یا نہیں، رسول اللہ ﷺ نے ہمیں انعامات دیے۔

یہ لوگ واپس ہوئے، قوم کے پاس آئے تو ان لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، ان لوگوں نے اپنا اسلام پوشیدہ رکھا، ان میں سے دو مسلمان مر گئے اور ایک نے جنگ یرموک میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو پایا، وہ ابو عبیدہ سے ملے اپنے اسلام کی خبر دی وہ ان کا اکرام کیا کرتے تھے۔

(۵۱) وفد بنی حارث بن کعب:

عبداللہ بن عمرہ بن عبد الرحمن بن الحارث نے اپنے والد سے روایت کی کہ ربیع الاول ۱۰ھ میں رسول اللہ ﷺ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو چار سو مسلمانوں کے ساتھ نجران بھیجا اور حکم دیا کہ جہاد کرنے سے پہلے تین مرتبہ اسلام کی دعوت دیں۔ خالد نے یہی کیا۔ جو بنی الحارث بن کعب وہاں تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور اس مذہب میں داخل ہو گئے جس کی انہیں خالد نے دعوت دی تھی خالد انہیں لوگوں کے پاس ٹھہر گئے، انہیں اسلام و شرائع اسلام کتاب اللہ و سنت رسول اللہ (ﷺ) کی تعلیم دی۔

یہ واقعہ رسول اللہ ﷺ کو لکھا اور بلال بن الحارث المزنی کے ہمراہ بھیج کر آپ کو مسلمانوں کے غلبے اور بنی الحارث کے اسلام کی طرف تیزی سے سبقت کرنے کی خبر دی۔

رسول اللہ ﷺ نے خالد کو تحریر فرمایا کہ ان لوگوں کو خوش خبری دو اور ڈراؤ بھی، آؤ جب تو اس طرح کہ تمہارے ہمراہ ان کا وفد بھی ہو خالد اسی طرح آئے کہ ہمراہ ان لوگوں کا وفد بھی تھا، جن میں قیس بن الحصین و الغصہ، یزید بن عبد المدان، عبداللہ بن المدان، یزید بن الجمل، عبداللہ بن قراشد، ابن عبداللہ القنانی و عمرو بن عبداللہ بھی تھے۔

خالد نے ان لوگوں کو اپنے پاس ٹھہرایا۔ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ لوگ بھی ہمراہ تھے آپ نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ہندوستانی معلوم ہوتے ہیں۔ عرض کیا گیا کہ یہ بنی الحارث بن کعب ہیں۔

ان لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کو سلام کیا۔ کلمہ شہادت 'لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ' پڑھا۔ رسول اللہ ﷺ نے ان لوگوں کو دس دس اوقیہ چاندی انعام عطا فرمائی، قیس بن الحصین کو ساڑھے بارہ اوقیہ چاندی عطا فرمائی، انہیں کو رسول اللہ ﷺ نے بنی الحارث بن کعب پر امیر بنایا۔

یہ لوگ بقیہ ایام شوال میں اپنی قوم کی جانب واپس گئے، اس کے چار ماہ بعد رسول اللہ ﷺ صلوٰۃ اللہ علیہ ورحمۃ وبرکاتہ کثیراً دُعا کی وفات ہو گئی۔

شععی سے مروی ہے کہ عبدہ بن مسہر الحارثی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپؐ سے وہ چیزیں دریافت کیں جن کو وہ پیچھے چھوڑ آئے تھے اور اپنے سفر میں انہوں نے دیکھی تھیں۔

نبی ﷺ انہیں وہ چیزیں بتانے لگے، اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ اے ابن مسہر اسلام لے آؤ اور اپنے دین کو دنیا کے عوض فروخت نہ کرو وہ اسلام لے آئے۔
(۵۲) وفد قبیلہ ہمدان:

حبان بن ہانی، مسلم بن قیس بن عمرو بن مالک بن لائی الہمدانی ثم الارحبی نے اپنے شیوخ سے روایت کی کہ قیس بن مالک بن لائی الارحبی رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے، آپؐ کے میں تھے، انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ میں اس لیے آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپؐ پر ایمان لاؤں اور آپؐ کی مدد کروں۔

فرمایا، 'مرحبا' اے گروہ ہمدان کیا تم لوگ وہ اختیار کرو گے جو مجھ میں ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپؐ پر فدا ہوں۔ جی ہاں، فرمایا: اچھا تم اپنی قوم کے پاس جاؤ، اگر انہوں بھی یہی کیا تو واپس آنا میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔
قیس اپنی قوم کی جانب روانہ ہوئے، وہ لوگ اسلام لائے، غسل کے لیے اندر گئے، قبلہ کی طرف رخ کیا، قیس بن مالک ان لوگوں کے اسلام کی خبر لے کر رسول اللہ ﷺ کے پاس روانہ ہوئے، عرض کی کہ میری قوم اسلام لے آئی ہے، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپؐ سے اخذ کروں۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیس کیسے اچھے قاصد قوم ہیں اور فرمایا کہ تم نے وفا کی اللہ تمہارے ساتھ وفا کرے۔
آپؐ نے ان کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا، ان کی قوم ہمدان کے (قبائل) جو خالص و نجیب تھے، جو بیرونی تھے، جو لواحق تھے اور جو ان کے موالی تھے، سب پر ان کی امارت کے لیے تحریر فرمایا کہ وہ لوگ ان کی بات سنیں اطاعت کریں اور یہ کہ ان کے لیے اللہ و رسول کی ذمہ داری ہے، جب تک تم لوگ نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔

آپؐ نے قیس کو تین سو فرق (پچاس ہین) بیت المال میں سے ہمیشہ کے لیے جاری فرمایا، دو سو فرق کشمش اور جو ارض نصف نصف اور ایک سو فرق گیکھوں۔

ابو اخطی نے اپنی قوم کے شیوخ سے روایت کی کہ ایام حج میں رسول اللہ ﷺ نے اپنے آپ کو قبائل عرب کے سامنے پیش کیا، قبیلہ ارحب کے ایک شخص جن کا نام عبد اللہ بن قیس بن امام غزال تھا آپؐ کے پاس سے گزرے فرمایا: کیا تمہاری قوم کے پاس مدافعت کی قوت ہے، عرض کی جی ہاں۔

آپؐ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا، وہ مسلمان ہوئے، مگر یہ اندیشہ ہوا کہ ان کی قوم آپؐ کے ساتھ بدعہدی کرے گی، اس لیے آپؐ سے آئندہ حج کا وعدہ کیا۔

آپ نے ان ہمدانی کو ان کی قوم کے ارادے سے روانہ فرمایا، بنی زبید کے ایک شخص ذباب نے انہیں قتل کر دیا۔ اس کے بعد قبیلہ ارحب کے چند جوانوں نے عبداللہ بن قیس کے عوض ذباب الزبیدی کو قتل کر دیا۔

اہل علم سے مروی ہے کہ وفد ہمدان رسول اللہ ﷺ کے پاس اس کیفیت سے آیا کہ ان کے بدن پر حجرہ کے بنے ہوئے کپڑے تھے جن کی گوٹ دیباچ (ریشم) کی تھی، ان لوگوں میں ذی مشعار کے حمزہ بن مالک بھی تھے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہمدان کیا اچھا قبیلہ ہے کہ مدد پر سبقت کرنے والا اور مصیبت پر صبر کرنے والا ہے انہیں میں سے اسلام کے رؤسا و ابدال ہوں گے۔

یہ لوگ اسلام لے آئے، نبی ﷺ نے ان لوگوں کے متعلق تحریر فرمایا کہ ہمدان کے خارف و یام شاکر کے علاقے، اہل البھض و حفاف الرمل مسلمانوں کے لیے ہیں۔

(۵۳) وفد بنو سعد العشیرہ:

عبدالرحمن بن ابی سبرہ الحنفی سے مروی ہے کہ جب لوگوں نے نبی ﷺ کی روانگی کی خبر سنی تو بنی انس اللہ بن سعد العشیرہ کے ایک شخص ذباب نے سعد العشیرہ کے بت پر جس کا نام فراض تھا حملہ کیا اور اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس کے بعد وہ بطور وفد نبی ﷺ کے پاس گئے، اسلام لائے۔ اور یہ شعر کہے:

تبع رسول اللہ اذ جاء بالهدى وخلقت فراضا بدار هوان

”میں نے رسول اللہ ﷺ کی پیروی کر لی جب آپ ہدایت لائے۔ اور فراض کو میں نے مقام ذلت میں چھوڑ دیا۔

شدتت عليه شدة فتركته كان لم يكن والدهر ذو حدثان

میں نے اس پر حملہ کیا اور اسے اس حالت میں چھوڑا۔ کہ گویا وہ تھا ہی نہیں، زمانہ تو انقلاب والا ہے ہی۔

فلما رايت الله اظهر دينه اجبت رسول الله حين دعاني

جب میں نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے دین کو غالب کر دیا، تو جب مجھے رسول اللہ ﷺ نے دعوت دی، میں نے قبول کر لی۔

فاصبحت الاسلام ماعشت ناصرا والقت فيها كل كللى وجمرانى

میں جب تک زندہ رہوں گا اسلام کا مددگار رہوں گا۔ اور اسی میں اپنا تمام زور لگاؤں گا۔

فمن مبلغ سعد العشيرة اننى شريت الديبقي باخر فان

ہے کوئی جو سعد العشیرہ کو یہ خبر پہنچا دے کہ میں نے فانی چیز کے عوض باقی رہنے والی چیز خریدی ہے۔“

مسلم بن عبداللہ بن شریک الحنفی نے اپنے والد سے روایت کی کہ عبداللہ بن ذباب الانسی جنگ صفین میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، وہ ان کے لیے کافی تھے۔

(۵۴) وفد قبیلہ عنس بن مالک:

منجج کے عنس بن مالک کے قبیلے کے ایک شخص سے مروی ہے کہ ہم میں ایک شخص تھے جو بطور وفد نبی ﷺ کے پاس

گئے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آنحضرت ﷺ شام کا کھانا نوش فرما رہے تھے آپ نے انہیں کھانے کے لیے بلایا تو یہ بیٹھ گئے۔

جب آپ کھانا نوش فرما چکے تو نبی ﷺ ان کے قریب آئے اور فرمایا کہ کیا تم شہادت دیتے ہو کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اس کے بندہ و رسول ہیں انہوں نے کہا کہ ”اشہدان لا الہ الا اللہ وان محمداً عبده ورسوله“۔

فرمایا: تم طمع سے آئے ہو یا خوف سے عرض کی: طمع کے متعلق یہ عرض ہے کہ بخدا آپ کے قبضے میں کوئی مال نہیں (جس کا کوئی لالچ کرے) اور خوف کے متعلق یہ گزارش ہے کہ بخدا میں ایسے شہر میں رہتا ہوں جہاں آپ کے لشکر نہیں پہنچ سکتے (کہ کوئی خوف نہ کرے) لیکن مجھے (عذاب آخرت کا) خوف دلایا گیا تو میں ڈر گیا مجھ سے کہا گیا کہ اللہ پر ایمان لاؤ میں ایمان لے آیا۔ رسول اللہ ﷺ حاضرین کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ قبیلہ عس کے اکثر لوگ مقرر ہیں چند روزہ قیام میں وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آمد و رفت کرتے رہے۔

آخر آپ سے رخصت ہوئے آئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ روانہ ہو جاؤ آپ نے انہیں زادراہ دیا اور فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی (مرض وغیرہ) محسوس ہو تو کسی قریب کے گاؤں میں پناہ لے لینا۔

وہ روانہ ہوئے راستے میں شدید بخار آگیا انہوں نے کسی قریب کے گاؤں میں پناہ لی اور وہیں وفات پائی اللہ ان پر رحمت کرے ان کا نام ربیعہ تھا۔

(۵۵) وفد داربین:

عبداللہ بن عبداللہ بن عتبہ وغیرہ سے مروی ہے کہ داربین کا وفد رسول اللہ ﷺ کے پاس آپ کی جہوک سے واپسی کے وقت آیا۔ یہ دس آدمی تھے جن میں تمیم و نعیم فرزندان اوس بن خارجه بن سواد بن جذیمہ بن دراع بن عدی بن الدار بن ہانی بن حبیب بن نمارہ بن حمزہ بن یزید بن قیس بن خارجه الفا کہ بن نعمان بن جبلہ بن صفارہ یا صفار بن ربیعہ بن دراع بن عدی بن الدار جبلہ بن مالک بن صفارہ ابو ہند و طیب فرزندان ذریہ بن ذر عبداللہ بن رزین بن رعیم بن ربیعہ بن دراع تھے ہانی بن حبیب عزیز و مرہ فرزندان مالک بن سواد بن جذیمہ تھے۔

یہ لوگ اسلام لائے رسول اللہ ﷺ نے طیب کا نام عبداللہ اور عزیز کا نام عبدالرحمن رکھا ہانی بن حبیب نے رسول اللہ ﷺ کو شراب کی مشک چند گھوڑے اور ایک ریشمی قباجس میں سونے کے پتر لگے ہوئے تھے بطور ہدیہ پیش کی۔

آپ نے گھوڑوں اور قبا کو قبول فرمایا (اور مشک کو قبول نہیں فرمایا) یہ قباء عباس بن عبدالمطلب کو عطا فرمائی عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ میں اسے کیا کروں گا (کیونکہ) اس کا پہننا جائز نہیں فرمایا: سونا نکال کر اپنی عورتوں کے لیے اس کا زیور بنوا لویا اسے (فروخت کر کے) خرچ کر لو قباء کے ریشم کو فروخت کر ڈالو اور اس کی قیمت لے لو۔

عباس رضی اللہ عنہ نے اسے ایک بیہودی کے ہاتھ آٹھ ہزار درم کو فروخت کر دیا تمیم نے عرض کی ہمارے نواح میں روم کی ایک قوم ہے جن کے دو گاؤں ہیں ایک کا نام جری اور دوسرے کا بیت عیون ہے اگر اللہ آپ کو ملک شام پر فتح عطا فرمائے تو یہ دونوں

گاؤں مجھے ہمہ فرما دیجئے فرمایا: وہ تمہارے ہی ہوں گے۔

جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے ان کو یہ گاؤں دے دیئے انہیں ایک فرمان لکھ دیا، دارین کا وفد رسول اللہ ﷺ کی وفات تک مقیم رہا آپ نے ان لوگوں کے لیے ایک سو وسق (پیمانہ غلہ) وصیت فرمائی۔
(۵۶) وفد الرہا و بین از قبیلہ مذحج:

زید بن طلحہ التیمی سے مروی ہے کہ اس میں پندرہ آدمی رہا و بین کے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئے یہ لوگ قبیلہ مذحج کے تھے رملہ بنت الحارث کے مکان پر اترے۔

رسول اللہ ﷺ ان لوگوں کے پاس تشریف لائے بڑی دیر تک باتیں کرتے رہے ان لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کو چند ہدایا پیش کیے جن میں ایک گھوڑا بھی مرواج نام کا تھا آپ نے اس کے متعلق حکم دیا تو آپ کے سامنے پھیرا گیا آپ نے اسے پسند فرمایا۔

یہ لوگ اسلام لائے قرآن و فرائض سیکھے آپ نے ان لوگوں کو بھی اسی طرح انعام دیا جس طرح آپ وفد کو دیا کرتے تھے کہ ان کے بڑے درجے والے کو ساڑھے بارہ اوقیہ چاندی اور کم درجے والے کو پانچ اوقیہ یہ لوگ اپنے وطن واپس گئے۔
ان میں سے چند آدمی آئے اور رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مدینے سے حج کیا، رسول اللہ ﷺ کی وفات تک مقیم رہے آپ نے خیبر کی پیداوار سے لشکر کی مد میں ان لوگوں کے لیے ایک سو وسق جاری کرنے کی وصیت فرمائی اور فرمان لکھ دیا۔
ان لوگوں نے اس کو زمانہ معاویہ میں فروخت کر ڈالا۔

عمرو بن جبران بن سعد الرہاوی نے اپنے والد سے روایت کی کہ ہم میں سے ایک آدمی جن کا نام عمرو بن سبیح تھا بطور وفد نبی ﷺ کے پاس آئے اور اسلام لائے۔

رسول اللہ ﷺ نے ان کے لیے ایک جھنڈا باندھ دیا۔ یہی جھنڈا لے کر انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ جنگ صفین میں (حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر سے) جنگ کی بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری کے متعلق یہ اشعار کہے:

الیک رسول اللہ اعملت نصھا تجوب الفیافی سملقا بعد سملق

”یا رسول اللہ میں نے سواری کا رخ آپ کی جانب کر دیا ہے جو یکے بعد دیگرے دشت و بیاباں کی صحرا نور دی کر رہی ہے۔

علی ذات الواح اکلفها السری تحب برحلی مرة ثم تعنق

وہ سواری جس پر لکڑی کی زین ہے میں اس کو شب نور دی کی تکلیف دے رہا ہوں میرا سامان اٹھائے ہوئے کبھی تو جھک جاتی ہے اور کبھی گردن اونچی کر لیتی ہے۔

فما لک عندی راحة او تلجلجی باب النبی الهاشمی الموافق

اے سواری میرے ہاں تجھے اس وقت تک آرام ملنے کا نہیں جب تک رسول اللہ ﷺ کے دروازے تک تو نہ پہنچ جائے۔

عنقت اذا من رحلة ثم رحلة وقطع دياميم وهم مسؤرق
وہاں پہنچنے کے بعد پھر تو ہر ایک سفر سے رہا و آزاد ہو جائے گی نہ تجھے کہیں جانا پڑے گا نہ ایسی زحمت ہوگی کہ شب بھر
بیدار رہے۔

تیسرے شعر میں ”تلحج“ کا لفظ ہے اس کے معنی بتاتے ہوئے ہشام کہتے ہیں کہ حج اونٹنی کے ایسے بیٹھ جانے کو کہتے ہیں
کہ پھر نہ اٹھے۔

شاعر کہتا ہے:

فمن مبلغ الحسناء ان حليلها مصاد بن مذعور تلحج غادرا

”محبوبہ سے کون ہے کہ جا کے کہہ دے کہ اس کا شوہر غدار کی باعث تذبذب میں پڑ گیا ہے۔“

(۵۷) وفد غامد:

متعدد اہل علم سے مروی ہے کہ وفد غامد رسول اللہ ﷺ کے پاس رمضان میں آیا یہ دس آدمی تھے جو قبیلۃ الغرقد میں
اترے اپنے اچھے کپڑے پہنے اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں روانہ ہوئے آپ کو سلام کیا اور اسلام کا اقرار کیا۔

رسول اللہ ﷺ نے ان کو ایک فرمان تحریر فرما دیا جس میں شرائع اسلام تھے یہ لوگ ابی بن کعب کے پاس آئے تو انہوں
نے ان لوگوں کو قرآن سکھایا اور رسول اللہ ﷺ نے ان لوگوں کو اسی طرح انعام دیا جس طرح وفد کو دیتے تھے اور یہ واپس گئے۔

(۵۸) وفد قبیلۃ النخع:

شیوخ نخع سے مروی ہے کہ قبیلۃ نخع نے اپنے دو آدمیوں کو جن میں سے ایک کا نام ارطاة بن شراحیل بن کعب تھا کہ بنی
حارث بن سعد بن مالک بن النخع میں سے تھے دوسرے حمیش کو جن کا نام ارقم تھا کہ بنی بکر بن عوف بن النخع میں سے تھے بطور وفد اپنے
اسلام کی خبر کے ساتھ رسول اللہ کے پاس بھیجا یہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے۔

آپ نے ان دونوں کے سامنے اسلام پیش کیا دونوں نے قبول کیا اور اپنی قوم کی جانب سے بیعت کی رسول اللہ ﷺ کو
ان کی حالت اور حسن ہیئت پسند آئی فرمایا: کیا تمہارے پیچھے تمہاری قوم میں سے کوئی تم دونوں کے مشل ہے انہوں نے عرض کی:
یا رسول اللہ ہم اپنی قوم کے ایسے ستر آدمی چھوڑ آئے ہیں جو سب کے سب ہم دونوں سے افضل ہیں ان میں سے ہر ایک معاملات کا
فیصلہ کرتا ہے اور کاموں کو پورا کرتا ہے۔ جب کوئی کام ہوتا ہے تو لوگ ہمارے شریک و سہم نہیں ہوتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے ان کے اور ان کی قوم کے لیے دعائے خیر فرمائی اور فرمایا کہ اے اللہ نخع کو برکت دے ارطاة کو امیر
قوم بنائے ایک جھینڈا عطا فرمایا جو فتح مکہ میں ان کے ہاتھ میں تھا وہ اسے قادسیہ میں بھی لائے تھے اسی روز (یعنی جنگ قادسیہ میں)
وہ شہید ہو گئے ان کے بھائی و رید نے اسے لے لیا اور وہ بھی شہید ہو گئے دونوں پر اللہ رحمت نازل کرے پھر اسے بنی جزمہ کے سیف
بن الحارث نے لیا اور کوفہ لے گئے۔

محمد بن عمرو والاسلمی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس جو سب سے آخری وفد آیا وہ وفد نخع تھا یہ لوگ یمن سے وسط

محرم ۱۱ھ میں آئے یہ دو سو آدمی تھے جو رملہ بنت الحارث کے مکان پر اترے رسول اللہ ﷺ کے پاس اسلام کا اقرار کرتے ہوئے آئے۔

ان لوگوں نے یمن میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے بیعت کی تھی ان میں زرارہ بن عمرو بھی تھے۔
ہشام بن محمد نے کہا کہ یہ زرارہ بن قیس بن الحارث بن عداء تھے اور یہ نصرانی تھے۔

(۵۹) وفد بجیلہ:

عبدالحمید بن جعفر نے اپنے والد سے روایت کی کہ جریر بن عبد اللہ البجلی ۱۰ھ میں مدینہ آئے ہمراہ ان کی قوم کے ڈیڑھ سو آدمی تھے رسول اللہ ﷺ نے (ان لوگوں کی آمد سے پہلے بطور پیشین گوئی حاضرین سے) فرما دیا تھا کہ اس وسیع راہ سے تمہیں ایک بہترین بابرکت شخص نظر آئے گا جس کی پیشانی پر سلطنت کا نشان ہوگا۔ جریر اپنی سواری پر نظر آئے ہمراہ ان کی قوم بھی تھی یہ لوگ اسلام لائے اور بیعت کی۔

جریر نے کہا کہ پھر رسول اللہ ﷺ نے ہاتھ پھیلا یا اور مجھے بیعت کیا اور فرمایا کہ (یہ بیعت) اس پر ہے کہ تم شہادت دو کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں نماز قائم کرو زکوٰۃ دو رمضان کے روزے رکھو مسلمانوں کی خیر خواہی کرو۔ والی کی اطاعت کرو اگرچہ وہ حبشی غلام ہی ہو۔

عرض کی: جی ہاں۔ آپ نے انہیں بیعت کر لیا۔

قیس بن عزرہ الاحمسی قبیلہ احمس کے ڈھائی سو آدمیوں کے ہمراہ آئے رسول اللہ ﷺ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ احمس (اللہ کے بہادر) ہیں زمانہ جاہلیت میں ان لوگوں کو یہی کہا جاتا تھا۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ آج سے تم لوگ احمس (اللہ کے بہادر) ہو بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ بجیلہ کے شتر سواروں کو انعام دو اور چمپین سے شروع کرو انہوں نے یہی کیا۔

جریر بن عبد اللہ کا قیام فردہ بن عمرو البیاضی کے پاس تھا رسول اللہ ﷺ نے ان سے ان کے پس پشت والوں کا حال دریافت فرمایا عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا اذن کو مساجد اور صحنوں میں غالب کر دیا قبائل نے اپنے وہ بت توڑ ڈالے جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔

فرمایا: اچھا ذوالخصلہ (بت) کیا ہوا عرض کی کہ ابھی تو اپنی حالت پر باقی ہے۔ ان شاء اللہ اس سے بھی راحت مل جائے گی۔

رسول اللہ ﷺ نے ان کو ذوالخصلہ کو توڑنے کے لیے بھیجا ان کے لیے جھنڈا باندھا تو عرض کی کہ میں (سواری نہ جاننے سے) گھوڑے پر بٹھیر نہیں سکتا ہوں رسول اللہ ﷺ نے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ اے اللہ ان کو ہادی (ہدایت کرنے والا) اور مہدی (ہدایت یافتہ) بنادے۔

وہ اپنی قوم کے ہمراہ جو تقریباً دو سو تھے روانہ ہوئے زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ واپس آئے رسول اللہ ﷺ نے ان سے

در یافت فرمایا کہ کیا تم نے اسے توڑ ڈالا؟ عرض کی قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، جی ہاں (توڑ ڈالا) اس پر جو کچھ تھا میں نے لے لیا، اسے آگ میں جلا دیا ایسی گت بنا دی کہ جو اس سے محبت کرتا ہے اسے ناگوار ہوگا ہمیں اس کے توڑنے سے کسی نے نہیں روکا۔

رسول اللہ ﷺ نے اس روز قبیلہ احمس کے پیادہ اور سواروں کے لیے دعائے برکت کی۔

(۶۰) وفد قبیلہ خثعم:

یزید و دیگر اہل علم سے مروی ہے کہ جریر بن عبد اللہ کے ذوالخلصہ کو منہدم کرنے اور قبیلہ خثعم کے کچھ لوگوں کو قتل کرنے کے بعد وفد حضرت بن زحر و انس بن مدرک قبیلہ خثعم کے چند آدمیوں کے ہمراہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر جو کچھ وہ اللہ کے پاس سے لائے ایمان لاتے ہیں آپ ہمیں ایک فرمان لکھ دیجئے کہ جو کچھ اس میں ہو ہم اس کی پیروی کریں۔

آپ نے ان لوگوں کو ایک فرمان لکھ دیا جس میں جریر بن عبد اللہ و حاضرین کی گواہی تھی۔

(۶۱) وفد الاشعریین:

اہل علم نے کہا ہے کہ اشعریین رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے وہ پچاس آدمی تھے جن میں ابو موسیٰ الاشعرئ بنی نضیر کے بھائی اور ان کے ہمراہ قبیلہ عک کے دو آدمی تھے یہ لوگ کشتی میں بحری راستے سے آئے اور جدے میں اترے۔ جب مدینے کے نزدیک پہنچ گئے تو کہنے لگے کہ ”غداً نلقی الاحبہ محمدًا وحبزہ“ (کل ہم احباب سے ملیں گے) محمد ﷺ اور ان کے گروہ سے۔

یہ لوگ آئے تو رسول اللہ ﷺ کو سفر خیر میں پایا۔ رسول اللہ ﷺ سے قدم بوس ہوئے بیعت کی اور اسلام لائے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اشعریین لوگوں میں ایسے ہیں جیسے تھیلی میں مشک ہو۔

(۶۲) وفد حضرت موت:

اہل علم نے کہا ہے کہ وفد حضرت موت وفد کندہ کے ہمراہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا یہ لوگ بنی ولیعہ شاہان حضرت موت محمد و خوس و شرح والصغہ تھے یہ لوگ اسلام لائے۔

مخوس نے کہا یا رسول اللہ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ میری زبان سے میرے اس ہکٹے پن کو دور کر دے آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی اور انہیں کچھ غلہ (سالانہ) حضرت موت کی پیداوار سے عطا فرمایا۔

واکل بن حجر الحضرمی بطور وفد نبی ﷺ کے پاس آئے عرض کی کہ میں اسلام و ہجرت کے شوق میں آیا ہوں آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔

واکل بن حجر کی آمد کی خوشی میں ندادی گئی کہ ”الصلوۃ جامعۃ“ تاکہ لوگ جمع ہو جائیں (جب کسی کام کے لیے لوگوں کو جمع کرنا مقصود ہوتا تھا تو یہی ندادی جاتی تھی)۔

رسول اللہ ﷺ نے معاویہ بن ابی سفیان کو حکم دیا کہ انہیں ٹھہرائیں وہ واکل کے ہمراہ پیادہ روانہ ہوئے واکل اونٹ پر سوار تھے۔

معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ اپنا جو تا میری طرف ڈال دیجئے (کہ میں اسے پہن لوں) انہوں نے کہا کہ ہمیں میں ایسا نہیں ہوں کہ تمہارے پہننے کے بعد میں اسے پہنوں معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا مجھے اپنے پاس بٹھا لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ تم بادشاہوں کے ہم نشینوں میں نہیں ہو معاویہ نے کہا کہ گری کی شدت میرے پاؤں جھلسا دیتی ہے انہوں نے کہا کہ میری اونٹنی کے سائے میں چلو بس یہی تمہارے شرف کے لیے کافی ہے۔

پیغام رسالت شاہِ حضر موت کے نام:

جب انہوں نے اپنے وطن کی روانگی کا ارادہ کیا تو رسول اللہ ﷺ نے یہ فرمان لکھ دیا:

یہ فرمان محمد نبی ﷺ کی جانب سے واکل بن حجر شاہِ حضر موت کے لیے ہے کہ تم اسلام لائے جو زمینیں اور قلعے تمہارے قبضے میں ہیں وہ میں نے تمہارے لیے کر دیئے تم سے دس میں سے ایک حصہ لے لیا جائے گا جس میں صاحبِ عدل غور کرے گا میں نے تمہارے لیے یہ شرط کی ہے تم اس میں کمی نہ کرنا جب تک کہ دین قائم ہے اور نبی و مومنین اس کے مددگار ہیں۔

ابن ابی عبیدہ سے مروی ہے کہ نخوس بن معدی کرب بن ولیعہد مع اپنے ہمراہیوں کے نبی ﷺ کے پاس بطور وفد آئے یہ لوگ روانہ ہوئے تو نخوس کو لقوہ ہو گیا ان میں سے کچھ لوگ واپس آئے اور عرض کی: یا رسول اللہ! سردار عرب کو لقوہ ہو گیا آپ ہمیں اس کی دوا بتائیے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ایک سوئی لو اسے آگ میں تپاؤ پھر ان کی دونوں پلکوں کو الٹو۔ بس اسی میں اس کی شفاء ہے! حالِ اسی کی طرف جانا ہے اللہ ہی زیادہ جانتا ہے کہ تم لوگوں نے میرے پاس سے روانہ ہوتے وقت کیا کہا تھا (جس کی وجہ سے یہ سزا ملی انہوں نے حضرت معاویہ سے متکبرانہ کلمات کہے تھے جو اللہ کو ناگوار ہوئے) ان لوگوں نے یہی کیا۔ وہ اچھے ہو گئے۔

عمر بن مہاجر الکندی سے مروی ہے کہ ایک خاتون حضر موت کے قبیلہ تبعہ کی تھیں جن کا نام تہناہ بنت کلیب تھا۔ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے لیے ایک لباس بنایا۔ اپنے بیٹے کلیب بن اسد بن کلیب کو بلایا اور کہا کہ اس لباس کو نبی ﷺ کے پاس لے جاؤ وہ اسے آپ کے پاس لائے اور اسلام قبول کیا۔

رسول اللہ ﷺ نے ان کے لیے دعا فرمائی ان کی اولاد میں سے ایک شخص نے اپنی قوم کو تعریض کرتے ہوئے یہ اشعار کہے ہیں:

لقد مسح الرسول ابائنا ولم يمسح وجوه بني بحير
 ”رسول اللہ ﷺ نے ہمارے دادا کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ بنی بحیر کے چہروں پر آپ نے ہاتھ نہیں پھیرا۔“
 شباههم وشبيهم سواء فهم في اللوم استنان الحمير
 چنانچہ ان لوگوں کے بوڑھے اور جوان سب برابر ہیں وہ سب کینہ پن میں گدھوں کے دانتوں کی طرح ہیں۔“

کلیب جب نبی ﷺ کے پاس آئے تو انہوں نے یہ اشعار کہے:

من وشر برہوت تھوی بی عذافرة
الیک یاخیر من یحفی وینتعل
”میں برہوت سے آ رہا ہوں“ آتے ہوئے جھک جھک جاتا ہوں۔ میں آپ کی جناب میں حاضر ہو رہا ہوں، اے ان سب سے بہتر جو پابرہنہ و پاپوشیدہ ہیں۔

تجداد عفوا اذا اکلک الابل
تجوب بی صفصفا غیرا منا ہلہ
سواری مجھے ایسے میدانوں سے لارہی ہے جہاں تالابوں کے گھاٹ بھی گرد آلود ہیں اونٹ جب تھک جائیں تو ان کا گردوغبار اور بڑھ جائے۔

شہرین اعمالہا نضا علی وجل
ارجو بذاک ثواب اللہ یارجل
اسی دشت نوردی میں دو مہینے گزر گئے کہ ندامت کے ساتھ سفر کر رہا ہوں اور اس سفر سے اللہ کے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہوں۔

انت النبی الذی کنا نخبرہ
وبشرتنا بک التوراة والرسل
آپ ﷺ وہی نبی ہیں جن کی ہمیں خبر دی جا رہی تھی، ہمیں توریت نے اور پیغمبروں نے آپ ﷺ کے متعلق بشارت دی تھی۔

وائل بن حجر کی دربار نبوت میں حاضری:

علقہ بن وائل سے مروی ہے کہ وائل بن حجر بن سعد الحضرمی بطور وفد نبی ﷺ کے پاس آئے آپ نے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی انہیں ان کی قوم کا سردار بنایا۔

آپ نے لوگوں سے تقریر فرمائی کہ اے لوگو! یہ وائل بن حجر ہیں جو تمہارے پاس اسلام کے شوق میں حضرت موت سے آئے ہیں۔ اس پر آپ نے اپنی آواز کو بلند فرمایا، پھر معاویہ سے فرمایا کہ انہیں لے جاؤ اور ان کو حرہ میں کسی مکان میں ٹھہراؤ۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں انہیں لے گیا، گرمی کی شدت سے میرے پاؤں جھلس رہے تھے میں نے (وائل بن حجر سے) کہا کہ مجھے (اونٹ پر) اپنے پیچھے بٹھا لیجئے، انہوں نے کہا کہ تم بادشاہوں کے ہم نشینوں میں نہیں ہو، میں نے کہا کہ اچھا اپنے جوتے مجھے دے دیجئے کہ انہیں بہن کر گرمی کی تکلیف سے بچوں، انہوں نے کہا کہ اہل یمن کو یہ خبر نہ پہنچے کہ رعیت نے بادشاہ کا جوتہ پہن لیا، اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے اپنی اونٹنی (کو تیزی سے) روک لوں اور تم اس کے سائے میں چلو۔

معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میں نبی ﷺ کے پاس آیا اور آپ کو ان کی گفتگو کی خبر دی تو فرمایا کہ بے شک ان میں جاہلیت کا حصہ باقی ہے۔ جب انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمان لکھ دیا۔

(۶۳) وفد قبیلہ از د عمان:

علی بن حمد سے مروی ہے کہ اہل عمان اسلام لائے تو رسول اللہ ﷺ نے علاء بن الحضرمی رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں کے پاس بھیجا۔

کہ وہ ان کو شرائع اسلام لکھائیں اور زکوٰۃ وصول کریں۔

ان لوگوں کا ایک وفد رسول اللہ ﷺ کے پاس روانہ ہوا جن میں اسد بن سیرح الطاحی بھی تھے یہ لوگ رسول اللہ ﷺ سے ملے آپ سے درخواست کی کہ ان کے ہمراہ آپ کسی ایسے شخص کو بھیجیں جو ان کے معاملات کا انتظام کرے۔
خزیمہ العبدی نے جن کا نام مدرک بن خوط تھا عرض کی کہ مجھے ان لوگوں کے پاس بھیج دیجئے۔ کیونکہ ان کا مجھ پر ایک احسان ہے انہوں نے جنگ جنوب میں مجھے گرفتار کر لیا تھا پھر مجھ پر احسان کیا (کہ رہا کر دیا)۔

آپ نے انہیں کو ان لوگوں کے ہمراہ عمان بھیج دیا ان کے بعد سلمہ بن عیاذ الازدی اپنی قوم کے چند آدمیوں کے ہمراہ آئے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں اور کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے انہیں بتایا تو عرض کی کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہماری بات اور الفت کو جمع کر دے۔
آپ نے ان لوگوں کے لیے دعا فرمائی سلمہ اور ان کے ہمراہی اسلام لائے۔

(۶۳) وفد عافقی:

اہل علم نے کہا ہے کہ جلیجہ بن شجار بن صہار الغافقی اپنی قوم کے چند آدمیوں کے ہمراہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور عرض کی: یا رسول اللہ ہم لوگ اپنی قوم کے ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں اسلام لائے ہیں ہمارے صدقات میدانوں میں رُکے ہوئے ہیں۔
فرمایا کہ تمہارے وہی حقوق ہیں جو مسلمانوں کے ہیں تم پر وہی امور لازم ہیں جو مسلمانوں پر لازم ہیں۔ عوذ بن سریر الغافقی نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ اور اس کے رسول کی پیروی کی۔

(۶۵) وفد باریق:

اہل علم نے کہا ہے کہ وفد باریق رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا تو آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی وہ لوگ اسلام لائے اور بیعت کی رسول اللہ ﷺ نے انہیں فرمان لکھ دیا کہ:

یہ فرمان محمد رسول اللہ (ﷺ) کی جانب سے باریق کے لیے ہے کہ نہ تو باریق سے بغیر دریافت کیے ہوئے ان کے پھل کاٹے جائیں گے نہ جاڑے یا گرمی میں ان کے وطن میں جانور چرائے جائیں گے جو مسلمان چراگاہ نہ ہونے کی وجہ سے یا خود روگھاس چرانے کے لیے ان کے پاس سے گزرے تو اس کی تین روز کی مہمان داری (ان کے ذمے) ہوگی جب ان کے پھل پک جائیں تو مسافر کو اتنے گڑے پڑے پھل اٹھانے کا حق ہوگا جو اس کے شکم کو سیر کر دیں بغیر اس کے کہ وہ اپنے ہمراہ لا کر لے جائے۔
گواہ شد ابو سعیدہ بن الجراح وحذیفہ بن الیمان۔ بقلم ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔

(۶۶) وفد قبیلہ دوس:

اہل علم نے کہا ہے کہ جب طفیل بن عمرو الدوسی اسلام لائے تو انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی وہ اسلام لائے اور ستر یا سی آدمی جو قرابت دار تھے مدینے آئے ان میں ابو ہریرہ و عبد اللہ بن ابی بکر الدوسی رضی اللہ عنہما بھی تھے۔
رسول اللہ ﷺ خیبر میں تھے یہ لوگ آپ کے پاس گئے اور وہیں قدمیں دبوئے۔

ہم سے بیان کیا گیا کہ رسول اللہ ﷺ نے غنیمت خیبر میں سے ان لوگوں کا بھی حصہ لگایا، یہ لوگ آپ کے ہمراہ مدینے آئے۔ طفیل بن عمیر نے عرض کی: یا رسول اللہ مجھ میں اور میری قوم میں جدائی نہ فرمائیے، آپ نے ان سب کو جرہ الدجاج بن ٹھہرایا۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب وطن سے نکلے تو اپنی ہجرت کے بارے میں یہ شعر کہا:

”رات کو سفر کرتے تکلیف اٹھاتے رہ نور ہیں۔ کہ اس ہجر نے کفر کی آبادی سے نجات دلا دی۔“

عبداللہ بن ازہیر نے عرض کی: یا رسول اللہ مجھے اپنی قوم میں شرافت و مرتبہ حاصل ہے، آپ مجھے ان پر مقرر فرما دیجئے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اے بردار دوس! اسلام غریب (ہونے کی حالت میں) شروع ہوا اور غریب ہی ہو جائے گا، اللہ کی تصدیق کرے گا نجات پائے گا، جو کسی اور طرف مائل ہوگا برباد جائے گا۔ تمہاری قوم میں سب سے بڑے ثواب والا وہ شخص ہے جو صدق میں سب سے بڑا ہو اور حق عنقریب باطل پر غالب ہو جائے گا۔

(۶۷) وفد ثمالہ والحدان:

اہل علم نے کہا ہے کہ عبداللہ بن عس الغنالی و مسلیہ بن ہزان الحدانی اپنی اپنی قوم کے گروہ کے ساتھ مکہ کے بعد رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور اسلام لائے رسول اللہ ﷺ سے اپنی قوم کی جانب سے بیعت کی۔

رسول اللہ ﷺ نے جو زکوٰۃ ان کے اموال پر مقرر فرمائی اس کے متعلق ایک فرمان ان لوگوں کو تحریر فرمادیا جس کو ثابت بن قیس بن شماس نے لکھا۔ اس پر سعد بن عبادہ و محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہما کی شہادت ہوئی۔

(۶۸) وفد قبیلہ اسلم:

اہل علم نے کہا کہ عمیرہ بن افسی قبیلہ اسلم کی ایک جماعت کے ہمراہ آئے، ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ و رسول پر ایمان لائے، آپ کے طریقے کی پیروی کی، آپ اپنے یہاں ہمارا ایسا مرتبہ مقرر فرما دیجئے جس کی فضیلت عرب بھی جانیں، کیونکہ ہم لوگ ہمارے بھائی ہیں اور تنگی و فراخی میں ہمارے ذمے بھی آپ کی وفاداری و مددگاری ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اسلم کو خدا اسلم رکھے اور غفار کی خدا مغفرت کرے۔

رسول اللہ ﷺ نے اسلم اور تمام مسلم قبائل عرب کے لیے خواہ وہ ساحل پر رہتے ہوں یا میدان میں، ایک فرمان تحریر فرمادیا اس میں مویشی کے فرائض و زکوٰۃ کا ذکر تھا۔

اس صحیفہ کو ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ نے لکھا اور ابو عبیدہ بن الجراح و عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما کی شہادت ہوئی۔

(۶۹) وفد قبیلہ جذام:

اہل علم نے کہا کہ رفاعہ بن زید بن عمیر بن معبد الحجازی جو بنی نصیب کے ایک فرد تھے، قبل خیبر ایک صلح میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے آپ کو ایک غلام بطور ہدیہ دیا اور اسلام لائے، رسول اللہ ﷺ نے انہیں ایک فرمان لکھ دیا:

یہ فرمان رسول اللہ ﷺ کی جانب سے رفاعہ بن زید کے لیے ان کی قوم اور ان کے ہمراہیوں کے نام ہے، رفاعہ ان لوگوں

کو اللہ کی طرف دعوت دیں، جو آجائے وہ اللہ کے گروہ میں ہے، جو انکار کرے اسے دو ماہ کے لیے امان ہے۔
قوم نے دعوت قبول کی اور اسلام لائی۔

لقیس بن نائل الحبذلی سے مروی ہے کہ قبیلہ جذام میں بنی نفاشہ کے ایک شخص تھے، جن کا نام فروہ بن عمرو بن النافرہ تھا۔ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو اپنے اسلام کی خبر بھیجی اور ایک سفید مادہ خچر بطور ہدیہ پیش کی۔
فروہ روم کی جانب سے رومیوں سے ملے ہوئے علاقہ عرب پر عامل تھے، ان کا مستقر معان اور اس کے متصل کا علاقہ شا تھا، اہل روم کو ان کے اسلام کی خبر پہنچی تو ان کو طلب کیا، گرفتار کر کے قید کر لیا۔ پھر انہیں نکالا کہ گردن مار دیں۔
انہوں نے یہ شعر کہا:

ابلیغ سراقۃ المؤمنین باننی سلم لربی اعظمی و مقامی

”سردار مؤمنین کو میری خبر پہنچا دو۔ اپنے رب کے لیے میری ہڈیاں بھی مطہج ہیں اور میرا مقام بھی فرماں بردار مقام ہے۔“
(۷۰) وفد مہرہ:

اہل علم نے کہا کہ وفد مہرہ، جن پر مہری بن الابیض رئیس تھے آیا رسول اللہ ﷺ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا یہ لوگ اسلام لائے آپ نے ان کو انعام دیا اور ایک فرمان تحریر فرمادیا:
”یہ فرمان محمد رسول اللہ ﷺ کی جانب سے مہری بن الابیض کے لیے ان مہرہ کے متعلق ہے جو آنحضرت ﷺ پر ایمان لائیں نہ تو یہ فنا کیے جائیں نہ برباد کیے جائیں، ان پر شرائع اسلام کا قائم کرنا واجب ہے، جو اس حکم کو بد لے گا وہ (گویا) جنگ کرے اور جو اس پر ایمان لائے گا تو اس کے لیے اللہ و رسول کی ذمہ داری ہے، گری پڑی چیز (مالک کو) پہنچانا ہوگی، مواشی کو سیراب کر ہوگا، میل پکیل برائی ہے، بے حیائی نافرمانی ہے۔
بقلم محمد بن مسلمہ الانصاری۔

اہل علم نے کہا کہ قبیلہ مہرہ کے ایک شخص جن کا نام زہیر بن قرضم بن الجعلیل بن قباث بن قوی بن نفلان العبدي بن الامر بن مہری بن حیدان بن عمرو بن الحاف بن قضاء تھا جو اشتر سے تھے رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے۔
رسول اللہ ﷺ ان کی بعد مسافت کی وجہ سے اکرام و عداوت فرماتے تھے، جب انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو آپ نے انہیں بٹھایا اور سوار کرایا۔ اور انہیں ایک فرمان تحریر کر دیا جو آج تک (بعد مصنف) ان لوگوں کے پاس ہے۔

(۷۱) وفد قبیلہ حمیر:

قبیلہ حمیر کے ایک شخص سے جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کا زمانہ پایا اور بطور وفد آپ کے پاس حاضر ہوئے، مروی ہے مالک بن مرارہ الرباوی قاصد شہان حمیر ان لوگوں کے خطوط و خبر اسلام رسول اللہ ﷺ کے پاس لائے۔
یہ واقعہ رمضان ۹ھ کا ہے آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ان کو ٹھہرائیں، مدارات و ضیافت کریں۔
رسول اللہ ﷺ نے حارث بن عبد الکلال و نعیم بن عبد الکلال و نعمان سرداران ذی رعن و معافرو ہمدان کے نام تحریر فرمایا

”ابا بعد! میں اسی اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تمہارے قاصد ملک روم سے واپسی کے وقت ہمارے پاس پہنچے انہوں نے تمہارا پیام اور تمہارے یہاں کی خبریں ہمیں پہنچائیں تمہارے اسلام اور قتل مشرکین کی خبر دی، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنی ہدایت سے سرفراز کیا ہے، بشرطیکہ تم لوگ نیکی کرو اللہ و رسول کی اطاعت کرو نماز کو قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو اور غنیمت میں سے اللہ کا شمس اس کے نبی کا شمس اور منتخب حصہ جو صدقہ و زکوٰۃ مومنین پر فرض کیا گیا ہے ادا کرو۔“

(۷۲) وفد اہل نجران:

اہل علم نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک فرمان بنام اہل نجران بھیجا، ان کے چودہ شرفائے نصاریٰ کا ایک وفد آپ کے پاس روانہ ہوا۔ جن میں قبیلہ کندہ کے عاقب عبدالمسح، بنی ربیعہ کے ابوالحارث بن علقمہ اور ان کے بھائی علقمہ اور ان کے بھائی کرز اور سید داؤس فرزند ان حارث وزید بن قیس و شیبہ و خویلد و خالد و عمرو و عبید اللہ بھی تھے۔

ان میں تین آدمی تھے جو تمام معاملات کے منتظم تھے۔

عاقب امیر و مشیر تھے انہیں کی رائے پر وہ لوگ عمل درآمد کرتے تھے۔

ابوالحارث اسقف (پادری) اور عالم و امام و منتظم مدارس تھے۔ سیدان کی سواریوں کے منتظم تھے۔

کرز اور ابوالحارث یہ شعر پڑھتے ہوئے ان سب کے آگے بڑھے:

إِلَيْكَ تَغْدُو قُلُوبًا وَضِيئًا مَعْرُضًا فِي بَطْنِهَا جَبِيئًا

مُخَالَفًا دِينَ النَّصَارَى دِينَهَا

”آپ کی جناب میں اس طرح حاضر ہو رہے ہیں کہ مرکب کے شکم میں جو بچہ ہے وہ بھی مضطرب ہے۔ نصاریٰ کے مذہب سے ان کا مذہب بالکل جدا ہے۔“

(یہ شعر پڑھتے ہوئے) وہ نبی ﷺ کے پاس آئے وفد ان کے بعد آیا، لوگ مسجد میں داخل ہوئے ان کے بدن پر حمزہ کے کپڑے اور چادریں تھیں جن پر حریر کی پٹیاں لگی تھیں۔

یہ لوگ مسجد میں مشرق کی جانب (جدھر بیت المقدس ہے) نماز پڑھنے کو کھڑے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ان کو رہنے دو۔

جب آنحضرت ﷺ کے پاس آئے تو آپ نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا، بات نہیں کی، عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ یہ تمہاری اس بیت کی وجہ سے ہے۔

اس روز وہ لوگ واپس چلے گئے صبح کو راہبوں کے لباس میں آئے، سلام کیا تو آپ نے جواب دیا، انہیں اسلام کی دعوت دی، ان لوگوں نے انکار کیا، اور آپس میں بہت گفتگو اور بحث ہوئی۔

دعوتِ مباہلہ:

آپ نے انہیں قرآن سنایا اور فرمایا کہ میں تم سے جو کچھ کہتا ہوں اگر تم انکار کرتے ہو تو آؤ میں تم سے مباہلہ کروں گا (یعنی

یہ دعا کروں گا کہ ہم دونوں میں جو فریق باطل پر ہو خدا اس پر لعنت کرے۔

اس بات پر وہ لوگ واپس گئے، صبح کو عبدالمسح اور ان میں سے دو صاحب رائے رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے، عبدالمسح نے کہا کہ ہمیں یہ مناسب معلوم ہوا ہے کہ آپ سے مباہلہ نہ کریں، آپ جو چاہیں حکم دیں، ہم مان لیں گے اور آپ سے صلح کر لیں گے۔

آپ نے ان سے دو ہزار ہتھیاروں پر (اور امور ذیل پر اس طرح صلح فرمائی کہ) ایک ہزار ہتھیار ہر رجب میں اور ایک ہزار ہر صفر میں واجب الاداء ہوں گے، اگر یمن سے جنگ ہو تو نجران کے ذمے بطور عاریت تیس زرہیں اور تیس تیزے اور تیس اونٹ اور تیس گھوڑے ہوں گے۔ نجران اور ان کے آس پاس والوں کی جان، مال، مذہب، ملک، زمین، حاضر، غائب اور ان کی عبادت گاہوں کے لیے اللہ کی پناہ اور محمد نبی رسول (ﷺ) کی ذمہ داری ہے نہ تو ان کا کوئی استغفار اپنی استغفار سے نہ کوئی راہب اپنی رہبانیت سے اور نہ کوئی وقف کرنے والا اپنے وقف سے ہٹایا جائے گا۔ اس پر آپ نے چند گواہ قائم فرمائے جن میں سے ابوسفیان بن حرب و اقرع بن حابس و مغیرہ بن شعبہ بھی تھے۔

یہ لوگ اپنے وطن واپس گئے، سید و عاقب بہت ہی کم ٹھہرنے پائے تھے کہ نبی محمد ﷺ کے پاس آگئے اور اسلام لائے، آپ نے انہیں ابویوب انصاری کے مکان پر اتارا۔

اہل نجران جو فرمان نبی ﷺ نے ان کے لیے تحریر فرمادیا تھا، آپ کی وفات تک اس کے مطابق رہے (اللہ کا سلام و صلوات و رحمت و رضوان آپ پر ہو)۔

ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے اپنی وفات کے وقت ان کے متعلق وصیت تحریر فرمائی جب یہ لوگ سودخوری میں مبتلا ہو گئے تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ملک سے انہیں نکال دیا اور ان کے لیے تحریر فرمایا کہ:

”یہ وہ فرمان ہے جو امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے نجران کے لیے تحریر فرمایا ہے کہ ان میں سے جو جائے وہ اللہ کی امان میں ہے، رسول اللہ ﷺ اور ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کے لیے جو کچھ تحریر فرمایا اس پر عمل کرتے ہوئے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، امرائے شام و عراق میں سے یہ لوگ جس کے پاس پہنچیں وہ انہیں فراخ دلی سے زمین دیں، اگر وہ اس میں کام کریں تو وہ ان کے اخلاف کے لیے صدقہ ہے، اس میں کسی کو ان پر نہ کوئی گنجائش ہے اور نہ کوئی بار، جو مسلمان ان کے پاس موجود ہو تو ان پر ظلم کرنے والے کے خلاف ان کی مدد کرنے کیونکہ یہ وہ قوم ہے جن کی ذمہ داری ہے (عراق و شام) آنے کے بعد ان کا دو سال کا جزیہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، انہیں سوائے اس جائیداد کے جس میں یہ کام کریں اور کسی چیز میں (محصول دینے کی) تکلیف نہ دی جائے گی، نہ ان پر ظلم کیا جائے گا نہ سختی کی جائے گی۔ گواہ شد۔ عثمان بن عفان و معقیب بن ابی فاطمہ۔ ان میں سے کچھ لوگ عراق پہنچے اور مقام نجرانیہ میں اترے جو نواح کوفہ میں ہے۔

(۷۳) وفد حیثان:

عمر بن شعیب سے مروی ہے کہ ابویوب الحیثانی اپنی قوم کے چند آدمیوں کے ہمراہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے،

ان لوگوں نے آپ سے یمن کی شراب کے متعلق دریافت کیا، اس ذیل میں تیج کا نام لیا جو شہد سے بنتی ہے اور مزر کا جو جو سے بنتی ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کیا تمہیں اس سے نشہ ہوتا ہے؟ عرض کی زیادہ پییں تو نشہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا قلیل بھی حرام ہے جس کے قلیل سے نشہ ہوتا ہوا نہوں نے آپ سے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا جو شراب بنائے اور اپنے کارندوں کو پلائے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہر نشہ والی چیز حرام ہے۔

(۷۴) وفد السباع، درندوں کا وفد:

مطلب بن عبد اللہ بن حطب سے مروی ہے کہ جس وقت مدینے میں رسول اللہ ﷺ اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے ایک بھیڑ یا آیا رسول اللہ ﷺ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور آواز کرنے لگا۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ درندوں کا قاصد ہے جو تمہارے پاس آیا ہے اگر تم لوگ اس کا کوئی حصہ مقرر کر دو تو اس کے علاوہ کسی چیز پر نہ بڑھے گا اور اگر تم اس کو چھوڑ دو اور اس سے بچو تو وہ جو کچھ لے لے گا اس کا رزق ہوگا۔

اصحاب نے عرض کی: یا رسول اللہ ہم تو اس کے لیے کسی چیز پر بھی راضی نہیں۔ نبی ﷺ نے اس کی طرف اپنی انگلیوں سے اشارہ فرمایا کہ ان لوگوں کے پاس سے جلدی چلا جاؤ وہ پلٹ گیا دیکھا تو بھاگ رہا تھا۔

توریت و انجیل میں ذکر رسالت مآب ﷺ:

ابن عباس سے مروی ہے کہ میں نے کعب احبار سے پوچھا کہ آپ توریت میں نبی محمد رسول اللہ ﷺ کی کیسی تعریف پاتے ہیں انہوں نے کہا:

ہم آپ کو اس طرح پاتے ہیں کہ (نام نامی) محمد بن عبد اللہ (ﷺ) مقام ولادت مکہ اور ہجرت گاہ کھجوروں کا باغ (یعنی مدینہ) ہوگا آپ کی سلطنت شام میں ہوگی نہ تو آپ (معاذ اللہ) بے ہودہ گفتار ہوں گے نہ بازاروں میں شور و غل کرنے والے بدی کا بدلہ نہ لیں گے معاف کر دیں گے اور بخش دیں گے۔

ابوصالح سے مروی ہے کہ کعب نے کہا: محمد ﷺ کی نعت توریت میں یہ ہے محمد ﷺ میرے پسندیدہ بندے ہیں نہ بد خلق ہیں نہ سخت کلام نہ بازاروں میں شور و غل کرنے والے ہیں نہ برائی کے بدلے برائی، بلکہ معاف کر دیں گے اور بخش دیں گے۔ ان کی جائے ولادت مکہ اور جائے ہجرت مدینہ ہوگی ان کی سلطنت شام میں ہوگی۔

کعب سے مروی ہے کہ ہم توریت میں یہ پاتے ہیں کہ محمد (ﷺ) نبی مختار نہ بد خلق ہوں گے نہ سخت کلام نہ بازاروں میں شور و غل کرنے والے ہوں گے برائی کے عوض برائی نہ کریں گے معاف کر دیں گے اور بخش دیں گے۔

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ ہمیں معلوم ہوا عبد اللہ بن سلام کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کی صفت توریت میں یہ

ہے کہ ”اے نبی ہم نے آپ کو شاہد (یعنی آپ کی شریعت کو موجود رہنے والا) بشارت دیئے والا اور ڈرانے والا اور انہیں کا محافظ بنا کر بھیجا ہے آپ میرے بندے اور رسول ہیں میں نے آپ کا نام متوکل (خدا پر بھروسہ کرنے والا) رکھا ہے نہ تو وہ بد غلط ہوں گے نہ سخت کلام نہ راستوں میں شور و غل کرنے والے۔ اور نہ برائی کے بدلے برائی کریں گے، لیکن معاف کر دیں گے اور درگزر کریں گے میں انہیں اس وقت تک نہ اٹھاؤں گا تا وقتیکہ ان کے ذریعے سے ٹیڑھے ہو جانے والے مذہب کو سیدھا نہ کر دوں اس طرح سے کہ لوگ ”لا الہ الا اللہ“ کہنے لگیں ان کے ذریعے سے نابینا آنکھوں کو اور بہرے کانوں کو اور غلاف چڑھے ہوئے دلوں کو کھول دوں گا۔“

کعب کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ عبد اللہ بن سلام نے سچ کہا۔

زہری سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے کہا: تو ریت میں رسول اللہ ﷺ کی کوئی نعت ایسی نہ رہی جو میں نے نہ دیکھ لی ہو سوائے حلم کے، میں نے تیس دینار ایک معینہ میعاد کے لیے آپ کو قرض دیئے تھے میں آپ کو چھوڑے رہا جب میعاد کا ایک روز رہ گیا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: اے محمد (ﷺ) میرا حق ادا کر دیجئے، اے گروہ بنی عبدالمطلب آپ لوگوں کی مال منول بہت بڑھ گئی ہے۔

عمر بنی اللہؓ نے کہا او یہودی خبیث! اگر آنحضرت ﷺ نہ ہوتے تو میں تیرا سر توڑ ڈالتا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اے ابو حفص (عمر بنی اللہؓ) خدا تمہاری مغفرت کرے، ہم دونوں کو اس کلام کے علاوہ تم سے اس امر کی ضرورت تھی کہ تم مجھے اس کا قرض ادا کرنے کا مشورہ جو مجھ پر واجب ہے دو وہ (یہودی) اس کا محتاج تھا کہ تم اس کا حق وصول کرنے میں اس کی مدد کرتے۔

یہودی نے کہا کہ میری جہالت و حق سے برابر آپ کے حلم و نرمی میں اضافہ ہی ہوتا رہا، آپ نے فرمایا اے یہودی تیرے حق کا وقت توکل ہوگا، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے ابو حفص اس کو اس باغ میں لے جاؤ جو اس نے پہلے روز مانگا تھا، اگر یہ راضی ہو جائے تو اس کو اتنے اتنے صاع دے دو، اور جو کچھ تم نے اس کو کہا ہے اس کی وجہ سے اتنے اتنے صاع زاد دے دو، اگر وہ راضی نہ ہو تو پھر یہی اس کو فلاں فلاں باغ سے دے دو۔

وہ کھجور پر راضی ہو گیا، عمر بنی اللہؓ نے اس کو وہ دیا جو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا اور اتنا زیادہ بھی جس کا آپ نے حکم دیا تھا۔ یہودی نے کھجور پر قبضہ کر لیا تو کہا ”اشہدان لا الہ الا اللہ“ و نہ رسول اللہ“ اے عمر بنی اللہؓ آپ نے مجھے جو کچھ کرتے دیکھا مجھے اس پر محض اس امر نے آمادہ کیا کہ میں نے تمام صفات مذکورہ تو ریت رسول اللہ ﷺ میں مشاہدہ کر لی تھیں صرف حلم باقی تھا، آج میں نے وہ بھی آزمایا، میں نے آپ کو تو ریت کی صفت کے مطابق پایا۔

میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ یہ کھجور اور میرے مال کا نصف حصہ تمام فقراء مسلمان پر صرف ہوگا، عمر بنی اللہؓ نے کہا کہ یا بعض فقراء پر تو اس نے کہا کہ یا بعض فقراء پر۔ اس یہودی کے تمام گھر والے اسلام لے آئے سوائے ایک صد سالہ بڑھے کہ جو اپنے کفر پر قائم رہا۔

عطاء بن یسار سے مروی ہے کہ عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے نبی ﷺ کی صفت مذکورہ توریت کو دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ”ہاں واللہ توریت میں بھی آپ کی وہی صفت بیان کی گئی ہے جو قرآن میں ہے۔ یتایہا الغیبی انا ارسلناک شاہداً ومبشراً وندیوا۔ یہی توریت میں ہے کہ اے نبی! ہم نے آپ کو شاہد و بشیر و نذیر اور بے پردہوں کا محافظ بنا کر بھیجا ہے آپ میرے بندے اور رسول ہیں میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے نہ تو بدخلق ہیں نہ سخت کلام نہ راستوں میں بکواس کرنے والے برائی کے بدلے برائی نہ کریں گے، بلکہ معاف کر دیں گے اور بخش دیں گے، میں اس وقت تک انہیں وفات نہ دوں گا تا وقتیکہ میں ان کے ذریعے سے ٹیڑھے دین کو سیدھا نہ کر دوں، بایں طور کہ لوگ ”لا الہ الا اللہ“ کہنے لگیں اس کے ذریعے سے نابینا آنکھ اور بہرے کان پائیں گے اور غلاف چڑھے ہوئے دل کو اللہ اس طرح کھول دے گا کہ وہ ”لا الہ الا اللہ“ کہنے لگیں۔

کعب احبار نے بھی یہی بیان کیا سوائے اس کے کہ ان کے الفاظ بدلے ہوئے تھے جن کے معانی یہی تھے۔

کثیر بن مرہ سے مروی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس ایسے رسول آگئے جو نہ تو ست ہیں نہ کابل وہ ان آنکھوں کو کھولیں گے جو نابینا تھیں ان کانوں کو شنوائیاں گے جو بہرے تھے ان قلوب کا پردہ چاک کریں گے جو غلاف میں تھے اور اس سنت کو سیدھا کریں گے جو کج ہو گئی تھی یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ کہا جانے لگے۔

قنادہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی نعت بعض کتب (سماویہ) میں یہ ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ نہ تو بدخلق ہوں گے نہ سخت کلام نہ بازاروں میں بکواس کرنے والے اور نہ برائی کے عوض برائی کرنے والے بلکہ معاف کریں گے اور درگزر کریں گے ان کی امت ہر حال میں حمد (وشکر) کرنے والی ہوگی۔

ابن عباس سے ”فاسئلوا اہل الذکر“ کی تفسیر میں مروی ہے کہ ”فاسئلوا“ (دریافت کرلو) کا خطاب مشرکین قریش سے ہے کہ تم یہود و نصاریٰ سے پوچھ لو کہ رسول اللہ ﷺ کا ذکر توریت و انجیل میں ہے یا نہیں۔

قنادہ سے اس آیت ”ان الذین یکتہبون ما انزلنا من البینات والہدای الاۃ“ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی ہدایت و دلائل کو چھپاتے ہیں کی تفسیر میں مروی ہے کہ یہ یہود ہیں۔ جنہوں نے محمد ﷺ کو چھپایا، حالانکہ ”وہم یجدونہ مکتوبہ عندہم فی التورۃ والانجیل“ (وہ انہیں اپنے یہاں توریت و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں) ”وعلینہم اللعنون“ (اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں) یعنی اللہ کے ملائکہ و مومنین۔

عیزار بن حریش سے مروی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کے متعلق انجیل میں لکھا ہے کہ نہ بدخلق ہوں گے نہ سخت کلام نہ بازاروں میں بکواس کرنے والے اور نہ برائی کے بدلے برائی کریں گے بلکہ معاف کریں گے اور درگزر کریں گے۔

سہل مولائے حمیریہ سے مروی ہے کہ وہ اہل مریش کے نصرانی تھے اور اپنی والدہ اور چچا کی پرورش میں یتیم تھے وہ انجیل پڑھا کرتے تھے۔

انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے چچا کا نسخہ (انجیل) لیا اور اسے پڑھا جب میرے سامنے ایک ورق گزرا تو مجھے اس کی تحریر

سے تعجب ہوا۔ میں نے اسے اپنے ہاتھ سے چھوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان اوراق کے کچھ حصے لٹی سے جوڑے ہوئے ہیں۔

میں نے انہیں چاک کیا تو اس میں محمد ﷺ کی نعت پائی کہ ”نہ تو آپ پست قامت ہوں گے نہ بلند بالا“ گورے ہوں گے اور کالیں ہوں گی، دونوں شانوں کے درمیان مہر ہوگی، وہ بکثرت زانو سمیٹ کر بیٹھیں گے، اور صدقہ قبول نہ کریں گے، گدھے اور اونٹ پر سوار ہوں گے، بکری کا دودھ دوہیں گے، پیوند دار کرتہ پہنیں گے، جو ایسا کرے وہ تکبر سے بری ہے اور وہ ایسا کریں گے۔ وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہوں گے ان کا نام احمد ہوگا۔

جب میں ذکر محمد ﷺ کے اس مقام تک پہنچا تو میرے چچا آگئے، انہوں نے ان اوراق کو دیکھا تو مجھے مارا اور کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو ان اوراق کو کھولتا اور پڑھتا ہے میں نے کہا کہ اس میں احمد نبی ﷺ کی نعت ہے، انہوں نے کہا کہ وہ ابھی تک نہیں آئے۔



خصائل نبوی کا دل آویز نظارہ

پیکر خلق عظیم کے اخلاق بزبان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا:

حسن بصری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ ﷺ کے اخلاق دریافت کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے اخلاق بس قرآن تھے (یعنی بالکل قرآن کے مطابق تھے)۔

مسروق بن الابدع سے مروی ہے کہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کے اخلاق بیان کیجئے انہوں نے کہا کہ کیا تم عرب نہیں ہو جو قرآن کو پڑھو؟ میں نے کہا کہ ہوں کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ قرآن ہی آپ کے اخلاق تھے۔

سعید بن ہشام سے مروی ہے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ مجھے رسول اللہ ﷺ کے اخلاق سے آگاہ کیجئے انہوں نے کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کے اخلاق قرآن تھے۔ قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قرآن انسان کے لیے بہترین اخلاق لایا ہے۔

حسن سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کے اصحاب کا ایک گروہ جمع ہوا اور کہا کہ کاش ہم لوگ امہات المؤمنین کے پاس جاتے ان سے وہ اعمال دریافت کرتے جو لوگوں نے نبی محمد ﷺ کی طرف منسوب کیے ہیں۔ شاید ہم لوگ اس کی پیروی کرتے۔ ان لوگوں نے ان کے پاس پھر انہیں بھیجا، مگر قاصداً ایک ہی بات لایا کہ تم لوگ اپنے نبی ﷺ کے اخلاق دریافت کرتے ہو؟ آپ کے اخلاق قرآن تھے؟ آپ رات گزارتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور سوتے تھے، روزہ رکھتے تھے اور روزہ نہیں بھی رکھتے تھے، اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتے تھے۔

انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اخلاق میں سب سے بہتر تھے۔

ابی عبد اللہ الحدادی سے مروی ہے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ کے اخلاق اپنے گھر میں کیسے تھے؟ انہوں نے کہا کہ آپ سب سے بہتر اخلاق کے تھے، نہ تو خود حد سے بڑھتے تھے اور نہ دوسروں کو فحش بات سناتے تھے نہ آپ راستوں میں بکواس کرنے والے تھے؟ آپ بدی کے عوض بدی نہیں کرتے تھے بلکہ معاف کرتے اور درگزر فرماتے تھے۔

مسروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا: رسول اللہ ﷺ نہ خود حد سے بڑھتے تھے نہ کسی کو فحش بات سناتے تھے۔

خارجہ بن زید بن ثابت سے مروی ہے کہ کچھ لوگ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ: ہم سے رسول اللہ ﷺ کے اخلاق بیان کیجئے، انہوں نے کہا کہ میں تو آنحضرت ﷺ کا پڑوسی تھا میں تم سے کیا کیا بیان کروں۔ جب آپ پر وحی نازل ہوتی

تھی تو آپ مجھے بلا بھیجتے تھے اور میں اسے آپ کو لکھ دیتا تھا۔ ہم لوگ جب دنیا کا ذکر کرتے تھے تو آپ بھی ہمارے ساتھ اس کا ذکر کرتے تھے تو کیا میں آنحضرت ﷺ کی یہ سب باتیں تم سے بیان کروں۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ان سے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ ﷺ جب اپنے گھر میں تنہا ہوتے تھے تو کیوں کر رہتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ آپ سب سے زیادہ نرم اور سب سے زیادہ صاحب کرم تھے تمہارے مردوں میں سے ایک مرد تھے۔ سوائے اس کے کہ آپ ہنسنے والے اور تبسم کرنے والے تھے۔

اسود سے مروی ہے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے متعلقین کی خدمت میں مشغول رہتے تھے جب نماز کا وقت آتا تھا تو نکل کر نماز پڑھتے تھے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا گیا کہ نبی ﷺ اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ جو تم میں سے کوئی کرتا ہے۔ اپنے کپڑے میں پیوند لگاتے تھے اور جوتا نکلتے تھے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ اپنے گھر میں کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اپنا کپڑا اسیتے تھے جوتا نکلتے تھے اور وہ کام کرتے تھے جو مرد اپنے گھروں میں کیا کرتے ہیں۔

اسود سے مروی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ ﷺ اپنے متعلقین میں کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے متعلقین کی خدمت میں مشغول رہتے تھے جب نماز کا وقت آتا تھا تو نماز کو چلے جاتے تھے۔

ابن شہاب سے مروی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ گھر کے کام کاج کیا کرتے تھے زیادہ تر آپ سلمائی کرتے تھے۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو جب کبھی ایسی دو باتوں میں اختیار دیا جاتا تھا جن میں سے ایک آسان ہوتا تو آپ اسی کو اختیار فرماتے تھے جو آسان ہو۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو جب دو باتوں میں اختیار دیا جاتا تھا تو آپ ان میں سے آسان کو اختیار فرماتے تھے۔ بشرطیکہ وہ گناہ نہ ہو۔ اور اگر وہ گناہ ہوتا تو آپ سب سے زیادہ اس سے دور رہنے والے تھے اور رسول اللہ ﷺ نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا سوائے اس کے کہ اللہ کی حرمت کو توڑا جائے تو آپ اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو جب کبھی دو باتوں میں اختیار دیا گیا تو آپ نے ان میں سے آسان کو اختیار فرمایا۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کسی مسلمان پر ایسی کوئی لعنت نہیں کی جو یاد کی جائے نہ آپ نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے مارا سوائے اس کے کہ آپ جہاد فی سبیل اللہ میں مارتے تھے۔

کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ نے اس سے انکار کیا ہو۔ سوائے اس کے کہ آپ سے گناہ کا سوال کیا جائے تو بے شک آپ سب سے زیادہ دور رہنے والے تھے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو دو باتوں میں اختیار دیا گیا ہو اور

آپؐ نے ان میں سے آسان ترکونہ اختیار فرمایا ہو۔ جب جبریل علیہ السلام سے درس قرآن کا زمانہ قریب ہوتا تھا تو آپؐ خیر میں تیز آندھی سے زیادہ سختی ہوتے تھے۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نہ اپنے خادم کو مارا نہ عورت کو اور نہ کبھی کسی اور کو سوائے اس کے کہ آپؐ جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوں۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نہ اپنے خادم کو مارا نہ عورت کو اور نہ کبھی کسی اور کو سوائے اس کے کہ آپؐ جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوں آپؐ کو جب کبھی دو باتوں میں اختیار دیا گیا تو ان میں آپؐ کو سب سے زیادہ پسندیدہ آسان تر بات ہوتی تھی بشرطیکہ وہ گناہ نہ ہو گناہ کی صورت میں آپؐ اس سے سب سے زیادہ دور رہنے والے تھے کبھی کوئی بات آپؐ کے ساتھ کی گئی تو آپؐ نے اپنی ذات کے لیے اس کا انتقام نہیں لیا تا وقتیکہ اللہ کی حرمت نہ توڑی جائیں اس وقت بے شک آپؐ اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے۔

ایک اور روایت کا بھی یہی مضمون ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے اخلاق حسنہ کے نادر نمونے:

علی بن الحسین (زین العابدین) سے مروی ہے کہ نہ تو رسول اللہ ﷺ نے کبھی کسی عورت کو مارا نہ خادم کو آپؐ نے اپنے ہاتھ سے کبھی کسی کو نہیں مارا۔ سوائے اس کے کہ آپؐ جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوں۔

ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک کنواری لڑکی اپنے پردے میں جتنی حیا کرتی ہے رسول اللہ ﷺ اس سے بھی زیادہ حیا دار تھے آپؐ جب کوئی بات ناپسند فرماتے تھے تو ہم اس کو آپؐ کے چہرے سے محسوس کر لیتے تھے۔

عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ جب کوئی مجرم غیر حد میں لایا جاتا تھا تو آپؐ اسے ضرور معاف کر دیتے تھے۔

جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی ﷺ سے کچھ مانگا گیا ہو اور آپؐ نے ”نہیں“ فرمایا ہو۔

محمد بن الحنفیہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کبھی کسی چیز کے لیے ”نہیں“ نہیں فرماتے تھے جب آپؐ سے درخواست کی جاتی تھی اور آپؐ کرنا چاہتے تھے تو ”ہاں“ فرماتے تھے اور جب نہیں کرنا چاہتے تھے تو سکوت فرماتے تھے آپؐ کی یہ بات مشہور تھی۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ خیر میں سب سے زیادہ سختی تھے رمضان میں جب آپؐ کی ملاقات جبریل سے ہوتی تھی تو آپؐ سب اوقات سے زیادہ سختی ہوتے تھے رمضان میں جبریل ختم ماہ تک ہر شب کو آپؐ سے ملتے تھے اور رسول اللہ ﷺ انہیں قرآن سناتے تھے جب جبریل آپؐ سے ملتے تھے تو آپؐ آندھی سے زیادہ خیر میں سختی ہو جاتے تھے۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نہ تو گالی دیتے تھے نہ فحش بات فرماتے تھے اور نہ لعنت کرتے تھے ہم میں سے کسی سے ناخوشی کے وقت یہ فرماتے تھے کہ ”اے کیا ہوا یا اس کی پیشانی خاک آلود ہو“۔

زیاد بن ابی زیاد سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی دو خصلتیں تھیں جن کو آپ کسی کے سپرد نہ کرتے تھے رات کا وضو جب آپ اٹھتے تھے اور سائل کھڑا رہتا تھا یہاں تک کہ آپ اس کو دیتے تھے۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ مجھ سے بیان کیا گیا کہ رسول اللہ ﷺ کو کبھی نہ دیکھا گیا کہ آپ بیت الخلاء سے نکلے ہوں اور وضو نہ کیا ہو۔

نہب بنت جحش (زوجہ مطہرہ) سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو میری زرد لگن سے وضو کرنا بہت پسند تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو جب دو باتوں میں اختیار دیا گیا تو آپ نے ان میں سے آسان ترکو اختیار فرمایا۔ رسول اللہ ﷺ نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا سوائے اس کے کہ آپ کو اللہ کے بارے میں ایذا دی جائے تو آپ انتقام لیتے تھے۔

میں نے رسول اللہ ﷺ کو نہیں دیکھا کہ آپ خیرات سوائے اپنے کسی اور کے سپرد کرتے ہوں (یعنی سائل کو اپنے دست مبارک سے عطا فرماتے تھے کسی خادم سے نہیں دلواتے تھے) یہاں تک کہ آپ خود ہی اس صدقے کو سائل کے ہاتھ میں رکھتے تھے۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کو نہیں دیکھا کہ آپ نے اپنے وضو (کا پانی لانے) کو کسی کے سپرد کیا ہو آپ خود ہی اسے مہیا کرتے تھے یہاں تک کہ رات کی نماز (تہجد) پڑھتے تھے۔ (جب بھی کسی سے پانی نہیں منگاتے تھے)۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ نبی ﷺ گدھے پر بھی سوار ہوتے تھے اور غلام کے پکارنے کا جواب دیتے تھے۔ جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ (پکارنے کا) جواب دیتے تھے۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ گدھے پر سوار ہوتے تھے اپنے پیچھے (کسی کو) سوار بھی کر لیتے تھے اور غلام کی پکار بھی سنتے تھے۔

حزہ بن عبد اللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ میں وہ خصلتیں تھیں جو ظالم (امراء) میں نہیں ہوتیں آپ کو جو سرخ یا سیاہ آدی پکارتا تھا آپ اسے ضرور جواب دیتے تھے اکثر آپ گری پڑی کھجور پاتے تھے تو (اللہ کی نعمت سمجھ کر) لے لیتے تھے اور اپنے منہ تک لے جاتے تھے۔ آپ کو یہ اندیشہ ہوتا تھا کہ صدقے (زکوٰۃ) کی نہ ہو (تو پھر نوش نہیں فرماتے تھے) آپ گدھے کی ننگی پیٹھ پر بھی سوار ہوتے تھے جس پر کوئی چیز نہ ہوتی تھی۔

شعیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ گدھے کی ننگی پیٹھ پر بھی سوار ہوئے ہیں۔

راشد بن سعد المقرنی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے غلام کے پکارنے کا بھی جواب دیا ہے۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ غلام کی پکار کا بھی جواب دیا کرتے تھے۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ مریض کی عیادت کرتے تھے جنازے میں شریک ہوتے تھے گدھے پر سوار ہوتے تھے اور غلام کی پکار پر آ جاتے تھے میں نے جنگ خیبر میں آپ کو ایک گدھے پر دیکھا جس کی باگ کھجور کی چھال کی تھی۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ زمین پر بیٹھا کرتے تھے زمین پر کھاتے تھے غلام کی دعوت قبول

کرتے تھے، فرماتے تھے اگر مجھے دست (کے گوشت) کی دعوت دی جائے تو ضرور قبول کروں، اور اگر مجھے کرلی (کا گوشت) ہدیے کے طور پر دیا جائے تو ضرور قبول کروں، آپ اپنی بکری بھی (اپنے ہاتھ سے) باندھتے تھے۔

یحییٰ بن ابی کثیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں اسی طرح کھاتا ہوں جس طرح غلام کھاتا ہے اور اسی طرح بیٹھتا ہوں جس طرح غلام بیٹھتا ہے، کیونکہ میں تو (اللہ کا) غلام ہی ہوں، نبی ﷺ روزانو بیٹھا کرتے تھے۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اصحاب رسول اللہ ﷺ کی ایک جماعت نے نبی ﷺ سے خفیہ طور پر آپ کے عمل کو دریافت کیا تو انہوں نے ان لوگوں کو خبر دی، ان میں سے بعض نے کہا کہ میں عورتوں سے نکاح نہ کروں گا۔ بعض نے کہا میں گوشت نہ کھاؤں گا، بعض نے کہا کہ میں بستر پر نہ سوؤں گا، بعض نے کہا کہ میں روزہ رکھوں گا اور روزہ ترک نہ کروں گا۔

نبی ﷺ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اس کے بعد فرمایا کہ ان جماعتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے فلاں فلاں بات کہی، میں تو نماز پڑھتا ہوں، سوتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، ترک بھی کرتا ہوں، اور عورتوں سے نکاح کرتا ہوں، پس جو میری سنت سے منہ پھیرے وہ میرا نہیں ہے۔

سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ مجھ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اس امت میں سب سے بہتر وہ ہے جس کی سب سے زیادہ بیویاں ہوں۔

حسن سے مروی ہے کہ جب اللہ نے محمد ﷺ کو مبعوث کیا تو فرمایا یہ میرے نبی ہیں، یہ میرے پسندیدہ ہیں، ان سے محبت کرو، ان کی سنت اور ان کے طریقے کو اختیار کرو، جن پر دروازے بند نہیں کیے جاتے اور نہ جن کے آگے دربان کھڑے ہوتے ہیں (یعنی ان کی زندگی شاہانہ نہ ہوگی) نہ ان کے پاس صبح کو کھانے کے طباق لائے جاتے ہیں نہ شام کو۔ (یعنی بادشاہوں کی طرح لوگ نذرانہ نہیں دیتے بلکہ فاتے پر فاتے ہوتے ہیں، وہ زمین پر بیٹھتے ہیں، اپنا کھانا بھی زمین ہی پر کھاتے ہیں اور موٹا جھوٹا کپڑا پہنتے ہیں، گدھے پر سوار ہوتے ہیں، اپنے پیچھے بھی کسی کو سوار کر لیتے ہیں (یعنی اپنے ساتھ بٹھانے میں عار نہیں کرتے جیسا کہ امراء کرتے ہیں) آپ (کھانے کے بعد) اپنی انگلیاں چاٹ لیتے ہیں۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو میری سنت سے منہ پھیرے گا وہ میرا نہیں ہے۔

سماک بن حرب سے مروی ہے کہ میں نے جابر بن سمرہ سے کہا کہ کیا آپ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا ہاں، اور آپ بہت خاموش رہنے والے آدمی تھے، آپ کے اصحاب اشعار پڑھا کرتے تھے، زمانہ جاہلیت کی باتوں کا ذکر کرتے تھے اور ہنستے تھے، جب وہ ہنستے تھے تو رسول اللہ ﷺ مسکراتے تھے۔

جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سو مرتبہ سے زیادہ بیٹھا ہوں، مسجد میں آپ کے اصحاب اشعار پڑھا کرتے اور زمانہ جاہلیت کی باتیں بیان کرتے، رسول اللہ ﷺ بھی اکثر تبسم فرمادیتے۔

عبداللہ بن الحارث بن جزء الزبیدی سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے زیادہ تبسم کرتے ہوئے کسی کو نہیں

دیکھا۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے زیادہ نہ کسی سخی کو دیکھا نہ شجاع نہ بہادر نہ پاک و صاف۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ سخی تھے ایک شب کو اہل مدینہ گھبرائے تو رسول اللہ ﷺ آواز کی طرف تشریف لے گئے۔ رسول اللہ ﷺ اہل مدینہ سے ملے حالانکہ آپ ان سب کے آگے تھے اور فرما رہے تھے کہ ہرگز نہ ڈرو۔ آپ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی تنگی پیٹھ پر تھے گلے میں تلوار تھی، لوگوں سے فرمانے لگے کہ ہرگز نہ ڈرو اور آپ نے فرمایا کہ ہم نے اس گھوڑے کو دیا پایا۔

بکر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک گھوڑے پر سوار ہوئے اسے تیز دوڑایا اور فرمایا کہ ہم نے اسے دریا

پایا۔

قوت مردانہ:

صفوان بن سلیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جبریل ایک ہانڈی لائے میں نے اس میں سے کھایا تو مجھے جماع میں چالیس مردوں کی قوت دی گئی۔

مجاہد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو چالیس مردوں کی قوت دی گئی تھی، جنت کے ہر شخص کو اسی مردوں کی قوت دی جائے گی۔

طاؤس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو جماع میں چالیس مردوں کی قوت دی گئی تھی۔ ابو جعفر محمد بن رکانہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ انہوں نے نبی ﷺ سے کشتی لڑی۔ نبی ﷺ نے انہیں پچھاڑ دیا، میں نے نبی ﷺ کو فرماتے سنا کہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان ٹوپوں پر عمامے باندھنے کا فرق ہے (یعنی مشرکین بغیر ٹوپی کے عمامہ باندھتے ہیں اور ہم ٹوپی پر)۔

اپنی ذات سے قصاص لینے کا موقع:

عمر بن شعیب سے مروی ہے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ شام میں آئے تو ان کے پاس ایک شخص آیا جو ان سے اس امیر (حاکم) کے خلاف فیصلہ کرانا چاہتا تھا جس نے اسے مارا تھا، عمر رضی اللہ عنہ نے اس (حاکم) کے بیڑیاں ڈالنا چاہیں تو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا آپ اس کی وجہ سے اس کے بیڑیاں ڈالتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا تب تو ہم آپ کے کسی عہدے پر کام نہ کریں گے۔

عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس کی وجہ سے قید کرنے میں پرواہ نہیں کرتا، میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہے کہ آپ اپنی ذات سے قصاص لینے کا موقع دیتے تھے، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا تو کیا ہم اسے راضی کر دیں انہوں نے کہا کہ تم چاہو تو اسے راضی کر دو۔

عطاء سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خدشہ کو اپنی ذات سے قصاص لینے کا موقع دیا۔ سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ نبی ﷺ اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم نے اپنی اپنی ذات سے قصاص لینے کا موقع دیا۔

حسن گفتار:

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ تم لوگوں کی طرح پے در پے (تیزی سے) کلام نہیں فرماتے تھے آپؐ جدا جدا جملوں سے کلام فرماتے تھے، جس کو ہر سننے والا یاد کر لیتا تھا۔

جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے کلام میں ترتیل و ترسیل تھی (یعنی جملوں کی ترتیب نہایت خوبی سے ہوتی تھی اور بہت ٹھہر ٹھہر کر بیان فرماتے تھے)۔

قراءت اور خوش الحانی:

ابراہیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی قراءت آپؐ کی ریش مبارک کی حرکت سے معلوم ہو جاتی تھی۔

ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی قراءت اس طرح تھی انہوں نے ”بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمد للہ رب العالمین“ کے ایک حرف کا طریقہ بتایا۔

قنادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انس رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ ﷺ کی قراءت کی کیفیت دریافت کی گئی تو انہوں نے کہا کہ آپؐ کی قراءت مد تھی، پھر کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپؐ بسم اللہ کو الرحمن کو اور الرحیم کو کھینچتے تھے (مد کرتے تھے)۔

قنادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ نے کوئی نبی مبعوث نہیں کیا جو خوبصورت اور خوش آواز نہ ہو، یہاں تک کہ اللہ نے تمہارے نبی ﷺ کو مبعوث کیا تو آپؐ کو بھی خوبصورت و خوش آواز بنا کر بھیجا، آپؐ (قراءت میں) لحن نہیں کرتے تھے مگر کسی قدر مد (یعنی دراز) کرتے تھے۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ تین دن سے کم میں قرآن نہیں پڑھتے تھے۔

انداز خطابت:

جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب لوگوں سے خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو آپؐ کی دونوں آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں، آپؐ آواز کو بلند کرتے تھے، اپنے غضب کو تیز کرتے تھے، گویا آپؐ کسی ایسے لشکر سے ڈرارہے ہیں جو صبح یا شام کو آنے والا ہے اس کے بعد فرماتے تھے کہ میں اور قیامت اس طرح مبعوث ہوئے ہیں، آپؐ کلمے کی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ فرماتے تھے پھر فرماتے تھے کہ بہترین ہدایت محمد (ﷺ) کی ہدایت ہے، سب سے بری بات وہ ہے جو (دین میں) ایجاد ہو، ہر بدعت (یعنی نو ایجاد) گمراہی ہے، جو مر جائے اور مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے متعلقین کا ہے، قرض یا جائیداد چھوڑ جائے تو وہ میرے سپرد ہوگا اور میرے ذمے ہوگا۔

عامر بن عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی ﷺ اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔

باکمال اخلاق کا بے مثال شاہکار:

ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے اللہ جس طرح تو نے میری پیدائش اچھی کی اسی طرح

میرے اخلاق بھی اچھے کر دے۔

مروقؓ سے مروی ہے کہ میں عبد اللہ بن عمرؓ کے پاس گیا، وہ کہہ رہے تھے کہ تمہارے نبی ﷺ نہ تو بدخلق تھے نہ فحش گو، آپؐ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے اچھے اخلاق کا ہو۔

ابن عباس وعائشہؓ سے مروی ہے کہ جب رمضان آتا تھا تو رسول اللہ ﷺ ہر قیدی کو رہا کر دیتے تھے اور ہر سائل کو دیتے تھے۔

اسماعیل بن عیاشؓ سے مروی ہے کہ لوگوں کے گناہوں پر سب سے زیادہ صابر رسول اللہ ﷺ ہی تھے۔ ابراہیم بن میسرہؓ سے مروی ہے کہ عائشہؓ نے کہا رسول اللہ ﷺ کو جھوٹ سے زیادہ کوئی عادت ناگوار نہ تھی، جب کبھی آپؐ کو صحابہؓ کے ادنیٰ سے جھوٹ کی بھی اطلاع ہو جاتی تھی تو آپؐ ان سے رک جاتے تھے یہاں تک کہ آپؐ کو معلوم ہو جاتا کہ انہوں نے توبہ کر لی ہے۔

انس بن مالکؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے جب کوئی شخص ملتا تھا اور آپؐ سے مصافحہ کرتا تھا تو آپؐ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے تھے تاوقتیکہ وہ شخص خود ہی اس کو نہ پھیرے، رسول اللہ ﷺ کو اپنے ہم نشین کے آگے پاؤں پھیلاتے کبھی نہیں دیکھا گیا۔

مولائے انس بن مالکؓ سے مروی ہے کہ میں دس سال رسول اللہ ﷺ کی صحبت میں رہا میں نے تمام عطر سونگھے مگر رسول اللہ ﷺ کی خوشبو سے زیادہ اچھی کوئی خوشبو نہیں سونگھی رسول اللہ ﷺ کے اصحاب میں سے جب کوئی شخص آپؐ سے ملتا تھا اور آپؐ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا تو آپؐ کا ہاتھ پکڑ لیتا تھا تو آپؐ بھی اس کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور اپنا ہاتھ نہ کھینچتے تھے تاوقتیکہ وہ خود اپنے ہاتھ کو نہ کھینچ لے۔ جب آپؐ اصحاب میں سے کسی سے ملتے تھے اور وہ (چپکے سے بات کہنے کو) آپؐ کا کان لے لیتے تھے تو آپؐ بھی ان کا کان لے لیتے تھے، پھر اس کو نہ چھڑاتے تھے تاوقتیکہ وہ خود نہ چھڑائیں۔

عکرمہؓ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کے پاس جب کوئی شخص آتا تھا اور آپؐ اس کے چہرے پر خوشی دیکھتے تھے تو اس کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے۔

سعید المعمریؓ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ جب کوئی عمل کرتے تھے تو اسے قائم رکھتے تھے یہ نہیں کہ کبھی کریں اور کبھی چھوڑ دیں۔

حسن رفتار:

سیار بن ابی الحکمؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب چلتے تھے تو ایک بازار والے کی طرح چلتے تھے نہ تو تھکے ہوئے معلوم ہوتے تھے اور نہ عاجز۔

ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ میں ایک جنازے میں رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ تھا جب چلتا تھا تو آپؐ میرے آگے ہو جاتے تھے میں ایک شخص کی طرف متوجہ ہوا جو میرے پہلو میں تھے، اور کہا کہ آنحضرت کے لیے ابراہیم خلیلؑ کی طرح تو زمین لپیٹ دی جاتی ہے۔

جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب چلتے تھے تو ادھر ادھر نہ دیکھتے تھے اکثر آپ کی چادر درخت یا کسی اور چیز میں اٹک جاتی تھی مگر آپ پلٹتے نہ تھے لوگ ہنستے تھے اور وہ آپ کے پلٹنے سے بے خوف تھے۔

زید بن مرثد سے مروی ہے کہ میں نے نبی ﷺ سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں دیکھی، گویا آفتاب ہے جو اپنے سامنے جاتا ہے اور نبی ﷺ سے زیادہ تیز رفتار کسی کو نہیں دیکھا گویا زمین آپ کے لیے پیٹ دی جاتی تھی، ہم لوگ کوشش کرتے تھے (کہ آپ کے ساتھ چلیں) حالانکہ آپ (تیز چلنے کی) کوشش نہیں کرتے تھے۔

آداب طعام:

اسحاق بن عیسیٰ نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ کو تکیہ لگا کر کھاتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ نہ آپ کے نشان قدم پر کوئی چل سکتا تھا۔

ابو حنیفہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں تکیہ لگا کر نہیں کھاتا۔

عطاء بن یسار سے مروی ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی ﷺ کے پاس آئے اور آنحضرت ﷺ کے بالائی قطعہ (عوالی) میں تکیہ لگا کر کھانا کھا رہے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ یا محمد (ﷺ) بادشاہوں کی طرح؟ رسول اللہ ﷺ بیٹھ گئے۔

زہری سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کے پاس ایک فرشتہ آیا جو اس کے قبل آپ کے پاس نہیں آیا تھا اس کے ہمراہ جبریل علیہ السلام بھی تھے اس فرشتے نے کہا اور جبریل علیہ السلام خاموش رہے کہ آپ کا رب آپ کو اس میں اختیار دیتا ہے کہ آپ نبی و بادشاہ ہوں یا نبی و بندہ۔ نبی ﷺ نے جبریل کی طرف ان سے مشورہ طلب کرنے والے کی طرح دیکھا جبریل نے مشورہ دیا کہ آپ تواضع کیجئے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ نبی و بندہ ہونا مجھے پسند ہے۔

زہری نے کہا کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نبی ﷺ نے جب سے یہ کلمہ فرمایا کبھی تکیہ لگا کر نہیں کھایا یہاں تک کہ دنیا کو چھوڑ گئے۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے ان سے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ عنہا اگر میں چاہتا تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلتے۔ میرے پاس ایک فرشتہ آیا جس کی تہ کی گرہ کعبے کے برابر تھی اور کہا کہ آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ نبی و بادشاہ بننا چاہیں (تو میں بتا دوں) اور اگر نبی و بندہ بننا چاہیں (تو میں بتا دوں) جبریل نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ تواضع کیجئے میں نے کہا کہ نبی و بندہ (بننا چاہتا ہوں)۔

عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اس کے بعد نبی ﷺ تکیہ لگا کر نہیں کھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں اسی طرح کھاتا ہوں جس طرح بندہ کھاتا ہے اور اس طرح بیٹھتا ہوں جس طرح بندہ بیٹھتا ہے۔

کعب بن عجرہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو تین انگلیوں سے کھاتے دیکھا، انگوٹھے سے اور جو اس کے متصل ہے اور بیچ کی انگلی سے میں نے آپ کو دیکھا کہ جب آپ انگلیوں کے پونچھنے کا ارادہ کرتے تھے تو قبل اس کے کہ انہیں پوچھیں اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹتے تھے پہلے بیچ کی انگلی چاٹتے تھے پھر اس کے قریب والی پھر انگوٹھا۔

ابن امامہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ میرے رب نے میرے سامنے پیش کیا کہ وہ میرے لیے مکے کی کنکریاں کو سونا بنادے میں نے کہا کہ اے میرے رب نہیں میں ایک روز بھوکا رہوں گا اور ایک روز پیٹ بھروں گا (یہ آپؐ نے تین مرتبہ یا اسی کے قریب فرمایا) جب بھوکا ہوں گا تو تیرے آگے عاجزی کروں گا اور تجھے یاد کروں گا جب پیٹ بھروں گا تو تیری حمد کروں گا اور شکر کروں گا۔
اخلاق نبوی پر حضرت انس رضی اللہ عنہ کی گواہی:

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے مجھے ایک کام سے بھیجا میں نے لڑکوں کو دیکھا تو ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ نبی ﷺ آئے اور آپؐ نے لڑکوں کو سلام کیا۔
ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے اپنی ایک کنیز کو بھیجا اس نے دیر کی تو آپؐ نے فرمایا کہ اگر قصاص (کا اندیشہ) نہ ہوتا تو میں تجھے اس مسواک سے مارتا۔

انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے دس سال رسول اللہ ﷺ کی خدمت کی مگر کبھی نہیں دیکھا کہ آپؐ نے ہم نشینوں کے گھٹنوں کی طرف پاؤں پھیلانے ہوں نہ ایسا ہوا کہ کسی نے آپؐ سے مصافحہ کیا ہو اور آپؐ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا ہو یہاں تک کہ وہ شخص خود ہی آپؐ سے جدا ہو جاتا تھا نہ ایسا ہوا کہ کوئی شخص آپؐ کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہو پھر آپؐ اس سے ہٹ گئے ہوں تا وقتیکہ وہ شخص خود نہ بٹے میں نے جو کام کیا اس کے متعلق آپؐ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ لایا یہ کیوں کیا نہ یہ فرمایا کہ تم نے یہ اور یہ کیوں نہ کیا میں نے عطر سونگھا ہے مگر کوئی خوشبو رسول اللہ ﷺ کی خوشبو سے زیادہ اچھی نہیں سونگھی کبھی ایسا نہ ہوا کہ کسی نے آپؐ کی طرف (خفیہ بات کے لیے) کان جھکایا ہو اور آپؐ نے اپنا سر ہٹا لیا ہو۔ تا وقتیکہ وہ خود نہ ہٹ گیا ہو۔
رسول اللہ ﷺ کا اشعار پڑھنا:

حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ مثل کے طور پر یہ شعر پڑھ رہے تھے:

کفی بالاسلام والشیب للمرء ناھیا

”یعنی آدمی کو اسلام اور ضعیفی (بدی سے) روکنے کے لیے کافی ہے۔“

ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: یا رسول اللہ شاعر نے تو اس طرح کہا ہے:

کفی الشیب والاسلام للمرء ناھیا

”ضعیفی اور اسلام انسان کو بدی سے روکنے کے لیے کافی ہے۔“

پھر بھی رسول اللہ ﷺ یہی فرماتے تھے:

کفی بالاسلام والشیب للمرء ناھیا

ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپؐ اللہ کے رسول ہیں نہ تو آپؐ کو شعر کا علم ہے اور نہ یہ آپؐ کے لیے مناسب ہے۔

عمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا گیا کہ آپؐ نے کبھی رسول اللہ ﷺ کو بطور مثل شعر پڑھتے

سنا تو انہوں نے کہا کہ جب آپ ﷺ اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے تو کبھی کبھی یہ شعر پڑھتے تھے:

وَبَاتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ يُؤَدِّ

”اور تیرے پاس وہ شخص خبریں لائے گا جس کو تردد نہیں۔“

اخلاق کریمانہ میں حیا کا پہلو:

یحییٰ بن عبید اللہ کھضمی نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ پیشاب کے لیے اسی طرح تکیہ لگاتے تھے جس طرح مکان (میں بیٹھنے) کے لیے۔

مقداد بن شریح نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کی قسم کھا کر بیان کرتے سنا کہ جب سے رسول اللہ ﷺ پر قرآن نازل ہوا کسی نے آپ کو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے نہیں دیکھا۔

حبیب بن صالح سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب مقام استراحت میں داخل ہوتے تھے تو اپنا جوتہ پہن لیتے تھے اور اپنا سر ڈھانک لیتے تھے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ (استنجاء سے) نکل کر پانی بہا دیا کرتے تھے پھر مٹی سے مسح (تیمم) کرتے تھے میں کہتا تھا کہ یا رسول اللہ پانی تو آپ کے قریب ہے فرماتے تھے کیا معلوم شاید میں اس کے پاس نہ پہنچوں۔
مولائے عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے کبھی رسول اللہ ﷺ کی شرمگاہ نہیں دیکھی۔
انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ بیت الخلاء میں جاتے تھے تو تا وقتیکہ اس مقام کے قریب نہ ہو جائیں جس کا ارادہ ہوتا تھا آپ اپنے کپڑے نہ اٹھاتے تھے۔

کثرت عبادت:

مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اتنی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں پرورم آ جاتا تھا آپ سے (کی کو) کہا جاتا تو فرماتے تھے کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔

ابوسلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات نہ ہوئی تا وقتیکہ آپ کی اکثر نماز بیٹھ کر نہ ہو گئی آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نزدیک وہ عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے جو ہمیشہ ہوا اگرچہ کم ہو۔

پانی پینے کا نبوی انداز:

ثمامہ بن عبد اللہ بن انس سے مروی ہے کہ انس برتن میں (پانی پیتے وقت) دو یا تین مرتبہ سانس لیتے تھے۔ اور بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کو برتن میں تین مرتبہ سانس لیتے دیکھا گیا۔

انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ پانی پینے میں تین مرتبہ سانس لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ زیادہ خوش گوار مبارک اور نیک ہے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا لہذا میں بھی پینے میں تین مرتبہ سانس لیتا ہوں۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب پیاسے ہوتے تھے تو اپنی آواز پست کر دیتے تھے اور چہرہ ڈھانک

لیتے تھے۔

قابل رشک اورائیں:

عطاء سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ہم گروہ انبیاء کو حکم دیا گیا ہے کہ سحری میں تاخیر کریں، افطار میں تعجل کریں۔ اور نماز میں داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں۔

یزید بن الاصم سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو کبھی کسی نماز میں بجائی لیتے نہیں دیکھا گیا۔ زہری سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جنازے کے ساتھ کبھی سوار نہیں ہوئے۔

عبد العزیز بن ابی رواد سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب جنازے میں شریک ہوتے تھے تو خاموشی زیادہ کرتے تھے اور اپنے دل میں باتیں زیادہ کرتے تھے، لوگ خیال کرتے تھے کہ آپ میت کے بارے میں دل میں باتیں کرتے ہیں، نہ آپ کو (اس وقت) کوئی جواب دیتا تھا اور نہ آپ سے سوال کیا جاتا تھا۔

راشد بن سعد وغیرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز پڑھتے تھے تو اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے۔

رسول عربی ﷺ کا غسل اور وضوء:

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک صاع (پانی) سے غسل کرتے تھے اور ایک مد (پانی) سے وضو کرتے تھے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں رات کو اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے یہاں رہا۔ رسول اللہ ﷺ اٹھے، آپ نے غسل کیا، پھر آپ ﷺ کے پاس رومال لایا گیا مگر آپ نے اسے نہیں چھوا فرمانے لگے۔ ہاتھ سے اس طرح یعنی نمی کو ہاتھ سے خشک کرتے رہے۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وضو کیا، اپنی ریش مبارک میں خلال کیا، اور فرمایا کہ میرے رب نے مجھے اس کا حکم کیا ہے۔ راوی اول عبید اللہ نے اپنا داہنا ہاتھ اپنی ٹھوڑی کے نیچے داخل کیا کہ گویا وہ اپنی داڑھی آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔

ایاس بن جعفر النخعی سے مروی ہے کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا ایک رومال تھا جس سے آپ وضو کے وقت پانی پونچھتے تھے۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہر چیز میں داہنی طرف سے شروع کرنا پسند فرماتے تھے وضو کرنے میں، چلنے میں اور جوتا پہننے میں۔

عبادات میں عادت مبارکہ:

انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح فرماتے اور اس میں اللہ کا نام لیتے۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی ﷺ اپنے گھر میں کوئی ایسی چیز جس میں صلیب کی تصویر ہو بغیر توڑے نہیں چھوڑتے تھے۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی ﷺ جب کسی ضرورت کے بھولنے کا اندیشہ کرتے تھے تو اپنی چھنگلیا یا اپنی انگوٹھی میں ڈورا لپیٹ لیتے تھے۔

مجاہد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ دو شنبے اور پنج شنبے کو روزہ رکھتے تھے۔

انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اتنا روزہ رکھتے تھے کہ کہا جاتا تھا آپ روزہ رکھتے ہیں اور روزہ اتنا ترک کرتے تھے کہ کہا جاتا تھا آپ نے روزہ ترک کر دیا۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ عید الفطر میں کھجوروں سے افطار فرماتے تھے پھر (نماز کو) چلے جاتے تھے۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کسی تاریک گھر میں نہیں بیٹھتے تھے تاوقتیکہ آپ کے لیے چراغ نہ روشن کر دیا جائے۔

خلق عظیم کا مرقع کامل:

عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ تا کہ ہم رسول اللہ ﷺ سے اس منافق کی فریاد کریں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میرے لیے کھڑے نہ ہو اللہ ہی کے لیے کھڑے ہو۔

ابن شہاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے لیے نیا پھل لایا جاتا تھا تو آپ اسے بوسہ دیتے تھے آنکھوں سے لگاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے اللہ جس طرح تو نے ہمیں اس کا اول دکھایا ہے اسی طرح اس کا آخر بھی دکھا۔

ابی حمید یا ابی اسید سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم میری جانب سے کوئی حدیث سنو جس کو تمہارے دل مان لیں تمہارے روئیں اور بشرے اس کے لیے نرم ہو جائیں اور تم یہ سمجھو کہ وہ تم سے قریب ہے تو میں تم سے زیادہ اس کے قریب ہوں (یعنی اگر وہ مضمون میرے اور تمہارے مناسب ہے تو سمجھ لو کہ میں نے بیان کیا ہوگا) اور جب تم میری جانب سے کوئی ایسی حدیث سنو جس کا تمہارے دل انکار کریں اس سے تمہارے روئیں اور بشرے نفرت کریں اور تم یہ سمجھو کہ وہ تم سے بعید ہے تو میں بہ نسبت تمہارے اس سے بہت زیادہ دور ہوں (کہ میں نے ایسی بری بات نہ کہی ہوگی)۔

قبول ہدیہ و رصدقہ:

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہدیہ قبول فرمایا کرتے تھے اور رصدقہ نہیں قبول فرماتے تھے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہدیہ قبول فرماتے تھے اور رصدقہ نہیں کھاتے تھے۔

حبیب بن عبید الرحمن سے مروی ہے کہ جب نبی ﷺ کے پاس کوئی چیز لائی جاتی تھی تو آپ فرماتے تھے کہ یہ ہدیہ ہے یا

صدقہ؟ اگر کہا جاتا کہ صدقہ ہے تو نہیں کھاتے تھے اور اگر کہا جاتا کہ ہدیہ ہے تو کھا لیتے تھے۔

چند یہودی آپ کے پاس ایک پیالہ ٹرید کا لائے تو استفسار فرمایا کہ ہدیہ ہے یا صدقہ؟ عرض کی کہ ہدیہ ہے

آنحضرت ﷺ نے کھالیا ان میں سے بعض نے کہا کہ محمد (ﷺ) (اس کے کھانے میں) بندے کی طرح بیٹھے رسول اللہ ﷺ

سمجھ گئے فرمایا کہ میں بندہ ہوں اور بندے ہی کی طرح بیٹھتا ہوں۔

عون بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ جب نبی ﷺ کے پاس کوئی چیز لائی جاتی تھی تو آپؐ فرماتے تھے کہ یہ صدقہ ہے یا ہدیہ اگر وہ لوگ کہتے کہ صدقہ ہے تو آپؐ اسے اہل صفہ کے پاس بھجوا دیتے تھے اگر کہتے کہ ہدیہ ہے تو آپؐ اسے رکھوا لیتے اور اہل صفہ کو بلا لیتے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کے پاس غیر قرابتداروں کے یہاں سے کھانا لایا جاتا تھا تو آپؐ دریافت کرتے تھے اگر کہا جاتا کہ ہدیہ ہے تو کھاتے تھے اور اگر کہا گیا کہ صدقہ ہے (ہم لوگوں سے) فرماتے تھے کہ کھاؤ خود نہیں کھاتے تھے۔

رشید بن مالک سے مروی ہے کہ ایک روز میں رسول اللہ ﷺ کے پاس تھا ایک شخص ایک طباق لایا جس میں کھجوریں تھیں فرمایا کہ یہ کیا ہے صدقہ ہے یا ہدیہ؟ اس شخص نے کہا کہ صدقہ ہے فرمایا کہ اسے اس قوم (اصحاب صفہ) کے آگے بڑھا دو۔ حسن رضی اللہ عنہ آپؐ کے آگے مٹی میں کھیل رہے تھے انہوں نے ایک کھجور لے کر اپنے منہ میں رکھ لی۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کی طرف دیکھ لیا آپؐ نے اپنی انگلی ان کے منہ میں ڈال کر وہ کھجور نکال لی اسے پھینک دیا اور فرمایا کہ ہم آل محمد (ﷺ) صدقہ نہیں کھاتے۔

نبی ﷺ کے صحابی عبد اللہ بن بسر سے مروی ہے کہ میری بہن رسول اللہ ﷺ کو ہدیہ بھیجا کرتی تھیں آپؐ اسے قبول فرماتے تھے۔

عبد اللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہدیہ قبول فرماتے تھے صدقہ نہیں قبول فرماتے تھے۔

علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کسریٰ نے رسول اللہ ﷺ کو ہدیہ بھیجا آپؐ نے قبول فرمایا سلاطین آپؐ کو ہدیہ بھیجتے تھے تو آپؐ قبول فرماتے تھے۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر مجھے دست (کا گوشت) بطور ہدیہ بھیجا جائے تو میں ضرور قبول کر لوں گا اور اگر مجھے کرپلی (کے گوشت) کی دعوت دی جائے تو میں ضرور قبول کر لوں گا۔

حمید بن عبد الرحمن الحیمری سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر مجھے دست کی دعوت دی جائے تو میں ضرور قبول کرؤں اور اگر یہی بطور ہدیہ دیا جائے تو ضرور قبول کرؤں۔

ابن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں گئے آپؐ کے پاس کھانا لایا گیا جس میں گوشت نہ تھا فرمایا کیا میں تمہارے یہاں ہانڈی نہیں دیکھتا ہوں؟ لوگوں نے عرض کی جی ہاں۔ یہ بریرہ کو بطور صدقہ دیا گیا ہے اور آپؐ صدقہ نہیں کھاتے فرمایا کہ وہ مجھے تو بطور صدقہ نہیں دیا گیا ہے اگر تم لوگ کھلاؤ گے تو ضرور کھا لوں گا۔

ابو عبد اللہ محمد بن سعد کہتے ہیں کہ یہی مضمون ایک دوسری حدیث میں اس طرح ہے کہ وہ بریرہ کے لیے صدقہ ہے اور بریرہ کی جانب سے ہمارے لیے ہدیہ ہے۔

حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ نے مجھ پر اور میرے اہل بیت پر صدقہ حرام کر دیا ہے۔

حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں اپنے گھر میں کھجوریں پڑی دیکھتا ہوں جن کو میرا جی چاہتا ہے

مگر مجھے اس کے کھانے سے اس کے صدقہ ہونے کا خوف باز رکھتا ہے۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا ایک کھجور پر گزر رہا جو راستے میں پڑی ہوئی تھی فرمایا کہ اگر مجھے اس کے صدقہ ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ضرور کھا لیتا۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک پڑی ہوئی کھجور پر گزر رہا تو انہوں نے اسے کھالیا۔

عمرو بن شعیب نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ سورہے تھے سوتے سوتے جنبش کی اور بیدار ہو گئے پہلو کے نیچے ایک کھجور پائی اسے آپ نے لے کر نوش فرمایا آخر شب تک سخت بے چین رہے اور آپ کو نیند نہیں آتی تھی آپ نے بعض ازواج سے بیان کیا کہ اپنے پہلو کے نیچے ایک کھجور پائی جو کھائی مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ صدقہ کی نہ ہو۔

عبد الملک بن المغیرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے بنی عبد المطلب صدقہ لوگوں کا میل کچیل ہے لہذا نہ تو اسے کھاؤ اور نہ اس پر عامل (کلکٹر) بنو۔

فخر دو عالم ﷺ کی مرغوب غذا تھیں:

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو حلو اور شہد پسند تھا۔

انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نبی ﷺ کے پاس آیا تو اتفاق سے اہل مدینہ میں سے ایک درزی نے آپ کی دعوت کی تھی وہ آپ کے پاس جو کی روٹی اور بہت سی چربی لایا اس میں لوکی بھی تھی میں نے دیکھا کہ آپ کو لوکی پسند آ رہی تھی میں اسے نبی ﷺ کے آگے بڑھانے لگا۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب سے میں نے لوکی کو نبی ﷺ کو پسند آتے دیکھا ہے اس روز سے وہ مجھے بھی پسند ہے۔

انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کو لوکی پسند تھے۔

ابی طلوت سے مروی ہے کہ میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس گیا وہ لوکی کھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے پیارے درخت رسول اللہ ﷺ کے تجھے پسند فرمانے سے تو مجھے بھی کیسا پسند ہے۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب ہمارے یہاں لوکی ہوتی تھی تو ہم اس میں رسول اللہ ﷺ کو ترجیح دیتے تھے۔

عبد اللہ بن جعفر سے مروی ہے کہ میں نے نبی ﷺ کو ککڑی کھجور کے ساتھ کھاتے دیکھا۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہانڈی کے پاس آتے تھے اس میں سے دست (کی بوٹی) لے لیتے تھے اور

اسے نوش فرماتے تھے پھر نماز پڑھتے تھے نہ وضو کرتے تھے نہ کلی کرتے تھے۔

عمرو بن عبید اللہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ نے دست نوش فرمایا پھر اٹھے کلی کی اور نماز

پڑھی وضو نہیں کیا۔

اسحق بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ ام حکیم بنت الزبیر ان میں سے تھیں جو نبی ﷺ کو اسی طرح کچھ ہدیہ بھیجتی تھیں ایک روز

نبی ﷺ ان کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے ایک دست آپ کے آگے رکھا وہ اس کے پار پے کرنے لگیں اور نبی ﷺ نوش فرمانے لگے پھر آپ اٹھے اور نماز پڑھی وضو نہیں کیا۔

ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے گوشت نوش فرمایا اور نماز پڑھی وضو نہیں کیا۔

ابورافع سے مروی ہے کہ میں نے نبی ﷺ کے لیے بکری ذبح کی تو آپ نے فرمایا کہ اے ابورافع دست مجھے دے دو میں نے آپ کو دے دیا پھر فرمایا کہ دست مجھے دے دو میں نے آپ کو (دوسرا بھی) دے دیا پھر آپ نے فرمایا کہ دست مجھے دے دو عرض کی یا رسول اللہ کیا بکری کے دو سے زائد دست بھی ہوتے ہیں فرمایا اگر تم خاموش رہتے جو جو میں مانگتا تھا وہ مجھے ضرور دیتے۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ترکھجور اور پکا ہوا گوشت ساتھ ساتھ نوش فرماتے تھے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا سب سے زیادہ پسندیدہ کھانا روٹی کاثرید اور کھجور کاثرید یعنی حلوا تھا۔

انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کوثرید پسند تھا۔

علی بن الاقر سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کھجور کھاتے تھے جب آپ اس کے ردی مجھے پر پہنچتے تو اسے اپنے ہاتھ میں رکھ لیتے کوئی عرض کرتا کہ یہ جو بیج گئی ہے مجھے عطا فرما دیجئے تو فرماتے کہ میں جس چیز سے اپنے لیے ناخوش ہوں اس سے تمہارے لیے بھی خوش نہیں۔

عبدالمہمیں بن عباس بن سہل بن سعید نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہ انہیں ایک پیالہ صاف ستھری سفید چیز بطور ہدیہ دی گئی تو انہوں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ یہ کھانا تو میں نے دیکھا بھی نہیں راوی نے دریافت کیا کہ کیا اس کو نبی ﷺ نہیں کھاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے تو اسے آنکھ سے بھی نہیں دیکھا انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے توجو کا آٹا پیسا جاتا اسے (بجائے چھاننے کے) دو مرتبہ (بھوسی اڑانے کے لیے) منہ سے پھونکا جاتا پھر آپ کے لیے (کھانا تیار کیا جاتا اور آپ نوش فرماتے)۔

ابی اسحاق سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے لیے رسول اللہ ﷺ کو کھاتے دیکھنے کے بعد اب آٹا نہ چھانا جائے۔

ربیع اور بنت معوذ بن عضرء دونوں سے مروی ہے بنت معوذ کہتی ہیں کہ میں نبی محمد ﷺ کے پاس ایک دوپٹہ بھر کھجور اور پرند کے بچے کا کچھ پارچہ لائی آپ نے اس میں سے کھایا مجھے ایک لپ بھر کر زیور یا سونا دیا۔ اور فرمایا کہ اس کا زیور پہنو۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے لیے شیریں پانی تلاش کیا جاتا تھا۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک طباق کھجور بطور ہدیہ رسول اللہ ﷺ کو دی گئی آپ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور ایک ایک مٹھی لے کر مجھے دینے لگے کہ ازواج کو بھجوا دی جائیں ایک مٹھی آپ نے لی نوش فرمایا اور اس کی گٹھلی اپنی بائیں طرف پھینکنے لگے ایک سیاہ بکری آپ کے پاس سے گزری اس نے اسے کھالیا۔

نا پسندیدہ غذائیں:

ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ آپ مجھے کھانا بھیجا کرتے تھے، جب میں آپ کی انگلیوں کا نشان دیکھتا تھا تو اس میں ہاتھ ڈالتا تھا، یہ کھانا جو آپ نے مجھے بھیجا ہے اس میں آپ کی انگلیوں کا نشان نہیں پایا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہاں اس میں پیاز تھی، میں نے اس فرشتے کی وجہ سے اس کا کھانا پسند نہیں کیا جو میرے پاس آتا ہے، تم لوگ کھاؤ۔

سوید سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک پیالہ (کھانا) لایا گیا جس میں لہسن تھا، آپ نے اس کی بو محسوس کی تو اپنا ہاتھ روک لیا، معاذ نے بھی اپنا ہاتھ روک لیا، اور ساری جماعت نے اپنے اپنے ہاتھ روک لیے، آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو کیا ہوا انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا اس لیے ہم لوگوں نے بھی اپنے اپنے ہاتھ روک لیے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بسم اللہ تم لوگ کھاؤ، میں تو اس سے سرگوشی کرتا ہوں جس سے تم لوگ سرگوشی نہیں کرتے۔

ابوصخر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس بادام کے ستولائے گئے۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ انہیں دور رکھو یہ تو دولت میں مست ہونے والوں کا شربت ہے۔

یزید بن قبیط سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کے پاس ستولائے گئے جو بادام کے تھے جب پیش ہوا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ بادام کے ستو، آپ نے فرمایا کہ اسے مجھ سے دور رکھو یہ ناز پروردوں کے پینے کی چیز ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو گھی پیڑ اور ایک گوہ بطور ہدیہ دی گئی، آپ نے گھی اور پیڑ نوش فرمایا گوہ کے لیے فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جو میں نے کبھی نہیں کھائی، جو اسے کھانا چاہے وہ کھائے، وہ آپ کے دسترخوان پر کھائی گئی۔

ثابت بن ودیعہ انصاری سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کے پاس ایک گوہ لائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک امت ہے جو مخ کر دی گئی (یعنی بطور عذاب انسان کو اس شکل میں بدل دیا گیا) واللہ اعلم۔

ثابت بن یزید بن ودیعہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی ﷺ کے ہمراہ تھے (شکار میں) گوہیں ملیں تو ہم نے انہیں بھوتا، ایک گوہ نبی ﷺ کے پاس لائے۔ آپ نے ایک لکڑی لی اور اس (گوہ) کی انگلیاں گنتے گئے اور فرمایا کہ بنی اسرائیل کی امت مسخ کر کے زمین کے حیوانات بنا دیے گئے، مجھے معلوم نہیں کہ وہ کون سے حیوان ہیں، آپ نے اسے نہ کھایا اور نہ منع کیا۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ میمونہ رضی اللہ عنہا کے یہاں تھے کہ ایک خوان لایا گیا جس میں گوہ کا گوشت تھا، آنحضرت ﷺ نے کھانا چاہا تو میمونہ نے کہا: یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا: نہیں، عرض کی: یہ گوہ کا گوشت ہے، فرمایا: یہ وہ گوشت ہے جو میں نے کبھی نہیں کھایا، آپ کے پاس فضل بن عباس و خالد بن ولید رضی اللہ عنہما اور ایک خاتون بھی تھیں، خالد رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ حرام ہے؟ فرمایا: نہیں، تم لوگ کھاؤ فضل و خالد رضی اللہ عنہما اور ان خاتون نے کھایا، میمونہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں وہ چیز نہ کھاؤں گی جو رسول اللہ ﷺ نہ کھائیں۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس سات گویں ایک بہت بڑے پیالے میں لائی گئیں جن پر گھی پڑا ہوا تھا، فرمایا تم لوگ کھاؤ، خود نہیں نوش فرمایا، لوگوں نے عرض کی: یا رسول اللہ کیا ہم کھالیں حالانکہ آپ کوش نہیں فرماتے؟ ارشاد

ہوا کہ میں اسے ناپسند کرتا ہوں۔

ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک گوہ لائی گئی تو فرمایا: اسے پشت کی طرف پلٹ دو لوگوں نے اسے پلٹ دیا حکم ہوا کہ اسے شکم کی طرف پلٹ دو لوگوں نے اسے پلٹ دیا تو فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک خاندان جس پر اللہ نے غضب کیا تھا بھٹکتا رہا، اگر وہ ہوگا تو یہی ہوگا، اگر وہ ہوگا تو یہی ہوگا۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے ہمرکاب میں اور خالد بن الولید رضی اللہ عنہ میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا کے پاس گئے میمونہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ کیا میں آپ لوگوں کو اس ہدیے میں سے نہ کھلاؤں جو ہمیں ام عقیق نے دیا ہے؟ فرمایا: ہاں، دو بھی ہوئی گوہیں لائی گئیں، نبی محمد رسول اللہ ﷺ نے انہیں غور سے دیکھا خالد بن الولید رضی اللہ عنہ نے عرض کی، کیا آپ اسے ناپسند فرماتے ہیں؟ فرمایا ہاں، ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو وہ دودھ نہ پلاؤں جو ہمیں بطور ہدیہ دیا گیا ہے فرمایا بہتر ہے۔ ایک برتن دودھ کا لایا گیا، رسول اللہ ﷺ نے نوش فرمایا، آپ کی داہنی طرف میں تھا بائیں طرف خالد رضی اللہ عنہ مجھ سے فرمایا کہ پیو یہ تمہارا ہے چاہو تو اس میں خالد رضی اللہ عنہ کو بھی شریک کر لو عرض کی: میں ایسا نہیں ہوں کہ آپ کے بچے ہوئے میں اپنے اوپر خالد کو ترجیح دوں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس کو اللہ کوئی کھانا کھلائے تو اسے یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں اس میں برکت دے اور ہمیں اس سے بہتر کھلا، جس کو اللہ دودھ پلائے تو اسے یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں اس میں برکت دے اور زیادہ دے، کیونکہ دودھ کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں جو کھانے اور پینے سے کفایت کرے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ام حفیدہ خالدہ ابن عباس رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ کو گھی پنیر اور چند گوہیں بطور ہدیہ بھیجیں، آپ نے گھی اور پنیر نوش فرمایا اور ناپسندیدگی کی وجہ سے گوہوں کو چھوڑ دیا وہ رسول اللہ ﷺ کے دسترخوان پر کھائی گئیں۔ اگر حرام ہوتیں تو رسول اللہ ﷺ کے دسترخوان پر نہ کھائی جاتیں۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کو آواز دی کہ آپ گوہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا: نہ میں اسے کھاتا ہوں اور نہ اسے حرام کہتا ہے۔

محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کے پاس ایک گوہ لائی گئی تو فرمایا کہ ہم لوگ شہری ہیں اس سے ہمیں کراہیت

آتی ہے۔

عورت اور خوشبو سے محبت:

انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے دنیا میں عورتوں اور خوشبو سے محبت دی گئی اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔

حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں عیش دنیا میں سوائے عورتوں اور خوشبو کے کچھ نہیں چاہتا۔

میمون سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عیش دنیا میں سے سوائے عورت اور خوشبو کے کچھ حاصل نہیں کیا۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کو دنیا کی تین چیزیں پسند تھیں، خوشبو، عورتیں اور کھانا، آپ نے دو چیزیں پائیں

اور ایک چیز نہیں پائی عورت اور خوشبو پائی کھانا نہیں پایا۔

سلمہ بن کہیل سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دنیا سے کوئی ایسی چیز نہیں پائی جو آپ کو عورت اور خوشبو سے زیادہ پسند ہو۔

معقل بن یسار سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو گھوڑے سے زیادہ کوئی چیز پسند نہ تھی، پھر کہا: اے اللہ معاف کرنا، عورت سے زیادہ کوئی چیز پسند نہ تھی۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لوگ خوشبودار ہوا سے نبی ﷺ کا برآمد ہونا جان لیتے تھے۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ آتے تھے تو خوشبودار ہوا سے پہچان لیے جاتے تھے۔

ثمامہ بن عبد اللہ بن انس سے مروی ہے کہ انس (ہدیہ) خوشبو واپس نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ خوشبو واپس نہیں فرماتے تھے۔

انس بن مالک سے مروی ہے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے خوشبو پیش کی گئی ہو اور آپ نے واپس کر دی ہو۔

محمد بن علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اے اماں! کیا رسول اللہ ﷺ خوشبو لگاتے تھے، انہوں نے کہا ہاں! ذکارۃ الطیب لگاتے تھے، میں نے کہا ذکارۃ الطیب کیا چیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشک وغیر۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک خوشبو (سک) تھی جس میں سے آپ لگاتے تھے۔ ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس مشک کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ سب سے اچھی خوشبو نہیں ہے۔

عبید بن حرق سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا: اے ابو عبد الرحمن! میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اس خلو (خوشبو) کو اچھا سمجھتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ خوشبو رسول اللہ ﷺ کو سب سے زیادہ پسند تھی۔

نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب دھونی لیتے تھے تو کافور کو عود پر رکھتے تھے، اس سے دھونی لیتے تھے اور کہتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ اسی طرح دھونی لیتے تھے۔

الفقر فخری کے تاجدار کے معاشی حالات:

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کئی کئی راتیں خالی پیٹ گزارتے تھے، آپ کے متعلقین کو رات کا کھانا نہ ملتا تھا اور ان حضرات کی روٹی اکثر جھوکی ہوتی تھی۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک ٹکڑا روٹی کا نبی ﷺ کے پاس لائیں آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ ٹکڑا کیسا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ٹکڑا پکائی تھی میرا جی خوش نہ ہوا میں یہ ٹکڑا آپ ﷺ کے پاس لائی، فرمایا کہ تین دن کے بعد یہ سب سے پہلا کھانا ہے جو تمہارے والد کے منہ میں گیا ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ بھوک کی وجہ سے اپنی پشت سے پتھر باندھتے تھے۔

مہروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز جس وقت عائشہ رضی اللہ عنہا مجھ سے حدیث بیان کر رہی تھیں تو یکا یک رونے لگیں میں نے کہا کہ ام المومنین آپ کو کیا چیز رلاتی ہے کہا کھانے سے میں سیر نہیں ہوئی جب رونا چاہا تو اس پر روئی کہ رسول اللہ ﷺ پر چار چار مہینے گزر جاتے تھے کہ آپ گہو کی روٹی سے پیٹ نہ بھرتے تھے۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ بے درپے تین تین دن تک آل محمد رضی اللہ عنہم صبح و شام جو کی روٹی سے بھی شکم سیر نہ ہوئے یہاں تک کہ آپ اللہ سے واصل ہو گئے۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آل محمد (رضی اللہ عنہم) تین دن تک گہو کی روٹی سے شکم سیر نہ ہوئے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی نہ آپ کے دسترخوان سے کوئی ٹکڑا روٹی فاضل اٹھایا گیا۔ یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک چاند سے دوسرا چاند آل رسول اللہ ﷺ پر گزر جاتا تھا کہ آپ کے مکانوں میں آگ نہ سلگائی جاتی تھی نہ روٹی کے لیے نہ ساگ کے لیے لوگوں نے کہا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پھر یہ لوگ کس چیز سے جیتے تھے انہوں نے کہا کہ کھجور اور پانی سے انصار ہمسایہ تھے اللہ انہیں جزائے خیر دے ان کے دودھ والے جانور تھے وہ لوگ آپ کو کچھ دودھ بھیج دیا کرتے تھے۔

ابو امامہ سے مروی ہے کہ اہل بیت رسول اللہ ﷺ سے جو کی روٹی بھی فاضل نہ ہوتی تھی۔
حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ آل محمد میں واللہ ایک صاع (۳/۱۲ سیر) غلہ بھی رات بھر نہ رہا حالانکہ وہ نو گھر تھے واللہ آنحضرت ﷺ نے یہ کلمہ اللہ کے رزق کو کم سمجھ کر نہیں فرمایا بلکہ اس سے آپ نے اپنی امت کی غم خواری کی ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ واللہ آل محمد پر متعدد راتیں ایسی گزرتی تھیں کہ وہ شام کا کھانا نہ پاتے تھے۔
انحسبین کے مونی ولید کے بعض خاندان والوں سے مروی ہے کہ جس وقت ہم لوگ اپنی ایک گزرگاہ پر کھانا کھا رہے تھے تو ہمیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نظر آئے ہم نے انہیں مزہ کیا اور کہا کہ آئیے (کھانا کھائیے) انہوں نے کہا: نہیں واللہ میں اسے نہ چکھوں گا رسول اللہ ﷺ کی اس حالت میں وفات ہو گئی کہ نہ آپ جو کی روٹی سے شکم سیر ہوئے نہ آپ کے اہل و عیال۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک دن میں دو مرتبہ شکم سیر نہیں ہوئے یہاں تک کہ واصل بحق ہو گئے نہ ہم نے شکم سیری کی وجہ سے آپ کا بچا ہوا کھانا اٹھایا یہاں تک کہ آپ اللہ سے واصل ہو گئے سوائے اس کے کہ ہم اسے کسی غیر حاضر کے لیے اٹھا لیتے تھے۔

پھر عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا گیا کہ آپ لوگوں کی معاش کیا تھی انہوں نے کہا کہ پانی اور کھجور ہمارے ہمسایہ انصار تھے اللہ انہیں جزائے خیر دے ان کے دودھ والے جانور تھے وہ ان کا دودھ ہمیں پلاتے تھے۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آل محمد تین دن تک گہو کی روٹی سے سیر نہیں ہوئے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی نہ

آپ کے دسترخوان سے کوئی فاضل ٹکڑا اٹھایا گیا یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ پے در پے دو یا زیادہ دن سوائے جو کی روٹی کے آل محمد (ﷺ) اور کسی چیز سے سیر نہیں ہوئے۔
عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آل محمد پے در پے تین دن گھیسوں کے کھانے سے شکم سیر نہیں ہوئے یہاں تک کہ نبی ﷺ اپنی راہ چلے گئے۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ واللہ آل محمد پر ایک ایک مہینہ ایسا گزر جاتا تھا کہ ہم لوگ روٹی تک نہ پکاتے تھے راوی نے پوچھا کہ ام المؤمنین پھر رسول اللہ ﷺ کیا نوش فرماتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہمسایہ انصار تھے اللہ انہیں جزائے خیر دے ان کے پاس کچھ دودھ ہوتا تھا اسی میں سے وہ رسول اللہ ﷺ کو ہدیہ دیتے تھے۔

نوفل بن ایاس الہذلی سے مروی ہے کہ عبدالرحمن بن عوف ہمارے ہم نشین تھے اور بڑے اچھے ہم نشین تھے ایک روز وہ واپسی میں ہمیں بھی لے گئے ہم ان کے گھر میں داخل ہوئے انہوں نے غسل کیا باہر آئے اور ہمارے ساتھ بیٹھ گئے ایک لگن لائے جس میں روٹی گوشت تھا جب وہ رکھا گیا تو عبدالرحمن رونے لگے میں نے کہا کہ اے ابو محمد آپ کو کیا چیز رلاتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات تو اس حالت میں ہو گئی کہ نہ آپ جو کی روٹی سے شکم سیر ہوئے اور نہ آپ کے اہل بیت میں یہ نہیں خیال کرتا کہ ہم لوگ اس (گوشت روٹی) کے لیے چھوڑ دیئے گئے ہیں اس لیے کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ تو سوکھے ٹکڑے سے بھی شکم سیر نہ ہوئے۔ اور آپ دنیا کو چھوڑ گئے تمہاری یہ کیفیت ہے کہ تم لوگ دنیا کو رائیگاں لیے ہوئے ہو یہ کہہ کے انہوں نے اپنی انگلیاں بجا کیں۔

ابن شہاب سے مروی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مغیرہ بن الاغص کے پاس سے گزرا کرتے تھے اور وہ کھانا کھاتے ہوتے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ کیا کھانا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میدے کی روٹی اور فربہ گوشت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میدہ (نقی) کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آٹا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تعجب کیا پھر کہا کہ اے مغیرہ تم پر تعجب ہے۔ رسول اللہ ﷺ کو تو اللہ عز وجل نے اس حالت میں اٹھالیا کہ آپ روٹی اور روغن زیتون سے بھی دن میں دو مرتبہ شکم سیر نہ ہوئے۔ تم اور تمہارے ساتھی یہاں آپس میں دنیا کو رائیگاں کیے ہوئے ہو وہ اس طرح اپنی انگلی سے بجاتے تھے کہ گویا وہ لوگ بچے ہیں۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے صبح یا شام کے کھانے میں کبھی گوشت روٹی کو جمع نہیں کیا بجز اس کے کوئی خاص حالت پیش آئے۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نبی ﷺ کے ایک ویسے میں حاضر ہوا جس میں نہ گوشت تھا نہ روٹی۔

قنادہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے تھے ان کا نان پز کھڑا ہوتا تھا ایک روز انہوں نے (ہم سے) کہا کہ کھاؤ مجھے معلوم نہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایسی بار ایک روٹی دیکھی یا بھونی ہوئی بکری تا آ نکہ آپ واصل بحق ہو گئے۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کے شکم مبارک میں ایک روز میں دو کھانے کبھی جمع نہیں ہوئے اگر آپ نے گوشت

نوش فرمایا تو اس پر کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا، کھجور کھائی تو اس کے ساتھ کوئی دوسری چیز نہیں اور اگر روٹی کھائی تو تنہا، آپؐ مریض آدمی تھے، عرب آپؐ سے کسی دوا کی تعریف کرتے تھے تو آپؐ اسی سے علاج کرتے تھے اور عجم جس کی تعریف کرتے تھے آپؐ اس سے علاج کرتے تھے۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات ہو گئی اور دن میں دو مرتبہ جو کی روٹی سے بھی شکم سیر نہ ہوئے اگر ہمیں کوئی طباق بطور ہدیہ بھیجا جاتا تھا جس میں کھجور اور چربی کا برتن ہوتا تو ہم اس سے خوش ہوتے تھے۔

حمید بن ہلال سے مروی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: ایک رات کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بکری کی ایک ران بھیجی میں نے وہ کاٹی اور رسول اللہ ﷺ کی خاطر اسے پکڑے رہی یا رسول اللہ ﷺ نے کاٹی اور میں پکڑے رہی، عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا گیا کہ بغیر چراغ کے (آپؐ گوشت کاٹ رہی ہیں) انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے پاس چراغ ہوتا تو ہم روٹی اسی سالن کے ساتھ کھاتے، آل محمد ﷺ پر ایک ایک مہینہ گزر جاتا ہے کہ وہ روٹی پکاتے ہیں نہ ہانڈی چڑھاتے ہیں حمید نے کہا کہ میں نے صفوان سے بیان کیا تو انہوں نے کہا ان لوگوں پر دو دو مہینے گزر جاتے تھے۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ گھر میں بیٹھی تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بکری کی ایک ران بطور ہدیہ بھیجی، گھر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ میں اسے تاریکی میں کاٹ رہی تھی کہ کسی کہنے والے نے کہا کہ کیا آپؐ لوگوں کے پاس چراغ نہیں ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اگر ہمارے پاس چراغ جلائے کو تیل ہوتا تو ہم اسے کھاتے۔

ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک شب کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے یہاں سے ہمارے یہاں ایک ران آئی، میں اسے پکڑے ہوئے تھی اور نبی ﷺ کاٹ رہے تھے یا نبی ﷺ پکڑے ہوئے تھے اور میں کاٹ رہی تھی پھر قوم کے ایک شخص نے ان سے کہا کہ ام المومنین کیا اس وقت آپؐ لوگوں کے پاس چراغ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے پاس چراغ ہوتا تو ہم اسے کھاتے (یعنی تیل ہوتا تو اسے کھانے میں استعمال کرتے، پھر بچتا تو چراغ جلاتے)۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات ہو گئی مگر آپؐ دن میں دو مرتبہ بھی روٹی اور زیتون سے شکم سیر نہ ہوئے۔

نعمان بن بشیر سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کی وسعت رزق و کثرت فتوح کا ذکر کرتے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہے کہ آپؐ بھوک کی وجہ سے اپنا دن اس طرح گزارتے تھے کہ ردی کھجوریں بھی نہ ملتی تھیں جس سے اپنا شکم مبارک بھرتے۔

نعمان بن بشیر ایک خطبے میں کہتے تھے کہ لوگو! اللہ کا شکر کرو رسول اللہ ﷺ پر اکثر ایسا دن گزرتا تھا کہ آپؐ ردی کھجور سے بھی شکم سیر نہ ہوتے تھے۔

نعمان بن بشیر منبر پر سے کہتے تھے کہ تمہارے نبی ﷺ ردی کھجور سے بھی شکم سیر نہ ہوتے تھے اور تم لوگ جملہ اقسام کی کھجور اور مکھن کے بغیر راضی نہیں ہوتے یا بغیر مختلف اقسام کے لباس کے راضی نہیں ہوتے۔

عمران بن زید المدانی سے مروی ہے کہ میرے والد نے کہا: ہم لوگ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور ”اماں سلام علیک“ کہا، انہوں نے ”وعلیک“ کہا اور رونے لگیں، پوچھا، ام المومنین آپ کا رونا کس سبب سے ہے، کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم میں سے بعض لوگ قسم قسم کے کھانے کھاتے ہیں، پھر ایسی دوائیں تلاش کرتے ہیں جن سے کھانا ہضم ہو اس پر مجھے تمہارے نبی ﷺ یاد آ گئے، اور اسی یاد نے مجھے رُلا دیا، آپ دنیا سے اس حالت میں گئے کہ شکم مبارک ایک دن میں دو کھانوں سے نہیں بھرا۔ آپ جب کھجور سے شکم سیر ہوتے تھے تو روٹی سے شکم سیر نہ ہوتے تھے تو ”کھجور سے شکم سیر نہ ہوتے تھے بس اسی بات نے مجھے رُلا دیا۔

محمد بن المنکدر سے مروی ہے کہ مجھے عروہ بن زبیر ملے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا۔

اے ابو عبد اللہ! میں نے ”لبیک“ کہا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا وہ بولیں اے میرے فرزند! میں نے لبیک کہا اس پر وہ کہنے لگیں کہ واللہ ہم لوگ چالیس چالیس رات اس طرح گزارتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ گھر میں آگ کے نام نہ چراغ روشن ہوتا تھا نہ اور کچھ میں نے عرض کی کہ اے اماں! پھر آپ لوگ زندہ کیوں کر رہتے تھے انہوں نے کہا کہ پانی اور کھجور سے۔

معاویہ بن قرہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی ﷺ کے ساتھ اس طرح گزارتے تھے کہ سوائے پانی اور کھجور کے کوئی غذا نہ ہوتی تھی۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کو بطور ہدیہ کھجور دی گئی آپ اسے ہدیہ بھیجنے لگے، میں نے آپ کو بھوک کی وجہ سے اکڑوں بیٹھ کر اس میں سے کھاتے دیکھا۔

انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ام سلیم (والدہ انس) نے انس رضی اللہ عنہ کے ہمراہ کھجور کا ایک طباق محمد رسول اللہ ﷺ کو بھیجا، انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ اس میں سے مٹھی بھر بھر کے بعض ازواج کو بھیجنے لگے پھر اس میں سے اس انداز سے نوش فرمایا کہ معلوم ہوتا تھا گویا آپ کو اس کی اشتہاء ہے۔

انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے جو کی روٹی اور چربی پر نبی ﷺ کی دعوت کی تو آپ نے قبول فرمائی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کی وفات اسی حالت میں ہوئی کہ ہم لوگ پانی اور کھجور سے بھی شکم سیر نہ ہوئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات ایسے وقت ہوئی کہ لوگ پانی اور کھجور سے پیٹ بھرتے تھے۔ سہل بن سعد سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک دن میں دو مرتبہ شکم سیر نہ ہوئے یہاں تک کہ آپ نے دنیا کو چھوڑ دیا۔

انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے سے (دمتر خوان پر سے) کوئی چیز کبھی نہیں اٹھائی گئی اور نہ آپ کے ہمراہ کوئی چٹائی لے جاتی گئی جس پر آپ بیٹھتے۔ (یعنی سفر میں)۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے نبی ﷺ کو دیکھا کہ روغن زیتون سر میں لگایا، جذب ہونے کے قابل نہ تھا۔

اسماء بنت یزید سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی اور جس روز آپ کی وفات ہوئی آپ کی زرہ ایک یہودی کے یہاں ایک وسق (تقریباً ۵ من) جو کے عوض رہیں تھی۔

ابوحازم سے مروی ہے کہ میں نے بہل بن سعد سے پوچھا کہ کیا یہ چھلنیاں رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں بھی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس زمانے میں ایک چھلنی بھی نہیں دیکھی۔

رسول اللہ ﷺ نے تو جو بھی چھنا ہوا نہیں کھایا، یہاں تک کہ آپ نے دنیا کو چھوڑ دیا، میں نے کہا کہ آپ لوگ (جو کو) کیا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ اسے پیس لیتے تھے اس کی بھوسی پھونک دیتے تھے جو اڑنا ہوتی تھی وہ اڑ جاتی اور جو رہ جاتی تھی اسے رہنے دیتے تھے۔

ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات ایسے وقت ہوئی کہ مسلمانوں کے پاس کوئی چھلنی نہ تھی۔ سہلی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں ہم لوگوں کے پاس کوئی چھلنی نہ تھی جب جو پھوٹے جاتے تھے تو ہم لوگ اسے صرف پھٹک لیتے تھے۔

ابن رومان سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما جو کا آٹا بغیر چھنا کھاتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے: اے اللہ میں تجھ سے بھوک سے پناہ مانگتا ہوں، وہ بری ساتھی ہے۔

ابو جعفر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات نہ ہوئی تا وقتیکہ آپ کی اکثر غذا جو کی روٹی اور کھجور نہ ہوگی۔ حکیم بن جابر سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کے پاس ایک کدو دیکھا گیا تو پوچھا گیا آپ اسے کیا کرتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہم اکثر اسی کو غذا بناتے ہیں جس پر ہمارے عیال کا گزارہ ہوتا ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ بھوکے رہا کرتے تھے۔ راوی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ بھوک کیسی ہوتی تھی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ان لوگوں کی کثرت سے جو آپ کو گھیرے رہتے تھے اور مہمانوں کی وجہ سے اور اس قوم کی وجہ سے جو محض اسی سے آپ کے ساتھ رہتی تھی آپ کبھی کوئی کھانا نہ کھاتے تھے۔ جس میں ہمراہ اصحاب اور وہ اہل حاجت جو مسجد سے پیچھے ہو لیتے تھے نہ ہوں، جب اللہ نے خیر فتح کر دیا تو لوگوں کو کسی قدر وسعت ہو گئی، حالانکہ اب تک تنگی تھی اور معاش نہایت دشوار تھی، یہ ایسا ملک تھا جو پتھر یا قحط زراعت نہ ہوتی تھی، باشندوں کی غذا محض کھجور تھی، لوگ اسی حالت پر تھے کہ رسول اللہ ﷺ ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے، اس روز سے آپ کی وفات تک سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا خوان رسول اللہ ﷺ کے یہاں جاری تھا، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ دوسرے انصار بھی یہی کرتے تھے رسول اللہ ﷺ کے اصحاب بکثرت ہمدردی کرتے تھے، لیکن حقوق بھی کثیر تھے، آنے والوں کی بھی کثرت تھی، ملک میں تنگی تھی کوئی معاش نہ تھی، میوے اور پھل جو نکلتے تھے وہ محض پھلوں کے رس سے نکلتے تھے جن کو لوگ اپنے کندھوں پر لا کر لاتے تھے یا اونٹ پر اونٹ اس کو کھاتے تھے، اکثر باغوں پر خشک سالی ہو جاتی تھی اس سال وہ پھل بھی نہ ملے تھے۔

مقدام بن معدیکرب سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: پیٹ سے زیادہ برا کوئی برتن نہیں جس کو آدمی بھرے آدمی کو اتنے لقمے کافی ہیں جو اس کی پشت کو قائم رکھیں اگر اسے (اس سے زائد کھانے سے) چارہ کار نہ ہو تو (پیٹ کا) تہائی حصہ اس کے کھانے کے لیے اور تہائی پینے کے لیے اور تہائی سانس کے لیے ہے۔

شمال نبوی کا حسین منظر

جمال مصطفیٰ کی رعنائیاں:

ایک انصاری سے مروی ہے کہ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے جو مسجد کوفہ میں اپنی تلوار کے پر تلے کو کمر میں لٹکائے ہوئے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کی صفت و کیفیت دریافت کی تو انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ سرخی مائل خوب گورے رنگ کے تھے۔ آپ کی آنکھیں نہایت خوبصورت سیاہ تھیں بال سیدھے (یعنی بغیر گھونگر کے) تھے۔ ریش مبارک خوب گھنی تھی رخسارہ بھرا ہوا نہ تھا۔ بال کانوں تک تھے (یعنی پٹے تھے) سینہ و شکم کے بال باریک تھے۔ گردن چاندی کا لونٹا معلوم ہوتی تھی، سینے سے ناف تک شاخ کی طرح بال تھے، سینہ و شکم میں اس کے سوا کوئی بال نہ تھا، ہتھیلی بھری ہوئی تھی جب چلتے تھے تو اس انداز سے کہ گویا انحداد فرما رہے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا پتھر کی چٹان سے اتر رہے ہیں جب مڑتے تھے تو پورے مڑتے تھے (یعنی صرف گردن پھیر کر نہیں دیکھتے تھے) آپ کے چہرے کا پسینہ موتی معلوم ہوتا تھا پینے کی خوشبو تیز خوشبو والی مشک سے بھی زیادہ پاکیزہ تھی نہ پست قامت تھے نہ بلند و بالا نہ کسی کام میں عاجز تھے اور نہ بدخلق (خلاصہ یہ کہ) میں نے آپ کا مثل نہ آپ سے پہلے دیکھا اور نہ آپ کے بعد۔

علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ بڑے سر بڑی آنکھ، لمبی پلک آنکھ میں بڑی سرخی، گھنی داڑھی اور چمکتے رنگ والے تھے جب آپ چلتے تھے تو اس طرح جھک جاتے تھے کہ گویا کسی بلندی پر چل رہے ہیں اور جب مڑتے تھے تو پورے مڑتے تھے، آپ کی ہتھیلیاں اور قدم پر گوشت تھے۔

علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نہ تو بلند قامت تھے نہ پست قد، سر بڑا اور داڑھی گھنی تھی، ہتھیلی اور قدم پر گوشت تھے رنگ میں خوب سرخی کی آمیزش تھی مونڈھے پر گوشت تھے سینہ و شکم کے بال دراز تھے جب آپ چلتے تو بلندی پر چلنے کی طرح چلتے تھے گویا نشیب میں اتر رہے ہیں نہ میں نے آپ سے پہلے آپ کا مثل دیکھا نہ آپ کے بعد۔

یوسف بن یازن الراسی سے مروی ہے کہ کسی نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم سے نبی ﷺ کا حلیہ بیان کیجئے۔ انہوں نے کہا کہ نہ تو آپ مائل بہ بلندی تھے اور نہ متوسط اندام سے زیادہ تھے جمع میں سب سے بلند نظر آتے تھے رنگ بہت زیادہ گورا اور سر بڑا تھا۔ حسین اور کشادہ ابرو تھے، پلکیں طویل تھیں، ہتھیلیاں اور قدم پر گوشت تھے۔ جب چلتے تھے تو جھک جاتے تھے گویا نشیب میں اتر رہے ہیں، چہرے پر پسینہ موتی معلوم ہوتا تھا، نہ میں نے آپ ﷺ سے پہلے آپ کا مثل دیکھا نہ آپ کے بعد۔

بے مثل سراپا:

ابراہیم بن محمد سے مروی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ ﷺ کی تعریف کرتے تھے تو کہتے تھے کہ نہ تو آپ انتہائی طویل تھے اور نہ کچھ ایسے پست قامت آپ قوم سے بلند رہتے تھے بال نہ تو بالکل گھونگر یا لے تھے اور نہ محض سیدھے بلکہ ایسے گھونگر یا لے تھے جو متوسط تھے نہ تو آپ بہت لاغر تھے اور نہ پیشانی و چہرہ بہت پر گوشت تھا آپ کے چہرے میں گولائی تھی۔ خوب گورے تھے آنکھیں خوب صورت اور سیاہ تھیں پلکیں طویل تھیں سر اور دونوں شانے کے درمیان کی جگہ فراخ تھی (یعنی سینہ خوب چوڑا تھا) بدن پر بال نہ تھے سینے سے ناف تک بال تھے ہتھیلیاں اور قدم پر گوشت تھے چلتے تھے تو اس طرح جھک کر کہ معلوم ہوتا تھا گویا نشیب میں جارہے ہیں مڑتے تھے تو پورے مڑ جاتے تھے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی آپ خاتم النبیین تھے ہاتھ کے سب سے زیادہ سختی دل کے سب سے زیادہ قوی اور زبان کے سب سے زیادہ سچے تھے آپ سب سے زیادہ ذمہ داری کے پورا کرنے والے تھے طبیعت میں سب سے زیادہ نرم اور میل جول میں سب سے زیادہ گرم تھے جو شخص یکا یک آپ کو دیکھتا تو آپ سے مرعوب ہو جاتا تھا اور جسے صحبت و مخاطبت کا شرف حاصل ہوتا وہ محبت کرنے لگتا تھا۔ آپ کی تعریف کرنے والا کہتا تھا کہ نہ میں نے آپ کے پہلے آپ کا مثل دیکھا نہ بعد۔

عبید اللہ بن محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہ علی رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ اے ابوالحسن ہم سے نبی ﷺ کی تعریف کیجئے تو انہوں نے کہا کہ آپ خوب گورے تھے سفیدی میں سرخی کی آمیزش تھی پلکیں طویل تھیں آنکھیں سیاہ تھیں نہ آپ پست قد تھے نہ بلند و بالا البتہ قد مائل بہ بلندی تھا شانے بڑے تھے سینے پر بال تھے نہ تو آپ کے بال گھونگر یا لے تھے نہ سیدھے ہتھیلی اور قدم پر گوشت تھے جب آپ چلتے تھے تو اس طرح جھک کر چلتے تھے کہ گویا بلندی پر چل رہے ہیں چہرے پر پسینہ موتی معلوم ہوتا تھا۔ میں نے نہ آپ کے قبل کوئی آپ کا مثل دیکھا اور نہ آپ کے بعد۔

علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے یمن بھیجا تھا میں ایک روز لوگوں کو خطبہ سنارہا تھا کہ علمائے یہود میرے ایک عالم اپنے ہاتھ میں ایک کتاب لیے کھڑا اس میں دیکھ رہا تھا اس نے مجھے پکارا اور کہا کہ ہم سے ابوالقاسم کا حلیہ بیان کیجئے۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نہ تو پست قد ہیں اور نہ نمایاں بلند قامت بال نہ بالکل گھونگر یا لے ہیں نہ سیدھے بلکہ دونوں کے درمیان ہیں اور سیاہ ہیں سر بڑا ہے رنگ میں سرخی ہے شانوں کے درمیان ہڈیاں بڑی ہیں ہتھیلیاں اور قدم پر گوشت ہیں سینے سے ناف تک کے بال طویل ہیں پلکیں لمبی ہیں اور ابرو باہم ملی ہوئی ہیں پیشانی کشادہ ہے دونوں شانوں کے درمیان بہت فاصلہ ہے جب آپ چلتے ہیں تو اس طرح جھک کر چلتے ہیں کہ گویا نشیب میں اتر رہے ہیں نہ میں نے آپ کے پہلے آپ کا مثل دیکھا اور نہ آپ کے بعد کوئی آپ کا مثل دیکھا۔

علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ خاموش ہو گیا پھر پوچھا کہ اور کیا ہے میں نے کہا کہ یہی مجھے یاد ہے اس عالم نے کہا کہ آپ ک

آنکھوں میں سرخی ہے، داڑھی خوب صورت اور چہرہ حسین ہے، کان پورے ہیں آپؐ سامنے بھی پورے متوجہ ہوتے ہیں اور پیچھے بھی (یعنی صرف گردن پھیر کر نہیں دیکھتے بلکہ کسی طرف دیکھنا ہوتا ہے تو سارا بدن اسی طرف پھیر لیتے ہیں)۔

علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واللہ آپؐ کی یہی صفت ہے، عالم نے کہا کہ اور بھی ہے۔ پوچھا وہ کیا عالم نے کہا کہ آپؐ میں آگے کی طرف جھکاؤ ہے، علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہی وہ بات ہے جو میں نے اس طرح تم سے بیان کی آپؐ اس طرح چلتے ہیں گویا نیچے اتر رہے ہیں، اس عالم نے کہا کہ میں یہی صفت اپنے والد کی کتاب میں پاتا ہوں اور میں آپؐ کے متعلق یہ بھی پاتا ہوں کہ آپؐ اللہ کے حرم و امن و بیت اللہ سے مبعوث ہوں گے پھر آپؐ ایک ایسے حرم کی طرف ہجرت کریں گے جس کو آپؐ خود حرم بنائیں گے اور اس کی حرمت بھی ایسی ہی ہوگی جیسی حرمت اس حرم کی ہے جس کو اللہ نے حرم بنایا ہے۔ ہم آپؐ کے ان انصار کو جن کے پاس آپؐ نے ہجرت فرمائی ہے اولاد عمر بن عامر کی ایک قوم پانے ہیں جو کھجور کے باغ والے ہیں۔ ان سے قبل اس زمین کا باشندہ یہود کو پاتے ہیں۔

علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپؐ ایسے ہی ہیں، اور وہی رسول اللہ ﷺ ہیں۔ اس عالم نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے نبی اور تمام انسانوں کی طرف اللہ کے رسول ہیں۔ بس اسی عقیدے پر میں زندہ رہوں گا اور اسی پر مروں گا اور ان شاء اللہ اسی پر (قیامت میں) اٹھایا جاؤں گا پھر وہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کرتے تھے اور علی رضی اللہ عنہ انہیں قرآن سکھاتے تھے اور شرائع اسلام بتاتے تھے اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ اور وہ عالم وہاں سے روانہ ہوئے یہاں تک کہ اس (عالم) کی وفات ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہوئی۔ وہ رسول اللہ ﷺ پر ایمان لائے تھے اور آپؐ کی تصدیق کی تھی۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سب لوگوں سے بلند تھے، نہ تو آپؐ بہت دراز قد تھے نہ پست قامت، نہ ایسے گورے جو بالکل سفید ہوں اور نہ سیاہی مائل گندم گوں (بلکہ سرخی مائل تھے) نہ آپؐ کے بال بالکل گھونگر یا لے تھے اور نہ بالکل سیدھے تھے۔

انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ گورے اور چمک دار نورانی رنگ کے تھے، جب آپؐ چلتے تھے تو آگے کو جھک کر چلتے تھے میں نے حریر نہ دیا (ریشم) نہ اور کوئی چیز رسول اللہ ﷺ کی ہتھیلی سے زیادہ نرم پائی نہ میں نے آپؐ کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار مشک یا عنبر سونگھا۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ گندمی رنگ کے تھے، میں نے کوئی مشک یا عنبر رسول اللہ ﷺ کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار نہیں سونگھا۔

انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے قدم پر گوشت تھے۔ آپؐ کو پسینہ بہت آتا تھا، میں نے آپؐ کے بعد آپؐ کا مثل نہیں دیکھا۔

انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نہ پست قد تھے نہ بلند قامت۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی ہتھیلی پر گوشت تھی اور قدم بھی۔ آپؐ خوبصورت تھے میں نے آپؐ

کے بعد آپ کا مثل نہیں دیکھا۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی باہیں لمبی تھیں، دونوں شانوں کے درمیان بہت فاصلہ تھا، آپ پورے آگے کی طرف پھرتے اور پورے پیچھے کی طرف میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ نہ بدخلق تھے نہ بدزبان، اور نہ بازاروں میں بکواس کرنے والے۔

محمد بن سعید المسیب سے مروی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب کسی اعرابی کو یا کسی ایسے شخص کو دیکھتے تھے جس نے نبی ﷺ کو نہیں دیکھا تھا تو کہتے تھے کہ کیا میں تم سے نبی ﷺ کی تعریف نہ بیان کروں؟ آپ کے قدم پر گوشت تھے، پلکیں لمبی تھیں اور گورے تھے۔

محبوب خدا ﷺ کی دلربا دامت:

آپ ایک دم سے سامنے متوجہ ہوتے تھے اور ایک دم سے پیچھے مڑتے تھے میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں آپ کا مثل نہ میں نے پہلے دیکھا نہ بعد کو۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے کوئی چیز رسول اللہ ﷺ سے زیادہ حسین نہیں دیکھی عارض منور گویا ایک درختندہ آفتاب تھا، رسول اللہ ﷺ سے زیادہ تیز رفتار کسی کو نہیں دیکھا گویا آپ کے لیے زمین لپیٹ دی جاتی تھی، ہم لوگ اپنے آپ کو (اتنا تیز چلنے کے لیے) مشقت میں ڈالتے تھے آپ بے ساختہ چلتے تھے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی ہتھیلیاں اور قدم پر گوشت تھے پنڈلیاں اور کلاہیاں بڑی تھیں، دونوں شانے موٹے تھے اور شانوں کے درمیان بہت فاصلہ تھا سینہ بھی خوب چوڑا تھا سر کے بال نہ سیدھے تھے نہ گھونگر یا لے، پلکیں لمبی اور داڑھی خوب صورت تھی، کان پورے تھے، مجمع میں بلند نظر آتے تھے نہ دراز قد نہ پست قامت، سب لوگوں سے زیادہ خوش رنگ تھے، ایک دم سے آگے مڑتے تھے اور ایک دم سے پیچھے مڑتے تھے۔ میں نے تو آپ کا مثل نہ دیکھا نہ سنا۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کی پلکیں لمبی تھیں، کو لے گورے تھے، جب سامنے مڑتے تو پورے مڑتے تھے اور جب پیچھے مڑتے تھے تو پورے مڑتے تھے میری آنکھ نے تو نہ آپ کا مثل دیکھا اور نہ ہرگز کبھی دیکھے گی۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا عارض منور آفتاب کی طرح روشن تھا، اور میں نے رسول اللہ ﷺ سے زیادہ تیز رفتار کسی کو نہیں دیکھا، گویا زمین آپ کے لیے لپیٹ دی جاتی تھی، ہم لوگ کوشش کرتے تھے کہ آپ کو پالیں اور آپ بے ساختہ چلتے تھے۔

حسن کامل کا مرقع کامل:

بنی عامر کے ایک شخص سے مروی ہے کہ ابو امامہ الباہلی کے پاس آئے اور کہا کہ اے ابو امامہ آپ عرب ہیں جو کچھ بیان کریں گے اسے کافی شافی بیان کریں گے لہذا مجھ سے رسول اللہ ﷺ کا ایسا وصف بیان کیجئے کہ گویا میں آنحضرت ﷺ کو دیکھ

رہا ہوں۔

ابو امامہ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ ایسے گورے رنگ کے تھے جس میں سرفی غالب تھی، آنکھیں سیاہ و خوبصورت تھیں، پلکیں لمبی تھیں۔ شانے موٹے تھے، ہاتھوں اور سینے پر بال تھے، ہاتھ پاؤں پر گوشت تھے، سینے پر ناف تک بالوں کی لکیر تھی، مردوں میں آپ سے لمبے بھی تھے اور ٹھگنے بھی تھے (یعنی آپ متوسط اندام تھے) لباس میں دو تھوی (کچے سوت کی) چادریں تھیں، تہہ آپ ﷺ کے گھٹنے سے تین چار انگلیں نیچے رہتی تھی، جب آپ چادر اوڑھتے تو اسے لپیٹتے نہ تھے، بغل کے نیچے کر لیتے تھے، چلتے تو اس طرح جھک کر چلتے کہ گویا بلندی پر چل رہے ہیں، جب آپ مڑتے تو پورے بدن سے مڑتے تھے، آپ ﷺ کے شانوں کے درمیان خاتم نبوت تھی۔

عامری نے کہا کہ آپ نے تو اس طرح مجھ سے وصف بیان کیا کہ اگر آنحضرت ﷺ سب لوگوں میں ہوتے جب بھی میں آپ کو ضرور پہچان لیتا۔

جابر بن سمرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا دہانہ بڑا تھا، اور ایڑی میں گوشت بہت کم تھا۔

جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ﷺ کا وصف بیان کیا تو ان سے ایک شخص نے کہا کہ کیا آنحضرت ﷺ کا چہرہ مثل تلوار کے تھا تو جابر نے کہا کہ شمس و قمر کی طرح گول تھا۔

براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ بلند نظر آتے تھے، آپ کے شانوں کے درمیان کا فاصلہ بہت تھا، بال کان کی لوت تک پہنچ جاتے تھے اور بدن پر سرخ لباس تھا۔

براء سے مروی ہے کہ آپ کے شانوں کے درمیان بہت فاصلہ تھا نہ آپ پست قد تھے نہ بلند قامت۔

یزید الفارسی سے مروی ہے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے امیر بصرہ ہونے کے زمانے میں رسول اللہ ﷺ کو خواب میں دیکھا تو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو خواب میں دیکھا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ شیطان کو میرے مشابہ بننے کی طاقت نہیں، اس لیے جس نے مجھے (میرے واقعی حلیے کے ساتھ) خواب میں دیکھا تو اس نے مجھی کو دیکھا، تو کیا تم اس شخص کا جس کو تم نے خواب میں دیکھا ہے حلیہ بیان کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، میں آپ سے بیان کرتا ہوں۔

میں نے ایک شخص کو دیکھا جو دو آدمیوں کے بیچ میں ہیں (یعنی صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما کے) ان کا جسم و گوشت گندم گوں مالک بہ سفیدی ہے، حسین دہن ہے، آنکھیں سرمہ آلود ہیں، چہرے کے خط و خال خوبصورت ہیں، داڑھی یہاں سے یہاں تک بھری ہوئی ہے (ایک کپٹی سے دوسری کپٹی تک اشارہ کیا) یہاں تک کہ سینے کو بھر دے دے رہی ہے۔ عوف (راوی) نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہ اس کے ساتھ اور کیا تعریف تھی، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اگر تم آنحضرت ﷺ کو بیداری میں دیکھتے تو اس سے زیادہ آپ کی صفت نہ بیان کر سکتے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں نے عیسیٰ و موسیٰ و ابراہیم علیہم السلام کو دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام

تو گھونگر یا لے بال کے سرخ رنگ کے اور چوڑے سینے کے تھے، موسیٰ علیہ السلام گندم گوں خوبصورت جسم والے اور سیدھے بال والے تھے، جیسے رُط (جاٹ) ہوتے ہیں لوگوں نے عرض کی کہ ابراہیم علیہ السلام (کیسے تھے) فرمایا کہ اپنے صاحب یعنی خود آنحضرت ﷺ کو دیکھ لو۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی ﷺ بغیر پورے بدن کے نہ مڑتے تھے، جب چلتے تھے تو اس طرح اطمینان سے کہ آپ میں سستی نہ ہوتی تھی۔

جریری سے مروی ہے کہ میں ابی طفیل کے ہمراہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ میرے سوا کوئی شخص زندہ نہیں رہا۔ جس نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہو، پوچھا کیا آپ نے آنحضرت ﷺ کو دیکھا ہے؟ کہا کہ ہاں میں نے کہا کہ آنحضرت ﷺ کی کیا صفت تھی، انہوں نے کہا کہ آپ گورے خوبصورت اور میانہ قد کے تھے۔

جریری سے مروی ہے کہ میں نے ابی الطفیل سے کہا کہ آپ نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آنحضرت ﷺ گورے اور خوب صورت تھے۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے زیادہ سخی، زیادہ بہادر، زیادہ شجاع و دلیر اور زیادہ نورانی و پاک صاف کسی کو نہیں دیکھا۔

زیادہ مولا نے سعد سے مروی ہے کہ میں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ ﷺ نے خضاب لگایا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نے تو اس کا قصد بھی نہیں کیا، آپ کا بڑھاپا آپ کی ٹھنڈی اور نیچے والے ہونٹ کے درمیان اور آپ کی پیشانی میں تھا (یعنی یہاں کے چند بال سفید ہوئے تھے) اگر میں ان (سفید بالوں) کو گنا چاہتا تو گن سکتا تھا، میں نے کہا کہ آنحضرت ﷺ کی صفت (حلیہ) کیا تھی؟

انہوں نے کہا کہ آپ نہ تو لمبے تھے نہ پست قد، نہ بہت زیادہ گورے اور نہ گندم گوں (سانولے) نہ بال بالکل سیدھے تھے نہ بالکل گھونگر یا لے، داڑھی بہت خوب صورت اور پیشانی کشادہ تھی، رنگ میں سرخی ملی ہوئی تھی، انگلیاں پر گوشت تھیں، سر اور داڑھی کے بال نہایت سیاہ تھے۔

عامر بن سعد نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ (نماز کے بعد) داہنی طرف اس طرح سلام پھیرتے تھے یہاں تک کہ آپ کے رخسارے کا گورا پن نظر آتا تھا (یعنی اس طرح مڑتے تھے کہ صف والے آپ کے رخسار دیکھتے تھے)۔

شیخی کنانہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ گورے قوم میں بلند اور سب سے حسین تھے۔ جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سرخی مائل گورے تھے، انگلیاں پر گوشت تھیں، نہ بلند قامت ہی تھے نہ پست قد، بال نہ تو بالکل سیدھے تھے نہ بالکل گھونگر یا لے، جب چلتے تھے تو لوگ آپ کے پیچھے دوڑتے تھے، تم آپ کا مثل کبھی نہ دیکھو گے۔

ابی الطفیل سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فتح مکہ کے روز دیکھا، نہ تو چہرے کے شدید گورے پن کو کبھی

بھولوں گا اور نہ بالوں کی شدید سیاہی کو وہ لوگ بھی ہیں جو آپؐ سے زیادہ لمبے ہیں اور وہ لوگ بھی ہیں جو آپؐ سے زیادہ پست قد ہیں۔ آپؐ پیادہ چل رہے تھے اور لوگ بھی پیادہ چل رہے تھے میں نے اپنی والدہ خولہ سے کہا کہ یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ ﷺ ہیں، پوچھا آپؐ کا لباس کیا تھا، انہوں نے کہا کہ وہ مجھے اب یاد نہیں۔

ام بلال سے مروی ہے کہ میں نے جب کبھی رسول اللہ ﷺ کا شکم مبارک دیکھا تو مجھے تہ کیے ہوئے کاغذ ضرور یاد آگئے جو ایک دوسرے پر ہوتے ہیں۔

ابوایوب بن خالد سے مروی ہے کہ ایک شخص نے ان سے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی طرح کوئی آدمی مستعد نہیں دیکھا، آپؐ مثل نصف چاند کے تھے۔

عبداللہ بن بریدہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے قدم سب سے خوبصورت تھے۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنا بایاں پاؤں پھیلا دیتے تھے یہاں تک کہ اس کا ظاہری حصہ سیاہ نظر آتا تھا۔

محمد بن علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی گرفت نہایت مضبوط تھی۔

حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سب سے زیادہ نخی سب سے زیادہ بہادر سب سے زیادہ خوبصورت گورے اور خوش رنگ تھے۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی مونچھیں کترواتے تھے اور آپؐ سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی اپنی مونچھیں کترواتے تھے۔

عوف سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہنستے نہ تھے صرف مسکراتے تھے اور پلٹتے تھے تو پورے بدن سے پلٹتے تھے (صرف گردن نہ پھیرتے تھے)۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ مڑتے تھے تو پورے بدن سے مڑتے تھے۔

ققادہ سے مروی ہے کہ اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا جو خوش آواز اور خوب صورت نہ ہو سب سے آخر میں تمہارے نبی کو بھیجا۔ آپؐ بھی خوبصورت و خوش آواز تھے آپؐ (قراءت میں) گنگری نہ کرتے تھے البتہ کسی قدر مد کرتے تھے۔

نافع بن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: میرا بدن بھاری ہو گیا ہے لہذا تم لوگ نماز کے قیام اور رکوع و سجود میں مجھ سے سب سے زیادہ سہولت نہ کرو۔ (یعنی میرے قیام و رکوع و سجود کے بعد کیا کرو؟ کیونکہ امام سے پہلے جائز نہیں)۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کوئی نماز بیٹھ کر نہ پڑھتے جب سن دراز ہوا تب بیٹھنے لگے یہاں تک کہ جب سورت کی تیس یا چالیس آیتیں رہ جاتی تھیں تو اٹھ کر پڑھتے تھے اور سجدہ کرتے تھے۔

عبید اللہ بن عبداللہ بن اقرم الخزاعی سے مروی ہے کہ مجھ سے والد نے بیان کیا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ ایک سخت مین کے ہموار میدان میں تھے جو سرزمین ”عزہ“ میں تھا ہمارے پاس سے ایک رسالہ گزران لوگوں نے راستے کے کنارے نیام کیا مجھ سے والد نے کہا کہ نماز شروع کی گئی اتفاق سے ان لوگوں میں رسول اللہ ﷺ بھی تھے ان لوگوں کے ساتھ میں نے

بھی نماز پڑھی وہ منظر میری آنکھوں میں ہے کہ جب آنحضرت ﷺ سجدہ کرتے تھے تو گویا میں آپ کی دونوں بغلوں کے بال دیکھتا تھا۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو بحالت سجدہ شکم کوزمین سے دور کیے ہوئے دیکھا اور میں نے آپ کے بغلوں کی سفیدی دیکھی۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب سجدہ کرتے تھے تو بغل کی سفیدی نظر آتی تھی۔
میمونہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب سجدہ کرتے تھے تو اپنے ہاتھ دو رکھتے تھے یہاں تک کہ جو آپ کے پیچھے ہوتا تھا وہ آپ کی بغل کی سفیدی دیکھتا تھا۔

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی ﷺ جب سجدہ کرتے تھے تو آپ کی بغل کی سفیدی نظر آتی تھی۔ ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ منظر میری آنکھوں میں ہے کہ نبی ﷺ جب سجدے میں ہوتے تھے تو آپ کے کولوں کی سفیدی نظر آتی تھی۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب سجدہ کرتے تھے تو آپ کی بغل کی سفیدی نظر آتی تھی۔
ابی اسحاق سے مروی ہے کہ ہم سے براء رضی اللہ عنہ نے (رسول اللہ ﷺ کی نماز کی) صفت بیان کی وہ اپنی ہتھیلیوں پر لک گئے سرین بلند کر دیئے۔ اور کہا کہ رسول اللہ ﷺ اسی طرح سجدہ کرتے تھے۔
جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ پیشانی کے بالائی حصے سے مع پیشانی کے بالوں کی جڑ کے سجدہ کرتے تھے۔

جمال رسالت کا بیان بزبان سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما:

حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی ہالہ التمیمی سے دریافت کیا وہ رسول اللہ ﷺ کا حلیہ بیان کیا کرتے تھے میں چاہتا تھا کہ مجھ سے بھی کچھ بیان کریں اس لیے میں ان کے ساتھ رہتا تھا۔
انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ بڑے بزرگ و محترم و معظم تھے چہرہ مبارک اس طرح چمکتا تھا جس طرح چاند چودھویں شب کو چمکتا ہے متوسط قد والے سے لمبے اور دراز قد والے سے چھوٹے تھے سر مبارک بڑا تھا بال نہ گھونگریا لے تھے نہ بالکل سیدھے جب بال بکھرتے تھے تو لنگھی کر لیتے تھے لیکن اگر بڑھاتے تھے تو کانوں کی لو سے آگے نہ بڑھتے تھے رنگ خوبصورت اور چمک دار تھا پیشانی کشادہ تھی ابرو باریک اور دراز تھیں ان دونوں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کی حالت میں متحرک ہو جاتی تھی۔ ناک ایسی تھی کہ بیچ سے بانسہ ابھرا ہوا تھا اور نتھنے چھوٹے چھوٹے تھے آپ کا ایک نور تھا جو ناک کے اوپر اس طرح تھا کہ جو شخص اس پر غور نہ کرے وہ سمجھے کہ آپ کی ناک ہی اتنی بلند ہے داڑھی گھنی تھی دہانہ بڑا تھا دانت باہم ملے ہوئے نہ تھے سینے پر بالوں کی لکیر باریک تھی گردن لمبی اور خوبصورت تھی اس میں خون کی سی خوبصورت سرخی تھی جو صفائی میں چاندی کی طرح تھی مزاج معتدل تھا بدن

بھاری بڑے ضابطہ و متحمل تھے سینہ اور پیٹ برابر تھا (یعنی ناف ابھری ہوئی نہ تھی) سینہ چوڑا تھا، دونوں شانوں کے درمیان بہت فاصلہ تھا پنڈلیاں موٹی تھیں آپ نہایت نورانی و مستقل مزاج تھے گلے سے ناف تک خط کی طرح بالوں کا سلسلہ تھا، شکم و پستان پر بال نہ تھے اس کے علاوہ شانوں اور بانہوں پر اور سینے کے بلند حصوں پر بال تھے۔ ہاتھ کے گٹے لمبے تھے، ہتھیلی کشادہ اور ہڈیاں معتدل تھیں، ہتھیلیاں اور قدم پر گوشت تھے ہاتھ پاؤں لمبے تھے، تلوے زمین پر نہ لگتے تھے، دونوں قدم ہموار تھے جن سے پانی دور رہتا تھا، جب چلتے تھے تو اترنے والے کی طرح اور قدم اس طرح ڈالتے تھے جیسے نشیب میں اتر رہے ہیں، بڑے وقار سے چلتے تھے بڑے تیز رفتار تھے جب چلتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ نیچے اتر رہے ہیں اور جب مڑتے تھے تو پورے بدن سے مڑتے تھے، آنکھ نیچی رکھتے تھے۔ نگاہ جتنی دیر آسمان کی طرف رہتی تھی، یعنی آپ کی اکثر نظر مراقبہ تھا (ہر کام میں) اصحاب سے آگے رہتے تھے جو شخص آپ سے ملتا تھا تو آپ ہی سلام میں سبقت فرماتے تھے۔

حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے (اپنے ماموں سے) کہا کہ مجھ سے آنحضرت ﷺ کی گفتگو کی صفت بھی بیان کیجئے تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ برابر حزن میں رہتے تھے ہمیشہ سوچا کرتے تھے آپ کو کوئی راحت نہ تھی بے ضرورت کلام نہ فرماتے تھے، اکثر خاموش رہتے تھے، کلام کی ابتداء و انتہاء نہایت بلغ طریقے پر کرتے تھے جامع کلام فرماتے تھے جس میں کارآمد حصہ ہوتا تھا بے کار نہ ہوتا تھا اور نہ کوئی کمی ہوتی تھی، آپ خلیق تھے درشت خونہ تھے نعمت کی عظمت میں کمی نہ فرماتے، اگر وہ حقیر ہوتی تو نہ اس کی مذمت کرتے تھے نہ ذائقہ کی برائی اور اس کی تعریف بھی نہ فرماتے، آپ کو دنیا اور جو کچھ دنیا کے لیے ہونا راض نہ کرتا تھا (آپ کی ناراضی صرف دین کے لیے ہوتی تھی) جب کوئی حق دیا جاتا تھا تو نہ اسے کوئی جانتا تھا اور نہ اس کے تلف ہونے پر کوئی شہادت ہوتی تھی تا وقتیکہ آپ اس کے مددگار نہ ہوتے، آپ اپنی ذات کے لیے ناراض نہ ہوتے تھے اور نہ اس کے لیے انتقام لیتے تھے جب اشارہ کرتے تھے تو اپنی پوری ہتھیلی سے اشارہ کرتے تھے اور جب تعجب کرتے تھے تو ہتھیلی کو پلٹ دیتے تھے، جب بات کرتے تھے تو ہتھیلی کو ملا کر دہنی ہتھیلی کو بائیں انگوٹھے کے اندرونی حصے میں مارتے تھے، ناخوش ہوتے تو منہ پھیر لیتے اور رخ بدل لیتے، خوش ہوتے تو آنکھ جھکا لیتے تھے آپ کی اکثر ہنسی مسکراہٹ تک ہوتی تھی اور جب ہنستے تھے تو اوّلے کی طرح چمک دار دانتوں سے ہنستے تھے۔

حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے ایک زمانے تک اس کو حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے پوشیدہ رکھا، جب ان سے بیان کیا تو معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے پہلے اس بات کو معلوم کر چکے ہیں۔ اور میں نے جو کچھ اپنے ماموں سے پوچھا وہ بھی پوچھ چکے ہیں، مجھے معلوم ہوا کہ وہ اپنے والد سے آنحضرت ﷺ کی آمد و رفت و نشست و برخاست اور شکل و صورت پوچھ چکے ہیں، اور انہوں نے اس میں سے کوئی بات چھوڑی نہیں ہے۔

حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے نبی ﷺ کی تشریف آوری کو دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنی ذات کے لیے (گھر میں) تشریف لانے کی (اللہ کی طرف سے) اجازت تھی، جب آپ مکان میں ٹھہرتے تھے تو اس تشریف فرما کی کوئین حصوں میں تقسیم فرماتے تھے۔

(وقت قیام کا) ایک حصہ اللہ کے لیے ایک حصہ اہل بیت (یعنی ازواج) کے لیے اور ایک حصہ اپنی ذات کے لیے اپنے حصے کو اپنے اور لوگوں کے درمیان تقسیم فرما دیتے تھے ان لوگوں سے کوئی چیز ذخیرہ نہ کرتے تھے۔

عادت تھی کہ اہل فضل و کمال کو اپنی مجلس میں ترجیح دیتے اور بقدر ان کی دینی فضیلت کے ان کی قدر کرتے ان میں بعض ایسے تھے جو ایک حاجت والے تھے، بعض دو حاجت والے اور بعض دو سے زائد حاجت والے آپ ان کے ساتھ مشغول رہتے اور خود انہیں سے ان باتوں کو دریافت کر کے جوان کے اور امت کے لیے بہتر ہوتی تھیں اور ان امور کو بتا کے جوان کے لیے مناسب ہوتے انہیں بھی مشغول رکھتے تھے، فرماتے کہ جو حاضر ہے وہ ان امور کو غائب تک پہنچا دے اور میرے پاس اس شخص کی حاجت پہنچا دیا کرو جو خود اپنی حاجت مجھ تک نہ پہنچا سکے تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کو ثواب قدم رکھے گا، آپ کے یہاں سوائے ایسے امور کے کوئی ذکر نہ ہوتا اور نہ آپ کسی کی کوئی بات اس کے سوا قبول فرماتے، لوگ طالب بن کر آتے، بغیر خاص مذاق لیے ہوئے نہ جاتے، اور رہبر و مطلوب بن کر نکلتے تھے۔

حسن بن علیؑ نے کہا کہ میں نے علی بنی اللہ سے آنحضرت ﷺ کے باہر آنے کو پوچھا کہ آپ کیا کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ اپنی زبان رو کے رہتے سوائے ایسی باتوں کے جو لوگوں کے لیے مفید ہوتیں، ان میں الفت پیدا کرتیں اور افتراق یا نفرت سے بچاتیں۔ آپ ہر قوم کے بزرگ کا اکرام فرماتے، اور اسی کو ان لوگوں کا دالی بناتے تھے۔

لوگوں سے پرہیز فرماتے، ان سے بچتے بغیر اس کے کہ کسی سے اپنا رخ یا اخلاق بدلیں، اصحاب کی غم خواری فرماتے اور لوگوں سے خبریں دریافت فرماتے، اچھائی کی تعریف و تائید کرتے اور برائی کی مذمت کر کے اسے کمزور و ست بنا دیتے۔

ہر امر میں معتدل تھے۔ کسی عادت میں اختلاف نہ تھا، لوگوں کی غفلت کے خوف سے غافل نہ ہوتے تھے، ہر صورت حال کے لیے تیار رہتے تھے، اکتاہی نہ فرماتے، قرض حد سے نہ گزرتا کہ لوگ آپ کی مدد کریں۔

آپ کے نزدیک سب سے بہتر و افضل وہ لوگ تھے جن کی خیر خواہی سب سے زیادہ عام ہوتی اور سب سے بڑے مرتبے والے وہ لوگ تھے جو ہمدردی و مددگاری میں سب سے اچھے ہوتے۔

حسن بن علیؑ نے کہا کہ میں نے علی بنی اللہ سے آنحضرت ﷺ کی مجلس کو دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ بغیر ذکر الہی کے نہ اٹھتے تھے نہ بیٹھتے تھے، مکانوں میں قیام نہ کرتے اور ان میں قیام سے منع فرماتے۔

جب کسی قوم کے پاس پہنچتے تو وہیں بیٹھ جاتے تھے جہاں مجلس آپ کو پہنچائے (یعنی لوگوں پر سے پھاندتے نہ تھے بلکہ خالی جگہ جو سب سے آگے ملتی تھی وہیں بیٹھ جاتے تھے) اور اسی کا حکم دیتے تھے۔ اپنے ہر ہمنشین کو (جگہ میں) اس کا حصہ دیتے تھے کوئی یہ خیال نہیں کرتا تھا کہ آپ کے نزدیک اس سے زیادہ قابل احترام دوسرا ہے۔

جو شخص کسی ضرورت سے آپ کے پاس بیٹھ جاتا یا آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تو آپ اس کے ساتھ رہتے یہاں تک کہ وہ خود ہی واپس ہو جائے اور جب کوئی شخص آپ سے کسی حاجت کا سوال کرتا تو آپ اسے یا تو اس کے ساتھ واپس کرتے

تھے یا نرم جواب کے ساتھ آپ کا خلق و کرم سب لوگوں پر وسیع تھا آپ ان کے لیے باپ تھے حق میں آپ کے نزدیک سب برابر تھے۔

آپ کی مجلس صبر و حیا و حلم و امانت کی مجلس تھی جس میں آوازیں بلند نہ ہوتی تھیں نہ گھر والوں کا عیب بیان کیا جاتا تھا نہ لوگوں کی کمزوریوں کی اشاعت کی جاتی تھی سب کے ساتھ مساوات کا سلوک ہوتا جو فضیلت پاتے تقویٰ کی وجہ سے فضیلت پاتے متواضع رہتے بڑوں کا وقار ملحوظ رکھتے چھوٹوں پر رحم کرتے صاحب حاجت کے ساتھ ایثار اور مسافر کی نگہداشت کرتے تھے۔

حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اپنے ہم نشینوں میں آنحضرت ﷺ کی سیرت کیسی تھی؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ ہمیشہ خندہ پیشانی رہنے والے نرم اخلاق والے سہولت کی زندگی بسر کرنے والے تھے نہ تو درشت خو تھے نہ بد مزاج نہ بکواس کرنے والے نہ بے ہودہ بکنے والے نہ عیب جوئی کرنے والے جس چیز کی خواہش نہ ہوتی اس سے تغافل برتتے نہ اس کا عیب بیان کرتے تھے اور نہ اس کی رغبت ظاہر فرماتے تھے۔

تین چیزیں آپ نے خود ترک فرمادی تھیں شک کرنا مال کثیر جمع کرنا اور غیر مفید باتیں کرنا تین چیزوں سے آپ ﷺ نے لوگوں کو چھوڑ دیا تھا آپ کسی کی مذمت نہیں کرتے تھے نہ کسی کو عار دلاتے تھے اور نہ کسی کی پوشیدہ بات کا تجسس کرتے تھے۔

صرف وہی کلام کرتے جس میں آپ کو ثواب کی امید ہوتی تھی جب آپ کلام کرتے تھے تو اہل مجلس اس طرح خاموش ہو جاتے تھے جیسے ان کے سروں پر چڑیاں بیٹھتی ہیں (کہ ڈرا بولیں گے تو اڑ جائیں گی) پھر جب آپ خاموش ہو جاتے تھے تو لوگ کلام کرتے تھے۔

اگر کوئی شخص آپ کے پاس بات کرتا تھا تو لوگ اس کی بات نہیں کاٹتے تھے اس کے فارغ ہونے تک ایسے خاموش رہتے گویا سر پر چڑیاں بیٹھی ہیں۔ لوگ اپنے ابتدائی زمانے کی باتیں کرتے کسی بات پر ہنستے تو آپ بھی ہنستے اور جس شے سے خوش ہوتے اس سے آپ بھی خوش ہوتے۔

مسافر و غریب کو بات کرنے اور سوال کرنے میں اس کی بے ادبی پر صبر فرماتے۔ اس وقت اصحاب اسے دور ہٹا دینا چاہتے تو فرماتے کہ جب تم کسی طالب حاجت کو دیکھو کہ وہ کچھ طلب کرتا ہے تو اس کی مدد کرو سوائے تلافی کرنے والے کے اور کسی کی مدح و ثناء قبول نہیں کرتے تھے آپ کسی کی بات کو قطع نہ کرتے تا وقتیکہ وہ خود ہی نہ گزر جائے اور روکنے یا اٹھ جانے سے قطع نہ کر دے۔

حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میں نے علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ آنحضرت ﷺ کے سکوت کی کیا کیفیت تھی تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کا سکوت چار طور پر تھا، حلم پر احتیاط پر تقریر پر یعنی کسی امر کے برقرار رکھنے مان لینے اور قبول کر لینے پر۔

غور و فکر پر۔

آپ کی تقریر پر نظر ڈالنے اور لوگوں کی بات سننے میں ہوتی تھی (یعنی دیکھ کر یا سن کر کچھ نہ فرماتے تھے جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک درست ہے۔ اور آپ کا غور و فکر ان امور میں ہوتا تھا جو باقی رہنے اور فناء ہونے والے ہیں۔

حلم و صبر کے جامع تھے آپ کو نہ تو کوئی چیز غضب ناک کرتی اور نہ بیزار احتیاط صرف چار باتوں پر منحصر تھی نیکی کے اخذ کرنے میں کہ اس کی پیروی کریں، بدی کے ترک کرنے میں کہ اس سے باز رہیں، عقل سے غور و فکر ایسے امور میں جو امت کی بہبود کے ہوں اور ان امور کو قائم کرنے میں جن سے امت کی دنیا و آخرت جمع ہو۔



مہر نبوت جو رسول اللہ ﷺ کے دونوں شانوں کے درمیان تھی

مہر نبوت:

جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ کی مہر نبوت دونوں شانوں کے درمیان تھی جو جسم و شکل میں کبوتر کے انڈے کے مشابہ تھی۔

جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے وہ مہر نبوت دیکھی جو رسول اللہ ﷺ کی پشت میں کبوتر کے انڈے کے برابر نشان زخم کی طرح تھی۔

جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی پشت کی مہر دیکھی جو انڈے کی مثل تھی۔

ابی رُمثہ سے مروی ہے کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اے ابورمثہ قریب آؤ اور میری پیٹھ سہلاؤ میں قریب گیا، پیٹھ سہلائی، پھر اپنی انگلیاں مہر نبوت پر رکھیں اور انہیں چھوا تو وہ بال تھے جو شانوں کے پاس اکٹھا ہو گئے تھے۔

معاویہ بن قرہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں قبیلہ مزیہ کے ایک گروہ کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور بیعت کی آپ کا کریم کھلا ہوا تھا میں نے اپنا ہاتھ کرتے کے گریبان میں ڈالا اور مہر نبوت کو مس کیا۔

عاصم الاحول بن عبد اللہ بن سرجس سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا آپ اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے میں آپ کے پیچھے گھوم گیا تو آپ میرا مطلب سمجھ گئے اور اپنی پشت سے چادر ہٹادی میں نے مہر نبوت دیکھی جو مثل مٹھی کے تھی جس کے گرد ایسے خال تھے جو سے معلوم ہوتے تھے میں آیا اسے بوسہ دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی مغفرت کرے فرمایا تمہاری بھی مغفرت کرے بعض حاضرین نے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ فرمایا ہاں تمہارے لیے بھی اور آپ نے یہ آیت پڑھی: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لَذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ (اے نبی آپ اپنی لغزشوں کی مغفرت کی دعا کیجئے اور مؤمنین و مؤمنات کے لیے بھی)۔

ایک دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ ”پھر میں آیا اسے بوسہ دیا اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ میرے لیے دعائے مغفرت کیجئے۔ فرمایا کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے۔“

ابی رُمثہ سے مروی ہے کہ میں اپنے والد کے ہمراہ رسول اللہ ﷺ کے قریب گیا والد نے زخم کی طرح کا ایک نشان رسول اللہ ﷺ کے شانوں کے درمیان دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ میں بڑا طیب ہوں کیا اس کا علاج نہ کر دوں؟ فرمایا نہیں اس کا

طیب وہی ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے۔

ابی رمثہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کے شانے میں اونٹ کی میٹھی یا کبوتر کے انڈے کی طرح کا نشان ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا اس کی دوا نہ کروں؟ کیوں کہ ہم لوگ اس خاندان کے ہیں جو طہابت کرتے ہیں فرمایا ”اس کی دوا وہی کرے گا جو اسے ظہور میں لایا ہے۔“

ابی رمثہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس گیا، ہمراہ میرا بیٹا بھی تھا، فرمایا کیا تم اس سے محبت کرتے ہو؟ عرض کی: جی ہاں، فرمایا نہ یہ تم پر شفقت کرے اور نہ تم اس پر شفقت کرو۔

پھر میں متوجہ ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کے شانوں کے پیچھے مثل سیب کے نشان ہے۔ عرض کی: یا رسول اللہ میں دوا کرتا ہوں اجازت دیجئے کہ اس میں شگاف کروں اور اس کا علاج کروں، فرمایا: اس کا طیب وہی ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے۔

ابی رمثہ سے مروی ہے کہ میں نبی ﷺ کے پاس گیا، ہمراہ میرا ایک بیٹا بھی تھا۔ میں نے کہا اے میرے بیٹے یہ اللہ کے نبی ہیں جب اس نے آپ کو دیکھا تو ہیبت سے کانپنے لگا۔ جب میں پہنچا تو عرض کی یا رسول اللہ میں اطباء کے خاندان سے ہوں، میرے والد بھی زمانہ جاہلیت میں طیب تھے۔ ہماری یہ بات مشہور ہے مجھے اس نشان کے بارے میں جو آپ کے شانوں کے درمیان ہے علاج کی اجازت دیجئے، اگر یہ زخم ہے تو میں اس میں شگاف کروں گا، اور اللہ اپنے نبی کو شفا دے گا، فرمایا کہ اس کا سوائے اللہ کے کوئی طیب نہیں، وہ کبوتر کے انڈے کے برابر تھا۔

رسول اللہ ﷺ کے بال مبارک:

براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے ایسے بال تھے جو شانوں سے لگتے تھے۔

براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے بال کان کی لونک تھے۔

براء سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کی مخلوق میں کسی کو نہیں دیکھا کہ سرخ جوڑے میں رسول اللہ ﷺ سے زیادہ حسین معلوم ہوتا، آپ کے بال شانوں کے قریب لگتے تھے۔

براء سے مروی ہے کہ میں نے کسی کو رسول اللہ ﷺ سے زیادہ خوب صورت نہیں دیکھا، جب آپ سرخ لباس میں پیادہ چلتے تھے اور بال دونوں شانوں کے قریب ہوتے تھے۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے بال کانوں سے متجاوز نہ ہوتے تھے۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے بال ایسے تھے جو شانوں تک پہنچتے تھے یا شانوں سے لگتے تھے۔

انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے بال کانوں سے متجاوز نہ ہوتے تھے۔

ابی رمثہ سے مروی ہے کہ میں خیال کرتا تھا کہ رسول اللہ ﷺ انسانوں کے مشابہ نہ ہوں گے دیکھا تو آپ بشر تھے اور آپ کے پٹے (کانوں تک بال) تھے۔

علی رضی اللہ عنہ سے نبی ﷺ کا وصف مروی ہے کہ آپ پٹے والے تھے۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے بال پٹے سے زیادہ اور پورے بالوں سے کم تھے۔

ابو التوکل الناجی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے بال کانوں کی لو سے نیچے تھے جو آپ کی لو کو چھپائے رہتے تھے۔

ام ہانی سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ کی چار مینڈھیاں یعنی بال تھے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اہل کتاب اپنے بال (بغیر کنگھی کے) پڑے رکھتے تھے اور مشرکین اپنے سروں میں کنگھی

کرتے تھے رسول اللہ ﷺ کو جس معاملے میں حکم نہیں دیا جاتا تھا اس میں اہل کتاب کی موافقت پسند فرماتے تھے۔ آنحضرت ﷺ نے اپنی پیشانی کے بال پڑے رکھے بعد کو کنگھی کی۔

حکیم بن عمیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کنگھی کرتے تھے۔ کنگھی کرنے کا حکم دیتے تھے اور گردن تک بال رکھنے سے منع کرتے تھے۔

ابن شہاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب تک اللہ نے چاہا پیشانی کے بال چھوڑے رہے اس کے بعد کنگھی کرنے لگے۔

جابر بن سمرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سر اور داڑھی کے بال بڑھائے تھے۔

حسن بن محمد بن الحنفیہ سے مروی ہے کہ میں نے جابر بن عبد اللہ سے نبی ﷺ کے غسل کو دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ اپنے سر پر تین چلو پانی ڈالتے تھے حسن نے کہا کہ میرے بال بہت ہیں تو جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے بھتیجے رسول اللہ ﷺ کے بال تمہارے بالوں سے بہت زیادہ اور بہت زیادہ اور بہت پاکیزہ تھے۔

جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو اپنی پیشانی کے بالوں کی جڑ پر سجدہ کرتے دیکھا۔

انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے قتادہ رضی اللہ عنہ کے بالوں سے زیادہ کسی کے بال نبی ﷺ کے بالوں کے مشابہ نہیں دیکھے اس روز قتادہ رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے۔

انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ﷺ کو اس طرح دیکھا کہ نائی آپ کی حجامت بنا رہا تھا اور اصحاب آپ کے گرد گھوم رہے تھے جو آپ کے بال سوائے ہاتھ میں لینے کے گرانا نہیں چاہتے تھے۔ داڑھی مبارک کے بال اور بڑھاپے کے آثار:

حمید الطویل سے مروی ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ کیا رسول اللہ ﷺ نے خضاب لگایا انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو بڑھاپے کی بدتریبی نہیں دی آپ میں بڑھاپے کا کوئی حصہ نہ تھا جس کو خضاب کیا جاتا داڑھی کے اگلے حصے میں صرف چند بال (سفید) تھے اور آپ کا بڑھاپا بیس بالوں تک بھی نہیں پہنچا تھا۔

حمید الطویل سے مروی ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ ﷺ خضاب لگاتے تھے انہوں نے کہا کہ آپ کے بالوں کی سیاہی میں سفیدی کی آمیزش اس سے بہت کم تھی (یعنی بال اتنے سفید نہ ہونے پائے تھے کہ خضاب کی ضرورت ہوتی) آپ کی داڑھی کے سفید بال بھی بیس کی مقدار تک نہ پہنچنے پائے تھے زیریں لب سترہ بال سفید تھے۔

ثابت سے مروی ہے کہ انس سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ ﷺ بوڑھے ہو گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو بڑھاپے کا عیب نہیں دیا، آپ کے سر اور داڑھی میں سترہ اٹھارہ بال سفید تھے۔

ثابت البنانی سے مروی ہے کہ انس رضی اللہ عنہ سے نبی ﷺ کے خضاب کو دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی ﷺ نے ایسا بڑھا پائیں دیکھا جس میں خضاب لگایا جاتا ہے صرف زیریں لب کے کچھ بال کھجوری تھے، جن کو اگر تم چاہتے تو شمار کر سکتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات ایسے وقت ہوئی کہ سر اور داڑھی میں بیس بال بھی سفید نہ تھے۔

قائدہ سے مروی ہے کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا رسول اللہ ﷺ نے خضاب لگایا، انہوں نے کہا کہ آپ اس عمر کو نہیں پہنچے کچھ بڑھا پا صرف آپ کی کا کلوں میں تھا۔

محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، کیا رسول اللہ ﷺ نے خضاب لگایا، انہوں نے کہا کہ آپ اس عمر کو نہیں پہنچے لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خضاب لگایا ہے پھر میں اسی روز آیا اور خضاب لگایا۔

انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے کبھی خضاب نہیں لگایا، داڑھی کے اگلے حصے میں زیریں لب تھوڑی سی سفیدی تھی اور سر یا کاکلوں میں تو اس قدر قلیل تھی کہ نظر بھی نہ آتی تھی۔

ابن سیرین سے مروی ہے کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے خضاب لگاتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ آپ خضاب کی حد تک نہیں پہنچے داڑھی میں چند سفید بال تھے۔

ساک بن حرب سے مروی ہے کہ میں نے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کیا رسول اللہ ﷺ بوڑھے ہو گئے تھے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کے سر اور داڑھی میں بڑھا پانا تھا، صرف چند بال آپ کی مانگ میں سفید تھے، جب تیل لگاتے تھے تو تیل ان کو پوشیدہ کر لیتا تھا۔

جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان سے نبی ﷺ کے بڑھاپے کو دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جب آپ اپنے سر میں تیل لگاتے تھے تو بڑھا پانا ظاہر نہ ہوتا تھا اور جب تیل نہیں لگاتے تھے تو ظاہر ہوتا تھا۔

جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی پیشانی اور داڑھی کے بال کھجوری ہو گئے تھے جب آپ اس میں تیل لگاتے اور کنگھی کرتے تھے تو ظاہر نہ ہوتے تھے اور جب بال نکھر جاتے تھے تو ظاہر ہوتے تھے۔

یوسف بن طلق بن حبیب سے مروی ہے کہ ایک جام نے رسول اللہ ﷺ کی مونچھیں کتریں، داڑھی میں سفیدی دیکھی تو کترنے کا قصد کیا، نبی ﷺ نے اپنے ہاتھ سے اسے روکا اور فرمایا کہ اسلام میں جو کچھ بھی بوڑھا ہوگا قیامت میں اس کے لیے ایک نور ہوگا۔

قائدہ سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا رسول اللہ ﷺ نے خضاب لگایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ آپ اس حد تک نہیں پہنچتے تھے۔

ایک شخص بنی کنانہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ذوالحجاز کے بازار میں پیدل جاتے ہوئے دیکھا، آپ کے بالی گھونگر یا لے، سر اور داڑھی کے بال سیاہ تھے۔

زیادہ مولائے سعد سے مروی ہے کہ میں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا رسول اللہ ﷺ نے خضاب لگایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نے تو اس کا قصد بھی نہیں کیا، آپ کا بڑھا پا داڑھی میں زیریں لب اور پیشانی میں تھا اگر میں اسے شمار کرنا چاہتا تو شمار کر سکتا تھا۔

ابہشیم بن دہر الاسلمی سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کا بڑھا پا زیریں لب اور پیشانی میں دیکھا میں نے اس کا اندازہ کیا تو تیس عدد سفید بال ہوں گے۔

بشیر مولائے مازنین سے مروی ہے کہ میں نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ ﷺ نے خضاب لگایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ کا بڑھا پا خضاب کا محتاج نہ تھا، زیریں لب اور پیشانی میں خفیف سی سفیدی تھی اگر ہم اسے شمار کرنا چاہتے تو شمار کر لیتے (کہ کتنے بال سفید ہیں)۔

جریر بن عثمان سے مروی ہے کہ میں نے عبد اللہ بن بشر سے کہا کہ کیا نبی ﷺ بوڑھے ہو گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ زیریں لب چند بال سفید ہو گئے تھے۔

جریر بن عثمان الرجبی سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے صحابی عبد اللہ بن بشر سے دریافت کیا کہ کیا نبی ﷺ بوڑھے ہو گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ آپ اس (عمر سے تو جوان تھے لیکن داڑھی میں یا زیریں لب چند بال سفید ہو گئے تھے۔

ابی حنیفہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ایسے وقت دیکھا کہ آپ کا یہ حصہ یعنی زیریں لب سفید ہو گیا تھا، ابو حنیفہ سے کہا گیا کہ آپ اس زمانے میں کیا کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں تیر کی لکڑی بناتا تھا اور اس میں لگاتا تھا۔

حنیفہ کے والد وہب السوائی سے مروی ہے کہ میں نے نبی ﷺ کو دیکھا کہ نیچے والے ہونٹ میں ریش بچہ میں ایک انگلی سفیدی تھی۔

ابی حنیفہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ ریش بچہ سفید ہو گیا تھا۔

قاسم بن الفضل سے مروی ہے کہ میں محمد بن علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور حلت بن زید کی طرف دیکھا جن کے ریش بچہ پر بڑھا پے کی آمیزش دوڑ رہی تھی (یعنی زیریں لب سفید ہو گئے تھے) محمد نے کہا کہ اس طرح نبی ﷺ کے بالوں کی سیاہی سفیدی کی آمیزش آپ کے ریش بچہ میں جاری تھی حلت اس سے بہت سرور ہوئے۔

ججاج بن دینار بن محمد بن واسح سے مروی ہے کہ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ ﷺ بڑھا پا بہت تیزی سے آپ کی طرف آ رہا ہے، فرمایا کہ مجھے سورت ﴿الراکت﴾ احکمت آیاتہ ثم فصلت نے اور ایسی ہی دوسری سورتوں نے بوڑھا کر دیا (یعنی ان سورتوں میں قیامت کے جو ہولناک احوال بیان کیے گئے ہیں ان کے خوف سے مجھ پر بڑھا پا طاری ہو گیا)۔

ابی سلمہ سے مروی ہے کہ عرض کیا گیا۔ یا رسول اللہ ہم لوگ سر مبارک میں بڑھا پا دیکھتے ہیں، فرمایا کہ کیونکر بوڑھا نہ ہوں

حالانکہ میں سورۃ ﴿ہود واذا الشمس کورت﴾ پڑھتا ہوں۔

جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ ایک شخص نے نبی ﷺ سے عرض کی میں ولادت میں آپ سے بڑا ہوں اور آپ مجھ سے بہتر و افضل ہیں (پھر آپ مجھ سے پہلے کیوں بوڑھے ہو گئے) فرمایا کہ سورۃ ہود اور اس کے ساتھ کی سورتوں نے اور ان واقعات نے جو مجھ سے پہلے امتوں کے ساتھ کیے گئے مجھے بوڑھا کر دیا۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا: یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ بھی بوڑھے ہو گئے فرمایا کہ مجھے تو سورۃ ﴿الواقعه والمرسلات وعم یتسالون واذا الشمس کورت﴾ ہود نے بوڑھا کر دیا۔

عطا سے مروی ہے کہ بعض اصحاب نبی ﷺ نے عرض کی یا رسول اللہ بڑھا پا بہت تیزی سے آپ کی طرف آ رہا ہے فرمایا ہاں مجھے ہود اور اس کی سی سورتوں نے بوڑھا کر دیا، عطاء نے کہا کہ اس کی سی سورتیں ﴿اقترب الساعة والمرسلات واذا الشمس کورت﴾ ہیں۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ سے عرض کیا گیا کہ آپ بوڑھے ہو گئے اور آپ پر بڑھا پا جلد آ گیا فرمایا مجھے سورۃ ہود اور اس کی سی دوسری سورتوں نے بوڑھا کر دیا۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو کس نے بوڑھا کر دیا فرمایا کہ سورۃ ہود ﴿الواقعه والمرسلات وعم یتساءلون واذا الشمس کورت﴾ نے۔

قنادہ سے مروی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ بڑھا پا آپ کی طرف تیزی سے آ گیا فرمایا کہ مجھے ہود اور اس کی سی سورتوں نے بوڑھا کر دیا۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس وقت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما منبر کے سامنے بیٹھے تھے ان دونوں کو رسول اللہ ﷺ اپنی بعض ازواج کے حجرے سے برآمد ہوتے ہوئے اپنی داڑھی پونچھتے اسے اٹھاتے اور دیکھتے ہوئے نظر آئے۔

انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آنحضرت ﷺ کی داڑھی میں بہ نسبت سر کے بڑھاپے کا اثر زیادہ تھا، جب آپ ان دونوں کے پاس آ کر ٹھہرے تو آپ نے سلام کیا، ابوبکر رضی اللہ عنہ نرم دل تھے اور عمر رضی اللہ عنہ سخت مزاج، ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر خدا ہوں آپ پر بڑھا پا تیزی سے آ رہا ہے، آنحضرت ﷺ نے اپنی داڑھی ہاتھ سے اٹھائی اور اسے دیکھا، ابوبکر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہاں مجھے سورۃ ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر خدا ہوں اس کی بہنیں کون سی ہیں۔ فرمایا کہ ﴿الواقعه القارعه. سأل سائل و اذا الشمس کورت الحاقه وما الحاقه﴾۔

ثبوت خضاب کی روایات:

عثمان بن عبد اللہ بن مویہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے تو وہ ہمارے پاس ایک تھیلی لائیں جس میں رسول اللہ ﷺ کے کچھ بال تھے اس میں حنا اور نیل کا (سرخ) خضاب لگا ہوا تھا۔

ابن مویہ سے مروی ہے کہ انہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ کے سرخ بال دکھائے۔

عکرمہ بن خالد سے مروی ہے کہ میرے پاس رسول اللہ ﷺ کے بال ہیں جو رنگین ہیں اور خوشبودار ہیں۔

یحییٰ بن عباد نے اپنے والد سے روایت کی کہ ہمارا ایک سونے کا گھنگرہ تھا جس کو لوگ دھوتے تھے اس میں رسول اللہ ﷺ کے بال تھے چند بال نکالے جاتے تھے جن کا رنگ حنا اور نیل سے بدل دیا گیا تھا۔

عثمان بن حکیم سے مروی ہے کہ میں نے ابی عبیدہ بن عبد اللہ بن زمعہ کے خاندان کے پاس رسول اللہ ﷺ کے چند بال دیکھے جو حنا سے رنگے ہوئے تھے۔

ربیعہ بن ابی عبد الرحمن سے مروی ہے کہ میں نے نبی ﷺ کے چند بال دیکھے جو سرخ تھے میں نے ان سے دریافت کیا تو کہا کہ یہ خوشبو سے سرخ ہو گئے ہیں۔

عبد اللہ بن بریدہ سے مروی ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ ﷺ نے خضاب لگایا تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔
ابی جعفر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے دونوں رخساروں کے بال کچھڑی ہو گئے تھے آپ نے ان پر حنا اور نیل کا خضاب لگایا۔

ابی رمثہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کے بال کان کی لوتک تھے ان میں حنا کا اثر تھا۔
ابن جریج سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا: میں دیکھتا ہوں کہ آپ بھی اپنی (سفید) داڑھی کا رنگ بدلتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ بھی (کبھی کبھی) اپنی داڑھی کا رنگ بدلتے تھے۔

عبید بن جریج سے مروی ہے کہ میرے والد نے کہا میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس گیا اور کہا: میں دیکھتا ہوں کہ سوائے اس زردی کے آپ اپنی داڑھی کا رنگ اور کسی رنگ سے نہیں بدلتے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ بھی یہی کرتے تھے۔

نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنی داڑھی خلو (خوشبو) سے زرد رنگتے تھے اور کہتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ بھی زرد رنگتے تھے۔

عبد الرحمن الثمالی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی داڑھی کا رنگ پیری کے عرق سے بدلتے تھے اور عجیبوں کی مخالفت کے لیے بالوں کا رنگ بدلنے کا حکم دیتے تھے۔

کراہت خضاب کی روایات:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بڑھاپے کا (بالوں کا سفید) رنگ بدل دو اور یہود و نصاریٰ کی مشابہت نہ کرو۔

زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بڑھاپے کو بدل دو اور یہود کی مشابہت نہ کرو۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بڑھاپا بدل دو اور یہود کی مشابہت نہ کرو۔

ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ سب نے اچھی چیز جس سے تم اپنے بڑھاپے کا رنگ بدلو حنا اور

نیل ہے۔

کہمیس نے عبد اللہ بن بریدہ سے روایت کی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا وہ سب سے اچھی چیز جس سے تم اپنے بڑھاپے کو

بدلو حنا اور نیل ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا، یہود و نصاریٰ خضاب نہیں کرتے، لہذا تم لوگ ان کی مخالفت کرو۔

ابراہیم بن محمد بن سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہود اپنے بڑھاپے کے ساتھ کیا برتاؤ

کرتے ہیں؟ لوگوں نے عرض کی وہ اسے کسی رنگ سے نہیں بدلتے، فرمایا کہ تم لوگ ان کی مخالفت کرو اور سب سے افضل چیز جس سے تم بڑھاپے کو بدلو حنا اور نیل ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا، یہود و نصاریٰ خضاب نہیں کرتے، لہذا تم لوگ ان کی مخالفت کرو۔

ابراہیم بن محمد بن سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہود اپنے بڑھاپے کے ساتھ کیا برتاؤ

کرتے ہیں؟ لوگوں نے عرض کی وہ اسے کسی رنگ سے نہیں بدلتے، فرمایا کہ تم لوگ ان کی مخالفت کرو اور سب سے افضل چیز جس سے تم بڑھاپے کو بدلو حنا اور نیل ہے۔

اسود بن یزید سے مروی ہے کہ انصار رسول اللہ ﷺ کے پاس گئے، ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے، آپ نے

انہیں رنگ بدلنے کا حکم دیا، تو لوگ سرخ و زرد کے درمیان ہو گئے۔

قنادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس کو لا محالہ رنگ بدلنا پڑے تو وہ مہندی اور نیل کا خضاب کرے۔

عبد اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ بڑھاپے کو (سیاہی سے) بدلنا پسند فرماتے تھے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کے سامنے سے ایک شخص کا گزر رہا جو مہندی کا خضاب لگائے ہوئے تھا، فرمایا:

کیسا اچھا (رنگ) ہے اس کے بعد ایک اور شخص آپ کے سامنے سے گزرا جو مہندی اور نیل کا خضاب لگائے ہوئے تھا، فرمایا یہ تو ان سب سے اچھا ہے۔

ابن شہاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: رنگوں سے (بڑھاپے کو) بدل دیا کرو اور اس میں مجھے سب سے

زیادہ پسند وہ رنگ ہے جو سب سے زیادہ گہرا ہو۔

عمر بن العاص سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سیاہ خضاب سے منع فرمایا:

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آخر زمانہ میں ایک قوم ہوگی جو (جنگلی) کوتروں کے پوٹوں

کی طرح سیاہ خضاب لگائے گی، وہ لوگ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھیں گے۔

عامر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس شخص کی طرف (رحمت سے) نہ دیکھے گا جو

سیاہ خضاب لگائے گا۔

مجاہد سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو دیکھا کہ بال سیاہ کیے ہوئے ہے شام کو جب دیکھا تو بال سفید تھے فرمایا تم کون ہو عرض کی میں فلاں ہوں فرمایا تم سلطان ہو۔

زہری سے مروی ہے کہ توریت میں لکھا ہے کہ وہ شخص ملعون ہے جو داڑھی کو سیاہی سے بدلے۔

عبد الملک بن ابی سلیمان سے مروی ہے کہ عطاء سے وسمہ کے (سیاہ) خضاب کو دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں کی بدعات میں سے ہے میں نے رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کی ایک جماعت کو دیکھا ہے مگر ان میں سے کسی کو وسمہ کا خضاب لگاتے نہیں دیکھا وہ لوگ تو صرف مہندی اور نیل اور اسی زردی کا خضاب لگاتے تھے۔
بالوں پر چونے کا لیپ:

ابراہیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ (جب پوشیدہ بال دور کرنے کے لیے) چونے کا لیپ لگاتے تھے تو اپنے ہی ہاتھ سے پوشیدہ مقام اور زیر ناف کام لیتے تھے۔

حبیب سے مروی ہے کہ نبی ﷺ جب لیپ لگاتے تھے تو اپنے ہی ہاتھ سے زیر ناف کام لیتے تھے۔

حبیب بن ابی ثابت سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے چونہ لگایا۔

قتادہ وغیرہ سے مروی ہے کہ نہ تو رسول اللہ ﷺ نے نہ ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم نے نہ خلفاء نے اور نہ حسن رضی اللہ عنہ نے چونہ لگایا۔

قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نہ رسول اللہ ﷺ نے چونہ لگایا نہ ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم نے۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ناخن اور مونچھیں کترانا اور زیر ناف کے بال مونڈنا فطرت ہے۔
چھپنے لگوانا:

انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے چھپنے لگوائے۔ ابوطیب نے آپ کے چھپنے لگائے آنحضرت ﷺ نے ان کے لیے (بطور اجرت) دو صاع (غلے) کا حکم دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ ان پر جو محصول ہے اس میں تخفیف کر دیں۔

جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ۱۸ رمضان کو دن کے وقت ابوطیبہ چھپنے لگانے کے آلات ہمارے پاس لائے پوچھا تم کہاں تھے انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس تھا آپ کے چھپنے لگا رہا تھا۔

جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ابوطیبہ کو بلایا انہوں نے آپ کو چھپنے لگائے دریافت فرمایا کہ تمہارا خراج کتنا ہے عرض کی کہ تین صاع آپ نے ایک صاع کم کر دیا۔

جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابوطیبہ نے رسول اللہ ﷺ کے چھپنے لگائے استفسار فرمایا کہ تمہارا خراج کتنا ہے عرض کی کہ اتنا اتنا ہے آپ نے ان کا خراج کم کر دیا اور انہیں (اس پیشے سے) منع نہیں کیا۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے چھپنے لگوائے ابوطیبہ جو بعض انصار کے آزاد کردہ غلام تھے انہوں نے آپ کے چھپنے لگائے آپ نے انہیں دو صاع غلہ عطا فرمایا ان کے آقاؤں سے فرمایا کہ ان کے محصول میں کمی کر دیں

اور فرمایا کہ چھپنے لگانا تمہاری بہترین دوا ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے چھپنے لگوائے اور جام کو اس کی اجرت عطا فرمائی۔ اگر یہ (اجرت) ناپاک ہوتی تو آپؐ اسے نہ دیتے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے روزے کی حالت میں چھپنے لگوائے اس روز آپؐ پر غشی طاری ہو گئی۔ اسی لیے روزہ دار کے لیے چھپنے لگوانا مکروہ ہے۔

عامر سے مروی ہے کہ بنی یثربہ کے ایک غلام نے رسول اللہ ﷺ کے چھپنے لگائے فرمایا: تمہارا خراج کتنا ہے اس نے کہا کہ اتنا اتنا ہے آپؐ نے اس کے خراج میں کمی کر دی اور اجرت نہیں دی۔

سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس تھا آپؐ نے ایک جام کو بلایا، اس نے سینگوں کے چھپنے لگانے کے آلات سے آپؐ کے چھپنے لگائے، دو چھری کی نوک سے آپؐ کے کاٹنے لگا، ایک اعرابی آیا، اس نے آپؐ کو دیکھا اور وہ جانتا نہ تھا کہ چھپنے لگانا کیا چیز ہے، پریشان ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ آپؐ اسے کس بات پر (اجرت) دیتے ہیں یہ تو آپؐ کی کھال کاٹا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ جامت (چھپنے لگانا) ہے اس نے کہا کہ جامت کیا چیز ہے فرمایا: لوگ جو دوا کرتے ہیں اس میں سب سے بہتر چیز ہے۔

عمرو بن شعیب نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے چھپنے لگوائے اور آپؐ نے جام کو اس کی اجرت عطا فرمائی۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے چھپنے لگوائے، جام کو اجرت دی اور زائد دی۔

زید بن ثابت سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مسجد میں (بحالت اعتکاف) چھپنے لگوائے۔

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مسجد میں چھپنے لگوائے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بحالت احرام چھپنے لگوائے جس کا سبب یہ تھا کہ آپؐ نے اس بکری کے گوشت کا ایک لقمہ کھالیا تھا جس کو اہل خیبر کی ایک عورت نے زہر آلود کر دیا تھا، جب سے آپؐ نے یہ زہر آلود لقمہ کھالیا، برابر شاکی (مریض) ہی رہے۔

عطاء سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بحالت احرام چھپنے لگوائے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بحالت احرام و روزہ چھپنے لگوائے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بحالت روزہ چھپنے لگوائے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بحالت احرام چھپنے لگوائے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک درد کی وجہ سے بحالت احرام چھپنے لگوائے، دریافت کیا گیا کہ

کیا آنحضرت ﷺ نے بحالت احرام مسواک بھی کی تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ہاں۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ تین پچھنے لگواتے تھے، دو گردن کی رگوں میں اور ایک گدی میں۔ اسماعیل بن محمد بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے سر کی ابھری ہڈی پر جوتا لو کے اوپر ہے اپنا ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہی وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ ﷺ پچھنے لگواتے تھے۔ عقیل وغیرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اس (حجام) کو فریاد رس کہا کرتے تھے (اس کا نام مغیثہ رکھا تھا)۔

عبدالرحمن بن خالد بن الولید سے مروی ہے کہ وہ اپنے سر پر اور دونوں شانوں کے درمیان پچھنے لگوا کر تے تھے لوگوں نے ان سے کہا کہ اے امیر یہ حجامت کیسی ہے تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ بھی اسی کے پچھنے لگواتے تھے اور کہا کہ جو اپنا یہ خون بہائے گا تو اسے نقصان نہ ہوگا، کیا ایک چیز سے دوسری چیز کا علاج نہ کیا جائے۔

حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ دو پچھنے گردن کی رگوں میں لگواتے تھے اور ایک گدی میں آپ طاق عدد پچھنوں کا حکم دیتے تھے۔

قائدہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ دو پچھنے گردن کی رگوں میں لگواتے تھے اور ایک گدی میں۔

جبیر بن نفیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وسط سر میں (بھی) پچھنے لگوائے۔

عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وسط سر میں پچھنے لگوائے آپ اس کو (مرض کا) دور کرنے والا فرمایا کرتے تھے (یعنی اس کا نام معقد رکھا تھا)۔

بکیر بن الاشج سے مروی ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے پاس اس وقت گئے جب آپ وسط سر کی رگ میں پچھنے لگوارہے تھے انہوں نے کہا کہ اے ابن ابی کبشہ آپ نے وسط سر کی رگ میں کیوں پچھنے لگوائے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اے ابن حابس اس میں درد سرداڑھوں کے درد نیند اور بیماری کی شفاء ہے راوی کہتے ہیں کہ مجھے شک ہے کہ آپ نے جنون بھی فرمایا۔

حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے سر میں پچھنے لگوائے اور اصحاب کو بھی اپنے سروں میں پچھنے لگوانے کا حکم دیا۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سر میں پچھنے لگوانا ہی مغیثہ (یعنی فریاد رس و شفا دہندہ) ہے۔

جب میں نے (خیبر والی) بیہودہ کا (زہر آلود) کھانا کھالیا تو مجھے جبریل نے اس کا مشورہ دیا۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ وہ سب سے بہتر چیز جس سے تم علاج کرو پچھنے لگوانا ہے اور قسط بحری (ایک دوا کا نام) ہے۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے جس شب میں معراج ہوئی میں ملائکہ کے جس گروہ پر گزرا انہوں نے یہی کہا کہ اے محمد (ﷺ) اپنی امت کو حجامت (پچھنے لگوانے) کا حکم دیجئے۔

عمرو بن سعید بن ابی الحسن سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (معراج میں) میں جس فرشتے کے پاس سے یا ملائ اعلیٰ سے گزرا سب نے مجھے پچھنے لگوانے کا مشورہ دیا۔

معقل بن یسار سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مہینے کی ۷۱ تاریخ شنبے کے روز بچھنے لگوانا سال بھر کی بیماری کی دوا ہے۔

ام سعد سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ بچھنے لگواتے تھے تو میں نے آپ کو خون دھن کرنے کا حکم دیتے سنا۔ ہارون بن رباب سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بچھنے لگوائے ایک شخص سے فرمایا کہ اسے اس طرح دھن کر دو کہ کوئی کتا نہ کھودے۔

ابو جعفر سے مروی ہے کہ میں روزہ دار کے لیے بچھنے لگانے کو اس لیے ناپسند کرتا ہوں کہ نبی ﷺ نے بحالت روزہ بچھنے لگوائے تھے تو آپ بے ہوش ہو گئے تھے۔ عکرمہ نے کہا کہ اس وقت ایک شخص منافق ہو گیا۔ (یعنی جب اس نے آپ کی بے ہوشی دیکھی تو اسے آپ کی نبوت میں شک ہوا اور وہ منافق ہو گیا)۔

ابو جعفر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ روغن کنجد کی ناس لیتے تھے اور سر کو بیری کے پانی سے دھوتے تھے۔

قص شوارب

موچھیں کتر وانا:

ابن جریج سے مروی ہے کہ انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا کہ میں نے آپ کو موچھیں کتر وانا دیکھا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو اپنی موچھیں کتر وانا دیکھا ہے۔

عبدالرحمن بن زیاد سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کناروں سے موچھیں کتر وانا تھے۔

عبید اللہ بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک مجوسی (پارسی) آیا جو اپنی موچھیں بڑھائے اور داڑھی کتر وائے ہوئے تھا، فرمایا کہ تجھے اس کا حکم کس نے دیا، اس نے کہا کہ میرے رب نے، فرمایا میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا کہ اپنی موچھیں کتر وادوں اور داڑھی بڑھاؤں۔

پوشاک و لباس مبارک

سفید لباس کا استعمال:

سمرہ بن جندب سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمہیں سفید کپڑا اختیار کرنا چاہیے اسی کو تمہارے زندہ لوگ پہنیں اور اسی کا اپنے مردوں کو کفن دو کیونکہ یہ تمہارا بہترین کپڑا ہے۔

عمرہ بن جندب سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ یہ خوب پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں اور اسی کا اپنے مردوں کو کفن دیا کرو۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سفید کپڑے پہنا کرو اور اپنے مردوں کو اسی کا کفن دیا کرو۔

رنگین لباس کا استعمال:

براء سے مروی ہے کہ میں نے سرخ جوڑے میں رسول اللہ ﷺ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا۔
براء سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے جسم پر سرخ جوڑا دیکھا، میں نے کوئی چیز آپ سے زیادہ حسین بھی نہیں دیکھی۔

براء سے مروی ہے کہ میں نے سر پر پٹے رکھنے والوں میں سرخ جوڑے میں رسول اللہ ﷺ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔
عمون بن ابی حنیفہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں ابٹح میں رسول اللہ ﷺ کے پاس گیا۔ آپ سرخ خیمے میں تھے بدن پر ایک سرخ جبہ اور سرخ جوڑا تھا، گویا پنڈلیوں کی زیبائش میری نظر میں ہے۔
زربن جیش الاسدی سے مروی ہے کہ قبیلہ مراد کے ایک شخص صفوان بن عسال نبی رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے آپ مسجد میں سرخ چادر پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔

جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ جمعہ وعیدین میں رسول اللہ ﷺ سرخ چادر اوڑھا کرتے تھے۔
قبیلہ کنانہ کے ایک شیخ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو اس طرح دیکھا کہ جسم اطہر پر دوسرے چادریں تھیں۔
ابی جعفر محمد بن علی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جمعہ کو سرخ چادر اوڑھتے تھے اور عیدین میں عمامہ باندھتے تھے۔
قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے ہم نے آپ کے لیے غسل کا پانی رکھ دیا، آپ نے غسل کیا، ہم ایک قسم کا رنگا ہوا رومال لائے جسے آپ نے اوڑھ لیا، گویا شکم مبارک کی بٹوں میں کسم کا اثر آج بھی میری نظر میں ہے۔

بکر بن عبد اللہ المزنی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک کسم کا رنگا ہوا رومال تھا، جب ازواج کے یہاں گشت کرتے تو اس کا پانی نچوڑتے تھے (اسے باندھ کر غسل کرتے تھے)۔

اسماعیل بن امیہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کا ایک رومال دیکھا جو کسم میں رنگا ہوا تھا۔
ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اکثر رسول اللہ ﷺ کا کرتہ چادر اور تہبند زعفران اور کسم میں رنگا جاتا تھا، آپ اسی لباس میں (گھر سے) نکلتے تھے۔

یحییٰ بن عبد اللہ بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے کپڑے کرتہ چادر اور عمامہ زعفران میں رنگے جاتے تھے۔
اسماعیل بن عبد اللہ جعفر نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے جسم پر چادر اور عمامہ جیسے زعفران کا رنگا ہوا دیکھا۔

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے تمام کپڑے زعفران میں رنگے جاتے تھے یہاں تک کہ عمامہ بھی۔
شاید ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کے کپڑے زرد رنگے جاتے تھے۔
زید بن اسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے تمام کپڑے یہاں تک کہ عمامہ بھی زعفران میں رنگے جاتے تھے۔

ابی رمنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دو سبز چادریں اوڑھے دیکھا۔
یعنی سے مروی ہے کہ میں نے نبی ﷺ کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے سبز چادر کو بغل کے نیچے سے اوڑھے ہوئے

دیکھا۔

ابی بردہ سے مروی ہے کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا تو وہ ایک یمن کی بنی ہوئی موٹی تہد اور ایک پیوند دار کبیل نکال
لائیں اور تم کھائی کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات اسی لباس میں ہوئی۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کے لیے اون کی ایک سیاہ چادر بنائی گئی۔ آپ نے اسے اوڑھا عائشہ رضی اللہ عنہا نے
نبی ﷺ کے گوزے پن اور اس چادر کی سیاہی کا ذکر کیا، جب آنحضرت ﷺ کو اس میں پسینہ آیا تو اون کی بو محسوس ہوئی اسے
پھینک دیا، آپ کو خوشبو پسند تھی۔

عبداللہ بن عبدالرحمن بن فلاں بن الصامت سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مسجد بنی عبدالاشہل میں ایک کبیل میں
نماز پڑھی جس کو آپ اوڑھے تھے، کنکریوں کی ٹھنڈک سے بچنے کے لیے آپ اسی پر ہاتھ رکھتے تھے۔
مشیحہ بنی عبدالاشہل سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مسجد بنی عبدالاشہل میں ایک کبیل اوڑھ کر نماز پڑھی، آپ جب
سجدہ کرتے تھے تو کنکریوں کی ٹھنڈک سے بچنے کے لیے اسی کبیل پر ہاتھ رکھتے تھے۔

سہل بن سعد سے مروی ہے کہ ایک خاتون رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک بنی ہوئی چادر لائیں جس میں دو حاشیے تھے اور
عرض کی: یا رسول اللہ یہ چادر میں نے اپنے ہاتھ سے بنی ہے میں اسے لائی ہوں کہ آپ کو اڑھاؤں رسول اللہ ﷺ نے ضرورت کی
بنا پر اسے لے لیا، ہم لوگوں کے پاس اس کیفیت سے تشریف لائے کہ وہی چادر آپ کی تہد تھی۔

حاضرین میں سے ایک شخص نے جن کا راوی نے نام بھی بتایا اس چادر کو ہاتھ سے ٹٹولا اور عرض کی: یا رسول اللہ یہ مجھے
اڑھا دیجئے، فرمایا: اچھا، پھر جب تک خدا کو منظور ہوا آپ مجلس میں بیٹھے اور واپس تشریف لے گئے، جب اندر پہنچے تو اسے تہ کیا اور
اس شخص کے پاس بھجوا دیا، حاضرین نے اس سے کہا کہ تم نے اچھا نہ کیا، رسول اللہ ﷺ نے ضرورت ہونے کی وجہ سے اسے استعمال
کیا اور تم نے آپ سے مانگ لی، حالانکہ تم جانتے تھے کہ آنحضرت ﷺ سائل کو ٹالتے نہیں، اس شخص نے جواب دیا کہ واللہ میں نے
اسے آنحضرت سے لباس بنانے کے لیے نہیں مانگا ہے، بلکہ میں نے اسے اس لیے آپ سے مانگا ہے کہ جس روز میں مروں تو وہی میرا
کفن ہو۔ سہل نے کہا کہ جس روز وہ مرے تو وہی چادر ان کا کفن ہوئی۔

عبداللہ مولائے اسماء سے مروی ہے کہ اسماء رضی اللہ عنہا ہمارے پاس ایک جبہ نکال کر لائیں جو دیباے خسروانی کا تھا، اس کی
آستین کی بغل میں خسروی دیبا تھی اور چاک و گریبان میں اسی کی مغزی تھی اسماء رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یہ رسول اللہ ﷺ کا جبہ ہے جسے
آپ پہنا کرتے تھے، جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہو گئی تو یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس رہا، عائشہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی تو میں نے
اسے لے لیا، ہم لوگ اسے اپنے مریض کے لیے دھوتے ہیں۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اولن کا لباس پہنا کرتے تھے۔

حسن بنی اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک جاڑے کی رات میں اٹھے اور ازواج میں سے کسی کے کبل میں نماز پڑھی، چونہ باریک تھانہ موٹا۔

عمامہ مبارک کا رنگ:

ابوزبیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے میں اس طرح داخل ہوئے کہ سر پر سیاہ عمامہ تھا۔ جعفر بن عمرو بن حریث نے اپنے والد سے روایت کی کہ آنحضرت ﷺ نے اس طرح خطبہ ارشاد فرمایا کہ سر پر سیاہ عمامہ تھا۔

حسن بنی اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا ایک جھنڈا سیاہ تھا جس کا نام عقاب تھا، اور آپ کا عمامہ بھی سیاہ تھا۔ یزید بن ابی حبیب سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے جھنڈے سیاہ تھے۔ صالح بن غیوان سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب سجدہ کرتے تھے تو عمامے کو اپنی پیشانی سے اٹھا دیتے تھے۔ عطاء سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وضو کیا آپ کے سر پر عمامہ تھا، عمامہ سر سے اٹھایا اور آگے کے حصے پر مسح کیا۔ حسن بنی اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب عمامہ باندھتے تو اسے دونوں شانوں کے درمیان لٹکاتے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب عمامہ باندھتے تو اسے دونوں شانوں کے درمیان لٹکاتے تھے۔ عروہ بن زبیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو ایک نقش و نگار کا عمامہ ہدیہ دیا گیا، آپ نے اس کے نقش و نگار کو کاٹ ڈالا، پھر اسے باندھا۔

قنادہ بنی اللہ سے مروی ہے کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ ﷺ کو سب سے زیادہ کون سا لباس پسند تھا، انہوں نے کہا کہ یمنی چادر۔ محمد بن بلال سے مروی ہے کہ میں نے (خلیفہ) ہشام بن عبد الملک کے بدن پر رسول اللہ ﷺ کی ایک یمنی چادر دیکھی جس کے دو حاشیے تھے۔

لباس میں سندس و حریر کا استعمال:

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ شاہ روم نے بطور ہدیہ رسول اللہ ﷺ کو سندس کا ایک جبہ بھیجا، آپ نے اسے پہنا، گویا مجھے آپ کے ہاتھ اب بھی نظر آ رہے ہیں جو اپنے طول کی وجہ سے پلتے تھے حاضرین کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ (تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ) آپ پر آسمان سے نازل کیا گیا ہے فرمایا کہ تم لوگ اس سے کیا تعجب کرتے ہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے سعد بن معاذ کا جنت میں ایک رومال اس سے بہتر ہے، پھر آپ نے اسے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا، انہوں نے پہنا تو نبی ﷺ نے فرمایا کہ یہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں دیا تھا کہ خود پہنو عرض کی پھر میں اسے کیا کروں، فرمایا اسے اپنے بھائی نجاشی کو بھیج دو۔

عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو حریر کی ایک عبا بطور ہدیہ بھیجی گئی، آپ نے پہنی اسی میں نماز پڑھی، پھر

فارغ ہوئے تو اسے اس طرح سختی سے اتار دیا کہ آپ اسے ناپسند کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ متقی لوگوں کے لیے مناسب نہیں۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک ایسی چادر میں نماز پڑھی جس میں نقش و نگار تھے آپ نے اس کے نقش و نگار کو دیکھا جب سلام پھیرا تو فرمایا کہ میری یہ چادر ابوہم کے پاس لے جاؤ کیونکہ ابھی اس نے مجھے نماز سے بہکایا میرے پاس ابوہم کی (مقام) انچ والی چادر لاؤ۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ابوہم بن حذیفہ نے رسول اللہ ﷺ کو ایک شامی چادر ہدیہ دی جس میں نقش و نگار تھے رسول اللہ ﷺ اسی چادر میں نماز کو تشریف لے گئے جب واپس ہوئے تو فرمایا کہ یہ چادر ابوہم کو واپس کر دو کیونکہ نماز میں میری نظر اس کے نقش و نگار پر پڑی اور وہ مجھے فتنے میں ڈالنے ہی کو تھی۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک چادر اوڑھی جس میں نقش و نگار تھے آپ نے وہ ابوہم کو دے دی اور ابوہم سے انجانی (انچ کی بنی ہوئی) چادر لے لی ابوہم نے کہا: یا رسول اللہ یہ کیوں؟ فرمایا کہ نماز میں میری نظر اس کے نقش و نگار پر پڑتی تھی۔

رسول اللہ ﷺ کے لباس مبارک کی لمبائی اور چوڑائی:

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں ایک روز رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ جا رہا تھا آپ کے بدن پر نجرانی چادر تھی جس کا حاشیہ موٹا اور سخت تھا ایک اعرابی ملا اس نے آپ کی چادر کو اس زور سے گھسیٹا کہ رسول اللہ ﷺ کی گردن کی کھال میں چادر کے حاشیہ کا نشان پڑ گیا اس نے کہا کہ یا محمد (ﷺ) اللہ کے اس مال میں سے مجھے بھی دلوایئے جو آپ کے پاس ہے رسول اللہ ﷺ متوجہ ہوئے اور منے پھر اس کے لیے دینے کا حکم دیا۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا کرتہ سوتی کم لبان والا اور چھوٹی آستین کا تھا۔

بدیل سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی آستین ہاتھ کے گئے (پہنچے) تک تھی۔

عروہ بن زبیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی چادر کا طول چار ہاتھ اور عرض دو ہاتھ ایک بالشت تھا۔

عروہ بن زبیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وہ چادر جس میں آپ وفد کے پاس تشریف لاتے اور ایک حضری چادر کا طول چار ہاتھ اور عرض دو ہاتھ ایک بالشت تھا۔ وہ خلفاء کے پاس تھی۔ بوسیدہ ہو گئی تھی اور اس کو انہوں نے ایک چادر میں تہ کر کے رکھا تھا عیدین میں (نماز کے وقت) اوڑھا کرتے تھے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایسا کرتہ پہنتے تھے جس کی لبان اور آستینیں کم تھیں۔ عبدالرحمن بن ابی

لیلیٰ سے مروی ہے کہ میں نے ابوالقاسم کو دیکھا کہ ان کے بدن پر ایک تنگ آستین والا شامی جبہ تھا۔

ازار (تہبند) مبارک:

یزید بن ابی حبیب سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی تہبند سامنے سے لٹکاتے تھے اور پیچھے سے اوچھی رکھتے تھے۔

عکرمہ مولائے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ جب وہ تہبند باندھتے تھے تو اگلا

حصہ اتنا لکاتے تھے کہ اس کے کنارے ان کی پشت پا پر پڑے رہتے تھے اور تہبند کو اپنے پیچھے سے اونچا رکھتے تھے میں نے ان سے کہا کہ آپ اس طرح کیوں تہبند باندھتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو اسی طرح تہبند باندھتے دیکھا ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ ناف کے نیچے تہبند باندھتے تھے اور آپ کی ناف کھلی رہتی تھی عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ ناف کے اوپر تہبند باندھتے تھے۔

سر مبارک ڈھانپ کر رکھنے کی عادت:

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی چادر بکثرت سر سے اوڑھا کرتے تھے چادر کا کنارہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا تیل والے کا کپڑا ہے (سر کا تیل لگ جاتا تھا)۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اکثر اپنی چادر سے سر ڈھانک لیا کرتے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا یہ تیل والے یا زیتون والے کی چادر ہے۔

معاویہ بن قرہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں قبیلہ خزیمہ کے ایک گروہ کے ہمراہ رسول اللہ ﷺ کے پاس گیا اور بیعت کی آپ کا کرتہ کھلا ہوا تھا اپنا ہاتھ کرتے کے گریبان میں ڈالا اور مہربوت کو مس کیا عروہ کہتے ہیں کہ میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے کو ہمیشہ جاڑے گرمی میں اسی طرح دیکھا کہ یہ دونوں کبھی گھنٹی نہیں لگاتے تھے اور گلا کھلا رکھتے تھے۔

لباس پہننے وقت دُعا:

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب کوئی نیا کپڑا بناتے تو اسے کرتہ تہبند یا عمامے کے نام سے یاد فرماتے اور فرماتے کہ اے اللہ تیرے ہی لیے حمد ہے تو ہی مجھے یہ پہناتا ہے میں تجھ سے اس کا بہترین اور جو اس کے لیے بنایا گیا ہے اس کا بہترین مانگتا ہوں۔

عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی کپڑا پہنے تو یہ کہے:

”سب تعریف اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے وہ کپڑا پہنایا جس سے میں اپنا ستر چھپاتا ہوں اور اپنی زندگی میں خوبصورتی حاصل کرتا ہوں۔“

ایاس بن سلمہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا تو انہیں ابان بن سعید نے پناہ دی انہوں نے ان کو اپنی زین پر سوار کر لیا اور پیچھے بٹھالیا یہاں تک کہ مکہ لائے اور کہا کہ اے میرے چچا کے بیٹے میں آپ کو متواضع دیکھتا ہوں آپ بھی اپنی تہبند اسی طرح لٹکائیے جس طرح آپ کی قوم کے لوگ لٹکاتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسی طرح ہمارے صاحب (یعنی آنحضرت ﷺ) اپنی نصف پنڈلیوں تک کی تہبند باندھتے ہیں ابان نے کہا کہ اے چچا کے بیٹے بیت اللہ کا طواف کیجئے تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ کوئی کام نہیں کرتے تا وقتیکہ ہمارے صاحب نہ کر لیں۔ اور ہم تو انہیں کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ واقعہ صلح حدیبیہ کا ہے۔

ایاس بن جعفر الحنفی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا ایک رومال تھا جب آپ وضو کرتے تو اسی سے پونچھتے۔

محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک جوڑا یا کپڑا انیس اونٹنیوں کے عوض میں خریدا۔

اسحاق بن عبد اللہ بن الحارث بن نوفل سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سترہ اوقیہ چاندی کا ایک جوڑا خریدا۔

موسیٰ الحارثی سے جوڑا بنی امیہ میں تھے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے ایک طیلسان (عجمی عباء) کا ذکر کیا گیا فرمایا: یہ وہ کپڑا ہے جس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔

اسامیل سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی چادر آٹھ دینار کی تھی۔

ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھنا:

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو ایک ہی چادر میں نماز پڑھتے دیکھا جس کے زائد حصے سے آپ زمین کی سردی و گرمی سے بچتے تھے۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جو سب سے آخری نماز قوم کے ساتھ پڑھی وہ ایک ہی کپڑے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑھی جسے آپ ایک بغل کے نیچے اور ایک کندھے کے اوپر سے اوڑھے ہوئے تھے۔

انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مرض موت میں ایک ہی کپڑے میں جسے آپ بغل کے نیچے اور کندھے کے اوپر سے اوڑھے ہوئے تھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔

موسیٰ بن ابراہیم بن ابی ربیعہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ ہم لوگ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو وہ اٹھ کر ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھنے لگے، ہم نے کہا کہ آپ ایک ہی کپڑے (تہبند) میں نماز پڑھتے ہیں حالانکہ آپ کی چادر بھی رکھی ہوئی ہے۔

انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے رسول اللہ ﷺ کو اسی طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے۔

ام الفضل سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بیماری کے زمانے میں اپنے گھر میں ہمیں نماز مغرب ایک ہی کپڑے میں پڑھائی جسے آپ ایک بغل کے نیچے اور ایک شانے کے اوپر سے اوڑھے ہوئے تھے آپ نے سورہ مرسلات پڑھی اس کے بعد وفات تک (اس طرح) کوئی نماز نہیں پڑھی۔

عمر بن ابی سلمہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھی جس کے دونوں کنارے نیچے اوپر تھے۔ عمر بن ابی سلمہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو اپنے مکان میں ایک ہی کپڑے میں جسے آپ اوڑھے تھے نماز پڑھتے دیکھا۔

عمر بن ابی سلمہ الحمزوی سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو ایک ہی کپڑا اوڑھے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا۔ ابن عقیل سے مروی ہے کہ ہم نے جابر بن عبد اللہ سے کہا کہ ہمیں اس طرح نماز پڑھائیے جس طرح آپ نے رسول اللہ ﷺ کو نماز پڑھتے دیکھا ہے انہوں نے اپنی چادر لی اسے سینے کے نیچے سے باندھا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔

ابوزبیر سے مروی ہے کہ میں نے جابر بن عبد اللہ کو ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا جس کو وہ ایک بغل کے نیچے سے اور ایک شانے کے اوپر سے اوڑھے تھے جابر نے ابوزبیر کو بتایا کہ جابر رسول اللہ ﷺ کے پاس گئے تو آپ بھی ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے جس کو ایک بغل کے نیچے اور ایک شانے کے اوپر سے اوڑھے تھے حالانکہ ان کے پاس اور کپڑے بھی تھے۔ جابر نے کہا کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔

جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو ایک ہی تہبند باندھے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا اس کے سوا آپ کے جسم پر کوئی کپڑا نہ تھا۔

ابن عمار بن یسار نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک ہی کپڑے میں ہماری امامت کی جسے آپ ایک بغل کے نیچے اور ایک شانے کے اوپر سے اوڑھے تھے۔ اس کا ایک کنارہ دوسرے کنارے پر پڑا تھا۔ پھر جب آپ فارغ ہوئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس میں اس میں یعنی جنابت و شب خوانی کے کپڑے میں نماز؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آپ کے مکان میں گیا، آپ ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے جسے ایک بغل کے نیچے سے اور ایک شانے کے اوپر سے اوڑھے تھے۔

معاویہ بن ابی سفیان سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنی بہن ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو نماز و وجہ نبی ﷺ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ ﷺ اس کپڑے میں نماز پڑھتے تھے جس میں جماعت کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہاں جب اس میں نجاست نہیں دیکھتے تھے۔

حالت استراحت:

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک چرمی گدے پر جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ لیٹا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس آنے کی اجازت دی رسول اللہ ﷺ اس طرح لیٹے ہوئے تھے کہ آپ کے اور زمین کے درمیان سوائے ایک بورے کے اور کچھ نہ تھا پہلو میں بورے کے نشان پڑ گئے تھے سر کے نیچے ایک چرمی تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی اور سر ہانے چربی لگی تھی جس میں بو بھی تھی۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میرے پاس ایک انصاریہ آئیں تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ کا بستر ایک شے کی ہوئی عبا دیکھی وہ گئیں اور آپ کو انہوں نے ایک بستر بھیجا جس میں اون بھرا تھا پھر میرے پاس رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ کیا ہے عرض کی: یا رسول اللہ فلاں انصاریہ میرے پاس آئی تھیں انہوں نے آپ کا بستر دیکھا اور وہ گئیں اور انہوں نے یہ بستر بھیج دیا، فرمایا کہ اس کو واپس کر دو میں نے واپس نہیں کیا۔ مجھے اچھا معلوم ہوا کہ وہ میرے گھر میں رہے آپ نے تین مرتبہ یہی فرمایا، پھر فرمایا کہ واللہ اے عائشہ رضی اللہ عنہا اگر میں چاہتا تو اللہ میرے ساتھ سونے چاندی کے پہاڑ کر دیتا۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے لیے ایک عبا بچھا دیتی تھیں جس پر دونوں سوتے تھے آپ ایک شب کو تشریف لائے میں نے اس (عبا) کو چوہرا کر دیا تھا، آپ اس پر سوئے، پھر فرمایا کہ اس شب کو میرے بستر کو کیا ہوا تھا کہ وہ

جیسا پہلے تھا ویسا نہیں تھا عرض کی یا رسول اللہ میں نے اسے چوہرا کر دیا تھا، آپؐ نے فرمایا کہ اسے اسی طرح کر دو جس طرح تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے گھر میں کوئی چیز جس میں صلیب ہو بغیر توڑے نہیں چھوڑتے تھے۔ جابر بن سرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آپ کے مکان میں گیا تو آپ کو ایک گدے پر دیکھا۔ جندب بن سفیان سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے کھجور کا کانٹا لگ گیا انگلی سے خون نکل آیا، فرمایا کہ یہ انگلی ہی ہے جو خون آلود ہوگئی اللہ کی راہ میں اس کا سابقہ نہیں پڑا (یعنی یہ جہاد میں خون آلود نہیں ہوئی) آپ کو چار پائی پر لٹایا گیا جو کھجور کی چھال کی رسی سے بنی ہوئی تھی سرہانے ایک تکیہ رکھا گیا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔

عمر رضی اللہ عنہ آئے دیکھا کہ پہلو میں رسی کے نشان پڑ گئے ہیں رونے لگے تو فرمایا کہ تمہیں کیا چیز رلاتی ہے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ مجھے کسریٰ و قیصر یاد آ گئے جو سونے چاندی کے تختوں پر بیٹھتے ہیں اور سندس واستبرق کا (ریشمی) لباس پہنتے ہیں۔ فرمایا کیا تم لوگ اس پر راضی نہیں ہو کہ تمہارے لیے آخرت ہو اور ان کے لیے دنیا، اس مکان میں (جس میں آنحضرت ﷺ تشریف فرما تھے) چربیاں تھیں جن کی بو آتی تھی عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ انہیں نکلا دیں (تو بوجاتی رہے) فرمایا نہیں یہ گھر والوں کا سرمایہ ہے۔

حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے پاس گئے آپ کو بورے پر دیکھا جس کے نشان پہلو میں پڑ گئے تھے اسی گھر میں کچھ بدبودار چربیاں بھی تھیں عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ تمہیں کیا چیز رلاتی ہے؟ عرض کی آپ اللہ کے نبی ہیں (اور اس حالت میں ہیں) اور کسریٰ و قیصر سونے کے تختوں پر ہیں فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ کیا تم راضی نہیں کہ دنیا ان کے لیے ہو اور آخرت ہمارے لیے۔

عطاء سے مروی ہے کہ ایک روز عمر بن الخطاب نبی ﷺ کے پاس گئے آپ ایک چرمی بستر پر کروٹ لیٹے ہوئے تھے جس میں کھجور کی چھال بھری تھی اسی مکان میں چربی بھی پڑی تھی عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے تو فرمایا اے عمر رضی اللہ عنہ تمہیں کیا چیز رلاتی ہے۔ عرض کی میں اس پر روتا ہوں کہ کسریٰ و قیصر طرح طرح کے ریشمی فرشوں پر ہیں۔ اور آپ اللہ کے منتخب و برگزیدہ ہو کر اس حالت میں ہیں جیسا میں دیکھتا ہوں فرمایا: اے عمر رضی اللہ عنہ! نہ رو کیونکہ اگر میں چاہتا کہ میرے ساتھ پہاڑ سونا بن کر چلیں تو ضرور چلتے اور اگر دنیا خدا کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی (با وقعت) ہوتی تو وہ اس سے کافر کو کچھ نہ دیتا۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک بورے پر لیٹے جلد مبارک میں بورے کا نشان پڑ گیا، بیدار ہوئے تو میں سہلانے لگا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ ہمیں کیوں نہیں اجازت دیتے کہ اس پر کوئی چیز بچھا دیا کریں جو آپ کو بورے سے بچائے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے دنیا سے کیا مطلب میں اور دنیا محض اس طرح میں جیسے ایک سوار کہ ایک درخت کے سایہ میں آیا پھر چلا گیا اور اسے چھوڑ گیا۔

ابی النضر مولائے عمر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب نبی ﷺ کے پاس گئے آپ ایک بورے پر لیٹے تھے جس نے بدن میں نشان ڈال دیئے تھے۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں ام سلمہ کے مکان میں ایک بورے پر نماز پڑھائی جو پرانا

ہونے کی وجہ سے خراب ہو گیا تھا، آپ ﷺ نے اسے کسی قدر پانی سے تر کر دیا پھر اس پر سجدہ کیا۔

مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا ایک چرمی استر کا جبہ تھا جس پر آپ نماز پڑھتے تھے اور آپ چرمی استر کا جبہ دباغت کیا ہوا پسند فرماتے تھے (تاکہ بدبو نہ آئے)۔

جریر یا ابی جریر سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچا، آپ ہم لوگوں کو خطبہ سنارہے تھے۔ میں نے آپ کے تکیے پر ہاتھ رکھ کر دیکھا تو وہ بھیڑکی کھال کا تھا۔

سعید المقبری سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کا ایک کھجور کا بوریا تھا جسے آپ دن کو بچھاتے تھے، جب رات ہوتی تو مسجد کے حجرے میں رکھ دیتے اور وہیں نماز پڑھتے تھے۔

زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بوریے کا ایک حجرہ بنایا تھا آپ نے چند شب اس میں نماز پڑھی، پھر لوگ آپ کے پاس جمع ہوئے۔ ایک رات کو انہوں نے آپ کی آواز نہ سنی تو خیال کیا کہ آپ سو گئے ہیں، بعض کھٹکھارنے لگے کہ آپ ان کے پاس نکل آئیں، آپ تشریف لائے اور فرمایا کہ میں برابر تمہارے اس برتاؤ کو دیکھتا رہا یہاں تک کہ نہ کر سکو گے (یہ واقعہ نماز تراویح کے متعلق ہے) لہذا اے لوگو! اپنے گھروں میں نماز پڑھو، کیونکہ فرض نماز کے سوا آدمی کی سب سے بہتر نماز وہ ہے جو اس کے گھر میں ہو۔

رسول اللہ ﷺ کا جائے نماز:

ابی قلابہ سے مروی ہے کہ میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں گیا، ان کی پوتی ام کلثوم سے نبی محمد رسول اللہ ﷺ کی نماز کی جگہ دریافت کی تو انہوں نے مجھے مسجد دکھائی جس میں ایک چھوٹا سا بوریا تھا، میں نے چاہا کہ اسے چٹا دوں تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ اسی بوریے پر نماز پڑھا کرتے تھے۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ چھوٹے سے بوریے پر نماز پڑھا کرتے تھے۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ مسجد سے بوریا لا دو عرض کی میں تو حائضہ ہوں فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ مسجد میں تھے، آپ نے کینر سے فرمایا کہ مجھے بوریا دے دے، عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ وہ تو حائضہ ہے فرمایا کہ اس کا حیض اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ ہم اسے بچھا دیں کہ آپ اس پر نماز پڑھیں۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ عنہا مجھے مسجد سے بوریا دے دو، عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو حائضہ ہوں فرمایا کہ وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے چھوٹے بوریے پر نماز پڑھی۔

میمونہ رضی اللہ عنہا بنت الحارث (ام المومنین) سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ چھوٹے بوریے پر نماز پڑھا کرتے تھے۔

سونے کی انگوٹھی کی ممانعت:

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے متعدد طرق سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک سونے کی مہر بنوائی جب آپ اُسے اپنے داہنے ہاتھ میں پہنتے تھے تو اس کا نگینہ ہتھیلی کی طرف رکھتے تھے پھر لوگوں نے سونے کی انگوٹھیاں (مہریں) بنوالیں، تو رسول اللہ ﷺ منبر پر بیٹھے آپ نے اسے اتار ڈالا اور فرمایا کہ میں انگوٹھی (مہر) پہنتا تھا اور اس کا نگینہ ہتھیلی کی طرف رکھتا تھا آپ نے اسے پھینک دیا اور فرمایا کہ واللہ میں اسے کبھی نہ پہنوں گا۔ نبی ﷺ نے انگوٹھی پھینک دی تو لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دیں۔

طاؤس سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے سونے کی انگوٹھی بنوائی، ایک روز جس وقت آپ خطبہ فرما رہے تھے نظر اس پر پڑی اسے دیکھ کر فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے دوسری ہے پھر آپ نے اسے اتار ڈالا اور پھینک دیا اور فرمایا کہ میں اسے کبھی نہ پہنوں گا۔ جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ بائیں ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنا کرتے تھے آپ لوگوں کے پاس برآمد ہوئے تو لوگ آپ کی طرف دیکھنے لگے آپ نے داہنا ہاتھ اپنی بائیں چھنگلیا پر رکھ لیا، پھر اپنے اہل بیت کے پاس واپس آئے اور اسے پھینک دیا۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے سونے کی انگوٹھی سے منع فرمایا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کی چاندی کی انگوٹھی:

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے (متعدد طرق سے) مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قیصر روم کے نام فرمان تحریر فرمایا اور اس پر مہر نہیں لگائی، آپ سے کہا گیا کہ بغیر مہر کے آپ کا فرمان پڑھا نہیں جائے گا، رسول اللہ ﷺ نے ایک چاندی کی مہر بنوائی اور اس پر نقش کرایا، نقش یہ تھا ”محمد رسول اللہ“ رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ میں اس کی سفیدی گویا اب بھی مجھے نظر آ رہی ہے۔

حماد بن سلمہ سے مروی ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ کیا رسول اللہ ﷺ نے مہر بنوائی تھی انہوں نے کہا کہ ہاں ایک مرتبہ آپ نے عشاء میں تقریباً نصف شب تاخیر کر دی، جب آپ نماز پڑھ چکے تو ہم لوگ متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ لوگ تو نماز پڑھ چکے اور سو گئے اور تم لوگ اس وقت تک نماز ہی میں ہو جب تک تم اس کے انتظار میں رہو اس نے کہا کہ آپ کی انگوٹھی کی چمک جو دست مبارک میں تھی گویا اس وقت بھی میری نظر میں ہے اور انس رضی اللہ عنہ نے اپنا بایاں ہاتھ بلند کیا۔ (انگوٹھی بائیں ہاتھ میں تھی)۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک انگوٹھی بنوائی جو خالص چاندی کی تھی، اور فرمایا کہ اس طرح کی انگوٹھی کوئی نہ بنوائے۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی انگوٹھی چاندی کی تھی، جس کا نگینہ بھی اسی کا تھا۔

زہیر نے کہا کہ میں نے حمید سے دریافت کیا کہ نگینہ کیسا تھا تو انہوں نے بتایا کہ انہیں نہیں معلوم کہ وہ کیسا تھا۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس کا نگینہ جشی تھا اور نقش ”محمد رسول

اللہ“ تھا۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے صرف ایک روز رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی دیکھی جب لوگوں نے چاندی کی انگوٹھیاں بنوا کر پہنیں تو نبی محمد رسول اللہ ﷺ نے اپنی انگوٹھی پھینک دی پھر لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دیں۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے چاندی کی ایک مہر بنوائی جو آپ کے ہاتھ میں رہی آپ کے بعد پھر وہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہی ان کے بعد وہ عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہی یہاں تک کہ چاہ اریس میں (حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے) گر پڑی اس کا نقش ”محمد رسول اللہ“ تھا۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے انگوٹھی (مہر) چاندی کی بنوائی جس میں ”محمد رسول اللہ“ منقوش تھا آپ اس کا نگینہ پھیلی کی طرف رکھتے تھے۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی مہر چاندی کی تھی اس پر ”محمد رسول اللہ“ منقوش تھا۔

جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے سونے کی مہر پھینک دی اور ایک مہر چاندی کی بنوائی آپ اسے اپنے بائیں ہاتھ میں رکھتے تھے۔

عامر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی مہر چاندی کی تھی۔

حضور علیہ السلام کی مہر مبارک:

ابراہیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی مہر لوہے کی تھی جس پر چاندی کا پتر چڑھا ہوا تھا۔

مکحول سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی مہر لوہے کی تھی جس پر چاندی کا پتر چڑھا ہوا تھا سوائے اس کے کہ اس کا نگینہ

کھلا ہوا تھا۔

سعید سے مروی ہے کہ خالد بن سعید رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے ان کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ انگوٹھی کیسی ہے۔ عرض کی: یہ انگوٹھی میں نے بنوائی ہے فرمایا کہ اسے مجھے اتار دو انہوں نے اسے اتار دیا تو وہ لوہے کی تھی جس پر چاندی منڈھی تھی فرمایا کہ اس پر کیا منقوش ہے۔ عرض کی ”محمد رسول اللہ“ رسول اللہ ﷺ نے اسے لے کے پہن لیا جو مہر آپ کے ہاتھ میں تھی وہی تھی۔

عمر بن یحییٰ بن سعید القرشی نے اپنے دادا سے روایت کی عمرو بن سعید بن العاص جس وقت حبشہ سے آئے تو رسول اللہ ﷺ کے پاس گئے فرمایا کہ اے عمرو تمہارے ہاتھ میں یہ انگوٹھی کیسی ہے عرض کی یا رسول اللہ یہ چھلا ہے فرمایا اس کا نقش کیا ہے عرض کی ”محمد رسول اللہ“ اسے رسول اللہ ﷺ نے لے لیا اور اسے مہر بنالیا وہ آپ کی وفات تک ہاتھ میں رہی پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات تک ان کے پاس رہی پھر عمر رضی اللہ عنہ کی وفات تک ان کے ہاتھ میں رہی پھر اسے عثمان رضی اللہ عنہ نے پہنا وہ اہل مدینہ کے لیے ایک کنواں کھدوا رہے تھے جس کا نام بیر اریس تھا وہ اس کے کنارے بیٹھے ہوئے کھودنے کا حکم دے رہے تھے کہ مہر کنویں میں گر پڑی عثمان بکثرت اپنی مہر اپنے ہاتھ سے اتار اور پہنا کرتے تھے لوگوں نے اسے تلاش کیا مگر کوئی اس پر قابو نہ پاسکا۔

نقش مہر نبوی ﷺ

ابن سیرین سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی مہر پر ”بسم اللہ محمد رسول اللہ“ منقوش تھا۔

انس بن مالک جی اللہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کی مہر پر تین سطر میں ”محمد رسول اللہ“ منقوش تھا۔ محمد ایک سطر میں رسول

ایک سطر میں اللہ ایک سطر میں (اور اس کی ہیئت یہ تھی: (ﷺ)۔

انس بن مالک جی اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مہر بنوائی اور فرمایا کہ ہم نے ایک مہر بنوائی ہے اس میں ایک نقش کندہ کرایا ہے لہذا کوئی شخص اس نقش پر نقش نہ کندہ کرائے (یعنی اپنی مہر پر یہ نقش نہ کندہ کرائے)۔

طاؤس سے مروی ہے کہ قریش نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کی: یہاں ایسے لوگ ہیں جو گویا عجم کو چاہتے ہیں کہ کوئی فرمان بغیر مہر کے جاری نہیں کرتے اسی بات نے آپ کو اس پر آمادہ کیا کہ اپنی مہر بنوائیں آپ نے اس پر ”محمد رسول اللہ“ کندہ کرایا اور فرمایا کہ میری مہر کا نقش کوئی نہ کندہ کرائے۔

انس جی اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی مہر کا نقش ”محمد رسول اللہ“ تھا۔

حسن جی اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے ایک مہر بنوائی ہے لہذا کوئی شخص اس کی خلاف ورزی نہ کرے اس کا نقش ”محمد رسول اللہ“ تھا۔

حجاج بن ابی عثمان سے مروی ہے کہ حسن جی اللہ سے اس شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جس کی انگوٹھی میں اللہ کا کوئی نام کندہ ہو اور وہ اسے بیت الخلاء میں لے جائے انہوں نے کہا کہ کیا یہی رسول اللہ ﷺ کی مہر میں قرآن کی ایک آیت کندہ نہ تھی یعنی ”محمد رسول اللہ“ (اور آپ اسی کو پہننے ہوئے بیت الخلاء بھی جاتے تھے)۔

ابراہیم وغیرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی مہر کا نقش ”محمد رسول اللہ“ تھا۔

محمد سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی مہر کا نقش ”محمد رسول اللہ“ تھا۔

ابوخلدہ سے مروی ہے کہ میں نے ابو العالیہ سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ کی مہر کا نقش کیا تھا انہوں نے کہا کہ صدق

اللہ ثم الحق بعدہ محمد رسول اللہ (اللہ سچا ہے پھر حق حق ہی ہے اس کے بعد محمد اللہ کے رسول ہیں)۔

محمد بن عبد اللہ بن عمرو بن عثمان سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے معاذ بن جبل جی اللہ کو یمن بھیجا جب وہ یمن سے آئے تو اس طرح کہ ہاتھ میں ایک چاندی کی مہر تھی جس کا نقش ”محمد رسول اللہ“ تھا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ مہر کیسی ہے عرض کی: یا رسول اللہ میں لوگوں کو احکام لکھا کرتا تھا اندیشہ ہوا کہ کہیں اس میں کم و بیش نہ کر دیا جائے اس لیے میں نے ایک مہر بنوائی جس کو لگا دیتا ہوں فرمایا: اس کا نقش کیا ہے عرض کی: ”محمد رسول اللہ“ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ معاذ کی ہر چیز ایمان لائی یہاں تک کہ ان کی مہر بھی رسول اللہ ﷺ نے اسے لے لیا اور اپنی مہر بنالی۔

رسول اللہ ﷺ کی انگوٹھی کا کنویں میں گرنا:

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی مہر وفات تک آپ کے ہاتھ میں رہی، ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کی وفات تک ان کے ہاتھوں میں رہی، چھ برس عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہی جب (خلافت عثمان رضی اللہ عنہ کے) بقیہ چھ سال کا وقت آیا تو ہم لوگ بیرار لیس پر ان کے ہمراہ تھے وہ رسول اللہ ﷺ کی مہر کو اپنے ہاتھ میں ہلا رہے تھے کہ اس کنویں میں گر پڑی، ہم لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ اسے تین روز تک تلاش کیا مگر نہ پاسکے۔

علی بن حسین سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھے جب اس (مہر) کو عثمان رضی اللہ عنہ نے لے لیا تو وہ گر پڑی اور غائب ہو گئی، پھر علی رضی اللہ عنہ نے اس کا نقش کندہ کرایا۔

محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی مہر عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے گر پڑی، تلاش کی گئی مگر نہیں ملی۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی مہر کا نقش تھیلی کی طرف رکھتے تھے۔

حماد بن سلمہ سے مروی ہے کہ میں نے ابن ابی رافع کو داپنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے دیکھا تو میں نے ان سے دریافت کیا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبد اللہ بن جعفر کو داپنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے دیکھا، اور عبد اللہ بن جعفر نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ داپنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے۔

یعلیٰ بن شداد سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی انگوٹھی بائیں ہاتھ میں نہ پہنتے تھے۔

سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نہ رسول اللہ ﷺ نے انگوٹھی پہنی، یہاں تک کہ آپ واصل بحق ہو گئے نہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انگوٹھی پہنی یہاں تک کہ وہ واصل بحق ہو گئے، اور نہ عمر رضی اللہ عنہ نے انگوٹھی پہنی یہاں تک کہ وہ واصل بحق ہو گئے، اور نہ عثمان رضی اللہ عنہ نے انگوٹھی پہنی یہاں تک کہ وہ واصل بحق ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے تین اصحاب کا ذکر کیا۔ رسول اللہ ﷺ کے نعلین مبارک:

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی نعلین میں دو تسمے تھے۔

جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ محمد بن علی نے ان لوگوں کے لیے رسول اللہ ﷺ کی پاپوش نکالی، انہوں نے مجھے دکھائی کہ اس کی ایڑی حضری جوتی کی طرح تھی اور اس کے دو تسمے تھے۔

عبد اللہ بن الحارث سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی پاپوش میں دو تسمے تھے جن کے سرے ایڑی میں جڑے تھے۔

انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی پاپوش میں دو تسمے تھے جن پر بال نہ تھے۔

ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی پاپوش دیکھی جو پتلی ایڑی والی اور زبان کی طرح نوک دار تھی، اس کے دو تسمے تھے۔

عیسیٰ بن طہمان سے مروی ہے کہ ہم لوگ جب انس رضی اللہ عنہ کے پاس تھے تو انہوں نے حکم دیا، ایک پاپوش نکالی گئی جس کے دو تسمے تھے پھر میں نے ثابت البنانی کو کہتے سنا کہ یہ پاپوش نبی ﷺ کی ہے۔

عبداللہ بن الحارث الانصاری سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی نعلین دیکھیں جن میں تسمے لگے ہوئے تھے۔ ابن عون سے مروی ہے کہ میں مکے میں نعلین تسمہ ڈالوانے کے لیے گیا، میرا خیال ہے کہ یہ تسمہ تھا یا اللہ! میں ایک کفش ساز کے پاس گیا کہ وہ ان میں تسمے ڈال دے اور ان میں ایک قسم کے تسمے موجود تھے میں نے اس سے کہا کہ دوسری قسم کے تسمے ڈال دے تو اس نے کہا کہ میں ان میں اس قسم کے تسمے نہیں ڈالوں گا جیسے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی نعلین میں دیکھے ہیں میں نے کہا کہ تم نے کہاں دیکھے، اس نے کہا کہ فاطمہ بنت عبید اللہ بن عباس کے پاس میں نے اس سے کہا کہ اس میں اس قسم کے تسمے ڈال دے، اس نے اس قسم کے تسمے ڈال دیے اور دونوں کے کان داہنی طرف کیے۔

ابن عون سے مروی ہے کہ میں مکے میں ایک کفش ساز کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میری نعلین کے تسمے بنادے، اس نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں ان میں داہنی طرف تسمے لگا دوں جیسا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی نعلین میں دیکھا ہے۔ میں نے پوچھا کہ تم نے انہیں کہاں دیکھا اس نے کہا کہ فاطمہ بنت عبید اللہ بن عباس کے پاس دیکھا ہے میں نے کہا کہ ان میں اسی طرح کے تسمے لگا دو جیسے تم نے رسول اللہ ﷺ کی نعلین میں دیکھے، اس نے دونوں تسمے داہنی طرف لگا دیے۔

عمر بن حریت سے مروی ہے کہ انہوں نے چند لوگوں کو دیکھا کہ وہ جوتے پہن کر نماز نہیں پڑھتے (یعنی اس کے جواز سے انکار کرتے ہیں) انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو اپنی پیوند لگی ہوئی نعلین میں نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ زیاد بن فیاض سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ (کبھی کبھی) اپنی پیوند دار نعلین میں نماز پڑھتے تھے۔ ایک اعرابی سے مروی ہے کہ میں نے تمہارے نبی ﷺ کی پیوند لگی ہوئی پاپوش دیکھی ہے۔

سعید بن یزید سے مروی ہے کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا نبی محمد رسول اللہ ﷺ نعلین پہن کر نماز پڑھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔

محمد بن اسماعیل بن مجہج سے مروی ہے کہ عبداللہ بن ابی حنیبہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے رسول اللہ ﷺ کو کس طرح پایا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو مسجد قبا میں نعلین پہن کر نماز پڑھتے دیکھا۔

عمر بن شعیب نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو برہنہ پا بھی نماز پڑھتے دیکھا ہے اور پاپوش پہن کر بھی، آپ (بعد نماز تسبیح پڑھنے کے لیے) داہنی جانب بھی پلٹتے تھے اور بائیں جانب بھی، سفر میں روزہ بھی رکھتے تھے اور نہیں بھی رکھتے تھے پانی کھڑے ہو کر بھی پیتے تھے اور بیٹھ کر بھی پیتے تھے۔

خالد بن معدان سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے پاپوش پہن کر بھی نماز پڑھی اور برہنہ پا بھی، کھڑے ہو کر بھی اور بیٹھ کر بھی، اور آپ داہنی طرف بھی پلٹتے تھے اور بائیں طرف بھی۔

ابی سعید سے مروی ہے کہ جس وقت رسول اللہ ﷺ نماز پڑھ رہے تھے تو نعلین اتار کر بائیں طرف رکھ دیں، لوگوں نے بھی اپنی نعلین اتار دیں۔ جب رسول اللہ ﷺ نماز ادا کر چکے تو فرمایا کہ تمہیں اپنی جوتیاں اتارنے پر کس نے آمادہ کیا، لوگوں نے عرض کی، ہم نے دیکھا کہ آپ نے اتار ڈالیں تو ہم نے بھی اتار ڈالیں، فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ ان میں نجاست بھری

ہے جو شخص اپنی نعلین میں نجاست دیکھے تو وہ اسے چھڑا ڈالے اور اسی میں نماز پڑھے۔

محمد بن عباد بن جعفر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی اکثر نمازیں نعلین پہن کر ہوتی تھیں، آپ کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ ان میں کچھ نجاست ہے، تو رسول اللہ ﷺ نے اپنی نعلین اتار ڈالیں، پھر سب نے اپنی نعلین اتار ڈالیں، جب رسول اللہ ﷺ نماز پوری کر چکے تو فرمایا کہ تم لوگوں نے کیوں اتاریں، لوگوں نے عرض کی کہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے اتار دیں تو ہم نے بھی اتار دیں، فرمایا کہ مجھے تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ ان میں کچھ نجاست ہے۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز میں اپنی نعلین اتار دیں، جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ نے اپنی نعلین پھینک دیں تو لوگوں نے بھی اپنی نعلین پھینک دیں، جب آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے نعلین پھینک دیں تو آپ نے پہن لیں، اس کے بعد آپ کو نعلین اتارتے نہیں دیکھا گیا۔

ابی البضر سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کی پاپوش کا تہہ ٹوٹ گیا تو آپ نے اسے تھوڑے سے حریر (ریشم) سے جوڑ لیا، پھر اسے دیکھنے لگے، جب نماز پوری کر چکے تو فرمایا کہ اس کو نکال دو اور وہی رہنے دو جو پہلے تھا۔ کہا گیا کہ یا رسول اللہ ﷺ کیوں؟ فرمایا کہ میں نماز کی حالت میں اس کی طرف دیکھتا تھا۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی ہر حالت میں داہنی طرف سے شروع کرنا پسند فرماتے تھے، وضو میں ننگھی کرنے میں پاپوش پہننے میں راوی نے کہا کہ جہاں تک ہو سکے داہنی طرف سے شروع کرنا چاہیے۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کھڑے ہو کر نعلین پہنتے تھے اور بیٹھ کر بھی کھڑے ہو کر پانی پیتے تھے اور بیٹھ کر بھی آپ اپنی داہنی جانب سے شروع کرتے تھے اور بائیں طرف سے بھی۔

عبید بن جریج سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن میں دیکھتا ہوں کہ آپ بھی سستی پاپوشیں پسند کرتے ہیں (سستی وہ چمڑا ہے جس پر بال نہ ہوں) انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہی پہنتے اور انہیں میں وضو کرتے دیکھا ہے۔

عبید بن جریج سے مروی ہے کہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ صرف سستی (بغیر بال کے چمڑے کی) جوتیاں پہنتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو بھی ایسا ہی کرتے دیکھا ہے۔

منہال بن عمرو سے مروی ہے کہ انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے کفش بردار و آب بردار تھے۔

موزے مبارک:

عبد اللہ بن بریدہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ صاحب جیشہ نے نبی محمد ﷺ کو دو سادہ چرمی موزے بطور ہدیہ بھیجے، آپ ان پر مسح کرتے۔

ابن بریدہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ نجاشی نے رسول اللہ ﷺ کو دو سیاہ سادہ موزے بطور ہدیہ بھیجے، آپ نے پہنے اور ان پر مسح کیا۔

رسول اللہ ﷺ کی مسواک:

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ رات یا دن کو جب سوکر بیدار ہوتے تو وضو سے پہلے مسواک ضرور کرتے۔ شداد بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ مسواک نے رسول اللہ ﷺ کے مسوڑھے پتلے کر دیئے تھے۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رات کو رسول اللہ ﷺ کی مسواک رکھ دی جاتی اور آپ مسواک شروع کرتے جب رات کی نماز کو اٹھتے تو مسواک کرتے، وضو کرتے مختصر سی دو رکعتیں پڑھتے پھر آٹھ رکعتیں پڑھتے تب وتر پڑھتے تھے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ میں مسواک لے کر دانت صاف کرتے تھے۔ مسواک آپ کے منہ میں ہوتی تھی اور آپ ”عاعا“ کہتے تھے۔ گویا اُبکائیاں لیتے ہیں۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے روزے کی حالت میں کھجور کی ہری شاخ سے مسواک کی، قتادہ سے کہا گیا کہ لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ واللہ رسول اللہ ﷺ روزے کی حالت میں کھجور کی ہری شاخ سے مسواک کرتے تھے۔

خالد بن معدان سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سفر میں مسواک لے جاتے تھے۔

رسول اللہ ﷺ کا کنگھا، سرمہ، آئینہ اور پیالہ:

ابن جریج سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا ہاتھی دانت کا کنگھا تھا جس سے آپ کنگھا کرتے تھے۔ خالد بن معدان سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سفر میں کنگھا آئینہ تیل مسواک اور سرمہ لے جاتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ بکثرت سر میں تیل ڈالتے اور داڑھی پانی سے صاف کرتے تھے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی سرمہ دانی تھی جس سے آپ سوتے وقت ہر آنکھ میں تین مرتبہ سرمہ لگاتے تھے۔

عمران بن ابی انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی داہنی آنکھ میں تین مرتبہ سرمہ لگاتے اور بائیں میں دو مرتبہ۔ محمد بن عبید اللہ بن ابی رافع نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ روزے کی حالت میں بھی سرمہ اٹھا لگاتے تھے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تمہیں اشد استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ نظر کو تیز کرتا ہے بال آگاتا ہے اور آنکھ روشن کرنے والی چیزوں میں سے بہترین ہے۔

عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ مقوقس نے ایک شیشے کا پیالہ نبی محمد رسول اللہ ﷺ کو بطور ہدیہ بھیجا آپ اس میں پانی پیا کرتے تھے۔

عطا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا ایک شیشے کا پیالہ تھا جس میں آپ پانی پیتے تھے۔

حمید سے مروی ہے کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ کے پاس رسول اللہ ﷺ کا پیالہ دیکھا جو چاندی سے بندھا ہوا تھا (شیشے کا تھا اس لیے ٹوٹ گیا تو غالباً انس رضی اللہ عنہ نے چاندی کے تار سے اسے بندھوا لیا ہوگا)۔

ابی النصر سے مروی ہے کہ مجھ سے بیان کیا گیا کہ رسول اللہ ﷺ کے نہانے کا برتن پتیل کا تھا۔
سیف النبی ﷺ:

عبد المجید بن سہیل سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ مدینے میں ہجرت فرما کے ایک تلوار بھی لائے جو ماثور کے والد کی تھی۔
ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی تلوار ذوالفقار جنگ بدر میں غنیمت میں پائی۔
ابن المسیب سے بھی اسی طرح مروی ہے اس کے بعد یہ مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کا نام برقرار رکھا۔
عاصم سے مروی ہے کہ علی بن حسین رضی اللہ عنہما رسول اللہ ﷺ کی تلوار ہمارے پاس نکال کر لائے تو اس کے قبضے پر چاندی چڑھی تھی اس کا وہ حلقہ اور کڑی جس میں حمال ہوتی ہے چاندی کی تھی وہ کمزور اور پتلی ہو گئی تھی۔ منبہ بن الحجاج السمری کی تھی اور جنگ بدر میں آپ کو ملی تھی۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جنگ بدر میں ایک تلوار اپنے لیے مخصوص کر لی اس کا نام ذوالفقار تھا اور آپ نے اسی تلوار کے بارے میں غزوہ احد میں خواب دیکھا تھا۔

علقمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی تلوار کا نام ذوالفقار اور جھنڈے کا نام عقاب تھا۔ واللہ اعلم
مروان بن ابی سعید بن المعلى سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو بنی قریظہ کے ہتھیاروں میں سے تین تلواres ملیں
ایک تیغ قلعی تھی ایک کا نام تبار اور ایک کا نام خف (موت) تھا اس کے بعد آپ کے پاس مخدوم درسوب تھیں جو آپ کو فلس سے ملی تھیں۔

زیاد بن ابی مریم سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی تلوار خیف کی تھی جس میں تیز دھار تھی۔
عاصم سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی تلوار ذوالفقار کے میان پر پڑھا کہ ”خون بہا مومنین پر ہے۔ اسلام میں بغیر مولیٰ کے کوئی نہ چھوڑا جائے (یعنی نو مسلم کا مولیٰ ضرور بنایا جائے) اور مسلم کو کافر کے عوض قتل نہ کیا جائے۔“
انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی تلوار کے قبضے پر چاندی چڑھی ہوئی تھی۔
عمر بن عاصم سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی تلوار کے میدان کی نوک چاندی کی تھی اس کے قبضے پر بھی چاندی چڑھی تھی اور اس کے درمیان چاندی کی کڑیاں تھیں۔

سعید بن الحسن سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی تلوار کے قبضے پر چاندی چڑھی تھی۔
جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ کی تلوار کے میدان کی نوک اور حلقے اور قبضے پر چاندی چڑھی تھی۔
زرہ مبارک:

مروان بن ابی سعید بن المعلى سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو قریظہ کے اسلحہ میں دو زرہیں بھی ملیں جن میں ایک کا نام سعد یہ اور ایک کا نام فضہ تھا۔

محمد بن مسلمہ سے مروی ہے کہ میں نے غزوہ احد میں رسول اللہ ﷺ کے بدن پر دو زرہیں دیکھیں جن میں ایک زرہ کا

نام ذات الفضول تھا اور ایک کافضہ میں نے غزوہ خیبر میں آپ کے بدن پر دو زہریں دیکھیں جن میں ایک ذات الفضول تھی اور ایک سعدیہ۔

عامر سے مروی ہے کہ علی بن حسین رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کی زرہ نکال کر ہمارے پاس لائے وہ بھی یمنی تھی باریک حلقہ دار جب اس کی کڑیوں کے بل لٹکا دیا جاتا تھا تو زمین سے نہیں لگتی تھی اور جب چھوڑ دی جاتی تھی تو زمین سے لگتی تھی۔

جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ کی زرہ میں پشت پر چاندی کے دو حلقے تھے عبد اللہ کا قول ہے کہ چھاتی پر تھے اور خالد کہتے ہیں کہ سینے پر تھے میں نے اسے لٹکایا تو اس نے زمین پر نشان ڈال دیا۔

جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی ایک زرہ ابو لثعم یہودی کے یہاں جو بنی ظفر کا ایک فرد تھا جو کے عوض رہن رکھی تھی۔

ابن عباس وعائشہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی تو آپ کی زرہ تیس یا ساٹھ صاع جو کے عوض رہن تھی جو عیال کے نفقے کے لیے تھے۔

اسماء بنت یزید سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی اور جس روز آپ کی وفات ہوئی آپ کی زرہ ایک وسق جو کے عوض ایک یہودی کے پاس رہن تھی۔

رسول اللہ ﷺ کی ڈھال:

مکحول سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک ڈھال تھی جس میں مینڈھے کے سر کی تصویر تھی نبی ﷺ نے تصویر کا ہونا ناپسند کیا صبح ہوئی تو اللہ نے اس (تصویر) کو دور کر دیا تھا۔

رسول اللہ ﷺ کے نیزے اور کمان:

مروان بن ابی سعید بن المعلى سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو بنی قینقاع کے اسلحہ میں سے تین نیزے اور تین کمانیں ملیں ایک کمان کا نام روحا تھا درخت شوط کی لکڑی کی کمان کا نام بیضاء تھا ایک زرد رنگ کی کمان کا نام صفراء تھا جو درخت بیج کی لکڑی کی تھی۔

رسول اللہ ﷺ کی سواریاں:

محمد بن یحییٰ بن سہل بن ابی حمزہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ سب سے پہلا گھوڑا جس کے رسول اللہ ﷺ مالک ہوئے وہ تھا جسے آپ نے مدینے میں بنی فزار کے ایک شخص سے دس اوقیہ چاندی میں خریدا تھا اس کا نام اس اعرابی کے یہاں ضرس تھا۔ نبی محمد رسول اللہ ﷺ نے سبک رکھا یہ سب سے پہلا گھوڑا تھا جس پر رسول اللہ ﷺ نے احد کی جنگ کی اس روز سوائے اس گھوڑے کے اور ابو بردہ بن نیار کے ایک گھوڑے کے جس کا نام ملاوح تھا مسلمانوں کے ہمراہ اور کوئی گھوڑا نہ تھا۔

یزید بن ابی حبیب سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام سبک تھا۔

علقمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے گھوڑے کا نام سبک تھا اس کی پیشانی سفید تھی اس کے ہاتھ پاؤں میں سفیدی

نتھی۔ واللہ اعلم

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک گھوڑے کی جس کا نام سیحہ تھا دوڑ کرائی وہ اوّل آیا آپؐ خوش ہوئے اور اسے پسند فرمایا۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے ایک گھوڑے کا نام الر تاجر تھا۔ محمد بن عمرو سے مروی ہے کہ میں نے محمد بن یحییٰ بن سہیل بن ابی حمہ سے متحجر کو دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ گھوڑا تھا جس کو رسول اللہ ﷺ نے اس اعرابی سے خریدا تھا جس کے بارے میں خزیمہ بن ثابت نے آپؐ کے موافق شہادت دی تھی اور یہ اعرابی بنی مرہ کا تھا۔

ابی بن عباس بن سہیل نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہ میرے نزدیک رسول اللہ ﷺ کے تین گھوڑے تھے 'لزاز'، 'ظرب' اور 'لحیف' لزاز تو مقوقس نے بطور ہدیہ دیا تھا، 'لحیف' ربیعہ بن ابی البراء نے بطور ہدیہ دیا تھا، آپؐ نے اس کے عوض میں بنی کلاب کے مواشی کی زکوٰۃ وصول کرنے کی خدمت ان کو دے دی تھی، اور ظرب فروہ بن عمرو الجذامی (والی عمان) نے بطور ہدیہ دیا تھا، ایک گھوڑا تمیم داری نے بھی رسول اللہ ﷺ کو بطور ہدیہ دیا تھا جس کا نام ورد تھا جو آپؐ نے عمر بنی سعد کو دے دیا عمر رضی اللہ عنہ نے اس گھوڑے پر چڑھ کے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، بعد کو معلوم ہوا کہ بیچ ڈالنے کے قابل ہے۔

ابی عبد اللہ واقعہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اٹھ کر اپنے ایک گھوڑے کے پاس گئے، آستین سے اس کا منہ پوچھا تو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپؐ اپنے کرتے سے (اس کا منہ پوچھتے ہیں) فرمایا گھوڑوں کے معاملے میں جبریل علیہ السلام نے مجھ پر عتاب کیا ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو ایک سفید مادہ خمر بطور ہدیہ دی گئی یہ سب سے پہلی سفید مادہ خمر اسلام میں تھی رسول اللہ ﷺ نے مجھے اپنی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا، میں (ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے) اون اور کھجور کی چھال آپؐ کے پاس لایا، میں نے اور رسول اللہ ﷺ نے اس کے لیے رسی اور راس بٹی، آپؐ گھر میں تشریف لے گئے۔ ایک اچھی نئی عبلائے اور اسے تہ کیا، اس کی پشت پر اس (عباء) کا چار جامہ بنایا، آپؐ اچکے اور سوار ہو گئے اپنے پیچھے مجھے بھی بٹھالیا۔ موسیٰ بن ابراہیم نے اپنے والد سے روایت کی کہ لدل نبی علیہ السلام کی مادہ خمر تھی یہ سب سے پہلی مادہ خمر تھی جو اسلام میں دیکھی گئی، اور یہ آپؐ کو مقوقس نے بطور ہدیہ دی تھی، اس کے ہمراہ اس نے ایک گدھا بھی جس کا نام معفور تھا آپؐ کو بطور ہدیہ دیا تھا، مادہ خمر معاویہؓ کے زمانہ تک زندہ رہی۔

زہری سے مروی ہے کہ لدل کو فروہ بن عمرو الجذامی نے بطور ہدیہ بھیجا تھا (مگر یہ سہو ہے) اسے مقوقس نے بھیجا تھا۔ علقمہ سے مروی ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ نبی ﷺ کی مادہ خمر کا نام لدل تھا۔ وہ سفید تھی، اور بیچ میں رسی یہاں تک کہ وہیں

مگر گئی۔ واللہ اعلم

زال بن عمرو سے مروی ہے کہ فروہ بن عمرو الجذامی نے نبی ﷺ کو ایک مادہ خمر جس کا نام فضہ تھا بطور ہدیہ بھیجی، آپؐ

نے وہ مادہ خچر اور اپنا گدھا یعفور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہبہ کر دیا، یہ گدھا حجۃ الوداع سے واپسی کے وقت مر گیا۔

علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو ایک مادہ خچر بطور ہدیہ دی گئی، ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ اگر ہم اس کو اپنے گھوڑوں سے گابھن کر آئیں تو یہ ہمارے پاس اپنے ہی جیسی مادہ خچر لائے گی، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ تو وہی لوگ کرتے ہیں جو جاہل ہوتے ہیں۔

علقہ سے مروی ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے گدھے کا نام یعفور تھا، واللہ اعلم۔

ابی عبیدہ بن عبد اللہ بن مسعود نے اپنے والد سے روایت کی کہ انبیاء کبیل پہنا کرتے، بکریاں دوہتے اور گدھوں پر سوار ہوتے، رسول اللہ ﷺ کا بھی ایک گدھا تھا جس کا نام یعفور تھا۔

جعفر نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ کی مادہ خچر کا نام شہباء اور گدھے کا نام یعفور تھا۔

رسول اللہ ﷺ کی سواری کی اونٹنیاں:

موسیٰ بن محمد بن ابراہیم اسی نے اپنے والد سے روایت کی کہ قصواء (اونٹنی) بنی الحریس کے مویشی میں تھی اس کو اور اس کے ساتھ ایک دوسری اونٹنی کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آٹھ سو درم کو خریدا تھا، (قصواء) کو رسول اللہ ﷺ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے چار سو درہم میں لے لیا۔ وہ آپ کے پاس رہی یہاں تک کہ مر گئی، اس اونٹنی پر آپؐ نے ہجرت فرمائی، جس وقت رسول اللہ ﷺ مدینہ تشریف لائے تو وہ چار دانت کی تھی، اور اس کا نام قصواء جد غاتھا، عضباء تھا۔

ابن المسیب سے مروی ہے کہ اس کا نام عضباء تھا اور اس کے کان کا کنارہ کٹا ہوا تھا۔

جعفر نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ کی اونٹنی کا نام قصواء تھا۔ علقہ سے مروی ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی اونٹنی کا نام قصواء تھا، واللہ اعلم۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی ایک اونٹنی کا نام قصواء تھا، واللہ اعلم۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی ایک اونٹنی کا نام عضباء تھا، وہ کبھی (کسی اونٹ سے) پیچھے نہیں رہتی تھی، ایک اعرابی اپنے نو جوان اونٹ پر آیا اور اس نے اس کے ساتھ دوڑایا تو عضباء پیچھے رہ گئی، مسلمانوں کو ناگوار ہوا، لوگوں نے کہا کہ عضباء پیچھے رہ گئی، یہ واقعہ رسول اللہ ﷺ کو معلوم ہوا تو آپؐ نے فرمایا کہ اللہ پر واجب ہے کہ دنیا کی جو چیز بلند ہو وہ اسے نیچا کر دے۔

سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قصواء رسول اللہ ﷺ کی اونٹنی تھی کہ جب کبھی دوڑ میں بھیجی جاتی تو آگے ہو جاتی ایک دفعہ وہ پیچھے رہ گئی تو اس کے پیچھے رہ جانے سے مسلمانوں کو سخت بے چینی پیدا ہوئی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ لوگ جب کسی چیز کو بلند کرنا چاہتے ہیں تو خدا اسے نیچا کر دیتا ہے۔

قدامہ بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو حج میں اپنی اونٹنی شہباء پر رومی کرتے دیکھا۔ سلمہ بن نبیط نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے حج میں رسول اللہ ﷺ کو عرفہ میں سرخ اونٹ پر سوار دیکھا۔

رسول اللہ ﷺ کی دودھ والی اونٹنیاں:

معاویہ بن عبد اللہ بن عبید اللہ بن ابی رافع سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی دودھ والی اونٹنیاں تھیں یہ وہی تھیں جن پر قوم نے غابہ میں چھاپہ مارا تھا، کل بیس تھیں انہیں سے رسول اللہ ﷺ کے اہل بیت زندگی بسر کرتے تھے ہر شب کو آپ کی خدمت میں دو بڑی مشکوں میں دودھ لایا جاتا تھا ان میں وہ دودھ والی اونٹنیاں بھی تھیں جن کا دودھ بہت کثرت سے تھا ان کا نام حناء۔
سراء، عریس سعدیہ، بغوم لیسرہ اور دباء تھا۔

جنہان مولائے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو کہتے سنا کہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہماری زندگی دودھ پر تھی یا یہ کہا کہ ہماری اکثر زندگی غابہ میں رسول اللہ ﷺ کی دودھ والی اونٹنیاں تھیں جن کو آپ نے ازواج پر تقسیم فرمادیا تھا ان میں سے ایک کا نام عریس تھا ہم لوگ اس کے دودھ پر (زندگی بسر کرتے) تھے اور جتنا دودھ چاہتے (لے سکتے تھے)۔

عائشہ رضی اللہ عنہا کی اونٹی جس کا نام سراء تھا بہت دودھ والی تھی اور وہ میری اونٹی کی طرح نہ تھی ان سب کا چرواہا دودھ والی اونٹیوں کو ایک چرواہ لے گیا جو نواح جوانیہ میں تھی وہ ہمارے گھروں پر آیا کرتی تھیں ان دونوں (عریس و سراء) کو لایا جاتا تھا اور ان کا دودھ دوہا جاتا تھا۔ نبی ﷺ کی اونٹی اپنے برابر کی اونٹیوں سے زیادہ دودھ والی پائی جاتی تھی۔

ثابت مولائے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ شحاک بن سفیان الکلابی نے نبی محمد رسول اللہ ﷺ کو ایک اونٹی جس کا نام بردہ تھا بطور ہدیہ دی میں نے کبھی کوئی اونٹی اس سے اچھی نہیں دیکھی اس کا دودھ اتنا دوہا جاتا تھا جتنا وہ بکثرت دودھ دینے والی اونٹیوں کا دوہا جائے وہ ہمارے گھروں پر آتی تھی اس کو ہند اور اسماء باری باری کبھی اُحد اور کبھی جماء میں چراتے تھے پھر اسے اس کے ٹھکانے پر لاتے تھے اور ان کے ساتھ چادر بھر کر درخت کے گرے ہوئے یا درخت کے لاشی سے جھاڑے ہوئے پتے بھی ہوتے تھے وہ رات سے صبح تک چارے میں بسر کرتی تھی اکثر اسے آپ کے مہمانوں کے لیے دوہا جاتا تھا وہ لوگ پیتے تھے یہاں تک کہ پہلی رات کا دودھ وہ لوگ پی لیتے تھے۔ اور جو بچتا تھا بعد کو ہم لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا اس کا صبح کا دودھ اچھا ہوتا تھا۔

عبد السلام بن جبیر نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ کی سات دودھ والی اونٹنیاں تھیں جو ذی الجدر اور جماء میں رہتی تھیں ان کا دودھ ہمارے پاس آ جاتا ایک اونٹی کا نام مہرہ تھا ایک کا شقراء اور ایک کا دباء مہرہ بنی عقیل کے مواشی میں سے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے بھیجی تھی وہ بہت دودھ والی تھی شقراء و دباء کو آپ نے سوق البطحاء میں بنی عامر سے خرید لیا بردہ و سراء عریس و لیسرہ و حناء کا دودھ دوہا جاتا تھا اور ہر رات کو آپ کے پاس لایا جاتا تھا انہیں میں رسول اللہ ﷺ کا ایک غلام بیار تھا جس کو لوگوں نے قتل کر دیا۔

سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب شام ہو جاتی اور رسول اللہ ﷺ کے پاس آپ کی اونٹیوں کا دودھ نہیں آتا تھا تو آپ فرماتے تھے کہ اللہ اس کو پیسا کرے جس نے اس شب کو آل محمد ﷺ کو پیسا کیا۔

رسول اللہ ﷺ کی دودھ دینے والی بکریاں:

ابراہیم بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی دودھ دینے والی بکریاں سات تھیں، عجوہ، زمزم، سقیا، برکہ، ورسہ، اطلال اور اطراف۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی سات دودھ دینے والی بھیڑیں تھیں جن کو ام ایمن چراتی تھیں۔ محمد عبد اللہ بن الحصین سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی بکریاں اُحد میں چرائی جاتی تھیں، ہر شب کو اس کے گھر پر آتی تھیں جس میں رسول اللہ ﷺ کا دورہ ہوتا تھا۔

وجیہ کنیرام سلمہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ ﷺ جنگل تشریف لے جاتے تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، واللہ میں نے آپ کو (جنگل جاتے) نہیں دیکھا ہماری سات بھیڑیں تھیں، چرواہا کبھی انہیں اُحد لے جاتا اور کبھی جماء اور شام کو انہیں ہمارے پاس لاتا، ذی الجدر میں رسول اللہ ﷺ کی دودھ دینے والی اونٹنیاں تھیں، رات کو ان کا دودھ ہمارے پاس آ جاتا تھا، غابہ میں بھی تھیں، رات کو ان کا دودھ بھی ہمارے پاس آ جاتا تھا، اونٹ اور بکری ہی سے ہماری اکثر زندگی تھی۔ مکحول سے مروی ہے کہ ان سے مردار کی کھال کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کی ایک بکری کا نام قمر تھا، ایک روز وہ آپ کو نہ ملی، فرمایا کہ قمر کیا ہوئی، لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو مر گئی، فرمایا کہ تم نے اس کی کھال کیا کی، لوگوں نے عرض کی وہ تو مردار تھی، فرمایا یا غت اس کی طہارت ہے۔

ابی الہیثم بن التیمیان سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جن لوگوں کے یہاں بکری ہے ان کے یہاں برکت ہے۔ خالد سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جن لوگوں کے یہاں تین بکریاں (چرکے) رات کو آئیں ان کے یہاں رات بھر ملائکہ رہتے ہیں جو صبح تک ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کے خدام و آزاد کردہ غلام:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میرا خیال تو یہی ہے کہ ہندو اسماء، فرزند ان حارثہ الاسلمی رسول اللہ ﷺ کے غلام ہی تھے یہ دونوں آپ کی خدمت کرتے تھے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور یہ دونوں آپ کے دروازے سے ٹپتے نہ تھے۔ سلمیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی خادمہ میں تھی اور خضرہ رضوی میمونہ بنت سعد تھیں، ہم سب کو رسول اللہ ﷺ نے آزاد کر دیا تھا۔

جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ کی ایک کنیرہ کا نام خضرہ تھا۔

عتبہ بن جبیرہ الاشہلی سے مروی ہے کہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے ابو بکر بن حزم کو تحریر فرمایا کہ میرے لیے رسول اللہ ﷺ کے خدام مرد اور عورتوں اور آپ کے آزاد کردہ غلاموں کے ناموں کی تحقیق کرو۔

انہوں نے لکھا کہ ام ایمن تھیں جن کا نام برکہ تھا، یہ رسول اللہ ﷺ کے والد کی کنیرہ تھیں۔

رسول اللہ ﷺ ان کے وارث ہوئے تو آپ نے انہیں آزاد کر دیا، عبید خزرجی نے مکہ میں ان سے نکاح کیا، ان کے

یہاں ایمن پیدا ہوئیں۔

خدیجہ رضی اللہ عنہا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی مالک ہوئیں، جن کو خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے حکیم بن حزام بن خویلد نے سوق عکاظ میں چار سو درم کو خرید کر رسول اللہ ﷺ نے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ وہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو آپ کو ہبہ کر دیں، یہ واقعہ آپ کے ان سے نکاح کر لینے کے بعد ہوا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے انہیں آپ کو ہبہ کر دیا۔ رسول اللہ ﷺ نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا، ان کی بیوی برکہ بھی آزاد کر دیا۔

ابو بکثہ جن کی ولادت مکہ میں ہوئی تھی، انہیں آپ نے آزاد کر دیا، انسہ جن کی ولادت سراقہ میں ہوئی تھی، انہیں بھی آپ نے آزاد کر دیا۔ صالح شقران کو بھی جو آپ کے غلام تھے آزادی دے دی سفینہ آپ کے ایک غلام تھے انہیں بھی آزاد کر دیا۔ ثوبان یمن کے ایک شخص تھے، جن کو رسول اللہ ﷺ نے مدینے میں خرید کر آزاد کر دیا، ان کا نسب یمن میں ہے۔ رباح حبشی تھے۔ انہیں بھی رسول اللہ ﷺ نے غلای سے رہائی عطا فرمائی۔

یسار حبشی غلام تھے جن کو آپ نے غزوہ بنی عبد بن ثعلبہ میں پایا تھا، انہیں آزاد کر دیا۔ ابورافع عباس کے غلام تھے، ان کو عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کو ہبہ کر دیا۔ جب عباس رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو ابورافع نے رسول اللہ ﷺ کو ان کے اسلام کا ثمرہ سنایا۔ رسول اللہ ﷺ خوش ہوئے اور انہیں آزاد کر دیا، اور ابورافع کا نام اسلم تھا۔ فضالہ یمنی آپ کے آزاد کیے ہوئے غلام تھے جنہوں نے بعد کو شام کی سکونت اختیار کر لی۔ موسیٰ بن مزیہ میں پیدا ہوئے تھے، انہیں بھی آپ نے آزادی بخشی۔

رافع، سعید بن العاص کے غلام تھے، سعید کے لڑکے رافع کے وارث ہوئے ان میں سے بعض نے اسلام میں اپنا حصہ آزاد کر دیا اور بعض رُکے رہے، رافع رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور آپ سے ان لوگوں کے بارے میں طالب امداد ہوئے جنہوں نے آزاد نہیں کیا تھا تاکہ وہ بھی انہیں آزاد کر دیں، رسول اللہ ﷺ نے ان کے بارے میں ان سے گفتگو فرمائی تو انہوں نے آپ کو ہبہ کر دیا۔ آپ نے انہیں آزاد کر دیا وہ کہا کرتے تھے کہ میں رسول اللہ ﷺ کا مولیٰ ہوں۔

مدغم رسول اللہ ﷺ کے غلام تھے، ان کو رفاعہ بن زید الجذامی نے آنحضرت ﷺ کو ہبہ کیا تھا، یہ حمی میں پیدا ہوئے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مدغم کو رفاعہ بن عمرو الجذامی نے آنحضرت ﷺ کو ہبہ کیا تھا، رسول اللہ ﷺ جب خیبر آئے تو وادی القریٰ کی طرف واپس ہوئے وہاں اپنا کجاوہ اتار رہے تھے کہ مدغم کے پاس ایک نامعلوم تیر آیا، جس نے انہیں قتل کر دیا۔ کہا گیا کہ شہادت انہیں مبارک ہو، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے جس چادر کو جنگب خیبر میں اس نے ہم سے لیا تھا وہ اس پر آگ میں جلائی جائے گی۔

کرکرہ بھی رسول اللہ ﷺ کے غلام تھے۔

ایاس بن سلمہ بن الاکوع نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ کے ایک غلام کا نام رباح تھا، یہ رسول اللہ ﷺ کے اس سامان پر تھے جس پر عیینہ بن حصن نے چھاپہ مارا تھا۔

رسول اللہ ﷺ اور ازواج مطہرات کے مکانات:

عبداللہ بن یزید الہذلی سے مروی ہے کہ میں نے ازواج نبی علیہ السلام کے مکانات اس وقت دیکھے جب ان کو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے منہدم کیا یہ کچی اینٹ کے مکان تھے حجرے کھجور کی ٹہنیوں کے تھے جن پر گارے کی کہگل کی ہوئی تھی میں نے شمار کیا تو مع حجروں کے نو مکان تھے وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان کے درمیان سے اس دروازے تک تھے جو باب النبی علیہ السلام کے متصل تھا اسما بنت حسن بن عبداللہ بن عبید اللہ بن العباس کے مکان تک۔

میں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا مکان اور ان کا حجرہ کچی اینٹ کا دیکھا تو ان کے ایک بیٹے سے دریافت کیا انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ ﷺ نے غزوہ دومتہ الجندل کیا تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنا حجرہ کچی اینٹ کا بنوا لیا رسول اللہ ﷺ آئے تو آپ کی نظر اینٹ پر پڑی آپ اپنی ازواج میں سب سے پہلے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور فرمایا کہ اے ام سلمہ رضی اللہ عنہا وہ سب سے بدتر چیز جس میں مسلمان کا مال صرف ہو تعمیر ہے۔

محمد بن عمرو نے کہا کہ میں نے یہ حدیث معاذ بن محمد الانصاری سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ ایک مجلس میں جس میں عمر بن ابی انس بھی تھے میں نے عطاء خراسانی کو کہتے سنا اور وہ قبر مبارک اور منبر شریف کے درمیان تھے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی ازواج کے حجرے کھجور کی شاخوں کے پائے جن کے دروازوں پر سیاہ بالوں کے ٹاٹ کے پردے پڑے تھے میں ولید بن عبد الملک کا فرمان آنے کے وقت موجود تھا جو پڑھا جا رہا تھا اس میں انہوں نے ازواج رسول اللہ ﷺ کے حجروں کو مسجد رسول اللہ ﷺ میں داخل کرنے کا حکم دیا تھا میں نے اس روز سے زیادہ لوگوں کو روتے ہوئے نہیں دیکھا۔

عطاء کہتے ہیں کہ میں نے اسی روز سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ واللہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ یہ لوگ ان حجروں کو اپنی حالت پر چھوڑ دیئے اہل مدینہ میں سے جو پیدا ہونے والا پیدا ہوتا اور اطراف عالم سے جو آنے والا آتا وہ دیکھتا کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی زندگی میں کس چیز پر کفایت فرمائی یہ ایک ایسی بات تھی جو لوگوں کو بکثرت مال جمع کرنے اور باہم فخر کرنے سے نفرت دلاتی۔

معاذ نے کہا جب عطاء خراسانی اپنی حدیث سے فارغ ہوئے تو عمر بن ابی انس نے کہا کہ ان میں سے چار مکان کچی اینٹ کے تھے جن کے حجرے کھجور کی شاخ کے تھے پانچ مکان کہگل کی ہوئی کھجور کی شاخ کے تھے جن میں حجرے نہ تھے دروازوں پر بالوں کا ٹاٹ پڑا تھا میں نے پردے کو ناپا تو وہ تین ہاتھ طویل اور ایک ہاتھ سے زیادہ عریض تھا۔

یہ جو تم نے اس روز کے رونے کا حال بیان کیا تو میں نے خود ایک ایسی مجلس میں دیکھا ہے جس میں اصحاب رسول اللہ ﷺ کے فرزندانوں کی ایک جماعت تھی جن میں ابوسلمہ بن عبد الرحمن بن عوف اور ابوامامہ بن سہل بن حنیف اور خارجہ بن زید بن ثابت بھی تھے یہ لوگ روزہ تھے یہاں تک کہ آنسوؤں نے ان کی داڑھیوں کو تر کر دیا تھا اس روز ابوامامہ نے کہا کہ کاش وہ چھوڑ دیئے جاتے اور منہدم نہ کیے جاتے تاکہ لوگ تعمیر میں کمی کرتے اور دیکھتے اللہ اپنے نبی علیہ السلام کے لیے کس چیز پر راضی تھا حالانکہ دنیا کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔

عبداللہ بن عامر الاسلمی سے مروی ہے کہ ابوبکر بن حزم اپنی نماز گاہ میں تھے وہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس ستون کے جو قبر مبارک کے اس کنارے کے متصل ہے کہ دوسرے ستون سے ملا ہوا ہے اور رسول اللہ ﷺ کے دروازے کے راستے میں واقع ہے یہی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا (ام المومنین) کا مکان ہے رسول اللہ ﷺ اسی میں نماز پڑھتے تھے یہ سب آج تک اسماء بنت حسن بن عبداللہ بن عبید اللہ بن العباس کے مکان سے صحن مسجد تک ہے آنحضرت ﷺ کے یہی مکانات ہیں جن کو میں نے کھجور کی شاخ کا دیکھا جن پر گارے کی کہگل کی ہوئی تھی اور ان پر بالوں کا ٹاٹ پڑا تھا۔

ایک شیخ اہل مدینہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے حجرے منہدم کیے جانے سے پہلے دیکھے جو کھجور کی شاخوں کے تھے جن پر کھالوں کے ٹکڑے منڈھے تھے۔

داؤد بن شیبان سے مروی ہے کہ میں نے ازواج نبی ﷺ کے حجرے دیکھے جن پر ٹاٹ پڑے تھے۔

حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں میں ازواج نبی ﷺ کے حجروں میں داخل ہوتا تھا اور ان کی چھتیں اپنے ہاتھ سے چھو لیتا تھا۔

رسول اللہ ﷺ کے وقف شدہ اموال:

محمد بن کعب سے مروی ہے کہ اسلام میں سب سے پہلا صدقہ (یعنی وقف) رسول اللہ ﷺ کا اپنے اموال کا وقف ہے جب خریق احد میں قتل کر دیے گئے اور انہوں نے یہ وصیت کی کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے اموال رسول اللہ ﷺ کے لیے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ان پر قبضہ کیا اور انہیں وقف (تصدق) کر دیا۔

عبداللہ بن کعب بن مالک سے مروی ہے کہ جنگ احد میں خریق نے کہا کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے اموال محمد کے لیے ہیں وہ انہیں جہاں اللہ بتائے خرچ کریں یہ رسول اللہ ﷺ کے صدقات عامہ تھے۔

عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ اپنے زمانہ خلافت میں خنصرہ میں کہتے تھے کہ میں نے مدینے میں اس زمانے میں سنا جب مشائخ مہاجرین و انصار میں سے بہت لوگ موجود تھے کہ نبی محمد ﷺ نے سات باغ اموال خریق میں سے وقف کیے تھے خریق نے یہ کہا تھا کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے مال محمد (ﷺ) کے لیے ہیں وہ انہیں جہاں اللہ بتائے خرچ کریں۔ وہ غزوہ احد میں قتل کر دیے گئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ خریق سب سے اچھے یہودی ہیں۔

اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے ہمارے لیے ان (باغوں) کی کھجوریں منگائیں ایک طباق میں کھجوریں لائی گئیں انہوں نے کہا کہ مجھے ابوبکر بن حزم نے لکھا ہے کہ یہ کھجوریں انہیں خوشوں میں سے ہیں جو رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں تھے۔ اور رسول اللہ ﷺ اس میں سے نوش فرماتے تھے۔

راوی نے کہا کہ امیر المومنین انہیں ہم میں تقسیم کر دیجئے۔ انہوں نے جب تقسیم کیں تو ہم میں سے ہر شخص کو نو کھجوریں ملیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب میں والی مدینہ تھا تو میں بھی ان باغوں میں گیا اور اس درخت کی کھجور کھائی میں نے اس کی سی شیریں اور تازہ کھجور نہیں دیکھی۔

ابی وجزہ یزید بن عبید السعدی سے مروی ہے کہ مخزق بنی قینقاع کے سب سے بڑے امیر تھے وہ علمائے یہود اور توریت کا علم رکھنے والوں میں سے تھے رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ آپ کی مدد کرنے کے لیے اُحد گئے حالانکہ وہ اپنے دین (یہودی) پر تھے محمد بن مسلمہ و سلمہ بن سلامہ سے کہا کہ اگر میں مرجاؤں تو میرے اموال محمد (ﷺ) کے حوالے ہیں وہ جہاں انہیں اللہ بتائے خرچ کریں۔

جب ہفتے کا دن ہوا اور قریش بھاگ گئے اور مقتولین دفن کر دیئے گئے تو مخزق مقتول پائے گئے جن کے زخم بھی تھے وہ مسلمانوں کی قبروں سے علیحدہ دفن کیے گئے آپ نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی نہ اس روز اور نہ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ سے ان کے حق میں دعائے رحمت سنی گئی آپ نے اس سے زیادہ نہیں فرمایا کہ مخزق سب سے اچھے یہودی تھے بس یہی آپ کا حکم ہے۔ عثمان بن وثاب سے مروی ہے کہ یہ سب باغ اموال بنی نضیر میں سے ہیں رسول اللہ ﷺ اُحد سے واپس آئے تو آپ نے مخزق کے اموال تقسیم فرمادیئے۔

زہری سے مروی ہے کہ یہ ساتوں باغ اموال بنی نضیر میں سے ہیں۔ محمد بن بھل بن ابی حمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا وقف اموال بنی نضیر میں سے تھا اور وہ سات باغ تھے (جن کے نام یہ ہے)۔

الاعواف الصافیۃ الدلال، المثیب، بركة، حنّی، مشربہ ام ابراہیم۔ مشربہ ام ابراہیم اس لیے نام رکھا گیا کہ ابراہیم کی والدہ ماریہ اُسی میں رہتی تھیں یہ کل مال سلام بن مشکم النضیری کا تھا۔ محمد بن کعب القرظی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں اوقاف میں سات باغ تھے الاعواف الصافیۃ الدلال، المثیب، بركة، حنّی، مشربہ ام ابراہیم۔

ابن کعب نے کہا کہ آنحضرت ﷺ کے بعد مسلمانوں نے اپنی اولاد پر اور اپنی اولاد کی اولاد پر وقف کیا ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے غنیمت میں سے تین مخصوص منتخب حصے تھے۔ (اموال) بنی النضیر آپ کے حوادث کے لیے وقف تھے۔ فذک مسافروں کے لیے۔

اور خیبر وقف تھا۔ خمس کو بھی آپ نے تین حصوں پر تقسیم کر دیا تھا۔ دو جزو مسلمانوں کے لیے تھے اور ایک جزو میں سے آپ اپنے اہل و عیال پر صرف فرماتے اگر کچھ فاضل رہتا تو اسے فقراء مہاجرین میں تقسیم فرمادیتے۔ رسول اللہ ﷺ کے زیر استعمال کوئیں:

مروان بن ابی سعید بن العلی سے مروی ہے کہ میں نے ان کوئوں کو تلاش کیا ہے جن کا پانی رسول اللہ ﷺ پیتے تھے اور

جن میں آپؐ نے برکت کی دعا فرمائی اور لعابِ دہن ڈالا۔

آپؐ بیر بضاعہ کا پانی پیتے تھے جس کو بیر ابی انس کہا جاتا ہے۔

آپؐ ایک کنویں کا پانی پیتے تھے جو آج قصر بنو عدیلہ کے پہلو میں ہے۔ آپؐ جاسم کا پانی پیتے تھے۔

آب دار خانوں کا پانی بھی پیتے تھے۔

قباء کے بیر غرس کا پانی بھی پیتے تھے اس میں آپؐ نے برکت کی دعا فرمائی اور فرمایا کہ یہ جنت کا ایک چشمہ ہے۔

عبیرہ کا پانی پیتے تھے جو بنی امیہ بن زید کا کنواں ہے اس پر آپؐ کھڑے ہوئے دعائے برکت فرمائی اس میں لعابِ دہن

ڈالا اور اس کا پانی پیا، آپؐ نے اس کا نام پوچھا تو عبیرہ بتایا گیا، آپؐ نے اس کا نام عبیرہ رکھا۔ آپؐ عقیق کے بیر رومہ کا بھی پانی پیتے تھے۔

سلمیٰ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ ابو ایوب کے مکان پر اترے تو ابو ایوب آپؐ کی خدمت کیا کرتے تھے آپؐ کے لیے ابی انس مالک بن النضر کے کنویں سے پانی لایا کرتے تھے جب رسول اللہ ﷺ اپنے مکان چلے گئے تو انس بن مالک اور ہند و اسماء فرزند ان حارثہ بیر سقیاء سے پانی کے گھڑے لاد کر آپؐ کی ازدواج کے مکانات پر لے جاتے تھے پھر آپؐ کے خادم رباح جو حبشی غلام تھے آپؐ کے حکم سے کبھی بیر غرس سے پانی بھرتے تھے اور کبھی بیر بیوت السقیاء سے۔

الہیثم بن نضر بن دہر الاسلمی سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کا خادم تھا اور محتاجین کی جماعت کے ساتھ آپؐ کے دروازے سے وابستہ تھا میں آپؐ کے پاس ابی الہیثم بن التیہان کے بیر جاسم سے پانی لاتا تھا اس کا پانی بہت اچھا تھا۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس وقت فرمایا جب آپؐ بیر غرس کی مینڈھ پر بیٹھے تھے کہ میں نے آج شب کو خواب میں دیکھا کہ جنت کے ایک چشمے پر بیٹھا ہوں، مراد یہی کنواں تھا۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بیر غرس جنت کا ایک چشمہ ہے۔

عمر بن الحکم سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بیر غرس بھی کیسا اچھا کنواں ہے یہ جنت کا ایک چشمہ ہے اس کا پانی سب پانیوں سے اچھا ہے رسول اللہ ﷺ کے لیے اس کا پانی بھرا جاتا تھا اور آپؐ کو بیر غرس سے غسل کرایا جاتا تھا۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ قباء گئے، آپؐ بیر غرس پہنچے اس میں ایک گدھے پر پانی بھرا جا رہا تھا ہم لوگ دن کے اکثر حصے میں اس طرح کھڑے رہے کہ ہمیں اس میں پانی ہی نہ ملتا تھا رسول اللہ ﷺ نے ڈول میں کلی کی اور اسے کنویں میں ڈال دیا تو وہ تری میں جوش مارنے لگا۔

ابی جعفر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے لیے بیر غرس کا پانی بھرا جاتا تھا اور اسی سے آپؐ کو غسل کرایا جاتا تھا۔

سہل بن سعد سے مروی ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ ﷺ کو بیر بضاعہ کا پانی پلایا ہے۔

ابی بن عباس بن سہل بن سعد نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کی ایک جماعت سے سنا جن میں ابو اسید و ابو حمید و ابی سہل بن سعد بھی تھے کہ رسول اللہ ﷺ بیر بضاعہ پر تشریف لائے، ڈول سے وضو کیا اور اسے کنوئیں

میں ڈال دیا، دوبارہ ڈول میں کھلی کی اور اس میں لعاب دہن ڈالا اور آپؐ نے اس کا پانی پیا، آپؐ کے زمانے میں جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو فرماتے تھے کہ اسے بضاعہ کے پانی سے نہلاؤ، وہ نہلایا جاتا تھا تو اس کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ گویا رسی کو کھول دیا گیا ہے۔

ابو حمید الساعدی سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو بارہا بیر بضاعہ پر کھڑے دیکھا ہے، آپؐ کے گھوڑوں کو اس کا پانی پلایا جاتا تھا، آپؐ نے بھی اس کا پانی پیا اور وضو کیا اور اس کے بارے میں دعائے برکت کی۔

محمد بن عبد اللہ بن عمرو بن عثمان سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بیر رومہ کی طرف دیکھا جو قبیلہ مزنیہ کے ایک شخص کا تھا، وہ اُجرت پر اس کا پانی پلاتا تھا اور فرمایا کہ اس مسلمان کا یہ کیسا اچھا صدقہ ہو جو اسے مزنی سے خرید لے اور وقف کر دے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اس کو چار سو دینار میں خریدا اور وقف کر دیا، جب اس پر منڈیر بنا دی گئی تو ادھر سے رسول اللہ ﷺ گزرے، آپؐ نے اسے دریافت کیا تو بتایا گیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے خریدا کر وقف کر دیا، آپؐ نے فرمایا کہ اے اللہ ان کے لیے جنت واجب کر دے، پھر آپؐ نے اس کے پانی کا ایک ڈول منگایا اور اس میں پیا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ شیریں پانی ہے، دیکھو خبردار اس وادی میں کنوؤں کی کثرت ہوگی اور وہ شیریں ہوں گے، اور مزنی کا کنواں ان سب سے زیادہ شیریں ہے۔

مطلب بن عبد اللہ بن خطیب سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک روز مزنی کے کنوئیں پر سے گزرے، اس کنوئیں کے پہلو میں ان کا ایک خیمہ تھا اور ایک گھڑا تھا جس میں ٹھنڈا پانی تھا، گرمی میں رسول اللہ ﷺ نے ٹھنڈا پانی پیا اور فرمایا کہ یہ شیریں و صاف ہے۔


محمود بن الربیع سے مروی ہے کہ انہیں وہ کلی یاد ہے جو رسول اللہ ﷺ نے ڈول میں کر کے بیر انس میں ڈالی تھی۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمارے اسی کنوئیں کا پانی پیا ہے۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے لیے بیر بیوت السقیاء سے پانی بھرا جاتا تھا۔

عاصم بن عبد اللہ الحکمی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بدر جاتے وقت بیر السقیاء کا پانی پیا۔ اس کے بعد بھی آپؐ اس

کا پانی پیا کرتے تھے۔



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله

ولا اله الا الله، والله اكبر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ رَبِّ انْعَمْتَ عَلَى فِزْد

آثار وفات

زندگی کے آخری ایام اور کثرت استغفار:

ابو عبیدہ بن عبد اللہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ ﴿سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي﴾ بکثرت فرمایا کرتے تھے پھر جب سورہ ﴿اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ کا نزول ہوا تو فرمایا: ﴿سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي﴾ انک انت التواب الرحیم ﴿

رسول اللہ ﷺ پر جب ﴿اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر لہ انہ کان توابا ﴿ نازل ہوئی تو حسن نے کہا کہ آنحضرت ﷺ کی اجل قریب آگئی اور آپ کو کثرت تسبیح واستغفار کا حکم دیا گیا۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سورت ﴿اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ اللہ کی طرف بلانے والی اور دنیا سے رخصت کرنے والی ہے۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ آخر عمر میں یہ کلمات بکثرت فرمایا کرتے تھے: ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ“ استغفر اللہ واتوب الیہ “ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ آپ کلمہ ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ“ استغفر اللہ واتوب الیہ “ کی اس قدر کثرت فرماتے ہیں کہ اس سے قبل نہیں فرماتے تھے۔

حضرت نے فرمایا: میرے پروردگار نے مجھے میری امت میں ایک علامت کی خبر دی کہ جب اس کو دیکھنا تو اپنے پروردگار کی حمد و تسبیح کرنا اور اس سے استغفار کرتے رہنا میں نے اس علامت کو دیکھ لیا ہے ﴿اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ ورأیت الناس

یدخلون فی دین اللہ افواجا الذی ﷺ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب سورت ﴿اذا جاء نصر اللہ والفتح﴾ نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور فرمایا کہ مجھے میری خبر مرگ سنادی گئی۔

فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: یہ سن کے میں رونے لگی تو فرمایا: رونہیں، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تو ہی مجھ سے ملے گی۔ یہ سن کے میں ہنسی اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ﴿اذا جاء نصر اللہ والفتح﴾ یمن کے لوگ آئے جو رقیق القلب تھے۔

فرمایا: ایمان بھی یمنی ہے اور حکمت بھی یمنی ہے۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ پر آپ کی وفات سے پہلے پے درپے وحی بھیجی یہاں تک کہ آپ وفات پا گئے۔ سب سے زیادہ وحی اس روز نازل ہوئی جس دن رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ سے نے کہا کہ میں ضرور معلوم کر لوں گا کہ ہم میں رسول اللہ ﷺ کی زندگی کتنی باقی ہے، انہوں نے آپ سے عرض کیا: یا رسول اللہ اگر آپ اپنے لیے تخت بنا لیتے (تو بہتر ہوتا) کیونکہ لوگوں نے آپ کو بھائی بنا لیا ہے، آپ نے فرمایا: واللہ میں برابر ان کے درمیان اسی طرح رہوں گا کہ وہ میری چادر چھینتے ہوں گے اور مجھے ان کا غبار پہنچتا ہوگا، یہاں تک کہ اللہ مجھے ان سے راحت دے گا، عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے سمجھ لیا کہ رسول اللہ ﷺ کی زندگی ہم میں قلیل ہے۔

واحد بن الاسقع سے مروی ہے کہ ہمارے پاس رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور فرمایا کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میری وفات تم سب کے آخر میں ہوگی؟ آگاہ رہو کہ میں وفات میں تم سب سے اڈل ہوں، کجاوے کی لکڑیوں کی طرح تم لوگ میرے پیچھے ہو گے کہ تم میں سے بعض بعض کو ہلاک کریں گے خالد بن خداش کی روایت میں (بجائے افتاد یعنی کجاوے کی لکڑیاں) افتاد یعنی قوم و جماعت ہے۔

سالم بن ابی الجعد سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے اس عالم میں جسے سونے والا دیکھتا ہے دنیا کی کنجیاں دی گئیں، تمہارے نبی ﷺ کو اچھے راستے کی طرف لے گئے اور تم دنیا میں اس حالت میں چھوڑ دیئے گئے کہ سرخ و زرد و سفید حلوا کھا رہے ہو، کہ اصل سب کی ایک ہے (یعنی) شہد اور گھی اور آٹا، لیکن تم لوگوں نے نفسانی خواہشوں کی پیروی کی۔

بکر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے (جس میں) تم بھی باتیں کرتے ہو اور تم سے بھی باتیں کی جاتی ہیں، جب میرا انتقال ہوگا تو میری وفات تمہارے لیے بہتر ہوگی، تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے اگر میں خیر دیکھوں گا تو اللہ کی حمد کروں گا اور اگر شر دیکھوں گا تو تمہارے لیے اللہ سے استغفار کروں گا۔

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: عنقریب مجھے دعوت دی جائے گی جو میں قبول کر لوں گا، میں تم میں دو نفیس چیزیں چھوڑنے والا ہوں کتاب اللہ اور اپنی عزت (ذریعہ) کتاب اللہ ایک رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف دراز کی گئی ہے، اور میری عزت میرے اہل بیت ہیں مجھے لطیف و خبیر نے خبر دی ہے کہ یہ دونوں جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر دونوں وارد ہوں، دیکھو تم ان دونوں کے بارے میں میرے بعد کیا برتاؤ کرتے ہو۔

آخری سال میں قرآن مجید کا دوبارہ دور اور طویل اعتکاف:

ابوصالح سے مروی ہے کہ جبریل علیہ السلام ہر سال ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ کو قرآن سناتے اور دور کرتے تھے جب وہ سال ہوا جس میں آپ اٹھالیے گئے تو انہوں نے دو مرتبہ سنایا رسول اللہ ﷺ رمضان کے عشرہ آخر میں اعتکاف کیا کرتے تھے جس سال وفات ہوئی آپ نے بیس دن اعتکاف کیا۔

ابن سیرین رحمہ اللہ نے کہا کہ جبریل علیہ السلام ہر سال رمضان میں ایک مرتبہ نبی ﷺ کو قرآن سناتے جب وہ سال ہوا جس میں آپ کی وفات ہوئی تو آپ کو انہوں نے دو مرتبہ سنایا (محمد بن سیرین) نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ ہماری قراءت آخری مرتبہ سنانے کے مطابق ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہر رمضان میں قرآن جبریل علیہ السلام کو سناتے تھے جب نبی ﷺ اس شب کی صبح کرتے تھے جس میں آپ کو جوسنا ہوتا تھا وہ سناتے تھے تو آپ کی صبح اس حالت میں ہوتی تھی کہ آندھی سے بھی زیادہ جی ہوتے تھے آپ سے جو چیز مانگی جاتی تھی دے دیتے تھے جب اس (رمضان کا) مہینہ ہوا جس کے بعد آپ وفات پا گئے تو آپ نے ان کو دو مرتبہ سنایا۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ خیر میں سب لوگوں سے زیادہ جی تھے آپ رمضان میں ہمیشہ سے زیادہ جی ہو جاتے تھے یہاں تک کہ وہ ختم ہو جاتا تھا جب آپ سے جبریل علیہ السلام ملتے تھے تو رسول اللہ ﷺ ان کو قرآن سناتے تھے اور تیز آندھی سے زیادہ جی ہو جاتے تھے۔

یزید بن زیاد سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس سال جس میں آپ اٹھالیے گئے عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام مجھ کو ہر سال ایک مرتبہ قرآن سناتے تھے مگر اس سال انہوں نے دو مرتبہ سنایا ہے کوئی نبی ایسا نہیں ہوا جو اپنے اس بھائی کی نصف عمر نہ زندہ رہا ہو جو اس کے قبل تھا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ایک سو پچیس سال زندہ رہے یہ (میری زندگی کے) باسٹھ سال ہوئے اس کے نصف سال بعد آپ وفات پا گئے۔

قاسم بن عبد الرحمن سے مروی ہے کہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ ﷺ پر نازل ہو کر ہر سال رمضان میں ایک مرتبہ آپ کو قرآن پڑھاتے تھے جب وہ سال ہوا جس میں رسول اللہ ﷺ اٹھالیے گئے تو جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے آپ کو دو مرتبہ قرآن پڑھایا۔

عبداللہ نے کہا میں نے اس سال رسول اللہ ﷺ کے وہن مبارک سے (سن کر) پڑھا واللہ اگر میں یہ جانتا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو مجھ سے زیادہ کتاب اللہ کا عالم ہے اور اس کے پاس مجھے اونٹ پہنچائیں گے تو میں ضرور سوار ہو کر اس کے پاس جاتا۔ واللہ میں اسے نہیں جانتا۔

رسول اللہ ﷺ پر یہود کے جادو کا اثر:

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ پر سحر کیا گیا آپ خیال کرتے تھے کہ یہ شے کریں گے مگر اسے کرتے نہ

تھے۔ ایک روز میں نے آپ کو دعا کرتے دیکھا تو آپ نے (مجھ سے) فرمایا تم سمجھیں میں جس بارے میں اللہ سے دریافت کرتا تھا اس نے مجھے بتا دیا میرے پاس دو شخص آئے ایک میرے سر ہانے بیٹھ گیا اور دوسرا پانچتی ایک نے کہا کہ اس شخص کی بیماری کیا ہے دوسرے نے کہا ان پر (رسول اللہ ﷺ) پر سحر کیا گیا ہے اس نے کہا کس نے آپ پر سحر کیا ہے کہا لبید بن الاعصم نے اس نے کہا کس چیز میں (اس نے سحر کیا) کہا کنگھے میں کنگھے سے گرے ہوئے بالوں میں اور ایک موٹے کھجور کے درخت کے کنویں میں۔ پوچھا وہ (درخت) کہاں ہے اس نے کہا ذی ذروان میں۔

رسول اللہ ﷺ وہاں گئے جب واپس آئے تو عائشہ رضی اللہ عنہا کو خبر دی کہ اس کھجور کے درخت ایسے ہیں جیسے شیاطین کے سر اور اس کا پانی ایسا ہے جیسا مہندی کا پانی میں نے (عائشہ رضی اللہ عنہا) کہا: یا رسول اللہ اسے لوگوں کے لیے ظاہر کر دیجئے فرمایا: اللہ نے مجھے تو شفا دے دی میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں لوگوں میں شر نہ برا بھانتے ہو۔

غفرہ کے آزاد کردہ غلام عمر سے مروی ہے کہ لبید بن الاعصم یہودی نے نبی ﷺ پر سحر کیا جس سے آپ کی بینائی کم ہو گئی اصحاب نے آپ کی عیادت کی جبریل اور میکائیل علیہ السلام نے آپ کو اس کی خبر دی نبی ﷺ نے اس (ساحر) کو پکڑا تو اس نے اقرار کیا آپ نے سحر کو اس گڑھے میں سے نکلوا یا جو کنویں کی تہ میں تھا پھر اسے کھینچا اور تھوک دیا وہ (سحر) رسول اللہ ﷺ سے دور ہوا اور آپ نے اس (یہودی) کو معاف کر دیا۔

عمر بن الحکم سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ ذی الحجہ میں حدیبیہ سے واپس آئے اور محرم آ گیا تو یہود کے وہ رؤسا جو مدینے میں باقی تھے ان لوگوں میں سے تھے جو اسلام ظاہر کرتے تھے حالانکہ وہ منافق تھے یہ لوگ لبید بن الاعصم یہودی کے پاس آئے جو بنی زریق کا حلیف اور ایسا ساحر تھا کہ یہود جانتے تھے کہ وہ ان سب میں زیادہ محرو زہر کا جاننے والا ہے۔

ان لوگوں نے اس سے کہا کہ اے ابوالاعصم تو ہم سب سے زیادہ سحر جاننے والا ہے ہم نے محمد پر سحر کیا ہے ہمارے مردوں اور عورتوں نے ان پر سحر کیا ہے مگر ہم لوگ (ان کا) کچھ نہ کر سکے۔ تو دیکھتا ہے کہ ہم پر ان کا کیا اثر ہے ہمارے دین کے کیسے مخالف ہیں جن کو وہ قتل و جلا وطن کر چکے ہیں تو ان سے بھی آگاہ ہے۔ ہم لوگ تجھے اجرت دیں گے تو ان پر ایسا سحر کر کہ انہیں ہلاک کر دے تین دینار مقرر کیے کہ وہ رسول اللہ ﷺ پر سحر کرے۔

اس نے آپ کے کنگھے کا اور ان بالوں کا جو کنگھا کرنے سے گرتے ہیں قصد کیا اس میں چند گرہیں لگائیں تھوکا اور ایک موٹی کھجور کے نیچے (دفن) کر دیا پھر اسے لے جا کر ایک کنویں کے (قرب) حوض میں (دفن) کر دیا۔

رسول اللہ ﷺ نے ایک ایسی بات کو محسوس کیا جو آپ کو ناپسند تھی آپ کسی امر کے کرنے کا خیال کرتے تھے (مگر بھول جانے کی وجہ سے) اسے نہ تھے آپ کی بصارت میں کمی آ گئی تھی یہاں تک اس پر آپ کو اللہ نے آگاہ کیا آپ نے جبیر بن ایاس الزرقی کو بلایا جو بدر میں حاضر ہوئے تھے انہیں چاہ و زدران کے اس مقام کا راستہ بتایا جو اس کنویں کے حوض کے نیچے تھا۔ جبیر روانہ ہوئے انہوں نے اسے نکال لیا آپ نے لبید بن الاعصم کو بلا بھیجا اور اس سے فرمایا کہ تو نے جو کچھ کیا اس پر تجھے کس نے برا بھانتے کیا؟ اللہ نے مجھے تیرے سحر سے آگاہ کر دیا اور جو کچھ تو نے کیا اس کی خبر دے دی اس نے کہا اے ابوالقاسم دیناروں کی محبت

نے (مجھے برا بھلا کیا)۔

اسحاق بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے عبد الرحمن بن کعب بن مالک کو اس حدیث کی خبر دی تو انہوں نے کہا کہ آپؐ پر تو اعصم کی لڑکیوں نے سحر کیا تھا جو لبید کی بہنیں تھیں، وہ لبید سے زیادہ ساحر اور زیادہ خبیث تھیں، لبید وہ شخص تھا جو اسے لے گیا اور کنویں کے حوض کے نیچے دفن کیا، جب ان لوگوں نے وہ گرہیں لگائیں تو رسول اللہ ﷺ کی بیٹائی جاتی رہی۔

اعصم کی بیٹیوں میں سے ایک نے یہ مکاری کی کہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئی۔ نبی محمد رسول اللہ ﷺ کی بیٹائی جانے کی عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسے خبر دی یا اس نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو ذکر کرتے سن لیا، وہ نکل کر اپنی بہنوں کے اور لبید کے پاس گئی اور انہیں خبر دی، ان میں سے ایک عورت نے کہا کہ اگر یہ نبی ہوں گے تو انہیں (بذریعہ وحی) خبر دے دی جائے گی، اگر نہ ہوں گے تو یہ اس کے عوض میں ہوگا، جو کامیابی آپؐ نے ہماری قوم اور ہمارے اہل دین پر حاصل کی ہے، اللہ نے آپؐ کو خبردار کر دیا۔

حارث بن قیس نے کہا: یا رسول اللہ! کیا ہم وہ کنواں منہدم کر دیں؟ آپؐ نے انکار کیا مگر حارث بن قیس اور ان کے ساتھیوں نے اسے منہدم کر دیا حالانکہ اس سے چٹھاپانی بھر جاتا تھا۔

انہوں نے دوسرا کنواں کھودا، جب وہ دوسرا جس میں سحر کیا گیا تھا منہدم کر دیا تو رسول اللہ ﷺ نے اس کے کھودنے پر ان کی مدد کی یہاں تک کہ انہوں نے اس کا پانی نکالا۔ بعد کو وہ منہدم کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جس شخص نے رسول اللہ ﷺ کے حکم سے سحر کو نکالا اور وہ بجائے جبیر بن ابیاس الزرقی کے قیس بن مھسن تھے۔

ابن السیب اور عروہ بن زبیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ پر یہودی بنی زریق نے سحر کیا۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ بیمار ہوئے، عورتوں کے اور کھانے پینے میں سحر کیا تھا، آپؐ پر دو فرشتے اس وقت اترے کہ آپؐ خواب و بیداری کی درمیانی حالت میں تھے، ان میں سے ایک آپؐ کے سر ہانے بیٹھ گیا اور دوسرا پائنتی، ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کہ انہیں کیا شکایت ہے، کہا سحر کیا گیا ہے اس نے کہا کس نے آپؐ پر کیا، کہا لبید بن اعصم یہودی نے، اس نے کہا کس چیز میں، کہا ایک کھجور کے پھول میں، کہا اسے اس نے کہاں رکھا، کہا چاہے ذردان میں ایک پتھر کے نیچے، کہا اس کا علاج کیا ہے۔ کہا کنویں کا پانی نکالا جائے پتھر اٹھایا جائے اور کھجور کا پھول نکالا جائے (یہ کہہ کر) وہ دونوں فرشتے اٹھ گئے۔

نبی ﷺ نے علی اور عمار رضی اللہ عنہما کو بلا بھیجا، دونوں کو حکم دیا کہ اس حوض پر جائیں اور وہی کریں جو آپؐ نے (ملائکہ سے) سنا تھا۔ وہ دونوں گئے، اس کا پانی ایسا ہو گیا تھا گویا مہندی سے رنگ دیا گیا ہے، اس (پانی) کو انہوں نے نکالا، پتھر اٹھا کر کھجور کے پھول کو نکالا اس میں ایک بال تھا جس میں گیارہ گرہیں تھیں، یہ دونوں سورتیں نازل کی گئیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، رسول اللہ ﷺ نے یہ کیا کہ آپؐ جب ایک آیت پڑھتے تھے تو ایک گرہ کھل جاتی تھی یہاں تک کہ تمام گرہیں کھل گئیں، نبی ﷺ کھانے پینے میں اور عورتوں کے بارے میں آزاد ہو گئے۔

زید بن ارقم سے مروی ہے کہ انصار میں سے ایک شخص نے نبی ﷺ کے لیے گرہ لگائی، وہ ایسے شخص تھا جس پر آپؐ کو اطمینان تھا، اسے وہ فلاں فلاں کنویں میں لے گیا، آپؐ کی عیادت کے لیے دو فرشتے آئے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کہ جانتے ہو

کہ آپ کو کیا ہوا؟ آپ کے لیے فلاں انصاری نے گرہ لگائی اور اسے فلاں فلاں کنویں میں پھینک دیا۔ اگر آپ اسے نکال لیں تو ضرور صحت ہو جائے۔

لوگ اس کنویں کی طرف روانہ کیے گئے پانی کو سبز پایا، انہوں نے اسے نکال لیا اور پھینک دیا، رسول اللہ ﷺ کی صحت ہو گئی۔ نہ تو آپ نے (اس انصاری سے) اس کے متعلق بیان کیا، نہ آپ کے چہرے میں (ناگواری کا کوئی اثر) دیکھا گیا۔

زہری رحمہ اللہ سے ذی ساحر کے بارے میں (یہ فتویٰ) مروی ہے کہ وہ قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اہل کتاب میں سے ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ پر سحر کیا مگر آپ نے اسے قتل نہیں کیا۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس (ساحر) کو معاف کر دیا۔ معاف کرنے کے بعد اسے دیکھتے تھے تو اس سے منہ پھیر لیتے تھے۔ محمد بن عمرو نے کہا کہ ہمارے نزدیک ان لوگوں کی روایت سے جنہوں نے کہا کہ آپ نے اسے قتل کر دیا یہ زیادہ ثابت ہے (کہ معاف کر دیا)۔

رسول اللہ ﷺ کو بذریعہ زہر شہید کرنے کی یہودی کوشش:

ابراہیم سے مروی ہے کہ (صحابہ رضی اللہ عنہم) کہا کرتے تھے کہ یہود نے رسول اللہ ﷺ کو زہر دیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو زہر دیا۔ حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی عورت نے رسول اللہ ﷺ کو ایک زہریلی بکری ہدیہ دی، آپ نے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر منہ میں ڈال کر چبایا، پھر تھوک دیا، اصحاب سے فرمایا کہ رک جاؤ کیونکہ اس کی ران مجھے بتاتی ہے کہ وہ زہریلی ہے، اس یہودیہ کو بلا بھیجا اور اس سے فرمایا کہ تو نے جو کچھ کیا اس پر تجھے کس نے برا بیچنے کیا، اس نے کہا کہ میں نے یہ جاننا چاہا کہ اگر آپ صادق ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی اطلاع کر دے گا اور اگر کاذب ہوں گے تو میں لوگوں کو آپ سے راحت دے دوں گی۔

ابی سلمہ بن عبد الرحمن سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ صدقہ نہیں کھاتے تھے ہدیہ کھاتے تھے ایک یہودیہ نے آپ کو ایک پکی ہوئی بکری ہدیہ بھیجی رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب نے اس میں سے کھایا اس بکری نے کہا میں زہریلی ہوں، آپ نے اپنے اصحاب سے کہا کہ تم لوگ اپنے ہاتھ اٹھاؤ کیونکہ اس نے مجھے خبر دی ہے کہ وہ زہریلی ہے سب نے اپنے ہاتھ اٹھالیے۔

بشر بن البراء مر گئے تو رسول اللہ ﷺ نے اسے بلا بھیجا اور فرمایا کہ جو کچھ تو نے کیا اس پر تجھے کس نے برا بیچنے کیا؟ اس نے کہا میں نے جاننا چاہا کہ اگر آپ نبی ہوں گے تو وہ آپ کو نقصان نہ کرے گا اور اگر آپ بادشاہ ہوں گے تو میں لوگوں کو آپ سے راحت دوں گی، آپ نے اس کے متعلق حکم دیا تو وہ قتل کر دی گئی۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہود خیبر کی ایک عورت نے رسول اللہ ﷺ کو ایک بکری ہدیہ بھیجی آپ کو اس کا علم ہو گیا کہ وہ زہریلی ہے، اسے بلا بھیجا اور فرمایا تو نے جو کچھ کیا اس پر تجھے کس نے اٹھا کر اس نے کہا میں جاننا چاہتی تھی کہ اگر آپ نبی ہیں تو اللہ اس کی اطلاع کر دے گا اور اگر آپ کاذب ہوں گے تو ہم لوگوں کو آپ سے راحت و دادیں گے رسول اللہ ﷺ جب اس کا اثر محسوس کرتے تھے تو پچھنے لگواتے تھے آپ ایک مرتبہ مکہ روانہ ہوئے جب احرام باندھا تو (زہر کا) کچھ اثر محسوس ہوا، آپ

نے چھپنے لگوائے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے تعرض (باز پرس) نہیں فرمایا۔
عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ پر سحر کیا گیا، آپ کے پاس ایک شخص آیا جس نے سینک سے آپ کی دونوں کنپیوں میں چھپنے لگائے۔

غفرہ کے آزاد کردہ غلام عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس عورت کو قتل کا حکم دیا جس نے بکری میں زہر ملا یا تھا۔
ابوالاحوص سے مروی ہے کہ عبداللہ نے کہا کہ مجھے نو مرتبہ قسم کھانا اس بات پر کہ رسول اللہ ﷺ شہید ہوئے ایک مرتبہ قسم کھانے سے زیادہ پسند ہے یہ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا اور آپ کو شہید کیا۔

ابو ہریرہ اور جابر بن عبد اللہ اور سعید بن المسیب اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ ان میں بعض نے بعض سے کچھ زیادہ کہا ہے۔ کہ جب رسول اللہ ﷺ نے خیبر فتح کیا اور آپ مطمئن ہو گئے، زینب بنت الحارث جو مرحب کی بیٹی تھی اور سلام بن مکرم کی زوجہ تھی دریافت کرنے لگی کہ بکری کا کون سا حصہ محمد (ﷺ) کو زیادہ پسند ہے، لوگوں نے کہا کہ دست۔

اس نے اپنی ایک بھیڑ کو ذبح کیا، اسے بھونا ایسا زہر دینا چاہا کہ زندہ نہ چھوڑے۔ زہروں کے بارے میں یہودیوں سے مشورہ کیا تو سب نے اسی زہر پر اس سے اتفاق کیا، اس نے بکری کو زہر آلود کیا، اس کے دونوں باہوں اور شانوں (دست) میں اور زیادہ زہر بھرا۔

جب آفتاب غروب ہو گیا اور رسول اللہ ﷺ لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھا کر واپس ہوئے تو وہ آپ کے قدموں کے پاس (آ کے) بیٹھ گئی، آپ نے اس سے (حال) دریافت کیا، اس نے کہا اے ابو القاسم ہدیہ ہے جو میں آپ کو دیتی ہوں۔
نبی ﷺ کے حکم سے اس سے لے کے آپ کے آگے رکھ دیا، اصحاب موجود تھے یا جو ان میں سے موجود تھے۔ ان میں بشر بن البراء بن معرور بھی تھے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، قریب ہو جاؤ اور شرب کا کھانا کھاؤ۔ رسول اللہ ﷺ نے دست لے کے کچھ اس میں سے منہ میں ڈال لیا، بشر بن البراء رضی اللہ عنہ نے ایک دوسری ہڈی منہ میں ڈالی۔

رسول اللہ ﷺ اپنا القمہ اتار چکے تو بشر بن البراء رضی اللہ عنہ نے جو کچھ ان کے منہ میں تھا اتارا۔ جماعت نے بھی اس میں سے کھایا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اپنے ہاتھ اٹھا لو کیونکہ یہ دست۔ اور بعض نے بیان کیا کہ یہ بکری کا شانہ۔ مجھے خبر دیتا ہے کہ زہر ملا ہے۔
بشر نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کا اکرام کیا۔ میں نے اسے اپنے اسی نوالے میں جسے میں نے کھایا تھا نکلتے ہی محسوس کر لیا، مگر مجھے بیان کرنے سے صرف اس بات نے روکا کہ یہ ناگوار ہوا کہ میں کھانے سے آپ کو نفرت دلاؤں، جب آپ نے منہ کا نوالہ کھالیا تو میں نے آپ کی جان کو چھوڑ کے اپنی جان سے رغبت نہیں کی اور تمنا کی کہ آپ نے اسے نہ نگلا ہوتا۔ کیونکہ اس میں نافرمانی ہے بشر اپنے مقام سے اٹھنے نہ پائے کہ ان کا رنگ طیلسان (سبز کپڑے) کی طرح ہو گیا، انہیں ان کے ورد نے ایک سال کی مہلت دی کہ وہ بغیر کروٹ دلائے کروٹ نہیں لے سکتے تھے یہاں تک کہ مر گئے، بعض لوگوں نے بیان کیا کہ بشر اپنے مقام سے ہٹنے بھی نہ پائے کہ انتقال کر گئے، اس میں سے کتے کو ڈالا گیا، اس نے کھایا، اپنا ہاتھ چھپے کیا تھا کہ مر گیا۔

زہر دینے والی عورت کا قتل:

رسول اللہ ﷺ نے نہیب بنت الحارث کو بلا کے فرمایا کہ تو نے جو کچھ کیا اس پر تجھے کس نے برا سمجھتے کیا، اس نے کہا آپ نے میری قوم کے ساتھ جو کچھ کیا وہ کیا، میرے باپ، چچا اور شوہر کو قتل کیا۔ میں نے کہا کہ اگر آپ نبی ہوں گے تو یہ دستِ خبر دے دے گا، بعض نے یہ بھی بیان کیا کہ اور اگر بادشاہ ہوں گے تو ہم آپ سے راحت پا جائیں گے وہ یہودیہ جیسی آئی تھی ویسی ہی لوٹ گئی، راوی نے کہا اسے رسول اللہ ﷺ نے بشر بن البراء رضی اللہ عنہ کے ورثا کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ اور یہی ثابت ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے اس کے کھانے کی وجہ سے اپنی گدی میں پچھنے لگوائے جو ابو ہند نے سینگ اور چھری سے لگائے، رسول اللہ ﷺ نے اپنے اصحاب کو حکم دیا۔ انہوں نے بھی اپنے سروں کے بیچ میں پچھنے لگوائے۔

رسول اللہ ﷺ اس کے بعد تین سال تک زندہ رہے یہاں تک کہ آپ کو وہ درد ہوا جس میں آپ اٹھا لیے گئے۔ آپ اپنے مرض کے بارے میں فرمانے لگے میں برابر اس نوالے کا اثر محسوس کرتا رہا جو خیر کے دن کھایا تھا، یہاں تک کہ آج میری ابہر کے جو پشت میں ایک رگ ہے انقطاع کا وقت ہو گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے شہادت کی وفات پائی، (صلوات اللہ علیہ ورحمۃ ودرکاتہ ورضوانہ)۔

آنحضرت ﷺ کا شہدائے احد اور اہل بقیع کے لئے استغفار فرمانا:

علیقہ اپنی والدہ سے راوی ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کہہ سنا کہ ایک شب رسول اللہ ﷺ کھڑے ہوئے، آپ نے اپنے کپڑے پہنے پھر باہر نکلے، میں نے (عائشہ رضی اللہ عنہا نے) اپنی خادمہ بریرہ کو حکم دیا تو وہ آپ کے پیچھے ہو گئیں، جب آپ بقیع میں آئے تو اس کے قریب اتنی دیر ٹھہرے جتنی دیر اللہ نے چاہا۔ وہاں سے واپس ہوئے تو بریرہ آپ کے آگے آئیں، انہوں نے مجھے بتایا، آپ سے میں نے کچھ بیان نہیں کیا یہاں تک کہ صبح ہو گئی میں نے آپ سے یہ واقعہ بیان کیا تو فرمایا کہ میں اہل بقیع کی طرف بھیجا گیا تھا کہ ان کے لیے رحمت کی دعا کروں۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رات کے کسی حصے میں نے نبی ﷺ کو نہ پایا تو میں آپ کے پیچھے گئی، اتفاقاً آپ بقیع میں تھے، آپ نے فرمایا ”السلام علیکم اے قوم مومنین تم ہمارے پیش رو ہو اور ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں، اے اللہ! ہمیں ان کے اجر سے محروم نہ کر، اور نہ ان کے بعد ہمیں فتنے میں مبتلا کر،“ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ پھر آپ میری طرف متوجہ ہوئے۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب کبھی رسول اللہ ﷺ کی شب ان کے یہاں بسر ہوتی تھی تو آپ آخر شب میں بقیع کی طرف نکل جاتے تھے اور فرماتے تھے ”السلام علیکم اے قوم مومنین، ہم سے اور تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے (وہ حق ہے) ان شاء اللہ ہم لوگ تم سے ملنے والے ہیں۔ اے اللہ! بقیع الفرد والوں کی مغفرت فرما۔“

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ وسط شب میں رسول اللہ ﷺ اپنی خواب گاہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، عرض کی: یا رسول اللہ! میرے باپ آپ پر فدا ہوں ”کہاں“ فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اہل بقیع کے لیے استغفار کروں، پھر رسول اللہ ﷺ روانہ ہوئے

ہمراہ آپ کے آزاد کردہ غلام ابورافع بھی روانہ ہوئے، ابورافع بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان لوگوں کے لیے بہت دیر تک دعائے مغفرت فرمائی، واپس ہوئے تو فرمانے لگے مجھے دنیا کے خزانے اور بقائے دوام اور اس کے بعد میرے رب کی ملاقات اور جنت کے درمیان اختیار دیا گیا، میں نے اپنے پروردگار کی ملاقات کو اختیار کر لیا۔

رسول اللہ ﷺ کے آزاد کردہ غلام ابومویہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وسط شب میں فرمایا، اے ابومویہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اہل بقیع کے لیے استغفار کروں، لہذا میرے ہمراہ چلو، آپ روانہ ہوئے، ہمراہ میں بھی روانہ ہوا۔ آپ بقیع میں آئے، اہل بقیع کے لیے بہت دیر تک استغفار کی، پھر فرمایا تم کو وہ حالت مبارک ہو جس میں تمہیں صبح ہوئی اس حالت سے جس میں اور لوگوں کو صبح ہوئی، اسی طرح فتنے آ رہے ہیں جس طرح تاریک شب کے حصے کہ ایک کے پیچھے ایک آئے گا، آخر اڈل کے پیچھے آئے گا، آخر اڈل سے برا ہوگا۔

پھر فرمایا: اے ابومویہ پھر فرمایا، اے ابومویہ مجھے دنیا کے خزانے اور بقائے دوام پھر جنت دی گئی، پھر ان سب کے اور میرے پروردگار کی ملاقات اور جنت کے درمیان اختیار دیا گیا، میں نے (ابومویہ نے) عرض کی: میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ دنیا کے خزانے اور ہیئگی کو جنت کے ساتھ ساتھ اختیار فرمالیجئے، فرمایا اے ابومویہ میں نے لقاۃ الہی اور جنت اختیار کر لی جب آپ واپس ہوئے تو وہ درد شروع ہوا جس میں آپ کو اللہ نے اٹھالیا۔

عطاء بن یسار سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس کوئی بھیجا گیا، آپ سے کہا گیا، چلیے اور اہل بقیع کے لیے دعائے رحمت کیجئے، آپ گئے اور ان کے لیے رحمت کی دعا کی، فرمایا: اے اللہ اہل بقیع کی مغفرت فرما، پھر آ کے سورہے، کوئی شخص آپ کے پاس بھیجا گیا اور آپ سے کہا گیا کہ چلئے اور شہدائے احد کے لیے دعائے رحمت کیجئے، آپ تشریف لے گئے اور ان شہداء کے لیے دعائے رحمت کی۔ آپ سر میں پٹی باندھ کر لوٹے، یہ آپ کے اس درد کی ابتداء تھی، جس میں آپ ﷺ کی وفات ہوئی۔

عقبہ بن عامر الجعفی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے آٹھ سال کے بعد اس طرح شہدائے احد کے لیے دعائے رحمت کی جس طرح زندہ اور مردہ لوگوں کو رخصت کرنے والا آپ منبر پر چڑھے اور فرمایا کہ ”میں تمہارے سامنے آگے جانے والا ہوں، میں تم لوگوں پر گواہ ہوں تم لوگوں سے (ملنے کا) وعدہ حوض (کوثر پر) ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں حالانکہ میں اپنے اسی مقام پر ہوں مجھے تم سے اس کا اندیشہ نہیں کہ تم شرک کرو گے لیکن مجھے تم پر دنیا کا خوف ہے کہ تم اس میں رغبت کرو گے۔“

عقبہ نے کہا کہ یہ میری آخری نظر تھی جو میں نے رسول اللہ ﷺ کی طرف کر لی۔

رسول اللہ ﷺ کے ایام علالت

علالت کا آغاز:

ابن شہاب سے مروی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کا وہ عارضہ جس میں آپ کی وفات ہوئی شروع ہوا تو آپ میمونہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں تھے اسی روز روانہ ہو کر میرے پاس آ گئے میں نے کہا ”ہائے سر“ تو آپ نے فرمایا: میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہوتا کہ میں اپنی زندگی میں تمہاری نماز جنازہ پڑھتا اور تمہیں دفن کرتا۔ میں نے کہا کہ آپ ایسا چاہتے ہیں تو اس روز مجھے یہ نظر آتا ہے کہ آپ کسی اور عورت سے شادی کریں گے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں ”ہائے سر“ کہنے کا تم سے زیادہ مستحق ہوں کیونکہ تمہارے درد سے میرا درد بہت زیادہ ہے اس لیے میری طرف توجہ کرو پھر رسول اللہ ﷺ میمونہ رضی اللہ عنہا کے مکان واپس گئے آپ کا درد اور شدید ہو گیا۔

ابراہیم بن میسرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے تو انہوں نے کہا ”وائے سر“ نبی ﷺ نے فرمایا: میں ”وائے سر“ (کہنے کا زیادہ مستحق ہوں) یہ آپ کے اس درد کی ابتدا تھی جس میں آپ کی وفات ہوئی حالانکہ آپ کسی درد کی اس طرح شکایت نہیں کرتے تھے کہ آپ کو درد ہے۔

عمر بن علی سے مروی ہے کہ سب سے پہلے جس روز رسول اللہ ﷺ کا عارضہ شروع ہوا وہ چار شنبہ تھا آغاز عارضے سے وفات تک تیرہ دن ہوئے۔

تکلیف کی شدت اور کیفیت مرض:

ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے درد ہوا تو آپ کراہنے لگے اور اپنے بستر پر کروٹیں بدلنے لگے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: یا رسول اللہ! اگر ہم میں سے کوئی ایسا کرتا تو آپ اس پر غصہ کرتے رسول اللہ ﷺ نے انہیں جواب دیا کہ (بروایت الفضل بن دکین) صالحین پر (اور بروایت مسلم بن ابراہیم) مومنین پر سختی کی جاتی ہے اس لیے کہ مومن کو ایک کانٹے کی یا اس سے بھی کم (اور بروایت مسلم) اور درد کی تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور اس کی ایک خطا معاف کر دیتا ہے (اور بروایت الفضل بن دکین) اللہ اس کی وجہ سے اس کا ایک گناہ معاف کر دیتا ہے۔

ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے بعض ازواج نبی ﷺ سے روایت کی ہے اور ان کا گمان یہ ہے کہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہا تھیں کہ رسول اللہ ﷺ ایسے بیمار ہوئے کہ اس سے آپ کی بے قراری یا درد بڑھ گیا میں نے کہا یا رسول اللہ آپ گھبراتے ہیں اور بے قرار ہوتے ہیں اگر ہم میں سے کوئی عورت ایسا کرتی تو آپ اس سے تعجب کرتے فرمایا: تمہیں معلوم نہیں کہ مومن پر سختی کی جاتی ہے کہ وہ سختی اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔

ابو بردہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ بیمار ہوئے دردِ اتنا شدید ہو گیا کہ اس نے آپ کو بے قرار کر دیا، جب افاقہ ہوا تو آپ کی کسی بیوی نے عرض کی کہ آپ نے مرض میں اس قسم کی شکایت کی کہ اگر ہم میں سے کوئی ایسی شکایت کرتی تو اسے خوف ہوتا کہ آپ اس پر غصہ کریں گے، فرمایا: کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مومن پر اس کے مرض میں اس لیے سختی کی جاتی ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کے گناہ معاف کیے جائیں؟۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جسے رسول اللہ ﷺ سے زیادہ شدید درد ہوا۔ عبد اللہ سے مروی ہے کہ میں نبی ﷺ کے پاس آیا جب کہ آپ کو بخار تھا، میں نے آپ کو چھوا اور عرض کی یا رسول اللہ آپ کو شدید بخار ہے، فرمایا: ہاں مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تمہارے دواؤں کو، عرض کی: آپ کے اجر بھی دو ہوں گے، فرمایا: ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روئے زمین پر کوئی مسلمان ایسا نہیں جسے مرض کی یا اور کسی بات کی تکلیف پہنچے تو اس کی وجہ سے اللہ اس کے گناہ اس طرح نہ کم کرتا ہو جس طرح درخت اپنے پتے (خزاں میں) کم کرتا ہے۔

علقمہ سے مروی ہے کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی ﷺ کے پاس آئے، انہوں نے آپ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، پھر کہا: یا رسول اللہ آپ کو تو بہت سخت بخار ہے، فرمایا: ہاں، مجھے ایسا بخار ہوتا ہے جیسے تمہارے دواؤں کو، عبد اللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ! یہ اس لیے کہ آپ کے لیے دوا جریں فرمایا: ہاں، خبردار کوئی عبد مسلم ایسا نہیں کہ اسے اذیت پہنچے اور اس کی وجہ سے اللہ اس کے گناہ اس طرح کم نہ کر دے جس طرح یہ درخت اپنے پتے گراتا ہے۔

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نبی ﷺ کے پاس آئے، آپ کو ایسا سخت بخار تھا کہ ہم لوگوں میں سے کسی کا ہاتھ شدت حرارت سے آپ پر ٹھہر نہیں سکتا تھا، ہم لوگ تسبیح پڑھنے لگے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کوئی شخص انبیاء سے زیادہ سخت مصیبت میں نہیں ہوتا۔ جیسی ہم پر مصیبت سخت ہوتی ہے ویسے ہی ہمارا اجر بھی دوچند ہوتا ہے اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک بندہ وہ ہوتا ہے کہ اس پر جو عسلی مسلط کی جاتی ہیں یہاں تک کہ اسے قتل کر دیتی ہیں اور اللہ کے نیک بندوں میں ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو برہنہ ہوتا ہے اور اسے سوائے عبا کے جسے وہ پہن لیتا ہے اور کچھ نہیں ملتا کہ ستر چھپائے۔

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے پاس اس حالت میں آئے کہ آپ کو بخار تھا اور آپ ایک چادر اوڑھے تھے، انہوں نے آپ کے اوپر ہاتھ رکھا تو چادر کے اوپر سے اس کی حرارت محسوس کی، انہوں نے کہا آپ کو کس قدر سخت بخار ہے، فرمایا: ہم لوگوں پر اسی طرح سخت مصیبت کی جاتی ہے اور ہمارا اجر زیادہ کیا جاتا ہے۔

ابوسعید نے پوچھا کہ سب سے زیادہ مصیبت والا کون ہے، فرمایا: انبیاء انہوں نے کہا، پھر کون فرمایا صالحین، ان میں کا کوئی فقر میں مبتلا کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ سوائے عبا کے جسے وہ قطع کرتا ہے اور کچھ نہیں پاتا اور جوؤں میں مبتلا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اسے قتل کر دیتی ہیں، ان میں کا ایک شخص مصیبت میں اتنا خوش ہوتا ہے جتنا تم میں کا ایک شخص عطاء میں۔

بکر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ اس حالت میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے کہ آپ کو بخار تھا، انہوں نے

آپؐ پر ہاتھ رکھا، شدت حرارت سے اٹھالیا، عرض کی یا نبی اللہؐ آپؐ کا بخاریا آپؐ کا بخاری کا بخار کس قدر سخت ہے؟ فرمایا کہ رات کو، شام کو بجز اللہ میں نے ستر سورتیں پڑھیں، جن میں سات طویل تھیں، عرض کی یا نبی اللہؐ اللہ نے آپؐ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیئے اس لیے اگر آپؐ اپنے نفس پر نرمی کریں یا اپنے نفس سے تخفیف کریں (تو بہتر ہو) فرمایا: کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں۔

ثابت بنانی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اس حالت میں اپنے اصحاب میں برآمد ہوئے کہ آپؐ پر درد (کا اثر) معلوم ہو رہا تھا، آپؐ نے فرمایا: تم مجھے جس حالت میں دیکھ رہے ہو (اسی حالت میں) میں نے شب کو سات طویل سورتیں پڑھی ہیں۔
مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ (نماز تہجد میں) اتنا قیام کرتے تھے کہ آپؐ کے دونوں قدموں پر درد ہو جاتا تھا، آپؐ سے کہا گیا کہ آپؐ یہ کیوں کرتے ہیں اللہ نے تو آپؐ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیئے ہیں، فرمایا: تو کیا میں شک گزار بندہ نہ ہوں۔

حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نماز اور روزے میں خوب سعی فرماتے تھے، اپنے اصحاب کی طرف برآ، ہوتے تھے تو آپؐ ایک پرانی مشک کے مشابہ ہوتے تھے (راوی) یزید نے اپنی حدیث میں بیان کیا کہ حالانکہ آپؐ سب سے زیادہ تندرست تھے۔

سعد سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ سب سے زیادہ مصیبت کس پر آتی ہے؟ فرمایا: انبیاء پھر جو زیادہ مشابہ ہو، پھر جو اس کے زیادہ مشابہ ہو، آدمی بقدر اپنے دین کے مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، وہ اگر سخت دین دار ہے تو اس مصیبت بھی سخت ہوگی، اور اگر اس کے دین میں ڈھیلا پن ہے، تو وہ بقدر اپنے دین کے مبتلا ہوگا، بندے پر برابر مصیبتیں نازل ہو رہتی ہیں، جس سے اس کی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ جب وہ اس عالم سے رخصت ہوتا ہے تو اس پر کوئی گناہ (باقی) نہیں رہتا (یعنی وہ مصیبتیں اس کے گناہوں کو مٹاتی رہتی ہیں اور مرنے تک اسے بالکل پاک و صاف کر دیتی ہیں)۔

مصعب بن سعد سے مروی ہے کہ سعد بن مالک نے پوچھا یا رسول اللہؐ سب سے زیادہ مصیبت والا کون ہے (الخ)؟

حدیث مذکور۔

ابو التوکل سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ بیمار ہوئے آپؐ کا مرض شدید ہو گیا تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا چلا کے (رونے لگیں) فرمایا: بٹھرو، سوائے کافر کے کوئی چیخ کر نہیں روتا۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ پر موت کی سختی کے بعد مومن پر موت کی شدت میں رشک کرتی ہوں۔
حضور ﷺ کے شفاعت کلمات:

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ان کلمات سے دعائے حفظ کیا کرتے تھے: "اذهب الباس رب الناس اشف و انت الشافی لا شفاء الا شفاءك لا یغادر سقما" (اے انسانوں کے پروردگار! تکلیف کو دور کر، شفا دے، تو ہی دینے والا ہے، بغیر تیری شفا کے شفا نہیں ہے، ایسی شفا دے جو کسی بیماری کو نہ باقی رکھے)۔

جب رسول اللہ ﷺ کے اس مرض میں شدت ہو گئی جس میں آپؐ کی وفات ہوئی تو میں آپؐ کا ہاتھ پکڑ کے سہلانے

اور ان کلمات سے آپؐ کے لیے دعائے حفظ کرنے لگی۔ پھر آپؐ نے اپنا ہاتھ مجھ سے چھڑا لیا اور کہا ”رب اغفر لی والحقنی بالرفیق“ (اے پروردگار میری مغفرت فرما اور مجھے رفیق سے ملا دے) عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یہ آخری کلمات تھے جو میں نے آپؐ سے سنے۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب کسی مریض کی عیادت کرتے تھے تو اپنا ہاتھ اس کے چہرے اور سینے پر پھیرتے تھے اور فرماتے تھے: ”اذھب الباس رب الناس واشف وانت الشافی لاشفاء الاشفاء لك شفاء لا یغادر سقما“۔ رسول اللہ ﷺ بیمار ہوئے تو آپؐ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کا سہارا لگالیا، انہوں نے آپؐ کا ہاتھ پکڑ لیا، اسے آپؐ کے چہرے اور سینے پر پھیرنے لگیں اور یہی کلمات کہنے لگیں: رسول اللہ ﷺ نے اپنا ہاتھ ان سے چھڑا لیا اور کہا: ”اللہم اعلیٰ جنة الخلد“ (اے خدائے برتر، جنت خلد عطا فرما)۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب نبی ﷺ بیمار ہوئے تو میں آپؐ کا ہاتھ پکڑ کر آپؐ کے سینے پر پھیرنے لگی اور ان کلمات سے دعا کرنے لگی: ”اذھب الباس رب الناس“ آپؐ نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑا لیا اور کہا ”اسأل اللہ الرفیق الاعلیٰ والاسعد“ (میں اللہ سے رفیق اعلیٰ واسعد کو مانگتا ہوں)۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ مرض وفات میں اپنے اوپر معوذات (حفاظت کی دعائیں) دم کیا کرتے تھے جب آپؐ کو اس مرض کی شدت ہوگئی تو میں ان دعاؤں کو آپؐ پر دم کرنے لگی اور آپؐ کا ہاتھ آپؐ پر پھیرنے لگی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب نبی ﷺ بیمار ہوئے تو میں ایک دعا سے آپؐ کے لیے دعائے حفاظت کرتی تھی (جو یہ تھی): ”اذھب الباس رب الناس بیدك الشفاء فی الا انت“ (تیرے ہی ہاتھ میں شفاء ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں) ”اشف شفاء لا یغادر سقما“ پھر جب آپؐ کا مرض وفات ہوا تو میں اس دعا سے آپؐ کے لیے دعائے حفاظت کرنے لگی آپؐ نے فرمایا، میرے پاس سے اٹھ جاؤ، کیونکہ وہ (دعائیں) تو مجھے پہلے فائدہ کرتی تھیں۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے لیے آپؐ کے مرض میں معوذتین (قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس) سے دعائے حفظ کرتی تھیں، دم کرتی تھیں اور آپؐ کے چہرے پر آپؐ کا ہاتھ پھیرتی تھیں۔

ابن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ ﷺ کے سینے پر (ہاتھ) پھیرتی تھیں اور کہتی تھیں: ”اکشف الباس رب الناس انت الطیب و انت شافی“ (اے لوگوں کے پروردگار، تکلیف دور کر، تو ہی طیب ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے) نبی ﷺ فرمانے لگے: ”الحقنی بالرفیق، الحقنی بالرفیق“ (مجھے رفیق سے ملا دے، مجھے رفیق سے ملا دے)۔

قاسم سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے ڈنک مارا گیا تو آپؐ نے پانی اور نمک منگایا اس میں اپنا ہاتھ ڈال کر ”قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس“ پوری پوری پڑھی۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ہم میں سے جو کوئی بیمار ہوتا تھا تو رسول اللہ ﷺ اس پر اپنا داہنا ہاتھ پھیرتے تھے اور فرماتے تھے ”اذھب الباس رب الناس اشف وانت الشافی لاشفاء الاشفاء لك شفاء لا یغادر سقما“۔

جب آپ سخت بیمار ہوئے تو میں نے آپ کا داہنا ہاتھ لے کر اسے آپ پر پھیرا اور کہا ”اذھب الباس رب الناس اشف وانت الشافی“ آپ نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑا لیا اور دو مرتبہ فرمایا: ”اللھم اغفر لی واجعلنی فی الرفیق الاعلیٰ“ (اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے مجھے آپ کی وفات کا علم اس وقت ہوا جب میں نے آپ کی گرائی محسوس کی)۔

ابن عائش نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے ابن عائش! کیا تمہیں میں سب سے بہتر دعائے حفاظت جو دعائے حفاظت کرنے والوں کی نہ بتا دوں؟ عرض کی ”ضرور“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہ دونوں سورتیں ”قل اعوذ برب الناس وقل اعوذ برب الفلق“۔

عبد الرحمن بن السائب الہلالی سے جو زوجہ نبی ﷺ میمونہ رضی اللہ عنہا کے بھیجتے تھے مروی ہے کہ مجھ سے میمونہ رضی اللہ عنہا نے کہا: اے بھیجتے ادھر آؤ تاکہ میں تم پر رسول اللہ ﷺ کا تعویذ (رقیہ) دم کروں انہوں نے کہا: ”بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک من کل ذاء فیک اذھب الباس رب الناس واشف لا شافی الا انت“ (میں اللہ کے نام سے جھاڑتی ہوں اللہ تمہیں ہر اس مرض سے شفا دے جو تمہارے اندر ہے اے لوگوں کے پروردگار تکلیف دہ اور شفا دے تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں)۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے مرض میں فرمایا: ”بسم اللہ قربة ارضنا بریقة بعضنا لیشفی سقیمنا باذن ربنا“ (اللہ کے نام سے اپنی زمین کی مٹی کو ہم میں سے کسی کے تھوک سے ملاتا ہوں تاکہ ہمارے رب کے حکم سے ہمارے بیمار کو شفا دے)۔

ابوسعید سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ بیمار ہوئے تو جبریل علیہ السلام نے آپ کو ان (کلمات سے) جھاڑا: ”بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من کل حاسد وعین اللہ یشفیک“ (اللہ کے نام سے آپ کو جھاڑتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو ایذا دے ہر حاسد اور نظر سے اور اللہ آپ کو شفا دے)۔

نبی ﷺ کی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ بیمار ہوئے تو جبریل علیہ السلام نے آپ کو جھاڑا اور کہا: ”بسم اللہ یریک من کل ذاء یشفیک من شر کل حاسد اذا حسد ومن شر کل ذی عین“ (اللہ کے نام سے جو آپ کو ہر مرض سے صحت دے آپ کو ہر حاسد کے حسد سے جب وہ حسد کرے اور ہر نظر لگانے والے کے شر سے شفا دے)۔

جابر بن ابی سلیمان سے مروی ہے کہ جبریل علیہ السلام محمد ﷺ کے لیے دعائے حفاظت کیا کرتے تھے کہ ”بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل ذی عین ونفس حاسد وباع یشفیک بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک“۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب بیمار ہوتے تھے تو جبریل علیہ السلام آپ کو جھاڑتے تھے اور کہتے تھے: ”بسم اللہ یریک من کل ذاء یشفیک من شر حاسد اذا حسد ومن شر کل ذی عین“۔

عطاء سے مروی ہے کہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ تعویذ جو جبریل علیہ السلام نے نبی ﷺ کے کھانے میں یہود کے سحر کرنے کے وقت کیا یہ تھا: ”بسم اللہ ارقیک بسم اللہ یشفیک من کل ذاء یعینک، خذ فلتمینک من شر حاسد اذا حسد“۔

مرض کے ایام میں صحابہ کی امامت:

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے درد تھا آپ کے پاس اصحاب عبادت کرنے آئے آپ نے انہیں بیٹھ کر نماز پڑھائی اور وہ کھڑے تھے پھر آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ جب اپنی نماز پوری کر لی تو فرمایا: امام تو اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے جب وہ تکبیر کہے تو تکبیر کہو جب رکوع کرے تو رکوع کرو جب سجدہ کرے تو سجدہ کرو جب بیٹھے تو بیٹھ جاؤ اور ویسا ہی کرو جیسا امام کرے۔

زہری سے مروی ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ رسول اللہ ﷺ گھوڑے پر سے گر پڑے داہنا کولہا چھل گیا ہم لوگ آپ کے پاس عبادت کرنے گئے نماز کا وقت آ گیا تو آپ نے ہمیں بیٹھ کر نماز پڑھائی ہم نے آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی آپ نے نماز پوری کر لی تو فرمایا کہ امام اسی لیے کیا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے جب وہ تکبیر کہے تو تکبیر کہو جب رکوع کرے تو رکوع کرو جب اٹھے تو اٹھ جاؤ جب وہ ”سمع اللہ لمن حمدہ“ کہے تو ”ربنا لك الحمد“ کہو اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو سب لوگ اس کے ساتھ بیٹھ کر نماز پڑھو۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس حالت میں لوگوں کی امامت کی کہ آپ سخت بیمار تھے اور نماز میں ابو بکر رضی اللہ عنہ پر سہارا لگائے ہوئے تھے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: امام تو صرف اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے جب وہ تکبیر کہے تو تکبیر کہو جب وہ رکوع کرے تو رکوع کرو جب وہ ”سمع اللہ لمن حمدہ“ کہے تو ”ربنا لك الحمد“ کہو جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو سب مل کے بیٹھ کے نماز پڑھو۔

حضور علیہ السلام کے حکم سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی امامت:

عبید بن عمر اللیثی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے مرض وفات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم دیا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نماز شروع کر دی تو رسول اللہ ﷺ کو (درد میں) کمی محسوس ہوئی آپ نکلے اور صفوں کو چیرنے لگے۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آہٹ محسوس کی تو وہ سمجھ گئے کہ اس طرح سوائے رسول اللہ ﷺ کے اور کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا وہ نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے پیچھے صف کی طرف ہٹے رسول اللہ ﷺ نے انہیں ان کے مقام پر واپس کر دیا آنحضرت ﷺ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بیٹھ گئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے رہے۔

جب دونوں حضرات نماز سے فارغ ہوئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ”اللہ اللہ رسول اللہ ہیں“۔ میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ بحمد اللہ آپ تندرست ہیں یہ دن خارجہ کی بیٹی کا ہے۔ وہ بنی الحارث بن الخزرج کے انصار میں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں رسول اللہ ﷺ نے انہیں اجازت دی۔

رسول اللہ ﷺ اپنی جان نماز پر یا حجروں کی جانب بیٹھ گئے آپ نے لوگوں کو فتنوں سے ڈرایا پھر آپ نے اتنی بلند آواز سے ندا دی کہ آپ کی آواز مسجد کے دروازے سے باہر نکل رہی تھی: واللہ لوگ مجھے ذرا بھی مجبور نہیں کر سکتے میں صرف وہی چیز حلال

کرتا ہوں جو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کر دی، اور وہی چیز حرام کرتا ہوں جو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کر دی، پھر فرمایا: اے فاطمہ رضی اللہ عنہا اور اے صفینہ (رسول اللہ ﷺ کی پھوپھی) جو کچھ اللہ کے پاس (نعمت آخرت) ہے اس کے لیے تم دونوں عمل کرو (بغیر عمل کے) میں تم دونوں کے کچھ کام نہ آسکوں گا۔

آپ مجلس سے اٹھ گئے، آدھا دن بھی نہ گزرا کہ اللہ نے آپ کو اٹھالیا۔

آخری بار زیارت مصطفیٰ ﷺ:

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے اس درد میں جس میں آپ کی وفات ہوئی، ابوبکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے، جب دوشنبہ ہوا اور وہ لوگ نماز کی صفوں میں تھے تو رسول اللہ ﷺ حجرے کا پردہ کھول کر ہماری طرف نظر کرنے لگے، آپ اس طرح کھڑے تھے کہ چہرہ گویا قرآن کا ایک ورق ہے، رسول اللہ ﷺ نے تبسم فرمایا تو ہم لوگ بھی رسول اللہ ﷺ کے برآمد ہونے کی خوشی میں سرور ہو گئے۔ حالانکہ ہم لوگ نماز میں تھے، ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے پیچھے بٹے کہ صف سے مل جائیں، انہیں یہ گمان ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نماز کے لیے برآمد ہوئے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے اپنے ہاتھ سے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ اپنی نماز پوری کرو، پھر رسول اللہ ﷺ اندر ہو گئے، اور پردہ ڈال دیا، اسی روز آپ کی وفات ہو گئی۔

زہری سے مروی ہے کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا: سب سے آخری مرتبہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دوشنبہ کے روز دیکھا، آپ نے جس وقت پردہ ہٹایا تو لوگ صف بستہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے تھے، جب آپ کو لوگوں نے دیکھا تو وہ گنگنائے، آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا کہ گویا قرآن کا ایک ورق تھا، پھر آپ نے پردہ ڈال دیا اور اسی دن کے آخر میں آپ کی وفات ہو گئی۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس وقت پردہ کھولا کہ لوگ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے صف بستہ تھے، آپ نے فرمایا: بھشرات نبوت میں سے سوائے رویائے صالحہ کے جسے مسلمان دیکھتا ہے یا اسے دکھایا جاتا ہے اور کچھ باقی نہیں رہا، سوائے اس کے کہ مجھے رکوع یا جمدے کی حالت میں قراءت سے منع کیا گیا ہے، لیکن رکوع میں اپنے پروردگار کی عظمت بیان کرو، اور سجدے میں خوب دعا کرو، قریب ہے کہ تمہاری دعا قبول کر لی جائے۔

حمزہ بن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کا درد شدید ہو گیا تو آپ نے فرمایا: ابوبکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھائیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی: یا رسول اللہ ابوبکر رضی اللہ عنہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو وہ نرم ول اور بہت رونے والے آدمی ہیں، اس لیے آپ عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیجئے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لوگوں کو ابوبکر رضی اللہ عنہ ضرور نماز پڑھائیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی گفتگو کے مطابق پھر آپ سے دہرایا، پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لوگوں کو ابوبکر رضی اللہ عنہ ضرور نماز پڑھائیں، تم (عورتیں) یوسف علیہ السلام کی ساتھ والیاں ہو۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اس معاملہ (نماز) میں نے رسول اللہ ﷺ سے بار بار گفتگو کی، مجھے بکثرت (ایک ہی بات کے) دہرانے پر صرف اس امر نے برا سمجھنا کیا کہ میرے دل میں یہ آیا کہ لوگ اس شخص کو پسند نہ کریں گے جو آپ کے بعد آپ کی

جگہ پر کھڑا ہو میں یہ خیال کرتی تھی کہ جو شخص آپ کی جگہ کھڑا ہوگا لوگ اسے منحوس سمجھیں گے، میں نے یہ چاہا کہ نبی رسول اللہ ﷺ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پھر جائیں۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دو شنبہ کو جس وقت مسلمان فجر کی نماز میں تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ انہیں نماز پڑھا رہے تھے، ایک رسول اللہ ﷺ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کا پردہ کھولا اور ان کی طرف دیکھا آپ کسی قدر مسکرائے، ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹے کہ صف میں مل جائیں انہوں نے یہ گمان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نماز کے لیے نکلنے کا ارادہ فرماتے ہیں۔

مسلمانوں نے جب رسول اللہ ﷺ کو دیکھا تو خوشی میں انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ اپنی نماز میں تتر بتر ہو جائیں، رسول اللہ ﷺ نے اپنے ہاتھ سے ان کی طرف اشارہ کیا کہ اپنی نماز پوری کرو، آپ حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ ڈال دیا، رسول اللہ ﷺ کی اسی روز وفات ہو گئی۔

عبید اللہ بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا، ان سے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ کے مرض کا حال بیان کیجئے، انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ ﷺ سخت بیمار ہوئے تو فرمایا: کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ میں نے کہا: نہیں، یا رسول اللہ! وہ آپ کے منتظر ہیں، آپ نے فرمایا میرے لیے لگن میں پانی رکھ دو، ہم نے رکھ دیا، آپ نے وضو کیا، آپ بہ دشواری اٹھے کہ کھڑے ہوں، مگر بے ہوشی طاری ہو گئی، جب افادہ ہوا تو پوچھا: کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ میں نے کہا: نہیں، وہ لوگ آپ کے انتظار میں ہیں، فرمایا: میرے لیے لگن میں پانی رکھ دو۔ ہم نے پانی رکھ دیا، آپ نے وضو کیا، پھر آپ چلے کہ بہ دشواری کھڑے ہوں، مگر بے ہوشی طاری ہو گئی، افادہ ہو گیا تو فرمایا: کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ میں نے کہا: نہیں، وہ آپ کے منتظر ہیں، آپ نے فرمایا میرے لیے لگن میں پانی رکھ دو، ہم نے ایسا ہی کیا، آپ گئے اور وضو کیا، پھر پوچھا: کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ میں نے کہا: نہیں، وہ آپ کے منتظر ہیں۔

لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے (دن کی) آخری نماز عشاء کے لیے رسول اللہ ﷺ کا انتظار کر رہے تھے، رسول اللہ ﷺ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہلا بھیجا کہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں، قاصد آیا کہ رسول اللہ ﷺ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ لوگوں کو نماز پڑھا دیجئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہ رفیق القلب تھے کہا، اے عمر رضی اللہ عنہ تم لوگوں کو نماز پڑھا دو، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں، آخر ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی نے کئی دن نماز پڑھائی۔

چند روز کے بعد نبی ﷺ کو تکلیف میں کچھ کمی محسوس ہوئی، آپ دو آدمیوں کے درمیان، جن میں ایک عباس رضی اللہ عنہ تھے (سہارا لگائے) نکلے اسی حالت میں نماز پڑھی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ جب آپ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو چاہا کہ پیچھے ہٹ جائیں، نبی ﷺ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ پیچھے نہ ہٹیں، ان دونوں آدمیوں سے (جن پر سہارا لگایا تھا) فرمایا کہ مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بٹھا دو، دونوں نے آپ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بٹھا دیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ جو کھڑے تھے نبی ﷺ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھنے لگے اور لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھنے لگے اور نبی ﷺ بیٹھے تھے۔

عبید اللہ نے کہا کہ میں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس گیا اور کہا کہ رسول اللہ ﷺ کے مرض کے متعلق مجھ سے

عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو کچھ بیان کیا، کیا میں آپ کے سامنے پیش کروں، انہوں نے کہا بیان کرو، میں نے ان سے بیان کیا، انہوں نے اس میں سے کسی بات کا انکار نہیں کیا سوائے اس کے کہ یہ کہا کہ آیا انہوں نے تم سے اس شخص کا نام بتایا (جو سہارا دینے میں) عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا میں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا: وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کو مرض (کے زمانے میں نماز کی اطلاع دی گئی تو فرمایا: ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں اس کے بعد آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی جب وہ آپ سے دور ہو گئی تو استفسار فرمایا: آیا تم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم دے دیا، میں نے کہا: یا رسول اللہ وہ ایسے رقیق القلب آدمی ہیں کہ لوگوں کو (قرآن) سنا سکتے، اس لیے اگر آپ عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیں (تو مناسب ہو) آپ نے فرمایا: تم لوگ یوسف علیہ السلام کی ساتھ والیاں ہو، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، کیونکہ بہت سے کہنے والے اور تمنا کرنے والے ہیں (جو اس منصب کے لیے کہیں گے بھی اور تمنا بھی کریں گے) اللہ اور مومنین (سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اور سب کی) امامت سے انکار کرتے ہیں۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کی علالت میں شدت ہو گئی تو آپ نے فرمایا: (ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، میں نے کہا: یا نبی اللہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ رقیق القلب، کمزور آواز والے قرآن پڑھتے وقت بہت رونے والے آدمی ہیں، آپ نے فرمایا: انہیں کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں میں نے اپنے قول سابق کا اعادہ کیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم لوگ یوسف علیہ السلام کی ساتھ والیاں ہو، انہیں کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔

عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: میں یہ صرف اس لیے کہتی تھی کہ یہ (امامت) میرے والد سے باز رکھی جائے میں نے (اپنے دل میں) کہا کہ لوگ اس شخص کو ہرگز قبول نہ کریں گے جو رسول اللہ ﷺ کی جگہ پر کھڑا ہوگا اور وہ ہر حادثے میں اس سے قال بدلیا کریں گے اس لیے میں یہ چاہتی تھی کہ یہ میرے والد سے روک لیا جائے۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے شب دوشنبہ بیماری کی حالت میں گزاری، کوئی مرد اور کوئی عورت ایسی نہ رہی جو رسول اللہ ﷺ کے درد کی وجہ سے صبح کو مسجد میں نہ آئی ہو، مؤذن آیا اور اس نے آپ کو نماز صبح کی اطلاع دی، آپ نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے لوگوں کو نماز پڑھانے کو کہو، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی نماز کی تکبیر کہی رسول اللہ ﷺ نے پردہ کھولا اور لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا تو فرمایا: اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں کی ہے۔

دوشنبہ کی صبح آپ کو افاقے کی حالت میں ہوئی، آپ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ اور اپنے غلام ثوبان پر حکم لگا کر برآمد ہوئے اور مسجد میں آئے۔

لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ صبح کی نماز کا سجدہ کر کے دوسری رکعت میں کھڑے تھے، لوگوں نے آپ کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے، آپ آئے یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑے ہو گئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پیچھے ہٹنا چاہا تو نبی ﷺ نے ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کی جانماز پر بڑھا دیا، دونوں (حضرات) نے مل کر صف بنالی، رسول اللہ ﷺ بیٹھے تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کی بائیں جانب کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سورت پوری کر لی تو (رکوع کے بعد) دو سجدے کیے پھر بیٹھ کر تشہد (التمیحات)

پڑھنے لگے جب انہوں نے سلام پھیرا تو نبی ﷺ نے دوسری رکعت پڑھی اور واپس تشریف لے گئے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مصلیٰ پر آنے کا واقعہ:

عبداللہ بن زمعہ بن الاسود سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی مرض وفات میں عیادت کی آپ کے پاس نماز کی اطلاع دینے بلال رضی اللہ عنہ آئے رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دو وہ نماز پڑھ لیں۔ میں نکلا اور اس طرح لوگوں سے ملا کہ ان سے بات نہ کرتا تھا جب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے ملا تو ان کے پیچھے والے کو تلاش نہیں کیا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ موجود نہ تھے میں نے ان سے کہا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ تم لوگوں کو نماز پڑھا دو عمر رضی اللہ عنہ مصلیٰ پر کھڑے ہوئے وہ بلند آواز شخص تھے تکبیر کہی تو رسول اللہ ﷺ نے ان کی آواز سنی آپ نے حجرے سے سر باہر نکالا یہاں تک کہ لوگوں نے آپ کو دیکھا پھر آپ نے فرمایا ”نہیں، نہیں ابن ابی قافہ (ابوبکر رضی اللہ عنہ) نماز پڑھائیں۔“

رسول اللہ ﷺ غضب کی حالت میں یہ فرما رہے تھے عمر رضی اللہ عنہ واپس ہو گئے انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے بھتیجے! کیا رسول اللہ ﷺ نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم مجھے حکم دو؟ میں نے کہا نہیں، لیکن جب میں نے یہ مناسب سمجھا کہ جو آپ کے پیچھے ہے اسے نہ تلاش کروں (تو میں نے آپ سے نماز پڑھانے کو کہہ دیا) پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تم نے مجھے حکم دیا تو میرا یہی گمان تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے اگر (میرا گمان) ایسا نہ ہوتا تو میں لوگوں کو نماز نہ پڑھاتا عبداللہ نے کہا کہ جب میں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نہ دیکھا تو آپ کو بمقابلہ دوسروں کے نماز پڑھانے کا زیادہ مستحق پایا۔

سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مصلیٰ نبوی ﷺ پر:

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نماز کا وقت آیا تو نبی ﷺ نے فرمایا: ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دو جب ابوبکر رضی اللہ عنہ نبی ﷺ کے مقام پر کھڑے ہوئے تو انہیں بہت رونا آیا اور وہ پریشان ہو گئے نبی ﷺ کو نہ پانے کی وجہ سے ان (ابوبکر رضی اللہ عنہ) کے پیچھے جو لوگ تھے انہیں بھی بہت رونا آیا نماز کا وقت آیا تو مؤذن نبی ﷺ کے پاس آیا اور کہا کہ نبی ﷺ سے کہو کہ کسی شخص کو لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم دیں کیونکہ ابوبکر رضی اللہ عنہ اور جو ان کے پیچھے تھے رونے سے پریشان ہو گئے ہیں رسول اللہ ﷺ کی زوجہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ جب تک اللہ اپنے رسول ﷺ کو اٹھنے کے قابل کرے عمر رضی اللہ عنہ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔

مؤذن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی جب نبی ﷺ نے ان کی تکبیر سنی تو فرمایا یہ کون شخص ہے جس کی تکبیر میں سنتا ہوں آپ کی ازواج نے کہا کہ ”عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ“ اور آپ سے بیان کیا کہ مؤذن آیا تھا اس نے کہا کہ نبی ﷺ سے کہو کہ آپ کسی شخص کو لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم دیں کیونکہ ابوبکر رضی اللہ عنہ تو رونے سے پریشان ہو گئے تو حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم یوسف علیہ السلام کی ساتھ والیاں ہو ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں کیونکہ وہ (عمر رضی اللہ عنہ) اگر ان (ابوبکر رضی اللہ عنہ) کو خلیفہ نہ کریں گے تو لوگ اطاعت نہیں کریں گے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کو جب وہ مرض ہوا جس میں آپ کی وفات ہوئی تو آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم دیا، پھر آپ کو (مرض میں) تخفیف معلوم ہوئی تو خود آئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا تو آپ نے انہیں اشارہ کیا، وہ اپنے مقام پر قائم رہے، نبی ﷺ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بائیں جانب بیٹھ گئے، آپ نے وہ آیت شروع کی جسے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ختم کیا تھا۔

حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کو وہ مرض ہوا جس میں آپ کی وفات ہوئی تو آپ کو نماز کی اطلاع دینے کے لیے مؤذن آیا آپ نے اپنی ازواج سے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں کیونکہ تم تو یوسف علیہ السلام کی ساتھ والیاں ہو۔

محمد بن ابراہیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے مرض کی حالت میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ لوگوں کو نماز پڑھاؤ، کچھ افاقہ ہوا تو آپ باہر نکلے اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے پھر انہیں خبر نہ ہوئی جب تک رسول اللہ ﷺ نے اپنا ہاتھ ان کے دونوں شانوں کے درمیان نہ رکھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹے اور نبی ﷺ ان کی داہنی جانب بیٹھ گئے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی اور نبی ﷺ نے بھی ان کی نماز کے ساتھ نماز پڑھی، پھر جب آپ واپس ہوئے تو فرمایا: کوئی نبی ہرگز نہیں اٹھایا جاتا جب تک اس کی امت کا کوئی شخص اس کی امامت نہ کر لے۔

محمد بن قیس سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی نبی ہرگز نہیں اٹھایا جاتا جب تک اس کی امت کا کوئی شخص اس کی امامت نہ کر لے۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے تکبیر کہی تو رسول اللہ ﷺ نے ان کی تکبیر سنی آپ نے غضب کی حالت میں اپنا سر نکالا اور فرمایا: ابن قافہ (ابو بکر رضی اللہ عنہ) کہاں ہیں، ابن ابی قافہ (ابو بکر رضی اللہ عنہ) کہاں ہیں؟۔

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ برابر اپنے درد میں مبتلا رہے، جب آپ کو کوئی محسوس ہوئی تو برآمد ہوئے تکلیف جب شدید ہو گئی اور آپ کے پاس مؤذن آیا تو آپ نے فرمایا: ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، وہ (مؤذن) ایک روز آپ کے پاس سے اس حکم کے لیے نکلا کہ لوگوں کو حکم دے کہ نماز پڑھیں، اور ابن ابی قافہ (ابو بکر رضی اللہ عنہ) موجود نہ تھے، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، جب انہوں نے تکبیر کہی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نہیں نہیں، ابن ابی قافہ کہاں ہیں؟ پھر صفیں ٹوٹ گئیں اور عمر رضی اللہ عنہ واپس ہوئے، ہم لوگ ابن ابی قافہ کے آنے تک جو اس میں تھے ٹھہرے رہے، پھر آگے بڑھ کے انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔

اس سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے درد میں (یہ کرتے) تھے کہ جب تخفیف ہوتی تو نکل کر لوگوں کو نماز پڑھاتے اور جب اس کی شدت محسوس کرتے تو فرماتے لوگوں کو حکم دو کہ نماز پڑھ لیں، ایک روز صبح کی نماز لوگوں کو ابن ابی قافہ نے پڑھائی، انہوں نے ایک رکعت پڑھی، پھر رسول اللہ ﷺ نکلے اور ان کے پہلو میں بیٹھ گئے، آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اقتدا کی، جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نماز پوری کر لی تو رسول اللہ ﷺ نے اپنی علالت میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نماز کے ساتھ فجر کی ایک رکعت پڑھی، پھر بقیہ

رکعت پوری کی، محمد بن عمرو نے کہا کہ میرے خیال میں ہمارے اصحاب کے نزدیک یہی ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔

حضور ﷺ کی زندگی میں سترہ نمازوں میں امامت:

محمد بن عمرو سے مروی ہے کہ میں نے ابو بکر بن عبد اللہ بن ابی سبرہ سے پوچھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو کتنی نمازیں پڑھائیں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے سترہ نمازیں پڑھائیں، میں نے کہا: تم سے کس نے یہ بیان کیا تو انہوں نے کہا مجھ سے ایوب بن عبد الرحمن بن مصعبہ نے بیان کیا، (اور ان سے) عباد بن تمیم نے (اور ان سے) رسول اللہ ﷺ کے ایک صحابی نے (بیان کیا) کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں اتنی نمازیں پڑھائیں۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو تین نمازیں پڑھائیں (جن میں رسول اللہ ﷺ بھی شریک ہوئے)۔ ابو موسیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب بیمار ہوئے اور آپ کے مرض میں شدت ہو گئی تو فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ! ابو بکر رضی اللہ عنہ رقیق القلب ہیں، وہ جب آپ کے مقام پر کھڑے ہوں گے تو ممکن ہے لوگوں کو (گریہ و زاری کی وجہ سے قرآن) نہ سنا سکیں، آپ نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، تم تو یوسف علیہ السلام کیساتھ والیاں ہو۔

عبداللہ (بن مسعود) سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ (اس دنیا سے) اٹھالیے گئے تو انصار نے (مہاجرین سے) کہا کہ ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر تم میں سے (ہو) عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور کہا، اے گروہ انصار کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ ﷺ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم دیا، انہوں نے کہا، بے شک (جانتے ہیں) عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر تم میں کون شخص ہے جس کا دل اس سے خوش ہو کہ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آگے بڑھے؟ انہوں نے کہا، بے شک (جانتے ہیں) عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر تم میں کون شخص ہے جس کا دل اس سے خوش ہو کہ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آگے بڑھے؟ انہوں نے کہا اس سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آگے بڑھیں۔

ایام علالت میں شان ابو بکر رضی اللہ عنہ میں فرامین نبوی ﷺ:

کعب بن مالک سے مروی ہے کہ نبی ﷺ سے آپ کی وفات کے قبل پانچ باتوں میں میرا زمانہ قریب تر ہے، میں نے آپ کو فرماتے سنا کہ آپ اپنے ہاتھ کو ہلاتے تھے کہ میرے قبل کوئی نبی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی امت میں سے اس کا کوئی خلیل (خاص دوست) نہ ہو، آگاہ رہو کہ میرے خلیل ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، اللہ نے مجھے خلیل بنایا جیسا کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔

ابن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے مرض وفات میں فرمایا کہ میرے پاس ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بلاؤ، عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پر گریہ غالب ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو بلا لیں، آپ نے (دوبارہ) فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بلاؤ، عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ رقیق القلب ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہم ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو بلا لیں۔

آپ نے فرمایا، تم یوسف علیہ السلام کیساتھ والیاں ہو، میرے لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے کو بلاؤ کہ وہ لکھ لیں مبادا

ابوبکر رضی اللہ عنہ (کی خلافت) کے معاملے میں کوئی طمع کرنے والا طمع کرنے یا کوئی آرزو کرنے والا (خلافت کی) آرزو کرنے پھر فرمایا اس سے (یعنی کسی اور کی خلافت سے) اللہ اور مومنین انکار کرتے ہیں، اللہ اور مومنین اس سے انکار کرتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ (ایسا ہی ہوا کہ) اللہ نے اور مومنین نے اس سے (یعنی سوائے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے کسی اور کی خلافت سے) انکار کر دیا، اللہ نے اور مومنین نے اس سے انکار کر دیا۔

محمد بن المکندر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے مرض وفات میں فرمایا کہ میرے لیے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بلاؤ، وہ لوگ ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو آپ کے پاس بلا لائے، آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، جب افاقہ ہوا تو فرمایا: میرے لیے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بلاؤ، انہوں نے ابن الخطاب کو آپ کے پاس بلا لیا تو فرمایا: تم یوسف علیہ السلام کی ساتھ والیاں ہو۔

اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا گیا کہ تم نے اپنے والد کو رسول اللہ ﷺ کے لیے جیسا کہ آپ نے تم کو حکم دیا نہیں بلایا، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ گمان تھا کہ لوگ جب میرے والد کی آوازیں گے تو کہیں گے کہ یہ رسول اللہ ﷺ کے کیسے برے جانشین ہیں، لوگوں کا اس بات کو عمر رضی اللہ عنہ کے لیے کہنا مجھے زیادہ پسند تھا، بہ نسبت اس کے کہ وہ بات میرے والد کے لیے کہیں۔

قاسم بن محمد نے اور عروہ نے اور عبد اللہ بن عتبہ نے اس طرح عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ ایک حدیث دوسرے کی حدیث میں داخل ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کی بیماری کی ابتدا میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ہوئی، پھر رسول اللہ ﷺ میرے پاس آئے اور میں (اپنے درد سر کی وجہ سے) ”ہائے سر“ کہہ رہی تھی، فرمایا: میری زندگی ہی میں اگر ایسا ہوتا کہ میں تمہارے لیے استغفار کرتا اور تمہارے لیے دعا کرتا، تمہیں کفن دیتا اور تمہیں دفن کرتا (تو اچھا ہوتا) میں نے (عائشہ رضی اللہ عنہا نے) کہا کہ ”ہائے افسوس“ خدا کی قسم آپ تو میرا مرنا چاہتے ہیں، اگر ایسا ہوتا تو آپ اس روز کسی اور سے نکاح کرتے۔

خلافت کا اشارہ:

نبی ﷺ نے فرمایا: میں ہوں ”ہائے سر“ (کہنے کا مستحق کیونکہ میرا درد سر تم سے بہت زیادہ ہے) میں نے قصد کیا کہ کسی کو بھیج کر تمہارے والد اور تمہارے بھائی کو بلواؤں اور اپنا عہد مضبوط کر دوں تاکہ کوئی طمع کرنے والا اس امر میں طمع نہ کرے اور نہ کہنے والے (اس کے لیے) کہیں یا تمنا کرنے والے تمنا کریں۔

پھر فرمایا: ہرگز (اس کے مضبوط کرنے کی ضرورت) نہیں، (کیونکہ سوائے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے کسی اور کی خلافت سے) اللہ بھی انکار کرے گا اور مومنین بھی رد کریں گے، یا اللہ رد کرے گا اور مومنین انکار کریں گے، بعض راویوں نے اپنی حدیث میں کہا کہ ”اللہ سوائے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے (اور سب کی خلافت سے) انکار کرے گا“۔

حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دو یمنی چادریں اوڑھے ہوں، میں لوگوں کا پاخانہ روندتا ہوں، اور میرے سینے میں دو باغ ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا کہ دو باغ (کا مطلب یہ ہے کہ) تم دو سال تک والی (ملک) رہو گے، یمنی چادر (کا مطلب یہ ہے کہ) تم اپنے بیٹے سے خوش نہ ہو گے (ایسا ہی ہوا کہ ان کے ایک فرزند حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے باغیوں میں شریک تھے اور پاخانہ (تو اس کا مطلب یہ ہے کہ) تمہیں ان سے اذیت نہیں پہنچے گی

(خواب سے زیادہ تعبیر سچی ہوئی)۔

محمد بن جبیر سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کے پاس ایک شخص آیا جو آپ سے کسی بارے میں تذکرہ کر رہا تھا اس نے کہا کہ اگر میں آپ کے پاس آؤں اور آپ کو نہ پاؤں (تو کس سے ملوں) آپ نے فرمایا: ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آنا، محمد بن عمرو نے کہا کہ آپ کی مراد بعد موت تھی۔

محمد بن عمرو الانصاری نے کہا کہ میں نے عاصم بن عمر بن قتادہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی ﷺ نے کسی شخص سے ایک مدت تک کے لیے (قرض) ایک اونٹ خریدا اس نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، یعنی بعد موت کے (آؤں) تو آپ نے فرمایا: ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آنا۔ اس نے کہا: اگر میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور بعد موت کے انہیں بھی نہ پایا، تو آپ نے فرمایا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آنا اس نے کہا اگر میں آؤں اور عمر رضی اللہ عنہ کو بھی نہ پاؤں، تو آپ نے فرمایا کہ جب عمر رضی اللہ عنہ بھی مرجائیں تو مجھ سے مر جائے تو تو بھی مرجانا۔

مناقب صدیق بزرگانِ رحمت عالم ﷺ:

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو خطبہ سنایا کہ اللہ نے ایک بندے کو دنیا و آخرت کے درمیان اختیار دیا تو اس بندے نے جو اللہ کے پاس تھا اسے اختیار کر لیا، ابوبکر رضی اللہ عنہ رونے لگے، میں نے اپنے دل میں کہا کہ کیا اس شیخ کو یہ بات رلاتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہی وہ شخص تھے جسے اختیار دیا گیا تھا اور ابوبکر رضی اللہ عنہ ہم سب سے زیادہ اسے جانتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے ابوبکر رضی اللہ عنہ تم بخیریت رہو، لوگو! اپنی جان و مال میں سب سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والے ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں اگر میں انسانوں میں کسی کو غلیل بناتا تو وہ ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی ہوتے، لیکن مجھے ان کے ساتھ اسلام کی اخوت اور اسلامی محبت ہے، مسجد کے اندر کوئی دروازہ سوائے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دروازے کے بند کرنے سے باقی نہ رہے۔

یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: لوگوں میں مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے اپنی جان و مال میں ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں یہ تمام دروازے جو مسجد کے اندر نکلتے ہیں، سوائے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دروازے کے، سب بند کر دو۔ معاویہ بن صالح نے کہا لوگوں نے (اعتراضاً) کہا کہ آپ نے ہمارے دروازے بند کر دیئے اور اپنے خلیل کا دروازہ چھوڑ دیا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے معلوم ہو گیا جو کچھ تم نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دروازے کے بارے میں کہا، میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر نور دیکھتا ہوں اور تمہارے دروازے پر ظلمت دیکھتا ہوں۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ مرض و قات میں اپنے سر میں ایک کپڑے کی پٹی باندھے ہوئے نکلے، منبر پر بیٹھے اللہ کی حمد و ثنائیاں کی اور فرمایا کہ کوئی شخص ابوبکر رضی اللہ عنہ بن ابی قحافہ سے زیادہ اپنی جان و مال میں مجھ پر احسان کرنے والا نہیں ہے، اگر میں انسانوں میں سے کسی کو غلیل بناتا تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کو غلیل بناتا، لیکن اسلامی دوستی افضل ہے وہ تمام کھڑکیاں جو اس مسجد میں ہیں، سوائے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی کھڑکی کے، بند کر دو۔

ایوب بن بشیر الانصاری نے بعض اصحاب رسول اللہ ﷺ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ (حجرے سے) برآمد ہوئے

اور منبر پر بیٹھے آپؐ نے کلمہ شہادت پڑھا، جب تشہد پورا ہو گیا تو سب سے پہلے شہدائے اُحد کے لیے استغفار کی پھر فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو دنیا اور اللہ کے پاس کی نعمتوں کے درمیان اختیار دیا گیا، اس نے جو اس کے رب کے پاس ہے اسے اختیار کر لیا۔

لوگوں میں سب سے پہلے اسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے، انہیں معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ ﷺ کی مراد (بندے سے) اپنی ذات ہے وہ رونے لگے رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا: اے ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے اوپر رحم کرو وہ تمام دروازے جو مسجد میں نکلتے ہیں سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دروازے کے سب بند کر دو، کیونکہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم میں ان کے برابر کسی شخص کو اپنے نزدیک احسان میں افضل نہیں جانتا۔

ابو الحویرث سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے دروازوں کے متعلق حکم دیا کہ سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دروازے کے سب بند کر دیئے جائیں تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے چھوڑ دیجئے کہ میں ایک کھڑکی کھول لوں تاکہ جب آپ نماز کو نکلیں تو میں آپ کو دیکھ لوں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، نہیں۔

عاصم بن عدی سے مروی ہے کہ عباس بن عبدالمطلب نے کہا: یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ آپؐ نے کچھ لوگوں کے دروازے مسجد میں کھلے رہنے دیئے اور کچھ لوگوں کے بند کرادیئے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے عباس رضی اللہ عنہ میں نے اپنے حکم سے کھلے رہنے دیئے اور نہ میں نے اپنے حکم سے بند کیے (بلکہ جو کچھ کیا وہ اللہ کے حکم سے کیا)۔

زندگی اور موت میں سے انتخاب کا اختیار:

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں سنا کرتی تھی کہ کوئی نبی نہیں مرتا تا وقتیکہ اسے دنیا و آخرت میں اختیار نہ دیا جائے، اشداد مرض میں جب آنحضرت ﷺ کی آواز بیٹھ گئی تو میں نے آپ کو کہتے سنا: ”مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقاً“ (ان نبیوں اور صدیقوں اور شہداء و صالحین کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا، اور وہ لوگ بہت اچھے رفیق ہیں) مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کو بھی اختیار دیا گیا۔

مطلب بن عبد اللہ بن حطب سے مروی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا ہر رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی نبی ایسا نہیں جس کی جان قبض نہ کی جائے اسے اس کا ثواب نہ دکھایا جائے اور وہ (جان) اسی کی طرف واپس نہ کر دی جائے، پھر اسے جان کے اس کی طرف واپس کیے جانے اور (عالم آخرت میں) بلائے جانے میں اختیار نہ دیا جائے۔

”میں نے یہ بات آپؐ سے (سن کر) یاد کر لی تھی میں آپ کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھی کہ دیکھا تو آپ کی گردن جھٹ گئی، سمجھی شاید آپؐ نے قضا کی مجھے وہ بات یاد آ گئی جو آپؐ نے کبھی تھی پھر میں نے آپ کی طرف دیکھا کہ آپ اٹھے اور آپؐ نے دیکھا اس وقت میں نے کہا کہ واللہ آپؐ ہمیں اختیار نہیں کریں گے آپؐ نے فرمایا: جنت میں رفیق اعلیٰ کے ساتھ ان انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا، اور یہ لوگ بہت اچھے رفیق ہیں۔“

نبی ﷺ کی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ جب تندرست تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ کوئی نبی نہیں اٹھایا جاتا

تا وقتیکہ اسے جنت میں ٹھکانا نہ دکھا دیا جائے اور اختیار نہ دیا جائے۔

”رسول اللہ ﷺ عارضے میں مبتلا ہوئے آپ کا سر میرے زانو پر تھا، تھوڑی دیر کے لیے آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی، افاقہ ہوا تو آپ نے اپنی نظر مکان کی چھت کی طرف اٹھائی اور فرمایا: اے اللہ رفیق اعلیٰ“۔

”میں سمجھ گئی کہ اب آپ ہمیں اختیار نہ کریں گے اور میں جان گئی کہ جو حدیث آپ ہم سے بیان کیا کرتے تھے وہ صحیح ہے یہ آخری کلمہ تھا جس کا رسول اللہ ﷺ نے تکلم فرمایا۔“

ام سلمہ رضی اللہ عنہا زوجہ نبی ﷺ سے مروی ہے کہ میں نے کہا رسول اللہ ﷺ کو جب اختیار دیا جائے گا تو آپ ہمیں اختیار نہ کریں گے۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو قبل وفات کے کہتے سنا ایسی حالت میں کہ میں آپ کو اپنے سینے سے لگائے تھی کہ ”اللہم اغفر لی وارحمنی بالرفیق“ (اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحمت فرما، اور مجھے رفیق سے ملا دے)۔

عباد بن عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ انہوں نے نبی ﷺ کو قبل وفات اس حالت میں کہ وہ آپ کی پشت سے سہارا لگائے ہوئے تھیں، خوب غور سے سنا آپ فرماتے تھے: ”اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ“

مالک بن انس سے مروی ہے کہ ”مجھے عائشہ رضی اللہ عنہا سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی نبی نہیں مرتا تا وقتیکہ اسے اختیار نہ دیا جائے جب میں نے آپ کو کہتے سنا: ”اللہم الرفیق الاعلیٰ“ تو سمجھ گئی کہ آپ اب اس دنیا میں مقام نہ فرمائیں گے۔

ابی بردہ بن ابی موسیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھیں اور شفا کی دعا کر رہی تھیں آپ کو افاقہ ہو گیا تو فرمایا: ”میں اللہ سے جبریل و میکائیل و اسرافیل علیہم السلام کے ساتھ رفیق اعلیٰ و اسعد کو مانگتا ہوں۔“

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ مسجد میں بیٹھے تھے کہ یکا یک رسول اللہ ﷺ بیماری کی حالت میں سر پر کپڑے کی پٹی باندھنے پر آمادہ ہوئے آپ نکل کر چلنے لگے یہاں تک کہ منبر پر کھڑے ہو گئے پھر جب آپ اس پر بیٹھ گئے تو بروایت ابی ضمیرہ انس بن عیاض و صفوان فرمایا: ”قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں رسول اللہ ﷺ کی جان ہے“۔ اور بروایت محمد بن اسماعیل فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے قیامت کے روز میں ضرور حوض پر کھڑا ہوں گا ایک شخص کے سامنے دنیا اور اس کی زینت پیش کی گئی مگر اس نے آخرت کو اختیار کر لیا۔“

حاضرین میں سے سوائے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے کوئی نہ سمجھا وہ روئے اور کہا: میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں ہم سب لوگ اپنی جان و مال اور باپ بیٹے آپ پر فدا کرتے ہیں پھر آپ (منبر سے) اترے اور اس پر قیامت تک نہ کھڑے ہوئے۔

از و ارج مطہرات کے مابین مساوات:

جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی ﷺ بیماری کی حالت میں ایک چادر پر اٹھائے جاتے تھے اور اس طرح

ازواج پر گشت کر کے ان کی باری پوری کرتے تھے۔

ابی قلابہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ اپنی ازواج کے درمیان (اوقات) تقسیم کرتے تھے، آپ ان سب میں مساوات ملحوظ رکھتے اور فرماتے:

”اے اللہ یہ وہ ہے جس کا میں مالک ہوں اور تو زیادہ مالک ہے اس شے کا جس کا میں مالک نہیں ہوں، یعنی حب قلبی۔“

ازواج کی اجازت سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں منتقل:

ابن شہاب سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کا درد شدید ہو گیا تو آپ نے اپنی ازواج سے عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں رہنے کی اجازت چاہی، کہا جاتا ہے کہ ان سے فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا کہ رسول اللہ ﷺ پر آمد و رفت گراں ہے سب نے اجازت دے دی، آپ یمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے نکل کر عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی طرف اس طرح روانہ ہوئے کہ آپ کے دونوں قدم عباس رضی اللہ عنہ اور ایک دوسرے شخص کے درمیان گھسیٹ رہے تھے، آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں داخل ہو گئے، غالباً ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ دوسرا شخص کون تھا، لوگوں نے لائیلی طاہرہ کی تو انہوں نے کہا کہ وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔

عائشہ رضی اللہ عنہا زوجہ نبی ﷺ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ ﷺ سخت بیمار ہو گئے اور درد شدید ہو گیا تو آپ نے اپنی ازواج سے اس امر کی اجازت چاہی کہ آپ کی تیمارداری میرے گھر میں کی جائے، سب نے آپ کو اجازت دے دی، آپ اپنے دونوں پاؤں زمین پر گرڑتے ہوئے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ اور ایک اور شخص کے درمیان نکلے۔

عبید اللہ (راوی حدیث) نے کہا: جو کچھ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اس کی میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو خبر دی تو انہوں نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو وہ دوسرا شخص کون تھا جس کا عائشہ رضی اللہ عنہا نے نام نہیں لیا۔ میں نے کہا نہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا وہ علی رضی اللہ عنہ تھے، ان کی کسی خیر پر عائشہ رضی اللہ عنہا کا دل خوش نہیں ہوتا۔

عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے میرے گھر میں داخل ہونے کے بعد اس حالت میں کہ آپ کا درد شدید ہو گیا تھا، فرمایا: مجھ پر سات مشکوں سے (پانی) ڈالو جن کی ڈوریاں نہ نکھولی جائیں، میرے ذمے ضروری ہے کہ لوگوں سے عہد لوں، ان دونوں یعنی (یمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے لانے والوں) نے آپ کو حصہ رضی اللہ عنہا زوجہ نبی ﷺ کی لگن میں بٹھا دیا، ہم لوگ ان مشکوں سے آپ پر (پانی ڈالنے لگے، یہاں تک کہ آپ اپنے ہاتھ سے ہماری طرف اشارہ کرنے لگے کہ (بس) تم لوگ کر چکے، پھر آپ لوگوں کی جانب نکلے، انہیں نماز پڑھائی اور خطبہ سنایا۔

یزید بن بانوس سے مروی ہے کہ میں نے اور میرے ایک ساتھی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے (ملنے کی) اجازت چاہی، انہوں نے ہمیں اجازت دی، جب ہم لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے (درمیان کا) پردہ کھینچ لیا اور ہمارے لیے ایک فرش بچھا دیا جس پر ہم لوگ بیٹھ گئے۔

انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ جب میرے دروازے پر گزرتے تھے تو مجھے کوئی ایسی بات پہنچاتے تھے جس سے اللہ نفع دے، آپ ایک روز گزرے، مگر کچھ نہیں فرمایا، پھر ایک روز گزرے مگر کچھ نہیں فرمایا، تب میں نے کہا: اے جاریہ (لوٹدی) میرے

لیے دروازے پر فرش بچھا دئے اس نے فرش بچھا دیا میں آپ کے راستے میں اس فرش پر بیٹھ گئی اور اپنے سر پر پٹی باندھ لی۔ رسول اللہ ﷺ میرے پاس سے گزرے اور فرمایا تمہارا کیا حال ہے؟ میں نے کہا مجھے (در دسر) کی شکایت ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں بھی ”ہائے سر“ (یعنی سر کے درد) میں مبتلا ہوں پھر آپ چلے گئے اور بہت تھوڑی دیر ٹھہرے تھے کہ آپ کو ایک چادر میں لاد کر لایا گیا اور میرے گھر میں داخل کیا گیا۔

آپ نے اپنی ازواج کو بلا بھیجا سب آپ کے پاس جمع ہوئیں فرمایا: میں علیل ہوں اور تم لوگوں کے گھروں میں گھوم نہیں سکتا لہذا تم لوگ چاہو تو مجھے اجازت دے دو کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں رہوں سب نے اجازت دے دی میں آپ کی بیمار داری کرتی تھی حالانکہ میں نے آپ کے قبل کسی مریض کی بیمار داری نہیں کی تھی۔

جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب نبی ﷺ کا مرض شدید ہو گیا تو آپ نے فرمایا: ”میں کل کہاں ہوں گا“ لوگوں نے کہا فلاں بیوی کے یہاں آپ نے فرمایا: پھر میں کل کے بعد کہاں ہوں گا لوگوں نے کہا فلاں بیوی کے یہاں ازواج سمجھ گئیں کہ آپ کی مراد عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں سب نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے اپنے دن اپنی بہن عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہمہ کر دیئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی ازواج پر دورہ کیا کرتے تھے جب آپ کی تکلیف بڑھ گئی اور آپ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے تو آپ کی ازواج سمجھ گئیں کہ آپ میرے گھر میں رہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا وہ دن جو ہمیں پہنچتا ہے ہماری بہن عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے مسواک چبا کر دی:

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ اسی روز واپس ہو کر میرے حجرے میں آ گئے تو میری آغوش میں کروٹ کے بل لیٹ گئے میرے پاس ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خاندان میں سے ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں سبز مسواک تھی رسول اللہ ﷺ نے اس مسواک کی طرف حالانکہ وہ اس کے ہاتھ میں تھی ایسی نظر سے دیکھا کہ میں سمجھ گئی کہ آپ کو اس کی خواہش ہے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو یہ مسواک دوں آپ نے فرمایا ہاں میں نے اسے لے کر چبا یا جب نرم ہو گئی تو آپ کو دی آپ نے اس سے بہت زیادہ دانت صاف کیے جتنے کہ اس کے قبل میں نے آپ کو دانت صاف کرتے دیکھا تھا پھر آپ نے اسے رکھ دیا۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کی بیماری میں آپ کے پاس آئے میں آپ کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھی عبدالرحمن کے ہاتھ میں مسواک تھی آپ نے حکم دیا کہ میں اسے دانتوں سے نرم کر دوں میں نے نرم کر کے رسول اللہ ﷺ کو دے دی۔

قاسم بن محمد سے مروی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہتے سنا کہ مجھ پر اللہ کے انعامات اور میرے ساتھ اس کے اچھے عطا یا میں سے تھا کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات میرے مکان میں میری باری (کے دن) میں اور میرے ہی آغوش میں ہوئی موت کے وقت بھی میرا اور آپ کا لعاب دہن جمع ہو گیا۔

قاسم نے کہا جو کچھ آپؐ نے فرمایا وہ سب ہم سمجھ گئے، مگر آپؐ کے اور آنحضرت ﷺ کے لعاب دہن میں کیونکر اجتماع ہوا۔ انہوں نے کہا، نبی ﷺ کے پاس میرے بھائی عبدالرحمن بن ام رومان آپؐ کی عیادت کے لیے آئے ان کے ہاتھ میں ترسواک تھی رسول اللہ ﷺ کو مسواک کا بہت شوق تھا میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپؐ اپنی نظر اس کی طرف اٹھاتے ہیں۔ میں نے کہا اے عبدالرحمن مسواک کو دانت سے کچل کے مجھے دے دو میں نے اسے چبایا اور رسول اللہ ﷺ کے منہ میں ڈال دیا آپؐ نے اس سے مسواک کی، میرے اور آپؐ کے لعاب دہن کا اجتماع ہو گیا۔

مرض وفات میں دوا کا پلایا جانا:

عمر و بن دینار سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ علیل ہوئے تو آپؐ پر بے ہوشی طاری ہوئی پھر افاقہ ہوا جس وقت آپؐ کو افاقہ ہوا تو ازواج آپؐ کو دوا پلا رہی تھیں آپؐ نے فرمایا: کیوں تم لوگوں نے مجھے دوا پلا دی؟ حالانکہ میں روزہ دار تھا؟ شاید اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے تمہیں اس کا حکم دیا، کیا انہیں یہ اندیشہ تھا کہ مجھے (مرض) ذات الجذب ہے؟ اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ وہ مجھ پر ذات الجذب کو مسلط کرے سوائے میرے چچا عباس رضی اللہ عنہ کے گھر میں کوئی بغیر دوا پلائے نہ چھوڑا جائے جیسا کہ ان لوگوں نے مجھے دوا پلائی آپؐ کی ازواج اٹھ کر ایک دوسرے کو دوا پلانے لگیں۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے کولے میں درد ہو جاتا تھا جو بہت شدید ہوتا تھا ایک روز وہی درد آپؐ کو ہو گیا جس سے رسول اللہ ﷺ پر اتنی بے ہوشی طاری ہوئی کہ ہم لوگ یہ سمجھے کہ بستر پر آپؐ کی وفات ہو گئی، ہم نے آپؐ کو دوا پلا دی جب افاقہ ہوا تو آپؐ سمجھ گئے کہ ہم نے آپؐ کو دوا پلائی ہے فرمایا: تم لوگ سمجھتی تھیں کہ اللہ نے مجھ پر ذات الجذب کو مسلط کیا ہے اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ اے مجھ پر غالب کرے واللہ گھر میں کوئی بغیر اس کے نہ رہے کہ تم اسے دوا پلاؤ سوائے میرے چچا عباس رضی اللہ عنہ کے۔

پھر گھر میں کوئی نہ بچا جسے دوا نہ پلائی گئی ہو اتفاق سے آپؐ کی ازواج میں سے کسی نے کہا کہ میں روزہ دار ہوں لوگوں نے کہا، تم سمجھتی ہو گی کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے حالانکہ رسول اللہ ﷺ نے فرما دیا ہے کہ گھر میں کوئی بغیر دوا پلائے نہ چھوڑا جائے ہم نے انہیں بھی دوا پلا دی حالانکہ وہ روزہ دار تھیں۔

اللہ کے نبی کو موزی مرض نہیں ہوتا:

ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا درد میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں شروع ہوا جب آپؐ کی تکلیف میں کمی ہو گئی تو آپؐ نے نکل کر لوگوں کو نماز پڑھائی جب شدت محسوس کی تو فرمایا: لوگوں کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھ لیں ہم نے آپؐ پر ذات الجذب کا اندیشہ کیا شدت ہو گئی تو دوا پلا دی۔

نبی ﷺ نے دوا کی تیزی محسوس کی افاقہ ہو گیا تو فرمایا: تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا انہوں نے کہا، ہم نے آپؐ کو دوا پلائی آپؐ نے فرمایا کس چیز کی؟ ہم نے کہا عود ہندی، قدرے کم کسم اور چند قطرے روغن زیتون کے، آپؐ نے فرمایا: تمہیں کس نے اس کا مشورہ دیا انہوں نے کہا کہ اسماء بنت عمیس نے۔

فرمایا: یہ وہ طب ہے جو ان کے پاس ملک حبشہ سے آئی ہے گھر میں کوئی بغیر دوا پلائے نہ رہنے پائے سوائے ان کے جو رسول اللہ کے چچا تھے یعنی عباس رضی اللہ عنہ پھر فرمایا: وہ کیا چیز تھی جس کا تمہیں مجھ پر اندیشہ تھا تو انہوں نے کہا: ذات الحجب فرمایا: اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ وہ اسے مجھ پر مسلط کرے۔

عثمان بن محمد الاخضی سے مروی ہے کہ ام بشر بن البراء نبی ﷺ کی علالت میں آپ کے پاس گئیں انہوں نے کہا: یا رسول اللہ ایسا بخار آپ کو ہے کسی کو نہ ہوا ہوگا نبی ﷺ نے فرمایا: ہمارے لیے دو چند مصیبت ہوتی ہے جیسا کہ ہمارے لیے دو چند اجر ہوتا ہے۔

(فرمایا) لوگ (میرے مرض کے متعلق) کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ ذات الحجب ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ وہ اسے اپنے رسول پر مسلط کرے کیونکہ وہ تو شیطان کی مار ہے یہ اس لقمے کی وجہ سے ہے جسے میں نے اور تمہارے بیٹے (بشر بن البراء نے یوم خیبر میں) کھایا تھا یہ وہ وقت ہے کہ اس نے میری رگ پشت کاٹ دی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کے درد ہوا تو لوگوں نے آپ کو دوا پلائی آپ نے فرمایا: تمہیں کس نے اس کا مشورہ دیا؟ کیا تمہیں یہ اندیشہ ہوا کہ مجھے ذات الحجب ہوگا اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ وہ اسے مجھ پر مسلط کرے تمہیں اسماء بنت عمیس نے اس کا مشورہ دیا جو اسے ملک حبشہ سے لائیں سوائے میرے چچا عباس کے گھر میں کوئی بغیر دوا پلائے نہ چھوڑا جائے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ پھر ایک دوسرے کو دوا پلانے لگے۔

ابوبکر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام سے مروی ہے کہ ام سلمہ اور اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہما نے ہی نے آپ کو دوا پلائی نبی ﷺ کی قسم کی وجہ سے اس روز میمونہ رضی اللہ عنہا کو بھی دوا پلائی گئی حالانکہ وہ روزہ دار تھیں یہ گویا آپ کی طرف سے ان لوگوں کو سزا تھی۔

وفات سے قبل مال کی تقسیم:

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس کچھ دینار آئے جنہیں آپ نے سوائے چھ کے سب کو تقسیم کر دیا، چھ دینار اپنی کسی زوجہ کو دے دیئے آپ کو نیند نہ آئی فرمایا: وہ چھ دینار کیا ہوئے لوگوں نے کہا آپ نے وہ فلاں بیوی کو دے دیئے فرمایا وہ میرے پاس لاؤ (جب لائے گئے) تو آپ نے ان میں سے پانچ انصار کے پانچ گھروں میں تقسیم کر دیئے اور فرمایا اس (ایک) کو خرچ کر دے اس کے بعد ارشاد ہوا: اب مجھے چین آیا اور آپ سوز ہے۔

مطلب بن عبد اللہ بن حطب سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو آپ کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھیں فرمایا: اے عائشہ رضی اللہ عنہا وہ سونا کیا ہوا انہوں نے کہا میرے پاس ہے فرمایا: اسے خرچ کر دے اور رسول اللہ ﷺ پر غشی طاری ہو گئی آپ ان کے (عائشہ رضی اللہ عنہا کے) سینے ہی پر تھے جب افاقہ ہوا تو فرمایا: اے عائشہ! کیا وہ سونا تم نے خرچ کر دیا؟ انہوں نے کہا واللہ نہیں یا رسول اللہ آپ نے اسے منگایا اپنے ہاتھ پر رکھا شمار کیا تو چھ دینار تھے فرمایا: محمد کا اپنے رب کے ساتھ کیا گمان ہوگا

اگر وہ اس حالت میں اللہ سے ملاقات کرے کہ یہ اس کے پاس ہو، آپؐ نے وہ سب خرچ کر دیئے اور اسی روز آپؐ کی وفات ہو گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد ﷺ کی جان ہے، اگر یہ اُحد میرے پاس سونا (ہو کر آجائے) تو میں یہ پسند نہ کروں گا کہ اس حالت میں اس پر تین دن بھی گزریں کہ میرے پاس اس میں کا ایک دینار بھی باقی ہو اور مجھے ایسا شخص بھی ملے جو اسے بطور صدقے کے قبول کر لے، سوائے اس کے کہ میں (اس میں سے) کچھ بقدر اس قرض کے جو مجھ پر ہے محفوظ کر لوں۔

عقبہ بن الحارث سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نماز عصر سے فارغ ہو کر لوٹے تو آپؐ اس قدر تیزی سے گئے کہ آپؐ کو کسی نے نہ پایا لوگوں کو آپؐ کی سرعت سے تعجب ہوا، جب آپؐ ان کے پاس واپس آئے تو آپؐ نے ان کے چہرے میں جو (اثر تعجب) تھا پہچان لیا، فرمایا میرے پاس گھر میں سونا تھا مجھے یہ ناگوار ہوا کہ میں اسے اپنے پاس وقت گزارنے دوں اس لیے میں نے اس کی تقسیم کا حکم دے دیا۔

حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ کو صبح ہوئی تو چہرے سے معلوم ہوا کہ شب اس حالت میں گزری ہے کہ کسی امر نے آپؐ کو فکر میں ڈال دیا ہے، لوگوں نے عرض کی: یا رسول اللہ ہم آپؐ کے چہرے کو متغیر پاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ آج رات آپؐ کو کسی امر نے متفکر کر دیا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (بات) یہ ہے کہ سونے کا دو اوقیہ رات کو میرے پاس رہ گیا تھا جسے میں نے روانہ نہیں کیا تھا۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مرض الموت میں فرمایا، سونا کیا ہوا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ وہ میرے پاس ہے فرمایا: یہاں لاؤ، وہ سات اوپر پانچ (دینار) کے درمیان تھے آپؐ نے اپنے ہاتھ میں رکھا اور فرمایا: محمدؐ کے متعلق اللہ کیا گمان کرے گا اگر وہ اللہ سے اس حالت میں ملے کہ یہ (دینار) اس کے پاس ہوں (اے عائشہ رضی اللہ عنہا) انہیں خرچ کر ڈالو۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مرض وفات میں فرمایا: اے عائشہ رضی اللہ عنہا وہ سونا لاؤ، وہ آپؐ کے پاس دینار لائیں جو نو یا سات تھے آپؐ نے انہیں ہاتھ میں لیا اور فرمایا کہ محمدؐ کا کیا گمان ہے اگر وہ اللہ سے ملے اور یہ (دینار) اس کے پاس ہوں۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ شام ہونے کے بعد رسول اللہ ﷺ کے پاس آٹھ درم آئے، آپؐ برابر اس حالت میں کھڑے یا بیٹھے رہے کہ آپؐ کو نیند نہ آتی تھی یہاں تک کہ ایک سائل کو سوال کرتے سنا تو آپؐ میرے پاس سے نکلے اور زیادہ دیر نہ گزری کہ اندر آئے، میں نے آپؐ کی سانس کی آواز سنی، صبح ہوئی تو عرض کی یا رسول اللہ میں نے آپؐ کو ابتدائی شب میں بیٹھا یا کھڑا دیکھا، آپؐ کو نیند نہ آتی تھی یہاں تک کہ ایک سائل کو سوال کرتے سنا تو آپؐ میرے پاس سے نکلے اور زیادہ دیر نہ گزری کہ اندر آئے، میں نے آپؐ کی سانس کی آواز سنی، فرمایا: ہاں، شام ہونے کے بعد آٹھ درم آئے اللہ کیا سمجھے گا، اگر میں اس سے اس حالت میں ملوں کہ چند درہم پاس ہوں۔

سہل بن سعد سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس سات دینار تھے جو آپؐ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس رکھ دیئے تھے

جب آپ بیمار ہوئے تو فرمایا: اے عائشہ! سونے (کے دینار) علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دو پھر رسول اللہ ﷺ پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور عائشہ آپ کی بیماری میں مشغول ہو گئیں، آپ نے تین مرتبہ یہی فرمایا اور ہر مرتبہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی اور غشی عائشہ رضی اللہ عنہا کو مشغول کر لیتی تھی انہوں نے وہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیئے اور علی رضی اللہ عنہ نے تصدق کر دیئے پھر رسول اللہ ﷺ کو دو شبہ کی شام ہوئی جو موت کی شب تھی عائشہ رضی اللہ عنہا نے کسی بیوی کے پاس اپنا چراغ بھیجا اور کہا کہ اس میں اپنے مشکیزے سے گھی ٹپکا دو کیونکہ رسول اللہ ﷺ کی موت کی شب ہوئی ہے۔

قبر پر مسجد بنانے والے بدترین خلائق:

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی ازواج نے بزمانہ بیماری جناب رسالت مآب ﷺ آپ ہی کے حضور میں اس کنیسے کا آپس میں ذکر کیا جو ملک حبشہ میں تھا اور جس کا نام ماریہ تھا۔ انہوں نے اس کی خوب صورتی و تصاویر کا تذکرہ کیا۔ ام سلمہ و ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ملک حبشہ میں جا چکی تھیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہ وہ قوم ہے کہ جب ان میں کوئی مرد صالح ہوتا ہے تو یہ لوگ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے ہیں وہ لوگ خدا کے نزدیک بدترین خلائق ہیں۔

یہود پر لعنت:

عائشہ و عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ پر مرض نازل ہوا تو آپ اپنے چہرے پر ایک رومال (مربع سیاہ) ڈالنے لگے جب آپ کا دم گھٹتا تھا تو اسے اپنے چہرے سے ہٹا دیتے تھے آپ اسی طرح کر رہے تھے کہ آپ نے فرمایا یہود و نصاریٰ پر خدا کی لعنت کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کو مساجد بنا لیا آپ لوگوں کو ان (یہود و نصاریٰ) کے عمل سے ڈرا رہے تھے۔

جندب سے مروی ہے کہ انہوں نے وفات سے پانچ روز قبل رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: خبردار! جو لوگ تم سے پہلے تھے وہ اپنے انبیاء و صالحین کی قبور کو مساجد بنا لیتے تھے مگر تم لوگ قبور کو مساجد نہ بنانا، کیونکہ میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔

عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے جو آخری بات معلوم ہوئی وہ یہ تھی کہ ”خدا غارت کرے یہود کو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کو مساجد بنا لیا۔“

اسماعیل بن ابی حکیم سے مروی ہے کہ انہوں نے عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے عارضہ موت میں فرمایا: خدا غارت کرے یہود و نصاریٰ کو جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کو سجدہ گاہ بنا لیا (یہود و نصاریٰ کے) دونوں دین ملک عرب میں ہرگز باقی نہ رہیں گے۔

عطاء بن یسار سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی پرستش کی جائے اس قوم پر اللہ کا بہت سخت غضب ہوا جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کو مساجد بنا لیا۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے اس مرض میں فرمایا جس سے آپ نہ اٹھے کہ یہود و نصاریٰ پر اللہ لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کو سجدہ گاہ بنا لیا اگر یہ (ارشاد) نہ ہوتا تو لوگ آپ کی قبر کی (محض) زیارت نہ کرتے

(بلکہ اس پر سجدہ کرتے) لیکن آپؐ نے (پہلے ہی) اس کے سجدہ گاہ بنائے جانے کا خوف ظاہر کر دیا۔

حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لوگوں نے مشورہ کیا کہ آپؐ کو مسجد میں دفن کریں، عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ میرے آغوش میں سر رکھے ہوئے تھے، جب آپؐ نے فرمایا: اللہ ان قوموں کو غارت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبریں مسجد بنالیں، تو ان سب کی رائے اس پر متفق ہو گئی کہ آپؐ کو عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں اسی مقام پر دفن کریں جہاں آپؐ کی وفات ہوئی۔

کعب بن مالک سے مروی ہے تمہارے نبی ﷺ سے میری ملاقات کا قریب تر زمانہ آپؐ کی وفات سے پانچ روز پہلے کا ہے، میں نے آپؐ کو فرماتے سنا کہ جو لوگ تم سے پہلے تھے۔ انہوں نے اپنے مکانوں کو قبر بنالیا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں، خبردار کیا میں نے (حق کی) تبلیغ کر دی، اے اللہ گواہ رہ، اے اللہ گواہ رہ۔

اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے پاس بزمانہ بیماری عیادت کرنے آئے، ہم نے آپؐ کو اس حالت میں پایا کہ آپؐ ایک عدنی چادر سے منہ ڈھانکے کھڑے تھے، آپؐ نے اپنا منہ کھول دیا اور فرمایا: اللہ یہود پر لعنت کرے جو جہنمی کو حرام کہتے ہیں اور اس کی قیمت کھاتے ہیں۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنا، اللہ اس قوم پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کو مساجد بنالیا۔

وصیت نبوی ﷺ اور واقعہ قرطاس:

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ پچھنبشہ کو بیمار ہوئے (یہ کہہ کر) ابن عباس رضی اللہ عنہما رونے لگے، اور کہتے لگے پچھنبشہ اور کون سا پچھنبشہ رسول اللہ ﷺ کا درو شدید ہو گیا تو فرمایا دوات کاغذ لاؤ، میں تمہارے لیے ایسا فرمان لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو سکو، جو لوگ آپؐ کے پاس تھے ان میں سے کسی نے کہا کہ نبی اللہ (ہمیں) چھوڑتے ہیں، پھر آپؐ سے کہا گیا کہ آیا جو آپؐ نے طلب فرمایا (دوات کاغذ) ہم آپؐ کے پاس لائیں، آپؐ نے فرمایا اس (گفتگو) کے بعد آپؐ نے وہ (کاغذ وغیرہ) نہیں منگایا۔

سلیمان بن ابی مسلم نے جو ابن ابی نجیح کے ماموں تھے سعید بن جبیر سے سنا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا پچھنبشہ اسی دن رسول اللہ ﷺ کا درو شدید ہو گیا، آپؐ نے فرمایا: میرے پاس دوات کاغذ لاؤ، میں تمہیں ایسا فرمان لکھ دوں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو۔ لوگ آپس میں جھگڑنے لگے حالانکہ نبی ﷺ کے پاس جھگڑنا مناسب نہیں، پھر لوگوں نے کہا آپؐ کا کیا حال ہے کیا آپؐ نے ہمیں چھوڑ دیا، چلو خود آنحضرت ﷺ سے دریافت کریں۔

لوگ آپؐ کے پاس آئے اور اسی بات کو دہرانے لگے، آپؐ نے فرمایا: مجھے چھوڑ دو کیونکہ میں جس حالت میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو، میں تمہیں تین وصیتیں کرتا ہوں، مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو، وفد (آنے والے قاصدوں) کی اس طرح مدارات کرو جس طرح میں ان کی مدارات کیا کرتا تھا، تیسری وصیت سے راوی نے سکوت کیا (اور کہا کہ) مجھے معلوم نہیں کہ (ابن عباس رضی اللہ عنہما نے) اسے بیان کیا اور میں بھول گیا، یا انہوں نے دیدہ و دانستہ اس سے سکوت کیا۔

جابر بن عبد اللہ الانصاری سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کو وہ عارضہ ہوا جس میں آپ کی وفات ہوئی تو آپ نے ایک کاغذ منگایا کہ اپنی امت کے لیے ایسا فرمان لکھ دیں جس سے نہ وہ گمراہ ہوں نہ گمراہ کیے جاسکیں گھر میں شور اور بات چیت ہونے لگی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے (آپ سے) گفتگو کی پھر نبی ﷺ نے یہ خیال ترک فرمادیا۔

علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی بیماری جب شدید ہو گئی تو فرمایا: اے علی رضی اللہ عنہ میرے پاس ایک طبق (کاغذ) لاؤ تو میں وہ بات لکھ دوں کہ میرے بعد میری امت گمراہ نہ ہو۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ (کاغذ لانے سے) پہلے آپ کی جان نہ چلی جائے میں کاغذ سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوں (مجھ سے زبانی فرمادیتجئے)۔

آپ کا سر میری باہوں اور بازوؤں کے درمیان تھا کہ آپ وصیت فرمانے لگے نماز اور زکوٰۃ اور جن (غلاموں) کے تم لوگ مالک ہو (ان کا خیال رکھنا) ”آپ اسی طرح فرما رہے تھے کہ روح پرواز کر گئی آپ نے کلمہ شہادت ”لا الہ الا اللہ وان محمداً عبدہ ورسولہ“ کا حکم دیا اور فرمایا: جس نے ان دونوں (توحید و رسالت) کی شہادت دی اس پر دوزخ حرام کر دی گئی۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ”پنجشنبہ اور کون سا پنجشنبہ؟“ (راوی نے) کہا کہ گویا میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے آنسو دیکھ رہا ہوں جو ان کے رخسار پر موتی کی لڑی کی طرح (جاری) تھے ”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میرے پاس کتف اور دو دوات لاؤ میں تمہارے لیے ایک فرمان لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو“۔ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ ہمیں چھوڑتے ہیں۔

عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی ﷺ کے پاس بیٹھے تھے ہمارے اور عورتوں کے درمیان پردہ تھا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے سات مشکوں سے غسل دو اور کاغذ و دوات لاؤ میں تمہارے لیے ایک ایسا فرمان لکھ دوں جس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہ ہو عورتوں نے کہا رسول اللہ ﷺ کے پاس آپ کی حاجت (کی چیز یعنی کاغذ وغیرہ) لے آؤ میں نے کہا تم خاموش رہو تم لوگ آپ کی اس طرح کی ساتھ والیاں ہو کہ جب آپ مریض ہوئے تو تم نے اپنی آنکھیں نیچوڑ دیں (یعنی خوب روئیں) اور جب آپ تندرست ہوئے تو تم نے آپ کی گردن پکڑ لی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: وہ عورتیں تم لوگوں سے بہتر ہیں۔

جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے اپنی وفات کے وقت کاغذ منگایا کہ اپنی امت کے لیے ایسا فرمان لکھ دیں جس سے وہ گمراہ ہوں نہ گمراہ کیے جائیں۔ لوگوں نے آپ کے پاس شور کیا یہاں تک کہ نبی ﷺ نے اسے ترک کر دیا۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات کا وقت آیا تو گھر میں لوگ تھے جن میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آؤ میں تمہارے لیے ایک فرمان لکھ دوں کہ اس کے بعد تم لوگ گمراہ نہ ہو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ پر درد غالب ہے تمہارے پاس قرآن ہے جو کافی ہے۔

گھر والوں نے اختلاف کیا اور جھگڑنے لگے بعض وہ تھے جو کہتے تھے (کاغذ آپ کے) قریب کر دو کہ رسول اللہ ﷺ تمہارے لیے لکھ دیں دوسرے لوگ وہی کہتے تھے جو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا جب شور و اختلاف بہت ہو گیا اور رسول اللہ ﷺ کو لوگوں نے پریشان کر دیا تو آپ نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔

عبید اللہ بن عبد اللہ نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے مصیبت اور وہ بھی پوری مصیبت رسول اللہ ﷺ کے فرمان

لکھنے میں جو چیز حائل ہوئی وہ ان کا اختلاف اور شور و غل تھا۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مرض موت میں فرمایا میرے پاس دوات و کاغذ لاؤ، میں تمہارے لیے ایسا فرمان لکھ دوں، جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فلاں فلاں روم کے شہروں کا کون (فاتح) ہوگا، رسول اللہ ﷺ ہرگز مرنے والے نہیں تا وقتیکہ ہم لوگ اسے فتح نہ کر لیں اور اگر آپ (فتح کے قبل) مر گئے تو ہم لوگ آپ کا انتظار کریں گے جیسا بنی اسرائیل نے موسیٰ کا انتظار کیا تھا، نہ نبی رضی اللہ عنہما زوجہ نبی ﷺ نے کہا کہ کیا تم لوگ نبی ﷺ کی (بات) نہیں سنتے جو تم سے عہد لیتے ہیں، لوگوں نے شور کیا تو آپ نے فرمایا اٹھ جاؤ، لوگ اٹھ گئے تو نبی ﷺ کی اپنے مقام پر وفات ہو گئی۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشورہ:

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے اس درد میں جس میں آپ کی وفات ہوئی آپ کے پاس سے نکلے، لوگوں نے پوچھا، اے ابوالحسن رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ نے کس طرح صبح کی انہوں نے کہا بھلا اللہ تندرستی کی حالت میں صبح کی۔

عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا کیا تم نہیں دیکھتے کہ تین (شب) کے بعد تم لاٹھی کے غلام ہو گئے۔ واللہ مجھے نظر آتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے اس درد میں وفات پا جائیں گے، میں اولاد عبدالمطلب کے چہرے (بوقت وفات) پہچانتا ہوں، تم ہمیں رسول اللہ ﷺ کے پاس لے چلو، ہم آپ سے دریافت کریں کہ آپ کے بعد یہ حکومت کس کو ملے گی؟ اگر ہم کو ملے تو ہمیں معلوم ہو جائے، اور اگر ہمارے سوا کسی اور کو ملے تو ہم آپ سے گفتگو کریں کہ آپ ہمیں وصیت کر دیں۔

علی رضی اللہ عنہ نے کہا، واللہ اگر ہم رسول اللہ ﷺ سے اس کی درخواست کریں گے تو آپ ہمیں اس سے روکیں گے کہ لوگ تمہیں یہ (خلافت) کبھی نہیں دیں گے اس لیے میں آپ سے کبھی درخواست نہ کروں گا۔

عامر الشعمی سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کے مرض وفات میں علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں آپ کی وفات کو عنقریب سمجھتا ہوں، تم ہمیں آپ کے پاس لے چلو، تو ہم آپ سے دریافت کریں کہ کون آپ کا خلیفہ ہوگا، اگر ہم میں سے آپ کسی کو خلیفہ بنا لیں تو بہتر ہے، ورنہ ہمیں وصیت کر دیں تاکہ ہم اس شخص کو یاد رکھیں جو آپ کے بعد (خلیفہ) ہو، علی رضی اللہ عنہ نے ان سے اس وقت وہی کہا جو پہلے کہا تھا جب رسول اللہ ﷺ اٹھالیے گئے تو انہیں صاحب نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ پھیلائیے میں آپ سے بیعت کر لوں تاکہ لوگ بھی آپ سے بیعت کر لیں مگر علی رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ روک لیا۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے عبدالمطلب کی اولاد کو بلا بھیجا اور انہیں پاس جمع کیا، علی رضی اللہ عنہ ان کے گھر میں ایسے مقام پر تھے کہ وہاں کوئی اور نہ تھا، عباس رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا، اے بھتیجے! میں نے ایک رائے سوچی ہے مگر میں یہ نہیں چاہتا کہ تم سے بغیر مشورہ لیے کچھ کروں، علی رضی اللہ عنہ نے کہا وہ کیا؟ انہوں نے کہا ہم لوگ نبی ﷺ کے پاس چلیں اور آپ سے دریافت کریں کہ آپ کے بعد یہ امر (خلافت) کس کی طرف ہوگا، اگر ہم میں ہو تو ہم اسے ترک نہ کریں، واللہ ہم میں سے کسی کا روئے زمین پر کوئی مال باقی نہ رہا۔ اور اگر کسی اور میں ہو تو ہم آپ کے بعد اسے کبھی طلب نہ کریں، علی رضی اللہ عنہ نے کہا:

اے میرے بیچاریہ حکومت تو آپ ہی کی ہوگی، کوئی ہے بھی جو آپ سے جھگڑا کر سکے، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا پھر سب لوگ منتشر ہو گئے اور نبی ﷺ کے پاس نہیں گئے۔

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کے پاس آپ کے مرض وفات میں عباس رضی اللہ عنہ آئے تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں عباس رضی اللہ عنہ نے کہا میں رسول اللہ ﷺ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہم میں سے کسی کو خلیفہ بنادیں، علی رضی اللہ عنہ نے کہا آپ ایسا نہ کیجئے، پوچھا کیوں؟ جواب دیا، مجھے اندیشہ ہے کہ آنحضرت ﷺ فرمادیں گے ”نہیں“ اور آپ کے نہیں کہنے کے بعد جب ہم لوگوں سے خلافت طلب کریں گے تو وہ بھی انکار کر دیں گے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے انکار کر دیا ہے۔

فاطمہ بنت حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی تو عباس رضی اللہ عنہ نے کہا: اے علی رضی اللہ عنہ تم اٹھو تاکہ تمام لوگ تم سے بیعت کریں موقع جب ایک مرتبہ گزر جاتا ہے تو دوبارہ نہیں آتا اس وقت موقع ہے، علی رضی اللہ عنہ نے کہا، کون ہے جو ہمارے سوا اس معاملے میں طمع کرے گا، عباس رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ میرا گمان ہے کہ کوئی ہو جائے گا۔

جب ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بیعت کر کے لوگ مسجد کو واپس ہوئے تو علی رضی اللہ عنہ نے تکبیر سنی، پوچھا یہ کیا ہے، عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ وہی ہے جس کی میں نے تمہیں دعوت دی تھی، اور تم نے مجھ سے انکار کیا تھا، علی رضی اللہ عنہ نے کہا کیا یہ ممکن ہے، عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اس قسم کا موقع دوبارہ کبھی نہیں آتا، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی ﷺ کی جب وفات ہوگئی اور ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس سے نکلے تو علی اور عباس اور زبیر رضی اللہ عنہم آپ کے پیچھے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے جب عباس رضی اللہ عنہ گفتگو کر رہے تھے۔

مرض وفات میں حضور ﷺ کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے گفتگو:

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مرض موت میں اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور خفیہ طور پر ان سے کچھ کہا تو وہ رونے لگیں، پھر انہیں بلایا اور پوشیدہ طور پر ان سے کچھ کہا تو وہ ہنسنے لگیں۔

عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے ان سے اس بات کو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے یہ خبر دی کہ وہ اپنے اس درد میں اٹھالے جائیں گے، تو میں رونے لگی، پھر آپ نے مجھے یہ اطلاع دی کہ گھر والوں میں سب سے پہلے میں آپ سے ملوں گی، تو میں (خوش ہو کر) ہنسی۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اس طرح چلتی ہوئی آئیں کہ ان کی رفتار رسول اللہ ﷺ کی رفتار کے مشابہ تھی، آپ نے فرمایا میری بیٹی کو ”مرحبا“، پھر آپ نے انہیں اپنی بائیں جانب یا دائیں جانب بٹھالیا اور خفیہ طور پر ان سے کچھ کہا وہ رونے لگیں، پھر ان سے خفیہ طور پر کچھ فرمایا تو ہنسنے لگیں میں نے کہا رونا اور ہنسنا میں نے اس طرح قریب تر نہیں دیکھا رسول اللہ ﷺ نے تو تمہیں اپنے کلام کے لیے مخصوص کیا پھر تم روتی ہو، وہ کیا بات تھی جو بطور راز کے رسول اللہ ﷺ نے تم سے بیان کی، انہوں نے کہا میں ایسی نہیں ہوں کہ آپ کا راز فاش کر دوں۔

جب آپ کی وفات ہوگئی تو میں نے ان سے پھر دریافت کیا، انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جبرئیل میرے پاس ہر

سال آتے تھے اور ایک مرتبہ قرآن کا دور کرتے تھے اس سال بھی وہ آئے اور دو دور کیے میں خیال کرتا ہوں کہ میری اجل آگئی، میں تمہارے لیے کیسا اچھا پیش رو ہوں، پھر آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میرے گھر والوں میں مجھ سے ملنے میں سب سے پہلی تم ہوگی میں اس کی وجہ سے روئی، پھر آپ نے فرمایا کہ تم اس سے خوش نہیں کہ تم اس امت کی عورتوں یا تمام عالموں کی عورتوں کی سردار ہو جاؤ، تو میں ہنسی۔

ام سلمہ رضی اللہ عنہا زوجہ نبی ﷺ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کا وقت وفات آیا تو آپ نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور ان کے کان میں بات کی، وہ رونے لگیں، پھر آپ نے ان کے کان میں بات کہی، جس سے وہ ہنسنے لگیں، میں نے رسول اللہ ﷺ کی وفات تک ان سے دریافت نہیں کیا، وفات کے بعد میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ان کے ہنسنے اور رونے کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے خبر دی کہ آپ کی وفات ہو جائے گی، پھر آپ نے مجھے خبر دی کہ مریم بنت عمران کے بعد میں اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی تو اس کی وجہ سے میں ہنسی۔

ابی جعفر سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ہنسنے نہیں دیکھا، سوائے اس کے کہ ان کے منہ کا کنار ا کھل جاتا تھا۔

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمان نبوی:

عروہ بن زبیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اسامہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ لشکر بلقاء کی طرف لے جائیں جہاں ان کے والد اور جعفر شہید ہوئے تھے، اسامہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی تیاری کر رہے تھے اور انہوں نے جرف میں لشکر جمع کیا تھا کہ رسول اللہ ﷺ بیمار پڑ گئے جب افاقہ ہوا اور آپ نے کچھ راحت محسوس کی تو سر میں پٹی باندھ کر باہر تشریف لائے اور تین مرتبہ فرمایا: اے لوگو! اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو روانہ کر دو یہ فرما کر نبی ﷺ اندر تشریف لے گئے، بیماری بہت بڑھ گئی اور آپ کی وفات ہو گئی۔

اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کی یہ گفتگو سنی کہ آپ نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو مہاجرین و انصار پر عامل بنا دیا، رسول اللہ ﷺ باہر تشریف لائے منبر پر بیٹھے، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا: اے لوگو! اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو روانہ کرو، میری عمر کی قسم، اگر اب تم نے ان کی امارت کے بارے میں کلام کیا ہے تو ان کے قتل تم نے ان کے والد کی امارت میں بھی کلام کیا ہے، حالانکہ وہ امارت کے اہل ہیں جس طرح ان کے والد بھی اس کے اہل تھے، لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ روانہ ہو گیا، وہ جرف پہنچے اور لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے، وہ لوگ اس حالت میں روانہ ہوئے کہ رسول اللہ ﷺ کی بیماری شدید ہو گئی تھی، اسامہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ہمراہی انتظار کر رہے تھے کہ اللہ رسول اللہ ﷺ کے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے۔

جب رسول اللہ ﷺ کی بیماری بہت بڑھ گئی تو میں اپنے لشکر سے پلٹ آیا لوگ بھی میرے ہمراہ آ گئے، رسول اللہ ﷺ پر غشی طاری تھی، آپ ﷺ بولتے نہ تھے آپ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر مجھ پر چھوڑنے لگے، میں سمجھا کہ آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے ایک سریہ بھیجا جس میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے، ان پر آپؐ نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو عامل بنایا، لوگوں نے ان کے بارے میں یعنی ان کے کمن ہونے کے بارے میں طعن کیا، رسول اللہ ﷺ کو معلوم ہوا تو آپؐ منبر پر چڑھے اللہ کی حمد و ثناء کی اور کہا لوگوں نے اسامہ رضی اللہ عنہ کی امارت میں طعن کیا ہے، انہوں نے ان سے پہلے ان کے والد کی امارت میں بھی طعن کیا تھا حالانکہ وہ دونوں اس کے اہل ہیں، اسامہ رضی اللہ عنہ میرے محبوب ترین لوگوں میں ہیں، خبردار میں تم لوگوں کو اسامہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ خیر کی وصیت کرتا ہوں۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے ایک لشکر بھیجا اور ان پر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو امیر بنایا، بعض لوگوں نے ان کی امارت میں طعن کیا، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم ان کی امارت میں کلام کرتے ہو تو تم ان کے قبل ان کے والد کی امارت میں بھی کلام کرتے تھے خدا کی قسم وہ امارت کے اہل تھے وہ میرے محبوب ترین لوگوں میں تھے اور ان کے بعد یہ بھی میرے محبوب ترین لوگوں میں ہیں۔

عبداللہ بن سالم نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ انہوں نے انہیں رسول اللہ ﷺ سے حدیث بیان کرتے سنا کہ جس وقت آپؐ نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو امیر بنایا تو آپؐ کو معلوم ہوا کہ لوگوں نے اسامہ رضی اللہ عنہ کی برائی کی اور ان کی امارت میں کلام کیا، رسول اللہ ﷺ لوگوں میں کھڑے ہوئے اور فرمایا (بروایت سالم) خبردار تم لوگ اسامہ رضی اللہ عنہ کی برائی کرتے ہو اور ان کی امارت میں طعن کرتے ہو حالانکہ اس کے قبل یہی تم ان کے باپ کے ساتھ بھی کر چکے ہو، بخدا وہ امارت کے اہل تھے، وہ سب لوگوں سے زیادہ میرے محبوب تھے اور ان کے یہ بیٹے مجھے سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہیں، لہذا ان کے بارے میں خیر کی وصیت قبول کرو، کیونکہ وہ تمہارے بہترین لوگوں میں سے ہیں، سالم نے کہا کہ میں نے عبداللہ کو کبھی یہ حدیث بیان کرتے نہیں سنا، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ آپؐ نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو متشی نہیں کیا۔

انصار کے متعلق فرمان رسالت:

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ہمیں رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ ہم سات کنوؤں کے پانی کی سات مشکیں آپؐ پر ڈالیں، ہم نے اس حکم کی تعمیل کی، جب آپؐ نے غسل کر لیا، تو آپؐ کو راحت محسوس ہوئی، آپؐ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، انہیں خطبہ سنایا، شہدائے احد کے لیے دعائے مغفرت کی اور ان کے لیے (رحمت کی) دعا کی، پھر آپؐ نے انصار کے لیے وصیت کی، فرمایا: اے گروہ مہاجرین تم نے اس حالت میں صبح کی ہے کہ تم لوگ ترقی کرو گے اور انصار نے اس حالت میں صبح کی ہے کہ وہ اپنی اس حالت سے جس پر وہ آج ہیں ترقی نہیں کریں گے، وہ ایسے ہیں کہ میں نے ان کے ہاں پناہ لی، ان کے کریم کا اکرام کرو اور ان کے برے آدمی سے درگزر کرو۔

عبداللہ بن کعب نے نبی ﷺ کے کسی صحابی سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے سر پر پٹی باندھے ہوئے باہر آئے اور فرمایا: اے گروہ مہاجرین تم نے اس حالت میں صبح کی ہے کہ تم ترقی کرو گے اور انصار نے اس حالت میں صبح کی ہے کہ وہ جس حالت پر آج ہیں اس سے زیادہ ترقی نہیں کریں گے، میرے انصار ایسے ہیں کہ انہوں نے مجھے پناہ دی، ان میں جو نیک ہوں ان کا

اکرام کرنا جو بد ہوں ان سے درگزر اور جو حسن ہوں ان کے ساتھ احسان سے پیش آنا۔

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب برآمد ہوئے تو لوگ حلقہ لگے ہوئے آپ کا حال دریافت کر رہے تھے آپ نہایت حیزی سے نکلے چادر کے دونوں کنارے شانوں پر پڑے تھے اور ایک سفید کپڑے کی پٹی سر پر بندھی تھی آپ منبر پر کھڑے ہوئے لوگ اٹھ کر آپ کی طرف آگئے یہاں تک کہ مسجد بھر گئی رسول اللہ ﷺ نے کلمہ شہادت پڑھا جب اس سے فارغ ہوئے تو فرمایا: لوگو انصار ایسے ہیں کہ انہوں نے مجھے پناہ دی اور ہر طرح سے میرا ساتھ دیا لہذا ان کے بارے میں میرے خیال رکھو ان کے محسن کو قبول کرو اور ان کے بد سے درگزر کرو۔

نعمان بن مرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے مرض موت میں فرمایا کہ ہر نبی کا ترکہ یا جائیداد ہوتی ہے۔ انصار میرا ترکہ و جائیداد ہیں لوگ کم بھی ہوتے ہیں اور زیادہ بھی لہذا تم ان کے محسن کو قبول کرو اور ان کے بد کو معاف کرو۔

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرے انصار وہ ہیں کہ مجھے اور میرے اہل بیت کو پناہ دی تم ان کے محسن کو قبول کرو اور ان کے بد سے درگزر کرو۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے (یہ مضمون عبید اللہ نے اپنی حدیث میں بیان کیا) کہ نبی ﷺ لائے گئے آپ سے کہا گیا کہ یہ انصار جو مسجد میں ہیں ان کی عورتیں اور مرد آپ پر رورہے ہیں فرمایا انہیں کون رلاتا ہے لوگوں نے کہا انہیں یہ خوف ہے کہ آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملیں گے (پھر سب راوی اس حدیث میں متفق ہو گئے) ان سب نے اپنی حدیث میں بیان کیا کہ (رسول اللہ ﷺ نکلے آپ تیزی کے ساتھ بڑھے اور منبر پر بیٹھ گئے آپ ایک رضائی اوڑھے ہوئے تھے جس کا ایک کنارہ اپنے کندھوں پر ڈالا ہوئے تھے اور سر میں ایک پٹی باندھے ہوئے تھے (عبید اللہ نے اپنی حدیث میں کہا کہ) وہ پٹی میلی تھی (اور ابو نعیم اور ابوالولید نے کہا کہ) چکنی تھی آپ نے اللہ کی حمد و ثنائیاں کی اور فرمایا: اے گروہ انصار! آدمی تو بہت ہوتے ہیں مگر انصار (مددگار) کم ہوتے ہیں کھانے میں نمک کی طرح ہوتے ہیں لہذا جو شخص ان کے معاملات کا والی ہو وہ ان کے محسن کو قبول کرے اور ان کے بد سے درگزر کرے (ابوالولید نے اپنی حدیث میں کہا کہ) آپ اپنے مرض موت میں نکلے تھے اور یہ آپ کی آخری مجلس تھی جس میں آپ بیٹھ یہاں تک کہ آپ اٹھالیے گئے۔

انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اس طرح برآمد ہوئے کہ سر پر پٹی بندھی تھی انصار نے اپنے خدام اور اوٹا سے آپ کا استقبال کیا آپ نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تم سب لوگوں سے محبت کرتا ہوں انصار نے جو کچھ ان پر واجب تھا ادا کر دیا جو تمہارے ذمے ہے وہ باقی نہ رہا لہذا ان کے محسن کے ساتھ احسان کرو اور ان کے بد سے درگزر کرو۔

احسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: اے گروہ انصار! میرے بعد تم تکلیف سے دوچار ہو گے انہوں نے یابنی اللہ پھر آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں آپ نے فرمایا میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم صبر کرنا یہاں تک کہ اللہ اور اس کے رسول مل جانا۔

انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مصعب بن زبیر نے انصار کے ایک کارکن کو پکڑ لیا اور اس کے ساتھ (بدی) کا قصد کیا، انس رضی اللہ عنہ نے کہا میں تمہیں خدا کی قسم دلاتا ہوں اور رسول اللہ ﷺ کی وصیت انصار کے بارے میں یاد دلاتا ہوں، انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ نے کس بات کی وصیت کی تو میں نے کہا آپ نے یہ وصیت کی کہ ان کے محسن کا احسان قبول کیا جائے اور ان کے بد سے درگزر کیا جائے، وہ اپنے فرش سے لپٹ گئے، یہاں تک کہ اس پر گر پڑے اور لوٹ گئے اور فرش سے اپنا رخسارہ لگا لیا اور کہا رسول اللہ ﷺ کا حکم سراور آنکھوں پر ہے اسے (تم دونوں) روانہ کر دیا کہا کہ اسے (تم دونوں) چھوڑ دو۔

مرض وفات میں وصیت نبوی ﷺ:

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کا وقت وفات آ گیا تو آپ کی اکثر وصیت یہ تھی ”نماز“ اور ”تمہارے لونڈی غلام“ رسول اللہ ﷺ یہ الفاظ اپنے سینے میں گنگنا رہے تھے اور آپ کی زبان اسے ادا نہ کر سکتی تھی۔

کسی شخص سے مروی ہے جنہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ رسول اللہ ﷺ کی اکثر وصیت جب کہ آپ کی سانس اکھڑی ہوئی تھی نماز اور لونڈی غلام کے متعلق تھی۔

ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ موت کی حالت میں فرمانے لگے: ”نماز، نماز اور تمہارے لونڈی غلام“ (یزید راوی نے کہا کہ) آپ یہ فرما رہے تھے۔ مگر زبان اسے ادا نہ کرتی تھی (عفان راوی نے کہا کہ) آپ اس کا تکلم فرماتے تھے مگر زبان ادا نہ کرتی تھی۔

کعب بن مالک سے مروی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے رسول اللہ ﷺ پر غشی طاری ہوئی، افاقہ ہوا تو فرمایا: ”اپنے لونڈی غلام کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ان کو کپڑا پہناؤ، ان کے شکم کو سیر کرو، اور ان سے نرم بات کرو۔“

عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے آخر زمانے میں وصیت فرمائی کہ دونوں دین (دین یہود و دین نصاریٰ) ملک عرب میں نہ رہنے دیئے جائیں۔

عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سب سے آخر میں رسول اللہ ﷺ نے جو بات فرمائی یہ تھی کہ اللہ یہود و نصاریٰ کو غارت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کو سجدہ گاہ بنا لیا، دونوں دین (یہود و نصاریٰ کے) ملک عرب میں نہ باقی رکھے جائیں۔

عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ سب سے آخر میں رسول اللہ ﷺ نے جو بات پوری کی وہ یہ تھی کہ آپ نے ان رہاویں کے لیے وصیت فرمائی جو الرہاء کے باشندوں میں سے تھے، انہیں آپ نے کچھ مال بھی دیا اور فرمایا: اگر میں باقی رہ گیا تو جزیرۃ العرب میں دونوں دینوں کو نہ چھوڑوں گا۔

علی بن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے داریوں اور رہاویوں اور دوسریوں کے لیے مال کی وصیت فرمائی۔

جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ﷺ سے آپ کی وفات سے تین شب پہلے سنا کہ آپ فرماتے تھے: خبردار تم میں سے کوئی شخص بغیر اس کے نہ مرے کہ اللہ کے ساتھ اس کا گمان اچھا ہو۔

کسی کی نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کی بیماری کے زمانے میں فضل بن عباس رضی اللہ عنہما آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا: اے فضل! یہ پٹی میرے سر پر باندھ دو، انہوں نے باندھ دی۔ پھر نبی ﷺ نے فرمایا: ہمیں اپنے ہاتھ کا سہارا دو، انہوں نے نبی ﷺ کا ہاتھ پکڑ لیا، آپ کھڑے ہوئے اور ان کے سہارے سے مسجد میں داخل ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا: تم میں سے بعض کے حقوق مجھ سے وابستہ تھے، میں بھی ایک بشر ہوں، اس لیے جس شخص کی آبرو کو میں نے کچھ نقصان پہنچایا ہو۔ تو یہ میری آبرو موجود ہے، اسے بدلہ لے لینا چاہیے جس شخص کے جسم کو میں نے کچھ تکلیف پہنچائی ہو تو یہ میرا جسم موجود ہے، اسے بدلہ لے لینا چاہیے جس شخص کے مال کو میں نے کچھ نقصان پہنچایا ہو تو یہ میرا مال موجود ہے، اسے بدلہ لے لینا چاہیے، جان لو کہ تم میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا وہ شخص ہوگا کہ ان حقوق میں سے اس کا کوئی حق ہو، اور وہ اسے لے لے یا مجھے بری کر دے تاکہ میں اپنے رب سے اس حالت میں ملوں کہ میں اپنے کو بری کر چکا ہوں، کوئی شخص ہرگز یہ نہ کہے کہ مجھے انتقام لینے میں رسول اللہ ﷺ کی عداوت و بغض کا اندیشہ تھا۔ کیونکہ یہ دونوں باتیں میری طبیعت میں نہیں ہیں۔ جس شخص کا نفس کسی بری بات میں اس پر غالب آ گیا ہو تو اسے بھی مجھ سے مدد لینا چاہیے کہ میں اس کے لیے دعا کروں گا۔

ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ آپ کے پاس ایک سائل آیا تھا، آپ نے مجھے حکم دیا تو میں نے اسے تین درہم دے دیئے، فرمایا سچ ہے، اے فضل وہ درہم ان کو دے دو۔

ایک اور آدمی کھڑا ہوا، اور اس نے کہا یا رسول اللہ! میں بخیل ہوں، بزدل ہوں، اور بہت سونے والا بھی ہوں، لہذا آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ میرے بخل اور بزدلی اور خواب کو مجھ سے دور کر دے، رسول اللہ ﷺ نے اس کے لیے دعا فرمائی۔

ایک عورت اٹھی اور اس نے کہا کہ میں ایسی ہوں، اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھ سے اسے دور کر دے، آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں چلو، جب رسول اللہ ﷺ عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر واپس آئے تو آپ نے اپنا عصا اس کے سر پر رکھا اور اس کے لیے دعا فرمائی، عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ پھر وہ دیر تک بکثرت سجدے کرتے رہی، آپ نے فرمایا، سجدے دراز کرو، کیونکہ بندہ اللہ سے قریب تر جب ہوتا ہے کہ وہ سجدے کی حالت میں ہو، عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ واللہ وہ مجھ سے جدا نہ ہوئی تھی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی دعا کا اثر اس میں دیکھ لیا۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے مرض موت میں فرمایا: اے لوگو! واللہ کسی شے کو مجھ پر معلق نہ کرو، میں نے صرف وہی حلال کیا اور وہی حرام کیا جو اللہ نے حرام کیا۔

عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے مرض موت میں فرمایا: اے لوگو! واللہ کسی شے کو مجھ پر معلق نہ کرو کہ میں نے اسے حلال یا حرام کیا، میں تو صرف وہی شے حلال کرتا ہوں جسے اللہ نے حلال کیا، اور اسی شے کو حرام کرتا ہوں جسے اللہ نے حرام کیا، اے فاطمہ رضی اللہ عنہا اور اے صفیہ رضی اللہ عنہا (پھوپھی رسول اللہ ﷺ) جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کے لیے عمل کرو، کیونکہ میں تم دونوں کو اللہ سے کسی امر میں بے نیاز نہیں کر سکتا۔

سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے اولاد عبد مناف! میں تمہیں اللہ سے کسی امر میں بے

انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مصعب بن زبیر نے انصار کے ایک کارکن کو پکڑ لیا اور اس کے ساتھ (بدی) کا قصد کیا، انس رضی اللہ عنہ نے کہا میں تمہیں خدا کی قسم دلاتا ہوں اور رسول اللہ ﷺ کی وصیت انصار کے بارے میں یاد دلاتا ہوں، انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ نے کس بات کی وصیت کی تو میں نے کہا آپؐ نے یہ وصیت کی کہ ان کے محسن کا احسان قبول کیا جائے اور ان کے بد سے درگزر رکھا جائے، وہ اپنے فرش سے لپٹ گئے یہاں تک کہ اس پر گر پڑے اور لوٹ گئے اور فرش سے اپنا رخسارہ لگا لیا اور کہا رسول اللہ ﷺ کا حکم سر اور آنکھوں پر ہے، اسے (تم دونوں) روانہ کر دیا کہا کہ اسے (تم دونوں) چھوڑ دو۔

مرض وفات میں وصیت نبوی ﷺ:

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کا وقت وفات آ گیا تو آپؐ کی اکثر وصیت یہ تھی ”نماز“ اور ”تمہارے لوٹڈی غلام“ رسول اللہ ﷺ یہ الفاظ اپنے سینے میں گنگنا رہے تھے اور آپؐ کی زبان اسے ادا نہ کر سکتی تھی۔ کسی شخص سے مروی ہے جنہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ رسول اللہ ﷺ کی اکثر وصیت جب کہ آپؐ کی سانس اکھڑی ہوئی تھی نماز اور لوٹڈی غلام کے متعلق تھی۔

ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ موت کی حالت میں فرمانے لگے: ”نماز، نماز اور تمہارے لوٹڈی غلام“ (بزیار روای نے کہا کہ) آپؐ یہ فرما رہے تھے۔ مگر زبان اسے ادا نہ کرتی تھی (عفان روای نے کہا کہ) آپؐ اس کا تکلم فرماتے تھے مگر زبان ادا نہ کرتی تھی۔

کعب بن مالک سے مروی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے رسول اللہ ﷺ پر غشی طاری ہوئی، افاقہ ہوا تو فرمایا: ”اپنے لوٹڈی غلام کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ان کو کپڑا پہناؤ، ان کے شکم کو سیر کرو، اور ان سے نرم بات کرو“۔ عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے آخر زمانے میں وصیت فرمائی کہ دونوں دین (دین یہود و دین نصاریٰ) ملک عرب میں نہ رہنے دیئے جائیں۔

عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سب سے آخر میں رسول اللہ ﷺ نے جو بات فرمائی یہ تھی کہ اللہ یہود و نصاریٰ کو غارت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کو سجدہ گاہ بنا لیا دونوں دین (یہود و نصاریٰ کے) ملک عرب میں نہ باقی رکھے جائیں۔ عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ سب سے آخر میں رسول اللہ ﷺ نے جو بات پوری کی وہ یہ تھی کہ آپؐ نے ان رہاویں کے لیے وصیت فرمائی جو الرہاء کے باشندوں میں سے تھے انہیں آپؐ نے کچھ مال بھی دیا اور فرمایا: اگر میں باقی رہ گیا تو جزیرۃ العرب میں دونوں دینوں کو نہ چھوڑوں گا۔

علی بن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے داریوں اور رہاویوں اور دوسروں کے لیے مال کی وصیت فرمائی۔

جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ﷺ سے آپؐ کی وفات سے تین شب پہلے سنا کہ آپؐ فرماتے تھے خبردار تم میں سے کوئی شخص بغیر اس کے نہ مرے کہ اللہ کے ساتھ اس کا گمان اچھا ہو۔

کسی کی نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کی بیماری کے زمانے میں فضل بن عباس رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا: اے فضل! یہ پٹی میرے سر پر باندھ دو انہوں نے باندھ دی۔ پھر نبی ﷺ نے فرمایا: ہمیں اپنے ہاتھ کا سہارا دو انہوں نے نبی ﷺ کا ہاتھ پکڑ لیا، آپ کھڑے ہوئے اور ان کے سہارے سے مسجد میں داخل ہوئے اللہ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا: تم میں سے بعض کے حقوق مجھ سے وابستہ تھے، میں بھی ایک بشر ہوں، اس لیے جس شخص کی آبرو کو میں نے کچھ نقصان پہنچایا ہو۔ تو یہ میری آبرو موجود ہے، اسے بدلہ لے لینا چاہیے جس شخص کے جسم کو میں نے کچھ تکلیف پہنچائی ہو تو یہ میرا جسم موجود ہے، اسے بدلہ لے لینا چاہیے جس شخص کے مال کو میں نے کچھ نقصان پہنچایا ہو تو یہ میرا مال موجود ہے، اسے بدلہ لے لینا چاہیے، جان لو کہ تم میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا وہ شخص ہوگا کہ ان حقوق میں سے اس کا کوئی حق ہو، اور وہ اسے لے لے یا مجھے بری کر دے، تاکہ میں اپنے رب سے اس حالت میں ملوں کہ میں اپنے کو بری کر چکا ہوں، کوئی شخص ہرگز یہ نہ کہے کہ مجھے انتقام لینے میں رسول اللہ ﷺ کی عداوت و بغض کا اندیشہ تھا۔ کیونکہ یہ دونوں باتیں میری طبیعت میں نہیں ہیں۔ جس شخص کا نفس کسی بری بات میں اس پر غالب آ گیا ہو تو اسے بھی مجھ سے مدد لینا چاہیے کہ میں اس کے لیے دعا کروں گا۔

ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ آپ کے پاس ایک سائل آیا تھا، آپ نے مجھے حکم دیا تو میں نے اسے تین درہم دے دیے، فرمایا سچ ہے، اے فضل وہ درہم ان کو دے دو۔

ایک اور آدمی کھڑا ہوا، اور اس نے کہا، یا رسول اللہ میں بخیل ہوں، بزدل ہوں، اور بہت سونے والا بھی ہوں، لہذا آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ میرے بخل اور بزدلی اور خواب کو مجھ سے دور کر دے رسول اللہ ﷺ نے اس کے لیے دعا فرمائی۔

ایک عورت انھی اور اس نے کہا کہ میں ایسی ہوں، اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھ سے اسے دور کر دے، آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں چلو، جب رسول اللہ ﷺ عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر واپس آئے تو آپ نے اپنا عصا اس کے سر پر رکھا اور اس کے لیے دعا فرمائی، عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ پھر وہ دیر تک بکثرت سجدے کرتے رہی، آپ نے فرمایا، سجدے دراز کرو، کیونکہ بندہ اللہ سے قریب تر جب ہوتا ہے کہ وہ سجدے کی حالت میں ہو، عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ واللہ وہ مجھ سے جدا نہ ہوئی تھی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی دعا کا اثر اس میں دیکھ لیا۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے مرض موت میں فرمایا: اے لوگو! اللہ کسی شے کو مجھ پر معلق نہ کرو، میں نے صرف وہی حلال کیا اور وہی حرام کیا جو اللہ نے حرام کیا۔

عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے مرض موت میں فرمایا: اے لوگو! واللہ کسی شے کو مجھ پر معلق نہ کرو کہ میں نے اسے حلال یا حرام کیا، میں تو صرف وہی شے حلال کرتا ہوں جسے اللہ نے حلال کیا، اور اسی شے کو حرام کرتا ہوں جسے اللہ نے حرام کیا، اے فاطمہ رضی اللہ عنہا اور اے صفیہ رضی اللہ عنہا (پھر بھی رسول اللہ ﷺ) جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کے لیے عمل کرو، کیونکہ میں تم دونوں کو اللہ سے کسی امر میں بے نیاز نہیں کر سکتا۔

سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے اولاد عبد مناف! میں تمہیں اللہ سے کسی امر میں بے

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مصعب بن زبیر نے انصار کے ایک کارکن کو پکڑ لیا اور اس کے ساتھ (بدی) کا قصد کیا، انس رضی اللہ عنہ نے کہا میں تمہیں خدا کی قسم دلاتا ہوں اور رسول اللہ ﷺ کی وصیت انصار کے بارے میں یاد دلاتا ہوں، انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ نے کس بات کی وصیت کی تو میں نے کہا آپ نے یہ وصیت کی کہ ان کے محسن کا احسان قبول کیا جائے اور ان کے بد سے درگزر کیا جائے، وہ اپنے فرش سے لپٹ گئے، یہاں تک کہ اس پر گر پڑے اور لوٹ گئے اور فرش سے اپنا رخسارہ لگا لیا اور کہا رسول اللہ ﷺ کا حکم سراور آنکھوں پر ہے، اسے (تم دونوں) روانہ کر دیا کہا کہ اسے (تم دونوں) چھوڑ دو۔

مرض وفات میں وصیت نبوی ﷺ:

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کا وقت وفات آ گیا تو آپ کی اکثر وصیت یہ تھی ”نماز“ اور ”تمہارے لوٹڈی غلام“ رسول اللہ ﷺ یہ الفاظ اپنے سینے میں گنگنا رہے تھے اور آپ کی زبان اسے ادا نہ کر سکتی تھی۔

کسی شخص سے مروی ہے جنہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ رسول اللہ ﷺ کی اکثر وصیت جب کہ آپ کی سانس اکھڑی ہوئی تھی نماز اور لوٹڈی غلام کے متعلق تھی۔

ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ موت کی حالت میں فرماتے گئے: ”نماز، نماز اور تمہارے لوٹڈی غلام“ (یزید راوی نے کہا کہ) آپ یہ فرما رہے تھے۔ مگر زبان اسے ادا نہ کرتی تھی (عفان راوی نے کہا کہ) آپ اس کا تکلم فرماتے تھے مگر زبان ادا نہ کرتی تھی۔

کعب بن مالک سے مروی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے رسول اللہ ﷺ پر غشی طاری ہوئی، افاقہ ہوا تو فرمایا: ”اپنے لوٹڈی غلام کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ان کو پکڑا پہناؤ، ان کے شکم کو سیر کر دو اور ان سے نرم بات کرو۔“

عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے آخر زمانے میں وصیت فرمائی کہ دونوں دین (دین) یہود و دین نصاریٰ) ملک عرب میں نہ رہنے دیئے جائیں۔

عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سب سے آخر میں رسول اللہ ﷺ نے جو بات فرمائی یہ تھی کہ اللہ یہود و نصاریٰ کو غارت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کو سجدہ گاہ بنا لیا دونوں دین (یہود و نصاریٰ کے) ملک عرب میں نہ باقی رکھے جائیں۔

عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ سب سے آخر میں رسول اللہ ﷺ نے جو بات پوری کی وہ یہ تھی کہ آپ نے ان راہوین کے لیے وصیت فرمائی جو الرہاء کے باشندوں میں سے تھے، انہیں آپ نے کچھ مال بھی دیا اور فرمایا: اگر میں باقی رہ گیا تو جزیرۃ العرب میں دونوں دینوں کو نہ چھوڑوں گا۔

علی بن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے داریوں اور راہویوں اور دوسویوں کے لیے مال کی وصیت فرمائی۔

جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ﷺ سے آپ کی وفات سے تین شب پہلے سنا کہ آپ فرماتے تھے: خبردار تم میں سے کوئی شخص بغیر اس کے نہ مرے کہ اللہ کے ساتھ اس کا گمان اچھا ہو۔

کسی کی نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کی بیماری کے زمانے میں فضل بن عباس رضی اللہ عنہما آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا: اے فضل! یہ پٹی میرے سر پر باندھ دو انہوں نے باندھ دی۔ پھر نبی ﷺ نے فرمایا: ہمیں اپنے ہاتھ کا سہارا دو انہوں نے نبی ﷺ کا ہاتھ پکڑ لیا، آپ کھڑے ہوئے اور ان کے سہارے سے مسجد میں داخل ہوئے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا: تم میں سے بعض کے حقوق مجھ سے وابستہ تھے، میں بھی ایک بشر ہوں، اس لیے جس شخص کی آبرو کو میں نے کچھ نقصان پہنچایا ہو۔ تو یہ میری آبرو موجود ہے، اسے بدلہ لے لینا چاہیے جس شخص کے جسم کو میں نے کچھ تکلیف پہنچائی ہو تو یہ میرا جسم موجود ہے، اسے بدلہ لے لینا چاہیے جس شخص کے مال کو میں نے کچھ نقصان پہنچایا ہو تو یہ میرا مال موجود ہے، اسے بدلہ لے لینا چاہیے، جان لو کہ تم میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا وہ شخص ہوگا کہ ان حقوق میں سے اس کا کوئی حق ہو، اور وہ اسے بدلہ لے لے یا مجھے بری کر دے تاکہ میں اپنے رب سے اس حالت میں ملوں کہ میں اپنے کو بری کر چکا ہوں، کوئی شخص ہرگز یہ نہ کہے کہ مجھے انتقام لینے میں رسول اللہ ﷺ کی عداوت و بغض کا اندیشہ تھا۔ کیونکہ یہ دونوں باتیں میری طبیعت میں نہیں ہیں۔ جس شخص کا نفس کسی بری بات میں اس پر غالب آ گیا ہو تو اسے بھی مجھ سے مدد لینا چاہیے کہ میں اس کے لیے دعا کروں گا۔

ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ آپ کے پاس ایک سائل آیا تھا، آپ نے مجھے حکم دیا تو میں نے اسے تین درہم دے دیے، فرمایا سچ ہے اے فضل وہ درہم ان کو دے دو۔

ایک اور آدمی کھڑا ہوا، اور اس نے کہا: یا رسول اللہ میں بخیل ہوں، بزدل ہوں، اور بہت سونے والا بھی ہوں، لہذا آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ میرے بخل اور بزدلی اور خواب کو مجھ سے دور کر دے، رسول اللہ ﷺ نے اس کے لیے دعا فرمائی۔

ایک عورت انھی اور اس نے کہا کہ میں ایسی ہوں، اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھ سے اسے دور کر دے، آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں چلو جب رسول اللہ ﷺ عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر واپس آئے تو آپ نے اپنا عصا اس کے سر پر رکھا اور اس کے لیے دعا فرمائی، عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ پھر وہ دیر تک بکثرت سجدے کرتے رہی، آپ نے فرمایا: سجدے دراز کرو، کیونکہ بندہ اللہ سے قریب تر جب ہوتا ہے کہ وہ سجدے کی حالت میں ہو، عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ واللہ وہ مجھ سے جدا نہ ہوئی تھی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی دعا کا اثر اس میں دیکھ لیا۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے مرض موت میں فرمایا: اے لوگو! کوئی بات بھی مجھ پر معلق نہ کرو، میں نے صرف وہی حلال کیا اور وہی حرام کیا جو اللہ نے حرام کیا۔

عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے مرض موت میں فرمایا: اے لوگو! واللہ کسی شے کو مجھ پر معلق نہ کرو کہ میں نے اسے حلال یا حرام کیا، میں تو صرف وہی شے حلال کرتا ہوں جسے اللہ نے حلال کیا، اور اسی شے کو حرام کرتا ہوں جسے اللہ نے حرام کیا، اے فاطمہ رضی اللہ عنہا اور اے صفیہ رضی اللہ عنہا (پھر بھی رسول اللہ ﷺ) جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کے لیے عمل کرو، کیونکہ میں تم دونوں کو اللہ سے کسی امر میں بے نیاز نہیں کر سکتا۔

سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے اولاد عبد مناف! میں تمہیں اللہ سے کسی امر میں بے

نیا نہیں کر سکتا، اے عباس بن عبدالمطلب میں تمہیں اللہ سے کسی امر میں بے نیاز نہیں کر سکتا، اے فاطمہ جی! عطا بنت محمد ﷺ میں تمہیں اللہ سے کسی امر میں بے نیاز نہیں کر سکتا، دنیا میں تم لوگ مجھ سے جو چاہو مانگ لو، مگر آخرت میں صرف تمہارے عمل ہی کام آئیں گے۔

آنحضرت ﷺ کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دعائیں:

ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہمارے نبی ﷺ اور ہمارے حبیب نے ہمیں اپنی موت سے ایک ماہ قبل اپنی خبر موت کی سنادی، میرے ماں باپ اور میری جان ان پر فدا ہوں، جب جدائی کا زمانہ قریب آ گیا تو آپ نے ہمیں ہماری ماں عاتشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں جمع کیا، ہمارے لیے آپ نے سختی برداشت کی، فرمایا: تم لوگوں کو ”مرحبا“ اللہ تمہیں سلامتی عطا کرے، اللہ تم پر رحم کرے، اللہ تمہاری حفاظت کرے، اللہ تمہیں غنی کرے، اللہ تمہیں رزق دے، اللہ تمہیں بلند کرے، اللہ تمہیں نفع دے، اللہ تمہیں بچائے، میں تمہیں خوفِ خدا کی وصیت کرتا ہوں، اللہ سے تمہارے لیے وصیت کرتا ہوں، اسی پر تم کو چھوڑتا ہوں، اور تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اس کی طرف سے تمہارے لیے کھلا ہوڈ رانے والا ہوں، اللہ کے حکم کے خلاف اس کے بندوں اور اس کے شہروں میں زیادتی اور فساد نہ کرو، نیک انجام تو متقیوں ہی کے لیے ہے، اللہ نے فرمایا کیا متکبرین کا ٹھکانا جہنم میں نہیں ہے۔

ہم لوگوں نے کہا: یا رسول اللہ! آپ کی اجل کب تک ہے؟ آپ نے فرمایا: جدائی اللہ کی طرف، جنت المادای کی طرف اور سدرۃ المنتہی کی طرف اور رفیق اعلیٰ کی طرف اور کاس ادنیٰ کی طرف اور حظ اور مبارک عیش کی طرف واپسی کا وقت قریب آ گیا۔ عرض کی: یا رسول اللہ! ہم آپ کو کس چیز میں کفن دیں؟ آپ نے فرمایا: اگر تم چاہو تو میرے انہیں کپڑوں میں یا یمنی چادروں میں۔

عرض کی: یا رسول اللہ! آپ پر نماز کون پڑھے گا؟ ہم بھی رونے لگے اور آپ بھی روئے پھر فرمایا: ٹھہر جاؤ، اللہ تم پر رحم کرے اور تمہارے نبی کی طرف سے تمہیں جزائے خیر دے جب تم مجھے غسل و کفن دے چکنا تو مجھے میرے اسی تخت پر میرے اسی گھر میں میری قبر کے کنارے رکھ دینا، تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس سے باہر ہو جانا، کیونکہ سب سے پہلے مجھ پر نماز پڑھیں گے وہ میرے حبیب و خلیل جبریل علیہ السلام ہوں گے، پھر میکائیل علیہ السلام، پھر اسرافیل علیہ السلام، پھر ملک الموت کو ان کے ہمراہ ان کے تمام لشکر ملائکہ ہوں گے پھر تم ایک ایک گروہ ہو کر اندر آنا، مجھ پر صلوٰۃ و سلام پڑھنا، مجھے اوصاف بیان کرنے اور باداؤ بلند رونے سے اذیت نہ دینا، پہلے مجھ پر میرے عزیز مرد نماز پڑھیں، پھر ان کی عورتیں پھر بعد کو تم لوگ، میرے جو اصحاب موجود نہیں ہیں انہیں سلام کہہ دینا، ان لوگوں کو جو میری اس قوم میں سے میرے دین میں میری پیروی کریں انہیں بھی سلام پہنچا دینا۔ عرض کی: یا رسول اللہ! آپ کو قبر میں کون داخل کرے گا؟ فرمایا: میرے اعزہ بہت سے ملائکہ کے ہمراہ جو اس طرح تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے۔ اختتامی کلمات اور کیفیات:

ابی الحویرث سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو جب کسی مرض کی شکایت ہوتی تھی تو آپ اللہ سے عافیت کی دعا کرتے تھے، جب مرض موت ہوا تو آپ نے شفا کی دعا نہیں کی، اور فرمانے لگے کہ اے نفس تجھے کیا ہوا کہ تو ہر جائے پناہ کی پناہ لے لیتا ہے۔

جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب نبی ﷺ پر موت نازل ہوئی تو آپؐ نے پانی کا ایک پیالہ منگایا، اسے اپنے چہرے پر پھیرنے لگے اور کہنے لگے اے اللہ موت کی سختی پر میری مدد کر اور تین مرتبہ یہ فرمایا: اے جبرئیل! میرے قریب ہو جاؤ اے جبرئیل! میرے قریب ہو جاؤ۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو اس حالت میں دیکھا کہ آپؐ انتقال فرما رہے تھے، آپؐ کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں پانی تھا، آپؐ اس پیالے میں اپنا ہاتھ ڈالتے تھے، پھر اپنے منہ پر پانی پھیرتے تھے اور فرماتے تھے اے اللہ سکرات موت پر میری مدد کر۔

ابن عباس و عائشہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ پر موت نازل ہوئی تو آپؐ ایک چادر اپنے چہرے پر ڈال لیتے تھے، جب اس سے دم گھٹتا تھا، تو اسے چہرے سے ہٹا دیتے تھے اور فرماتے تھے، یہود و نصاریٰ پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کو مساجد بنا لیا۔

وفات نبوی ﷺ کا المناک سانحہ:

جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات کو تین راتیں باقی رہ گئیں تو آپؐ پر جبرئیل نازل ہوئے اور کہا اے احمد! مجھے اللہ نے آپؐ کے پاس آپؐ کے اکرام اور آپؐ کی فضیلت اور آپؐ کی خصوصیت کے لیے بھیجا ہے، آپؐ سے وہ بات دریافت کرتا ہے جسے وہ آپؐ سے زائد جانتا ہے، آپؐ اپنے کو کیسا پاتے ہیں؟ آپؐ نے فرمایا: اے جبرئیل علیہ السلام میں اپنے کو مغموں اور کرب و بے چینی میں پاتا ہوں۔

جب تیسرا دن ہوا تو پھر جبرئیل نازل ہوئے، ان کے ہمراہ ملک الموت اور ایک اور فرشتہ بھی اترا جس کا نام اسماعیل ہے، جو ہوائیں رہتا ہے، نہ کبھی آسمان کی طرف چڑھتا ہے اور نہ کبھی زمین کی طرف اترتا ہے، وہ ایسے ستر ہزار فرشتوں پر مقرر رہے جن میں کوئی ایسا فرشتہ نہیں ہے جو ستر ہزار فرشتوں پر مقرر نہ ہو۔

جبرئیل ان سب کے آگے بڑھے اور کہا: اے احمد! اللہ نے مجھے آپؐ کے پاس آپؐ کے اکرام اور آپؐ کی فضیلت اور آپؐ کی خصوصیت کے لیے بھیجا ہے، آپؐ سے وہ بات دریافت کرتا ہے جسے وہ آپؐ سے زائد جانتا ہے، آپؐ سے کہتا ہے کہ آپؐ اپنے کو کیسا پاتے ہیں؟ آپؐ نے فرمایا: اے جبرئیل! میں اپنے کو مغموں اور کرب و بے چینی میں پاتا ہوں۔

ملک الموت کی آمد:

ملک الموت نے اجازت چاہی تو جبرئیل نے کہا: یا احمد! یہ ملک الموت ہیں، جو آپؐ سے اجازت چاہتے ہیں، انہوں نے نہ آپؐ سے پہلے کسی آدمی سے اجازت چاہی اور نہ آپؐ کے بعد کسی آدمی سے اجازت چاہیں گے، آپؐ نے فرمایا، انہیں اجازت دے دو۔

ملک الموت داخل ہوئے، رسول اللہ ﷺ کے آگے رک گئے اور کہا، یا رسول اللہ! اللہ نے مجھے آپؐ کے پاس بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ آپؐ جو حکم فرمائیں میں اس میں آپؐ کی اطاعت کروں، اگر آپؐ مجھے حکم دیں تو میں آپؐ کی روح قبض کروں

زمین اسے قبض کروں گا، اور اگر آپ حکم دیں کہ میں اسے چھوڑ دوں، تو میں چھوڑ دوں گا، آپ نے فرمایا: اے ملک الموت تم اطاعت کرو گے انہوں نے کہا: مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ جو حکم دیں میں اس کی اطاعت کروں۔

جبریل نے کہا: یا احمد! اللہ آپ کا مشتاق ہے آپ نے فرمایا: اے ملک الموت تمہیں جس کام کا حکم دیا گیا ہے اسے جاری کرو جبریل نے کہا: السلام علیک یا رسول اللہ! یہ میرا زمین پر آخری مرتبہ آنا ہے دنیا میں مجھے صرف آپ ہی سے حاجت تھی۔ پھر رسول اللہ ﷺ کی وفات ہو گئی، اور اس طرح تعزیت کی آواز آئی کہ لوگ آواز اور آہٹ سنتے تھے اور کسی شخص کو نہ دیکھتے تھے:

یا اہل البیت! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ”کل نفس ذائقة الموت“ (ہر جان موت کا مزہ) چکھنے والی ہے) ”وانما یوفون اجور کم یوم القیمة“ (قیامت کے دن تم لوگوں کے ثواب ضرور پورے دیئے جائیں گے) بے شک اللہ کے نام میں ہر مصیبت کی تسلی ہے ہر مرنے والے کا جانشین اور ہر فوت شدہ کا تدارک پس اللہ ہی کا بھروسہ کرو اور اسی سے امید رکھو، مصیبت زدہ تو صرف وہی شخص ہے جو ثواب سے محروم کیا گیا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کے پاس دو قریش کے آدمی آئے انہوں نے کہا کہ کیا میں تم دونوں کو رسول اللہ ﷺ کا حال سناؤں، دونوں نے کہا: ہاں، ہم سے ابوالقاسم رضی اللہ عنہ کا حال بیان کیجئے، انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات سے تین دن قبل کا زمانہ ہوا تو آپ کے پاس جبریل علیہ السلام اترے پھر علی رضی اللہ عنہ نے پہلی حدیث کے مطابق بیان کیا اور اس کے آخر میں بیان کیا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ تعزیت کرنے والے کون ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، تو کہا یہ حضریں۔ حضور ﷺ کا سر مبارک آغوش صدیقہ رضی اللہ عنہا میں:

طلحہ بن مصرف سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفی سے کہا کہ کیا نبی ﷺ نے مسلمانوں کو وصیت فرمائی؟ انہوں نے کہا: آپ نے کتاب اللہ پر عمل کرنے کی وصیت فرمائی، مالک رضی اللہ عنہ نے کہا اور طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہزیریل بن شرحبیل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا ابوبکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے وحی پر زبردستی حکومت کرتے تھے؟ کیا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ پسند کیا کہ انہیں رسول اللہ ﷺ سے کسی اور کے لیے کوئی عہد ملا پھر ان کی ناک میں خلافت کی کھیل ڈال دی گئی (یعنی اگر رسول اللہ ﷺ کی خلافت کے لیے وصیت ہوتی تو ابوبکر رضی اللہ عنہ اسی پر عمل کرتے)۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نہ رسول اللہ ﷺ نے کوئی دینار چھوڑا نہ کوئی درم نہ کوئی بکری نہ کوئی اونٹ اور نہ کسی بات کی وصیت کی۔

اسود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کیا رسول اللہ ﷺ نے وصیت کی؟ انہوں نے کہا: آپ کیونکر وصیت کرتے، آپ نے ایک طشت منگایا تاکہ اس میں پیشاب کریں پھر آپ میرے آغوش میں ڈھیلے پڑ گئے اور مجھے معلوم نہ ہوا کہ آپ مر گئے، آپ کی وفات میرے سینے اور آغوش ہی میں ہوئی۔

اسود سے مروی ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا گیا کیا رسول اللہ ﷺ نے علی رضی اللہ عنہ کو وصیت کی تھی تو انہوں نے

کہا کہ آپ کا سر میرے آغوش میں تھا، آپ نے طشت منگایا، اس میں پیشاب کیا۔ آپ میرے آغوش میں ڈھیلے پڑ گئے اور مجھے خبر نہ ہوئی، پھر کب آپ نے علی رضی اللہ عنہ کو وصیت کی؟

ابراہیم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اس حالت میں اٹھالیے گئے کہ آپ نے کوئی وصیت نہیں کی، اور آپ اس حالت میں اٹھالیے گئے کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سینے سے تکیہ لگائے ہوئے تھے۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک روز جب کہ رسول اللہ ﷺ میرے سینے پر تھے اور آپ نے اپنا سر میرے شانے پر رکھ دیا، ایک آپ کا سر جھک گیا، مجھے گمان ہوا کہ آپ میرے سر میں سے کچھ چاہتے ہیں، آپ کے منہ سے ٹھنڈا پانی نکلا جو میری ہنسی کی ہڈی پر پڑا، جس سے میری جلد کے روکیں کھڑے ہو گئے، مجھے یہ گمان ہوا کہ آپ ﷺ پر غشی طاری ہو گئی تو میں نے آپ کو ایک کپڑے سے ڈھانک دیا۔

ابن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات میرے گھر میں اور میرے آغوش میں ہوئی، جب آپ بیمار ہوتے تھے تو جبریل علیہ السلام آپ کے لیے ایک دعا کرتے تھے، میں بھی آپ کے لیے وہی دعا کرنے لگی تو آپ نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا ”رفیق اعلیٰ کے ساتھ“۔

عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ آئے ان کے ہاتھ میں ایک سبز ٹہنی تھی، آپ نے اس کی طرف دیکھا تو مجھے خیال ہوا کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے، میں نے اس کا سرا چھایا اور دانت سے کچل کر اور تر کر کے آپ کو دے دی، پھر جس طرح آپ کو میں نے مسواک کرتے دیکھا تھا اس سے زیادہ اچھی طرح آپ نے اس سے مسواک کی، آپ اسے لیے رہے تا آنکہ وہ آپ کے ہاتھ سے گر گئی یا آپ کا ہاتھ گر گیا۔

ونیا کی اخیر ساعت اور آخرت کے پہلے دن میں بھی اللہ نے میرا اور آپ کا لعاب دہن جمع کر دیا۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ مجھ پر اللہ کے انعامات میں سے یہ ہے کہ میری آغوش میں اور میرے گھر میں اور میری نوبت میں جس میں میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا نبی ﷺ کی وفات ہوئی۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات میری آغوش میں اور میری باری کے روز ہوئی، جس میں میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات میری آغوش اور میری ہی باری میں ہوئی، جس میں میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا (یعنی اور ازواج کی باری نہیں تھی کیونکہ انہوں نے اپنے دن خوشی سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہبہ کر دیئے تھے) مجھے اپنی کمسنی سے تعجب ہوا کہ رسول اللہ ﷺ میرے آغوش میں اٹھائے گئے، میں نے آپ کو اس حالت پر بھی نہ چھوڑا، یہاں تک کہ آپ کو غسل دیا گیا، لیکن میں نے ایک تکیہ لے کر اسے آپ کے سر کے نیچے رکھ دیا۔ میں عورتوں کے ساتھ کھڑی ہو کر چیختی لگی اور سر اور منہ پینے لگی، میں نے آپ کا سر تکیہ پر رکھ دیا تھا، اور آپ کو اپنے آغوش سے ہٹا دیا تھا۔

جسد اطہر کو غسل دینے کی سعادت:

جابر بن عبد اللہ الانصاری سے مروی ہے کہ کعب احبار نے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں کہا کہ ہم لوگ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے میں نے پوچھا: وہ کیا بات تھی جو سب سے آخر میں رسول اللہ ﷺ نے فرمائی، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ سے پوچھو کعب نے کہا وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہیں ہیں انہوں نے ان سے پوچھا تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آپ کو اپنے سینے سے لگائے تھا، آپ اپنا سر میرے کندھے پر رکھے تھے، جب فرمایا ”نماز، نماز“ کعب نے کہا کہ انبیاء کا آخر زمانہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور اسی کا انہیں حکم دیا گیا ہے اور اسی پر وہ جوت ہوتے ہیں۔

کعب نے کہا: امیر المؤمنین آپ کو کس نے غسل دیا، فرمایا: علی رضی اللہ عنہ سے پوچھو، ان سے کعب نے پوچھا تو انہوں نے کہا: میں آپ کو غسل دے رہا تھا، عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اسامہ اور شقران پانی لے کر میرے پاس آ جا رہے تھے۔

عبد اللہ بن محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مرض موت میں فرمایا کہ میرے بھائی کو بلاؤ، علی رضی اللہ عنہ بلائے گئے، آنحضرت ﷺ نے فرمایا میرے قریب ہو جاؤ، علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آپ کے قریب ہو گیا آپ نے مجھ پر تکیہ لگایا، آپ برابر مجھ سے تکیہ لگائے رہے اور گفتگو فرماتے رہے، نبی ﷺ کا کچھ لعاب دہن بھی میرے لگتا رہا، رسول اللہ ﷺ پر موت نازل ہوئی، میری آغوش میں آپ کو مرض کی شدت ہو گئی تو میں نے پکارا، اے عباس رضی اللہ عنہ مجھے سنبھالو میں ہلاک ہوتا ہوں، عباس رضی اللہ عنہ آئے، دونوں نے بل کے آپ کو لٹا دیا۔

علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اس حالت میں اٹھائے گئے کہ آپ کا سر علی رضی اللہ عنہ کے آغوش میں تھا۔
 شععی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ آپ کا سر علی رضی اللہ عنہ کے آغوش میں تھا۔
 علی رضی اللہ عنہ نے آپ کو غسل دیا، فضل آپ کو آغوش میں لیے تھے اور اسامہ رضی اللہ عنہ فضل رضی اللہ عنہ کو پانی دے رہے تھے۔

ابی غطفان سے مروی ہے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا: کیا تم نے رسول اللہ ﷺ کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ کی وفات ہوئی اور آپ کا سر کس کے آغوش میں تھا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ آپ علی رضی اللہ عنہ کے سینے سے تکیہ لگائے ہوئے تھے، میں نے کہا کہ عروہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات میری آغوش میں ہوئی، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا تمہیں عقل ہے؟ واللہ رسول اللہ ﷺ کی وفات اسی حالت میں ہوئی کہ آپ علی رضی اللہ عنہ کے سینے سے تکیہ لگائے ہوئے تھے، علی رضی اللہ عنہ وہ شخص ہیں کہ انہوں نے اور میرے بھائی فضل بن عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کو غسل دیا، میرے والد عباس رضی اللہ عنہ نے غسل میں موجود رہنے سے انکار کیا، اور کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم پوشیدہ رہیں، وہ پردے کے پاس تھے۔

بعد از وفات یمنی چادر اوڑھانا:

ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے مروی ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کو جب آپ کی وفات ہوئی تو یمنی چادر اوڑھائی گئی۔

سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی تو آپ کو یمنی چادر اوڑھائی گئی۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی جس وقت وفات ہوئی تو آپ کو یمنی چادر اوڑھائی گئی۔

سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا رخ مصطفیٰ پر بوسہ:

ابھی سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کی جب وفات ہوگئی تو آپ کے پاس ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے انہوں نے آپ کو بوسہ دیا اور کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں آپ کیسی پاکیزہ حیات والے اور کیسی پاکیزہ وفات والے ہیں۔

ابھی سے مروی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی ﷺ کی وفات کے وقت موجود نہ تھے وہ آپ کی وفات کے بعد آئے آپ کے چہرے سے چادر ہٹائی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا آپ کیسی پاکیزہ حیات والے اور کیسی پاکیزہ وفات والے ہیں بے شک آپ اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ مکرم ہیں کہ وہ آپ کو دو مرتبہ (موت) سے سیراب کرے۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور آپ کے پاس گئے میں نے پردہ اٹھا دیا انہوں نے آپ کے چہرے سے چادر ہٹائی اور انا اللہ وانا الیہ راجعون کہا پھر کہا واللہ رسول اللہ کی وفات ہوگئی وہ آپ کے سر کی طرف سے ہٹ گئے اور کہا ”ہائے نبی“ پھر انہوں نے اپنا منہ جھکایا آپ کے چہرے کو بوسہ دیا اپنا سر اٹھایا اور کہا ”وائے خلیل“ پھر اپنا منہ جھکایا آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا پھر سر اٹھایا اور کہا ”وائے صفی“ پھر اپنا منہ جھکایا آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا پھر آپ کو چادر اوڑھادی اور باہر چلے گئے۔

ابن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وفات کے بعد نبی ﷺ کے پاس جانے کی اجازت چاہی تو لوگوں نے کہا کہ آج آپ کے پاس جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں انہوں نے کہا تم سچ کہتے ہو وہ اندر گئے آپ کے چہرے سے چادر ہٹائی اور بوسہ دیا۔

ابوسلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا زوجہ نبی ﷺ نے انہیں خبر دی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے اسح کے مکان سے گھوڑے پر آئے وہ اترے مسجد میں داخل ہوئے انہوں نے کسی سے بات نہیں کی یہاں تک کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے پھر رسول اللہ ﷺ کی زیارت کا قصد کیا جو ایک یمنی چادر سے ڈھکے ہوئے تھے انہوں نے آپ کا چہرہ کھولا جھک کر بوسہ دیا اور روئے پھر کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں واللہ آپ پر اللہ دو موتیں کبھی جمع نہ کرے گا لیکن وہ موت جو آپ پر لکھی گئی تھی تو اس موت سے آپ مر چکے۔

سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی ﷺ کے پاس پہنچے جو چادر سے ڈھکے ہوئے تھے تو کہا رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوگئی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اللہ کی بے شمار رحمتیں آپ پر ہوں وہ آپ پر جھکے بوسہ دیا اور کہا آپ حیات میں بھی پاکیزہ رہے اور وفات میں بھی۔

ابن عباس و عائشہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔

وفات نبوی ﷺ پر اصحاب رسول ﷺ کی حالت و کیفیت:

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی تو لوگ رونے لگے، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ مسجد میں خطیب بن کے کھڑے ہوئے اور کہا ہرگز کسی کو یہ کہتے نہ سنوں گا کہ محمدؐ مر گئے، انہیں بلا بھیجا گیا، جیسے موسیٰ بن عمران کو بلا بھیجا گیا تھا وہ اپنی قوم سے چالیس رات غائب رہے، واللہ مجھے امید ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے جو یہ گمان کریں گے کہ آپؐ مر گئے۔

عکرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ آپؐ کی روح کو معراج ہوئی ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی روح کو معراج ہوئی تھی، عمر رضی اللہ عنہ خطیب بن کے کھڑے ہوئے اور منافقین کو ڈرانے لگے کہ رسول اللہ ﷺ مرے نہیں صرف آپؐ کی روح کو معراج ہوئی ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی روح کو معراج ہوئی تھی، رسول اللہ ﷺ نہیں مریں گے تا وقتیکہ قوموں کے ہاتھ اور زبانیں نہ کاٹ دیں۔

عمر رضی اللہ عنہ برابر اسی طرح کلام کرتے رہے یہاں تک کہ ان کی دونوں بائچھوں سے جھاگ نکل آیا، پھر عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کی بوبدل سکتی ہے جیسے کہ بشر کی بوبدل جاتی ہے، رسول اللہ ﷺ رحلت فرما چکے ہیں، لہذا اپنے صاحب کو دفن کر دو۔ کیا تم میں سے کسی کو اللہ ایک مرتبہ موت دے گا اور رسول اللہ ﷺ کو دو مرتبہ وہ اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ مکرم ہیں، پھر اگر ایسا ہی ہو جیسا تم لوگ کہتے ہو تو اللہ پر یہ امر گراں نہیں کہ وہ آپؐ پر سے مٹی کو کھود کر آپؐ کو نکال دے، آپؐ نہ مرے تا وقتیکہ آپؐ نے سمیل الہی کو واضح بنا کے نہ چھوڑا، آپؐ نے حلال کو حلال کیا اور حرام کو حرام کیا، آپؐ نے نکاح کیا اور طلاق دی (یعنی دونوں کے احکام ظاہر کیے) جنگ کی اور صلح کی، آپؐ ایسے بکریاں چرانے والے نہ تھے جن کا مالک انہیں اپنے پیچھے پہاڑوں کی چوٹیوں پر لے جا کر ان پر بول کی پیتاں اپنی پیتاں جھاڑنے کی لکڑی سے جھاڑتا ہے اور ان کے حوض کی مینڈھا اپنے ہاتھ سے پتھروں کی بناتا ہے اور نہ رسول اللہ ﷺ کی طرف سے تمہیں مکان پہنچاتا تھا۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہو گئی تو عمر اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما نے اندر آنے کی اجازت چاہی، دونوں آپؐ کے پاس آئے، چہرہ مبارک سے چادر ہٹائی، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ”ہائے غشی“ رسول اللہ ﷺ کی غشی کس قدر سخت ہے۔ دونوں کھڑے ہو گئے، جب دروازے تک پہنچے تو مغیرہ نے کہا ”اے عمر رضی اللہ عنہ واللہ رسول اللہ ﷺ وفات پا چکے“ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ”تم جھوٹے ہو رسول اللہ ﷺ مرے نہیں۔ تم ایسے شخص ہو کہ فتنہ تمہیں شکار کر لیتا ہے، رسول اللہ ﷺ ہرگز نہ مریں گے تا وقتیکہ آپؐ منافقین کو فتنانہ کر دیں۔“

خطبہ صدیقی رضی اللہ عنہ:

ابوبکر رضی اللہ عنہ اسی حالت میں آئے کہ عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو خطبہ بنا رہے تھے ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا خاموش ہو جاؤ تو وہ خاموش ہو گئے، ابوبکر رضی اللہ عنہ منبر پر چڑھے انہوں نے اللہ کی حمد و ثنایاں کی، پھر یہ آیت پڑھی: ﴿اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّ اِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ آپؐ بھی (اے رسول) مریں گے (اور یہ لوگ بھی نہیں گے) پھر انہوں نے (یہ آیت) پڑھی:

﴿وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل نقلبتم على اعقابكم﴾
 ”اور محمد بھی صرف رسول ہی ہیں ان سے پہلے تمام رسول گزر گئے تو کیا وہ مرجائیں یا قتل کر دیئے جائیں تو تم لوگ پس پشت واپس ہو جاؤ گے؟“

وہ آیت سے فارغ ہوئے تو کہا: جو شخص محمد کی عبادت کرتا ہو تو محمد تو مر گئے اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہو تو اللہ زندہ ہے وہ کبھی نہیں مرے گا۔

عمر بنی اللہؓ نے کہا: یہ کتاب اللہ میں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں عمر بنی اللہؓ نے کہا: اے لوگو! یہ ابو بکر بنی اللہؓ ہیں اور مسلمانوں کے بوڑھے ہیں لہذا ان سے بیعت کرو لوگوں نے ان سے بیعت کر لی۔

سعید بن المسیبؓ سے مروی ہے کہ ابو ہریرہؓ کہتے تھے کہ ابو بکر بنی اللہؓ اس حالت میں مسجد میں آئے کہ عمر بن الخطابؓ لوگوں سے بات چیت کر رہے تھے وہ سیدھے نبی ﷺ کے مکان میں داخل ہوئے جہاں آپ کی وفات ہوئی تھی اور جو عائشہؓ کا مکان تھا انہوں نے نبی ﷺ کے چہرے سے مینی چادر ہٹائی جس میں آپ ڈھکے ہوئے تھے آپ کا چہرہ دیکھا اس پر جھکے بوسہ دیا اور کہا: میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں واللہ آپ پر اللہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا آپ بے شک اس موت سے مر گئے جس کے بعد آپ ﷺ نہیں مریں گے۔

ابو بکر بنی اللہؓ نکل کر مسجد میں لوگوں کے پاس آئے دیکھا تو عمر بنی اللہؓ ان سے کلام کر رہے تھے ابو بکر بنی اللہؓ نے کہا: اے عمر! بیٹھ جاؤ عمر بنی اللہؓ نے بیٹھنے سے انکار کیا ابو بکر بنی اللہؓ نے ان سے دو یا تین مرتبہ گفتگو کی جب عمر بنی اللہؓ انہیں بیٹھے تو ابو بکر بنی اللہؓ نے کھڑے ہو کر تشہد (کلمہ شہادت و خطبہ) پڑھا لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور عمر بنی اللہؓ کو چھوڑ دیا ابو بکر بنی اللہؓ اپنے تشہد کو پورا کر چکے تو کہا: ”اما بعد تم میں جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا تو محمد مر گئے اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے جو کبھی نہیں مرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل نقلبتم على اعقابكم ومن يقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين﴾

”محمد بھی اللہ کے رسول ہیں کیا یہ اگر مرجائیں یا قتل کر دیئے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل واپس ہو جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل واپس ہو جائے گا تو وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا اللہ شکر گزاروں کو جزا دے گا۔“

جب ابو بکر بنی اللہؓ نے اس کی تلاوت کی تو لوگوں کو نبی ﷺ کی موت کا یقین ہو گیا۔ سب نے یا ان میں سے اکثر نے اسے ان سے حاصل کیا یہاں تک کہ بعض کہنے والوں نے کہا کہ واللہ (ابو بکر بنی اللہؓ کے تلاوت کرنے تک گویا لوگ جانتے ہی نہ تھے کہ یہ آیت بھی نازل کی گئی ہے۔

سعید بن المسیبؓ کا گمان ہے کہ عمر بن الخطابؓ نے کہا کہ واللہ یہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ ابو بکر بنی اللہؓ کو اس کی تلاوت کرتے میں نے سنا میں مدہوش ہو گیا حالانکہ میں کھڑا تھا یہاں تک کہ میں زمین پر گر گیا اور میں نے یقین کر لیا کہ

نبی ﷺ مر گئے۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کی وفات ہوئی تو ابوبکر رضی اللہ عنہ اس میں تھے، عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر کہنے لگے واللہ رسول اللہ ﷺ نہیں مرے، سوائے اس کے کوئی بات میرے دل میں نہیں آتی کہ اللہ آپ کو ضرور بھیجے گا، آپ ضرور لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے انہوں نے نبی ﷺ کا چہرہ کھولا، اسے بوسہ دیا، اور کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ حیات میں بھی پاکیزہ تھے اور وفات میں بھی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ آپ کو کبھی دو موتیں نہ چکھائے گا۔

ابوبکر رضی اللہ عنہ باہر آئے اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: اے اپنی مہلت پر قسم کھانے والے، مگر عمر رضی اللہ عنہ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کلام نہ کیا، عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے، ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کی حمد و ثناء بیان کی اور کہا: خبردار جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا، جان لے کہ محمد مر گئے، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا، اور کہا:

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ نَلْقَيْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾

لوگ چیخ چیخ کے رونے لگے۔

انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہوئے، انہوں نے کہا کہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر مہاجرین میں سے۔

ابوبکر و عمر و ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے، عمر رضی اللہ عنہ نے گفتگو شروع کی تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انہیں خاموش کر دیا، عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ واللہ میں نے اس گفتگو کا صرف اس لیے ارادہ کیا تھا کہ میں نے ایک ایسی بات سوچی تھی جو مجھے پسند آئی تھی، اور مجھے اندیشہ تھا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ اس بات کو نہ بیان کریں گے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے گفتگو کی، ان کی گفتگو سب سے زیادہ بلند تھی، انہوں نے اپنے کلام میں کہا کہ ہم مہاجرین امیر ہیں اور تم انصار و زبیر۔

حباب بن المذخر السلمي نے کہا: نہیں، واللہ ہم کبھی یہ گوارا نہ کریں گے، ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک تم میں سے، ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا: ”نہیں ہم لوگ امیر ہیں اور تم لوگ وزیر ہو، قریش مسکن و دار کے اعتبار سے وسط عرب کے ہیں اور باعتبار نسب کے سب سے زیادہ شریف ہیں، لہذا عمر اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے بیعت کر لو۔“

عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہم میں سب سے بہتر ہیں اور آپ ہم سب سے زیادہ نبی ﷺ کے محبوب ہیں، عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، انہوں نے ان سے بیعت کر لی، اور لوگوں نے بھی ان سے بیعت کر لی، کسی کہنے والے نے کہا کہ تم نے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، انہیں اللہ نے قتل کیا۔

زہری سے مروی ہے کہ مجھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ لوگوں میں خطیب بن کے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا، خبردار میں کسی کو یہ کہتے ہرگز نہ سنوں کہ محمد مر گئے، کیونکہ محمد مرے نہیں، انہیں ان کے

رب نے بلا بھیجا، جیسا کہ اس نے موسیٰ کو بلا بھیجا تھا اور وہ چالیس رات اپنی قوم سے غائب رہے تھے۔

زہری نے کہا کہ مجھے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے اسی خطبے میں یہ بھی کہا کہ مجھے اُمید ہے کہ رسول اللہ ﷺ ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ آپؐ نے وفات پائی۔

زہری نے کہا کہ مجھے ابوسلمہ بن عبد الرحمن بن عوف نے خبر دی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا زوجہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی قیام گاہ سے جوالح میں تھی، ایک گھوڑے پر آئے اور مسجد نبوی میں داخل ہوئے انہوں نے کسی سے بات نہیں کی، عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور رسول اللہ ﷺ کی زیارت کا قصد کیا جو چادر سے ڈھکے ہوئے تھے، انہوں نے آپؐ کے چہرے سے چادر ہٹائی، جھکے، آپؐ کو بوسہ دیا اور رونے لگے، پھر کہا، میرے ماں باپ آپؐ پر فدا ہوں، اللہ آپؐ پر دو موتیں بھیج جمع نہ کرے گا، وہ موت جو آپؐ پر لکھی گئی تھی اب آچکی۔

ابوسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس حالت میں نکلے کہ عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے کلام کر رہے تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹھنے سے انکار کیا، پھر کہا کہ بیٹھو، مگر وہ نہیں بیٹھے۔

ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تشہد شروع کیا تو لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا، انہوں نے کہا ”اما بعد! تم میں سے جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا تو محمدؐ مر گئے اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے جو مرے گا نہیں، اللہ نے فرمایا ہے:

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ نَلْزَمُكَ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾

راوی نے کہا واللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اس آیت کے تلاوت کرنے سے پہلے گویا لوگ جانتے ہی نہ تھے کہ اللہ نے یہ آیت بھی نازل کی ہے، سب لوگوں نے اسے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اس طرح حاصل کیا کہ کوئی بشر ایسا نہ تھا جسے تم یہ آیت تلاوت کرتے نہ سنو۔

زہری نے کہا کہ مجھے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سوائے اس کے کچھ نہ ہوا کہ میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اسے تلاوت کرتے سنا تو میں مدہوش ہو گیا، یہاں تک کہ میرے دونوں قدم مجھے برداشت نہ کرتے تھے اور میں زمین پر گر پڑا، جب میں نے انہیں تلاوت کرتے سنا تو مجھے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوگئی۔

زہری نے کہا کہ مجھے انس بن مالک نے خبر دی کہ انہوں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے صبح کو سنا جس وقت رسول اللہ ﷺ کی مسجد میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیعت کی گئی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے منبر پر بیٹھے، عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پہلے تشہد پڑھا، پھر کہا:

”اما بعد کل میں نے تم سے ایک بات کہی تھی جو ایسی نہ تھی جیسی میں نے کہی تھی، واللہ میں نے اسے نہ اس کتاب میں پایا جو اللہ نے نازل کی اور نہ اس عہد میں جو رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے لیا وہ صرف میری آرزو تھی کہ رسول اللہ ﷺ زندہ رہیں گے۔“

پھر عمر رضی اللہ عنہ نے وہ بات کہی جو وہ کہنا چاہتے تھے کہ: آپؐ ہم سب کے آخر میں وفات پائیں گے، مگر اللہ نے اپنے رسولؐ

کے لیے تمہاری نزدیکی پر اپنی نزدیکی کو پسند کیا، اور یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت کی، لہذا تم اسے اختیار کرو تو تم وہی راہ پاؤ گے جس کی رسول اللہ ﷺ کو ہدایت کی گئی۔ حسن بن علیؓ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ اٹھالیے گئے تو آپ کے اصحاب نے مشورہ کیا کہ اپنے نبی ﷺ کا انتظار کرو شاید آپ کو معراج ہوئی ہو، انہوں نے آپ کا انتظار کیا یہاں تک کہ آپ کا پیٹ بڑھ گیا، ابو بکرؓ نے کہا جو محمد کی پرستش کرتا تھا تو محمدؐ مر گئے اور جو اللہ کی پرستش کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے اور نہیں مرے گا۔

ابی سلمہ بن عبد الرحمن سے مروی ہے کہ لوگ عائشہؓ کے گھر میں نبی ﷺ کے پاس آ کر آپ کو دیکھنے لگے، انہوں نے کہا کہ آپ کیسے مر سکتے ہیں حالانکہ آپ ہم پر گواہ ہیں اور ہم اور لوگوں پر گواہ ہیں، پھر آپؐ مرجائیں گے حالانکہ آپؐ نے لوگوں پر شہادت نہیں دی؟ نہیں واللہ آپ نہیں مرے، آپ محض اٹھالیے گئے جیسا کہ عیسیٰ بن مریمؑ اٹھالیے گئے اور آپ ضرور ضرور واپس آئیں گے، انہوں نے ان لوگوں کو ڈرایا جنہوں نے یہ کہا کہ آپؐ مر گئے، عائشہؓ کے حجرے میں اور دروازے پر انہوں نے ندائی کہ آپ کو دفن نہ کرو کیونکہ رسول اللہ ﷺ مرے نہیں۔

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی تو عباس بن عبد المطلب نکلے اور کہا کہ اگر تم میں سے کسی کے پاس رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بارے میں کوئی عہد ہے تو وہ ہم سے بیان کرے، لوگوں نے کہا ”نہیں ہے“ انہوں نے کہا اے عمرؓ اس میں سے کچھ تمہارے پاس ہے، انہوں نے کہا ”نہیں“ عباسؓ نے کہا گواہ رہو کہ جو شخص نبی ﷺ پر کسی عہد کی کہ آپؐ نے اپنی وفات کے بعد کے لیے اس سے لیا ہے شہادت دے گا تو وہ کذاب ہوگا، قسم ہے اس اللہ کی کہ سوائے اس کے کوئی معبود نہیں، رسول اللہ ﷺ نے انتقال کیا۔

محمد بن ابی بکر یا ام معاویہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کی موت میں شک کیا گیا تو بعض لوگوں نے کہا، آپؐ مر گئے اور بعض نے کہا، نہیں مرے، اسماء بنت عمیس نے اپنا ہاتھ آپؐ کے دونوں شانوں کے درمیان پشت پر رکھا اور کہا کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوگی، کیونکہ آپؐ کے دونوں شانوں کے درمیان سے مہر نبوت اٹھائی گئی۔

یوم وفات:

محمد بن قیس سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ۱۹ صفر ۱۱ھ چار شنبہ کو بیمار ہوئے آپ تیرہ رات بیمار رہے اور آپ کی وفات ۲ ربیع الاول ۱۱ھ یوم دوشنبہ ہوئی۔

علی بن ابی طالبؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ۲۹ صفر ۱۱ھ یوم چار شنبہ کو بیمار ہوئے اور ۱۲ ربیع الاول ۱۱ھ یوم دوشنبہ کو آپ کی وفات ہوئی۔

ابن عباسؓ سے اور عائشہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات ۱۲ ربیع الاول ۱۱ھ یوم دوشنبہ کو ہوئی۔

ابن عباسؓ اور عائشہؓ سے (دوسرے سلسلہ روایت سے) مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات ۱۲ ربیع الاول ۱۱ھ یوم دوشنبہ کو ہوئی۔

علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات دوشنبہ کو ہوئی اور آپؐ سہ شنبہ کو دفن کیے گئے۔
عمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات دوشنبہ کو ہوئی، آپؐ بقیہ روز اور ساری رات اور دوسرے دن تک رکھے رہے یہاں تک کہ رات کو دفن کیے گئے۔
عثمان بن محمد الاضہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات دوشنبہ کو ہوئی جب آفتاب ڈھل گیا تھا اور آپؐ چہار شنبہ کو دفن کیے گئے۔

ابی بن عباس بن ہبل نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات دو شنبہ کو ہوئی آپؐ دوشنبہ و سہ شنبہ کوڑے کر رہے یہاں تک کہ چہار شنبہ کو دفن کیے گئے۔
مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات دوشنبہ کو ہوئی اور آپؐ سہ شنبہ کو دفن کیے گئے۔
ابن شہاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات دوشنبہ کوڑے والے آفتاب کے بعد ہوئی۔
ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ تمہارے نبی کی وفات دوشنبہ کو ہوئی۔
الہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی وفات کے بعد ایک شانہ روز تک دفن نہ ہوئے حتیٰ کہ آپؐ کا کرتہ پھول گیا اور آپؐ کی خضر میں تغیر دیکھا گیا۔

قاسم بن محمد سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے ناخنوں میں جب سبزی آ گئی اس وقت مدفون ہوئے۔
انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب وہ دن ہوا جس میں نبی ﷺ اٹھالیے گئے تو مدینے کی ہر شے تاریک ہو گئی، ہم نے آپؐ کے دفن (کی گرد) سے اپنے ہاتھ بھی نہ جھاڑے تھے کہ اپنے قلوب کو متغیر پایا (یعنی وہ نور نہ رہا جو آپؐ کی حیات میں تھا)۔
رسول اللہ ﷺ کی تعزیت:

ہبل بن سعد سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ عنقریب میرے بعد لوگ ایک دوسرے سے میری تعزیت کریں گے یہ حدیث سن کے لوگ کہتے تھے کہ یہ کیا ہے (یعنی تعزیت کا کیا مطلب ہے) جب رسول اللہ ﷺ اٹھالیے گئے تو لوگ ایک دوسرے سے مل کر رسول اللہ ﷺ کی تعزیت کر رہے تھے۔

ابی رباح سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں کسی کو جب کوئی مصیبت پہنچے تو وہ اپنی اس مصیبت کو یاد کر لے جو میری وفات سے ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔

قاسم سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مسلمانوں سے ان کے مصائب میں میری وفات کی مصیبت کی بھی تعزیت کی جائے گی۔

جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی تو تعزیت کی آواز آئی جس کو لوگ سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے کہ: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اے اہل بیت ”مُکَلِّ نفس ذائقة الموت“ (ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے) ”وانما توفون اجور کم یوم القيامة“ (صرف قیامت ہی میں تمہارے اجر پورے دیئے جائیں گے) ”ان فی اللہ عزاء“

من کل مصیبة“ بے شک اللہ کے نام میں ہر مصیبت کی تسلی ہے وخلقاً من کل هالك اور ہر مرنے والے کا عوض ہے وودکا من کل مافات (اور ہر فوت شدہ شے کا تدارک ہے) فباللہ فتقوا (لہذا اللہ ہی پر بھروسہ رکھو) وایاہ فارجوا (اور اسی سے امید رکھو) انما المصاب من حرم الثواب (صرف وہی مصیبت زدہ ہے جو مصیبت کے ثواب سے محروم رہا) والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
کرتے سمیت غسل دینے کا حکم:

جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو ایک کرتے میں غسل دیا گیا (بروایت سلیمان بن بلال) جب آپ کی وفات ہوئی۔

مالک بن انس سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کے غسل کا وقت ہوا تو لوگوں نے آپ کا کرتہ اتارنے کا ارادہ کیا، انہوں نے ایک آواز سنی کہ کرتہ نہ اتارو، آپ کا کرتہ نہیں اتارا گیا، اور آپ کو اسی حالت میں غسل دیا گیا کہ وہ کرتا آپ کے جسم پر تھا۔

شعیب بن جابر سے مروی ہے کہ نبھلانے والوں کو گھر کی جانب سے ندادی گئی کہ کرتہ نہ اتارو، آپ کو اسی طرح غسل دیا گیا کہ وہ کرتا آپ کے جسم پر تھا۔

شعیب سے مروی ہے کہ نبھلانے والوں کو گھر کی جانب سے ندادی گئی کہ کرتہ نہ اتارو، آپ کو اسی طرح غسل دیا گیا کہ وہ کرتہ آپ پر تھا۔

غیلان بن جریر سے مروی ہے کہ جس وقت لوگ نبی ﷺ کو غسل دے رہے تھے تو انہیں دفعۃً ایک ندادی گئی کہ رسول اللہ ﷺ کو برہنہ نہ کرو۔

الحکم بن عتیبہ سے مروی ہے کہ لوگوں نے جب نبی ﷺ کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو انہوں نے آپ کا کرتہ اتارنا چاہا، ایک آواز آئی کہ اپنے نبی کو برہنہ نہ کرو، انہوں نے اسی طرح آپ کو غسل دیا کہ آپ کا کرتہ آپ پر تھا۔
منصور سے مروی ہے کہ ان لوگوں کو گھر کی جانب سے ندادی گئی کہ کرتہ نہ اتارو۔

بنی ہاشم کے آزاد کردہ غلام سے مروی ہے کہ جب ان لوگوں نے نبی ﷺ کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو وہ آپ کا کرتہ اتارنے چلے، کسی منادی نے گھر کے کونے سے ندادی کہ آپ کا کرتہ نہ اتارو۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اگر مجھے میرا معاملہ پہلے ہی معلوم ہو جاتا جو بعد کو معلوم ہوا تو رسول اللہ ﷺ کو سوائے آپ کی ازواج کے کوئی غسل نہ دیتا، رسول اللہ ﷺ کی جب وفات ہوئی تو اصحاب رضی اللہ عنہم نے آپ کے غسل میں اختلاف کیا، بعض نے کہا کہ اس طرح غسل دو کہ آپ کے اوپر آپ کے کپڑے ہوں، اسی وقت جب کہ وہ لوگ اختلاف میں تھے انہیں غنودگی آگئی جس سے ان میں سے ہر شخص کی داڑھی اس کے سینے پر پڑ گئی پھر کسی کہنے والے نے کہا، جو معلوم نہ ہوا کہ کون تھا آپ کو اسی طرح غسل دو کہ کپڑے آپ کے (جسم) پر ہوں۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی تو جو لوگ آپ کو غسل دے رہے تھے انہوں نے

اختلاف کیا، پھر انہوں نے ایک کہنے والے کو سنا جو انہیں معلوم نہ ہوا کہ کون ہے کیا ہے کہ اپنے نبی کو اس طرح غسل دو کہ ان پر ان کا کرتہ ہو اس پر رسول اللہ ﷺ کو آپ کے کرتے ہی میں غسل دیا گیا۔

آنحضرت ﷺ کو غسل دینے کا اعزاز:

ہامر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو علی بن ابی طالب اور فضل بن عباس اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم نے غسل دیا، علی رضی اللہ عنہ آپ کو غسل دیتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں آپ حیات میں بھی پاکیزہ تھے اور وفات میں بھی۔

ہامر سے مروی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نبی ﷺ کو غسل دے رہے تھے اور اسامہ رضی اللہ عنہ آپ کو سنبھالے ہوئے تھے۔
شعیب بن علی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو اس حالت میں غسل دیا گیا کہ عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے اور فضل آپ کو سینے سے لگائے تھے، علی رضی اللہ عنہ آپ کو اس طرح غسل دے رہے تھے کہ آپ پر آپ کا کرتا تھا اور اسامہ پانی دینے کے لیے آمد و رفت کر رہے تھے۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو عباس اور علی اور فضل رضی اللہ عنہم نے غسل دیا۔ فضل بن دکین نے اپنی حدیث میں بیان کیا کہ عباس رضی اللہ عنہ انہیں چھپائے ہوئے تھے۔

ابن شہاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے غسل کا ذمہ عباس بن عبدالمطلب علی بن ابی طالب، فضل بن عباس رضی اللہ عنہم اور رسول اللہ ﷺ کے آزاد کردہ غلام صالح نے لیا۔

زہری سے مروی ہے کہ عباس، علی بن ابی طالب، فضل اور رسول اللہ ﷺ کے آزاد کردہ غلام صالح نے نبی ﷺ کے غسل کا انتظام کیا اور آپ کا پردہ کیا۔

یزید بن بلال سے مروی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی ﷺ نے یہ وصیت کی تھی کہ انہیں میرے سوا کوئی غسل نہ دے اور نہ کوئی بغیر اس کے کہ اس کی آنکھیں ڈھانک دی جائیں میرا ستر دیکھے۔

فضل اور اسامہ دونوں آدمی مجھے پردے کے پیچھے سے پانی دیتے تھے اور ان دونوں کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی، میں کسی عضو کو بھی لیتا تھا تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا تمیں آدمی میرے ہمراہ اسے الٹتے پلٹتے ہیں یہاں تک کہ میں آپ کے غسل سے فارغ ہو گیا۔

علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب ہم نے رسول اللہ ﷺ کے غسل کی تیاری شروع کی تو سب لوگوں کو باہر کر کے دروازہ بند کر لیا، انصار نے ندا دی کہ ہم لوگ آپ کے ماموں ہیں اور ہمارا مرتبہ اسلام میں وہ ہے جو سب جانتے ہیں، قریش نے ندا دی کہ ہم لوگ آپ کے جدی عزیز ہیں، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پکار کے کہا: اے گروہ مسلمین ہر قوم اپنے جنازے کی اپنے غیر سے زیادہ مستحق ہے اس لیے میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ اگر تم لوگ اندر جاؤ گے تو تم ان (علی و فضل و اسامہ رضی اللہ عنہم) کو آپ سے ہٹا دو

گئے، واللہ آپؐ کے پاس کوئی نہ جائے سوائے اس کے جو بلایا گیا ہے۔

علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انصار نے ندادی کہ ہمارا بھی حق ہے کیونکہ آپؐ تو ہماری بیٹی کے بیٹے ہیں، ہمارا مرتبہ اسلام میں وہ ہے جو ہے انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا کہ وہی جماعت (علیؑ و اسامہ و عباس رضی اللہ عنہم) آپؐ سے زیادہ محبت کرنے والی ہے، تم لوگ علیؑ و عباس رضی اللہ عنہما سے درخواست کرو کیونکہ ان کے پاس وہی جاسکتا ہے جسے وہ چاہیں۔

عبداللہ بن ثعلبہ بن صعیر سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کو علیؑ و فضل و اسامہ بن زید و شقران رضی اللہ عنہم نے غسل دیا، آپؐ کے حصہ زیریں کے غسل کا انتظام علی رضی اللہ عنہ نے کیا اور فضل رضی اللہ عنہ آپؐ کو سینے سے لگائے تھے، عباس اور اسامہ بن زید اور شقران رضی اللہ عنہم پانی ڈال رہے تھے۔

سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کو غسل علی رضی اللہ عنہ نے دیا اور آپؐ کو نقن چار آدمیوں نے دیا، یعنی علی اور عباس اور فضل اور شقران رضی اللہ عنہم نے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کو علی اور فضل رضی اللہ عنہما نے غسل دیا، عباس رضی اللہ عنہ سے ان لوگوں نے کہا کہ وہ غسل کے وقت موجود رہیں، مگر انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ ہمیں نبی ﷺ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم پوشیدہ رہیں۔

عبداللہ بن ابی بکر بن محمد عمرو بن حزم سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو علی اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہم نے غسل دیا، علی رضی اللہ عنہ جو قوی تھے آپؐ کو لالتے پلٹتے تھے، اور عباس رضی اللہ عنہ دروازے پر تھے انہوں نے کہا کہ مجھے آپؐ کے غسل میں موجود رہنے سے صرف اس امر نے روکا کہ میں دیکھتا تھا کہ آپؐ مجھ سے شرماتے ہیں کہ میں آپؐ کو برہنہ دیکھوں۔

موسیٰ بن محمد بن ابراہیم بن الحارث التیمی نے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی ﷺ کو علیؑ، فضلؑ، عباسؑ، اسامہ بن زید اور اوس بن خولی رضی اللہ عنہ نے غسل دیا، اور یہی لوگ آپؐ کی قبر میں اترے۔

علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اور عباس، عقیل بن ابی طالب، اوس بن خولی اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ ﷺ کو غسل دیا۔

زبیر بن موسیٰ سے مروی ہے کہ میں نے ابو بکر بن ابی جہم کو کہتے سنا کہ نبی ﷺ کو علی اور فضل اور اسامہ بن زید اور شقران رضی اللہ عنہم نے غسل دیا، علی رضی اللہ عنہ نے آپؐ کو اپنے سینے سے لگالیا۔ ان کے ہمراہ فضل نے بھی، جو آپؐ کو لالتے پلٹتے تھے اسامہ بن زید اور شقران آپؐ پر پانی ڈالتے تھے، آپؐ پر آپؐ کا کرتا تھا۔

اوس بن خولی نے کہا کہ اے علی رضی اللہ عنہ، ہم تمہیں اللہ کی قسم دیتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ہمارا حصہ بھی دو، علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا اندر آ جاؤ، وہ اندر گئے اور بیٹھ گئے۔

ابی جعفر محمد بن علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کو تین غسل دیئے گئے، پیری کے پانی سے، آپؐ کو اپنے کرتے میں غسل دیا گیا، آپؐ کو اس کنویں میں سے غسل دیا گیا جس کا نام الغرس تھا جو قبائیں سعد بن خثیمہ کا تھا اور آپؐ اس کا پانی پیتے تھے، علی رضی اللہ عنہ آپؐ کے غسل پر مامور تھے، عباس رضی اللہ عنہ پانی ڈالتے تھے فضل آپؐ کو سینے سے لگائے ہوئے تھے اور کہتے تھے: مجھے راحت

دیکھتے آپؐ نے میری رگ قلب قطع کر دی، میں ایسی چیز محسوس کرتا ہوں جو مجھ پر دو مرتبہ نازل ہوتی ہے۔

عبداللہ بن الحارث سے مروی ہے کہ جب نبی ﷺ کی وفات ہوئی تو علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے دروازہ مضبوط بند کر دیا، پھر عباس رضی اللہ عنہ آئے ان کے ہمراہ عبدالمطلب کے خاندان والے بھی تھے، وہ لوگ دروازے پر کھڑے ہو گئے، علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میرے ماں باپ آپؐ پر فدا ہوں، آپؐ حیات میں بھی پاکیزہ تھے اور وفات میں بھی۔

ایک ایسی پاکیزہ ہوا چلی کہ ویسی انہوں نے کبھی نہ پائی تھی، عباس رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عورت کی طرح ناک میں بولنا چھوڑ دو، اور تم لوگ اپنے صاحب کے پاس آؤ، علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے پاس فضل کو بھیجو۔

انصار نے کہا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں سے اپنے حصے میں تمہیں اللہ کی قسم دلاتے ہیں، انہوں نے اپنا ایک آدمی اندر بھیجا، جن کا نام اوس بن خولی تھا، وہ اپنے ایک ہاتھ میں گھڑا لیے تھے۔

علی رضی اللہ عنہ نے اس طرح آپؐ کو غسل دیا کہ وہ اپنا ہاتھ آپؐ کے کرتے کے نیچے داخل کرتے تھے، فضل آپؐ پر کپڑا ڈالے ہوئے تھے اور انصاری پانی دے رہے تھے، علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ایک کپڑا جس کے اندر ان کا ہاتھ تھا اور آپؐ کے جسم پر کرتہ تھے۔

عبدالواجد بن ابی عون سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے مرض موت میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے علی رضی اللہ عنہ جب میں مر جاؤں تو تم مجھے غسل دینا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو کبھی کسی میت کو غسل نہیں دیا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم تیار کر دیئے جاؤ گے یا تمہیں آسان کر دیا جائے گا۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میں نے آپؐ کو غسل دیا چنانچہ میں جس کسی عضو کو پکڑتا تھا تو وہ میرے تابع ہوتا تھا، فضل اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے وہ کہتے تھے کہ اے علی رضی اللہ عنہ جلدی کرو میری پیٹھ ٹوٹی جاتی ہے۔

ابن جریج سے مروی ہے کہ میں نے ابو جعفر کو کہتے سنا کہ نبی ﷺ کے حصہ زیریں کے غسل کے منتظم علی رضی اللہ عنہ تھے۔

سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ کے غسل کے وقت آپؐ سے بھی وہ چیز تلاش کی جو میت سے تلاش کی جاتی ہے (یعنی بول و راز جو میت کا پیٹ سوت کر نکالا جاتا ہے) مگر انہوں نے کچھ نہ پایا تو کہا میرے ماں باپ آپؐ پر فدا ہوں آپؐ حیات میں بھی پاک تھے اور وفات میں بھی پاک ہیں۔

تکفین مصطفیٰ ﷺ

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب نبی ﷺ کی وفات ہوئی تو آپؐ کو تین سفید سوتی یعنی کپڑوں میں کفن دیا گیا، جن میں نہ عمامہ تھا نہ کرتا۔

عبداللہ بن نمیر کی حدیث میں عروہ نے کہا ”لیکن حلہ“ (جوڑہ یا چادر تہبند یا یمنی) لوگوں کو شہ ہوا کہ وہ نبی ﷺ کے لیے خرید گیا ہے، تاکہ اس میں آپؐ کو کفن دیا جائے پھر وہ چھوڑ دیا گیا، اور آپؐ کو تین سفید سوتی کپڑوں میں کفن دیا گیا۔

عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اس حلے کو عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے لے لیا، انہوں نے کہا میں اسے رکھے رہوں گا تاکہ مجھے اس میں کفن دیا جائے پھر انہوں نے کہا کہ اگر اسے اللہ اپنے نبی کے لیے پسند کرتا تو ضرور اس میں آپؐ کو کفن دلواتا، انہوں نے اسے

فروخت کر دیا اور اس کی قیمت خیرات کر دی۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو تین سوتی کپڑوں میں کفن دیا گیا جن میں نہ کرتہ تھا نہ عمامہ۔
عائشہ رضی اللہ عنہا سے (دوسرے سلسلہ روایت سے) مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو تین سوتی کپڑوں میں کفن دیا گیا جن میں نہ کرتہ تھا نہ عمامہ۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو تین سوتی روئی کے کپڑوں میں کفن دیا گیا جن میں نہ کرتا تھا نہ عمامہ۔
یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب بیمار تھے تو انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا انہوں نے جواب دیا کہ آپ کو تین سفید سوتی کپڑوں میں کفن دیا گیا۔
یعقوب بن زید سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کو تین سفید سوتی کپڑوں میں کفن دیا گیا جن میں نہ کرتا تھا نہ عمامہ۔
ابو قلابہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کو تین یمنی سوتی کپڑوں میں کفن دیا گیا۔

ابو قلابہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو تین بے جوڑ یمنی سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا۔
علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو تین روئی کے سوتی کپڑوں میں کفن دیا گیا جس میں نہ کرتا تھا نہ عمامہ۔
عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو تین سوتی کپڑوں میں کفن دیا گیا۔
ابو قلابہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کو تین بے جوڑ سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا۔
قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیا۔

عبدالرحمن بن القاسم سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ شعبہ نے کہا کہ آپ سے کس نے بیان کیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے اسے محمد بن علی سے سنا۔

ابو اسحاق سے مروی ہے کہ میں اولاد عبدالمطلب کی مجلس کی طرف بھیجا گیا جو بکثرت جمع تھے میں نے کہا کہ نبی ﷺ کو کس چیز میں کفن دیا گیا تو انہوں نے کہا تین کپڑوں میں کفن دیا گیا، جن میں نہ قباحتی نہ کرتہ نہ عمامہ۔

مکحول سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو تین سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا۔

سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے (متعدد سلسلہ روایت سے) مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو دو بے جوڑ اور ایک نجرانی چادر میں کفن دیا گیا۔

سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ اور ابوسلمہ بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیا دو سفید کپڑے تھے اور ایک چادر حبرہ (یمنی) تھی۔

علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے (دو سلسلہ روایت سے) مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیا، جن میں ایک چادر حبرہ تھی۔

جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیا جن میں دو صحاری کپڑے

تھے۔ اور ایک حمرہ۔

جعفر کہتے تھے کہ مجھے میرے والد نے اسی کی وصیت کی اور کہا کہ اس پر ہرگز کچھ اضافہ نہ کرنا، محمد بن سعد (مؤلف کتاب) کہتے ہیں کہ میں بھی (یہی) خیال کرتا ہوں۔

محمد بن علی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیا جن میں ایک حمرہ تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے (بمسلسلہ روایت) مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو دو سفید کپڑوں اور ایک سرخ چادر میں کفن دیا گیا۔ ابی اور زہری سے مروی ہے کہ ان دونوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیا جن میں ایک چادر حمرہ تھی۔

تین چادروں میں کفن:

عامر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو تین یعنی موٹی چادروں میں کفن دیا گیا، جن میں ایک تہبند ایک کرۃ ایک لفافہ تھا۔

ابو اسحاق سے مروی ہے کہ میں نبی عبدالمطلب کے بوڑھوں کے پاس آیا ان سے پوچھا کہ کس چیز میں رسول اللہ ﷺ کو کفن دیا گیا، انہوں نے کہا کہ سرخ حلہ (جوڑا) اور ایک قطیفہ (چادر) میں۔

حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کو ایک قطیفہ (چادر) اور حمرہ کے جوڑے میں کفن دیا گیا۔ ابراہیم سے (بہدوسلسلہ روایت) مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو حلے اور کرتے میں کفن دیا گیا فضل و طلق کی حدیث میں حلہ یمانہ ہے (حلہ چادر و تہبند کے مجموعے کا نام ہے)۔

حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو حلہ حمرہ اور کرتے میں کفن دیا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو سرخ نجرانی حلے میں کہ جسے آپ پہنتے تھے اور ایک کرتے میں کفن دیا گیا۔

ضحاک بن مزاحم سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو دو سرخ چادروں میں کفن دیا گیا۔ ابو اسحاق سے مروی ہے کہ وہ مدینے میں نبی عبدالمطلب کے چچہ میں آئے انہوں نے ان کے بوڑھوں سے دریافت کیا کہ کس چیز میں رسول اللہ ﷺ کو کفن دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ دو سرخ کپڑوں میں جن کے ہمراہ کرۃ نہ تھا۔ محمد بن علی بن الحنفیہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی ﷺ کو سات کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ مجاہد سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کو دو سوتی کپڑوں میں کفن دیا گیا جن کو معاذ یمن سے لائے تھے۔ ابو عبد اللہ محمد بن سعد (مؤلف کتاب) نے کہا کہ یہ روایت وہم ہے رسول اللہ ﷺ کی وفات کے وقت معاذ یمن میں تھے۔ (وہ وہاں سے واپس نہیں آئے تھے جو چادریں لاتے)۔

عبد اللہ بن عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کو حلہ حمرہ میں کفن دیا گیا، پھر وہ اتار ڈالا گیا اور سفید کپڑوں میں کفن

دیا گیا، عبد اللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس حلے نے رسول اللہ ﷺ کی جلد کو مس کیا ہے، مجھ سے یہ جدا نہ ہوگا یہاں تک کہ مجھے اسی میں کفن دیا جائے، وہ اسے رکھے رہے پھر انہوں نے کہا کہ اگر اس حلے میں کوئی خیر ہوتی تو ضرور اللہ تعالیٰ اسے اپنے نبی کے لیے اختیار کرتا، مجھے اس کی حاجت نہیں، لوگوں کو ان کی پہلی رائے سے بھی تعجب ہوا اور دوسری رائے سے بھی۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے کفن میں عمامہ نہ تھا۔

ایوب سے مروی ہے کہ ابو قلابہ نے کہا کہ کیا تمہیں ان لوگوں کو ہمارے سامنے رسول اللہ ﷺ کے کفن میں اختلاف کرنے سے تعجب نہیں ہے۔

جسد رسالت پر حنوط (خوشبو) کا استعمال:

حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے حنوط لگایا گیا (حنوط ایک مرکب خوشبو ہے جو میت کے کفن میں لگائی جاتی ہے)۔

ہارون بن سعد سے مروی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس مشک تھی انہوں نے وصیت کی کہ ان کے حنوط لگایا جائے، علی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ مشک رسول اللہ ﷺ کے حنوط سے بچی ہوئی ہے۔

جابر سے مروی ہے کہ میں نے ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ آیا رسول اللہ ﷺ کے حنوط لگایا گیا تو انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔

رسول اللہ ﷺ کی نماز جنازہ:

حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ کو لوگوں نے غسل دیا، کفن پہنایا اور حنوط لگایا پھر آپ کو ایک تابوت میں رکھ دیا گیا، اور مسلمانوں کے گروہ گروہ کر کے لائے گئے جو کھڑے ہو کر آپ پر نماز پڑھتے تھے، پھر وہ باہر چلے جاتے تھے اور دوسرے داخل ہوتے تھے یہاں تک کہ سب لوگوں نے آپ پر نماز پڑھ لی۔

عبدالرحمن بن حرمہ سے مروی ہے کہ انہوں نے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی تو آپ کو تابوت پر رکھ دیا گیا، لوگ گروہ گروہ ہو کر آپ کے پاس آتے تھے آپ پر نماز پڑھتے تھے اور باہر ہو جاتے تھے کسی نے ان کی امامت نہیں کی۔

ابن شہاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک تابوت پر رکھ دیئے گئے، مسلمان گروہ گروہ کر کے داخل ہوتے تھے اور اس طرح آپ پر نماز و سلام پڑھتے تھے کہ ان کا کوئی امام نہ تھا۔

زہری سے مروی ہے کہ ہمیں معلوم ہوا کہ لوگ گروہ گروہ ہو کر داخل ہوتے تھے رسول اللہ ﷺ پر نماز پڑھتے تھے اور آپ کی نماز جنازہ میں ان کی امامت کسی نے نہیں کی۔

ابو عیم سے جو اس موقع پر حاضر تھے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ ہم کس طرح آپ کی نماز جنازہ پڑھیں، جواب ملا کہ اس دروازے سے باہر چلے جاؤ۔

ابو حازم المدنی سے مروی ہے کہ جب نبی ﷺ کو اللہ نے اٹھالیا تو مہاجرین گروہ گروہ ہو کر داخل ہوئے آپ پر نماز پڑھتے تھے اور باہر چلے جاتے تھے پھر اسی طریقے پر انصار داخل ہوئے پھر اہل مدینہ یہاں تک کہ جب مرد فارغ ہو گئے تو عورتیں داخل ہوئیں ان سے کسی ایسے طریقے پر آواز و فریاد ہوئی جیسی ان سے ہوتی ہے تو انہوں نے گھر میں ایک دھماکے کی آواز سنی جس سے وہ منتشر ہو گئیں اور ساکت ہو گئیں یکا یک کسی کہنے والے نے کہا کہ ”اللہ کے نام میں ہر مرنے والے سے تسلی ہے ہر مصیبت کا عوض ہے ہر فوت شدہ کا بدلہ ہے مجبور وہ ہے جس کا نقصان ثواب نے پورا کر دیا ہو اور مصیبت زدہ وہ ہے جس کا نقصان ثواب نے پورا نہ کیا ہو۔

ابی بن عباس بن سہل بن سعد الساعدی نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی تو آپ اپنے کفنوں میں رکھ دیئے گئے پھر آپ کو تابوت پر رکھا گیا لوگ ایک ایک گروہ ہو کر آپ پر نماز پڑھتے تھے ان کا امام کوئی نہ تھا پہلے مرد داخل ہوئے انہوں نے نماز پڑھی پھر عورتیں۔

عبد الحمید بن عمران بن ابی النیس نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنی والدہ سے روایت کی کہ میں بھی ان لوگوں میں تھی جو نبی ﷺ پر داخل ہوئے آنحضرت ﷺ اپنے تابوت پر تھے ہم عورتیں صف بہ صف ہو کر کھڑی ہوتی تھیں ہم دعا کرتے تھے اور آپ پر نماز پڑھتے تھے آپ شب چہار شبہ کو مدفون ہوئے۔

موسیٰ بن محمد بن ابراہیم بن الحارث الیتمی سے مروی ہے کہ میں نے یہ مضمون ایک کاغذ میں پایا جس میں میرے والد کا خط ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کو کفن دے دیا گیا اور آپ اپنے تابوت پر رکھ دیئے گئے تو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما داخل ہوئے دونوں نے کہا: ”السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ“ ان دونوں کے ہمراہ اس قدر جماعت مہاجرین و انصار کی تھی جس قدر گھر میں گنجائش تھی انہوں نے بھی اسی طرح سلام کیا جس طرح ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے سلام کیا سب نے اس طرح چند صفیں بنالیں کہ اس پر ان کا امام کوئی نہ تھا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے جو رسول اللہ ﷺ کے قریب ہی صف اول میں تھے کہا۔

اے اللہ ہم لوگ گواہی دیتے ہیں کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا آپ نے پہنچا دیا آپ نے اپنی امت کی خیر خواہی کی راہ خدا میں جہاد کیا یہاں تک کہ اللہ نے اپنے دین کو غالب کر دیا اور اس کے کلمات پورے ہو گئے آپ اسی پر ایمان لائے جو کہتا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں اے ہمارے معبود ہمیں بھی ان لوگوں میں کر جو اس کلام کی پیروی کریں جو آپ کے ہمراہ نازل کیا گیا۔ اس طرح ہمیں اور آپ کو جمع کر دے کہ آپ ہمیں پہچان لیں اور ہم آپ کو پہچان لیں بے شک آپ مومنین کے ساتھ بڑے مہربان اور رحم کرنے والے تھے ہم ایمان کے عوض میں بدل نہیں چاہتے اور نہ ہم کبھی اس کے عوض میں قیمت چاہتے ہیں۔

لوگ آمین آمین کہہ رہے تھے ایک گروہ نکلتا تھا تو دوسرا داخل ہوتا تھا یہاں تک کہ مردوں نے آپ پر نماز پڑھ لی پھر عورتوں نے اور بچوں نے جب نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ کے مقام قبر میں انہوں نے گفتگو کی۔

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سب سے پہلے جس نے نبی ﷺ پر نماز پڑھی وہ عباس بن عبد المطلب اور بنی ہاشم تھے وہ باہر آئے اور مہاجرین و انصار داخل ہوئے پھر گروہ گروہ ہو کر اور لوگ جب مرد پڑھ چکے تو صفیں بنا کے بچے آپ کے

پاس داخل ہوئے بعد کو عورتیں عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی مثل حدیث ابن ابی سبرہ (جو اوپر مذکور ہے) مروی ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ دو شنبہ کو آفتاب ڈھلنے سے سہ شنبہ کو آفتاب ڈھلنے تک تابوت میں رہے لوگوں نے آپ کے تابوت پر جو آپ کی قبر کے کنارے سے قریب تھا نماز پڑھی جب انہوں نے آپ کو قبر میں اتارنے کا ارادہ کیا تو تابوت کو آپ کے پاؤں کی جانب سرکا دیا اور اسی جگہ سے آپ داخل کر دیئے گئے آپ کی قبر میں عباس بن عبدالمطلب فضل بن عباس، ثمام بن ابی طالب اور شقران رضی اللہ عنہم داخل ہوئے۔

علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ تابوت میں رکھ دیئے گئے تو میں نے کہا کہ کوئی شخص آپ کے آگے کھڑا نہ ہو شاید وہی تمہاری امامت کریں جو تمہارے زندہ و مردہ کے امام تھے لوگ ایک ایک گروہ کر کے داخل ہوتے تھے اور ایک ایک صف کر کے اس طرح آپ پر نماز پڑھتے تھے کہ ان کا کوئی امام نہ تھا لوگ تکبیر کہہ رہے تھے اور میں رسول اللہ ﷺ کے قریب کھڑا ہوا یہ کہہ رہا تھا:

(سلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته اللهم انا نشهد ان قد بلغ ما انزل الله ونصح لامته وجاهد في سبيل الله حتى اعز الله دينه وتمت كلمته اللهم فاجعلنا ممن يتبع ما انزل الله اليه و ثبتنا بعده واجمع بيننا وبينه).

”اے نبی سلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا وہ آپ نے پہنچا دیا اور اپنی امت کی خیر خواہی کی اللہ کے راستے میں یہاں تک جہاد کیا کہ اللہ نے اپنا دین غالب کر دیا اور اس کی بات پوری ہو گئی اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں کر جو لوگ کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا اس کی پیروی کرتے ہیں آپ کے بعد ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہمیں آپ کو جمع کر دے۔“

لوگ آمین آمین کہہ رہے تھے یہاں تک کہ مردوں نے آپ پر نماز پڑھی پھر عورتوں نے اور بچوں نے۔

عمر بن محمد بن عمرو نے اپنے والد سے روایت کی کہ سب سے پہلے جو لوگ رسول اللہ ﷺ کے پاس گئے وہ بنی ہاشم تھے پھر مہاجرین اور انصار پھر اور لوگ یہاں تک کہ وہ فارغ ہو گئے تو عورتیں اور بچے۔

جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ پر بغیر امام کے اس طرح نماز پڑھی گئی کہ مسلمان گروہ گروہ ہو کر پاس آتے نماز پڑھتے جب فارغ ہوتے تو عمر رضی اللہ عنہ ندا دیتے کہ جنازہ اور اہل جنازہ کو چھوڑ دو۔
روضۃ انور (آرام گاہ رسالت مآب ﷺ):

عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی تو آپ کے اصحاب باہم مشورہ کرنے لگے کہ آپ کو کہاں دفن کریں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کو وہیں دفن کرو جہاں اللہ نے آپ کو وفات دی فرش اٹھایا گیا اور آپ اس کے نیچے دفن کیے گئے۔

ابی سلمہ بن عبد الرحمن و یحییٰ بن عبد الرحمن بن حاطب سے مروی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کہاں دفن

کیے جائیں، کسی کہنے والے نے کہا کہ منبر کے پاس، کسی نے کہا کہ جہاں نماز پڑھتے تھے اور لوگوں کی امامت کرتے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ وہاں دفن کیے جائیں گے جہاں اللہ نے آپ کو وفات دی، بستر بٹا دیا گیا اور اس کے نیچے آپ کی قبر کھودی گئی۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب نبی ﷺ کی وفات ہوئی تو لوگوں نے کہا آپ کہاں مدفون ہوں، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسی مکان میں جس میں آپ کی وفات ہوئی۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب سہ شنبہ کو رسول اللہ ﷺ کی تجہیز (غسل و کفن) سے فراغت ہو گئی تو آپ کو آپ کے مکان میں ایک تابوت میں رکھ دیا گیا، مسلمانوں نے آپ کے دفن میں اختلاف کیا ایک شخص نے کہا کہ آپ کو مسجد نبوی میں دفن کر دو دوسرے نے کہا کہ آپ کو اپنے اصحاب کے پاس بقیع میں دفن کر دو، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے سنا کہ جس نبی کی وفات ہوئی وہ اسی مقام پر مدفون ہوا جہاں اس کی روح قبض کی گئی نبی ﷺ کا وہ بستر اٹھایا گیا جس پر آپ کی وفات ہوئی تھی اور اسی کے نیچے آپ کی قبر کھودی گئی۔

یحییٰ بن ہماہ سے جو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے مروی ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جسم وہیں مدفون ہوتے ہیں جہاں ارواح قبض کی جاتی ہیں۔

ابن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ جس نبی کو وفات دیتا ہے وہ ہمیشہ اسی مقام پر مدفون ہوتا ہے جہاں اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔

عمر بن ذر سے مروی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ”میں نے اپنے خلیل (ﷺ) کو کہتے سنا کہ جو نبی جس مکان میں مرا وہ ہمیشہ اسی مکان میں دفن کیا گیا میں نے ابن ذر سے کہا کہ آپ نے اسے کس سے سنا تو انہوں نے کہا میں نے ابو بکر بن عمر بن حفص سے ان شاء اللہ سنا۔

مالک بن انس سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو منبر کے پاس دفن کیا جائے دوسروں نے کہا کہ آپ کو بقیع میں دفن کیا جائے، ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے سنا کہ ہر نبی اپنے اسی مکان میں دفن ہوتا جہاں اللہ نے اس کی روح قبض کی ہے، پھر رسول اللہ ﷺ کو اس مقام سے چٹایا گیا جہاں آپ کی وفات ہوئی تھی اور وہاں آپ کی قبر کھودی گئی۔

سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ تین چاند ہیں جو میرے حجرے میں گر پڑے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا بہت اچھا ہے، یحییٰ (راوی) نے کہا کہ پھر میں نے لوگوں کو بیان کرتے سنا کہ رسول اللہ ﷺ کی جب وفات ہوئی اور آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں دفن کیے گئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ یہ تمہارے تین چاندوں میں سے ایک ہیں اور ان میں سب سے بہتر ہیں۔

قاسم بن عبد الرحمن سے مروی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے حجرے میں تین چاند دیکھے، میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی تو انہوں نے کہا کہ تم نے اس کی کیا تعبیر لی میں نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ سے بیٹے اس کی تعبیر لی،

ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی تو وہ ان کے پاس آئے اور کہا کہ تمہارے بہترین چاند کو تو پہنچا دیا گیا پھر ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما دونوں انہیں کے مکان میں دفن کیے گئے۔

موسیٰ بن داؤد سے مروی ہے کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا مکان دو حصوں پر تقسیم کیا گیا، ایک حصہ وہ ہے جس میں نبی ﷺ کی قبر تھی اور دوسرا حصہ وہ جس میں عائشہ رہتی تھیں، دونوں حصوں کے درمیان ایک دیوار تھی، عائشہ رضی اللہ عنہا ایسا کرتی تھیں کہ اکثر جہاں قبر ہے رات کے سونے کے کپڑوں میں اندر چلی جاتی تھیں، جب عمر رضی اللہ عنہ دفن کر دیئے گئے تو وہ بغیر اس کے اندر نہ گئیں کہ اپنے پورے کپڑے پہنے ہوتی تھیں۔

عبدالرحمن بن عثمان بن ابراہیم سے مروی ہے کہ میں نے اپنے والد کو بیان کرتے سنا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس مقام پر جہاں ان کے والد رسول اللہ ﷺ کے ساتھ دفن ہوئے تھے اپنا نقاب کھول دیتی تھیں، جب عمر رضی اللہ عنہ دفن ہوئے تو وہ نقاب ڈال لیتی تھیں، پھر انہوں نے نقاب کو سر سے علیحدہ نہیں گرایا۔

حماد بن زید نے عمرو بن دینار اور عبید اللہ بن ابی یزید کو کہتے سنا کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں نبی ﷺ کے مکان پر دیوار نہ تھی، سب سے پہلے جنہوں نے اس پر دیوار بنائی وہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تھے، عبید اللہ بن ابی یزید نے کہا کہ ان کی دیوار چھوٹی تھی، اسے عبداللہ بن زبیر نے بنایا اور بڑھایا۔

رسول اللہ ﷺ کی لحد مبارک:

جریر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لحد (بغلی قبر) ہمارے لیے ہے اور شق (سیدھی قبر) ہمارے اغیار کے لیے، کعب کی روایت میں ہے کہ شق اہل کتاب کے لیے، اور فضل بن دکین کی حدیث میں ہے کہ شق ہمارے اغیار کے لیے ہے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ مدینے میں دو آدمی تھے جو قبریں کھودتے تھے۔ ایک ان میں سے لحد (بغلی قبر) کھودتا تھا اور دوسرا شق (سیدھی قبر) لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کے لیے کون سی قبر مناسب ہوگی، تو کسی نے کہا انتظار کرو ان دونوں گورکن میں سے جو پہلے آئے وہی اپنا عمل کرے، پھر وہی آیا جو لحد کھودتا تھا رسول اللہ ﷺ کے لیے لحد کھودی گئی۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ مدینے میں دو قبر کھودنے والے تھے ایک لحد کھودتا تھا اور دوسرا شق، لوگوں نے انتظار کیا کہ ان میں سے کون آتا ہے، پھر وہ آیا جو لحد کھودتا تھا رسول اللہ ﷺ کے لیے لحد کھودی گئی۔

یحییٰ بن عبدالرحمن بن حاطب سے مروی ہے کہ قبر کھودنے کے لیے ابو طلحہ کو اور اہل مکہ میں سے ایک شخص کو بلا بھیجا گیا، اہل مکہ شق کھودتے تھے اور اہل مدینہ لحد کھودتے تھے، ابو طلحہ آئے اور انہوں نے آپ کے لیے لحد کھودی۔

محمد بن المنکدر سے مروی ہے کہ جب نبی ﷺ کی وفات ہوئی تو لوگوں نے دو گورکنوں کو بلا بھیجا، ایک وہ جو شق کھودتا تھا اور دوسرا لحد کھودتا تھا، وہ آیا جو لحد کھودتا تھا اس لیے رسول اللہ ﷺ کے لیے لحد کھودی گئی۔

قاسم سے مروی ہے کہ مدینے میں ایک شخص شق کھودتا تھا اور دوسرا لحد، جب نبی ﷺ کی وفات ہوئی تو اصحاب جمع ہوئے

انہوں نے دونوں گورکتوں کو بلا بھیجا اور کہا کہ اے اللہ آپ کے لیے انتخاب کر پہلے وہ آیا جو لحد کھودتا تھا۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ مدینے میں دو گورکن تھے ایک ان میں سے ضریح (سیدھی قبر) کھودتا تھا اور دوسرا لحد جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ ان دونوں میں سے جو پہلے آئے گا ہم اسے حکم دیں گے کہ نبی ﷺ کے لیے قبر کھودے پہلے وہ آیا جو لحد کھودتا تھا ہشام نے کہا کہ میرے والد اس شخص سے تعجب کرتے تھے جو ضریح میں دفن کیا جاتا تھا حالانکہ رسول اللہ ﷺ لحد میں مدفون ہوئے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ مدینے میں دو شخص تھے ایک لحد کھودتا تھا، دوسرا لحد نہیں کھودتا تھا، لوگوں نے کہا کہ ان دونوں میں جو پہلے آئے گا وہ اپنا کام کرے گا، پہلے وہ شخص آیا جو لحد کھودتا تھا، اس نے رسول اللہ ﷺ کے لیے لحد کھودی۔ حسن بن علیؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے لیے لحد کھودی گئی۔

اسماعیل بن محمد بن سعد سے مروی ہے کہ سعد سے کہا گیا کہ ہم لوگ آپ کے لیے لکڑیاں مہیا کریں جس میں آپ ﷺ کو دفن کریں، تو انہوں نے کہا نہیں، میرے لیے لحد کھودو جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کے لیے لحد کھودی گئی۔

یعقوب بن زید وغفرہ کے آزاد کردہ غلام عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے لیے لحد کھودی گئی۔

جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ جنہوں نے نبی ﷺ کے لیے لحد کھودی وہ ابو طلحہ تھے۔

عامر بن سعد بن ابی وقاص سے مروی یہ کہ جب سعد کا وقت وفات آیا تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے لحد کھودو اور مجھ پر کچھ اینٹ نصب کرو جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کیا گیا۔

علی بن حسین بن علیؓ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کے لیے لحد کھودی گئی اور آپ کی لحد پر کچی اینٹ نصب کی گئی۔

علی بن حسین بن علیؓ سے (دوسرے سلسلے سے) مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے لیے لحد کھودی گئی اور آپ کی لحد پر کچی اینٹ نصب کی گئی۔

علی بن حسین بن علیؓ سے (ایک اور سلسلے سے) مروی ہے کہ کھودنے میں تو نبی ﷺ کے لیے لحد کھودی گئی اور نصب کرنے میں آپ کی لحد پر کچی اینٹ نصب کی گئی۔

قاسم بن محمد سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے لیے لحد کھودی گئی اور آپ کی لحد پر کچی اینٹیں نصب کی گئیں۔ شعبی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے لیے لحد کھودی گئی اور آپ کی لحد پر کچی اینٹیں لگائی گئیں۔ عاصم الاحول سے مروی ہے کہ میں نے عامر سے نبی ﷺ کی قبر کو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ لحد ہے۔

عاصم سے مروی ہے کہ میں نے شعبیؓ سے کہا کہ نبی ﷺ کے لیے ضریح کھودی گئی یا لحد انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے لحد کھودی گئی اور آپ کی قبر میں کچی اینٹیں لگائی گئیں۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے لیے لحد بنائی گئی آپ قبل کی جانب سے داخل کیے گئے اور آپ کو سر کی طرف سے نہیں اتارا گیا۔

سالم بن عبد اللہ بن عمر سے مروی ہے کہ یہ تین قبریں رسول اللہ ﷺ، ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی سب کچی اینٹ سے بنی ہیں اور لحد ہیں، تینوں قبلہ رخ ہیں اور باہم ملی ہوئی ہیں، جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ (اس حدیث کے) سب (راویوں کے) اجداد اسی روضہ میں ہیں۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے لیے قبر کھودنے کا ارادہ کیا تو مدینے میں دو شخص تھے، ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ جو اہل مکہ کے لیے ضریح کھودتے تھے اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کہ اہل مدینہ کے لیے قبر کھودتے تھے اور وہ لحد کھودتے تھے، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دو شخصوں کو بلایا، ایک کو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا، دوسرے کو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اور فرمایا اے اللہ اپنے رسول کے لیے گورکن کا انتخاب فرما، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھی نے ان کو پایا۔ وہ انہیں لے آئے اور انہوں نے آپ کے لیے لحد کھودی۔

ابی طلحہ سے مروی ہے کہ لوگوں نے نبی ﷺ کے لیے شق اور لحد میں اختلاف کیا، مہاجرین نے کہا کہ آپ کے لیے شق کھودو جیسا کہ اہل مکہ کھودتے ہیں، انصار نے کہا کہ لحد کھودو جیسا کہ ہم لوگ اپنے ملک میں کھودتے ہیں، جب اختلاف بڑھا تو انہوں نے کہا اے اللہ اپنے نبی کے لیے قبر کا انتخاب فرما (یہ کہہ کے) انہوں نے ابو عبیدہ اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہما کو بلا بھیجا، کہ ان دونوں میں سے جو پہلے آئے وہ اپنا عمل کرے، پہلے ابو طلحہ آئے انہوں نے کہا واللہ مجھے اُمید ہے کہ اللہ نے اپنے نبی ﷺ کے لیے یہ انتخاب کیا ہے، کیونکہ آپ خود لحد کھود دیکھتے تھے اور اسے پسند فرماتے تھے۔

فرش قبر:

ابو جمرہ سے مروی ہے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کہتے سنا کہ نبی ﷺ کی قبر میں سرخ چادر کا فرش کیا گیا، وکیع نے کہا کہ یہ نبی ﷺ کے لیے خاص تھا (امت کے لیے جائز نہیں)۔

جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ جس شخص نے قبر میں چادر بچھائی وہ مقرران رسول اللہ ﷺ کے مولیٰ تھے۔ حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی قبر میں ایک پرانی سرخ چادر بچھائی گئی جسے آپ اوڑھا کرتے تھے، چادر اس لیے بچھائی گئی کہ زمین تر تھی۔

جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کی قبر میں اس پرانی سرخ چادر کا فرش کیا گیا جسے آپ اوڑھتے تھے۔ عقبہ بن الصہباء سے مروی ہے کہ میں نے حسن رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری لحد میں میری چادر کا فرش کرنا کیونکہ زمین انبیاء کے اجسام پر غالب نہیں کی جاتی۔

قنادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کے نیچے چادر کا فرش بچھایا گیا۔

سلیمان بن یسار سے مروی ہے کہ ایک غلام نبی ﷺ کی خدمت کیا کرتا تھا جب نبی ﷺ دفن کیے گئے تو اس نے اس چادر کو قبر کے کنارے دیکھا جو نبی ﷺ اوڑھا کرتے تھے اس نے اسے قبر میں بچھا دیا اور کہا کہ اسے آپ کے بعد کوئی نہ اوڑھے گا، وہ چھوڑ دی گئی۔

آنحضرت ﷺ کو قبر میں اتارنے والے:

حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو اولاد عبدالمطلب نے قبر میں داخل کیا۔

عامر سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کی قبر میں علی اور فضل اور اسامہ رضی اللہ عنہم داخل ہوئے مجھے مرحب یا ابن ابی مرحب نے خبر دی کہ انہوں نے اپنے ہمراہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بھی قبر میں داخل کیا، کعب کی حدیث میں ہے کہ شعبی رضی اللہ عنہ نے کہا: میت کے ولی صرف اس کے اعزہ ہیں۔

عامر سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کی قبر میں چار آدمی داخل ہوئے، فضل نے اپنی حدیث میں کہا: مجھے اس شخص نے یہ خبر دی جس نے ان چاروں کو دیکھا ہے۔

عامر سے مروی ہے کہ مجھ سے مرحب یا ابن ابی مرحب نے کہا: گویا میں ان چاروں کو دیکھتا ہوں جو نبی ﷺ کی قبر میں اترے تھے ان میں ایک عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کی قبر میں علی اور فضل اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم داخل ہوئے، ان سے ایک انصاری نے جن کا نام خولی یا ابن خولی تھا کہا: تمہیں معلوم ہے کہ میں قبور شہداء میں اترتا تھا، نبی ﷺ تو تمام شہداء سے افضل ہیں، ان لوگوں نے انہیں بھی اپنے ہمراہ داخل کر لیا۔

ابن شہاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو قبر میں انہیں لوگوں نے رکھا جنہوں نے آپ کو غسل دیا، یعنی عباس، علی، فضل رضی اللہ عنہ اور آپ کے مولیٰ صالح، دیگر اصحاب نے آپ کے اعزہ کے لیے راستہ چھوڑ دیا، انہیں لوگوں نے آپ کی تکفین و تدفین کا انتظام کیا۔

موسیٰ بن محمد بن ابراہیم بن الحارث التیمی نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ کی قبر میں علی، فضل بن عباس بن عبدالمطلب، اسامہ بن زید اور اوس بن خولی رضی اللہ عنہم اترے۔

علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی قبر میں وہ خود، عباس، عقیل بن ابی طالب، اسامہ بن زید اور اوس بن خولی رضی اللہ عنہم اترے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو کفن دیا تھا۔

جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ کی قبر میں علی، فضل اور اسامہ رضی اللہ عنہم اترے، لوگ کہتے ہیں کہ صالح اور شقران اور اوس بن خولی رضی اللہ عنہم بھی اترے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی قبر میں علی اور فضل اور شقران رضی اللہ عنہم اترے۔

عبدالرحمن بن عبدالعزیز سے مروی ہے: میں نے عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم سے دریافت کیا کہ رسول اللہ ﷺ کی قبر میں کون اترتا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ کے اعزہ اور ان کے ہمراہ انصاری الحلی میں سے اوس بن خولی رضی اللہ عنہ۔

علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اوس بن خولی نے کہا کہ اے ابوالحسنؑ میں تمہیں اللہ کا اور اپنے اسلامی مرتبے کا واسطہ دلاتا ہوں کہ مجھے نبی ﷺ کی قبر میں اترنے کی اجازت دو، انہوں نے کہا اترؤ میں نے علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ قبر میں

اترنے والے کتنے تھے تو انہوں نے کہا علی بن ابی طالب، فضل بن عباس اور اوس بن خولی رضی اللہ عنہم۔

منغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا اعزاز:

شعیب رضی اللہ عنہ نے منغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی میں کوفے میں لوگوں سے بیان کرتا تھا کہ نبی ﷺ کے ساتھ وقت گزارنے میں سب لوگوں سے آخر ہوں جب نبی ﷺ دفن کر دیئے گئے اور علی رضی اللہ عنہ قبر سے نکل آئے تو میں نے اپنی انگوٹھی (مہر) ڈال دی اور کہا: اے ابوالحسن رضی اللہ عنہ میری انگوٹھی انہوں نے کہا اترو اور اپنی انگوٹھی لے لو میں اترتا انگوٹھی لے لی اور قبر کی کچی اینٹ پر رکھ دی پھر نکل آیا۔

ابی معشر سے مروی ہے کہ مجھ سے بعض مشائخ نے بیان کیا کہ جب علی رضی اللہ عنہ قبر سے باہر آ گئے تو منغیرہ نے اپنی انگوٹھی قبر میں ڈال دی اور علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ میری انگوٹھی علی رضی اللہ عنہ نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اندر جاؤ اور انہیں ان کی انگوٹھی دے دو انہوں نے ایسا ہی کیا۔

ابو عیم نے بھی اسی کی شہادت دی کہ جب رسول اللہ ﷺ قبر میں رکھ دیئے گئے تو منغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ آپ کے پاؤں کی جانب کچھ رہ گیا ہے اگر اسے درست کر دو تو بہتر ہے انہوں نے کہا تم اندر جاؤ اور اسے درست کر دو لوگوں نے ان پر مٹی ڈال دی یہاں تک کہ وہ ان کی نصف پنڈلیوں تک آ گئی وہ نکلے اور کہنے لگے کہ رسول اللہ ﷺ کے حضور میں تم سے زیادہ قریب میرا زمانہ ہے۔

عروہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ لحد میں رکھ دیئے گئے تو منغیرہ بن شعبہ نے قبر میں اپنی انگوٹھی ڈال دی اور کہنے لگے میری انگوٹھی میری انگوٹھی لوگوں نے کہا اندر جا کے اسے لے لو وہ اندر گئے پھر کہا میرے اوپر مٹی ڈال دو انہوں نے ان پر مٹی ڈالی یہاں تک کہ وہ ان کی نصف پنڈلیوں تک آ گئی وہ باہر آئے جب رسول اللہ ﷺ پر مٹی ڈال کے برابر کر دی گئی تو انہوں نے کہا باہر نکلو اور دروازہ بند کر لیا کہنے لگے میرا وقت رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تم سب سے زیادہ قریب ہے لوگوں نے کہا کہ میری جان کی قسم اگر تم نے سب سے آخر میں شرف حضوری کا ارادہ کیا تھا تو اسے حاصل کر لیا۔

عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کی قبر میں سب لوگوں سے زیادہ منغیرہ بن شعبہ کا زمانہ ہے جنہوں نے اپنی انگوٹھی آپ کی قبر میں ڈال دی اور کہا میری انگوٹھی انہوں نے اتر کے اسے لیا اور کہا کہ میں نے اسے صرف اسی لیے ڈالا تھا۔

عبد اللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم سے مروی ہے کہ منغیرہ بن شعبہ نے لوگوں کے نکل آنے کے بعد نبی ﷺ کی قبر میں اپنی انگوٹھی ڈال دی کہ اس میں اتریں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے صرف اسی لیے اپنی انگوٹھی ڈالی کہ آپ کی قبر میں اترو اور لوگ کہیں کہ یہ بھی نبی ﷺ کی قبر میں اترے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تم اس میں کبھی نہیں اترو گے اور انہیں روک دیا۔

عبد اللہ بن محمد بن عمر بن علی رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ تم اس

میں اترے تھے یا تمہاری انگلیوں کی قبر میں ہے اس لیے علی رضی اللہ عنہ خود اترے انہوں نے اس کے گرنے کی جگہ دیکھ لی تھی وہ انہوں نے لے لی اور ان کو دے دی۔

علی بن عبد اللہ بن عباس سے مروی ہے کہ میں نے کہا کہ مغیرہ بن شعبہ کا یہ دعویٰ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سب سے زیادہ ان کا زمانہ گزرا یہ غلط ہے واللہ سب سے قریب تر عبد رسول اللہ ﷺ کے ساتھ قسم بن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے جو قبر میں جتنے لوگ تھے ان میں سب سے چھوٹے تھے اور جو لوگ اوپر چڑھے وہ ان میں سب سے آخر تھے۔

آنحضرت ﷺ کی تدفین:

ابن شہاب سے مروی ہے کہ دو شنبے کو آفتاب ڈھلنے کے بعد رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی انصار کے نوجوانوں کی وجہ سے لوگ آپ کو دفن کرنے سے باز رہے آپ اس وقت تک دفن نہ ہوئے جب تک تہائی رات نہ گزر گئی سوائے آپ کے اقارب کے کوئی شخص کمال رنجیدہ نہ تھا بنی غنم نے جب رسول اللہ ﷺ کی قبر کھودی گئی پھاؤڑوں کی آواز سنی اس وقت وہ لوگ اپنے گھروں میں تھے۔

بنی غنم کے ایک شخص سے مروی ہے کہ ان لوگوں نے پھاؤڑوں کی آواز اس وقت سنی کہ رسول اللہ ﷺ رات کو دفن ہو رہے تھے۔

زہری سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ رات کو دفن کیے گئے بنو لیث نے کہا کہ ہم لوگ اس وقت پھاؤڑوں کی آواز سن رہے تھے کہ رسول اللہ ﷺ رات کو دفن کیے جا رہے تھے۔

مالک بن انس سے مروی ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا زوجہ نبی ﷺ کہا کرتی تھیں کہ مجھے نبی ﷺ کی وفات کی اس وقت تک تصدیق نہیں ہوئی جب تک کہ ابریقوں سے پانی گرنے کی آواز نہ آئی (یعنی جب آپ کو غسل دینے لگے تب یقین آیا کہ واقعی میں آنحضرت ﷺ اپنے خدا سے جا ملے)۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ہمیں رسول اللہ ﷺ کے دفن کا اس وقت تک علم نہیں ہوا جب تک کہ ہم نے سہ شنبہ کو بچھلی شب پھاؤڑوں کی آواز نہ سنی۔

زہری سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ رات کو دفن کیے گئے انصار بنی غنم کے بعض بوڑھوں نے کہا کہ ہم نے شب سہ شنبہ کو آخر شب پھاؤڑوں کی آواز سنی۔

یحییٰ بن عبد الرحمن بن محمد لبیہ نے اپنے دادا سے روایت کی کہ دو شنبے کو آفتاب ڈھلنے کے بعد رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی اور آپ سہ شنبہ کو جب آفتاب ڈھل گیا تو دفن کیے گئے۔

علی رضی اللہ عنہ سے بھی مثل روایت بالا مروی ہے۔

سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ اور ابی سلمہ بن عبد الرحمن سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات دو شنبہ کو ہوئی اور آپ سہ شنبہ کو مدفون ہوئے۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ نبی ﷺ قبر میں قبلے کی طرف سے داخل کیے گئے، نوح بن یزید المذہبی سے مروی ہے کہ ابراہیم بن سعد سے پوچھا گیا کہ: ”کم نزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الارض قال ثلثاً“ (نبی ﷺ زمین میں کتنی گہرائی میں اتارے گئے تو انہوں نے کہا تین گز)۔

قبر پر پانی چھڑکنا:

عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کی قبر پر پانی چھڑکا گیا۔

جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کی قبر پر پانی چھڑکا گیا۔

قبر مصطفیٰ کی ہیئت:

ابوالبراء سے (جو مالک بن اسماعیل کے گمان میں زبیر کے خاندان کے آزاد کردہ غلام ہیں) مروی ہے کہ میں مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ اس مکان میں داخل ہوا جس میں رسول اللہ ﷺ اور ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کی قبر ہے، میں نے ان کی قبور کو مستطیل (لمبا) دیکھا۔

سفیان بن دینار سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ اور ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کی قبروں کو منہم (بہ شکل کوہان شتر) دیکھا۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کی قبر زمین سے کچھ اونچی کر دی گئی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ آپ کی قبر ہے۔

جعفر بن عمر نے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی ﷺ کی قبر ایک بالشت اونچی تھی۔

ابوبکر بن حفص بن عمر بن سعید سے مروی ہے کہ نبی ﷺ اور ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کی قبر منہم تھی جس پر سنگریزے تھے۔

عمرو بن عثمان سے مروی ہے کہ میں نے قاسم بن محمد کو کہتے سنا کہ میں جب چھوٹا تھا تو ان قبروں پر آیا، ان پر سرخ سنگریزے دیکھے۔

ابراہیم بن نوفل بن سعید بن مغیرہ الہاشمی نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ دیوار گر پڑی جو نبی ﷺ کی قبر پر تھی، عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بنانے کا حکم دیا۔ جس وقت وہ بنائی جا رہی تھی تو عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو اور نبی ﷺ کے مکان میں جھاڑو دو، قاسم بن محمد اٹھ کر ان کے پاس گئے اور کہا، خدا آپ کو نیک ہدایت دے، کیا میں بھی جھاڑو دوں؟ انہوں نے کہا ہاں، تم بھی جھاڑو دو، سالم بن عبداللہ نے کہا کہ خدا آپ کو نیک بنائے کیا میں بھی جھاڑو دوں؟ انہوں نے کہا، تم سب بیٹھو اور اے مزاحم تم کھڑے ہو اور جھاڑو دو، مزاحم اٹھے انہوں نے اس میں جھاڑو دی۔

مسلم نے کہا کہ یہ امر اب ثابت ہو گیا ہے کہ وہ مکان جس میں نبی ﷺ کی قبر ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کا مکان ہے اس کا اور اس کے حجرے کا دروازہ شام کی طرف ہے مکان کی چھت جس طرح تھی وہ اپنے حال پر ہے مکان میں ایک گھڑا اور آپ کا پرانا زین ہے۔

محمد بن عبدالرحمن نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رسول اللہ ﷺ کی قبر کی دیوار گر

پڑی وہ اس زمانے میں ولید کی ولایت میں مدینے کے عامل تھے، میں ان میں پہلا شخص تھا جو کھڑا ہوا میں نے رسول اللہ ﷺ کی قبر کی طرف دیکھا تو اس میں اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی دیوار کے درمیان قریب ایک بالشت سے زائد فاصلہ نہیں ہے، میں سمجھا کہ انہوں نے آپ کو قبلہ کی طرف سے نہیں داخل کیا۔

وفات کے وقت رسول اللہ ﷺ کی عمر:

ربیعہ بن ابی عبد الرحمن سے مروی ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات اس وقت ہوئی جب آپ ساٹھ برس کے تھے۔

ابو غالب الباہلی سے مروی ہے کہ وہ علاء بن زیاد العدوی کے پاس حاضر ہوئے جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دریافت کر رہے تھے کہ اے ابو حمزہ رسول اللہ ﷺ کی عمر وفات کے روز کیا تھی، انہوں نے کہا کہ جس روز آپ کو اللہ نے وفات دی ساٹھ برس پورے ہو گئے تھے اور آپ اس وقت بھی سب سے زیادہ جوان سب سے زیادہ حسین و جمیل اور سب سے زیادہ کیم تھے۔
عروہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ اس وقت مبعوث ہوئے جب آپ چالیس سال کے تھے اور وفات جب ہوئی تو ساٹھ سال کے تھے۔

انس بن مالک نے نبی ﷺ سے روایت کی کہ آپ جب نبی بنائے گئے تو چالیس سال کے تھے، مکے میں آپ دس سال رہے اور مدینے میں دس سال آپ کی داڑھی اور سر میں بیس بال بھی سفید نہ تھے۔

یحییٰ بن جعدہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: اے فاطمہ رضی اللہ عنہا جو نبی مبعوث ہوا، اسے بعثت کے بعد جو عمر دی گئی وہ اس کی عمر کی نصف ہوئی عیسیٰ بن مریم رضی اللہ عنہ چالیس سال کے لیے مبعوث ہوئے اور میں بیس سال کے لیے۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر نبی اپنی نبوت کے قبل کی عمر سے نصف عمر تک زندہ رہتا ہے، عیسیٰ بن مریم اپنی قوم میں چالیس سال رہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے (بہ سہ سلسلہ) سعید بن المسیب، عائشہ، معاویہ رضی اللہ عنہ، جریر جنہوں نے معاویہ بن ابی سفیان سے سنا، ابو جعفر قبیلہ اسلم کے ایک شخص، عائشہ، عبید اللہ بن عتبہ، عامر (دو سلسلوں سے) عبد الرحمن بن قاسم (اپنے والد سے) اور علی بن حسین رضی اللہ عنہ ان سب حضرات سے مروی ہے کہ جس وقت رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی تو آپ وفات کے وقت تریسٹھ برس کے تھے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی تو آپ پینسٹھ سال کے تھے۔ بنی ہاشم کے مولیٰ عمار سے مروی ہے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کہتے سنا کہ رسول اللہ ﷺ کی جب وفات ہوئی تو آپ پینسٹھ سال کے تھے۔

بنی ہاشم کے مولیٰ عمار سے مروی ہے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ جس روز رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی تو کتنے سال ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی قوم میں تمہارا سا آدمی مجھے نہیں دکھائی دیا جس پر یہ سنہ مخفی رہا ہو، میں نے کہا کہ میں نے جب دریافت کیا تو میرے سامنے اختلاف کیا گیا، انہوں نے کہا کیا تم حساب جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، انہوں نے کہا چالیس سال وہ جوڑو جس وقت آپ مبعوث ہوئے اور پندرہ برس کے میں جب آپ پوشیدہ رہتے تھے اور خوف کرتے تھے اور دس سال

آپ کی ہجرت کے مدینے میں۔

انس بن مالک، ابن عمر، ابن عباس، سعید بن المسیب، بسلسلہ دیگر ابن عباس سے، ایک تیسرے سلسلے سے پھر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور دوسرے سلسلے سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مدینے میں دس سال قیام کیا، ابو جمرہ کی حدیث میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ آپ نے مکہ میں تیرہ سال قیام کیا جس میں آپ پر وحی آتی رہی۔ رنج و غم سے صحابہ رضی اللہ عنہم اور اہل بیت کی حالت:

انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی ﷺ کے مرض میں شدت ہوئی تو بے چینی و تکلیف آپ کو بے ہوش کرنے لگی، فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا ”ہائے والد کی بے چینی“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ آج کے بعد تمہارے والد پر کرب نہ ہوگا، جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا: ہائے پدر کہ رب نے آپ کو دعوت دی اسے آپ نے قبول کر لیا، ہائے پدر جنت الفردوس جن کا ٹھکانا ہے، ہائے پدر جبریل کو، ہم آپ کی خبر مرگ سناں گے، ہائے پدر اپنے رب سے کس قدر قریب ہو گئے، جب آپ دفن کر دیئے گئے تو فاطمہ نے کہا: اے انس کیا تم لوگوں کے دل اس سے خوش ہوئے کہ تم رسول اللہ ﷺ پر خاک ڈال دو۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی تو ام ایمن والدہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہا ان سے کہا گیا اے ام ایمن کیا تم رسول اللہ ﷺ پر روتی ہو، انہوں نے کہا، نہیں واللہ میں اس لیے نہیں روتی کہ میں یہ نہیں جانتی کہ آپ ایسی چیز کی طرف گئے جو دنیا سے آپ کے لیے بہتر ہے، میں آسمان کی خبر پر روتی ہوں جو منقطع ہوگی۔

عاصم بن محمد بن زید نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو نبی ﷺ کا بغیر روئے ذکر کرتے نہیں سنا۔ شبل بن علاء نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب نبی ﷺ کا وقت وفات آیا تو فاطمہ رضی اللہ عنہا روئیں، نبی ﷺ نے فرمایا اے پیاری بیٹی نہ روجب میں مروں تو ”انا للہ وانا الیہ راجعون“ کہتا، یہ انسان کے لیے ہر مصیبت کا عوض ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا عوض آپ نے فرمایا میرا بھی۔

ابو جعفر سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ہنستے نہیں دیکھا، سوائے اس کے کہ ان کے منہ کا کنارہ کسی قدر کھل گیا ہو۔

عبدالرحمن بن سعید بن یزید سے مروی ہے کہ ایک روز علی بن ابی طالب رنجیدہ اور چادر اوڑھے ہوئے آئے، ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں رنجیدہ دیکھتا ہوں، علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو مصیبت مجھے لاحق ہوئی وہ تمہیں لاحق نہیں ہوئی، ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا علی رضی اللہ عنہ جو کہتے ہیں سنو! تم سب لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آیاتم نے رسول اللہ ﷺ پر مجھ سے زیادہ غمگین کسی کو دیکھا ہے؟۔

عبداللہ بن عمرو بن العاص سے مروی ہے کہ میں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے سنا کہ ”رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی تو آپ کے اصحاب میں سے بعض کو آپ کا اس قدر غم ہوا کہ قریب تھا کہ ان کی عقل پر بن جائے، میں بھی انہیں میں تھا، جن کو آپ کا غم تھا، اس وقت جب کہ میں مدینے کے قلعوں میں سے کسی قلعے میں بیٹھا ہوا تھا اور ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بیعت ہو چکی تھی تو میرے پاس سے

عمر رضی اللہ عنہ گزرے میں نے اپنے غم کی وجہ سے ان کا خیال بھی نہ کیا، عمر رضی اللہ عنہ چلے گئے یہاں تک کہ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے کہا اے خلیفہ رسول اللہ ﷺ کیا میں آپ کو تعجب میں نہ ڈالوں؟ میں عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا، انہیں سلام کیا۔ مگر انہوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔

ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا، دونوں میرے پاس آئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا، اے عثمان! تمہارے بھائی میرے پاس آئے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ تمہارے پاس سے گزرے اور سلام کیا، مگر تم نے انہیں جواب نہ دیا، کیا بات ہے جس نے تمہیں اس امر پر برا بیچنے کیا، میں نے کہا اے خلیفہ رسول اللہ ﷺ میں نے ایسا نہیں کیا، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں نہیں واللہ، مگر اے بنی امیہ یہ تمہارا حصہ ہے میں نے کہا واللہ مجھے خبر بھی نہ ہوئی کہ تم میرے پاس سے گزرے اور نہ اس کی کہ تم نے مجھے سلام کیا۔

ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تم سچ کہتے ہو، واللہ میں گمان کرتا ہوں کہ تم کسی ایسے امر میں مشغول تھے جو تم اپنے دل میں کہہ رہے تھے، میں نے کہا ہاں، پوچھا، وہ کیا بات تھی، میں نے کہا رسول اللہ ﷺ کی وفات ہو گئی اور میں نے اس امت کی نجات کے وسیلے کو بھی آپ سے نہ پوچھا کہ وہ کیا ہے، اسی کو میں اپنے دل میں کہہ رہا تھا، اور اس معاملے میں اپنی کوتاہی پر تعجب کر رہا تھا۔

ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اس کو آپ سے دریافت کر لیا ہے، اور آپ نے مجھے بتا دیا ہے میں نے پوچھا وہ کیا ہے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے آپ سے دریافت کیا یا رسول اللہ اس امت کی نجات کا وسیلہ کیا ہے، آپ نے فرمایا: جو شخص مجھ سے اس کلمے کو قبول کر لے جو میں نے اپنے چچا (ابوطالب) کے سامنے پیش کیا تھا، مگر انہوں نے مجھ ہی کو واپس کر دیا، وہ ان کے لیے باعث نجات تھا، وہ کلمہ شہادت جسے میں نے اپنے چچا پر پیش کیا یہ ہے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ (بے شک محمد کو اللہ نے رسول بنایا)۔

عطاء بن یسار سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے مرض موت میں ازواج آپ کے پاس جمع ہوئیں، آپ کی زوجہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یا نبی اللہ میں چاہتی تھی کہ جو تکلیف آپ کو ہے وہ مجھے ہو جاتی اور آپ اچھے ہو جاتے، نبی ﷺ کی ازواج نے ان پر چشم نمائی کی، آنحضرت ﷺ نے یہ دیکھ لیا، فرمایا تم لوگ کلی کرو، انہوں نے کہا کس وجہ سے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا: تم نے اپنی ساتھ والی کی چشم نمائی کی، واللہ وہ سچی ہیں۔

قاسم بن محمد سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے ایک صحابی کی نظر جاتی رہی، ان کے پاس اصحاب عیادت کے لیے گئے، انہوں نے کہا کہ میں ان دونوں آنکھوں کو صرف اس لیے چاہتا تھا کہ ان سے رسول اللہ ﷺ کو دیکھوں، جب اللہ نے اپنے نبی کو اٹھالیا تو بتالے ہر نیاں نظر آنے سے سرست نہیں ہوتی۔

ابن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی ﷺ کی قبر پر ایک کروٹ لیٹ جاتی تھیں، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آپ نکل کر ان کے پاس آئے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا واللہ یہ اس غم کی وجہ سے ہے جس میں میں مبتلا ہوں، آپ کبھی نکل کر میرے پاس نہ آئیں گے، اور انہوں نے یہ ترک کر دیا۔

رسول اللہ ﷺ کی وراثت:

ابوبکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے سنا کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے ہم جو چھوڑیں وہ صدقہ ہے۔ عائشہ، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، زبیر بن العوام، سعد بن ابی وقاص اور عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہم کسی کو وارث نہیں بناتے ہم جو چھوڑیں وہ صدقہ ہے اس سے رسول اللہ ﷺ کی مراد اپنی ذات تھی۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے روایت کی میرے وارث دینا رد رہم تقسیم نہ کریں میں جو کچھ چھوڑوں وہ میری ازواج کے نفقے اور میرے عامل کی تنخواہ کے بعد صدقہ ہے (یعنی وقف ہے)۔

ام ہانی سے مروی ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جب آپ مرے گے تو آپ کا وارث کون ہوگا انہوں نے کہا میری اولاد اور بیوی انہوں نے کہا آپ کو کیا ہوا جو ہمیں چھوڑے آپ نبی (ﷺ) کے وارث بن گئے ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا اے دختر رسول اللہ ﷺ بخدا میں آپ کے والد کا نہ زمین کا وارث ہوں نہ سونے کا نہ چاندی کا اور نہ غلام کا نہ مال کا فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ پھر اللہ کا وہ حصہ (خمس) جو اس نے ہمارے لیے مقرر کیا اور ہمارا وہ مخصوص حصہ جو آپ کے قبضے میں ہے کیا ہوگا اور کسے ملے گا؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے سنا کہ یہ صرف ایک لقمہ ہے جو اللہ نے ہمیں کھلا دیا جب میں مروں گا تو وہ مسلمانوں پر خرچ ہوگا۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ فاطمہ بنت رسول اللہ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس کسی کو بھیج کر رسول اللہ ﷺ کی وہ میراث طلب کی جو اللہ نے اپنے رسول کو بغیر خوریزی کے غنیمت میں دی اس وقت فاطمہ نبی ﷺ کا وہ صدقہ جو مدینے میں تھا اور فدک اور خمس خیبر کا بقیہ بھی طلب کرتی تھیں ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے ہم جو چھوڑیں صدقہ ہے محمد (ﷺ) کے گھر والے اس مال میں صرف کھا سکتے ہیں مالک نہیں ہو سکتے بخدا میں رسول اللہ ﷺ کے صدقات میں جس طرح وہ عہد نبوی میں تھے تغیر نہ کروں گا اس میں رسول اللہ ﷺ نے جو کچھ عمل کیا میں اسے خوب جانتا ہوں ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس میں سے کوئی چیز بھی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دینے سے انکار کیا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ناراض ہو گئیں انہوں نے ان کو چھوڑ دیا ان سے کلام نہ کیا یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی رسول اللہ ﷺ کے بعد وہ چھ مہینے زندہ رہیں۔

جعفر سے مروی ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنی میراث طلب کرنے آئیں عباس بن عبدالمطلب بھی اپنی میراث طلب کرنے آئے ان کے ہمراہ علی رضی اللہ عنہ آئے ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہم کسی کو وارث نہیں بناتے ہم جو چھوڑیں صدقہ ہے اور جو کفالت نبی ﷺ کرتے تھے وہ میرے ذمے ہے علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سلیمان و داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے زکریا علیہ السلام نے (اللہ سے) کہا کہ (مجھے ایسا فرزند عطا کر جو) میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کی میراث کا معاملہ اسی طرح ہے تم تو اللہ اسی طرح جانتے ہو جس طرح میں جانتا ہوں علی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ کتاب اللہ ہے جو بول رہی ہے لوگ خاموش ہو گئے اور واپس گئے۔

زید بن اسلم نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ جب وہ دن ہوا جس میں رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی تو اسی روز ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیعت کر لی گئی دوسرا دن ہوا تو فاطمہ رضی اللہ عنہا، علی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے والد رسول اللہ ﷺ کی میراث مجھے ملنا چاہیے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آیا اسباب خانہ داری سے یا جائیداد سے انہوں نے کہا کہ فدک، خیبر اور صدقات مدینہ کی میں وارث ہوں جیسا کہ جب آپ مریں گے تو آپ کی بیٹیاں آپ کی وارث ہوں گی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بخدا آپ کے والد مجھ سے بہتر تھے آپ واللہ میری بیٹیوں سے بہتر ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے ہم جو کچھ چھوڑیں وہ صدقہ ہے یعنی اموال موجودہ آپ جانتی ہیں کہ آپ کے والد نے وہ آپ کو دے دیا ہے واللہ اگر آپ ہاں کہہ دیں تو میں ضرور ضرور آپ کا قول قبول کروں گا اور ضرور ضرور آپ کی تصدیق کروں گا انہوں نے کہا کہ میرے پاس ام ایمن آئیں اور انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ رسول اللہ ﷺ نے فدک مجھے دیا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر آپ نے بھی آنحضرت کو فرماتے سنا کہ فدک آپ کے لیے ہے اگر آپ کہہ دیں گی کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا ہے کہ فدک آپ کے لیے ہے تو میں آپ کی تصدیق کروں گا فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا جو دلیل میرے پاس تھی اس سے میں آپ کو آگاہ کر چکی۔

عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ آپ نے سوائے اپنی ازواج کے مسکن اور ایک زمین کے کسی چیز کی وصیت نہیں کی۔

عمر بن الحارث جو رسول اللہ ﷺ کے سالے اور آپ کی زوجہ جویریہ کے بھائی تھے مروی ہے کہ واللہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی وفات کے وقت نہ کوئی درہم چھوڑا نہ دینار نہ غلام نہ لونڈی نہ کوئی اور چیز سوائے اپنے سفید خچر، ہتھیار اور ایک زمین کے جسے آپ نے بطور صدقہ (وقف) چھوڑا۔

عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سوائے اپنے سفید خچر، ہتھیار اور ایک زمین کے جسے آپ نے صدقہ کروایا اور کچھ نہ چھوڑا۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک شخص نے ان سے رسول اللہ ﷺ کی میراث کو پوچھا تو انہوں نے کہا تمہارا باپ نہ ہو تم مجھ سے رسول اللہ ﷺ کی میراث پوچھتے ہو حالانکہ آپ کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ نہ آپ نے کوئی دینار چھوڑا نہ درہم نہ غلام نہ لونڈی اور نہ بکری نہ اونٹ۔

علی بن حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ آپ نے نہ دینار چھوڑا نہ درہم اور نہ غلام نہ لونڈی۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ آپ ﷺ نے نہ کوئی دینار چھوڑا نہ درہم نہ غلام نہ لونڈی نہ باندی (ایک زرہ اس حالت میں چھوڑی کہ ایک یہودی کے پاس تیس صاع (تقریباً ۲۸ من) جو کے عوض رہن تھی۔

ایفائے عہد اور آپ ﷺ کے قرض کی ادائیگی:

زید اسلم و عمرو بن عبد اللہ مولائے غفرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات ہو چکی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب ان کے پاس بحرین سے مال آیا، کہا کہ جس شخص کے لیے نبی ﷺ کا وعدہ ہو وہ میرے پاس آئے، جابر بن عبد اللہ الانصاری آئے، انہوں نے کہا کہ نبی ﷺ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب آپ کے پاس بحرین کا مال آئے گا تو آپ مجھ کو اس قدر دیں گے، انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا لے لو، انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے لیا، شمار کیا تو پانچ سو درہم تھے، وہ انہوں نے ان کو دیئے اور ایک ہزار اور بھی، پھر ان کے پاس دوسرے لوگ آئے جن سے رسول اللہ ﷺ نے وعدہ کیا تھا۔ ہر شخص نے وہ لے لیا جو اس سے آپ نے وعدہ کیا تھا، بقیہ مال تقسیم کر دیا گیا، ان میں سے ہر شخص کو دس درہم پہنچے۔

جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس بحرین کا مال آئے گا تو میں تمہیں اس قدر اور اس قدر دوں گا، مگر وہ آپ کے پاس نہیں آیا یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات ہو گئی، جب وہ مال ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا تو انہوں نے کہا کہ جس کے لیے رسول اللہ ﷺ کے پاس وعدہ ہو، وہ آئے جابر نے کہا کہ آنحضرت ﷺ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب آپ کے پاس بحرین کا مال آئے گا تو آپ مجھے اس قدر اور اس قدر دیں گے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا لے لو، میں نے پہلی مرتبہ لیا تو پانچ سو درہم تھے، پھر دوسری مرتبہ اور لیا۔

جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: جب ہمارے پاس بحرین کا مال آئے گا تو میں تمہیں اس قدر اور اس قدر دوں گا، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تین مرتبہ اشارہ کیا، وہ مال ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس شخص کے لیے رسول اللہ ﷺ کے پاس وعدہ ہو وہ ہمارے پاس آئے، میں ان کے پاس آیا تو انہوں نے مجھ سے کہا لے لو، میں نے ایک لپ یا چنگل بھر لیا، میں نے اسے پانچ سو درہم پایا، پھر اسی طرح دوسری مرتبہ اور لیا۔

جابر سے مروی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد خطبہ پڑھا اور کہا کہ جس شخص کے لیے رسول اللہ ﷺ کے پاس وعدہ ہو وہ کھڑا ہو جائے، جابر بن عبد اللہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب بحرین کا مال آئے گا تو میرے لیے تین مرتبہ لپ بھر کر دیا جائے گا، پھر انہوں نے ان کے لیے تین مرتبہ لپ بھر دیا۔

جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لپ بھر لو، میں نے پہلی مرتبہ لپ بھر تو اسے پانچ سو پایا، پھر انہوں نے کہا کہ اتنا ہی دوبارہ لپ بھر لو، میں نے ایسا ہی کیا۔

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے منادی کو جب بحرین کا مال آیا تو یہ ندا دیتے سنا کہ جس شخص سے رسول اللہ ﷺ نے کوئی وعدہ کیا ہو تو وہ آئے، لوگ ان کے پاس آتے تھے اور وہ انہیں دیتے تھے، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، جب ہمارے پاس کچھ آئے گا تو ہمارے پاس آنا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں دو یا تین لپ بھر کر دیا تو انہوں نے اسے چودہ سو درہم پایا۔

جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کا قرض ادا کیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کے وعدے پورے کیے۔

عبدالواحد بن ابی عون سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہو گئی تو علی رضی اللہ عنہ نے ایک پکارنے والے کو حکم دیا کہ وہ پکارے کہ جس شخص کے لیے رسول اللہ ﷺ کا وعدہ یا قرض ہو وہ میرے پاس آئے وہ ہر سال یوم الحرمین میں جمرہ عقبہ کے پاس کسی کو بھیجتے تھے جو یہ بات پکار دئے یہاں تک کہ علی رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی، حسن بن علی رضی اللہ عنہ یہی کرتے تھے یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی پھر حسین رضی اللہ عنہ یہی کرتے تھے یہاں تک کہ ان کی بھی وفات ہو گئی اور ان کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ (رضوان اللہ علیہم و سلام)

حضور ﷺ کے غم میں اشعار کہنے والے حضرات:

محمد بن عمرو الواقدي نے اپنے رجال (رواة) سے روایت کی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کا (حسب ذیل) مرثیہ کہا ہے

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اشعار:

يا عين ذابكي ولا تسالي وحق البكاء على السيد
”اے آنکھ! گریہ کر اور اس سے ملول نہ ہو ایسے سردار کے شایان شان ہے کہ اس پر روئیں۔“

على خير خندق^۱ عند البلاء امسى يغيب في الملحد
ایسے سردار پر جو آزماتش کے وقت بہترین ثابت ہوئے آج ان کی شام اس طرح ہوئی کہ قبر میں دفن ہو گئے۔

فصلى المليك ولي العباد ورب البلاد على احمد
وہ مالک جو بندوں کا والی اور شہروں کا پروردگار ہے رسول اللہ ﷺ پر درود بھیجے۔

فكيف الحياة لفقْد الحبيب وزين المعاصر في المشهد
اب زندگی کی کیا صورت ہے وہ محبوب تو کھو گیا جو تمام حاضرین صحبت کے لیے وجہ زینت تھا وہ تو جاتا رہا۔

فليت الممات لنا كلنا وكنا جميعاً مع المهتدى
اے کاش! ہم سب کو موت آ جاتی اور سب کے سب اسی ہدایت یافتہ کے ساتھ ہوتے۔“

وله ايضاً

لما رأيت نبينا متجده ضاقت على بعرضمن الدور
”جب میں نے اپنے پیغمبر کو کہ سب کے پیغمبر تھے زمین کے اندر جاتے دیکھا تو مکانات باوجود اپنی وسعت کے مجھ پر تنگ ہو گئے۔“

① خندق: جو مصیبت میں مبتلا ہو اور کامیاب ہو جائے۔

وارتعت رَوْعَةً مُسْتَهَامَ وَالْهَ وَالْعَظْمُ مِنِّي وَاهُنْ مَكْسُور
میں اس شیدائی کی طرح خوف زدہ ہو گیا جو گھبرا یا ہوا حیران و پریشان پھر رہا ہو۔ میری ہڈی کمزور و سست و شکستہ ہو گئی۔
اعتیق^۱ اَنْ حَبْلِكَ قَدْ ثَوَى وَبَقِيَتْ مَنفَرْدًا وَاَنْتَ حَسِير
اے شقیق! تیرا محبوب تو دفن ہو گیا، اب تو اکیلا رہ گیا، تکان اور تعجب تجھ پر طاری ہے۔

يَا لَيْتَنِي مِنْ قَبْلِ مَهْلِكٍ صَاحِبِي غَيَّبْتُ فِي جَدَثٍ عَلَى صَخُور
اے کاش میں اپنے صاحب کی وفات کے قبل ہی کسی قبر میں اس طرح دفن ہو جاتا کہ مجھ پر پتھر ہوتے۔
فَلَمْ تَحْدِثْ بَدَايِعَ مِنْ بَعْدِهِ تَعَيَّى اَبْنَهُ جَوَانِحَ وَصُدُور
آپ ﷺ کے بعد ایسے نئے نئے حوادث پیش آئیں گے جن (کی گراں باری) سے پسلیاں اور سینے تھک جائیں گے۔
وَلَهُ اَيْضًا

بَاَنْتَ هُمُومٌ تَاوَبَنِي حَشْدًا مِثْلَ الضَّحُورِ نَا مَسْتِ هَدَاتِ الْجَسَدِ
”غم و الم کے گروہ رات بھر پلٹ پلٹ کے میرے پاس آتے رہے وہ ایسے سخت تھے کہ پتھروں کی طرح تمام شب جسم کو توڑا کیے۔
يَا لَيْتَنِي حَيْثُ بَنَتْ الْغَدَاةُ بِهِ قَالُوا الزَّمَانُ قَدْ اَمْسَى مَيِّتًا فَقَدْ
اے کاش (اسی وقت میں بھی مر گیا ہوتا) جس وقت دن کو مجھے خبر ملی اور لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ انتقال فرما گئے۔
لَيْتَ الْقِيَامَةُ قَامَتْ بَعْدَ مَهْلِكِهِ وَلَا نَرِي بَعْدَهُ مَالًا وَلَا وَلَدًا
کاش آپ کی وفات کے بعد قیامت قائم ہو جاتی کہ نہ ہم آپ کے بعد مال و دولت کو دیکھتے نہ اولاد کو۔
وَاللّٰهُ اِنْنِي عَلٰی شَيْءٍ فَقَدْتُ بِهِ مِنْ الْبَرِيَّةِ حَتّٰى اَدْخَلَ اللَّحْدَ
واللہ! مخلوقات میں سے جو چیز مجھ سے کھوئی جا چکی ہے میں ہمیشہ اس کی ثناء و صفت کیا کروں گا یہاں تک کہ قبر میں داخل ہو جاؤں۔
كَمْ لِيْ بَعْدَكَ مِنْ هَمٍّ يَنْصَبِيْ اِذَا تَذَكَّرْتُ اَنِّي لَا اَرَاكَ اَبَدًا
آپ کے بعد غم و الم کیا کچھ مجھے آزار پہنچاتے رہیں گے۔ جب میں یہ یاد کروں گا کہ اب کبھی مجھے آپ کا دیدار نصیب نہ ہوگا۔
كَانَ الْمَصْفَاءُ فِي الْاَخْلَاقِ قَدْ عَلِمُوا وَفِي الْعُقَافِ فَلَمْ تَعْدَلْ بِهِ اَحَدًا
سب کو معلوم تھا کہ آپ کیسے پاکیزہ اخلاق تھے عفت و پرہیز گاری میں ہم سب کسی کو بھی آپ کا دیر نصیب نہ سمجھتے تھے۔
نَفْسِيْ فِدَاؤُكَ مِنْ مَيِّتٍ وَمِنْ بَدَنٍ مَا اَطِيبَ الذِّكْرُ وَالْاَخْلَاقُ وَالْجَسَدُ
میری جان آپ پر قربان کیا تا بابت تھا، کیسا جسم تھا آپ کی یاد کتنی پاکیزہ تھی، اخلاق کیسے اچھے تھے بدن کتنا لطیف تھا۔
عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کے اشعار:

تَطَاوَلَ لَيْلِيْ وَاعْتَرَتْنِي الْقَوَارِعُ وَخَطَبُ حَلِيْلٍ لِلْبَلِيَّةِ جَامِعُ
”میری رات دراز ہو گئی اور مجھے مصائب شدیدہ و حوادث عظیمہ جو بلیات کے جامع تھے پیش آئے۔

① شقیق: صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا خطاب تھا۔

غداةً لغى الناعى الينا محمداً وتلك التى تسنك منها المسماع

موت کی خبر دینے والے نے صبح کو ہمیں آنحضرت ﷺ کے انتقال کی خبر دی۔ یہ وہ خبر تھی جس سے کان بہرے ہو جاتے ہیں۔

فلوردُ ميتا قتل نفسى قتلها ولكنه لا يرفع الموت دافع

اپنے آپ کو قتل کر ڈالنے سے اگر کسی مرنے والے کی زندگی واپس آ سکتی تو میں اپنے آپ کو قتل کر ڈالتا۔ لیکن موت کو کوئی دفع کرنے والا دفع نہیں کر سکتا۔

قالت لا اثنى على هلك هالك من الناس ما اوفى ثبير وفارح

میں نے قسم کھالی تھی کہ کسی مرنے والے انسان کی موت پر اس کی مدح و ثناء کروں گا جب تک کہ کوہ ثبیر و کوہ فارح سر بلند ہیں۔

ولكننى بالك عليه ومُتبع مصيبة انى الى الله راجع

لیکن میں آپ پر روؤں گا اور آپ کے حادثے کے پیچھے پیچھے رہوں گا درحقیقت مجھے اللہ ہی کی جناب میں واپس جانا ہے۔

وقد قض الله النيين قبله وعاد اصيب بالرزى والتابع

اللہ نے آپ سے پہلے اور انبیاء کی روحیں بھی قبض کیں، تو م عاد پر بھی مصیبت نازل ہوئی اور قوم تبع پر بھی۔

فياليت شعري من يقوم بامرنا وهل فى قریش فى امام يَنازع

کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ کون ہمارا انتظام کرے گا۔ اور کیا قریش میں کوئی ایسا امام ہے جو آپ کا مقابلہ کر سکے۔

ثلاثة رهط من قریش هم ازمة هذا الامر والله صانع

قریش میں تین ہیں کہ وہی اس امر میں عثمان اقتدار رکھتے ہیں، اور کام بنانے والا اللہ ہی ہے۔

على او الصديق او عمر لها وليس لها بعد الثلاثة رابع

علیؑ جیؓ، یا ابوبکر صدیقؓ جیؓ، یا عمرؓ جیؓ ہیں جو اس کے لیے موزوں ہوں گے، ان تین کے بعد چوتھا کوئی نہیں۔

فان قال منا قائل غير هذه ابينا وقلنا الله راء وسماع

اگر ہم میں سے کسی کہنے والے نے ان کے علاوہ کچھ کہا۔ تو ہم اس کو نہ مانیں گے اور کہیں گے کہ دیکھنے والا سننے والا اللہ ہے۔

فيا لقریش قللوا الامر بعضهم فان صحيح القول للناس نافع

کیا اچھا ہو کہ قریش اپنا معاملہ انہیں میں سے کسی کے سپرد کریں، کیونکہ صحیح بات ہی لوگوں کے حق میں مفید ہوتی ہے۔

ولا تبطنوا عنها فواقا فانها اذا ق طعت لم يسن فيها المطامع

اس میں ایک ساعت بھی دیر نہ کرو اس لیے کہ جب اس کا استقرار ہو گیا تو لالچ اور طمع اس کی آرزو نہ کر سکیں گے۔

حسان بن ثابتؓ جیؓ کے اشعار:

والله ما حملت انتنى ولا وضعت مثل النبى رسول الامة الهادى

”خدا کی قسم کسی عورت کو نہ ایسا حمل ہوا نہ ایسا وضع حمل ہوا جیسے آنحضرت ﷺ تھے کہ امت کو ہدایت کرنے والے پیغمبر ﷺ تھے۔“

امسلى نساء ك عطلن البيوت فما
 يضر بن خلف قفاستر باونام
 یا حضرت آپ کی بیویوں نے اس حالت میں شام کی کہ سب گھر خالی کر دیئے۔ اب پیچھے میٹھیں لگا کے وہ پردہ نہیں تانتیں۔
 مثل الرواهب يلبسن المسوح وقد
 ايقن بالبوس بعد النعمة البادی
 راہب عورتوں کی طرح وہ گیم پوش ہو گئی ہیں۔ اور ان کو نمایاں عیش و تنعم کے بعد اب تکلیف کا یقین آ گیا ہے۔
 وله ايضاً

آلئت حلفة برغير ذى دخل
 منى اليه حق غير افناد
 ”ایسے نیک مرد کی حیثیت میں جس کی بات میں کسی کو دخل دینے کی مجال نہ ہو میں نے قسم کھائی ہے میری یہ قسم حق ہے اس میں باطل کی گنجائش نہیں۔“

بالله ما حملت أنثى ولا وضعت
 مثل النبى نبى الرحمة الهادى
 خدا کی قسم کسی عورت کو نہ ایسا حمل ہوا نہ ایسا وضع حمل ہوا جیسے آنحضرت ﷺ تھے کہ نبی رحمت اور ہادی تھے۔
 ولا مشى فوق ظهر الارض من احد
 اوفى بذمة جار او بميعاد
 روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں گزرا۔ جو مسائے کی ذمہ داری یا وعدہ پورا کرنے میں آپ سے زیادہ وفا شعار ہو۔
 من الذى كان نوراً يستضاء به
 مبارك الامردا حزم وارشاد
 ایسے کے برابر کون ہو سکتا جو ایک نور تھا کہ اس سے روشنی حاصل کی جاتی تھی۔ اس کے امر میں برکت تھی وہ احتیاط و ہدایت کرنے والا تھا۔

مصدقاً للبين الا لى سلفوا
 وابذل الناس للمعروف للجدادى
 جو انبیائے سابقین کی تصدیق کرنے والا تھا۔ اور طالب خیر کے حق میں سب سے زیادہ احسان کرتا تھا۔
 خير البرية انى كنت فى نهري
 جادفا صبحت مثل المفرد الصارى
 اے بہترین مخلوقات میں پہلے ایک نہر جاری میں تھا صبح ہوئی تو ایک تہا تشہ کام جیسا رہ گیا۔

امسلى نساؤك عطلن البيوت فما
 يضر بن خلف قفاستر باونام
 آپ کی بیویوں نے اس حالت میں شام کی کہ سب گھر خالی کر دیئے پیچھے میٹھیں لگا کے اب وہ پردہ نہیں تانتیں۔
 مثل الرواهب يلبسن المسوح وقد
 ايقن بالبوس بعد النعمة البادی
 راہب عورتوں کی طرح وہ گیم پوش ہو گئی ہیں کھلی ہوئی نعمت و آسائش کے بعد اب ان کو یقین آ گیا ہے کہ تکلیف میں دن گزریں گے۔“

وله ايضاً

ما بال عينك لا تنام كأنما
 كحلت ما قبحها بكحل الا رثمد

”تیری آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے کہ نیند ہی نہیں آتی، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان میں سرے کی کرکری سائی ہے۔

جزعاً علی المہدیٰ أصبح ثاویبا یاخیر من وطی الحطی لا تبعد

اس مہدی پر جزع و فزع کی بنا پر نیند اڑ گئی جواب دفن ہو چکا ہے۔ اے سنگریزوں کو سب سے بہتر روندنے والے دور نہ ہو جانا۔

یاویح انصار النبی ورہطہ بعد المغیب فی سواء الملحد

افسوس! اب حضرت کے انصار اور حضرت کے گروہ کا کیا ہوگا۔ جب کہ قبر میں آپ کی غیبت واقع ہو چکی ہے۔

جنبی یقیک التراب طفی لیتنی کنت المغیب فی الضریح الملحد

میرا پہلو آپ کو مٹی سے بچاتا، مجھ پر افسوس ہے، اے کاش! میں ہی قبر میں غائب ہوا ہوتا۔

یا بکر، آمنة المبارک ذکرہ ولدته محصنة بسعد اسعد

اے آمنہ کے اکلوتے فرزند جن کی یاد میں برکت ہے۔ جو ان پاک دامن عقیقہ سے نیک ترین سعادت کے ساتھ پیدا ہوئے۔

نوراً ضاء عیل البریة کلها من یهد للنور المبارک یہتدی

ایک ایسا نور کہ تمام مخلوق پر اس کی روشنی چمکی۔ جسے اس بابرکت نور کی راہ دکھا دی گئی اسے ہدایت ہو گئی۔

أقلیم بعدک بالمدينة بینهم یالہف نفسی لیتنی لم أولد

مدینے میں ان لوگوں کے درمیان کیا آپ کے بعد میں ٹھہرا ہوں۔ وائے حسرت! کاش کہ میں پیدا ہونہ ہوتا۔

بابی وأمی من شہدت وفاته فی یوم الاثنين النبی المہتدی

میرے ماں باپ اس ہدایت یافتہ نبی پر قربان جائیں جس کی وفات کے دن میں دو ٹپے کو حاضر تھا۔

فضیلت بعد و وفاته متلدا یالیتی صبحت سم الاسود

آپ کی وفات کے بعد میں حیران رہ گیا۔ کیا اچھا ہوتا کہ کالے سانپ کے زہر کے ساتھ میری صبح ہوتی۔

او حلت امر اللہ فینا عاجلاً فی روحہ من یومنا اوفی غد

یا ہماری نسبت اللہ کا حکم جلد آ جاتا آج ہی کے دن رحلت کر جاتے یا کل۔

فتقوم ساعتنا فنلقی سیدنا محضاً مضاربہ کریم المحتد

موت کے ساتھ ہی ہماری قیامت قائم ہو جاتی تو ہم اس سردار سے ملتے۔ جس کے خیمے غل و غش سے پاک تھے اور جس کی اصل و نسل

کریم تھی۔

یارب فاجمعنا معاً ونبینا فی جنۃ تغفی عیون الحسد

اے ہمارے پروردگار ہم سب کو ایک ساتھ ہمارے پیغمبر سے ملا دے۔ اس بہشت میں جو حاسدوں کی آنکھوں میں زخم ڈال دے۔

فی جنۃ الفردوس واکتبها لنا یاذا الجلال وذا العلا والسودد

جنت الفردوس میں ہمیں ایک جا کر دے اور اس کو ہمارے لیے لازم بنا دے۔ اے جلال والے بلند والے اور بزرگی والے۔

واللہ اسمع ما حیئتُ بها لکِ الا بکیتُ علی - النبی مُحَمَّد
اللہ آگاہ ہے کہ جب تک زندہ ہوں کسی مرنے والے کی سنانی سنوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر گریہ کروں گا۔
ضاقتُ بالانصار البلادنا صباحا سودًا وجوہہم کلون الاسود
شہروں کی وسعتیں انصار پر تنگ ہو گئیں انہوں نے اس حالت میں صبح کی کہ برنگ سرمد ان کے چہرے سیاہ ہو گئے ہیں۔
ولقد ولدناہ و فینا قبرہ وفضول نعمتہ بنا لا تجحد
ہم ہی میں ان کا رشتہ ولادت تھا ہمارے ہی ہاں ان کی قبر ہے۔ جس کثرت سے ان کی نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں ان کا انکار نہیں ہو سکتا۔

واللہ اہداهُ لنا و ہدی بہ انصارہ فی کل ساعۃ مَسْہَد
اللہ نے بطور ہدایہ ان کو ہمیں عطا کیا اور انہیں کے ذریعے اللہ نے ہر احتیاط کے وقت انصار پیغمبر کی ہدایت فرمائی۔
صلی الالہ و من یحیف بعرشہ والظیون علی المبارک احمد
اللہ اور جو اس کے عرش کو گھیرے ہوئے ہیں اور جتنی پاک مخلوق ہے سب اس بابرکت احمد پر درود بھیجیں۔
ولہ ایضاً

یا عینِ جودی بدمع منکِ اسبال وہ تَمَلِّنْ من سَحِّ و اعموال
”اے آنکھ اس طرح فیاضی سے آنسو بہا کہ سیلاب آ جائے۔ اور تو پے در پے سیل اشک اور نالے سے کبھی نہ اُکتائے۔“
لا ینفدن لی بعد الیوم دمعکما انی مُصابٌ و انی لست بالسال
آج کے بعد تمہارے آنسو میرے لیے ختم نہ ہو جائیں۔ کیونکہ میں مصیبت زدہ ہوں اور تسلی پانے والا نہیں۔
فان منعکما من بعد بذ لکما ایای مثل الذی قد غرّ بالال
اشکباری کے بعد اب تم دونوں کا مجھے روکنا ایسا ہی ہے جیسے سراب سے کسی کو دھوکا ہوا ہو۔

لکن افیضی علی صدی باربعۃ ان الجوانح فیہا ہاجس صالی
اے آنکھ تو میرے سینے پر چار چار آنسو بہا۔^① کیونکہ پسلیوں کے اندر جلادینے والا مہین سوز پہاں ہے۔
سَحِّ الشعیب و ماء الغرب یمنحہ ساق بجملہ ساقِ بازلال
چشمے اور مشک کے پانی کی طرح آنسو بہا۔ ایسا پانی جسے نالے سے لے کے تنہا کے سقا اٹھائے لیے پھرتا اور پلاتا ہو۔
علی رسولِ لنا محضِ ضریبتہ سمح الخلیقۃ عَفَّ غیر مجہال
ایسے پیغمبر پر جو ہمارے تھے خالص و مخلص تھے تمام خلق اللہ میں سب سے بڑے روادار تھے عقیف تھے نادان نہ تھے۔

① اردو میں آنکھ آنکھ آنسو کہتے ہیں مگر عربی میں چار آنسو کا محاورہ ہے۔

حامی الحقیقۃ نَسالِ الدیقۃ فکان العُناۃ کریم ماجدُ عال
جو حقیقت اور حق کے حامی تھے نہایت سخی تھے، مصیبت زدوں کو رہائی دلانے والے تھے، شریف تھے، بزرگ تھے اور سر بلند تھے۔

کشاف مکرّمۃ مطعام مسغبۃ وھاب عانیۃ وجناء شملال
نہایت درجہ علانیہ اور کھلی ہوئی مکرمت والے بھوکوں کو بکثرت کھانا کھلانے والے جرم کے بڑے بخشے والے تھے۔

عَفَّ مکاسبہ جزلِ مواہبہ خیر البریۃ سمع غیر نکال
ان کی کمائی نہایت پاک تھی، بخشش بہت بڑی تھی، تمام مخلوق میں سب سے اچھے تھے، روادار تھے، مگرست و ضعیف نہ تھے۔

واری الزّناد و قواد الجیاد الی یوم الطراد اذا شبت باجدال
جہاد کی آگ بھڑکاتے، سوار یوں کو انفرین کے معرکے میں لے جاتے، آتش جنگ مشتعل ہوتی تو سب کے آگے بڑھ جاتے۔

ولا اذکّی علی الرحمن ذا بشر لکن علمک عند الواحد العالی
اللہ کے حضور میں اس انسان کا میں تذکیہ نہیں کرتا۔ اے پیغمبر! تجھے اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ تو کیا تھا۔

انّی اری الدھر والایام لفجعنی بالصالحین و ابقی ناعم البال
میں دیکھ رہا ہوں کہ زمانہ مجھے اچھے اچھے بزرگوں کے غم میں مبتلا کر رہا ہے اور میں فارغ البال باقی ہوں۔

یاعین فابکی رسول اللہ اذکرت ذات الالہ فنعیم القائد الوالی
اے آنکھ! جب اللہ کی ذات پاک کا تذکرہ ہو تو رسول اللہ کو رو جو بہترین سرخیل اور بہت اچھے والی تھے۔

ولہ ایضاً

نَبّ المساکین ان الخیر فارقمہم مع الرسول تولّی عنہم سحوا
”مسکینوں کو خبر دے دو کہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہی خیر و خوبی بھی ان سے جدا ہو گئی جو صبح سویرے ہی ان سے منہ موڑ کے چلے گئے۔“

من ذا الذی عنده رحلی وراحتی ورزق اهلی اذا لم نونس المطرا
اب کون ایسا ہے کہ بارش کا سامان نہ ہو تو ہمیں اپنا بنا کر رکھے گا اور ہمارے اہل و عیال کو کھلائے پلائے گا۔

ذاک الذی لیس یخشاہ مجالسہ اذا الجلیس سلطانی القول او عثرا
وہ ایسے تھے کہ ان کی مجلس میں اگر ہم نشین سے کوئی لغزش ہو گئی یا اس نے تندہی و تیزی گفتگو میں کی تب بھی اس کو خوف نہ ہوتا۔

کان الضیاء وکان النور نبعہ وکان بعد الا الہ السمع والبصر
وہ روشنی تھے، نور تھے جن کے پیچھے ہم چلتے تھے۔ اللہ کے بعد ہمارے کان اور آنکھ وہی تھے۔

فلینا یوم واروہ بمجیبہ دقنوّ والقوا فوقہ المدرا
اے کاش لوگوں نے جس دن آپ کو قبر میں دفن کیا ہے، چھپا دیا ہے، اور لحد پر خاک ڈالی ہے۔

لم يترك الله خلقاً من بريتہ ولم يعيش بعده انثى ولا ذكراً
 کاش اس دن اللہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑتا۔ اور کوئی مادہ و نر آپ کے بعد نہ جیتا۔
 ذلت رقابُ بنی النجار کُلّہم وکان امراً من الرحمن قد قدرا
 تمام قبیلہ بنی النجار کی گردنیں جھک گئیں۔ یہ بات اللہ ہی کی تقریر میں مقدر ہو چکی تھی۔
 کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے اشعار:

يا عين فابكي بدمع ذرى لخير البرية والمصطفى
 ”اے آنکھ اچھی اشکبار ہو۔ ان مرنے والے کے لیے جو مخلوقات میں سب سے اچھے اور برگزیدہ تھے۔
 وبكى الرسول وحق البكاء عليه لدى الحرب عند اللقاء
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رو اور جب لڑائی سر پر آ گئی تو حضرت پر رونا ہی چاہیے۔
 على خير من حملت ناقةً واتقى البرية عند التقى
 ان پر رو جو اونٹنی پر جتنے لوگ سوار ہو چکے ہیں وہ ان سب سے اچھے اور سب سے زیادہ پرہیزگار تھے۔
 على سيد ماجد خجل وخير الانام وخير الله
 وہ جو سردار تھے بزرگ تھے اور تمام جہاں میں سب سے بڑھ چڑھ کے تھے۔

له حسب فوق كل الانام من هاشم ذلك المرتجى
 ان کے کردار اور مناقب سب پر فائق تھے۔ ہاشم کی یادگار تھے جن پر سب کی لوگی ہوئی۔
 نخص بما كان من فضله وکان سراجاً لنا فى اللجا
 ان کی فضیلت کی بنا پر ہم خاص طور پر ان کے ماتمی ہیں۔ جو تاریکی میں ہمارے لیے چراغ تھے۔
 وکان بشيراً لنا منذراً ونوراً لنا ضوءه قداضا
 ہمارے حق میں وہ بشیر بھی تھے نذیر بھی تھے۔ اور ایسے نور تھے جس کی شعاع نے ہم کو روشن کر رکھا تھا۔
 فانقذنا الله فى نوره ونجى برحمته من نجا
 اللہ نے اسی نور کے طفیل میں ہمیں بچایا۔ اور رحم کر کے آتش و دوزخ سے نجات دی۔

اروئى بنت عبدالمطلب رضی اللہ عنہا کے اشعار:

الا يا عين ويحك اسعديني بد معك ما بقيت وطا وعيني
 اے آنکھ تیرا برا حال ہو جب تک تو باقی ہے اپنے آنسو سے میری مدد کر اور میری بات مان۔
 الا يا عين ويحك واستهلى على نور البلاد واسعديني
 اے آنکھ تیرا برا حال ہو۔ جو ملک بھر کے حق میں نور تھے اے آنکھ میری مدد کر۔

فان عدالتك عاذلة فقولی علام وفیم وبعك تعد لینی
کوئی نصیحت کرنے والی اگر تجھے نصیحت کرے تو کہہ دے کہ تیرا برا ہو کس امر پر اور کس بات میں تو مجھے نصیحت کر رہی ہے۔

علی نور البلاد معا جمیعا رسول اللہ احمد فاتر کینی
میں گریاں ہوں تو ان پر گریاں جو تمام ملک میں سب کے لیے نور تھے اللہ کے رسول تھے احمد تھے۔ لہذا مجھے میرے حال پر چھوڑ دے۔
فإلا تقصری بالعدل عنی فلومی ما بدالك اودعینی
بائیں ہمہ اگر تو مجھے نصیحت کرنے میں کمی نہیں کرتی تو جیسا جی میں آئے ملامت کر لے یا جی چاہے تو رہنے دے۔
لامر هذنی وادل رکنی وشیب بعد جدتها قرونی
یہ ایسی مصیبت ہے جس نے مجھے پست کر دیا، میری عظمت ست کر ڈالی اور مجھ کو بوڑھا کر دیا۔

ولہا

الا یا رسول اللہ کنت رجاءنا وکنت بنا برا ولم تک جافیا
”یا رسول اللہ آپ ہماری امید گاہ تھے ہمارے ساتھ مراعات کرتے تھے خشک مزاج اور بدسلوک نہ تھے۔
وکنت بنا زوفا رحیما نبینا لیک علیک الیوم من کان یاکیا
آپ ہمارے حق میں مہربان تھے رحیم تھے ہمارے پیغمبر تھے۔ آج جسے روٹنا ہو آپ پر روئے۔
لعمرك ما ابکی النبی لموتہ ولكن لہرج کان بعدك اتیا
تیری حیات کی قسم رسول اللہ ﷺ کی وفات پر میں نہیں روتی۔ میں تو اس فتنہ و ہنگامہ پر روتی ہوں جو آپ کے بعد برپا ہونے والا ہے۔
کانت علی قلبی لذكر محمد وما خفت من بعد النبی المکاویا
حضرت کو یاد کر کے اور آپ کے بعد پیش آنے والے حوادث سے ڈر کے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دل پر داغ لگ رہے ہیں۔
افاطم صلی اللہ رب محمد علی جدتہ امسلی بیثرب ثاویا
اے فاطمہ! اللہ محمد کا پروردگار ہے اس قبر پر رحمت نازل کرے جو مدینے میں ہے۔

اباحسن فادقتہ وترکتہ فبک بحزن آخر الدهر شاجیا
اے ابو الحسن (علی بن ابی طالب) تو حضرت سے جدا ہو گیا، تو نے آپ کو چھوڑ دیا اب آخر زمانے تک دردناک رنج و غم سے حضرت پر روتا رہ۔

فدا لرسول اللہ امی وخالتی وعمی ونفسی قُصْرَة ثم خالیا
رسول اللہ ﷺ کے لیے میری ماں اور خالہ اور چچا اور ماموں سب فدا ہوں اور خود میری جان آپ پر قربان ہو جائے۔
صبرت وبلغت الرسالة صادقا وقمت صلیب الدین ابلج صافیا
آپ نے صبر کیا، ثابت قدم رہے اللہ کے پیغام کو راستی کے ساتھ پہنچایا۔ دین کو استوار فرمایا، روشن و صاف بنایا۔

قلو آئی رب الناس ابقاک بیننا سَعِدْنَا و لکن اُمرنا کان ماضیا
انسانوں کا پروردگار آپ کو اگر ہمارے درمیان رہنے دیتا تو ہم کو فلاح ہوتی، لیکن ہمارا معاملہ تو چلنے والا ہی تھا۔
علیک من اللہ السلام تحیۃ و اُدْخِلَتْ جَنَّاتٍ مِنَ الْعَدْنِ رَاضِیَا
یا حضرت آپ پر اللہ کا سلام ہو اور بہشت عدن میں خوشی در آئیں۔
عَاثَکَ بِنْتُ عَبْدِ الْمَطْلَبِ نَعْنِی اللہ عَزَّ وَجَلَّ

عینی جود اطوال اللہ و انہمرا سَکَبًا و سَحَا بدمع غیر تعذیر
”اے میری دونوں آنکھوں جب تک زمانے کی درازی قائم ہے روؤ اور جی کھول کے آنسو بہاؤ جس میں کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے۔
یا عین فاسحنفری بالدمع واحتفلی حتی الممات بسجل غیر منزور
اے میری آنکھ! اچھی طرح اشکبار ہو مرتے دم تک اتنے دولا ب اشک بہا جس میں کی واقع نہ ہو۔
یا عین فانہملی بالدمع واجتہدی للمصطفیٰ دون خلق اللہ بالنور
اے میری آنکھ! اشکبار ہو اور کوشش کر کے اشکبار ہو ان کے لیے جو برگزیدہ تھے نور لے کے آئے تھے ان کے علاوہ خلق اللہ میں سے
اور کی پر نہ رو۔

بُمَسْتَهَلٍّ مِنَ الشُّبُوبِ ذی سَیْلِ فَقَدْ رُزِنْتُ بَنی الْعَدْلِ وَالْخَیْرِ
ایسا رونا کہ سیلاب آجائیں، کیونکہ عدل و خیر والے پیغمبر ﷺ کی مصیبت مجھ پر نازل ہوئی ہے۔
و کُنْتُ مِنْ حَذَرٍ لِّلْمَوْتِ مَشْفِقَةً وَلِلذی خُطُّ مِنْ تِلْكَ الْمَقَادِیْرِ
موت سے میں بچتی تھی، ڈرا کرتی تھی اور تقدیر میں جو لکھا جا چکا ہے اس سے خوفزدہ تھی۔
مَنْ فَقَدَ أَزْهَرَ ضَا فِی الْخَلْقِ ذی فَخْرٍ صَافٍ مِنَ الْعِیْبِ وَالْعَاهَاتِ وَالزُّوْرِ
کہ اس روشن ذات کو میں کھونہ بیٹھوں جس کے وسیع اخلاق ہیں، فخر کے لائق ہے ہر قسم کے عیب و امراض اخلاقی اور کمزور و فریب سے
اس کا دامن پاک ہے۔

فَاذْهَبْ حَمِیداً جَزَاكَ اللہُ مَغْفِرَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ عِنْدَ النِّفْخِ فِی الصُّورِ
اب تو قابل تعریف اوصاف کے ساتھ جا قیامت کے دن جب صور پھونکا جائے تو اللہ تجھے جزائے خیر دے اور مغفرت نازل کرے۔

ولہا

یا عین جودی مابقیۃ بعبرۃ سَحَا عَلٰی خَیْرِ الْبَرِیَّةِ اَحْمَدُ
”اے میری آنکھ! تو جب تک باقی ہے احمد پر جو تمام مخلوق میں سب سے اچھے تھے فیاضی کے ساتھ آنسو بہاتی رہ۔
یا عین فاحتفلی وسُجِّی واسجمی وابکی علی نور البلاد مُحَمَّدٍ
اے میری آنکھ! آمادہ ہو جا اور اچھی طرح سے محمد (ﷺ) پر جو تمام ملک کے نور تھے۔

اَنّی لک الویلات مثل محمّد فی کُلّ نائبة تنوب ومشهد
تجھ پرافسوس ہے ہر ایک حادثہ اور ہر ایک معرکہ میں تجھے محمد (ﷺ) جیسے کہاں ملیں گے۔

فابکی المبارك والموفق ذوالتقی حامی الحقیقة ذا الرشاد المرشد
ان پر روبرو برکت والے تھے توفیق والے تھے صاحب تقویٰ تھے۔ حق کے حامی تھے ہدایت والے راہ نما تھے۔

من ذا یفک عن المعلن غلّه بعد المغیب فی الصریح الملحد
وہ جو قبر میں جا چکے ہیں اب ان کے بعد کون ایسا رہ گیا کہ قیدیوں کو رہا کرائے آزادی دلائے۔

ام من لکل مدفع ذی حاجة ومسلسل يشکو الحديد مقید
اب اس حاجت مند کے کون کام آئے گا جو ہر طرف سے نکالا جاتا ہوا ہے دھکے دیئے جاتے ہوں یا پیر زنجیر ہوا اور لوہے کی بندش کا
گلہ کر رہا ہو۔

ام من لوحی اللہ یتروک بیننا فی کُلّ ممسلی لیلۃ اوفی غنہ
اب ہر شام و سحر اللہ کی وحی کس پر آیا کرے گی جو ہمارے ہی درمیان رہ جایا کرتی تھی۔

فعلیک رحمة ربنا وسلامه یاذا الفواضل والندو السودم
اے فضیلتوں والے فیاض سردار تجھ پر ہمارے پروردگار کی رحمت و سلام ہو۔

هلا فلاك الموت کل ملعن شکس خلاقه لیم المحتد
تیرے بدلے ان سب کو موت کیوں نہ آئی جو لعنتی ہیں بد خلق ہیں اصل نسل کے کینے ہیں۔

ولها ایضاً

اعینی جود بالدموع السواجم علی المصطفیٰ بالنور من آل ہاشم
”اے میری دونوں آنکھوں آنسوؤں کی جھڑی لگا دو۔ ان پر جو نور کے ساتھ برگزیدہ تھے اور خاندان ہاشم کے تھے۔

علی المصطفیٰ بالحق والنور والهدی وبالرشد بعد المنذبات العظام
ان پر روبرو جو بڑے بڑے حوادث کے بعد برگزیدہ ہو کے آئے تھے اور حق و نور و ہدایت و ارشاد کو ساتھ لائے تھے۔

وسحا علیہ وایکیما بکیتما علی المرتضیٰ للمحکمات العزائم
تم دونوں سے جہاں تک رویا جاسکے اس پسندیدہ حق پر روبرو جس کے عزم استوار و محکم تھے۔

علی المرتضیٰ للبر والعدل والتقی وللدین والاسلام بعد المظالم
ان پر روبرو جو مظالم کے بعد نیکی و عدل و تقویٰ دین و اسلام کے پسندیدہ تھے۔

علی الطاهر المیمون ذی الحلم والندی وذی الفضل والداعی لخیبر التراحیم
پاک تھے برکت والے تھے متمحل تھے فیاض تھے صاحب فضیلت تھے آپس میں بہترین رحم و کرم کے ساتھ رہنے سہنے کی دعوت دیا

کرتے تھے۔

أعیننی ماذا بعد ما قد فجعتما به تبکیان الدهر من ولد آدم
اے میری دونوں آنکھوں جب انہیں کا غم تمہیں اٹھانا پڑا تو ان کے بعد اب اولاد آدم میں سے کس کو روڈوگی۔
فجودا بسجل واند باکل شارق ربيع الیتامی فی السنین البوازم
اچھی طرح روڈو اور ہر صبح کو اس کا ماتم کرو جو قحط کے زمانہ میں یتیموں کا والی وارث تھا۔
صفیہ بنت عبدالمطلب رضی اللہ عنہا کے اشعار:

لهف نفسی وبت کالمسلوب ارق اللیل فعلة المحروب
”مجھے اپنی جان پر افسوس ہے میں نے اس شخص کی طرح شب بسر کی جس سے سب کچھ چھین گیا ہو اور رنج و غم میں رات بھر جاگتا رہا ہو۔

من هموم وحسرة ردفتی لیت انی سقیتها بشعوب
میری یہ حالت ایسے غم و حسرت کے باعث ہوئی ہے جنہوں نے مجھے مسلسل گھیر رکھا ہے کاش یہ تدریجاً نازل ہوئی ہوتیں۔
حین قالوا ان الرسول قد امسی وافقته منیة المکتوب
وہ سب رنج و غم مجھ پر یکبارگی ٹوٹ پڑا جب لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے قضائے مقدر سے موافقت فرمائی۔
اذ رأینا ان النبی صریع فاشاب القدان ای مشیب
جب ہم نے دیکھا کہ نبی شرف بوفات ہیں تو ہمارے سر کے بال کیسے کچھ سفید ہو گئے۔

اذ رأینا بیوته موحشات لیس قیہن بعد عیش حبیبی
جب ہم نے دیکھا کہ آپ کے حجرے ویران ہیں جہاں میرے حبیب رہتے تھے وہ خالی ہو چکے ہیں۔
اورث القلب ذا کحرنا طویلا خالط القلب فهو کالمرعوب
اس حادثہ نے دل کو اتنا طویل رنج پہنچایا ہے کہ جی بیٹھ رہا ہے اور اب مرعوب جیسے ہو رہے ہیں۔

لیت شعری وکیف امسی صحیحاً بعد أن بین بالرسول القریب
کاش مجھے خبر ہوتی، میں کیسے صحیح و تندرست رہ سکتی ہوں۔ بعد اس کے رسول اللہ ﷺ جدا ہو گئے۔
اعظم الناس فی البریة حقاً سید الناس خبہ فی القلوب
وہ درحقیقت تمام مخلوق میں سب سے بڑے تھے سب کے سردار تھے۔ ان کی محبت ہر دل میں ہے۔

فانی اللہ ذاک اشکو وحسبی یعلم اللہ جوبتی ونحیی
میں اللہ ہی سے اس کی شکایت کرتی ہوں اور وہی مجھے کافی ہے۔ اللہ میری کلفت اور گریہ کو خوب جانتا ہے۔

ولہا

أفاطم بکى ولا تسامى بصبحك ما طلع الكوكبُ
”اے فاطمہ رو تارے جب تک طلوع ہوتے رہیں کسی صبح کو رونے سے تھک نہ جانا۔

هو المُرأىکى وحقّ البکاءُ هو الماجد السید الطّیبُ
وہ ایسے تھے جن کے لیے رونا سزاوار ہے وہ بزرگ سردار اور پاک تھے۔

فاؤحشت الارض من فقده وأی البریة لا ینکب
ان کے جاتے رہنے سے زمین ویران ہوگئی اور مخلوق میں کون ہے جن پر مصیبت نہ پڑی ہو۔

فما لى بعدک حتی المما ت الا الجوى الداخل المنصب
یا رسول اللہ (ﷺ) مرتے دم تک آپ کے بعد میں درد دل میں مبتلا رہوں گی۔

فبکی الرسول وحقت له شهود المدينة والغیب
رسول اللہ (ﷺ) کو روؤ مدینہ کے حاضر و غائب سب ہی کے لیے رونا سزاوار ہے۔

لتبکک شمطاء مضرورة اذا حجب الناس لا تحجب
وہ بد شکل عورت آپ پر روئے گی جس کی بصارت ایسی جاتی رہی ہو کہ جہاں پر وہ اور حجاب کا موقع ہو وہاں بھی حجاب نہ کر سکے۔

لیلک شیخ ابو ولدة یطوف بعقوته اشهب
آپ کو وہ پیر مرد روئے گا جس کے بہت سے چھوٹے چھوٹے لڑکے ہوں اور وہ انہیں لیے ہوئے پھر رہا ہو۔

ویبکک ركب اذا ارملوا فلم یلف ما طلب الطلب
سوار جب رہ گزرتے کرتے ہوئے مقصد میں ناکام رہیں تو وہ آپ ہی کا ماتم کریں گے۔

وتبکی الا باطح من فقده وتبکیه مكة والا خشب
آپ کے جاتے رہنے سے بطحاء روئے گا، مکہ روئے گا دیار حجاز روئے گا۔

وتبکی وعیره من فقده بحزن ویسعدھا المیشب
تمام قبائل آپ کے جاتے رہنے کا درد بھرا گریہ کریں گے اور اس میں بے تابی ان کو درد دے گی۔

فعینی مالک لا تدمعین وحقّ لدمعک یتسکب
اے میری آنکھ! تو کیوں نہیں روتی، تجھے تو دل کھول کے آنسو بہانا چاہیے۔

ولہا ایضاً

عینی جودا بدمع سجم یبادر غربا بما متهدم
”اے میری دونوں آنکھوں روؤ۔ اور اچھی طرح روؤ۔

اعینی فاسخفر او اسکبا بوجد وحزن شدید الالم
اے میری دونوں آنکھوں اس طرح روو کہ بجائے آنسو کے بے تابی اور سخت دردناک رنج کی تراوش ہو۔

علی صفوة الله رب العباد و رب السماء وباری النسم
ان پر جو اللہ کے منتخب تھے اللہ نے کہ تمام بندوں کا پروردگار اور مخلوق کا آفریدگار ہے انہیں کو انتخاب فرمایا تھا۔

علی المرتضى للهدى ولتقى وللرشد والتور بعد الظلم
ان پر جو ہدایت و تقویٰ و ارشاد اور تاریکی کے بعد روشنی کے مرتضیٰ تھے۔

علی الطاهر المرسل المجتبى رسول تخيره ذوالکرم
ان پر جو پاک تھے اللہ کے فرستادہ تھے مقبول تھے ایسے رسول تھے جنہیں خداوند کریم ہی نے منتخب فرمایا تھا۔
ولها ايضاً

ادقت في ليلي كالسليب لوجد في الجوانح ذی ديب
”میں نے اس حالت میں رات گزاری کہ شب بھرا ایسے فحش کی طرح جاگتا رہا جس کا سب کچھ چھن گیا ہو یہ حالت اس درد کے باعث تھی جو رگ و پے میں ساری تھا۔

فشيتني وما شابت لدائي فامسى الراس مني كالعسب
اس درد نے پیرانہ سالی سے پہلے ہی مجھے بوڑھا بنا دیا، میرا سر ایسا سفید ہو گیا جیسے برف کے گالے سے پہاڑ کی چوٹی سفید نظر آتی ہو۔

لفقد المصطفى بالنور حقاً رسول الله مالك من ضريب
یہ درد ان مصطفیٰ کے جاتے رہنے کا درد ہے جو نور ہی نور تھے حقیقتاً اللہ کے رسول تھے آپ کا کوئی نظیر نہ تھا۔

كریم الخيم ادوع مضر حبي طویل الباع منتخب نجيب
سرشت کے بہت ہی شریف بڑے سردار بڑے بہادر بڑے طاقتور نہایت منتخب شریف انسان۔

ثمال المعدمين وكل جار وما كل مضطهد غريب
نادار بے نواؤں کے اور تمام ہمسایوں کے والی و وارث جس پر دیسی پر ظلم ہوا ہو اس کے ناواؤں کا۔

فأما تمس في جدث مقيما فقديما عشت ذا كرم وطيب
اب اگر آپ قبر میں جا رہے ہو تو کیا ہوا آپ نے تمام زندگی بزرگی و بہتری میں بسر کی۔

و كنت مؤقفاً في كل امر وفيما ناب من حدث الخطوب
ہر امر میں تو فیق آپ کی رفیق ہوتی جو حادثہ پیش آیا آپ ہی کے طفیل اس کی مشکل آسان ہوئی۔

ولہا ایضاً

عین جودی بدمعہ تسکاب للنبی المطہر الاواب
”اے آنکھ اچھی طرح آنسو بہا، ان پیغمبر کے لیے جو پاک تھے اللہ کی جناب میں نہایت رجوع رکھنے والے تھے۔

واندبی المصطفیٰ فعی وخصی بدموع غزيرة الا سراب
مصطفیٰ کا ماتم کر اور بڑی فیاضی کے ساتھ عام و خاص آنسوؤں سے حضرت کا سوگ منا۔

عین من تذبذب بعد نبی خصہ اللہ ربنا بالکتاب

اے آنکھ! اب رسول اللہ ﷺ کے بعد اور کون ہے جسے تو روئے گی، وہی تو تھے جن کو ہمارے پروردگار اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب سے مخصوص فرمایا تھا۔

فاتح خاتم رحیم رؤوف صادق القیل طیب الاثواب
آپ فاتح تھے، خاتم الانبیاء تھے، رحیم تھے، مہربان تھے، بات کے سچے تھے، پاک لباس والے تھے۔

مشفق ناصح شفیق علینا رحمۃ من الہنا الوہاب
مشفق تھے، ناصح تھے، شفیق تھے، ہمارے نہایت آمرزگار معبود کی جانب سے ہم پر رحمت تھی۔

رحمة اللہ - والسلام علیہ وجزاه الملیک حسن الثواب
اللہ کی رحمت و سلام آپ پر ہو، اور وہ مالک الملک آپ کو بہترین جزا دے۔

ولہا ایضاً

عین جودی بدمعہ وسہور واندبی خیر ہالک مفقود
”اے آنکھ آنسو بہا اور بیدار رہ، اور ایسے گزر جانے والے کا ماتم کر جو سب میں اچھے تھے۔

واندبی المصطفیٰ بحزن شدید خالط القلب فہو کالمستود
ایسے شدید رنج کے ساتھ مصطفیٰ کا ماتم کر جو دل میں پیوست ہو گیا ہو اور دل اس رنج سے گویا ہلاک ہو رہا ہو۔

کدت اقضى الحياة لما اتاه قدر خط فی کتاب مجید
قریب تھا کہ میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر دوں جب آپ پر وہ تقدیر نازل ہوئی جو کتاب مجید میں مرقوم ہو چکی تھی۔

فلقد کان بالعباد رءوفا ولهم رحمة وخیر رشید
آپ تمام بندوں پر مہربان، ان کے حق میں رحمت اور بہترین رہنما تھے۔

رضی اللہ عنہ حیاً ومیتاً وجزاه والجنان یوم الخلود
زندگی اور موت ہر حال میں اللہ ان سے راضی رہے اور جزا میں اس بیشکلی کے دن انہیں بہشت عنایت فرمائے۔

ولہا ایضاً

آب لیلی علی بالسہاد وجفا الجنب غیر وطی الوساد
”میری رات بیداری کے ساتھ پھر آئی بے قراری سے بستر پر پہلو لگنے نہیں پاتا۔

واعترنی الہموم جدّاً بوہن لامور نزلن حقّاً شداد
ایسے غموں نے مجھے گھیر رکھا ہے، کمزور کر رکھا ہے، جو حقیقت میں سخت امور لے کے اترے ہیں۔

رحمة كان للبرية طراً فہدی من اطاعہ للسداد
وہ تمام مخلوق کے حق میں رحمت تھے، جس نے ان کی اطاعت کی اس کو راہِ راست دکھائی اور سیدھی منزل پر پہنچایا۔

طیب العود و الضریۃ والشیم محض الانساب داری الزناد
پاک سرشت، پاکیزہ منش، پاکباز نہایت شریف النسب، فیاض۔

ابلج صادق السجیۃ عف صادق الوعد منتهی الرواد
روشن خور عادت کے سچے، عقیف، راستی کے ساتھ وعدہ وفا کرنے والے، طلب گاروں کے منتہائے مقصود۔

عاش ما عاش فی البریۃ برّاً ولقد كان نہیۃ المرتاد
جب تک جیسے مخلوق میں نیکی کے ساتھ جیسے فیض حاصل کرنے والوں کے لیے ان کا فیض حقیقت میں مالِ غنیمت تھا۔

ثم ولی عناً فقیداً حمیداً فجزاہ الجنان رب العباد
نہایت قابلِ تعریف حالت میں ہم سے منہ موڑ کے چلے گئے، بندوں کا پروردگار جزائیں ان کو بہشت بخشے۔

ہند بنت الحارث بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہا کے اشعار:

یاعین جودی بدمع منک وابتدری
”اے آنکھ! ایسی فیاضی سے آنسو بہا جیسے ابر باران میں برساتا ہے۔

او فیض غروب علی عادیۃ طویت
وہ پرانا کنواں اوپر سے بند ہو گیا ہو جس طرح اندر ہی اندر نالی میں اس کا پانی بہتا ہو اسی طرح تو بھی آنسو بہا۔

لقد امتنی من الانباء معضلة
مجھے ایک دشوار خبر پہنچی ہے کہ آمنہ کے برکت والے فرزند جاتے رہے۔

انّ المبارک والمیمون فی جدث
وہ صاحبِ یمن و برکت اب ایک قبر میں ہیں، ان پر خاک کا لحاف ڈال رکھا ہے۔

الیس او سطکم بیتاً واکرمکم
کیا تم سب میں وہ شریف گھرانے کے نہ تھے، کیا تمہیں مال اور روپیہ مال میں کوئی ایسی شرافت رکھتا تھا جس میں کسی قسم کی آلائش نہ ہو۔

ہند بنت اُثاشہ کے اشعار جو سطح بن اُثاشہ کی بہن تھیں:

أشاب ذؤابتی وأذل ركنی بكاؤك فاطمة الميت الفقیدا
”اے فاطمہ اس مرنے والے پر تیرے گریہ نے میرے بال سفید کر دیے اور قد کو جھکا دیا۔

فاعطيت العطاء فلم تكدر واخلامت الولائد والعبيدا
یا حضرت آپ اس طرح عطا دیتے تھے کہ کسی کو کم ورت نہ ہوتی چھوٹی چھوٹی لڑکیوں اور غلاموں کی بھی آپ خدمت کرتے تھے۔

وكنت ملاذنا فی كل لزل اذا هبت شامية برودا
ہر ایک مشکل میں آپ ہمارے لیے جائے پناہ تھے جب ٹھنڈی ہوا چلتی اور ٹھنڈ ہوتی تو آپ ہی آرام پہنچاتے۔

وانك خير من ركب المطايا واكرمهم اذا نسوا جدودا
جتنے لوگ سوار یوں پر سوار ہوئے آپ ان سب میں بہترین تھے اور نسب میں شریف ترین تھے۔

رسول الله فارقنا وكنا نرجى ان يكون لنا خلودا
رسول اللہ (ﷺ) ہم سے جدا ہو گئے، ہم تو اپنے لیے حیات کے منتظر تھے۔

فاطم فاصبری فلقد اصابك رذيتك التهام و النجودا
اے فاطمہ! اب صبر کر تیری مصیبت نے تہام و نجد تک کو غمزدہ کر رکھا ہے۔

واهل البر و الابحار طرا فلم تخطي مصيبته وحيدا
خشکی و تری والے سب اس میں شریک ہیں اس مصیبت نے کسی کو تنہا نہیں چھوڑا۔

وكان الخیر یصبح فی زراہ سعید الجد قد ولد السعود
آپ کے دامن سے خیر و فلاح کی صبح طلوع ہوا کرتی، آپ نیک بخت تھے نیک بختی آپ سے پیدا ہوا کرتی۔

ولها ایضا

ألا یاعین بکمی لا تملی فقد بکر النعی بمن هویت
”اے آنکھ رو! گھبرا نہ جا صبح سویرے ہی ایسے کی سنائی آئی ہے جسے میں چاہتی تھی۔

قد بکر النعی بخیر شخص رسول الله حقاً ما حییت
بہترین شخص کی سنائی آئی جو اللہ کے سچے پیغمبر تھے جب تک میں زندہ رہوں ایسا دوسرا شخص نہ ملے گا۔

ولو عشنا ونحن نراک فینا وامر الله یتروک ما بکیت
اگر ہم جیتے رہتے آپ کو اپنے زمرہ میں دیکھتے کہ اللہ کے حکم نے آپ کو چھوڑ دیا ہے تو میں نہ روتی۔

فقد بکر النعی بذاک عمداً فقد عظمت مصیبة من لغیت
ماتمی نے قصداً یہ خبر مرگ بڑی بھاری مصیبت ہے۔

وقد عظمت مصیبتہ وجلت وکلّ الجهد بعدك قد لقيت
 حقیقت میں یہ مصیبت بہت ہی بڑی گئی، آپ کے بعد ہر طرح کی تکلیف مجھے پیش آئی۔
 الی ربّ البریۃ ذاک نشکو فانّ اللہ یعلم ما اتیت
 مخلوقات کے پروردگار ہی سے میں اس کی شکایت کرتی ہوں، اس لیے کہ مجھ پر جو گزری ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔
 افاطم انہ قد هد رکنی وقد عظمت مصیبتہ من رویت
 اے فاطمہ! میں پست ہو گئی واقع میں یہ بہت بڑا حادثہ ہے۔

ولہا ایضاً

قد کان بعدك ابناء وھنبہ لو کنت اشاہد ہالم تکثر الخطب
 ”آپ کے بعد طرح طرح کی خبریں آتی رہیں، ان کو دیکھنے سننے والے آپ موجود ہوتے تو معاملہ نہ بڑھتا۔
 انا فقدناک فقد الارض وابھما فاحتل لقومک واشھدھم ولاتعب
 ہم آپ کو اس طرح کھو بیٹھے جیسے پانی کو زمین کھو بیٹھے، آپ اپنی قوم میں آئے، انہیں دیکھئے ان کے ساتھ رہیے اور چلے نہ جائیے۔
 قد کنت بدرًا ونورًا یستضاء بہ علیک تنزل من ذی العزۃ الکتب
 آپ چودھویں رات کے چاند تھے، ایسے نور تھے کہ اس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، عزت والے معبود کی جانب سے آپ پر کتابیں اترتی تھیں۔

وکان جبریل بالابیات یحضرنا فغاب عنا وکلّ الغیب محتجب
 جبریل جو آیتیں لے کے ہمارے پاس آیا کرتے تھے اب ہم سے غائب ہو گئے، اور ہر ایک غیب اسی طرح پردہ میں چلا جاتا ہے۔
 فقد ردّیت ابا سہلاً خلیقته محض الضریۃ والا عراق اولعب
 میں نے حقیقت میں ایسے کی مصیبت اٹھائی ہے جو والد کی حیثیت میں تھے، عادات و اخلاق کے نہایت نرم، خالص کردار اور خاندان کے تھے۔

عاتکہ بنت زید بن عمرو بن نفیل کے اشعار:

امست مراکبہ اوحشت وقد کان یرکبھا زینھا
 ”شام ہی سے سواریاں متوحش ہیں جن پر وہ سوار ہوتے کہ سواری کی ان سے زینت بڑھ جاتی۔

وامست تبکی علی سید تردّ عبرتھا عینھا
 شام ہی سے سردار کو رو رہی ہیں آنکھ سے رہ رہ کے آنسو آتے جاتے ہیں۔

وامست نساؤک ما تستفیق من الحزن یعتادھا دینھا
 فرط رنج و غم سے آپ کی بیبیوں کو افاقہ تک نہیں رہ رہ کے رنج بڑھتا ہے۔

وامست شواحب مثل النصا ل قد عطلت وكبا لونها
وہ زرد ہو گئی ہیں اس سوفا کی سی حالت ہو گئی ہے جو بے کار ہو گیا ہو اور اس کا رنگ جاتا رہا ہو۔

يعالجن حزناً بعيد الذهاب وفي الصدر مكتنح حينها
اس رنج و غم کی چارہ گری میں جو دیر میں جانے والا ہے اور سینے میں اس کا درد ہے۔

يضر بن بالكف حرا لوجه علي مثله جادها شونها
ہتھیلیوں سے چہرے بگاڑ رہی ہیں۔ ایسے پرایا ہی ہوتا ہے۔

هو الفاضل السيد المصطفى علي الحق مجتمع دينها
وہ فاضل تھے، سردار تھے، برگزیدہ تھے ان کی وجہ سے حق پر دین مجتمع تھا۔

فكيف حياتي بعد الرسول وقد حان ميتي حينها
رسول اللہ ﷺ کے بعد اب میں کیسے حیوں، آپ تو انتقال کر گئے۔
اُم ایمن رضی اللہ عنہا کے غم ناک اشعار:

عين جودي فان بذلك للدمع شفاء فاكثري ميكاء
”اے آنکھ! اچھی طرح رو، رونا ہی شفا ہے اس لیے رونے میں کمی نہ کر۔

حين قالوا الرسول امسى فقيدا ميتا كان ذاك كل البلاء
جب لوگوں نے کہا کہ رسول ﷺ چلے گئے تو ہر قسم کی آزمائش کا یہی وقت تھا۔

وابكيا خير من رزيناہ فی الدنيا ومن خصه بوحي السماء
اے دونوں آنکھوں! اس کو روؤ جس کی مصیبت ہم پر نازل ہوئی ہے وہ دنیا میں سب سے اچھے تھے، اور وحی آسانی سے مخصوص تھے۔
بدموع غزيرة منك حتى يقضى الله فيه خير القضاء
یہاں تک روؤ کہ اللہ اپنی بہترین قضا و قدر سے کام لے۔

فلقد كان ما علمت وصولاً ولقد جاء رحمةً بالضياء
میں جانتی ہوں کہ حضرت صلہ رحم کرتے تھے رحمت بن کے اور روشنی لے کے آپ آئے تھے۔

ولقد كان بعد ذلك نوراً وسراجاً يضي في الظلماء
اسی قدر نہیں بلکہ آپ ایسے نور اور چراغ تھے جو تاریکی میں روشن ہو۔

طيب العود و الضريبة والمعدن والخيم خاتم الانبياء
پاک فخلت پاک منش پاک خاندان پاک عادت اور آخری پیغمبر تھے۔

رسول اللہ ﷺ کے واقعات یہاں ختم ہو گئے۔

صحابہ رضی اللہ عنہم کی اتباع و پیروی کا حکم

مناقب شیعین:

حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ان دونوں کی پیروی کرو جو میرے بعد ہوں گے (یعنی ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما)۔

حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی ﷺ کے پاس بیٹھے تھے کہ آپؐ نے فرمایا: مجھے معلوم نہیں کہ تم لوگوں میں میرا کس قدر رہنا ہوگا۔ لہذا تم لوگ ان دونوں کی پیروی کرنا جو میرے بعد ہوں گے آپؐ نے ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کی طرف اشارہ کیا۔

حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور سلسلے سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی ﷺ کے پاس بیٹھے تھے کہ آپؐ نے فرمایا: مجھے معلوم نہیں کہ تم لوگوں کے درمیان میری کتنی زندگی باقی ہے لہذا تم لوگ ان دونوں کی اقتدا کرنا جو میرے بعد ہوں گے اور آپؐ نے ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کی طرف اشارہ کیا اور تم لوگ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی ہدایت پانا اور ابن ام امام عہد کے عہد سے تمسک کرنا۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ان سے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں لوگوں کو فتویٰ کون دیتا تھا تو انہوں نے کہا کہ ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کہ ان دونوں کے سوا میں کسی اور کو نہیں جانتا۔

قاسم بن محمد سے مروی ہے کہ ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں فتویٰ دیا کرتے تھے۔

حمزہ بن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے نبی ﷺ سے سنا کہ میں جس وقت سو رہا تھا تو میرے پاس ایک پیالہ دودھ کالا لایا گیا۔ میں نے پیا یہاں تک کہ اس کی خوشبو میرے ناخنوں میں جاری ہے میں نے اپنا بچا ہوا عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا، لوگوں نے پوچھا کہ آپ ﷺ نے اس کی کیا تعبیر لی فرمایا علم۔

خفاف بن ایماء سے مروی ہے کہ وہ جمعہ کی نماز عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے جب عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ پڑھا تو میں نے انہیں (عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو) کہتے سنا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اے عمر رضی اللہ عنہ آپ معلم ہیں عبد الرحمن بن ابی الزناد کو ان سے تعجب ہوا میں نے کہا اے ابو محمد تم ان سے کیوں تعجب کرتے ہو انہوں نے کہا میں نے ابن ابی عتیق سے سنا کہ وہ اپنے والد سے اور وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں کہ اس کی امت میں ایک یا دو معلم نہ ہوتے ہوں اگر میری امت میں کوئی معلم ہوگا تو وہ ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ہوں گے حق عمر رضی اللہ عنہ کے زبان و دل پر ہے۔

ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے سنا کہ اللہ نے حق کو عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر رکھ دیا ہے جس کو وہ کہتے ہیں۔ نافع بن عمر سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ اللہ نے حق کو عمر رضی اللہ عنہ کی زبان و دل پر کر دیا۔

ہارون البربری نے کسی اہل مدینہ سے روایت کی کہ میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا گیا تو میں نے فقہاء (علماء) کو ان کے پاس بچوں کی طرح دیکھا جن پر وہ (عمر رضی اللہ عنہ) اپنے علم وقفہ میں غالب تھے۔

شقیق سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر عرب کے زندہ لوگوں کا علم ایک پلے میں اور عمر رضی اللہ عنہ کا علم ایک پلے میں رکھا جائے تو بے شک ان سے عمر رضی اللہ عنہ ہی کے علم کا پلہ جھک جائے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر ہم عمر رضی اللہ عنہ کا حساب لگائیں تو وہ ۹۱۰۰ حصہ علم کا لے گئے۔

شمر سے مروی ہے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا گویا تمام لوگوں کا علم عمر رضی اللہ عنہ کے ایک ناخن کے گوشت کے نیچے پوشیدہ تھا۔
عمر سے مروی ہے کہ جب کسی امر میں لوگ اختلاف کرتے تھے تو میں دیکھتا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس میں کیا فیصلہ کیا ہے کیونکہ وہ کسی امر میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کرتے تھے تاوقتیکہ ان کے قبل اس میں فیصلہ نہ کیا گیا ہو یہاں تک کہ وہ مشورہ لیتے تھے۔

محمد سے مروی ہے کہ میں نے عبیدہ سے دادا کی میراث یا حصے کی کوئی بات پوچھی تو انہوں نے کہا کہ تم اس کی طرف کیا قصد رکھتے ہو میں نے اس کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ کے سو فیصلے یاد رکھے ہیں میں نے کہا (سو میں) سب کے سب عمر رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ تو انہوں نے کہا سب عمر رضی اللہ عنہ کے ہیں۔

سعد بن ابراہیم نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن مسعود اور ابوالدرداء اور ابوذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ حدیث رسول اللہ ﷺ سے کیا ہے پھر خود ہی فرمایا کہ میں اسے جانتا ہوں انہوں نے ان تینوں کو اپنی وفات تک مدینے سے نکلنے نہ دیا۔

محمود بن لبید سے مروی ہے کہ میں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو منبر پر کہتے سنا کہ کسی شخص کو اس حدیث کی روایت جائز نہیں جو اس نے نہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سنی ہو نہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مجھے رسول اللہ ﷺ سے حدیث بیان کرنے میں کوئی مانع نہیں آگاہ رہو کہ میں آپ کے ان اصحاب میں سے ہوں جو آپ سے حدیث کو خوب یاد رکھنے والے ہیں آگاہ ہو کہ میں نے آپ کو فرماتے سنا ہے کہ جس نے مجھ پر وہ بات کہی جو میں نے نہیں کہی تو اس نے اپنی نشستگاہ آگ کی بنالی (یعنی اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے)۔

علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی قوت فیصلہ:

علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے یمن بھیجا تو میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ آپ مجھے بھیجتے ہیں حالانکہ میں جوان ہوں ان لوگوں کے درمیان مجھے فیصلہ کرنا ہوگا حالانکہ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ فیصلہ کیا چیز ہے آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر پھیرا پھر فرمایا اے اللہ ان کے قلب کو ہدایت کر اور ان کی زبان کو ثابت کر قسم ہے اس ذات کی جس نے (زمین سے) دانہ نکالا کہ پھر مجھے دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں شک نہیں ہوا۔

علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے قاضی بنا کر یمن بھیجا میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ آپ مجھے ایسی قوم کی طرف بھیجتے ہیں جو مجھ سے سوال کرے گا حالانکہ مجھے قضاء (فیصلہ کرنے) کا علم نہیں ہے آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور

فرمایا کہ اللہ تمہارے قلب کو ہدایت کرے گا اور تمہاری زبان کو ثابت کرے گا، دوڑنے والے جو تمہارے سامنے بیٹھیں تو اس وقت تک فیصلہ نہ کرنا جب تک کہ دوسرے سے بھی سن نہ لینا جیسا کہ پہلے سے تم نے سنا، کیونکہ یہ طریقہ زیادہ مناسب ہے کہ تمہارے لیے اس سے فیصلہ ظاہر ہو جائے۔ میں برابر قاضی رہا یا (یہ کہا کہ) اس کے بعد مجھے فیصلہ کرنے میں کبھی شک نہیں ہوا۔

علی رضی اللہ عنہ سے (بہ دو سلسلہ) مروی ہے کہ مجھے نبی ﷺ نے یمن بھیجا۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ آپ مجھے ایسی پرانی اور بڑی قوم کی طرف بھیجتے ہیں جو سن رسیدہ ہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ میں صواب کو نہ پہنچوں گا، فرمایا اللہ تمہاری زبان کو ثابت کرے گا اور تمہارے قلب کو ہدایت کرے گا۔

سلیمان الامسی نے اپنے والد سے روایت کی کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی آیت ایسی نہیں نازل ہوئی میرے رب نے مجھے ایسا قلب عطا کیا ہے جو عقل والا ہے اور ایسی زبان دی ہے جو گویا ہے۔

ابی الطفیل سے مروی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے کتاب اللہ کو پوچھو کیونکہ اس کی کوئی آیت ایسی نہیں جس کو میں نہ جانتا ہوں کہ وہ رات کو نازل ہوئی یا دن کو، ہموار زمین پر نازل ہوئی یا پہاڑ پر۔

محمد سے مروی ہے کہ مجھے اطلاع دی گئی کہ علی رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت سے تاخیر کی، انہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ ملے تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے میری امارت کو ناپسند کیا، انہوں نے کہا نہیں، میں نے ایک قسم کھائی تھی کہ میں اپنی چادر سوائے نماز کے لیے جانے کے اور کسی ضرورت سے نہ اوڑھوں گا، تا وقتیکہ قرآن کو جمع نہ کر لوں، لوگوں نے خیال کیا کہ انہوں نے قرآن کو اس کی تزیل کے مطابق لکھا ہے محمد نے کہا کہ اگر یہ تحریر (قرآن) پائی جاتی تو اس میں ایک علم ہوتا، ابن عون نے کہا کہ میں نے عکرمہ سے اس تحریر کو پوچھا تو وہ اسے نہیں جانتے تھے۔

عبداللہ بن محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ کے لیے کیا تھا کہ آپ حدیث میں رسول اللہ ﷺ کے اصحاب میں سب سے بڑھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ میں جب آپ سے پوچھا کرتا تھا تو آپ مجھے بتا دیتے تھے اور جب میں خاموش رہتا تو از خود شروع کرتے تھے۔

ساک بن حرب سے مروی ہے کہ میں نے عکرمہ سے سنا کہ وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ جب کوئی ثقہ (معتبر آدمی) ہم سے علی رضی اللہ عنہ کی جانب سے کوئی فتویٰ بیان کرتا تو ہم اس کے خلاف نہ کرتے۔ عبداللہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ بیان کیا کرتے تھے کہ اہل مدینہ میں علم قضاء کے سب سے بڑے عالم علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں۔

ابی اسحاق سے مروی ہے کہ عبداللہ کہا کرتے تھے کہ اہل مدینہ میں علم قضاء کے سب سے بڑے عالم علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ ہم سب سے زیادہ قضاء کے عالم ہیں۔ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اپنے اصحاب کے پاس گئے اور فرمایا آج میں نے ایک کام کیا ہے مجھے اس کے بارے میں تم لوگ فتویٰ دو، انہوں نے کہا اے امیر المؤمنین وہ کیا ہے، فرمایا، میرے پاس سے ایک جاریہ (لوٹدی) گزری، مجھے وہ اچھی معلوم ہوئی میں نے اس سے جماع کیا حالانکہ میں روزہ دار تھا، ساری جماعت نے اس کو ان پر گراں

سمجھا، علی رضی اللہ عنہ خاموش رہے، انہوں نے فرمایا اے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تم کیا کہتے ہو، انہوں نے کہا آپ نے حلال کام کیا، ایک دن کے بدلے ایک دن کا روزہ رکھ لیجئے، انہوں نے کہا تمہارا فتویٰ سب سے بہتر ہے۔

سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ اس امر مشکل و دشوار سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے جس کے حل کرنے میں ابوحسن رضی اللہ عنہ نہ ہوں۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک روز عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں خطبہ سنایا اور کہا کہ علی رضی اللہ عنہ ہم سب سے زیادہ علم قضاء کے ماہر ہیں، ابی ہم سب سے زیادہ قرآن کے ماہر ہیں، ہم ان میں سے کچھ اشیاء چھوڑیں گے جو ابی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، میں رسول اللہ ﷺ کے قول کو نہ چھوڑوں گا، حالانکہ ابی کے بعد ایک کتاب نازل ہوئی ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم سب سے زیادہ قضا کے جاننے والے علی رضی اللہ عنہ ہیں اور ہم سب سے زیادہ قرآن کے جاننے والے ابی ہیں۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم سب سے زیادہ عالم قضاء علی رضی اللہ عنہ ہیں اور ہم سب سے زیادہ عالم قرآن ابی اور ہم بہت کچھ ابی کی قراءت کی وجہ سے چھوڑتے ہیں۔

سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ ہم سب سے زیادہ فیصلے کے ماہر ہیں اور ابی ہم سب سے زیادہ قرآن کے ماہر ہیں۔

عطاء سے مروی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ ہم سب سے زیادہ قضا کے ماہر ہیں اور ابی ہم سب سے زیادہ قرآن کے عالم ہیں۔

عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا فقہی مقام:

عبداللہ بن دینار الاسلمی نے اپنے والد سے روایت کی کہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں جو کچھ آنحضرت ﷺ سے سنتے تھے اس کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے اور ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم بھی۔

ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی امتیازی حیثیت:

ابی بن کعب و انس و ابوجہ بدری اور انس سے (ایک اور سلسلے سے) مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ابی بن کعب سے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں، بعض رواۃ نے کہا کہ (بجائے قرآن کے) فلاں فلاں سورت (فرمایا) انہوں نے کہا کیا میرا وہاں ذکر کیا گیا ہے بعض رواۃ نے کہا کہ (ابی نے کہا کہ کیا) اللہ نے آپ سے میرا نام لیا ہے آپ نے فرمایا ہاں، ان کی آنکھوں سے خوشی سے آنسو جاری ہو گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”فبفضل اللہ برحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون“ (اللہ کے فضل و رحمت سے، پھر اسی سے انہیں خوش ہونا چاہیے جو اس سے بہتر ہے کہ وہ جمع کرتے ہیں)۔

انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے انہیں سورہ لم یکن سنائی تھی۔

سائب بن یزید سے مروی ہے کہ جب اللہ نے اپنے رسول پر: ”اقرأ باسم ربك الذي خلق“ نازل کی تو نبی ﷺ ابی بن کعب کے پاس آئے اور فرمایا کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے پاس آؤں تاکہ تم اس سورت کو سیکھ لو اور اسے

حفظ کرو! ابی بن کعب نے کہا یا رسول اللہ ﷺ کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ سے روایت کی کہ میری اُمت کے سب سے بڑے عالم قرآن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں۔ ابوفروہ نے کہا کہ میں نے عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کو کہتے سنا کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابی ہم سب سے زیادہ عالم قرآن ہیں۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا علم قرآن:

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سوال کیا گیا تم لوگ دو قراءتوں میں سے کس کو اولیٰ شمار کرتے ہو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قراءت کو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کو ہر سال رمضان میں ایک مرتبہ قرآن سنایا جاتا تھا سوائے اس سال کے جس میں آپ کی وفات ہوئی، کیونکہ اس رمضان میں آپ کو دو مرتبہ قرآن سنایا گیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور اس میں سے جو منسوخ ہو گیا یا بدل دیا گیا، وہ انہیں معلوم ہے۔

مسروق سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی سورت ایسی نہیں نازل ہوئی کہ اس کے متعلق مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کس بارے میں نازل کی گئی، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ کوئی شخص کسی ایسے مقام پر مجھ سے زیادہ کتاب اللہ کا عالم ہے جہاں اونٹ یا سواریاں پہنچائیں گی تو میں اس کے پاس ضرور جاتا۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے ستر سے زائد سورتیں رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے حاصل کیں۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے (بہ دو سلسلہ) مروی ہے کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ، میں نے کہا کہ میں آپ کو کیسے سناؤں، حالانکہ آپ ہی پر نازل کیا گیا ہے آپ نے فرمایا کہ میں سننا چاہتا ہوں (دوبہب نے اپنی حدیث میں بیان کیا کہ) میں چاہتا ہوں کہ اسے اپنے سوا کسی اور سے بھی سنوں، میں نے آپ کو سورۃ النساء سنائی یہاں تک کہ جب میں ان آیات پر پہنچا ”فکیف اذا جئنا من کل امة بشہید وجئناک علی ہؤلاء شہیدا“ (پھر اس وقت کیونکر ہوگا جب ہم ہر امت کا گواہ لائیں گے اور آپ کو ان گواہوں پر گواہ لائیں گے) (صرف ابوالعیم نے اپنی حدیث میں کہا کہ) آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اتنا سنا تا تمہیں کافی ہے (اور دونوں سلسلے کے راویوں نے کہا کہ) (پھر میں نے آپ کی طرف دیکھا تو نبی ﷺ کی آنکھیں آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھیں، آپ نے فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ وہ قرآن کی تازہ قراءت کرے جیسا کہ وہ نازل ہوا ہے تو اسے اس کو ابن ام عبد (عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ) کی قراءت میں پڑھنا چاہیے۔

مسروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ گویا میں اصحاب محمد ﷺ کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں نے انہیں مثل حوض کے پایا، ایک حوض وہ ہے جو ایک آدمی کو سیراب کرتا ہے، ایک حوض وہ ہے جو دو کو سیراب کرتا ہے، ایک حوض وہ ہے جو سو کو سیراب کرتا ہے، ایک حوض وہ ہے کہ اگر اس پر تمام زمین کے باشندے اتر آئیں تو وہ انہیں بھی سیراب کر دے، میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اسی قسم کے حوض کے مثل پایا (جو روئے زمین کو سیراب کر دے)۔

ابوالاحوص سے مروی ہے کہ اصحاب نبی ﷺ کی ایک جماعت (یاراوی نے یہ کہا کہ) نبی ﷺ کے چند اصحاب

ابوموسیٰ کے مکان میں قرآن کا دور کر رہے تھے، عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور باہر گئے تو ابومسعود نے کہا کہ جو کچھ اللہ نے محمد ﷺ پر نازل کیا اسے یہ شخص جو باہر چلا گیا ان لوگوں سے زیادہ جانتا ہے، جو یہاں رہ گئے اور جو دوسرے مقام پر ہیں، ابوموسیٰ نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو جب ہم لوگ پوشیدہ ہو جائیں گے تو اس کی بات سنی جائے گی اور جب ہم لوگ غائب ہوں گے تو وہ موجود ہوگا۔

ابو عمرو شیبانی سے مروی ہے کہ ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم لوگ مجھ سے نہ پوچھا کرو جب تک یہ علامہ تم میں ہیں، یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔

ابو عطیہ الہمدانی سے مروی ہے کہ میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا اور ایک مسئلہ پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ تم نے میرے سوا کسی اور سے بھی اس کو پوچھا ہے، اس نے کہا ہاں ابوموسیٰ سے پوچھا ہے، اس نے انہیں ان کے قول کی اطلاع دی تو عبد اللہ نے اس شخص کی مخالفت کی اور کھڑے ہو کر کہا کہ تم لوگ مجھ سے کچھ دریافت نہ کرو جب تک کہ یہ علامہ تمہارے درمیان ہیں۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ستر سورتیں نبی ﷺ کی زبان مبارک سے سیکھیں جن میں کوئی میرا شریک نہیں۔ شقیق بن سلمہ سے مروی ہے کہ جس وقت قراءتوں کے متعلق جو حکم دیا گیا تو عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہمیں خطبہ سنایا، انہوں نے غلول (خیانت) کا ذکر کیا اور کہا کہ ”من یغل یات بما غل یوم القیامۃ“ (جو شخص خیانت کرے گا تو جس چیز کی اس نے خیانت کی ہے اسے قیامت میں وہ لائے گا) لوگوں نے قراءتوں میں خیانت کی ہے، مجھے اپنے محبوب کی قراءت پر پڑھنا اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی قراءت پر پڑھوں، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اس وقت رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے ستر سے زائد سورتیں حاصل کی ہیں کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اتنے بچے تھے کہ ان کے دو گیسو تھے اور داڑھی نہ تھی اور بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔

پھر فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں اگر میں کسی ایسے شخص کو جانتا جو کتاب اللہ کا مجھ سے زیادہ عالم ہو اور وہ ایسے مقام پر ہوتا کہ اس کے پاس اونٹ پہنچاتا تو میں ضرور اس کے پاس جاتا پھر عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ چلے گئے شقیق نے کہا کہ میں مختلف حلقوں میں بیٹھا جن میں اصحاب رسول اللہ ﷺ وغیرہم تھے مگر میں نے کسی کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کی تردید کرتے نہیں سنا۔

زید بن وہب سے مروی ہے کہ ایک روز عبد اللہ اس حالت میں آئے کہ عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے ان کو آتے دیکھا تو فرمایا کہ یہ ایک صندوق ہے جو فقہ سے بھرا ہوا ہے اعمش نے بجائے فقہ کے علم کہا۔

اسد بن وداعہ سے مروی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا اور فرمایا کہ وہ ایک صندوق ہیں جو علم سے بھرا ہوا ہے، جن کی وجہ سے میں نے اہل قادیسیہ کا اکرام کیا ہے۔

ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی عظیم الشان قراءت:

عائشہ رضی اللہ عنہا سے (یہ دو سلسلہ) اور عبد اللہ بن بریدہ کے والد سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ

کی قراءت سنی اور فرمایا کہ ان کو آل داؤد کے مزامیر (باجوں) میں سے حصہ دیا گیا ہے۔

انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک رات کو کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ ازواج نبی ﷺ نے ان کی آواز سنی وہ بڑے خوش آواز تھے وہ کھڑی سنتی رہیں جب صبح ہو گئی تو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ ازواج سن رہی تھیں انہوں نے کہا کہ اگر مجھے علم ہوتا تو میں ضرور تم کو (تم عورتوں کو) اور اچھی طرح سنا تا اور تم (عورتوں) کو مزید شوق دلاتا (راوی) حماد نے کہا کہ میں تم (مردوں) کو اور اچھی طرح سنا تا اور تم (مردوں) کو مزید شوق دلاتا۔

انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے اشعری رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے اشعری کو کس حالت میں چھوڑا میں نے کہا کہ انہیں اس حالت میں چھوڑا ہے کہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھا رہے تھے آپ نے فرمایا دیکھو وہ عقلی و فہیم ہیں مگر یہ بات انہیں نہ سنا تا پھر مجھ سے فرمایا کہ تم نے اعراب کو کس حالت میں چھوڑا میں نے کہا اشعریوں کو انہوں نے کہا نہیں بلکہ اہل بصرہ کو میں نے کہا دیکھئے اگر وہ یہ بات (یعنی اعراب کہتا) سن لیں تو انہیں ضرور ناگوار ہو انہیں خبر نہ کرنا کیونکہ وہ اعراب (دیہاتی) ہیں مگر یہ کہ اللہ کوئی ایسا آدمی عطا کرے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہو۔

سلیمان یا کسی اور سے مروی ہے کہ وہ ابو موسیٰ کے کلام کو اس قصائی سے تشبیہ دیتے تھے جو ہڈی کا جوڑ معلوم کرنے میں خطا نہیں کرتا۔

قنادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابو موسیٰ نے کہا کہ قاضی کو مناسب نہیں کہ وہ فیصلہ کرے تا وقتیکہ اسے حق اتنا واضح نہ ہو جائے جیسا کہ رات دن سے ظاہر ہو جاتی ہے عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے فرمایا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے سچ کہا۔
اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم:

ابو ایوب اشعری سے مروی ہے کہ ہم علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے اصحاب محمد ﷺ کا حال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ان میں سے کس کا حال ہم نے کہا کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا حال بیان کیجئے انہوں نے کہا کہ وہ حدیث و قرآن کے عالم ہوئے اس علم کی انتہا کو پہنچے اور انہیں یہ علم کافی تھا۔

ہم نے کہا کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کا حال بیان کیجئے تو کہا کہ وہ کافی طور پر علم میں رنگے ہوئے تھے پھر وہ اس رنگ سے باہر ہو گئے۔

ہم نے کہا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا حال بیان کیجئے تو فرمایا کہ وہ مومن تھے جو بھول گئے جب یاد دلا یا گیا تو یاد کر لیا۔

ہم نے کہا کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کا حال بیان کیجئے تو کہا کہ اصحاب محمد میں سب سے زیادہ منافقین کا علم رکھنے والے تھے۔

ہم نے کہا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کا حال بیان کیجئے تو کہا کہ انہوں نے علم کو یاد کیا پھر اس میں عاجز ہو گئے۔

ہم نے کہا کہ سلمان رضی اللہ عنہ کا حال بتائیے تو کہا کہ انہوں نے علم اول و علم آخر کو پایا وہ ایک ایسے ربار کے مانند تھے جس کی گہرائی کو ہم اہل بیت میں سے بھی کوئی نہیں پاسکتا۔

ہم نے کہا: اے امیر المومنین آپ اپنا حال بیان کیجئے فرمایا: میرا حال تم پوچھتے ہو میرا حال یہ ہے کہ جب میں رسول اللہ

ﷺ سے سوال کرتا تھا تو مجھے عطا ہوتا تھا اور جب میں خاموش رہتا تھا تو از خود میرے ساتھ ابتدا کی جاتی تھی۔
 قتادہ وابن سیرین سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے ابورواء عویر سے فرمایا کہ سلمان تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ ابوصالح نے
 نبی ﷺ سے روایت کی کہ سلمان کو ان کی ماں روئے کہ وہ علم سے شکم سیر کر دیئے گئے ہیں۔
 معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی عظمت:

محمد بن کعب القرظی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن بقدر فاصلہ حد نظر معاذ بن
 جبل رضی اللہ عنہ علماء کے آگے آئیں گے۔

ابی عون سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن معاذ بقدر حد نظر علماء کے آگے ہوں گے۔
 حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے لیے علماء کے آگے
 علیحدہ جگہ ہوگی۔

محمد بن کعب القرظی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بقدر حد نظر علماء کے
 آگے ہوں گے۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ حلال و حرام کا علم رکھنے
 والے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہیں۔

معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب مجھے رسول اللہ ﷺ نے یمن بھیجا تو فرمایا: اگر تمہارے سامنے کوئی قضیہ پیش کیا
 گیا تو تم کس چیز (قانون) سے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا جو کتاب اللہ میں ہے اس کے موافق فیصلہ کروں گا، آپ نے فرمایا اگر
 کتاب اللہ میں نہ ہو؟ انہوں نے کہا کہ جو رسول نے فیصلہ کیا اس کے مطابق فیصلہ کروں گا، آپ نے فرمایا: اگر وہ (قضیہ) ان میں
 سے نہ ہو جس کا رسول نے فیصلہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور کوتاہی نہ کروں گا پھر آپ نے میرے سینے پر
 ہاتھ مارا اور فرمایا کہ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے رسول اللہ ﷺ کے قاصد کو اس امر کی توفیق دی جس سے رسول اللہ
 ﷺ راضی ہیں۔

مجاہد سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب حنین روانہ ہوئے تو آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ککے میں چھوڑ دیا تاکہ وہ
 اہل مکہ کو فقہ کی تعلیم دیں اور انہیں قرآن پڑھائیں۔

موسیٰ بن علی بن رباح نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے الجابیہ میں خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ جو شخص
 فقہ کو پوچھنا چاہے وہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔

ایوب بن نعمان بن عبد اللہ بن کعب نے اپنے والد سے اور انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہ جس وقت معاذ بن
 جبل رضی اللہ عنہ شام روانہ ہو گئے تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ ان کی روانگی نے مدینے و اہل مدینہ کو فقہ میں اور جن امور میں
 وہ ان کو فتویٰ دیا کرتے تھے محتاج بنا دیا حالانکہ میں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے لوگوں کو ان کا حاجت مند ہونے کی وجہ سے کہا تھا کہ وہ انہیں
 روک لیں، مگر انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ جس شخص نے جہاد کا ارادہ کیا اور جو شہادت چاہتا ہے تو میں اسے نہیں روکوں گا میں نے کہا

واللہ آدمی کو شہادت عطا کر دی جاتی ہے حالانکہ وہ اپنے گھر میں اپنے بستر پر ہوتا ہے جو اپنے شہر سے پورا بے نیاز ہوتا ہے کعب بن مالک نے کہا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کی حیات میں ہی فتویٰ دیا کرتے تھے۔

شہر بن حوشب سے مروی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قیامت کے روز جب علماء حاضر ہوں گے تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بقدر پتھر پھینکنے کی جگہ کے ان کے آگے ہوں گے۔

عامر سے مروی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ معاذ اس آیت کے مصداق تھے: ”کان امة قانتا لله حنیفا ولم یکن من المشرکین“ (وہ ایسے پیشوا تھے جو یکسوئی کے ساتھ اللہ کے مطیع تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے) ایک شخص نے ان سے کہا کہ اے ابوعبدالرحمن آپ اس آیت کے مطلب و مصداق کو بھول گئے، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں ہے انہوں نے کہا ”نہیں“ ہم انہیں ابراہیم سے تشبیہ دیتے تھے امت وہ شخص ہے جو لوگوں کو خیر کی تعلیم کرے اور قانت وہ ہے جو فرماں بردار ہو۔

فروہ بن نوفل اشجعی سے مروی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ایسے پیشوا تھے جو یکسوئی کے ساتھ اللہ کے مطیع تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے، میں نے کہا کہ ابوعبدالرحمن نے غلطی کی اللہ نے تو ابراہیم ہی کو کہا کہ وہ ایسے پیشوا تھے جو یکسوئی کے ساتھ اللہ کے مطیع تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے، میں سمجھ گیا کہ انہوں نے یہ امر قصداً کیا، اس لیے خاموش ہو گیا، انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ ”امۃ“ کیا ہے اور ”قانت“ کیا ہے میں نے کہا اللہ زیادہ جانتا ہے انہوں نے کہا کہ امۃ وہ ہے جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے اور قانت وہ ہے جو اللہ کا اور اس کے رسول کا مطیع ہو اور معاذ بھی ایسے ہی تھے جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتے تھے اور اللہ اور اس کے رسول کے مطیع تھے۔

سروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس تھے انہوں نے کہا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ایسے پیشوا تھے جو یکسوئی کے ساتھ اللہ کے مطیع تھے فروہ بن نوفل نے ان سے کہا کہ ابوعبدالرحمن بھول گئے، آپ کی مراد ابراہیم ہیں، انہوں نے کہا: کیا تم نے مجھے ابراہیم کا ذکر کرتے سنا؟ ہم تو معاذ کو ابراہیم سے تشبیہ دیتے ہیں یا انہیں ان کے ساتھ تشبیہ دی جاتی تھی ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ ”امۃ“ کیا ہے تو انہوں نے کہا وہ شخص ہے جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے اور قانت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا مطیع ہو۔

ابوالاحوص سے مروی ہے کہ ایک روز ابن مسعود اپنے اصحاب سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ معاذ ایسے پیشوا تھے جو یکسوئی کے ساتھ اللہ کے مطیع تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے، ایک شخص نے کہا اے ابوعبدالرحمن! ابراہیم ایسے پیشوا تھے جو مطیع تھے اس شخص نے یہ گمان کیا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو وہم ہو گیا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا امۃ وہ ہے جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے پھر انہوں نے کہا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ قانت کیا ہے لوگوں نے کہا ”نہیں“ تو انہوں نے کہا کہ قانت وہ ہے جو اللہ کا مطیع ہو۔

خالد بن معدان سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ ہم سے دونوں عاقلوں کا حال بیان کرو کہا جاتا تھا کہ دونوں عاقل کون ہیں تو وہ کہتے تھے کہ معاذ اور ابودالدرداء رضی اللہ عنہما۔

امش سے مروی ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ علم کو حاصل کرو جس طرح سے وہ تمہارے پاس آئے۔

اہل علم و فتویٰ اصحاب رسول ﷺ:

عبدالرحمن بن قاسم نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب کوئی ایسا امر پیش آتا جس میں وہ اہل الرائے اور اہل علم کا مشورہ لینا چاہتے اور مہاجرین و انصار کے آدمیوں کو بلاتے تو وہ عمر، عثمان، علی، عبدالرحمن بن عوف، معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم کو بھی بلاتے تھے یہ لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں فتویٰ دیا کرتے تھے اور لوگوں کا فتویٰ صرف انہیں لوگوں کے پاس جاتا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ اسی حالت پر گزر گئے عمر رضی اللہ عنہ والی ہوئے وہ بھی اسی جماعت کو بلاتے تھے جب وہ خلیفہ تھے تو فتویٰ عثمان و ابی وزید رضی اللہ عنہم کے پاس جاتا تھا۔

محمد بن سہل بن ابی حیثمہ نے اپنے والد سے روایت کی رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں جو لوگ فتویٰ دیتے تھے وہ تین آدمی مہاجرین کے تھے اور تین انصار کے عمر، عثمان و علی اور ابی بن کعب، معاذ بن جبل و زید بن ثابت رضی اللہ عنہم۔

عبداللہ بن وینار الاسلمی نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی خلافت میں جب کوئی امر شدید پیش آتا تھا تو وہ اہل شوریٰ انصار، معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم سے مشورہ طلب کرتے تھے۔

المسور بن مخرمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کا علم چھ شخصوں تک ختم ہوتا تھا عمر، عثمان، علی، معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم (یعنی ہر شخص کو انہیں چھ سے علم حاصل ہوا)۔

مسروق سے مروی ہے کہ میں نے اصحاب رسول اللہ ﷺ کے علم کی خوشبو حاصل کی تو میں نے ان کے علم کی انتہا چھ پر پائی عمر، علی، عبداللہ، معاذ، ابوالدرداء اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم پھر میں نے ان کے علم کی خوشبو حاصل کی تو مجھے ان کے علم کی انتہا علی و عبداللہ رضی اللہ عنہ پر ملی۔

عامر سے مروی ہے کہ اس امت میں نبی ﷺ کے بعد چھ علماء ہوئے عمر، عبداللہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہم جب عمر رضی اللہ عنہ کوئی بات کہتے تھے اور یہ دونوں بھی کوئی بات کہتے تھے تو ان دونوں کا قول ان کے قول کے تابع ہوتا تھا اور علی، ابی بن کعب، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم جب علی رضی اللہ عنہ کوئی بات کہتے تھے اور یہ دونوں بھی کوئی بات کہتے تھے تو ان دونوں کا قول علی رضی اللہ عنہ کے تابع ہوتا تھا۔

مسروق سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے اصحاب رضی اللہ عنہم میں سے عمر، علی، ابن مسعود، زید، ابی بن کعب اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم صاحب فتویٰ تھے۔

عامر سے مروی ہے کہ اس امت کے قاضی چار ہیں عمر، علی، زید، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم اور اس امت کے عقلاء چار ہیں عمرو بن العاص، معاویہ بن ابی سفیان و مغیرہ بن شعبہ و زید رضی اللہ عنہم۔

عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ چار آدمیوں سے قرآن حاصل کرو: عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب، معاذ بن جبل و سالم مولائے ابی حذیفہ رضی اللہ عنہم۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب مہاجرین و انصار رسول اللہ ﷺ کے آنے سے پہلے مکہ سے مدینے آئے تو وہ العصبہ میں اترے العصبہ قباء کے قریب ہے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے مولیٰ سالم ان کی امامت کرتے تھے اس لیے کہ وہ ان سب سے زیادہ قرآن جانتے تھے عبداللہ بن نمیر نے اپنی حدیث میں کہا کہ ان مہاجرین و انصار میں عمر بن الخطاب و ابوسلمہ بن عبدالاسد رضی اللہ عنہما

بھی تھے۔

عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا علم کتاب:

یزید بن عیرہ السکسی سے جو معاذ کے شاگرد تھے مروی ہے کہ معاذ نے انھیں حکم دیا کہ وہ چار سے طلب علم کریں، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن سلام، سلمان فارسی اور عویر ابوالدرداء رضی اللہ عنہم سے۔

معاذ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح کی حدیث مروی ہے۔

معبدا الجعفی سے مروی ہے کہ ایک شخص تھے جن کا نام یزید بن عیرہ السکسی تھا وہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے انہوں نے بیان کیا کہ جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا وقت وفات آیا تو یزید ان کے سرہانے بیٹھے رو رہے تھے ان کی طرف معاذ رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور کہا کہ تمہیں کیا چیز رلاتی ہے یزید نے کہا دیکھئے میں دنیا کے لیے نہیں روتا جو مجھے آپ سے پہنچتی تھی میں اس علم کے لیے روتا ہوں جو مجھ سے فوت ہو گیا، معاذ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ علم جیسا تھا گیا نہیں، میرے بعد تم چار آدمیوں سے علم حاصل کرنا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے جن کو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ وہ ان دس آدمیوں کے دسویں ہیں جو جنت میں ہوں گے اور عمر رضی اللہ عنہ سے لیکن عمر رضی اللہ عنہ کو تمہارے لیے فرصت نہ ہوگی اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے۔

معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوگئی اور یزید کو فتنے میں آگئے، وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی مجلس میں آئے ان سے ملے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ایسے پیشوا تھے جو یکسوئی کے ساتھ اللہ کے مطیع تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے ان کے اصحاب نے کہا کہ ابراہیم ایسے پیشوا تھے جو یکسوئی کے ساتھ اللہ کے مطیع تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ایسے پیشوا تھے جو یکسوئی کے ساتھ اللہ کے مطیع تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔

مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ”ومن عنده علم الكتاب“ (اور وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے) انہوں نے کہا کہ ان کا نام عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ہے۔

مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ”وشهد شاهد من بنی اسرائیل علی مثلہ“ (اس قسم کی بات کی بنی اسرائیل کے ایک شاہد نے شہادت دی) انہوں نے کہا کہ اس شاہد کا نام عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ہے۔

عطیہ سے اللہ کے اس قول میں مروی ہے کہ ”ان یعلم علماء بنی اسرائیل“ (اے بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں) انہوں نے کہا کہ وہ علمائے بنی اسرائیل پانچ تھے جن میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ابن یامین، ثعلبہ بن قیس اسد واسید تھے۔

ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کی شان علم:

زاوان سے مروی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سے ابوذر رضی اللہ عنہ کو دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ انہوں نے علم کو حفظ کیا جس میں وہ عاجز رہے وہ بخیل و حریص تھے اپنے دین پر بخیل تھے اور علم پر حریص تھے وہ کثرت سوال کیا کرتے تھے۔ انہیں علم عطا ہوتا تھا، اور انہیں روک دیا جاتا تھا، دیکھو ان کے ظرف میں ان کے لیے بھرا گیا یہاں تک کہ وہ بھر گئے مگر ان لوگوں کو یہ نہ معلوم ہوا کہ اس قول سے آپ کی مراد کیا ہے کہ ”وعی علما عجز فیہ“ (انہوں نے علم کو حفظ کیا جس میں وہ عاجز رہے) آیا وہ اس کے ظاہر کرنے سے عاجز رہے یا اس علم سے عاجز رہے جو ان کے پاس تھا یا اس علم کی طلب سے عاجز رہے جو نبی ﷺ سے حاصل کیا گیا۔

مرشد یا ابن مرشد نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں ابوذر غفاری کے پاس بیٹھا تھا، ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ کیا آپ کو امیر المؤمنین نے فتویٰ دیئے سے منع نہیں کیا؟ ابوذر رضی اللہ عنہ نے کہا: واللہ اگر تم لوگ تمکو اس پر (اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا) رکھ دو اس بات پر کہ میں اس کلمے کو ترک کر دوں جو میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے تو میں ضرور اسے پہنچا دوں گا۔ قبل اس کے ایسا ہو (یعنی حلق پر تمکو ار چلے)۔

ابوذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے اس حالت میں (یعنی اس قدر جلد) رسول اللہ ﷺ کو ترک کر دیا (یعنی آپؐ بذریعہ وفات ہم سے جدا ہو گئے) کہ کوئی پرندہ آسمان پر اپنے پر بھی نہ پھڑ پھڑانے پایا تھا کہ ہم نے آپؐ سے علم یاد کر لیا۔ عہد نبویؐ میں قرآن جمع کرنے والے اصحاب رضی اللہ عنہم:

شعیب بن جابرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں چھ شخصوں نے قرآن جمع کیا۔ ابی بن کعبؓ، معاذ بن جبلؓ، ابوالدرداءؓ، زید بن ثابتؓ، سعدؓ اور ابو زیدؓ اور مجمع بن جاریہؓ رضی اللہ عنہم نے صرف دو یا تین سورتوں کے علاوہ پورا قرآن جمع کیا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے متر سے زائد سورتیں آنحضرت ﷺ سے حاصل کیں اور بقیہ قرآن انہوں نے مجمع سے سیکھا۔

عامر الشعمیؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں انصار کے چھ شخصوں نے قرآن جمع کیا، معاذ بن جبلؓ، ابی بن کعبؓ، زید بن ثابتؓ، ابوالدرداءؓ، ابو زیدؓ اور سعد بن عبیدہؓ رضی اللہ عنہم نے جب نبی ﷺ کی وفات ہوئی تو مجمع بن جاریہؓ کو ایک یا دو سورت باقی رہ گئی تھی۔

محمد بن سیرینؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں ابی بن کعبؓ، زید بن ثابتؓ، عثمان بن عفانؓ اور تمیم داریؓ رضی اللہ عنہم نے قرآن جمع کیا۔

قرہ بن خالدؓ سے مروی ہے کہ میں نے قتادہ کو کہتے سنا کہ رسول اللہ ﷺ کے عہد میں ابی بن کعبؓ، معاذ بن جبلؓ، زید بن ثابتؓ اور ابو زیدؓ رضی اللہ عنہم نے قرآن پڑھا، میں نے کہا کہ کون ابو زیدؓ تو انہوں نے کہا کہ انس رضی اللہ عنہ کے چچاؤں میں سے۔

محمدؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ آپؐ کے اصحاب رضی اللہ عنہم میں سے سوائے چار کے جو سب کے سب انصار میں سے تھے کسی نے قرآن جمع نہیں کیا تھا، پانچویں میں اختلاف کیا جاتا ہے انصار کے وہ لوگ جنہوں نے اس کو جمع کیا زید بن ثابتؓ، ابو زیدؓ، معاذ بن جبلؓ اور ابی بن کعبؓ رضی اللہ عنہم ہیں وہ شخص جن میں اختلاف ہے تمیم داریؓ ہیں۔

قتادہؓ سے مروی ہے کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں قرآن کس نے جمع کیا، انہوں نے کہا چار نے، جو سب انصار میں سے تھے، ابی بن کعبؓ، معاذ بن جبلؓ، زید بن ثابتؓ اور ایک انصاری نے جن کا نام ابو زید تھا۔ انس بن مالکؓ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں چار نے قرآن حاصل کیا، ابی بن کعبؓ، معاذ بن جبلؓ، زید بن ثابتؓ اور ابو زیدؓ رضی اللہ عنہم۔

محمد بن کعب القرظیؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں پانچ انصاریوں نے قرآن جمع کیا، معاذ بن جبلؓ، عبادہ بن الصامتؓ، ابی بن کعبؓ، ابویوبؓ اور ابوالدرداءؓ رضی اللہ عنہم۔

محمدؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں چار آدمیوں نے قرآن جمع کیا، ابی بن کعبؓ، معاذ بن جبلؓ، زید بن

ثابت اور ابو یزید رضی اللہ عنہ نے دو آدمیوں میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ عثمان و تمیم داری میں اور بعض نے کہا کہ عثمان و ابو الدرداء رضی اللہ عنہ میں۔

ابن مرسان مولا قریش سے مروی ہے کہ عثمان بن عفان نے عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں قرآن جمع کیا۔

محمد بن کعب القرظی سے مروی ہے کہ پانچ انصار نے نبی ﷺ کے زمانے میں قرآن جمع کیا، معاذ بن جبل، عبادہ بن صامت، ابی بن کعب، ابویوب اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے جب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہوا تو انہیں یزید بن ابی سفیان نے لکھا کہ اہل شام اس قدر زیادہ ہو گئے اور ان کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے شہروں کو بھر دیا، انہیں ایک ایسے شخص کی حاجت ہے جو قرآن کی تعلیم دے اور فقہ سکھائے لہذا اے امیر المومنین میری ایسے آدمیوں سے مدد کیجئے جو ان لوگوں کو تعلیم دیں، عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں پانچ (مذکورہ بالا) آدمیوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ مجھ سے تمہارے برادران اہل شام نے ایسے لوگوں کی مدد مانگی ہے جو انہیں قرآن کی تعلیم دیں اور علم دین سکھائیں تم اپنے میں سے تین سے میری مدد کرو اللہ تم پر رحمت کرے اگر تم لوگ قبول کرو تو آپس میں قرعہ ڈال لو اور اگر تم میں سے تین آدمی بغیر قرعے کے قبول کر لیں تو وہ روانہ ہو جائیں انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ایسے نہیں ہیں کہ باہم قرعہ ڈالیں، ابویوب تو بہت بوڑھے ہیں اور ابی بن کعب بیمار ہیں معاذ اور عبادہ اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہم روانہ ہوئے، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہیں سے شروع کرو کیونکہ وہاں تم لوگوں کو مختلف وجوہ پر پاؤ گے ان میں کوئی ایسا ہوگا جو سیکھ لے گا، جب تم دیکھنا کہ اس نے سیکھ لیا تو اس کے پاس لوگوں کی ایک جماعت کو بھیجنا، پھر جب تم ان لوگوں سے مطمئن ہو جاؤ تو وہاں تم میں سے صرف ایک آدمی قیام کرنے ایک دمشق روانہ ہو جائے اور دوسرا فلسطین، وہ لوگ تمہیں آئے وہاں رہے، جب وہ مطمئن ہو گئے تو عبادہ وہیں مقیم ہو گئے، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ دمشق روانہ ہو گئے اور معاذ رضی اللہ عنہ فلسطین، معاذ عمو اس کے سال طاعون میں وفات پا گئے، عبادہ بعد کو فلسطین چلے گئے اور وہیں وفات پائی، لیکن ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اپنی وفات تک برابر دمشق ہی میں رہے۔

جعفر بن برقان سے مروی ہے کہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عالم نہیں ہوتا جب تک متعلم (طالب علم) نہ ہو اور عالم نہیں ہوتا تا وقتیکہ علم پر عامل نہ ہو۔

ابی قلابہ سے مروی ہے کہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ تم اس وقت تک پورے فقیہ (عالم) ہرگز نہ ہو گے تا وقتیکہ تم قرآن کے مختلف وجوہ نہ دیکھو۔

معاویہ بن قرہ سے مروی ہے کہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا علم حاصل کرو اگر تم اس سے عاجز ہو تو کم از کم اہل علم سے محبت ہی کرو اور اگر تم ان سے محبت نہ کرو تو کم از کم ان سے نفرت نہ کرو۔

مالک بن دینار سے مروی ہے کہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو علم میں بڑھ گیا وہ درد میں بڑھ گیا۔

یحییٰ بن عباد نے اپنی حدیث میں کہا کہ سب سے زیادہ خوف ناک چیز جس سے میں ڈرتا ہوں یہ ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے کہا جائے کہ تم عالم تھے اور میں کہوں ہاں، پھر کہا جائے تو تمہیں جو کچھ علم تھا اس کے مطابق تم نے کیا عمل کیا۔

قاسم بن عبد الرحمن سے مروی ہے کہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں علم عطا کیا گیا۔

عبدالرحمن بن جبیر بن نفیر سے مروی ہے کہ معاویہ نے کہا کہ دیکھو خبردار ابوالدرداء حکماء میں سے ایک ہیں، دیکھو خبردار عمرو بن العاص بھی حکماء میں سے ایک ہیں، دیکھو خبردار کعب احبار علماء میں سے ایک ہیں، کہ ان کے پاس پھلوں کی طرح علم تھا، اگرچہ ہم لوگ ان کے معاملے میں کوتاہی کرنے والے تھے۔

زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا علم فرائض اور مہارت تحریر:

زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میرے پاس غیر زبان میں لوگوں کے خطوط آتے ہیں، میں پسند نہیں کرتا کہ انہیں کوئی اور پڑھے کیا تم سے ممکن ہے کہ تم خط عبرانی یا فرمایا سریانی سیکھ لو میں نے کہا ہاں پھر میں نے اسے سترہ شب میں سیکھ لیا۔

زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ مدینے تشریف لائے تو مجھ سے فرمایا کہ تم یہود کی تحریر سیکھ لو، کیونکہ اللہ میں اپنے خط پر یہود سے مطمئن نہیں ہوں پھر میں نے اسے نصف ماہ سے بھی کم مدت میں سیکھ لیا۔

زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں اس حالت میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا کہ آپ اپنی ضروریات لکھا رہے تھے، آپ نے فرمایا قلم اپنے کان پر رکھ لو کیونکہ زید لکھوانے کے لیے زیادہ یاد رکھتے ہیں۔

انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ان میں سب سے زیادہ فرائض کے عالم زید ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ فرائض کے جاننے والے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں۔

سلیمان بن یسار سے مروی ہے کہ عمرو عثمان رضی اللہ عنہ قضاء و فتویٰ و فرائض و قراءت میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ پر کسی کو مقدم نہیں کرتے تھے۔

موہبی بن علی بن رباح نے اپنے والد سے روایت کی کہ جابیہ میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ جو شخص فرائض (مسائل ترک و میراث) پوچھنا چاہے وہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔

نافع سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو قضاء پر عامل بنایا اور ان کے لیے تنخواہ مقرر کی۔ عبدالرحمن بن قاسم نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر رضی اللہ عنہ ہر سفر میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بناتے تھے یا راوی نے یہ کہا کہ جس سفر کا آپ ارادہ کرتے تھے عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو شہروں میں بھیجا کرتے تھے اور زید کو امور مہمہ میں بھیجا کرتے تھے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس نام زد لوگ بلائے جاتے تھے پھر ان سے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بھی کہا جاتا تھا تو کہتے تھے کہ زید کا رتبہ میرے نزدیک کم نہیں ہوا۔ لیکن اہل شہران امور میں زید کے محتاج ہیں جو انہیں پیش آتے ہیں وہ جو کچھ زید کے پاس پاتے ہیں کسی اور کے پاس نہیں پاتے۔

قیصہ بن ذویب بن طلحہ سے مروی ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ مدینے میں عمرو عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قضاء و فتویٰ و فرائض و قراءت کے رئیس رہے اس کے بعد (یعنی علی رضی اللہ عنہ کے ترک مدینہ کے بعد) پانچ سال تک رہے ۳۵ھ میں معاویہ والی ہوئے تو بھی وہ اسی طرح رہے یہاں تک کہ ۴۵ھ میں زید کی وفات ہو گئی۔

شعیبؓ سے مروی ہے کہ ابن عباسؓ نے زید بن ثابتؓ کے لیے رکاب پکڑ لی اور کہا کہ اسی طرح علماء اور بزرگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔

ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے زید بن ثابتؓ کے لیے رکاب پکڑ لی انہوں نے کہا کہ اے رسول اللہ ﷺ کے چچا کے بیٹے کنارے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم اسی طرح اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔

مروی سے مروی ہے کہ میں مدینے آیا اصحاب نبی ﷺ کو دریافت کیا تو زید بن ثابتؓ مضبوط علم والوں میں نکلے۔
بکیر بن عبد اللہ بن الاشج سے مروی ہے کہ سعید بن المسیبؓ نے جو کچھ قضاء کا علم حاصل کیا یا جس سے وہ فتویٰ دیا کرتے تھے اس کا اکثر حصہ زید بن ثابتؓ سے تھا بہت کم ایسا ہوا کہ کوئی مقدمہ یا بڑا فتویٰ ابن المسیبؓ کے پاس آئے جسے ان اصحاب نبی ﷺ کی جانب سے بیان کیا جائے جو مدینے سے باہر تھے کہ انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ زید بن ثابتؓ اس کے بعد کہاں ہیں کیونکہ وہ معاملات قضا میں جو ان کے سامنے آئیں سب سے زیادہ عالم ہیں اور وہ سب سے زیادہ ان معاملات میں بصیرت رکھنے والے ہیں جو ان کے پاس آتے ہیں جن میں کچھ (فیصلہ کسی اور کا) سنا نہیں گیا، ابن المسیبؓ کہتے تھے کہ مجھے زید بن ثابتؓ کا کوئی ایسا قول نہیں معلوم جس پر مشرق و مغرب میں اجماع کر کے عمل نہ کیا جائے یا اس پر اہل مصر عمل نہ کریں ہمارے پاس ان کے سوا اور لوگوں سے احادیث و علم آتا ہے جن پر میں نے نہ اور لوگوں کو عمل کرتے دیکھا اور نہ ان کو جو ان کے درمیان ہیں۔

سالم بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ جس روز زید بن ثابتؓ کا انتقال ہوا ہم ابن عمرؓ کے ہمراہ تھے میں نے کہا کہ آج انسانوں کا عالم مر گیا، ابن عمرؓ نے کہا آج اللہ ان پر رحمت کرے، وہ عمرؓ کی خلافت میں لوگوں کے عالم اور اس (خلافت) کے علامہ تھے عمرؓ نے عالم لوگوں کو شہروں میں منتشر کر دیا تھا انہیں اپنی رائے سے فتویٰ دینے کو منع کر دیا تھا اور زید بن ثابتؓ مدینے ہی میں بیٹھ کر اہل مدینہ کو اور ان کے علاوہ آنے والوں کو فتویٰ دیتے رہے۔

شعیبؓ سے مروی ہے کہ مروان نے ایک شخص کو زید بن ثابتؓ کے لیے پس پردہ بٹھایا پھر اس نے اسے بلایا وہ بیٹھ کر زید سے سوال کر رہا تھا اور لوگ لکھ رہے تھے زید نے ان لوگوں کو دیکھا اور کہا کہ اے مروان میرا عند قول کر میں صرف اپنی رائے سے کہتا ہوں۔

عوف نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ جب زید بن ثابتؓ دفن کیے گئے تو ابن عباسؓ نے کہا کہ اس طرح علم جاتا ہے انہوں نے اپنے ہاتھ سے ان کی قبر کی طرف اشارہ کیا وہ آدمی مر جاتا ہے جو کسی ایسی شے کا عالم ہوتا ہے کہ اس کے سوا دوسرا اس کا عالم نہیں ہوتا تو جو علم اس کے ساتھ تھا وہ چلا جاتا ہے۔

قنادہ سے مروی ہے کہ جب زید بن ثابتؓ کا انتقال ہوا اور وہ دفن کر دیئے گئے تو ابن عباسؓ نے کہا کہ اس طرح علم جاتا ہے۔

عمار بن ابی عمار سے مروی ہے کہ جب زید بن ثابتؓ کا انتقال ہوا تو ہم لوگ قصر کے سایہ میں ابن عباسؓ کے پاس بیٹھ گئے انہوں نے کہا کہ علم اس طرح جاتا ہے آج بہت سا علم دفن کر دیا گیا۔

یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ جس وقت زید بن ثابتؓ کا انتقال ہوا تو ابو ہریرہؓ نے کہا کہ آج اس امت کا

علامہ مرگیا، شاید اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو ان کا جانشین کر دے۔

علم حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بے مثال مقام:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ اپنا کپڑا پھیلاؤ، میں نے اسے پھیلا دیا، پھر مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے دن بھر حدیث فرمائی، میں نے اپنا کپڑا اپنے پیٹ کی طرف سمیٹ لیا، میں اس میں سے کچھ نہ بھولا جو آپ نے مجھ سے حدیث بیان فرمائی تھی۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کی کہ آپ سے بہت حدیثیں سنیں مگر انہیں بھول گیا، آپ نے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ، میں نے اسے پھیلا دیا پھر آپ نے اس میں اپنے ہاتھ سے پانی چھڑک دیا اور فرمایا اوڑھ تو، میں نے وہ اوڑھ لی اس کے بعد میں کوئی حدیث نہیں بھولا۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے دو برتن محفوظ کر لیے ہیں ان میں سے ایک کو میں نے پھیلا دیا اور دوسرے کو اگر میں پھیلاؤں تو یہ زرخرہ کاٹ دیا جائے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث کی کثرت کر دی، واللہ اگر کتاب اللہ عزوجل میں دو آیتیں نہ ہوتیں تو میں ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا، پھر وہ یہ آیت پڑھتے تھے: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ﴾ (وہ لوگ جو ان دلائل کو اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیں) یہاں تک کہ وہ آیت کے اس حصے تک پہنچتے تھے: ﴿فَاُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (یہ وہ لوگ ہیں جن سے میں درگزر کروں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں)۔

پھر کہتے تھے کہ ان دونوں کا حال یہ ہے کہ ہمارے برادرانِ مہاجرین کو بازاروں کی آمد و رفت نے مشغول کر لیا تھا، ہمارے برادرانِ انصار کو مالی کاموں نے مشغول کر لیا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صرف اپنی شکم پری پر رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رہتے تھے وہ ایسی باتیں سنتے تھے جو دوسرے لوگ نہیں سنتے تھے اور وہ ایسی باتیں یاد کر لیتے تھے جو اور لوگ نہیں یاد کرتے تھے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص کسی جنازے پر حاضر ہوگا تو اس کے لیے ایک قیراط ہے (قیراط دینار کا ایک حصہ) ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تم کچھ حدیث بیان کرتے ہو۔ اس پر غور کر لیا کرو کیونکہ تم نبی ﷺ سے بکثرت حدیث بیان کرتے ہو، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کا ہاتھ پکڑ کر عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس لے گئے اور کہا کہ آپ انہیں بتا دیجئے کہ آپ نے رسول اللہ ﷺ کو کیونکر کہتے سنا، عائشہ رضی اللہ عنہا نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تصدیق کی، پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن مجھے نبی ﷺ کی صحبت سے نہ تو کھجور کی کاشت نے روکا اور نہ بازاروں کی (بغرض تجارت) آمد و رفت نے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تمہیں ہم سے زیادہ رسول اللہ ﷺ کا علم ہے اور تم ہم سب سے زیادہ آپ کی حدیث کے حافظ ہو۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لوگوں نے کہا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے احادیث کی روایت میں کثرت کی ہے، پھر میں ایک شخص سے ملا اور کہا کہ کل عشاء میں رسول اللہ ﷺ نے کون سی سورت پڑھی اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، میں نے کہا کیا تم اس میں نہیں تھے اس نے کہا ”ہاں“ میں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ نے فلاں فلاں سورت پڑھی۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عرض کی: یا رسول اللہ قیامت کے روز آپ کی شفاعت میں سب سے زیادہ سعید (کامیاب) کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میرا گمان یہ تھا کہ تم سے پہلے مجھ سے یہ حدیث کوئی نہیں پوچھے گا اس وجہ سے کہ میں حدیث پر تمہاری حرص کو دیکھتا تھا قیامت کے روز سب سے زیادہ میری شفاعت میں وہ شخص کامیاب ہوگا جس نے اپنے دلی خلوص سے ”لا الہ الا اللہ“ کہا۔

عمر بن یحییٰ بن سعید الاموی نے اپنے دادا سے روایت کی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم رسول اللہ ﷺ سے وہ حدیثیں بیان کرتے ہو جنہیں میں نے آپ سے نہیں سنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا: اے ام المؤمنین! میں نے انہیں اس حالت میں حاصل کیا ہے کہ آپ کو سرمہ دانی اور آئینے نے ان سے باز رکھا مجھے ان چیزوں میں سے کسی نے مشغول نہیں کیا۔

جعفر بن برقان سے مروی ہے کہ میں نے یزید بن الاصم کو کہتے سنا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تم نے حدیث کی کثرت کر دی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر وہ تمام باتیں بیان کر دوں جو میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنی ہیں تو تم لوگ مجھے گھورے پر پھینک دو گے اور مجھ سے بات نہ کرو گے۔

محمد بن ہلال نے اپنے والد سے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اگر میں تم لوگوں کو ان تمام باتوں سے آگاہ کر دوں جو میں جانتا ہوں تو لوگ مجھے جہل کی طرف منسوب کریں گے اور کہیں گے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مجنون ہے۔

حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں تم سے وہ سب بیان کر دوں جو میرے سینے میں ہے تو تم لوگ مجھے اونٹ کی بیگنیوں سے مارو گے حسن رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ انہوں نے سچ کہا اگر وہ ہمیں بتاتے کہ بیت اللہ منہدم کیا جائے گا اور جلایا جائے گا تو لوگ ان کی تصدیق نہ کرتے۔ ابو کثیر البغری سے مروی ہے کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نہ چھپاتا ہے نہ لکھتا ہے۔

مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما:

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے میرے لیے دو مرتبہ دعا فرمائی کہ اللہ مجھے حکمت عطا کرے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے بلایا میری پیشانی پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا: اے اللہ انہیں حکمت اور تفسیر قرآن کا علم دے۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: اے اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو حکمت عطا کر اور انہیں تفسیر کا علم دے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے میں نے آپ کے لیے رات کے وضو کا پانی رکھ دیا تو فرمایا: اے اللہ انہیں دین کا علم وفہم عطا کر اور انہیں تفسیر کا علم دے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اہل بدر کو اپنے پاس حاضر ہونے کی اجازت دیتے تھے عمر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے کوئی مسئلہ پوچھا اور مجھ سے بھی میں نے جواب دیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے کہا کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو اس کے بعد مجھے ان پر (یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ نظر عنایت پر) کیوں کر ملامت کرتے ہو۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما صحابہ و تابعین کی نظر میں :

عطاء بن یسار سے مروی ہے کہ عمرو عثمان رضی اللہ عنہ دونوں ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بلا لیتے تھے اور اہل بدر کے ہمراہ ان سے بھی مشورہ لیتے تھے وہ عمرو عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اپنی وفات تک مفتی رہے۔

مسروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عبد اللہ نے کہا کہ اگر ابن عباس رضی اللہ عنہ ہم لوگوں کی عمر پالیں تو ہم میں سے کوئی ان سے وصول نہ کرے نظر (راوی) نے اسی حدیث میں اتنا اور زیادہ کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کیسے اچھے ترجمان قرآن ہیں (مفسر قرآن ہیں)۔

سلمہ بن کہیل سے مروی ہے کہ عبد اللہ نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کیسے اچھے ترجمان قرآن ہیں (مفسر قرآن ہیں)۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے قول وما یعلمہم الا قلیل میں (یعنی انہیں سوائے چند کے کوئی نہیں جانتا) مروی ہے کہ میں ان چند میں ہوں اور وہ سات آدمی ہیں۔

عبید اللہ بن ابی یزید سے مروی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جب کوئی امر دریافت کیا جاتا تھا تو اگر وہ قرآن میں ہوتا تھا تو وہ اسے بتا دیتے تھے اگر وہ قرآن میں نہ ہوتا اور رسول اللہ ﷺ سے مروی ہوتا تو اسے بتا دیتے اگر ان میں سے کسی سے مروی نہ ہوتا تو اپنی رائے سے اجتہاد کرتے تھے۔

مجاہد سے مروی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا نام ان کے کثرت علم کی وجہ سے دریا رکھ دیا گیا تھا۔ عطاء سے مروی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو دریا کہا جاتا تھا اور عطاء تو (بجائے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہنے کے) کہا کرتے تھے کہ دریا نے کیا اور دریا نے کہا وغیرہ۔

طاؤس سے مروی ہے کہ میں نے کسی شخص کو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے زیادہ عالم نہیں دیکھا۔ لیث بن ابی سلیم سے مروی ہے کہ میں نے طاؤس سے کہا کہ تم اس لڑکے یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گئے اور تم نے اکابر اصحاب رسول اللہ ﷺ کو چھوڑ دیا انہوں نے کہا کہ میں نے ستر اصحاب رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ جب وہ باہم کسی امر میں مناظرہ کرتے تھے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کی طرف رجوع کرتے تھے۔

یوسف بن مہران سے مروی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے قرآن بہت پوچھا جاتا تھا وہ کہتے تھے کہ وہ اس طرح ہے اور اس طرح ہے کیا تم نے شاعر کو اس طرح کہتے نہیں سنا (یعنی محاورہ قرآنی پر شاعر کے شعر کی شہادت لاتے تھے)۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ علی و ابن عباس رضی اللہ عنہ دونوں میں ابن عباس رضی اللہ عنہ قرآن کے زیادہ عالم تھے اور دونوں میں علی رضی اللہ عنہ مہمات کے (یعنی جن کی مراد واضح نہیں ہے) زیادہ عالم تھے۔

ابن جریج سے مروی ہے کہ عطاء نے کہا کہ کچھ لوگ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس شعر دریافت کرنے کے لیے آتے اور کچھ لوگ عرب کی جنگیں اور ان کے واقعات (دریافت کرنے) کے لیے ان میں سے کوئی قسم ایسی نہ تھی جو وہ چاہے اور ان کے سامنے پیش نہ کرے۔

حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے بصرے میں شہرت حاصل کی اور وہ

زبردست مقرر اور بہت علم والے تھے انہوں نے سورہ بقرہ پڑھی اور اس کی ایک ایک آیت کی تفسیر کی۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہو گئی تو میں نے ایک انصاری سے کہا کہ اصحاب رسول ﷺ کو بلاؤ تو ہم تم ان سے حدیث دریافت کریں کیونکہ اس وقت بہترے صحابی موجود ہیں انصاری نے کہا: اے ابن عباس رضی اللہ عنہما تم پر تعجب ہے کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ وہ لوگ تمہارے حاجت مند ہیں حالانکہ رسول اللہ ﷺ کے اصحاب میں جیسے لوگ ہیں وہ ہیں (یعنی کیسے کیسے جلیل القدر لوگ ہیں)۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے یہ خیال ترک کر دیا اور خود ہی آ کے اصحاب رسول اللہ ﷺ سے حدیث دریافت کرنے لگا، اگر مجھے کسی شخص سے حدیث پہنچتی تھی تو میں اس کے دروازے پر جاتا تھا جب کہ وہ قیلو لے میں ہوتا تھا اپنی چادر اس کے دروازے پر بچھا لیتا اور آندھی مجھ پر مٹی ڈالتی تھی پھر وہ شخص مجھے دیکھتا تو کہتا کہ اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے آپ کو کیا ضرورت لائی آپ نے مجھے کیوں نہ بلا بھیجا کہ میں آپ کے پاس آ جاتا میں کہتا تھا کہ ”نہیں“ مجھ پر آپ کے پاس آنے کا حق زیادہ ہے“ پھر میں ان سے حدیث پوچھتا تھا۔

وہ انصاری زندہ رہے انہوں نے مجھے اس حالت میں دیکھا کہ لوگ میرے گرد جمع ہیں اور مسائل پوچھتے ہیں کہنے لگے یہ نوجوان مجھ سے زیادہ عاقل ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی اکثر حدیثیں انصار کے پاس سے پائیں میں کسی شخص کے پاس جاتا تھا اور اسے سوتا ہوا پاتا تھا تو اگر میں چاہتا تو میرے لیے اس کو جگا دیا جاتا، مگر میں اس کے دروازے پر بیٹھ جاتا تھا اور آندھی میرے منہ پر تھپڑے مارتی تھی۔ وہ جب بیدار ہوتا تو میں جو چاہتا تھا اس سے پوچھتا تھا اور واپس ہو جاتا تھا۔ ابی کلثوم سے مروی ہے کہ جب ابن عباس رضی اللہ عنہما دفن کر دیئے گئے تو ابن الحنفیہ نے کہا کہ آج اس امت کا اللہ والا چل بسا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا حلقہ درس:

عبید اللہ بن عبد اللہ بن عقبہ سے مروی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما چند خصلتوں میں لوگوں سے بڑھ گئے تھے، علم میں کوئی ان سے آگے نہ بڑھا، فقہ میں ان کی رائے کی حاجت ہوتی تھی اور علم و عطاء و احسان میں میں نے کسی شخص کو نہ دیکھا جو رسول اللہ ﷺ کی حدیث کا جس میں وہ سب سے آگے تھے ان سے زیادہ جاننے والا ہو یا ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کی قضاء کوئی ان سے زیادہ جاننے والا ہو، ان سے زیادہ کوئی فقیہ ہو یا سمجھ رکھتا ہو یا ان سے زیادہ شعر و عربیت کا اور تفسیر قرآن و حساب و فرائض کا جاننے والا ہو، نہ واقعات گزشتہ کا ان سے زیادہ کوئی جاننے والا تھا اور نہ اس معاملے میں جہاں رائے کی حاجت ہوتی کوئی ان سے زیادہ صائب الرائے تھا۔

وہ ایک روز بیٹھتے تھے تو صرف فقہ کا درس دیتے ایک روز صرف تفسیر کا ایک روز صرف مغازی کا ایک روز صرف شعر کا اور ایک روز صرف تاریخ عرب کا میں نے کسی عالم کو بغیر اس کے کبھی ان کے پاس بیٹھے نہیں دیکھا کہ وہ اس کے لیے جھک نہ گئے ہوں اور میں نے کبھی کسی طالب علم کو نہیں دیکھا کہ اس نے ان کے پاس علم نہ پایا ہو۔

داؤد بن جبیر سے مروی ہے کہ میں نے ابن المسیب رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سب سے زیادہ عالم ہیں۔

عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اپنے والد کو کہتے سنا کہ میں نے کسی کو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے زیادہ حاضر الفہم، کامل العقل، کثیر العلم، متحمل مزاج نہیں دیکھا، میں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا کہ وہ انہیں امورِ مہمہ کے لیے طلب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارے پاس امرِ مہم آیا ہے پھر وہ اپنے قول کو آگے نہ بڑھاتے تھے حالانکہ ان کے آس پاس مہاجرین و انصار میں سے اہل بدر بھی ہوتے تھے۔

نبہان سے مروی ہے کہ میں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا زوجہ نبی ﷺ سے کہا کہ میں لوگوں کا اتفاق ابن عباس رضی اللہ عنہما پر دیکھتا ہوں، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ وہ بقیہ لوگوں سے زیادہ عالم ہیں۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے حج کی راتوں میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اس طرح دیکھا کہ ان کے ہمراہ لوگوں کے حلقے تھے اور مناسک (حکام حج) پوچھے جارہے تھے، عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ وہ بقیہ لوگوں سے زیادہ مناسک کے عالم ہیں۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں ایک روز عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا جو یعلیٰ بن امیہ نے یمن سے لکھا تھا، میں نے انہیں اس کے بارے میں جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نبوت کے مکان سے بولتے ہو۔

ابی معبد سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو کہتے سنا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہم سب سے زیادہ عالم ہیں۔ عکرمہ سے مروی ہے کہ میں نے معاویہ بن ابی سفیان کو کہتے سنا کہ تمہارے مولیٰ (یعنی عکرمہ کے آقا و آزاد کرنے والے) واللہ مردہ و زندہ سب سے زیادہ فقیہ ہیں۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ کعب احبار نے کہا کہ تمہارے آقا اس امت کے اللہ والے (ربانی) ہیں جو مردہ و زندہ سب سے زیادہ عالم ہیں۔

طاؤس نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مضبوط علم والوں میں سے تھے (الراستخین فی العلم میں سے تھے)۔

طاؤس نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس طرح لوگوں پر چھا گئے تھے جس طرح کھجور کے لمبے درخت چھوٹے درختوں پر چھا جاتے ہیں۔

سفید بن جبیر سے مروی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مجھ سے حدیث بیان کرتے تھے پھر اگر وہ اجازت دیتے تھے کہ میں ان کے سر کو بوسہ دوں تو میں بوسہ دیتا تھا۔

مالک بن ابی عامر سے مروی ہے کہ میں نے طلحہ بن عبید اللہ کو کہتے سنا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو فہم و ذکاوت و علم دیا گیا میں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی کو ان پر مقدم کیا ہو۔

محمد بن ابی بن کعب سے مروی ہے کہ میں نے اپنے والد ابی بن کعب کو اس وقت کہتے سنا کہ ان کے پاس ابن عباس رضی اللہ عنہما تھے جب وہ کھڑے ہوئے تو والد نے کہا، یہ اس امت کا علامہ ہوگا، اس کو عقل و فہم دی گئی ہے، اور رسول اللہ ﷺ نے ان کے لیے دعا کی ہے کہ (اللہ) انہیں دین میں فقیہ کرے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے جبریل صلوٰۃ اللہ علیہ کو دو مرتبہ دیکھا اور رسول اللہ ﷺ نے میرے لیے دو مرتبہ دعا فرمائی۔

عبدالرحمن بن ابی الزناد نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بخار تھا، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ عیادت کے لیے آئے، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہارے بیماری نے ہمارے ساتھ کوتاہی کی، اللہ ہی سے مدد چاہی جاتی ہے۔

ابی معبد سے مروی ہے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کہتے سنا کہ مجھ سے کبھی کسی شخص نے کوئی حدیث بیان نہ کی جو میں نے اس سے پوچھ نہ لی ہو میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آتا تھا، وہ سوتے ہوتے تھے میں ان کے دروازے پر سو جاتا تھا، اگر انہیں میری موجودگی کا علم ہو جاتا تو وہ میرے اس مرتبے کی وجہ سے جو رسول اللہ ﷺ کی وجہ سے تھا ضرور پسند کرتے کہ انہیں میرے لیے بیدار کر دیا جائے۔ لیکن میں ناپسند کرتا تھا کہ انہیں ملول کروں۔

سلمیٰ سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کے ہمراہ چند تختیاں تھیں جن پر وہ رسول اللہ ﷺ کے کچھ افعال اور انفع سے پوچھا کر لکھ رہے تھے۔

ابوسلمہ حضرمی سے مروی ہے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کہتے سنا کہ میں رسول اللہ ﷺ کے اصحاب مہاجرین و انصار کے اکابر کے ساتھ لگا رہتا تھا، ان سے رسول اللہ ﷺ کے مغازی اور ان کے بارے میں جو قرآن نازل ہوا پوچھا کرتا تھا، میں ان میں سے جس کے پاس آیا وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ میری قرابت کی وجہ سے میرے آنے سے ضرور خوش ہوا ایک روز ابی بن کعب سے جو راتھن فی العلم (مضبوط علم والوں) میں سے تھے اس قرآن کو پوچھنے لگا جو مدینے میں نازل ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس میں ستائیس سورتیں نازل ہوئیں اور اس کا بقیہ مکے میں۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ میں نے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو گزر گیا اس میں ہم سب سے زیادہ عالم ہیں اور ان معاملات میں جن میں (کتاب و سنت میں سے) کوئی شے نہیں آئی ہم سب سے زیادہ فقیہ ہیں، عکرمہ نے کہا کہ میں نے ان کے قول کی ابن عباس رضی اللہ عنہما کو خبر دی تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس بھی علم ہے اور وہ بھی رسول اللہ ﷺ سے حلال و حرام دریافت کیا کرتے تھے۔

طاؤس سے مروی ہے کہ میں نے کبھی کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اختلاف کر کے ان سے جدا ہوا ہو، پھر اس نے انہیں تسلیم نہ کیا ہو۔

یعقوب بن زید نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے اس وقت انہیں کہتے سنا جس وقت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی وفات کی خبر پہنچی، انہوں نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا کہ سب سے زیادہ بردبار اور سب سے زیادہ عالم مر گیا، بے شک ان کی وجہ سے اس امت پر ایسی مصیبت آگئی جس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔

ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم سے مروی ہے کہ جب ابن عباس رضی اللہ عنہما کی وفات ہوئی تو رافع بن خدیج نے کہا کہ آج وہ شخص مر گیا جس کے علم کی حاجت تمام مشرق و مغرب میں تھی۔

زیاد بن میناء سے مروی ہے کہ ابن عباس، ابن عمر، ابوسعید خدری، ابو ہریرہ، عبد اللہ بن عمرو بن العاص، جابر بن عبد اللہ رافع بن خدیج، سلمہ بن الاکوع، ابو واقد اللیثی اور عبد اللہ بن حبشیہ رضی اللہ عنہم اپنے مشابہ اصحاب رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ عثمان رضی اللہ عنہ کی وفات سے اپنی وفات تک مدینہ میں فتویٰ دیا کرتے تھے اور رسول اللہ ﷺ سے حدیث بیان کیا کرتے تھے ان میں سے جن لوگوں کی طرف فتویٰ پلٹ آیا وہ ابن عباس، ابن عمر، ابوسعید خدری، ابو ہریرہ و جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہم تھے۔

عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی علمی احتیاط:

ابو جعفر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے اصحاب میں عبد اللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما سے زیادہ کوئی محتاط نہ تھا کہ رسول اللہ ﷺ سے کوئی حدیث سنے تو نہ اس میں کچھ بڑھائے نہ گھٹائے۔

عمر بن دینار سے مروی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نوجوانوں کے فقہاء میں شمار کیے جاتے تھے۔ شعبی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حدیث کے زبردست عالم تھے فقہ میں زبردست عالم نہ تھے۔

عبد اللہ بن عمر و ابن العاص رضی اللہ عنہما:

عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے جو کچھ نبی ﷺ سے سنا تھا آپ سے اس کے لکھنے کی اجازت چاہی آپ نے مجھے اجازت دی پھر میں نے اسے لکھا عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے اپنی اس کتاب کا نام ”الصاوقہ“ رکھا تھا۔

مجاہد سے مروی ہے کہ میں نے عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس ایک کتاب دیکھی تو میں نے دریافت کیا انہوں نے کہا کہ یہ ”الصاوقہ“ ہے اس میں وہ حدیثیں ہیں جو میں نے رسول اللہ ﷺ سے اس طرح سنیں کہ ان میں میرے اور آپ کے درمیان کوئی واسطہ نہ تھا۔

چند فقیہ صحابہ رضی اللہ عنہم:

محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ عمران بن الحصین حدیث میں رسول اللہ ﷺ کے فقہ اصحاب میں شمار کیے جاتے تھے۔ خالد بن معدان سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے اصحاب میں سے شام میں کوئی نہ رہا جو عبادہ بن الصامت اور شداد بن اوس رضی اللہ عنہما سے زیادہ فقہ زیادہ فقیہ اور زیادہ پسندیدہ ہو۔

ابوسعید خدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے اصحاب جب بیٹھ کر باتیں کرتے تھے تو ان کی باتیں فقہ ہوتی تھیں سوائے اس کے کہ وہ کسی کو حکم دیں کہ وہ انہیں سورت پڑھ کر سنائے یا کوئی آدمی از خود قرآن کی سورت پڑھ کر سنائے۔

حظفہ بن ابی سفیان نے اپنے اساتذہ سے روایت کی کہ نوجوان اصحاب رسول اللہ ﷺ میں ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے زیادہ فقیہ کوئی نہیں تھا۔

ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا زوجہ نبی ﷺ:

قیضہ بن ذویب بن حلقہ سے مروی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا اتنی بڑی عالم تھیں کہ رسول اللہ ﷺ کے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم ان

سے مسائل پوچھتے تھے۔

ابو بردہ بن ابی موسیٰ نے اپنے والد سے روایت کی کہ اصحاب رسول اللہ ﷺ جب کسی بات میں شک کرتے تھے تو عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے پوچھتے تھے وہ ان کے پاس اس (بات) کا علم پاتے تھے۔

مسروق سے مروی ہے کہ ان سے کہا گیا کہ آیا عائشہ رضی اللہ عنہا فرائض اچھی طرح جانتی تھیں انہوں نے کہا ”کیا خوب قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نے انہیں رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کی استانی دیکھا کہ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم ان سے فرائض پوچھتے تھے۔

ابی سلمہ بن عبد الرحمن سے مروی ہے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ نہ کسی کو سنت رسول اللہ ﷺ کا عالم دیکھا نہ کسی ایسے معاملے میں جس میں رائے کی حاجت ہو ان سے زیادہ کسی کو فقیہ دیکھا اور نہ کسی آیت کے شان نزول میں ان سے زیادہ عالم دیکھا نہ فرائض ہی میں۔

حمود بن لبید سے مروی ہے کہ ازواج نبی ﷺ نے کثیر احادیث حفظ کیں مگر نہ عائشہ و ام سلمہ رضی اللہ عنہما کے برابر عائشہ رضی اللہ عنہا عمرو عثمان رضی اللہ عنہما کے عہد میں اپنی وفات تک فتویٰ دیتی رہیں ان پر اللہ کی رحمت ہو رسول اللہ ﷺ کے بعد آپ کے اکابر اصحاب عمرو عثمان رضی اللہ عنہما ان کے پاس بھیج کر احادیث دریافت کرتے تھے۔

عبد الرحمن بن قاسم نے اپنے والد سے روایت کی کہ عائشہ ابوبکر و عمرو عثمان رضی اللہ عنہم کے زمانہ خلافت میں اپنی وفات تک مسلسل اور مستقل طور پر فتویٰ دیتی رہیں (اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرے) میں برابر ان کے ہمراہ رہا اور ان کا احسان میرے ساتھ رہا میں بحر علم ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ بھی بیٹھتا تھا میں ابو ہریرہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ بھی بیٹھا ہوں اور بہت زیادہ بیٹھا ہوں وہاں یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما کے یہاں تقویٰ اور علم اور عظمت اور ان امور سے آگاہی تھی جن کا انہیں (ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو) علم نہ تھا۔

اکابر صحابہ سے قلت روایت کی وجہ:

محمد بن عمرو اسلمی نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کے اکابر اصحاب سے صرف اس لیے روایت کی قلت ہے کہ وہ لوگ قبل اس کے کہ ان کی حاجت ہو وفات پا گئے صرف عمر بن الخطاب و علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما سے کثرت ہوئی اس لیے کہ یہ دونوں والی ہوئے ان دونوں نے لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ کیا۔

رسول اللہ ﷺ کے تمام اصحاب ائمہ تھے جن کی اقتداء کی جاتی تھی ان کے ہر کام کو جوہ کرتے تھے یاد رکھا جاتا تھا ان سے فتویٰ پوچھا جاتا تھا وہ فتویٰ دیتے تھے انہوں نے احادیث سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔

رسول اللہ ﷺ کے اکابر اصحاب آپ سے حدیث بیان کرنے میں بہ نسبت اوروں کے بہت کم رہے مثلاً ابوبکر و عثمان طلحہ زبیر سعد بن ابی وقاص عبد الرحمن بن عوف ابی عبیدہ بن الجراح سعید بن زید بن عمرو بن نفیل ابی بن کعب سعد بن عبادہ عبادہ بن الصامت اسید بن الحخیر معاذ بن جبل اور انہیں کے ہم پلہ دوسرے لوگ۔

ان لوگوں سے کثیر احادیث نہیں آئیں، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کے نو جوان اصحاب سے آئیں، مثلاً جابر بن عبد اللہ، ابوسعید خدری، ابو ہریرہ، عبد اللہ بن عمر بن الخطاب، عبد اللہ بن عمرو بن العاص، عبد اللہ بن عباس، رافع بن خدیج، انس بن مالک، براء بن عازب رضی اللہ عنہ اور ان کے ہم پلہ لوگ۔

یہ سب کے سب فقہائے اصحاب رسول اللہ ﷺ میں شمار کیے جاتے تھے اور مع اپنے ہم جنسوں کے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور کم عمر تھے، جیسے عقبہ بن عامر الجعفی، زید بن خالد الجعفی، عمران بن الحصین، نعمان بن بشیر، معاویہ بن ابی سفیان، سہل بن سعد الساعدی، عبد اللہ بن یزید الحطمی، مسلمہ بن مخلد الزرقی، ربیعہ بن کعب السلمی اور ہند اور اسماء فرزدان حارثہ الاسلمی جو دونوں رسول اللہ ﷺ کی خدمت کیا کرتے تھے اور آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔

اکثر روایت و علم ان اصحاب رسول اللہ ﷺ اور ان کے ہم جنسوں میں ہے۔ اس لیے کہ یہ زندہ رہے اور ان کی عمریں دراز ہوئیں۔ لوگوں کو ان کی حاجت ہوئی، رسول اللہ ﷺ کے بہت سے اصحاب آپ کی وفات سے قبل اور بعد آپ کا علم لے گئے ان سے کچھ منقول نہیں اور بوجہ کثرت اصحاب رسول اللہ ﷺ کے ان کی حاجت نہ ہوئی۔

رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ تبوک میں جو آپ کا آخری غزوہ تھا، تیس ہزار مسلمان حاضر ہوئے، یہ لوگ ان کے علاوہ تھے جو اسلام لائے اور اپنے شہر و مقام میں ہی رہے اور جہاد نہیں کیا، ہمارے نزدیک وہ ان سے زیادہ تھے جنہوں نے آپ کے ہمراہ غزوہ تبوک میں شرکت ہم نے ان میں سے ان کا شمار کیا جن کا نام و نسب ہمیں معلوم ہو سکا اور جن کا حال غزوات و سرایات میں معلوم ہو سکا اور جن کا وہ مقام بیان کیا گیا کہ جہاں انہوں نے قیام کیا۔

ان میں سے جو رسول اللہ ﷺ کی حیات میں شہید ہو گئے، جو آپ کے بعد اور جو رسول اللہ ﷺ کے پاس قاصد بن کے آئے پھر اپنی قوم میں لوٹ گئے اور جنہوں نے آپ سے حدیث بیان کی، ان میں بعض وہ ہیں جن کا نسب و اسلام معلوم ہے، بعض وہ ہیں جو صرف اس حدیث سے پہچانے گئے جو انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے روایت کی۔

بعض وہ ہیں جن کی موت رسول اللہ ﷺ کی وفات سے پہلے ہو گئی اور ان کا نسب اور ذکر اور مشہد (مقامات حاضری) معلوم ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کی موت رسول اللہ ﷺ سے جو حدیث بیان کی وہ یاد کر لی گئی، بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنی رائے سے فتویٰ دیا۔

بعض وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ ﷺ سے حدیث نہیں بیان کی شاید ان کی آپ سے صحبت و مجالست و سماع ان لوگوں سے زیادہ ہو جنہوں نے آپ سے حدیث بیان کی لیکن ہم نے اس معاملے کو (یعنی ترک روایت حدیث کو) ان کے روایت حدیث سے بچنے پر یا اس بات پر کہ بوجہ کثرت اصحاب رسول اللہ ﷺ ان کی حاجت نہیں ہوئی یا عبادت میں اور سفر یا جہاد فی سبیل اللہ میں مشغولی پر محمول کیا، یہاں تک کہ وہ اس حالت میں گزر گئے کہ ان سے نبی ﷺ کی کوئی حدیث یاد نہیں کی گئی، حالانکہ پورے طور پر رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ان کی صحبت اور آپ سے ان کی ملاقات کا علم ہے۔

ان میں سے سب لوگ نبی ﷺ کے ساتھ نہیں رہتے تھے ان میں بعض وہ ہیں جو آپ کے ہمراہ مقیم رہے آپ کے ساتھ ساتھ رہے اور آپ کے ہمراہ تمام مشاہد (مقامات حاضری) میں حاضر ہوئے بعض ان میں سے وہ ہیں جو آپ کے پاس آئے انہوں نے آپ کو دیکھا پھر وہ اپنی قوم کے شہر میں پلٹ گئے بعض وہ ہیں جو تھوڑے تھوڑے زمانے کے بعد آپ کے پاس اپنی حجاز وغیرہ کی منزل سے آتے تھے ہم نے ان تمام اصحاب رسول اللہ ﷺ کو جن کا نام ہم تک پہنچا ہے المغازی میں لکھا ہے جو عرب رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور ان میں سے جنہوں نے آپ سے حدیث روایت کی ان سب امور کو جہاں تک ہمیں معلوم ہوا ہم نے بیان کیا ہے مگر ہم نے پورے علم کا احاطہ نہیں کیا۔

رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کے بعد مہاجرین و انصار وغیرہم کے فرزندوں میں تابعین تھے جن میں فقہاء و علماء تھے ان کے پاس حدیث و آثار کی روایت تھی فقہ و فتویٰ تھا وہ گزر گئے اور اپنے بعد ایک دوسرے طبقے کو چھوڑ گئے ان کے بعد ہمارے زمانے تک اور طبقے ہیں ہم نے اس کی تفصیل کی ہے اور اس کو بیان کیا ہے۔



اصحاب رسول ﷺ کے بعد اہل علم اور اہل فقہ تابعین

سعید بن المسیبؓ

قد امہ بن موی الحنفی سے مروی ہے کہ سعید بن المسیبؓ فتویٰ دیا کرتے تھے حالانکہ اصحاب رسول اللہ ﷺ زندہ تھے۔ سعید بن المسیبؓ سے مروی ہے کہ ہر اس قضا کا جس کا رسول اللہ ﷺ اور ابو بکر و عمرؓ نے فیصلہ کیا مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہ رہا، مسعر نے کہا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ انہوں نے عثمان و معاویہؓ بھی کہا تھا۔ محمد بن یحییٰ بن حبان سے مروی ہے کہ سعید بن المسیبؓ اپنے زمانے میں جو لوگ مدینے میں تھے فتوے میں ان کے امام اور ان پر مقدم تھے، کہا جاتا ہے کہ وہ فقیہ الفقہاء تھے۔

مکحول سے مروی ہے کہ سعید بن المسیبؓ عالم العلماء تھے۔

اسماعیل بن امیہ سے مروی ہے کہ مکحول نے کہا کہ میں نے تم سے جو حدیثیں بیان کیں وہ مسیبؓ اور شعبیؓ سے ہیں۔

میمن بن مہران سے مروی ہے کہ میں مدینے آیا وہاں کے باشندوں میں سب سے بڑے فقیہ کو دریافت کیا تو مجھے سعید بن المسیبؓ کے پاس بھیجا گیا، میں نے ان سے کہا کہ میں اقتباس کرنے والا (کچھ حاصل کرنے والا) ہوں، عیب جوئی کرنے والا نہیں ہوں، میں ان سے سوال کرنے لگا اور مجھے ایک شخص جو ان کے پاس تھا جواب دینے لگا، میں نے اس سے کہا کہ تم مجھ سے رک جاؤ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس شیخ سے کچھ یاد کروں، اس نے کہا کہ لوگو اس شخص کو دیکھو جو چاہتا ہے کہ یاد نہ کرے حالانکہ میں ابو ہریرہؓ کی مجلس میں رہا ہوں۔

جب ہم لوگ نماز کو اٹھے تو میں اس شخص کے اور سعید کے درمیان کھڑا ہوا، امام سے کوئی بات ہوگئی، جب ہم لوٹے تو میں نے اس سے کہا کہ آیا تم نے بھی امام کی نماز میں کوئی بات ناپسند کی، اس نے کہا نہیں، میں نے کہا کہ کتنے ہی انسان ایسے ہیں جو ابو ہریرہؓ کی مجلس میں رہے حالانکہ ان کا قلب دوسرے مقام میں تھا، اس نے کہا کہ کیا تم نے دیکھا کہ میں نے جو جواب دیا سعید بن المسیبؓ نے میری مخالفت کی، میں نے کہا نہیں، سوائے اس کے کہ فاطمہ بنت قیس کے بارے میں، کہ سعیدؓ نے کہا کہ یہ وہ عورت ہے جس نے مردوں کو تعجب میں ڈال دیا، یا کہا کہ عورتوں کو تعجب میں ڈال دیا۔

مالک بن انس سے مروی ہے کہ قاسم بن محمد سے کوئی مسئلہ دریافت کیا گیا اور کہا گیا کہ سعید بن المسیبؓ نے اس میں یہ یہ کہا ہے، معن نے اپنی حدیث میں کہا کہ قاسم نے کہا کہ وہ ہم سب سے بہتر اور ہمارے سردار ہیں، محمد بن عمرو نے اپنی حدیث میں

کہا کہ وہ ہمارے سردار اور ہمارے عالم ہیں۔

ابو الحویرث سے مروی ہے کہ محمد بن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ آ کر سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے فتویٰ پوچھتے تھے، ہشام بن سعد سے مروی ہے کہ میں نے زہری کو جب کسی سائل نے سوال کیا کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ نے اپنا علم کس سے حاصل کیا تو یہ جواب دیتے سنا کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے سعد بن ابی وقاص، ابن عباس، ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بھی ہم نشینی کی، اور نبی ﷺ کی ازواج عائشہ و ام سلمہ رضی اللہ عنہما کے پاس بھی گئے، انہوں نے عثمان بن عفان، علی صہیب اور محمد بن مسلمہ سے بھی سنا، ان کی اکثر روایتوں کی سند ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے اور وہ ان کے داماد تھے، انہوں نے عمر و عثمان رضی اللہ عنہما کے اصحاب سے بھی سنا، اور کہا جاتا تھا کہ وہ تمام امور کا جن کا فیصلہ عمر و عثمان رضی اللہ عنہما نے کیا، ان سے زیادہ کوئی جاننے والا نہ تھا۔

سلیمان بن یسار کہتے تھے کہ ہم لوگ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بیٹھتے تھے، میں اور سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ اور قبیصہ بن ذؤیب، ہم لوگ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ہمراہ بھی بیٹھتے تھے، لیکن سعید بن المسیب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مسندات (روایات) کو بوجہ داماد ہونے کے ہم سے زیادہ جانتے تھے۔

ابو جعفر سے مروی ہے کہ میں نے اپنے والد علی بن حسین رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ سعید بن المسیب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مسندات (روایات) کو بوجہ داماد ہونے کے ہم سے زیادہ جانتے تھے۔

ابو جعفر سے مروی ہے کہ میں نے اپنے والد علی بن حسین رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ ان آثار کے جو ان سے پہلے ہو گئے سب سے زیادہ عالم ہیں اور اپنی رائے میں سب سے زیادہ فقیہ (سمجھ دار) ہیں۔

سعید بن عبدالعزیز القونی سے مروی ہے کہ میں نے مکحول سے پوچھا کہ تم جن لوگوں سے ملے ان میں سب سے زیادہ عالم کون ہے تو انہوں نے کہا کہ ابن المسیب رضی اللہ عنہ۔

میمون بن جہران سے مروی ہے کہ میں مدینے میں آیا وہاں کے باشندوں میں سب سے زیادہ فقیہ کو دریافت کیا تو مجھے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا گیا، میں نے ان سے مسائل پوچھے۔

شہاب بن عباد الحضری سے مروی ہے کہ میں نے حج کیا، ہم مدینے میں آئے، ہم نے وہاں کے باشندوں میں سب سے زیادہ عالم کو دریافت کیا تو لوگوں نے کہا کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ ہیں۔

شہاب بن عباد سے مروی ہے کہ ان کے والد نے ان سے بیان کیا کہ ہم لوگ مدینے آئے وہاں کے باشندوں میں سب سے زیادہ فاضل کو دریافت کیا تو لوگوں نے کہا کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ ہیں، ہم لوگ ان کے پاس آئے اور کہا کہ ہم نے اہل مدینہ میں سب سے زیادہ فاضل کو دریافت کیا تو ہم سے کہا گیا کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اس شخص کو بتاؤں جو مجھ سے سو گونہ زیادہ افضل ہے وہ عمرو بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔

مالک بن انس سے مروی ہے کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر مجھے ضرورت ہوتی تو میں صرف ایک حدیث کی تلاش میں شبانہ روز کا سفر کرتا۔

یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے کتاب اللہ کی کوئی آیت پوچھی گئی تو سعید نے کہا کہ میں قرآن میں

کچھ نہیں کہتا۔

مالک نے کہا کہ مجھے قاسم بن محمد سے اسی کے مثل معلوم ہوا۔

محمد بن سعد (مؤلف کتاب ہذا) نے کہا کہ مجھے مالک بن انس رضی اللہ عنہ سے اور انہیں یحییٰ بن سعید سے معلوم ہوا کہ کہا جاتا تھا کہ ابن المسیب عمر بن خطاب کے راوی ہیں۔

مکتول سے مروی ہے کہ جب سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تو لوگ برابر ہو گئے، کوئی شخص ایسا نہ تھا کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کے حلقے میں آنے سے پرہیز کرے، میں نے اس حلقے میں مجاہد کو دیکھا جو یہ کہتے تھے کہ لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ ان کے درمیان باقی ہیں۔

مالک بن انس سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ مدینے میں کوئی ایسا عالم نہیں جو اپنے علم کو میرے پاس نہ لائے، وہ بھی ان کے پاس لایا گیا جو سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔

مالک بن انس سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کسی مقدمے کا فیصلہ نہیں کرتے تھے تا وقتیکہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے نہ دریافت کر لیں، انہوں نے کسی کو ان کے پاس بھیج کر دریافت کیا مگر اس نے انہیں بلا لیا، وہ آئے اور داخل ہوئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قاصد نے خطا کی، ہم نے تو اسے صرف اس لیے بھیجا تھا کہ وہ آپ سے آپ کی مجلس دریافت کر لے۔

معمر سے مروی ہے کہ میں نے زہری کو کہتے سنا کہ قریش میں چار دریا پائے، سعید بن المسیب عروہ بن زبیر، ابوسلمہ بن عبدالرحمن اور عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ۔

زہری سے مروی ہے کہ میں عبد اللہ بن ثعلبہ بن صحر العذری کے ہمراہ بیٹھ کر ان سے اپنی قوم کا نسب معلوم کرتا تھا، ان کے پاس ایک جاہل شخص آ کر اس مطلقہ کا حکم پوچھنے لگا جسے ایک ہی دفعہ میں دو طلاقیں دی جائیں پھر اس سے دوسرے آدمی نے نکاح کر لیا اور اس سے صحبت کی، اس نے بھی اسے طلاق دے دی، تو وہ عورت کس کے پاس لوٹے، آیا اپنے شوہر اول کے پاس انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، تم اس آدمی کے پاس جاؤ، اور اس سے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا، میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ تو سعید سے ایک زمانہ پہلے ہے اور اس نے مجھے خبر دی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل ہے جو اس شخص کے منہ پر پھینک دی گئی ہے۔

میں بھی مسائل کے پیچھے ہولیا، اس نے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، میں سعید کے ساتھ ہو گیا، وہ مدینے کے علم پر غالب تھے، انہیں سے استفتاء کیا جاتا تھا، ان سے اور ابوبکر بن عبدالرحمن بن الحارث بن ہشام، سلیمان بن یسار جو علماء میں سے تھے، عروہ بن زبیر جو دریاؤں میں سے ایک دریا تھے، عبید اللہ بن عتبہ اور انہیں کے مثل ابوسلمہ بن عبدالرحمن خارجہ بن زید بن ثابت، قاسم اور سالم، فتویٰ انہیں لوگوں کے پاس کیا، ان لوگوں کے پاس سے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ، ابوبکر بن عبدالرحمن، سلیمان بن یسار، قاسم بن محمد باوجودیکہ قاسم فتوے سے باز رہتے تھے، سوائے اس کے کہ وہ بغیر فتویٰ دیئے کوئی چارہ نہ پائیں۔ اور بہت سے آدمی تھے جو ان کے مثل تھے اور ان سے زیادہ کن رسیدہ تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہم وغیرہم کے فرزند تھے جن کو میں نے پایا۔

مہاجرین و انصار میں سے بہت سے آدمی مدینے میں تھے جن سے مسائل پوچھے جاتے تھے ان لوگوں نے اپنے آپ کو اس ہیئت پر نہیں رکھا تھا جیسا کہ ان لوگوں نے کیا تھا۔

سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کی لوگوں کے نزدیک چند خصلتوں کی وجہ سے نہایت ہی عظیم قدر تھی، شدید تقویٰ، پرہیزگاری و حق گوئی، بادشاہ وغیرہ کے سامنے، کنارہ کشی اور علم جس کے مشابہ کسی کا علم نہ تھا، اس کے بعد مضبوط رائے، عمدہ رائے بھی کسی اچھی مدد ہے، یہ سب سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ میں اس زہد و فقر کی وجہ سے تھا جس میں ایسی عزت ہے جو بغیر کوئی کے نہیں معلوم ہو سکتی، میں ان کے روبرو کوئی مسئلہ نہیں بیان کر سکتا تھا یہاں تک کہ میں کہتا تھا کہ فلاں نے یہ یہ کہا اور فلاں نے اس اس طرح کہا، اور وہ اسی وقت جواب دے دیتے تھے۔

زہری سے مروی ہے کہ میں ثعلبہ بن ابی مالک کے پاس بیٹھا کرتا تھا انہوں نے مجھ سے ایک روز کہا تم یہ چاہتے ہو، میں نے کہا ہاں، انہوں نے کہا کہ تمہیں سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کی صحبت لازم ہے، پھر میں ایک دن کی طرح دس سال ان کے ساتھ بیٹھا۔
فقہیان و مفتیان مدینہ:

سلیمان بن عبد الرحمن بن جناب سے مروی ہے کہ میں مہاجرین اور انصار کے تابعین سے ملا جو مدینے میں فتویٰ دیتے تھے، مہاجرین کے تابعین میں سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ، سلیمان بن یسار، ابوبکر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام، ابان بن عثمان بن عفان، عبد اللہ بن عامر بن ربیعہ، ابوسلمہ بن عبد الرحمن، عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ، عروہ بن زبیر، قاسم اور سالم تھے، انصار کے تابعین میں سے خارجہ بن زید بن ثابت، محمود بن لبید، عمر بن غلہ، الزرقی، ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم اور ابوامامہ بن سہل بن حنیف تھے۔

ابن جریج سے مروی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے بعد جو لوگ مدینے میں فتویٰ دیتے تھے، ان میں سائب بن یزید، مسور بن مخرمہ، عبد الرحمن بن حاطب اور عبد اللہ بن عامر بن ربیعہ تھے، یہ دونوں عبد الرحمن و عبد اللہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی پرورش میں تھے اور ان دونوں کے والد بدری تھے (جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے) اور عبد الرحمن بن کعب بن مالک تھے۔

عبد الرحمن بن ابی الزناد نے اپنے والد سے روایت کی کہ وہ سات آدمی جن سے مدینے میں مسائل پوچھے جاتے تھے اور جن کا قول آخر مانا جاتا تھا وہ سعید بن المسیب، ابوبکر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام، عروہ بن زبیر، عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ، قاسم بن محمد، خارجہ بن زید اور سلیمان بن یسار تھے۔

سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ:

عبد اللہ بن یزید الہذلی سے مروی ہے کہ میں نے سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ لوگوں کے بقیہ ہیں، میں نے ایک سال سے سنا جو سعید بن المسیب کے پاس آیا کہ وہ کہتے تھے کہ سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ کیونکہ جو آج باقی ہیں وہ ان میں سب سے زیادہ عالم ہیں۔

عمرو بن دینار سے مروی ہے کہ میں نے حسن بن محمد بن علی بن ابی طالب کو کہتے سنا کہ ہمارے نزدیک سلیمان بن یسار، سعید بن المسیب سے زیادہ سمجھ والے ہیں۔

قنادہ سے مروی ہے کہ میں مدینے آیا وہاں کے باشندوں میں سب سے زیادہ مسائل طلاق کے جاننے والے کو پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ ہیں۔

ابو بکر بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہما:

جامع بن شداد سے مروی ہے کہ ہم لوگ حج کے لیے روانہ ہوئے اور مکے آئے میں نے اہل مکہ میں سب سے زیادہ عالم کو پوچھا تو کہا گیا کہ ابو بکر بن عبدالرحمن بن الحارث بن ہشام کو اختیار کرو۔

عکرمہ رضی اللہ عنہما مولیٰ ابن عباس رضی اللہ عنہما:

عمرو بن دینار سے مروی ہے کہ جابر بن زید نے میرے پاس چند مسائل بھیجے کہ میں انہیں عکرمہ سے پوچھوں اور کہنے لگے کہ عکرمہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مولیٰ (آزاد کردہ غلام) ہیں یہ دریا ہیں اس لیے ان سے دریافت کرو۔

سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ اگر عکرمہ لوگوں سے اپنی حدیث روک لیں تو ان کے پاس سواری کے اونٹ بندھے رہیں۔ طاؤس سے مروی ہے کہ اگر یہ مولائے ابن عباس رضی اللہ عنہما اللہ سے ڈرے اور اپنی حدیث روک لے تو ان کے پاس سواریاں بندھی رہیں۔

سلام بن مسکین سے مروی ہے کہ عکرمہ تفسیر کے سب سے بڑے عالم تھے۔

ایوب سے مروی ہے کہ عکرمہ نے کہا کہ میں بازار جاتا ہوں اور آدمی کو بات کہتے سنتا ہوں تو اس سے بھی میرے لیے علم کے پچاس دروازے کھل جاتے ہیں۔

ابو اسحاق سے مروی ہے کہ عکرمہ آئے انہوں نے سعید بن جبیر موجود ہی تھے کہ حدیث بیان کی تیس گریں لگائیں اور کہا کہ حدیث صحیح بیان کی۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما میرے پاؤں میں بیڑی ڈال دیتے تھے اور مجھے قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے تھے۔ سعید بن یزید سے مروی ہے کہ ہم عکرمہ کے پاس تھے انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو کیا ہوا کیا تم لوگ نہیں ہو ان کی مراد یہ تھی کہ میں تمہیں اپنے سے سوال کرتے نہیں دیکھتا۔

عطاء بن ابی رباح رضی اللہ عنہ:

ابی جعفر محمد بن علی بن حسین رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ عطاء بن ابی رباح رضی اللہ عنہما سے زیادہ مناسک حج کا عالم کوئی نہیں رہا۔ اسماعیل بن امیہ سے مروی ہے کہ عطاء کلام کرتے تھے جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ گویا ان کی تائید کی جاتی ہے۔

ابن جریج سے مروی ہے کہ جب عطاء کوئی بات بیان کرتے تھے تو میں پوچھتا تھا کہ یہ علم ہے یا رائے اگر وہ مقول ہوتی تھی تو کہتے تھے علم ہے اور اگر ان کی رائے ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ رائے ہے۔

اسلم مغیری سے مروی ہے کہ ایک اعرابی آیا اور کہنے لگا کہ ابو محمد کہاں ہیں اس کی مراد عطاء سے تھی لوگوں نے سعید کی طرف اشارہ کیا اس نے پھر کہا کہ ابو محمد کہاں ہیں؟ سعید نے کہا کہ اس جگہ ہمارے لیے عطاء کے ساتھ کوئی چیز نہیں ہے (یعنی عطاء یہاں نہیں ہیں)۔

سلسلہ سے مروی ہے کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ اس علم سے اسے اللہ کی خوشنودی مقصود ہو سوائے ان تین کے عطاء طاؤس اور مجاہد۔

حبیب بن ابی ثابت سے مروی ہے کہ مجھ سے طاؤس نے کہا کہ جب میں تم سے کوئی حدیث بیان کروں جو میں تمہیں عطا کروں تو اسے کسی سے نہ پوچھو۔
عمرہ بنت عبد الرحمن و عمروہ بن زبیر:

عبد اللہ بن دینار سے مروی ہے کہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم کو لکھا کہ رسول اللہ ﷺ کی جو حدیث یا گزشتہ سنت یا عمرہ بنت عبد الرحمن کی جو حدیث دیکھو تو اسے لکھو کیونکہ مجھے علم کے مٹنے اور اہل علم کے گزر جانے کا اندیشہ ہے۔

محمد بن عبد الرحمن سے مروی ہے کہ مجھ سے عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کوئی شخص حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کا ان سے یعنی عمرہ سے زیادہ جاننے والا نہ رہا، انہوں نے کہا کہ عمر بنی ہذا ان سے پوچھا کرتے تھے۔
عبد الرحمن بن قاسم سے مروی ہے کہ میں نے قاسم کو عمرہ سے مسئلہ پوچھتے سنا۔

ابن شہاب کہتے تھے کہ جب مجھ سے عمروہ حدیث بیان کرتے تھے پھر عمرہ حدیث بیان کرتی تھیں تو میرے نزدیک عمروہ کی حدیث صحیح ہوتی تھی جب میں دونوں کی گہرائی میں گیا تو عمروہ کو ایسا دریا پایا جس کا سارا پانی نہیں نکالا جاسکتا۔
حماد بن زید سے مروی ہے کہ میں نے ہشام بن عمروہ سے سنا کہ میرے والد کہتے تھے کہ تم لوگوں نے کون سا علم حاصل کیا کیونکہ آج تم لوگ چھوٹے ہو اور قریب ہے کہ تم لوگ بڑے ہو جاؤ گے، ہم نے تو صغریٰ میں علم حاصل کیا تھا اور ہم بڑے ہو گئے آج ہم اس حالت کو پہنچ گئے کہ ہم سے مسائل پوچھے جاتے ہیں۔

محدث جلیل ابن شہاب زہری رضی اللہ عنہ:

ابراہیم بن سعد نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ اس نے رسول اللہ ﷺ کے بعد اتنا علم جمع کیا ہو جتنا ابن شہاب نے جمع کیا۔

سفیان بن عیینہ سے مروی ہے کہ مجھ سے ابوبکر الہذلی نے جو حسن اور ابن سیرین کی مجلس میں بیٹھے تھے کہا کہ اس حدیث کے لیے میری یہ حدیث یاد رکھو جسے زہری نے بیان کیا، ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے ان کا یعنی زہری کا مثل کبھی نہیں دیکھا۔
مطرف بن عبد اللہ نے کہا کہ میں نے مالک بن انس کو کہتے سنا کہ مدینہ میں سوائے ایک کے میں نے فقیہ محدث کسی کو نہیں پایا، میں نے کہا کہ وہ کون ہے، انہوں نے کہا کہ ابن شہاب زہری۔

معمر سے مروی ہے کہ زہری سے کہا گیا کہ لوگوں کا گمان ہے کہ آپ آزاد کردہ غلاموں سے حدیث نہیں بیان کرتے، انہوں نے کہا کہ میں ضرور ان سے حدیث بیان کرتا ہوں، لیکن جب میں مہاجرین و انصار کے فرزندان کو پاتا ہوں تو ان پر وہ مہروسہ کرتا ہوں جو ان کے علاوہ دوسروں پر نہیں کرتا۔

عبد الرزاق سے مروی ہے کہ میں نے عبید اللہ بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے سنا کہ جب میں بڑا

ہوا تو طلب علم کا ارادہ کیا، میں آل عمر رضی اللہ عنہ کے اساتذہ میں سے ایک ایک شخص کے پاس جانے لگا، میں کہتا تھا کہ آپ نے سالم سے کیا سنا، جب کبھی میں ان میں سے کسی ایک کے پاس جاتا تو وہ کہتا کہ تم ابن شہاب کو اختیار کرو، کیونکہ ابن شہاب، سالم کے ساتھ رہتے تھے، حالانکہ ابن شہاب اس وقت شام میں تھے، پھر میں نافع کے ساتھ ہو گیا، اللہ نے اس ساتھ رہنے میں خیر کثیر کر دی۔

صالح بن کیسان سے مروی ہے کہ میں اور زہری جمع ہوئے، تو ہم نے کہا کہ ہم احادیث لکھ لیں انہوں نے کہا کہ جو روایتیں نبی ﷺ سے آئی ہیں وہ ہم نے لکھ لی ہیں، انہوں نے کہا کہ جو روایتیں صحابہ رضی اللہ عنہم سے آئی ہیں وہ بھی ہم لکھ لیں گے، کیونکہ وہ بھی سنت ہیں، میں نے کہا کہ وہ سنت نہیں ہیں، اس لیے ہم انہیں نہیں لکھیں گے، انہوں نے لکھا اور میں نے نہیں لکھا، وہ کامیاب رہے اور میں ناکام رہا۔

راوی نے کہا کہ یعقوب بن ابراہیم بن سعد نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابن شہاب علم میں ہم سے کچھ آگے نہ بڑھے، سوائے اس کے کہ ہم مجلس میں آتے تھے تو وہ آگے بڑھ جاتے تھے، اپنا کپڑا اپنے سینے پر باندھ لیتے تھے اور جو چاہتے تھے پوچھتے تھے اور ہمیں صغریٰ مانع ہوتی تھی۔

زہری سے مروی ہے کہ ہم علم کا لکھنا ناپسند کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں ان امراء نے لکھنے پر مجبور کیا، تو ہم نے سمجھا کہ مسلمانوں میں سے کوئی شخص لکھنے کو نہ روکے گا۔

ایوب سے مروی ہے کہ میں نے زہری سے زیادہ عالم کسی کو نہیں دیکھا۔

مکحول سے مروی ہے کہ میں سنت ماضیہ کا زہری سے زیادہ عالم کسی کو نہیں جانتا۔

عبدالرزاق سے مروی ہے کہ میں نے عمر سے سنا کہ ہم لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ ہم زہری سے بڑھ گئے، یہاں تک کہ ولید قتل کیا گیا، اتفاق سے دفاتر اس کے خزانوں سے چوپایوں پر لا دے گئے، جنہیں کہتا تھا کہ یہ زہری کا علم ہے۔

